


الذمير الأكرم

وَرَجَعَهُ مَعَانِيهِ إِلَى

اللُّغَةِ الْكُتْمِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فادم الحويث الشافعيين شامدين عب العوز آل سود .م مكلت سودى  
عركت بادشاه مهر ،مكرر قسه آن مجيد تفسير كرهها ياك كج سعادت حاصل .

تذکرہ بالاسرطبات مع هذا الصحف الشريف وترجمه معانيه  
خلایق و صوفیہ و غیرہ فی التالیف و کلام و غیرہ  
ملک التالیف العربیة الشعوریة




مجمع الملك اؤفندال جلاله الصلح الشرفين



ترجمہ و تفسیر  
میر واعظ محمد یوسف شاہ

مجمع شاہ فہم برائے طباعت قرآن مجید

هَذَا الْمُصْحَفُ الشَّرِيفُ وَتَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ  
هَدِيَّةٌ مِنْ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ



يَه قرآن مجید تا امیک تفسیر چھ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود سندہ طرفہ آکھ ہدیہ

قرآن مجید

ۛ

تمیک کا شُر تفسیر

مجمع شاہ فہد برائے طباعت قرآن مجید

مدینہ منورہ مملکت سعودی عرب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

بقلم جناب عزت مآب فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ وزیر برائے مذہبی امور،  
اوقاف، دعوت و ارشاد و نگران اعلیٰ مجمع

ساری تعریف شو بن اللہ تعالیٰ اُس، اُس کا نائیک رب ہُو، اِیْم ذاتن پند پاک کتاب (قرآن مجید) س  
منز فر موو: ”توہ دووت اللہ تعالیٰ سبہ طرفہ نور و واضح کتاب۔“

بہہ اُن درود و سلام بر ذات مقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِیْم سارنی پیغمبرن و مرسلین کھو و  
افضل و برتر تجھ، بہہد ارشاد گرامی ہُو، ”توہہ منز چھ بہتر سو انسان اِیْم قرآن مجید زون و بہہ لوکھ زائر اَوْن۔“  
اُمابعد!

خادم الحرمين الشريفين شاه فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله سند تعليمات چھہ کہ قرآن شریف  
خدمت، نشر و اشاعت رُوے زمینکن، مشرق و مغربہ کین مسلمانن منز اُچ تقسیم، و اُچ تفسیر و دنیا چن  
مختلف زبانن منز گوہہ اُک ترجمہ من کرن۔

بہہ چھہ مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف، دعوت و ارشاد اِیْم تجھ ہند یقین  
تھوان کہ قرآن مجید کین معاین ہند و نہا چن مختلف زبانن منز ترجمہ کرن کو تاہ اہم چھہ، تاکہ کین مسلمان  
پڑھ سبہ قرآنک فہم آسان اِیْم عربی زبان چھہ ہیکان بو تھ، بہہ بہہ سہ تبلیغ حاصل سپد تھہ سمیوک حکم نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم ہندس۔ تھہ ارشاد پاکس منز چھہ امت دنہ ”بلغوا عنی ولو آیتہ“ میانہ طرفہ و اتا و لو کون تام  
سو آستن اُکی کہیہ“

شاه فهد سند مجمع برائے طباعت قرآن شریف اُس مدینہ منورس منز ہُو، تھہ چھہ پنہ نین کاشر زبان  
لوکن والین باین ہندہ خطیرہ قرآن مجید کہ یہ کاشر ترجمہ پیش کرنہ سیتھ خوشی سپدان۔  
یہ ترجمہ ہُو جناب میر واعظ محمد یوسف شاہ صہین کورنت۔

اِس چھہ اللہ تعالیٰ سند سیضہ تعریف کران کہ تم و اُسہ یہ عظیم کام کھل کر اُچ توفیق۔ اتھہ منز چھہ اِس  
یہ امید تھوان کہ یہ اُسہ خالص رب کریم سبہ رضا خطیرہ، بہہ چھہ یہ امید کہ اُمہ بیت و اتر لوکن فاندہ۔

اُسہ ہُو بہہ تھہ ہندا احساس کہ ترجمہ قرآن کرئس منز کاژاہ و دقت بہہ تن مد نظر تھوانہ، توہ چھو آسان  
سو ترجمہ تمن عظیم معاین ہنز ادا ہنگی لغہ قاصر، یکن پیٹھ قرآن کرئسک مجوزانہ آیت کریمہ چھہ دلالت  
کران، بہہ یکن معاین بہہ ترجمہ چھہ ظاہر کران، یہ ہُو کتاب اللہ کس فہم منز مترجم سند مبلغ علمک نتیجہ، اتھہ  
ترجمس منز بہہ کا نہہ غلطی، نقص پیش تھہ، بس غلطی بظہر سترجمہ و کامہ منز چھہ پیش یوان۔

لہذا چھہ اِس پر سبھہ تمس شخص نشہ یہ امید تھوان اُس یہہ ترجمہ پرہ کہ اگر سو سبھہ ترجمس منز کا نہہ غلطی  
نقص یا زبانی لہہ، تمس پرہ مجمع الملک فهد برائے طباعت قرآن شریف مدینہ منورس اُچ خبر دن، تاکہ انہ  
والین ایڈیشنن منز بہہ یکن ملاحظاتن نشر استفادہ کرنہ۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ ہُو توفیق دنہ دول، بہہ ہُو سوی سینر و تھہ ہاون دول۔ دعا چھہ اے اللہ شہ کرمان یہ کوشش  
قبول، بے شک چھو کہ رُئی سوزی بوزہ وُن سوزی زانہ وُن

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ  
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ گوڈ مٹھس بوکران خدایہ سہہ تاوہ سیت ئس سیٹھاہ رحم کرہون مٹھ۔ ئس سیٹھاہ مہربان مٹھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ ساری تعریف تہ مدح تہ تاپزن تس ذات پاکس یسند تاوہ مٹھو اللہ۔ کیا زہہ پر مٹھہ چیزہ تہ پر مٹھہ نعمتھاہ پیدہ کرہون تہ مٹھو سوئی عطا کرہون تہ مٹھو سوئی۔ لہذا شو بن حمد و ثنا تس یوت۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ ئس مالک تہ پرورش کرہون مٹھو سارنی عالم ہند۔ مخلوقا تن ہند اکھ اکھ جنس مٹھو گنر رنہ یوان اکھ اکھ عالم۔ مثلاً عالم ملایکہ۔ عالم انسان۔ عالم جن۔ عالم جمادات۔ عالم نباتات۔ عالم وحوش و طیور۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ئس سارنی رحم کرہون مٹھو دُنیا س اندر۔ ئس بن رحمت جاری تھاوہون مٹھو با ایمان پیٹھ آخر تس اندر مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ئس مالک تہ اختیارہ و ول مٹھو جزاء مہ ڈبک جزاء ک ڈوہہ گو قیامتک دوہہ۔ سمہ دوہہ رن پنہ نین عملن ہند بدلہ۔ تم مٹھہ کورمت آسہ سوتلہ تیوٹھہ پھل اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ چانی باڑ چھہ آس ہندگی تہ پرستش کران بیہ نہ کانسہ ہنز بیہ چھہ آس ژئی یوت تیاری تہ مدد متگان بیہ نہ کانسہ۔ بیہ مٹھو بندن ہندہ مٹھہ سزہ ہدر گاہہ اندر التجا بیہ پیچھہ تاوہ اللہ تعالیٰ ان بن بندہ ہمہ دس دربارس اندر تھہ پاٹھ گڑھ حاضر سدن۔ تھہ پاٹھ گڑھ سوال کران۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بیہ ہاؤسمہ سیزو تھہ و تھہ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و تھہ تم کو کن ہنز تم ن ژئیہ نعمو عطا کر مٹھہ یعنی نبوتچ نعمت رسالچ نعمت۔ صدیق نعمت۔ بیہ شہادچ نعمت صلاح نعمت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تہنز و تھہ نہ تم ن پیٹھ چان ژکھ مٹھہ۔ تم ن پیٹھ ژہہ بیزار مٹھو کہ تہنز ہنا فرمانی سبہ۔ بیہ نہ تہنز و تھہ تم مٹھہ اہسید، و تہ نشہ ڈل۔ تم گے یو دو نصاریٰ بیہ ساری باطل فرقہ تم افراط و تفریطس منز بتلا سید



## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

سورہ بقرہ مجہودنی زہ ہت تہ شیعہ شیعہ آیہ کریمہ

الْعَلِيمِ گے حروف مقطعات یمن ہند معنی زلہ پانہ پروردگار ذَلِكِ الْكِتَابِ یہ بد کتاب یعنی قرآن مجید نُس مجہو لَارِيْبٍ فِيْهِ کا نہ شک جہونہ اتھ اندر۔ اِمْكَسْ کلام الہی آسَس اندر هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ یہ مجہو بوڈ ہدایت خدا نُس کھوژہ ون ہندہ خیطرہ۔ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ تم خدایس کھوژہ دن بندہ گے تے تم پڑھہ تہ یقین جھہ کران تمن چیزن تم نہ تمود پھہتی جھہ۔ یعنی یم چیز تہند یو حواسو تہ عقلہ نشہ پو شیدہ جھہ۔ صرف جھہ خداو پیغمبر خدایہ سندہ فرمانہ سیت تمن چیزن پڑھہ کران تہ تمن صحیح تہ درست مانان۔ تم چیز گے خدا۔ ملائک۔ قیامت۔ جنت تہ جہنم۔ یعنی یم لو کہ خدایس کھوژان جھہ تمن چھو یہ قرآن مجید و تھہ ہاوان۔ کیا زہ نُس اکھاہ پنہ نُس خدایس کھوژان آسہ تس چھ فخر تہ تلاش آسان تمن کامین ہنزیمہ کامہ خدایس پسند جھہ۔ بیہ یمن کامین پیٹھہ سُو بزار چھو تمن چھ فکر آسان خدای سز طاعت کرہ نچ۔ تہمدہ معصیت و نافرمانی نشہ پتھہ روزہ نچ۔ یمن نافرمان ہندن دلن اندر خدایہ سُد خوف آسہ نہ تمن جہونہ طاعت و معصیتک کہنیہ اندیشہ تہ فکر۔ امہ اندرہ سُد معلوم تم لو کہہ یمن پو شیدہ چیزن پڑھہ آسن نہ کران تم جھہ ہدایہ نشہ محروم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بیہ گے خدایس کھوژہ دن تم لو کہہ تم برپا تہ قائم جھہ تھوان ہمیشہ نمازہ پانژہ۔ تمہ کیو حقو تہ شرطو تہ آد ابوسان۔ و تچہ پابندی سان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بیہ گے خدایس کھوژہ دن تم لو کہہ تم تمہ مالہ اندرہ نُس اسی تمن عطا کورمٹ چھو آسن خرچ کران۔ اہل و عیالس تہ آشیانوں تہ ہمساین تہ مستحق پٹھہ۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بیہ گے خدایس کھوژہ دن تے لو کہہ تم

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ  
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ  
 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

پڑھ چھ کر ان تھے کتابہ یوسہ توبہ کن نازل آئیہ کرنہ۔ بیہ تمن کتابن پیٹھ میہ توبہ بروئھ نازل آئیہ کر  
 نہ بروئھن پیٹھن کر ایمان چھ ونان پورگنزر نس۔ میہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان حضرات مرسلین پیٹھ  
 نازل کرہ مژہ چھ۔ توریت وانجیل وزبور و صحف تمہ سارے کتابہ چھ پڑہ۔ تمن کتابن ہنز پڑہ آسن  
 چھ شرط ایمان۔ چھ روز عمل کرن سوچھہ صرف قرآن مجیدس پیٹھ کرن۔ کیا زہ تمہ سارے کتابہ  
 چھ قرآن مجیدہ سیت منسوخ تہ ناقابل عمل قرار دنہ آ مژہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۷﴾ بیہ تم آخرت تہ  
 چھ پور پڑہ کران۔ یہ دُنیا چھو ختم گڑھ ون۔ امہ پتہ چھو بیا کھ عالمہ۔ چھہ عالمس آخرت ونان چھ۔  
 تمہہ عالمس اندر کرہ اللہ تعالیٰ بدکارن، نافرمان عذابس تہ سزاس گرفتار۔ تمہہ عالمس اندر ایہ  
 با ایمان جنت تہ چلچہ نعمہ عطا کرنہ۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ تے لوک چھہ پنہ نس پروردگار  
 سزہ تھہ وتہ پیٹھ یوسہ تمن تہندہ طرفہ ہاونہ آئیہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾ بیہ چھہ تے لوکہ رستگار تہ  
 کامیاب (تم ڈور آئیہ کر میہ چھہ با ایمان ہندس مدحس اندر بیان کرنہ آمت) تمہو زیوہ سیت تہ دلہ  
 سیت قرآن مجیدس تہ دین اسلامس ایمان اون۔ امہ پتہ چھو بیان تمن لوکن ہند تمہو بدل وزبان انکار  
 کور إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک تمہو لوکو انکار کور سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ أَمْ  
 لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ توبہ کرو یمن بیم یانہ کر لوکہ تمہ زانہ ایمان ان نہ کیا زہ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ  
 قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ خداین چھہ مہر کر مژہ ہندین دن ہندین کنن پیٹھ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  
 بیہ چھو ہنز ان چھن پیٹھ ٹھور تمہ کن چھنہ پڑہ تھہ تمن فہرہ تران۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾

يُخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَذُّ عُونََ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ  
 لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾  
 إِلَّا أَنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا

تہندہ خیطرہ چہو بوڈ عذاب۔ سو گو نار جنم۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ فرماوان تراہ آیات کریمہ منافقن  
 ہندس مذقس اندر یکن ہند ظاہر کہہ آسہ باطن بیا کہ۔ تمن ہنز زیوا کہ آسہ دل بیا کہ۔ کیا زہ تمن ہند شتر  
 چہو سیٹھاہ زیادہ بین ہندہ خوتہ ومن اللتائین من یقول امانا باللہ وبالیوم الآخر بیہ چہہ کینہہ لو کہ یم  
 زیوہ سیت دنان چہہ آسہ کر پڑہ خدا لیس بیہ پتمس دوہس یعنی قیامتس وماہم یؤمنین حالانکہ ہرگز  
 چہنہ تم پڑہ کرہ ون دلہ سیت خدا لیس نہ قیامتس دوہس یخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا پتہ خیالہ چہہ  
 تم دہو کہ بازی کران خدا لیس تہ بایمان سیت وَمَا يُخَذُّ عُونََ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن  
 در حقیقت چہنہ تم دہو کہ دوان مگر پان پانس۔ مگر باسان تہ ژینان چہنہ تم۔ امیک شعور چہنہ تمن  
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تہندن دلن اندر چہو ہڈ مرض۔ نفاق مرض۔ دین اسلامہ  
 نشہ نفرنگ مرض حسدک مرض بیہ عبادک مرض۔ سیم مرض آس تمن برو نطھی۔ دوان سپد  
 قرآن مجید نازل۔ اسلامس ڈیت اللہ تعالیٰ ان عزت و شوکت۔ بیہ سپز روز بروز اہل اسلامن ترقی۔  
 سیم چیز و چہتہ سپز تہندس مرضس اندر زیادتی۔ پس کر کہ اللہ تعالیٰ ان زیادتی تہہ مرضس اندر  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ چہو تہندوی خیطرہ آخرتس اندر کڈر عذاب بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ای موکہ  
 کہ تم آس اپزونان۔ بل ونان آمانا باللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یلہ وننہ چہو یوان  
 تمن فسادہ تلیو منافقت تہ تا فرمانی کر نہ سیت قَالُوا آدپان چہہ تم کہہ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اس چہنہ  
 مگر معاملتن سبالہ ون تہ اصلاح کرہ ون پتہہ حالات در ست گزہن۔ اللہ تعالیٰ چہو فرماوان إِلَّا أَنَّهُمْ

قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْتُمْ كَمَا اٰمَنَ  
 السُّفَهَاءُ ۗ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾  
 وَاِذْ قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِحَسْبِ مَا خَلَقْنَا  
 شَيْطٰنِيْهِمْ ۗ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾  
 اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَسُدُّ هُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾

هُمُ الْمُفْسِدُونَ وارہ بوزوای بوزوینو تے جھہ فی الحقیقت تہا ہی تہ فساد کرہ ون۔ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن تم نہ چھنہ تمیک شعور۔ وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ تھے پاٹھ یلہ ونہ نہ جو یوان تم نہ منافق ایمان انہ۔ پڑھ کر و خدا و پیغمبر خدا جس تھے پاٹھ تھے پاٹھ ساروی لو کو ایمان اون تہ پڑھ کر قَالُوْا اَنْتُمْ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ دینہ چھہ لگان کہ سبھاہ اس انوہ ایمان تھے پاٹھ تھے پاٹھ تھم بے عقلو ایمان اون۔ اللہ تعالیٰ نہ جو فرماوان اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ خبر درار روزوارہ بوزوای بوزہ دینو۔ پڑھاٹھ تے جھہ فی الحقیقت بے عقل تہ بے وقوف۔ مگر تم نہ چھنہ پن بے وقوفی زان نہ لگان وَاِذْ قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بِحَسْبِ مَا خَلَقْنَا شَيْطٰنِيْهِمْ ۗ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ تھہ پتہ یلہ۔ ملاقا ت کران با ایمان سیت تم نہ جھہ ونان بل زیوہ سیت اسہ اون ایمان۔ وَاِذْ خَلَقْنَا اِلَى شَيْطٰنِيْهِمْ ۗ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ تھہ پتہ یلہ واتان جھہ خلوتس اندر پنہ نین شیطان نش یعنی پنہ نین شریر سرداران تہ نہ تھن نش تم نہ جھہ ونان بیشک اس جھہ تو ہی سیت دلہ کن اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ اس چھنہ مگر با ایمان آمانو نہ سیت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخلوہ کران۔ اللہ تعالیٰ نہ جو فرماوان اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَسُدُّ هُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ اللہ تعالیٰ تہ نہ جو تم نہ ٹھٹھہ کران۔ تہ گوای زہ ڈجر ٹھٹھہ تراوان۔ مہلت بھٹھہ دو ان تم چھہ پنہ سرکش اندر انین ہند پاٹھ تھہ دوان۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰسْتَرَدُّوا الصَّلٰةَ بِالْاَيْدِيْ يٰۤاٰهٰدِيْٓمْ ہداتیس۔ فَمَا بَحِيَّتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ پس کانہہ نفع تہ فائدہ دیت نہ تھنہ تجارتن۔ بیہ آس نہ تم نہ تھہ لہ ون۔ ہزس کن آہ نہ تم نہ کانہہ اتھاہ و تھاہ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ فَبَاعْتُمْ تِجَارَتَهُمْ  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۹﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا  
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي  
ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ ضُوءٌ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ أَوْ  
كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ  
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

تہنہ، مثال ہتھ تہ شخصہ سزہش تم زول تہ پرزہ وواکھ نارہ فلکما اضآءت ما حؤلہ اده بلہ تم نارن  
روشن کوریتہ تہ تہ لہر پک اوس ذہب اللہ بنورہم ژہتہ کور اللہ تعالیٰ ان تہند نور تہ روشنی وتَرَکَہم  
فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ بیہ تراون تم تم امس نار زالہ وئس سیت آس نہ گنن اندر کہ بوزنہ اوسکھ نہ  
یووان کہہنہ۔ تہہ پاٹھہ یہ شخص بیہ یم تس سیت آس روشنی حاصل سپد تہ لہر گتہ منز گر فار سپد مت تہہ  
پاٹھ سپد منافق پوزواضح تہ روشن سپد نہ پتہ ضلالت وگمراہی ہنزہ تاریکی منز گر فار۔ تہہ پاٹھ تہنہ اچہہ  
تہ کن تہ زیو بیکار سپد۔ تہہ پاٹھ سپز یکن منافقن ہنز حالت ضُوءٌ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ زہر ہتھ تم  
پوز بوزنہ نیشہ۔ کل چہہ تم پز اس اقرار کرنہ نیشہ۔ ان چہہ تم پوزو چہنہ نیشہ۔ پس پھیرن تہ رجوع کرن  
نہ تم تمو حال تو نیشہ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ نتہ چہہ تمکن منافقن ہنز مثال تمہ  
رودج ئس آسکھ طرفہ یوان آسہ۔ تہہ اندر آسن آتہ گتہ تہ گمراہیہ تہ وزملہ۔ تہہ زودس منز آسہ  
پکان لوکن ہنز اکھ جماعتہاہ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ تہ لوکھ آسن  
پنہ اوجگہ زورہ واناوادان پنہ نین کنن اندر ترئں ہندہ موکھ موسیخہ بیمہ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ تم ہتھ پنہ  
خیالہ مو تہ نیشہ چہ تک تدبیر کران۔ مگر اللہ تعالیٰ کُوت چہڈہ تم۔ اللہ تعالیٰ چہو کافران تہ نافرمان  
پر تہہ طرفہ احاطہ کر تہ۔ تس نیشہ ہمکن نہ تم کن گتہ تہہ۔ یَکَادُ الْبَرُّ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ وَهٰذَا  
تہنہ ہتھ یہ حالت کہ خیال چہو گتہ ہان تمں وزملن ہندہ گاشہ سیت ماہیہ انیو تہنن اچہن کَلَّمَآ

بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ  
 مَشْوَاهُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

اَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهُ فِيهِ سیمہ سیمہ ساتہ وز لمن ہنز روشنی تمن پیٹھ پیوان جھہ تم جھہ تمہ کس گاش  
 منز پن ہیوان۔ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا نو پتہ یلہ تم پیٹھ تاریکی تہ لہ گمہ جھہ سپدان و دہہ جھہ  
 روزتھ گوهان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ اللہ تعالیٰ ہر گاہ یڑھہ ہاکائن کرہ ہاتھدہ  
 بو زنگ طاقت۔ بیہ و جھنک طاقت نہ روزہ ہنکھ گن کمنہ نہ روزہ ہنکھ لہ جھہ کمنہ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيْرٌ بیشک اللہ تعالیٰ اس جھہ پر ہتھ کمنہ چیزس پیٹھ قدرت۔ تم لو کہ اتھ رودہ گمہ کارس منز یکہ  
 ون آس۔ ہتھہ پاٹھ گرہ پکان آس۔ گرہ روزتھ گوهان آس۔ ہتھہ پاٹھ جھہ تم منافق لہہ ساتہ یلہ  
 وچھان جھہ نور اسلامک ظہور روز بروز ترقی۔ تم جھہ لوکن مائل سپدان یڑھان۔ تمہ ساتہ خود غرضین  
 ہنز تاریکی حائل سپدان جھنکھ۔ اُتٰی جھنکھ ٹھونٹھ لگان پزس گن لہہ نشہ جھہ ہتھہ ژلان۔ اوتان سپد  
 ترشون جماعتن ہند حال بیان۔ امہ پتہ چہو ساری لوکن خطاب کر تھہ بیان یوان کر نہ سو مضمون سیمہ  
 خیطرہ بیہ مقدس کتاب قرآن مجید نازل آو کر نہ یٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہالو کو! عبادت تہ پرستش کرو پنہ نس نس پروردگار سنز تم ٹوہ پیدہ کروہ۔ بیہ تم  
 پیدہ کر تم ساری لو کہ تم توبہ برو تھہ آس۔ ہتھہ ٹوہ پچوتہ محفوظ روزد جھنکھ عذابہ نش سو گو سوی  
 پروردگار۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ہم تھدہ خیطرہ کور زمین و ٹھہ ناہ بیہ گرن  
 آسمان امہ زمینک پشاہ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بیہ تم پروردگارن آسماکھ طرفہ تراو اتھ زمینس پیٹھ  
 زوداہ فَاَخْرَجَ مِنْهَا الشَّعْبَ رِزْقًا لَّكُمْ توپتہ کھارن امہ زمینہ منزہ امہ آبہ سیت میوہ جات تھدہ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

کہینہ خاطرہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس مہ نھر او توہ اے لو کو معبود برحقس مقابل کنیہ قسمک شریک زانتھ کر تھ یعنی یہ کتھ زانتھ کہ سمہ کامہ کرہ ون چہونہ نس وراى کانہ تہ وان کنتم فی ریب ممانزلنا علی عبدا نا ون ہر گاہ توہہ شک وشبہ چہوتھہ کتابہ اندر یوسنہ اسہ نازل کمر پتہ نس بندہ خاص پیٹھہ۔ یعنی حضرت محمد امین پیٹھہ۔ یہ ماہجو تمویا نے نھر وومت فأتوا بسورۃ من مثیلہ تلہ اتوجہہ تہ کانہ سورہ تیار کر تھ تھسنی کانہ شھس رشہ لیس امی آسہ۔ تم نہ کینہہ تہ پورمت آسہ وادعوا شھدآءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بیہ دی تو تہ نادتمن ساری یم تہ مددگاری خیطرہ سمہ نوہ یا مکتوپنہ نین معبودان باطلن معبود برحقس وراى چھوے توہ پوز ونہ ون تھہ تھہ اندر کہہ یہ کیاہ چہوکلام بشر فان لکم تفعلوا پس ہر گاہ چہہ بیگونہ اتھ قرآن مجیدس ہوکلامہ پیش کمر تھہ ولن تفعلوا بیگونہ زانہہ پیش کمر تھہ قیاس تام۔ از تام تہ انکہ پیٹھہ قیاس تام ہوک نہ کانہ اک اتھ قرآن مجیدس ہوک فضاحت وبلا تھس اندر اکہ یازہ آیہ تہ پیش کر تھہ۔ یوسے چہو بوڈ معجزہ قرآن مجیدک۔ فاتقوا النار الٹی وقودھا الناس والحجارۃ کس کھوڑو تہ پچا و ہن پان تمہ نارہ رشہ سمہ نارچہ خرشہ ہتھ سموسیت تھہ شکھ دنہ خیطرہ تہ ہر ہ بینہ خاطرہ چھہ کافر لوکھہ۔ بیہ تمہ کتھہ سکن کینن تیار کر تھہ تہ کر تھہ کافر پرستش چھہ کران۔ تہ کتھہ دزن نار چھتمس اندر تھہ پاتھہ گندک کتھہ ریلہ ہندین انجلن اندر دزان چھہ اعدات للکفرین سوی نار چہو تیار کر نہ امت تمن کافر

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حَبْطًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا  
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
وَأَنْوَابِهِ مُتَسَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا  
فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

ہندہ خیطہ تم قرآن مجید سے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُپر کفر۔ ان چھہ۔ یہ اوس  
وعیدہ شدید معجزان ہندہ خیطہ امہ پتہ چھہ فرماوان بشارت باایمان تسلیم سے اقرار کر وہ نین ہندہ خیطہ  
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِهِ فَرَأَوْهُ بَشَارَاتِ اے حضرت محمد ﷺ! تم لو کہیں سمجھو ایمان لوان  
تہ پڑھ کر خدا جس سے تمہدس پیغمبرس۔ یہ قرآن مجیدس۔ یہ کہیہ رزہ عملہ اَنَّهُمْ حَبْطٌ مُنْجِيٌّ  
بشارت کہ بیشک تمہدی خیطہ چھہ تم جنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سمجھو جتو منز مختلف جو یہ آسن  
پکان۔ آب زلالیہ جو یہ، شراب طہور چہ جو یہ، صاف و شفاف مانجھ چہ جو یہ کُلَّمَا رُزِقُوا بِلِئَالِهِ عَطَا  
کرنہ آسہ یوان تم منہا من ثَمَرَةٍ رِزْقًا امہ جنتک کانہ میواہ کھینہ خاطرہ قَالَ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا  
مِنْ قَبْلُ وَهِيَ تَمِيه پھوسوی میوہ بس آسہ عطا کرنہ آوسمہ بروٹھہ۔ وَأَنْوَابِهِ مُتَسَابِهًا عطا تہ آسہ کرنہ  
آمت تم سو میوہ دو شون لئن بس اکھ اگس ہیو صورتہ کن آسہ۔ مگر لذت کن تہ مزہ کن آسہ مختلف  
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ یہ چھہ ہندہ خیطہ تم جنت اندر پاک و پاکیزہ زنانہ یہ دنیا چو آلایشو تہ  
ناپاکو نشہ محفوظ آسن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ روزن تم جنتی تم جنت اندر ہمیشہ۔ بعض مخالفو کور  
اعتراض کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید کلام الہی آسہ اتلہ آسن نہ اتھ اندر حقیر و ذلیل جانورن۔ مجھن۔  
زلرین تہ مہن ہندناو۔ اتھ کور اللہ تعالیٰ اَن رُد۔ فرموون اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا قَعِي  
اللہ تعالیٰ چھنہ مند چھان سو کیاہ کرہ ہایمان کانہ مثالاہ بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا سو آسن اوہ مہہ سنز  
یا تمس کھوتہ کانہہ بڈس جانورہ سنز چھہ ہنز یا زلر سنز فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ



الَّذِينَ كَفَرُوا قِيْلُوا مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهَذَا امْتَلَامٍ يُضِلُّ  
 بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿۳۷﴾  
 الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ  
 مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا

پس سمجھو لو کو ایمان اون تہ پر شہہ کر تم ہجھہ یقینہ پاٹھہ زمانا کہ یمہ مثالہ ہجھہ بیان کرنہ آمرہ عین موقس  
 پیٹھہ تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ **وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا قِيْلُوا مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهَذَا امْتَلَامًا** وون سمجھو  
 لو کو کفر وانکار کور تمہن چہو سنی وُن کہ یمہ حقیر مثالہ بیان کرنہ اندرہ کیاہ سناہجھو مقصد خدایہ سُنَد **يُضِلُّ**  
**بِهِ كَثِيْرًا** اللہ تعالیٰ چہوک فرماوان کہ گراہ چہو کران اللہ تعالیٰ یمہ مثالہ بیان کرنہ سیت وار یمہن  
 لوکن۔ یمہ نہ سمن مثالن اندر غور و تامل چہہ کران۔ **تِه وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا** بیہ چہو سو ہدایت کران تہ  
 وتھہ ہادان پنہ فضلہ سیت وار یمہن لوکن سمن مثالن اندر سنتھہ تامل و تفکر چہہ کران **وَمَا يُضِلُّ بِهٖ**  
**اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ** گراہ چہو نہ کران اللہ تعالیٰ لمہ مثالہ سیت مگر بدکارن تہ نافرمانن سمن عدول کھی کران  
 چہہ **الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ** فاسق گئے تھے یم پھڑ اووان چہہ سو معاہدہ سُنَد سمجھو  
 خدایس سیت کور مت چہو سو عمد مضبوط کرنہ پتہ **كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ** ان چہہ ہمیس آہیہ کر سمن اندر  
 فرماو مژ۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سندہ پشتہ منزہ کڈ اللہ تعالیٰ ان تھمز ساری ذریت تھے کہ ناوان پنہ رُب  
 آسک اقرار **وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ** بیہ چھو ژمان سو چیز سمجھہ ملانا ٹک اللہ تعالیٰ ان حکم  
 کور یعنی آشنائی۔ حکم خدا چہو صلہ رحم گرن مگر تم چہہ تھہ بدل آشنائی ژمان **وَيُفْسِدُوْنَ فِي**  
**الْاَرْضِ** بیہ چہہ تھے فساد تہ تباہی کران زمینس اندر اکھ اکس پیٹھہ ظلم کرنہ سیت، کفر کرنہ سیت۔  
 حضرت رسول کریم ﷺ سیت حسد و عداوت تھو نہ سیت۔ مسلمان سبہو دتہ نغیر دین اسلامہ نغیر ڈالہ  
 سیت۔ **اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ** سبے لوک چہہ تاوان زد دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ بلہ اللہ تعالیٰ

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۸﴾  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى  
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا  
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

سند مرئی آسن۔ خالق تہ رزاق آسن ثابت سپد کَیْفَ تَكْفُرُونَ بِآلِهَةِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ  
 یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ اے لوگو تمہے کتھہ پاتھہ چہوہ ادہ خدایہ سندس معبود برحق  
 آسنس انکار کران تمسہ احسانات مثر او ان تمس ورا ی بین ہندس معبود آسنس اقرار کران۔ حالانکہ  
 تمہہ آسوہ محض بے جان۔ پس کر نوہ تمی تمہہ زندہ بدن منتر روح و اتاوانہ سیت۔ تو پتہ ماروہ سئی سمہ  
 ساتہ تمہزہ عمرہ ہند مدت و ورہ تہ ختم کر وہہ۔ تو پتہ کروہ سئی تو ہہ بیہ زندہ قیامتک دوہ۔ تو پتہ ایو تمہہ  
 تس گن واپس اند۔ یعنی قیامتک دوہ ایو محشر کس میدانس اندر حسابہ خیطرہ تہندسی اجلاس اندر حاضر  
 کرنہ۔ امہ پتہ چہوہ اللہ تعالیٰ پنہ نین نعمن ہنز ذکر کران هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُو  
 سُو پروردگار یم پیدہ کور تہ سوزی یہ ہتھہ ز مینس اندر موجود چہوہ تہندہ فائدہ خیطرہ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
 إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو پتہ سپد سُو متوجہ آسمان گن۔ پس کران تم  
 درست ستھہ آسمان۔ سُو چہوہ پر ہتھہ چیز او پور زانہ ون۔ او تان آیہ بیان کرنہ صوری نعمت۔ امہ پتہ چہوہ  
 بیان کران اللہ تعالیٰ معنوی نعمت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیہ پاووسو  
 وقت یادیلہ تمہند پروردگارن ارشاد فر موو ملائکن کہ مہ چہوہ پیدہ کرن ہتھہ ز مینس اندر پن اکھ خلیفہ  
 یعنی نایابہ۔ ئس میان احکام شرعیہ نافذ کرہ تہ و اتاوہ میانین بدنن قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا  
 وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ملائک لگ پدپنہ کیاہ ژہ کرہنہ پیدہ اتھہ ز مینس اندر سُو مخلوق ئس فتنہ تہ فساد کرہ جن  
 ہند پاتھہ اتھہ ز مینس اندر بیہ کرہ واریاہ تہ ستھہ خونریزی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس چتھہ

بِحَمْدِكَ وَنَقَدِسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ  
 أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي  
 بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَعَلَّمَنَا  
 إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئْهُمْ

پاکی جان یاد کران۔ چان حمد و ثنا بیان۔ بے چھتھہ اس زانان منزہ تہ پاک ساروی عیبو تہ نقصا نو نشہ۔ لہذا ہر گاہ یہ کام اسی پشراوندیہ ہا۔ اس کرہ ہو یہ کام پورہ دل و جانہ سان تمکن اندر آسن اؤ مُفسد، اؤ ظالم تہ اؤ نافرمان۔ ساری نیک آسن نہ۔ یلہ محض کام کرہ وین موجود تہ تیار آسن نو مخلوق پیدا کر چکی کیاہ ضرورت آس۔ یہ کورنہ ملائحو بطور اعتراض پیش۔ نہ۔ یہ کور تمبو پئن استحقاق پیش۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ فَرَمُودَ كَه **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** بیشک بو چہوس زانان تمہہ تھہ سمہ نہ تہبہ زانان چہوہ۔ کس چیز تو ہہ نش بنی آدم تہ انسان پیدا کرہ ٹک مانع چہوسوی چیز چہوہ نش پیدا کرہ ٹک سبب تہ باعث۔ یعنی تمبو اندرہ بعضین ہند مُفسد تہ خوزریز آسن یوہے چہو باعث تمکن ہندہ پیدا کرہ ٹک۔ کیا زہ احکام بین تیلی جاری کرنہ یلہ کئہ قسمہ بے اعتدالی واقع سپدہ انتظام بیہ تل کرنہ یلہ کانہہ بد نظمی واقع سپدہ۔ توہہ فرمانبردارن ہندس جماعتس اندر ہیچہ نہ یہ امر واقع زانہہ تہ سپدہ تہ بہر حال آؤ انسان امہ کامہ خیطرہ مخصوص کرنہ۔ آؤ پیدا کرنہ حضرت آدم علیہ السلام **وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** توپتہ زانرو چہوہ واللہ تعالیٰ ان آدم علیہ السلام تمام روي زمینہ کین چیزن ہند ناو۔ بڈین چیزن ہند تہ لو کئین چیزن ہند تہ۔ یعنی آدم علیہ السلام آؤ پچھہ ناوند گوڈنی علم لغت۔ یعنی پریتھہ چیزک ناوتہ پریتھہ چیزک خاصیت تہ فائدہ۔ **ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ** توپتہ تراون تم چیز ملاکن برو تھہ کن **فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** پس فرمو اللہ تعالیٰ ان ملاکن اے ملا کئو تہہ و نوہمہ تمکن چیزن ہند ناوتہ خاصیت ہر گاہ تہبہ پوزوندون چہوہ تہ تھہ اندر کہہ اس آس اصلاح طبائع تہ انتظام شرائع تہ تبلیغ احکامن ہنز خدمت انجام دنہ خاطرہ مستحق۔ خلیفہ خداوند کس گزہن سارنی چیزن ہند ناوتہ خواص تہ فوائد معلوم آسن۔ آدہ ہیچہ سو مقوضہ کام انجام دتھہ۔ تہہ و نتو یکن چیزن ہند ناوتہ خاصیت کیاہ کیاہ چھہ **قَالُوا سُبْحَانَكَ**

يَا سُبَّانِيْمُ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ  
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾  
 وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْرٰهِيْمَ ط اَبِيْ وَ  
 اسْتَكْبَرُوْا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَفَلَمَّا يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ  
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلٰمُهُنَّ اَرْغَدًا اَحِيْثُ شَتْمًا وَّلَا تَقْرَبَا

لَعَلَّكُمْ لَنَا اِلٰهًا اِلَّا مَا عَلَّمْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ملائکو دوپ پروردگار اثره چہوہوک منزہہ تہ پاک اَس  
 زانوی نہ کہنہہ مگر تی یہ ژہ اَس بھناوتھہ۔ بیشک ژہ چہوہوک سوروی زانہ ون۔ ژہ چھکھہ سیٹھاہ جمتہ وول  
 قَالَ يَآدَمُ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ اللہ تعالیٰ ان فرموو حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم چھہ ناوکہ ژہ  
 یم ملائکہ یمن چیزن ہنداؤ۔ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ اده یلہ آدم علیہ السلامن تہن چیزن ہندا  
 ملائکہ بیان کر قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ اللہ  
 تعالیٰ ان فرموو ملائکہن مہ فرماو یوہہ تا توہہ کہ بہ چھس زانان تہ سوروی یہ آسان تہ زمین منز پوشیدہ  
 چہوہ۔ بیہ چھس بوزانان تمہہ سارے کتھہ یمہ چہہ ظاہر کر ان تہ نذر او ان چہوہ۔ بیہ تمہہ کتھہ سمہ چہہ  
 پوشیدہ تہ کتھہ تھوا ان آسوہ وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْرٰهِيْمَ ط اَبِيْ وَاسْتَكْبَرُوْ  
 وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بیہ چہوہ سو وقت ژٹس پائس قابل سمہہ وقتہ اسہ حکم کور سارنی ملائکہ بیہ تم جنو  
 اندرہ ملائکہن سیت روزان اَس سجدہ دیو آدم علیہ السلام تنظیمک سجدہ پس دیت ساروی ملائکو  
 سجدہ ابلیس ورانے۔ سُو رُو د پتھہ سجدہ دنہ نشہ۔ تمہ زون پن پان بوڈتہ مغرور سپد۔ اوس سُو ابلیس خدایہ  
 سندس علمس اندر کافر تہ نافرمانوی اندرہ۔ امہ ساتہ کرن عدول حکمی۔ خدایہ سندس حکم کورن نہ  
 تعمیل وَفَلَمَّا يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تُو پتہ کور اسہ حکم آدم علیہ السلام اے آدم چہہ  
 بسوپانہ بیہ پنن جورہ جو علیہا السلام پتھہ جنس اندر۔ یوسہ جو اللہ تعالیٰ اَن آدم علیہ السلامہ سنزہ لرہ  
 کانہ پتھہ اکہ مادہ نشہ پیدہ کر وَكَلٰمُهُنَّ اَرْغَدًا اَحِيْثُ شَتْمًا تُو پتہ کھو چہہ دوشوے امہ جنتہ منزہ یڈ

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَازْكُمَا الشَّيْطَانُ  
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقَىٰ  
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾  
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَا آدَمُ ابْتِئْنَاكَ مِنِّي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ  
هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

برتھ۔ بتھ جابہ خوش کردہ تھ جابہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر کھنڈہ نہ تھ کس یعنی سمہ کلک  
پھل کھنڈہ نہ۔ ہر گاہ امہ کلک پھل کھنڈہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس سپد و تہہ دوشوے پاس  
نقصان و تونیواندرہ۔ اللہ تعالیٰ سی چھو معلوم سو کیاہ کل اوس فَازْكُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا  
مِمَّا كَانَا فِيهِ پس ڈال تم دوشوے شیطان امہ کلہ سبت۔ تو پتہ کڈن تم تمہ عیش و آرامہ منزہ تھ  
منز تم آس۔ یام تموتہ تمہ کلک پھل کھنڈہ تام سپد تم حکم جنتہ منزہ نیر نیرہ نک۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا  
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ تو پتہ دون امہ تم سارنی بون و سوامہ جنتہ منزہ ز مینس پٹھ۔ بتھ حاس اندر کہ  
تہہ آسواڈاؤین ہند دشمن وَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ون تھ تہہ نہہہ خیطہ ز مینس پٹھ  
قرار کرہ نچ بیہ تمنع نہ فاندہ تلخ جائے۔ اس ”وقس“ تام۔ یعنی ز مینس پٹھ چھونہ توبہ ہمیشہ روزن۔  
کینہہ کالاہ گرتہ جتھ چھو توبہ سوگرہ نہ تراون۔ تمہ گرہ منزہ نہ انتقال گرن فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ  
قرہ تک کینہہ کلمات۔ تو پتہ پر تم تم کلمات نہ کوزن توبہ۔ پس کور اللہ تعالیٰ ان تہند توبہ قبول بیشک  
سو چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا حکم فر موواسہ و سوامہ  
جنتہ منزہ تہہ ساری ز مینس پٹھ۔ فَإِنَّا يَا آدَمُ ابْتِئْنَاكَ مِنِّي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ پس ہر گاہ اولتہ توبہ نش میون حکم پیغمبر نہ کتاب۔ پس بس اکھاہ پیروی کرہ نہ پچہ میانہ ہدایتہ

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۶﴾  
 يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا  
 بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآيَاتِي فَارْهَبُونَ ﴿۳۷﴾ وَامِنُوا بِمَا  
 أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا

موجب۔ پس چھٹھ تس کا نہ خوفہ۔ نہ سپن تم پیروی کروں غمگین۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وون سبکو لوگو انکار کو رہیہ زانجھہ لہر سان آیات تم لو کھہ چھہ  
 نارس اندروانہ ون۔ تھہ نارس اندر روزن ہمیشہ دزان۔ یوتان آیہ بیان کرنہ نعمت معنویہ۔ تھہ منز  
 بیان آؤ کرنہ آدم علیہ السلامہ سزہ پیدائشہ ہند قصہ۔ وون چھو یوان بیان کرنہ خاص نعمتک یوسہ عطا  
 آیہ کرنہ بنی اسرائیلن حسب ونسب وغیرہ سیمہ سیت تمن امتیازی شان حاصل آس۔ تھہ تہندہ ایمان  
 اندہ سیت تمام لوکن پیٹھہ اثر پیہہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے یعقوب علیہ  
 السلامہ سند یو فرزندو! اسرائیل گو عبداللہ۔ یواوس حضرت یعقوبہ سنداو۔ بنی اسرائیل گے حضرت  
 یعقوبہ سندا اولاد تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اے حضرت یعقوبہ سندا یوا اولادو تر تس پاو تہہ تمہہ نعمہ سیمہ  
 مہ توہم عطا کرہ وہ۔ تھہ نعمتین ہند حق ادا کرن توہم آسان سپدہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بیہ کرو تہہ وفا  
 میانس تھہ عہدس تھس توہم مہ سیت کور وہ حضرت محمد نبی آخر الزمانس متعلق اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ بو تہ  
 کرہ وفا تہندس عہدس تھس میہ کور مت چھو توہم سیت وَآيَاتِي فَارْهَبُونَ بیہہ کھو ترومے یوت عمد  
 پھڑاونس اندر۔ پنہ نین عوام معتقد نین مہ کھو ترو کہ تمن ماروزہ نہ سون اعتقاد۔ تم یوسہ نذروہ نیازہ  
 سیت خدمت کران چھہ سو ماگر ہہہ ہند۔ وَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَافِرِينَ  
 بیہہ کرو پڑھہ تھہ کتابہ یوسہ میہ نازل کر۔ یعنی قرآن مجیدس۔ توہم پڑہ نہ تمہہ سیت وحشت گڑھن۔  
 کیا زہ سو کتاب کر میہ نازل در حالیتیہ سو چھہ تصدیق کرہ ون تھہ کتابہ یوسہ توہم سیت چھہ یعنی  
 توراتس۔ بیہہ مہ سپد و تہہ گو ڈنک مکر امہ قرآن مجیدک۔ یعنی تہہ یلہ مکر سپد و تہہ و چھتھہ کرن باقی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَلْمُوكَ فِيهَا شَيْئًا قَلِيلًا وَإِنَّمَا تَلْمِزُوهَا لَهَا تَصَدَّقَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ فَيَتَّبِعَهَا فَأَلْتَمِسُوا السُّبُلَ لَهَا فَآثَرُوا الْحَقَّ وَآثَرُوا الْبَاطِلَ  
 وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۳﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ  
 أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۴﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

لو کہ تہ انکار تم سار کی ذمہ دار سپرد ہوئے قیاس تان۔ ہم انکار کرن تہند وبال بیہ تہندس نامہ اعمال  
 لیکنہ **وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْبِئْتِ شَيْئًا قَلِيلًا** بیہ مہ رٹومیانین آیاتن بدل حقیرتہ کم معاوضہ **وَإِنَّمَا تَلْمِزُوهَا**  
 بیہ کھوڑوے یوت ہنن احکام پس پشت تراوتھہ یاتمن تغیر و تبدیل کر تھہ۔ یاتتم کھٹھہ تہ پوشیدہ تھاوتھہ  
 مہ کرو عام لوکن بغیر مال دنیائیس حقیر و ذلیل ہو، حاصل **وَلَا تَلْمِزُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ**  
**تَعْلَمُونَ** بیہ مہ حملہ ناوو پوزا پزس سیت۔ بیہ مہ تھاوو پوزا پوشیدہ تہ کھٹھہ زانتھہ کھرتھہ **وَأَقِيمُوا**  
**الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** بیہ تھاوو ٹوہہ نماز برپا۔ بیہ گیہ عبادت بدنی۔ بیہ دیویمالجز کز کز  
 - بیہ گیہ عبادت مالی۔ بیہ آسو نماز خدا یس برو تھہ کنہ یئن نمنا واکین سیت۔ یعنی نماز آسو پران  
 باجماعت۔ اسلامہ برو تھہ چھنہ بیہ کنتہ دینس اندر نماز باجماعت آسمو۔ بیہ باجماعت نماز پران چھہ  
 اسلامہ کیو خصوصیا تو منزہ۔ رکوع کر تہ تھو اسلامہ کیو خصوصیا تو اندرہ۔ یہودن ہنزہ نمازہ منز اس  
 نہ رکوع کرہ ٹک حکم۔ خلاصہ تھو ای زہ ہم امور بیان آئی کر نہ یمنی یوت اندر چھنہ نجات۔ بلکہ  
 گزھن ساری اصول و فروع بجا ان حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزہہ پیروی اندر نماز تہ گزھہ تہندی  
 طریقہ پران باجماعت رکوعہ سان۔ بعضے علماء یہود آس لوکن ونان کہ یہ دین اسلام تھو پوز دین۔ رت  
 دین مگر پانہ آس نہ مسلمان سپدان کینہہ تمنی تھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ**  
**وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیاہ تہہ چھوہ بین لوکن حکم کران نیکی تہ رزہ  
 کامہ کرہ ٹک۔ یعنی رسول مقبول پیغمبر آخر الزمانس ایمان انہ ٹک۔ ہنن پان چھو کھہ مشراوان تہ نظر  
 انداز کران حالاکہ تہہ چھوہ ہن کتاب تورات پران۔ تھہ منز چھوہ تہہ پران کہ عالم بے عملس نسبت

وَالصَّلَاةَ وَآتَاهَا الْكِبْرَةَ الْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ ۝۵۱ الَّذِينَ يَطُئُونَ  
 أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَيْبِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۵۲ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ  
 أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۵۳  
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ  
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۝۵۴ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۵۵

کاژاہ مذمت چھہ کرنہ آئرش۔ لہذا کونہ چھوہ تہہ عقل کران کیا زہ چھوہ تہہ تمن مذمتن ہند مصداق بنان امہ اندرہ سہڈ ثابت کہ واعظئس آسہ تمسہ گڑھنہ بے عمل آسُن بلکہ گڑھہ تہنز تمہہ موجب گوڈہ پانہ تہہ عمل کرن یہ سولوکن پران آسہ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** بیہ ژھانڈ و مدد صبر کرنہ سیت بیہ نماز ادا کرنہ سیت۔ صبرہ سیت گڑھوہ حُب مال کم۔ نمازہ سیت گڑھوہ حُب جاہ کم تہہ زہ چیز چھوہ توہہ ایمان انہ نس تہ پڑھہ کرنس مانع سپدان **وَأَتَاهَا الْكِبْرَةَ الْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ** بیشک یہ نماز چھہ دشوار مگر چھہ دشوار تمن لوکن پیٹھہ یم خدائیس کھوژون چھہ **الَّذِينَ يَطُئُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَيْبِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** تمن یقین تہ پور پڑھہ چھہ کہ تم چھہ ملاقات کرہ دن پنہ نس پروردگار سیت بیہ چھہ تم پزپاٹھہ تس گُن واندون تہ رجوع کرہ دن **يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** اے یعقوب علیہ السلام سند یو فرزندو ژیتیس پاووسو نعمت یوسہ میہ توہہ عطا کر موہ پیٹھہ تہہ شکر گذاری تہ اطاعت و فرمانبرداری کرو **وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** بیہ پاووتس یہ کتھہ تہ کہ میہ دیت وہ توہہ یعنی تہمدین آباؤ اجدادون فضیلت تمہہ وقتہ کین سارنی لوکن پیٹھہ لہذا پڑہ ہا توہہ مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرن **وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ** بیہ کھوژو تہہ تھہ دوہس سیمہ دوہہ نہ کانہہ کفایتاہ کرہ کانہہ شخصہ کانہہ شخصس یعنی کاہنہ اکھاہ کانہہ آگس کتھہ چیزہ سیت نہ بیہ قبول کرنہ کانہہ آسندہ طرفہ کانہہ شفاعت تہ سفارش، یوتان نہ تس شخصس اندر ایمان آسہ نہ لیس شفاعت یا سفارش کران آسہ **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** بیہ بیہ نہ رٹنہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ بدلہ



وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
يَدَّبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ  
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذْ أَوْعَدْنَا مِوَسَىٰ الْأَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰۱﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

تہ کا نامہ عوضا نہ یہیہ تمہن یاری کر نہ کیا زہ تمہہ دوہہ بیچہ نہ کا نہہ کا نہہ یاری کر تھہ نہ بیچہ تمہہ دوہہ کا نہہ  
ہنز طرفداری چلتھہ امر پتہ مٹھو بیان یوان کرنہ بین نقمن ہند سیمہ بنی اسرائیلن عطا کرنہ آیہ وَاذْ  
نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اے بنی اسرائیلویہ پاوڑتس یلہ اسمہ توہہ نجات  
دیئت فرعونہ سندہ قومہ نشہ ایم توہہ واتاوان آس سخت عذاب سمن صرف فکر آس توہہ تکلیف تہ ایذا  
واتاویج یَدَّبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ یم کھش کران آس تھندین نجوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ آس تھاوان  
کورین تھنزن تھہ تمہہ جہ واتتہ پتہ تمہن خدس بکارین وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھہ اندر  
آس تھنز بد آزمائش تہ امتحان تھندس پروردگار سیدہ طرفہ کتان شخصن آس فرعونس نش پیش گوئی  
کر مڑ کہ بنی اسرائیلن اندر سپدہ پیدہ اکھ لوکناہ سمسندہ سببہ چان سلطنت تہ پادشاہت ختم سپدہ۔ تمہہ  
موکھ ہت تم بنی اسرائیلن لوکت زیوہ ونوی مارن کورین ہند اوس نہ امرہ قسمک کا نہہ خطرہ۔ تمہی موکھ  
اوس کورین زندہ تھاوان تمہن اوس نہ مارن کینہہ یہہہ اوس کورین اندریہ فاندہ کہ تمہن اوس بالغ سپدہ تھہ  
خد قس لاگان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بیہ مٹھو سو واقعہ تہ  
یاد کرنس قابل یلہ جد اکر اسمہ تھندہ سیت دریای قلم۔ یلہ تہہ ژلان آسوہ فرعونس نغہ تھہہ آو توہہ  
دریای قلم۔ یلہ دیئت اسمہ توہہ نجات۔ دریاس سپد تھندہ خیطرہ باہ کوچہ۔ تھہہ و تھوہ سمنی کوچن  
اندر۔ توپتہ واتو تھہہ اپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رٹنہ خیطرہ تم تہ و تھہ  
یمنی کوچن اندر۔ توپتہ واتو تھہہ اپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رٹنہ خیطرہ

عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾ وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى  
 الْكُتُبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
 يَقَوْمِ إِنِّي ظَلَمْتُكُمْ أَنفُسَكُمْ بَاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا  
 إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ  
 بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ

تم تہ و تھے یعنی کوچن اندر۔ یا تمہ جہند تہم پارہ بٹھ کھوت فرعونین ہند پتم شخص دریاوس اندر دو تھے۔  
 آس سڈ حکم پتھ۔ تھی سیت کراسہ غرق اتھ دریاوس اندر ساری فرعونی۔ تہہ آسوہ پارہ پٹھس پٹھ  
 تہندہ پھٹک تہ غرق سڈ تک تماشہ و جھان۔ **وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَلْبَعِينَ لَئِنَّا** بیہ پاوڑتس یلہ آسہ اورہ  
 وعدہ کور موسیٰ علیہ السلام سیت اسہ کور وعدہ تہ سیت توریت عطا کرہ نگ۔ تم کور وعدہ آسہ سیت  
 کوہ طورس پٹھہ ینگ۔ تو پتہ ژ تہجن ۴۰ راتن تہ دوہن کوہ طورس پٹھہ روزنگ بطور اعتکاف تھ  
**اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ** تو پتہ بنو و ان توہہ سونہ سڈ دوڑتھ۔ تسزنی ہمیروہ توہہ پرستش کرن  
 موسیٰ علیہ السلام پتہ۔ تم آس کوہ طورس پٹھہ اعتکاف کران **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** تہہ آسوہ معبود  
 برحقس و رای پانے تیار کر مٹس تہ گر مٹس و تھ سز عبادت تہ پرستش کرنہ سیت صریح ظلم کرہ وین۔  
**ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تو پتہ تہ کور اسہ اتھ بڈس جرمس عفو تہ در گذر تہندہ  
 توبہ کرنہ پتہ تہہ تہہ شکر گذاری کرو۔ پانس پٹھہ مانوسون بوڈ احسان **وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكُتُبَ**  
**وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیہ پاوڑتس یلہ آسہ عطا کر موسیٰ علیہ السلام کتاب سمیک اسہ تمس  
 سیت وعدہ کور مت اوس یعنی توریت۔ بیہ تم معجزہ یموسیت پزس تہ اپزس منز فرقی سدان آس تہہ  
 توبہ و تھہ بیہ راہ راستس کن **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنِّي ظَلَمْتُكُمْ أَنفُسَكُمْ بَاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ**  
**فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ** بیہ پاوڑتس یلہ موسیٰ علیہ السلام فر موو پتہ نس قومس اے قوم توبہ کور وہ  
 ظلم پان پانس کیا زہ توبہ کور و ان مقرر بے جان ووڑھاہ پین معبود۔ پس کرو تہہ توبہ تہ رجوع پتہ نس

قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ  
 الصَّيْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلَّوَامٍ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۳﴾

پیدہ کرہ و نسی گن۔ تم لگ پینہ وون کیاہ گزواس۔ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ فَاخَذَتْكُمْ الصَّيْقَةُ پس مارو نہ قتل کرو تہہ ہن پان سمو و ژہہ سز عبادت تہہ پر ستش کر مژہ جہنہ تم کرن قتل تمہن سمو و ژہہ سز عبادت کر مژہہ ذَلِكُمْ حَيْدُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكِكُمْ اِی طریقہ مَرْنِ چھو تہندہ خیطرہ بہتر جہندس خالقس نشہ یعنی اللہ تعالیٰ اس نشہ۔ پس مارتمو ہن پان۔ کوز کہ توبہ۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس کور تہند توبہ اللہ تعالیٰ اَن قَبول اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ بزپاٹھہ سو چھو گنکارن ہند توبہ قبول کرہ و ن۔ سو چھو تمہن پیٹھہ مہربان تہہ رحمتہ وول وَاذ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً بیہ پاو و ژتس اے بنی اسرا نیلویلہ توبہہ دوپوہ موسیٰ علیہ السلامس اسہ نیوپانس سیت کوہ طورس پیٹھہ کلام خدا بوزناونہ خیطرہ توپتہ بوزوہ توبہہ کلام خدا توریت مگر دینہ لگوہ تہہہ اسہ کیاہ چھہ خبر یہ کلام گس چھو فرماوان۔ یوت تام نہ اس کلام فرماوہ و ن وارہ و چھون توت تام تھہہ پاٹھہ ہمہ اسہ یعنی اعتماد بیہ اسہ یہ کیاہ چھو کلام خدا فَاخَذَتْكُمْ الصَّيْقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پس رٹوہ تہہہ امہ گستاخی سببہ و چھان و چھان اکہ ترٹہ سمہ ترٹہ تہہہ ساری یکدم ماروہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہہ پتہ کروہ اس تہہہ بیہ زندہ امہہ ترٹہ سیت مر نہ پتہ موسیٰ علیہ السلام سندہ دُعا کرنہ پتہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تہہہ تہہہ بیہ زندہ کرج نعمت محسوس کر تھہہ شکر گذاری کرو وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ بیہ ترو اسہ توبہہ پیٹھہ ابرک سایہ یلہ تہہہ میدان تہہہس منز تا پتہ سیت دزان آسوہ بیہ واتتو اسہ توبہہ نش غیبی خزانہ منزہ اکھ چیزہ تہہہہ ترنجبین و نان چھہہ لیس ویرہہ ہانٹھک پاٹھہ کلین ہندین برگن پیٹھہ آسان چھو۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ  
 رَغَدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ  
 خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا  
 غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا  
 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

بہ بائرن ہند ماژ کُلُوا مِنْ طَلِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اسمہ دوپ تہہ کھیو تہہم نفس چیز واندرہ تم اسمہ توہہ  
 عطا کر وہ۔ مگر اتھ اندر تہہ کر کہ نا فرمانی یہہ سیت تمہن پانس سخت نقصان ووت وَمَا ظَلَمْتُمْ  
 وَلَا كُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تمہو واتونہ اسمہ کانہہ تکلیف تہہ نقصان بلکہ آس واتانوان تم  
 نقصان پنہ نین پانن وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ بیہ پاووژ تہہ  
 اسمہ دوپ بنی اسرا نیلن اژو تہہہ تہہہ بستنی اندر پس کھیو اسمہ بستنی اندرہ تہہہ تہہہ جلیہ توہہ خوش کرہ اسمہ  
 شہر کیو چیز واندرہ یوت توہہ خوش کرہ توت۔ یعنی یڈ بر تہہہ۔ وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ  
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سیتی کوز کہ اسمہ حکم کہ یلہ تہہہ اسمہ شہر کہہ دروازہ کن اتھہ  
 شہر س منز اژو۔ اژان اژان تہوڑ تہہہ کلہ بون کن یعنی کلہ نومر تہہہ اژرہ عاجزی سان بیہ گتھہ تہہہ پرن لفظہ  
 حطہہ تہہہمک معنی پتھو آس تہہہ توہہ کران۔ تمہہ سیت کز و آس تہہہن بر و تہہہن گتھن مغفرت بیہ کز و آس زیادہ  
 ثواب عطا ژرہ عملہ کرہ و نین فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدلوو و تمہو ظالمو سو  
 لفظ تہہہ لفظس سیت تہہہ نہ تمہن ونہہ آمت اوس۔ تمہو دوپ حبیتہ فی شہرہ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس کور اسمہ نازل تمہن ظالمن پیٹھہ آسمانجہ طرفہ آتھہ عذاباہ۔  
 کیاڑہ تمہ آس کران سان نافرمانی تہہ عدول حکمی۔ نارہ آتھہ گو پیڈہ آسمانجہ طرفہ تمہ نارن اکی ساتہ ژوہ  
 ساس ۲۳۰۰۰ انسان۔ بیہ روایتہ موجب ۴۰۰۰۰ (تہہہہ ساس) انسان زاتہہ تراو بعضی مفسر و فرماو کہ  
 سو عذاب اوس طاعون تہہہ سیت اؤس دوہس اندر تہہہ ساس لوک موو وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ  
 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُفُورًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ  
 اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۰﴾ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى  
 لَنْ نُصِيبَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا  
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ  
 بَصِلَهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ يَأْتِي بِهَا

بہ پاوڑتس یلہ موسیٰ کلیم اللہ طلب باران کورینہ قومہ خیرہ آب موکھ اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ  
 چھو فرمادان فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پس فرموا سہ موسیٰ کلیم اللہس ژنڈ دیو پنہ لورہ سیت  
 ہتھ کنہ یوسہ توبہ بروٹھ کنہ چھه فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس جاری سپد تمہ کنہ منزہ باہ ناگہ  
 راد تین بنی اسرائیل ہندن قبیلن ہنزہ گرز۔ حضرت یعقوب علیہ السلامس آس باہ فرزند اکس اکس  
 فرزندہ سند اولاد آسوا کہ اکہ قبیلہ۔ تمسی قبیلن ہندہ تعدادہ ۱۲ شمارہ موجب درای تمہ کنہ منزہ باہ  
 ناگہ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ چنانچہ معلوم سپد پریتھہ اکس شخصس پنہ پنہ آب چنچ تہ آب  
 حاصل کر نچ جائے چنانچہ ونہ اکہ كُفُورًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے  
 بنی اسرائیلو کھو یہ من وسلویٰ بیہ چیو تمکن چشمن ہند آب۔ بیہ مہ پھیروز مینس اندر فساد تہ فتنہ تھلان  
 یعنی میانین احکامن ہنزہ نافرمانی کران وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ نُصِيبَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ بیہ پاوڑتس  
 اے بنی اسرائیلو بیہ توبہ درخواست کورہ حضرت موسیٰ علیہ السلامس کہ اے موسیٰ اَسْ حَضْ بیکونہ  
 صبر تہ برداشت کر تھہ اکہ قسمہ کی کھینہ چیزس پیٹھہ اس آسے پریتھہ دو ہنہ من وسلویٰ کھوان کھوان کھوان سخت  
 عاجز فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا  
 پس منگو حَضْ سانہ خیرہ پنہ نس خدایس کہ سُوکھارہ سانہ خیرہ تم تم چیز تم زینہ منزہ کھسان چھہ تجہ  
 ترکارہ ہٹھ۔ لار تمک بہ ککھہ تمک۔ بیہ روہن تمک بہ۔ مُرْ تمیک۔ بیہ پران تمیک قَالَ

خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
 الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَاَبَاءُ وِبِعَضٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
 كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

اَسْتَبَيُّوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى يٰ اَكْبَرُ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیا ہتھہ چھوہ ژھانڈان  
 تم چیز یم پست تہ بونمہ درجک ہتھہ تھہ چیز س بدل ئس اعلیٰ درجک چیز چھو یعنی من و سلوی اس بدل  
 ئس توبہ منعت و مشقتہ و رای حاصل سپدان چھو۔ کاژاہ چھہ ٹھنز عقل تہ ہمت پست اِهْبِطُوا مِصْرًا  
 فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ یلہ توبہ عز نکس رُو زئس سیت کھر چھہ ادہ اژو ٹھہ شہر و اندرہ ٹھہ شہر س اندر ہتھہ  
 بن توبہ تم چیز تم ٹھہ منگان چھوہ۔ زمین کړو حاصل۔ تو پتہ لاگوسو۔ تھہ منز و و تم تم چیز تہ کھیبو  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ یژھے یژھے گستاخی کرنہ خیطرہ آیہ تراونہ تمن پٹھہ ذلت تہ  
 خواری تہ پستی لوکن ہنزہ نظرہ اندر روزنہ تمن کانہ وقعت تہ کانہ قدر نہ رُوژ تھندین طبعین اندر  
 ٹھہ قسمہ اولو العز می تہ بلند ہمتی باقی وَاَبَاءُ وِبِعَضٍ مِّنَ اللّٰهِ بیہ سپد تم مستحق خدایہ سزہ بیزاریہ  
 ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اتھہ ذلت و  
 خواری و بیزاری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ سندین احکامن بیہ  
 آس پیغیرن قتل کران تہ ماران ناحق تہ بے گناہ ٹھہ قسمہ مجرمہ و رای ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا  
 يَعْتَدُوْنَ اتھہ ذلت و خواری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ  
 سندین احکامن تمن بہودن ہند یہ حال بیان کرتھہ اوس ممکن کانہہ شخصس ماگوبہ یا خیال کہ ہر گاہ کانہہ  
 شخصہاہ یو وواندرہ یا بیوہ لوکاندرہ توبہ و استغفار کرتھہ ایمان لہ تس ما کرہ نہ اللہ تعالیٰ بخشایش تھند ایمان تہ  
 توبہ و استغفار ما کرہ نہ قبول۔ سوخیال دُور کرنہ خیطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لمرہ پتہ عام آکھ قانوناہ تہ قاعدہ  
 کلیاہ آکھ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِيْنَ بِيْشک با ایمان بیہ یسود بیہ نصاریٰ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا  
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ  
 اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۹۷﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۹۸﴾

یہ صابین یعنی سو فرقہ یمن نہ مستقل کانہ دینا پھجو۔ پریتھہ دینہ منزہ پھجو تمبو حسب خواہش اکھ اکھ  
 چیزہ اختیار کورمت یوساروی فرقواندرہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یس شخصہ پڑھہ تہ یقین کرہ معبود برحقہ سندس  
 ذات پاکس تہ تہمدین صفاتن بیہ کرہ پڑھہ پتمس دوہس یعنی قیامس بیہ کرہ رثہ عملہ تمہہ شریعت  
 محمد یس موافق آسن تہمین لوکن ہندہ خیطرہ چھہ مزور تہمز تہمدس پروردگار نشہ یوسہ تمن عطا کرہ  
 بیہ تس نش واتھہ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفہ بیہ سپدن نہ تم غمگین تہ پریشان یہ قانون بیان کر تھہ پھجو  
 بیہ بیان سپدان بنی اسراغیلن ہند حالات و معاملات اسہ کیاہور توو تمن سیت تمبو کیاہ معاملہ کوراسہ سیت  
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بیہ یادو ژتس اے بنی اسراغیلولہ اسہ ٹہہ عمد کرناویہ۔ توہہ  
 نشہ روٹ اسہ قول و قرار توریتس پیٹھہ عمل کر نہ خیطرہ تل اسہ کوہ طورک اکھ حصاہ توہہ پیٹھہ تروانہ  
 خیطرہ۔ فرموداسہ توہہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہہ ساتہ فرموداسہ  
 ٹہہ کر و قبول سو کتاب یوسہ اسہ توہہ عطا کر پورہ طاقتہ تہ مضبوطی سیت تہ تراووہ آس یہ کوہ تہمدین  
 کلن پیٹھہ وارہ تھا وویاد تم احکام یم اتھہ کتابہ منز چھہ۔ دیوہ ٹہہ متقی تہ پرہیز گار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ اسہ قول و قرارہ پتہ تہ پھیروہ ٹہہ پوت یعنی اتھہ عمدس پیٹھہ رُودونہ ٹہہ قائم فَلَوْلَا فَضْلُ  
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہر گاہ نے توہہ پیٹھہ خدا یہ سُد فضل و رحمت آسما مہ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ  
 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۵﴾ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِيَهَا  
 وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقْرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

عہد شکنی سبب سے آسہو ہتھ ہلاک سے برباد سپد و نیواندرہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ  
 فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بیہ چھوہ تو بہ معلومی تمہن لوکن ہند حال تم تو بہ اندرہ حدہ ڈل بہ  
 وارہ ہندس معاملس اندر اسہ اوس تمہن منع کورمت بہ وارہ دوہ گاڈہ شکار کرنہ نشہ مگر تمبو کراتہہ خمس  
 مخالفت پس فر مواسہ تمہن ذلیل واندر نبو۔ چنانچہ بنے یہ تمہن واندرن ہنز شکل مسخ صورت سپد کہ  
 وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِيَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بیہ کوراسہ یہ واقعہ اکہ عبرتھاہ تمہن  
 لوکن ہندہ خیطرہ تمہن وقتہ موجود آس بہ تمہن لوکن ہندہ خیطرہ تمہن پتہ آئے۔ بیہ کوراسہ یہ  
 واقعہ بوڈو وعظ تہ نصیحت خدا پس کھوڑوہ ونین ہندہ خیطرہ۔ بنی اسرا ییلن منز اوس اکہ شخصہ تس اوس ناد  
 عامیل۔ تس آس کور۔ بیا کہ شخصہ تمہن کراس کورہ ہندس ماس خواستگاری امس کورہ سیت نکاح کرنہ  
 خیطرہ مگر تم کور تمس یہ گوردنہ نش انکار تمس سپد آسند انکار گرن سیٹھاہ نا گواریم مو کہ تم کور سو شخص  
 پوشیدہ پاٹھہ قتل تو پتہ تروون اکس جابہ۔ لو کو یلہ سو تھہ جابہ مارنہ آمت وچہ۔ تم لگ دریافت کرنہ  
 کہ یہ شخص کم سنا پٹھو مورمت تم آے حضرت موسیٰ کلیم اللہس نش عرض کورہ بھہ اسہ حض گوٹھ  
 معلوم سپدن تمس شخصہ سند قاتل گس چھو تمبو فر موو بھہ بچکم خدا ہنہہ ماریون اکہ گاواہ تمسندی کنہ  
 تانہ سیت دیواس مقتلو لس ژنڈ سو سپدہ زندہ سو ونہ پانے میون قاتل گس چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 یو ہے قصہ بیان فرماون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقْرَةً بیہ پاوو سو وقت  
 ژتس یلہ حضرت موسیٰ علیہ السلامن پتہ نس قومس فر موو۔ یلہ تموا گس مقتول شخصہ سند قاتل تمہن  
 نشہ دریافت کرن ہیوت کہ پہر پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تو بہ حکم کران کہ تہہ کرو ذبح اگس گاواہ تمسندہ ہنہ تانہ



قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوا اَدْعُ لَنَا  
 رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا  
 فَاْرِضُ وَلَا يَكْرَهُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ ۗ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ﴿۷۸﴾  
 قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا كُوْنُهَا ۗ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ  
 اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ ۗ فَاقْعُرُوْهَا سُرًّا نَّظِيْرِيْنَ ﴿۷۹﴾  
 قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ عَلَيْنَا

سیت دیوامس مقتولس ژنڈ سو سپدہ تمہہ ژنجہ سیت زندہ سووند پانے پتہ نس قاتلہ سُنْد ناو۔ قَالُوا  
 اَتَّخِذُنَا هٰذُوْا تَم لَب دپنہ کیا حض تہہ چھوہ اسہ مسخرہ بناوان اسہ سیت ٹھہہ کران۔ تہ کتہ حض  
 ہجو یوزمت اذتال کہ گاوہ ہندہ تنہ سیت ژنڈ دنہ سیت کیا سپدہ مردہ زندہ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ  
 مِنَ الْجٰهِلِيْنَ موسیٰ علیہ السلا من فر موؤکھ بہ چھس اللہ تعالیٰ اس پناہ منگان کہ بہ کیاہ ہندہ جاہلو  
 اندرہ۔ احکام خداوندین منز تمسخر کرن چھہ جاہلن ہنز کوم قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ تمبو  
 دوپ حضرت موسیٰ اس تہہ کروحض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگار س عرض کہ سوکرہ بیان کہ اس  
 گاوہ ہند صفت کم کم گدھن آسن قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَاْرِضُ وَلَا يَكْرَهُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ  
 فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ تمبو فر موؤکھ بیشک اللہ تعالیٰ چھو فرماوان سگو گاو گدھنہ آسن بڈہ نہ گدھہ آسن  
 بالکل لوکت وژھر ہش بلکہ گدھہ آسن یمن دون حالن در میان۔ وؤن مہ کمر و زیادہ پرژھہ پرژھہ۔  
 وؤن گرو سو کام سمیک توہہ حکم کرنہ یوان چھو۔ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا كُوْنُهَا تَم لَب دپنہ  
 تہہ پرژھو حض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگار س بیان اسہ تمس گاوہ ہند رنگ کیاہ گدھہ آسن۔  
 قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ ۗ فَاقْعُرُوْهَا سُرًّا نَّظِيْرِيْنَ حضرت موسیٰ ان فر موؤکھ بیشک  
 اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تمس گاوہ ہند رنگ گدھہ زرد آسن سوئی گدھس آسن شوخ زرد نیس دل پھولرا وہ  
 وجھہ وین۔ یعنی نیس وجھہ وینن فرحت و سرور بخشہ قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنَهْتَدُونَ ﴿۴۱﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا  
ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا  
قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ فَدَأْبُكُمْ بِمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۲﴾ وَ  
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ ﴿۴۳﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنَهْتَدُونَ دینہ لگ بیہ پر ژھو حض پنہ نس پروردگار سنانہ خیرہ کہ سوکرہ بیان سانہ خیرہ وارہ وضاحتہ سان سوگاؤ کرژھہ گڑھہ آسن تسمند خاص علامت تہ نشانہ چھاکینہ۔ پیشک سوگاؤ تسمندہ سیت اسمہ قاتلہ سُد پتہ لکھہ سوچھہ اسمہ نشیہ مشتبہ۔ ہرگاہ اللہ تعالیٰ نضر اوتھہ بیان فرماوہ تھہ صورتس اندر لکھہ اسمہ ضرور پتاہ یوژھے خداین قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا موسیٰ علیہ السلامن فرموؤکھ اللہ تعالیٰ چھوہ فرماوان سوگاؤ گڑھہ آسن محنت کش یوسہ الہ بانہ سیت زمین تلہ ون اسمہ۔ بیہ اسمہ نہ ارٹس لاکھہ زمینس زراعتس سگ دوہ ون سالم اسمہ عیبونشہ۔ کانہ داغاہ اسمہ نہ تس۔ بیاکھہ رنگاہ آسین نہ یعنی ٹپجہ ہار اسمہ نہ بلکہ اسمہ اکی رنگہ قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ یہ یوزتھہ دوپ تمبو موسیٰ علیہ السلامس وون کیا حض آوہ تہہ صاف وشتہ تھہ پتھہ۔ امہ پتہ کور تموتلاش اسمس گاوہ ہند۔ توپتہ لبجھہ امہ قسگ گاؤ اکس جو انس نش بس پنہ ماجہ ہند اوس سخت فرمانبردار۔ تسمس نشیہ بنیئر کھہ یہ گاؤ سمل تیتس سونس سیمہ سونہ سیت تسمند مسلمہ تہ دالہ برنہ بیہ ہا فَدَأْبُكُمْ بِمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پس کور تمبوتس گاوہ کھش۔ درحالیجہ آس نہ ہم یہ کام کرہ ون یہ تہند یوسوالا تو سیت ظاہر سپدان اوس مگر چارہ لوگھہ نہ کینہہ تہ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اتھہ قصص متعلق مزید بیان وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا یہ پاووتہہ ژتس سُو وقت یلہ توہہ اندرہ کتام شخصن موراکھ شخصاہ توپتہ ہیو توہ توہہ اندرہ پریتھہ اک پن پان بری ہاونہ خیرہ اکھہ اکس ہانژھہ لاگن یعنی چھاؤن داسی ہنہ وہ کرن وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ اس اوس

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِّنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ  
 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَىٰ فَيَخْرُجُ مِنْهُ  
 الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

نتر اون منظورتہ یہ تہہ کھٹان تہ پوشیدہ تھاوان آسوہ۔ تھی موکھہ یلہ اسہ توہہ گاؤن ذکرہ نیک حکم کور  
 فَقَلْنَا اَصْرًا يَوْمًا بِبَعْضِهَا پس فر موواسہ دیوژنڈا اس مردس اسس مقتول شخص اسس مذبوحد گاوہ ہندہ  
 عنہ تانہ سیت توپتہ دژتمواسس گاوہ ہندہ زیوہ سیت یارانہ سیت ژنڈا اسس مقتولس۔ چنانچہ سو مقتول  
 گوزندہ۔ تم دون پنے نس قاتلہ سندا ناؤ۔ سو اوس پنے نیو دو یو پترو با یو یا پتھر و مالکہ طمعہ یا نتھر نہ دنہ  
 موکو مورمت۔ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان امہ پتہ قیامتہ کین مکران سم مر نہ پتہ بیہ زندہ گزہہ نس انکار  
 چھہ کران کذلک یعنی اللہ المونی پتھہ پاتھہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ مردن بیہ زندہ پتھہ پاتھہ بیہ  
 مقتول بیہ زندہ کوزن ویریکم آیتہ لعلکم تعقلون اللہ تعالیٰ پھوہ تمہ پنے قدر تک نشانہ ہاوان پنے  
 قدرتہ سیت دیوہ تہہ عقلہ کام ہیو پتھہ تہہ امہ سیت زانو کہ نس خدا یس یہ اکھ مردہ توگ زندہ کران تس  
 نشہ کیاہ عجائب پھو ساری مردہ قیامتک دوہ بیہ زندہ کران۔ حدیث شریفس منز پھو آمت کہ ہر گاہ بنی  
 اسرائیل پر ژہہ پر ژہہ کرہ ہن نہ گوڈنی مار ہن کانہہ گاواہ مقصد سپد پھہہ حاصل امہ پتہ پھو اللہ تعالیٰ  
 فرماوان کہ تم بنی اسرائیل سندنہ سم واقعات و پھتھہ کانہہ اثراہ۔ یہند دل سپد سٹھاہ سخت ٹھو قست  
 قلوبکم من بعد ذلك فیہی کالحجارة اوشد قسوة سمو تھہو واقعاتو پتہ گزہہ تہند دل نرم گزہہن  
 خدا یہ سندرہ قدر تک بڈبڈ نشانہ و پھتھہ مگر تھہہ بدل سپد تہند دل سٹھاہ سخت پس سپد تہند دل کنہ ہشہ۔  
 بلکہ پھہہ تہند دل کینو خون تہ زیادہ سخت سمہ وجہ کہ و ان من الحجارة لمایتنفجر منه الانهار بیشک  
 کینو اندرہ پھہہ بعضے کنہ سمو اندرہ دریا چھہ جاری سپدان و ان منها لیماء یسفق فیخرج منه الماء  
 بیشک بیہ پھہہ کینو اندرہ بعضے کنہ سمہ پھشان پھہہ نس پھو تمبو اندرہ تہ آب جاری سپدان و ان منها لیماء

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۵﴾ أَفَتَطْعَمُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ  
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ وَإِذْ الْقُرْآنُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا  
أَمَّا ءَاخِلَآءُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا  
فَعَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَجْحَضُوا بِعَنَّا رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۷﴾

يَهْبِطُ مِنْ حَشِيِّ اللَّهِ يَشْكُ بِهِ هَجَّهُ بَعْضُهُمْ كَيْفَ تَهْمُ تَهْرُورُهُ بِئِثْمِهِ بُونَ وَتَهْمُ بِيَوَانِ تَهْ ذَلِكُ كَرِهَانِ هَجَّهُ خَدَايِهِ  
سَدْرُهُ خَوْفَهُ سَيْتٌ مَكْرٌ تَهْمُ دِينَ دَلْنِ وَتَهْمُهُنَّ كَيْفَ قَسَمَهُ اِثْرُ كَرِهَانِ تَهْمُ دِلْ هَجَّهُ قَسَاوَتِنِ وَلَمْتِ تَمِي قَسَاوَتِهِ سَبِيهِ  
چَهْوَهُ تَهْمُهُ يَمِهِ يَمِهِ تَهْمُهُ كَامَهُ كِرَانِ - وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ تَعَالَى هَجَّهُ تَهْمُزِ وَتَمُو تَهْمُهُ كَامِيُو  
نَشْرُ بِي خَبْرٍ - سُودِيَه تَوَهْمُهُ جَلْدِي تَهْمِيَكِ سَزَا - يَهُودُونَ هِنْدِيَمِ حَالَاتِ بِيَانِ كَرِهَهُ هَجَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اَمَهُ پَتِي تَهْمُنِ  
مُسْلِمَانِ تَهْمِ كُوَشَشِ كِرَانِ چَه يَمِ يَهُودِ كَرِهَهُ اِيْمَانِ اِنْ تَمِي خَيْطِرُهُ هَجَّهُ تَهْمِ غَمِ كَهِيُوَانِ فِرْمَاوَانِ كَه  
اَفْتَطْعَمُونَ اَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانو! كِيَا هَسْمِ اَيْتِ قَصَبِ بُوَزْتَه چَهْوَهُ تَهْمُهُ تَوَقُّعِ كَه تَهْمُزُهُ كُوَشَشِ  
سَيْتِ كِيَا اِنْ تَهْمِ يَهُودِ اِيْمَانِ حَالَاتِكُهُ تَهْمُو سَارُوِي قِصُو عِلَادَهُ هَجَّهُ تَهْمُزِ بِيَا كَه اَكُه عَجِيْبِ كَهْمَا هُ كَه وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پَرِيَا هَجَّهُ يَمُو اَنْدَرُهُ  
هَجَّهُ اَكُه جَمَاعَتُهُ گِذْرُ تَهْمُو تَهْمِ بُوَزَانِ اَسِ خَدَايِهِ سُنْدِ كَلَامِ تُو پَتِيَه اَسِ تَهْمُهُ تَغْيِيْرُ وَتَبْدِيْلُ كِرَانِ تَحْرِيفِ  
لَفْظِي تَهْمِ كِرَانِ تَحْرِيفِ مَعْنَوِي تَهْمِ كِرَانِ زَانْتَهْمُ كَرِهَهُ دِيْدَهُ وَدَانَسْتَه - بِيَه اَسِ تَهْمِ زَانَانِ يَه كَهْمُ كَه اَسِ هَجَّهُ يَه  
تَهْمُهُ كَامِ كِرَانِ - مَكْرُ اَعْرَاضِ نَفْسَانِي اَسْجَه يَه چَهْمُ كَامِ كِرَانِ سِ بِيئْتَه اَمَادَهُ كِرَانِ وَإِذْ الْقُرْآنُ الَّذِينَ آمَنُوا  
قَالُوا اَمَّا ءَاخِلَآءُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ تَهْمِ مَنَافِقِ يَهُودِ مُسْلِمَانِ سَيْتِ مَلَاقَاتِ اَسِ كِرَانِ تَهْمُنِ اَسِ وَنَانَ اَسَه تَه اُونِ اِيْمَانِ  
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُجَاحِدُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
تَهْمُهُ پَتِيَه يَلِيَه تَهْمُو مَنَافِقِ يَهُودِ وَاَنْدَرُهُ بَعْضُهُ بَيْنِ خَالِصِ يَهُودِ نَشْ وَاتَانِ اَسِ تَهْمُنِ اَسِ دِيَانِ اَسِ چَهْمُ تَوَهْمِي  
سَيْتِ تَهْمُنِ تَهْمِ خَالِصِ يَهُودِ اَسْجَه وَنَانَ اَدُهُ كِيَا زَهُ چَهْوَهُ تَهْمُهُ بِيَمِنِ مُسْلِمَانِ تَهْمُهُ بَاوَانِ سَهْمُهُ تَهْمُنِ مَفِيْدِ

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۷﴾ وَ  
 مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا  
 يُظُنُّونَ ﴿۴۸﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ  
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا

مطلب چہ آسان یہ کہہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ نغمہ ظاہر بہ منکشف چہ کر مرثہ توراتس اندر۔ اس چہ  
 تمہ کہہ مصلحتا پوشیدہ تھاوان تہہ چہوہ تمہہ کہہ نتر او ان۔ امیک نتیجہ چہو کہ پگاہ قیامتک دودہ خدا ایس  
 بروٹھہ کنہ کر نوہ تم توہمہ لاجواب یہ کہہ چھنا توہمہ فکرہ تران۔ اَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ  
 وَمَا يُعْلِنُونَ کیاہ تمہن چہنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ چہو نہ سوڑی زانان یہ تم پوشیدہ تھاوان چہہ۔ یہہ نہ  
 سوڑی یہ تم نزادوان چہہ سو چہو با ایمان تہنزہ سہمہ سارے کہہہ باوان۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ عام یہودن  
 ہند حال ظاہر کران وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ سہمہو سوڈو اندر  
 چہہ اکثر ناخواندہ تہ ان پد۔ تمہن چہہ خبری توراتس منز کیاہ چہو لیکھتہ۔ مگر زانن تم دلس خوش کرہ  
 ونہ کینہہ ایزہ کہتہ یہہ تمہو بوزمرہ چہہ پنہ نین غیر متدین عالمن نغمہ۔ مثلاً جنٹس منزواتن نہ یہودن  
 وراہ کا نہہ تہہ بیہ گرہ ناون تہہ مال ہڈبب تمہن ساری گونہن بخشائیش۔ سہم آس تہہہ خیالات باکل  
 بے دلیل تہہ بے سند۔ تمہہہ فی الحقیقت کینہہ تہہ زانان بل چہہ تم خیالی پلا ورتان۔ عوامن ہنزہ امہ تو  
 ہمہ پرستی ہند سبب چہو تہہہ ن علماء ان ہنز خیانت قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لہذا کہہہ ہڈہ خرابی تہہ بر باد ی ویل تہہ افسوس تمہن  
 عالمن ہندہ خیترہ ہم لیکھان چہہ کتاب یعنی توریث اورک یور تہہ اول بدل کر تہہ۔ بیہ چہہس جملہ ناوان  
 پنہ طرفہ تہہ یہ خوش چہہ کہہ کران تہہ تو پتہ چہہ ونان لوکن یہ چہو خدا یہ سہہ طرفہ چہہہ تمہہ سیت تم  
 حاصل کران تہہ زمین تمہن نغمہ مولاہ تہہ قیمتہ سٹھاہ کم قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذُ ثُمَّ عِنْدَ  
 اللَّهُ عَهْدًا ۖ قُلْنَ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا  
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۲﴾ وَالَّذِينَ

يَكْسِبُونَ نہیں چھو تہمہرہ خیطرہ بوڈوئل تہ افسوس تمہ سببہ یہ تمویلوکھہ پنہ نیواتھو تغیر و تبدیل کر تھہ۔  
 بیہ چھو تہمدی خیطرہ وویل تہ افسوس تمہ موکھہ یہ تم امہ سیت زینان تہ حاصل کران آس۔ یود آس  
 دعویٰ کران کہ دین موسوی چھونہ منسوخ نہ دین عیسوی سیت نہ دین اسلامہ سیت لہذا چھہ تم  
 بدستور مومن حضرت عیسیٰ سندس نبوتس یا حضرت محمد ﷺ سندس نبوتس انکار کرنہ سیت۔ تم کافر  
 چھنہ وون ہر گاہ تم بعضی گنہو سببہ جہنم منزواتن تہ آسہ کم کینہہ مدتہ خیطرہ۔ تو پتہ یین تم تمہ منزہ  
 کڈنہ یہ اوس یہودن ہند خیال۔ اتھہ خیالس تہمدس چھو اللہ تعالیٰ رد کران وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا  
 أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ ونان آس یہود پنہ خیالہ کہ اسہ لاکہ نہ نار جہنم اتھہ تہ مگر کینہونے ددہن زیادہ خوتہ  
 زیادہ تین دوہن اتین دوہن تہمد یو آباؤ اجدادو گو سالہ پرستی یعنی وژہ سنز عبادتھہ کر مژ چھہ  
 قُلْ أَتَّخَذُ ثُمَّ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ۖ قُلْنَ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ جہہ فرما  
 ویو کہ حض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودو جہہ چھوہ اتھہ متعلق اللہ تعالیٰ اس نغیرہ کا نہہ تہتھہ  
 عمدہ روٹتہ تہ حاصل کورمت تہتھہ نہ سو خلاف بیجہ کر تھہ۔ کنہ جہہ چھوہ خدا یس نسبت سو تھہ لاگان  
 صحیح نہ تو بہہ نش کا نہہ دلیلہ تہ ثبوتہ چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ ضابطہ اکھ سیمہ سیت یم  
 لو کہ نارس اندر ابدال آباد روزہ وون آس بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ یہ تھہ چھنہ ہر گز صحیح یہ جہہ و نان چھوہ بلکہ چھو اسہ نشہ نارس اندر ہمیشہ  
 روزنہ خیطرہ اکھ ضابطہ تہ قاعدہ کلیہ مقررہ۔ سو گواہی زہہ بس شخصہہ گناہ کرہ تو پتہ یین ولنہ تس پن گناہ  
 پر ہتھہ طرفہ۔ کا نہہ طرفہ آسین نہ خالی گنہو نشہ تا اینکہ دل آسین خالی ایمانہ تہ تصدیقہ نشہ یعنی بے

امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
 حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
 تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۳﴾

ایمان نہ کافر آسہ جس تھی قسمک لوکھ چھ نار جہنم اندروانہ ون۔ تم روزن تھہ منز ہمیشہ لہذا آباد  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دون سمولو کو پڑھ کر  
 خدا ایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کرکھ ہندی حکمہ موجب رزہ رزہ کامہ امی قسمک لوکھ چھ جنتی تھے  
 روزن اتھہ منز ہمیشہ لہذا آباد۔ لہذا امہ قاعدہ کلیہ سیت سپردو۔ یہودن ہندس باطل دعویٰ اس لیس تمو  
 کریاو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بیہ پاوڑتس سو وقت یلہ مہ  
 تورا تس اندر بنی اسرائیلن نشہ عمد و پیمان روٹ۔ تھہ تھہ پیٹھہ کہ عبادت نہ بندگی کرزنہ معبود برحقس  
 وراکی کانہہ ہنز۔ کیا زہ سنی یوت چھو عبادتس سزاوار ویا لوالدین احسانا و ذی القربى  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیہ کرہ ناو تم اسہ عمد ماس ماجہ کرزہ آشدان  
 نہ رشتہ وارن نسبت احسان بیہ کرزہ مسکین غریبن محتاجن نسبت احسان بیہ آسزہ عام لوکن سیت  
 رت پاتھ خوش خلقی سان تھہ کران وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بیہ تھاو نماز برپا۔  
 پابندی سان آسو نمازاداکران۔ بیہ آسو ماچ زکوٰۃ دووان ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ  
 وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ تو پتہ پھیردہ تھہ امہ عمدہ نغیر عمد شکنی کرہ توہہ کیشن لوکن ورا ی تم گئے  
 تھے یمو تورا تس پیٹھہ پورا پابند روز تھہ شریعت محمدیہ قبول کور۔ اے یہود و جہنم عادتھے چھو عمد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ  
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۲﴾  
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ  
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

کرن۔ اقرار کرتے ہوئے پھر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ پاؤں سو وقت سے زلزلے میں اسے توبہ نشہ عمد روٹ سے کہتے ہند کہ تمہیں تہہ خانہ جنگی کرتے تھے اگہ اک سُد خون ہارو۔ یہ تمہیں کڈیو کہہ پن پان یعنی پانہ وان لو کہہ پنہ نیو شہر واندرہ تو پتہ کورہ توبہ اتھ پیٹھ پورا اقرار ضمنی اقرار نہ بلکہ صریح اقرار زن تہہ صحیح شہادت سے گواہی دو ان چھوہ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تو پتہ تم تہہ موجودہ و قس منز بہود چھوہ تہہ سے چھوہ تھہ صریح عمدہ پیلنس خلاف کرتے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پانہ وان چھوہ قتل و قال کر ان یہ بھون پن اکھ جماعت تہند یو شہر واندرہ نیر کڈان ترک و طن کر نس پیٹھ چھو کہہ تم مجبور کر ان یمہ طریقہ کہ تہند پن مخالفن گناہہ سیت سے ظلمہ سیت۔ اتھ متعلق آس تم پن پیٹھ ترہ حکم واجب سپد مت اکھ حکم اوسکھ پانہ وان مہ آسو قتل و قال کر ان بیا کہہ حکم اوسکھ لو کہہ مہ آسیو کہ شہرہ منزہ نیر کڈان جلاء و طن کر ان ترمیم حکم اوسکھ کہ ہر گاہ تہہ پنہ قوم منزہ کانہہ شخصہ بین نشہ گرفتار کرنہ اُمت و چھون سو آسزن ہارہ و تھہ موکلا و تھہ اناں۔ سَمَوْتُرِيُو حَمُو منزہ آس نہ تم دون حکمن پیٹھ کانہہ عمل کر ان صرف آس ترمیس حکمس پیٹھ عمل کر ان۔ صحیح صورتھ آس تھہ پانہ کہ مدینہ شریفنس منزہ آس کافرن ہند زہ قبیلہ اکھ اوس سے بیا کہ خُزْرَجِ تَمَن دُون اوس سخت عداوت کجہ کجہ وقتہ آس تہن جنگ و جدال و قتل و قتل و قتل نوبت و اتان۔ مدینہ شریفنس لہد پک آس بہودن ہند سے زہ قوم بسان بنی قریظہ و بنی نصیر۔ اوس سے بنی قریظہ آس پانہ وان دوست۔ تھہ پانہ آس خزرج سے بنی النصیر پانہ وان اکھ اسد دوست۔ یلہ کافرن ہند پن دون قبیلن



يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ  
أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

اوس بن خزر جن پانہ وان لڑائی و تھان آس یسودن ہندزہ قبیلہ بنی قریظہ بنی النخیر آس تمہ ساتہ پنہ  
نین پنہ نین دوستن مدد کران۔ بنی قریظہ آس قبیلہ اوس مدد کران بنی النخیر آس قبیلہ خزر جس مدد  
کران۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ بنی قریظہ قتل و اخراج کران پیوان بنی النخیر س پیٹھہ۔ بنی النخیر کہ قتل  
و اخراج کران پیوان بنی قریظہ س پیٹھہ۔ البتہ ہر گاہ یسودن ہندیو سمودوشوی جماعتو اندرہ کانہہ  
شخصہہ جنگس اندرہ گرفتار سپدہ ہاتمہ ساتہ آس یہودی پنہ نین دوستن مال دتھہ راضی کران تس گرفتار۔  
سپد قس شخصس آس موکلاوتھہ انان۔ ہر گاہ کانہہ شخصہہ تمن اتھہ متعلق اعتراض کرہ ہاتس آس وانان  
کہ اسہ پیٹھہ چھو قیدی رہا کرہ ناون واجب۔ ہر گاہ کانہہ شخصہہ اعتراض اوس تمن کران کہ قتل و  
اخراج تے توبہ ناجاز اوس جہہ کیازہ چھوہ یمن دون چیزن اندر پہلو تہی کران دیان آس اسہ چھو پنہ  
نین دوستن اعانت و مدد کرنس پیٹھہ عاریوان۔ اللہ تعالیٰ چھو یمن یسودن ہنزاچی شکایت کران۔ پنہ  
نین لوکن مقابلہ تھندین دشمن مدد کرنہ اندرہ چھو مراد قبیلہ اوس و خزر جن۔ اللہ تعالیٰ ان فرمو گناہ و  
ظلمہ سیت آس تمن امداد کران۔ لمہ اندرہ چھو مراد کہ تم آس لمہ سیت زہ حق ضائع کران۔ اکھ خدایہ  
سند حق۔ کیازہ تھندس کھمس آس نہ تعمیل کران۔ بیہ اوس حق العبادتہ ضائع کران۔ کیازہ یمن آزار  
وانتہ ناوان۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **وَإِنْ يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ**  
بیہ ہر گہ تمو لو کو اندرہ کیہ نہ لوکھ لڑایہ اندرہ گرفتار سپد تھہ توبہیہ نش و اتان چھہ تم چھو کھ مال وندیہ دتھہ  
موکلاوان حالانکہ تم پنہ وطنہ منزہ کڈن تہ اوس توبہ پیٹھہ حرام۔ تھہ پاٹھہ تم قتل کرن تہ اوس تہہ  
پیٹھہ حرام مگر تمن دون کھن ہند چھنہ کانہہ پرواہ کران ترسمہ کتھہ ہند یعنی ندیہ دتھہ قید موکلاوتھہ انہ  
نک چھوہ خیال کران **أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** لمہ اندرہ چھو ننان کہ تہہ چھوہ  
تورانہ کین اڈین کھن پڑھہ کران اڈین کھن انکار کران۔ **فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ**  
**فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** پس و نتو تھی کہ بس شخص توبہ اندر امہ کج کام کرہ تس ماشوبہ سزاؤ نیاچہ خواری تہ  
رسوائی و رای کنبہ تہ۔ چنانچہ تی آو بمعمل بنی قریظہ آس قتل کرنہ۔ بنی النخیر آسے کبمال خواری جلا و وطن

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرِيُّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
 تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَ  
 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ نَذِ

کرنہ مسلمان ہندہ ذریعہ و یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب امہ علاوہ گوکھ کہ تہ من قیامتہ دوہنہ  
 بیہ تراونہ سخت عذاب اندر و ما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ جہنہ کیہنہ بیخبر تہنہ و پچھہ کامیو  
 نشہ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ  
 امہ سزاک وجہ چھوای زہ تم لوکھہ جہہ تہ سمسو سائین حکمن ہنز مخالفت کرتھہ مول ہنزہ دنیاچ حقیر  
 زندگی آخرتچہ پائیدار زندگی بدل سیمک ذریعہ اطاعت و فرمانبرداری اوس۔ پس بیہ نہ کم کرنہ تہندس  
 عذاب اندر۔ نہ بیہ تمن کانسہ وکیلہ سدہ طرفہ یادوست رشتہ دارہ سدہ طرفہ کئہ قسمہ مددنیاری کرنہ  
 وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ بیہ کراسہ اے بنی اسرائیلو جہندہ ہدایتہ  
 خیطرہ بروٹھہ پیٹھہ بندہ بڑ سامانہ مہیا۔ ساروی بروٹھہ کراسہ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریث عطا۔  
 تمن پتہ سوزاسہ اکھ اگس پتہ بیہ پیغمبر۔ تم گئے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام۔  
 حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ارینا  
 علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔  
 حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ  
 السلام۔ تم ساری پیغمبر آس لوکن نادووان دین موسولیس کن وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ  
 وَ آتَيْنَاهُ بُرُوجَ الْقُدُسِ امہ خاندانہ کس اخیرس کوراسہ عطا حضرت عیسیٰ ابن مرتمس نبوتچہ واضح  
 دلیلہ انجیل تہ بے بے معجزات۔ بیہ کوراسہ تمن تائید پاک رُوح یعنی جبریل امینہ سدہ سیت۔ سُو

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط  
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ  
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۵﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط  
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

جبریل امین اوس پر تھہ وقتہ تمن سیت سیت آسان باوجود آل زودوہ تہہ سرکشی کران **أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ** کیا یہ پھنا سچ کتھہ کہ یلہ یلہ کا نہہ پیغمبر اہ توہہ نشہ آو تم احکام پیٹھہ تم نہ تہند دل یرھان آس تمی کوروہ توہہ تمن پیغمبرن ہنز اطاعت قبول کرنہ نشہ تبکر کران شروع **فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ** توے آسوہ تمو پیغمبر واندرہ اڈین پیغمبرن نعوذ باللہ اپزیر زانان۔ اڈ پیغمبر کروکھ شہید۔ رُوح القدس چھوونہ آمت قرآن وحدیث شریفس منز اکثر جبریل امینس۔ جبریل امینہ سُنْد موید اَسُن حضرت عیسیٰ علیہ السلامن چھووار یسوطریقو۔ اول ولادتکہ وقتہ یمہ سیت تمن شیطانہ سندہ اتھہ لاگنہ نشہ حفاظت سہنز۔ دو تم دیت جبریل امینن حضرت مرتس پھوکھ۔ تمی سیت سہد استقرار حمل عیسوی تہند س شکم مبارکس اندر تو پتہ آس یسود بکثرت تہند ڈشمن۔ جبریل امین اوس تمن سیت سیت حفاظتہ خیطرہ چنانچہ بالآخر آی تم آسانس پیٹھہ کھارنہ بذریعہ جبریل امین یسود وکور حضرت عیسیٰ سندس نبوتس انکار۔ بیہ کرکھ حضرت سحلی بیہ حضرت ذکریا شہید **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ** بیہ ہمدہ وان یسود تھکنہ پاٹھہ کہ سان دل چھہ تھہ محفوظ کہ تمن پیٹھہ ہکنہ مخالفت کانہہ دین اثری کتر تھہ۔ یعنی آس چھہ پنہ نس دینس پیٹھہ پننتہ تہ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ چھو تہندس یہ کتھہ ونہ نس رد کران۔ فرماوان چھو یہ بہنز پوختہ گی دینس پیٹھہ چھنہ۔ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تمن لعنت کر مژ تہندہ کفرہ سببہ تمی چھہ تم دین حقہ اسلامہ نشہ دور نزلان تہ منسوخ دینس پیٹھہ قائم روزان پس سیٹھاہ کم چھو تہند ایمان سؤ کم ایمان قابل قبول ہکنہ آتھہ لہذا چھہ تم بدستور کافر **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ**

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ  
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا  
 جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۵﴾  
 بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْثًا  
 أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

تو پتہ یلہ تم نل سولکتاب واخر دایہ سده طرفہ یوسہ کتاب تھے کتابہ یہ آس تصدیق کران یوسہ  
 بروٹھے تم نل آس یعنی تورایت وکانوا من قبل یستفتیحون علی الذین کفروا حالانکہ تم آس  
 امہ بروٹھے فتح و نصرت میگان خدا یس کافرن یہ عربہ کین مشرکین پٹھے۔ یلہ تم یمن پٹھے غالب  
 سپدان آس۔ چنانچہ تمہ وقتہ آس دعا کران اللہم ابعت هذا النبى الذى نحدہ مکتوباً فی التوراة  
 عندنا حتى نعدب المشرکین ونقاتلہم یعنی یا اللہ سوزن یہ پیغمبر بے سہ نعت یہ صفت چھہ آس  
 پران تورائس اندر۔ تاکہ تم سیت اتفاق کر تھے کہہ ہو آس یکہ وہ کافرن سیت جنگ۔ اللہ تعالیٰ چھو  
 فرماوان فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بہ پس یلہ آو تم نل سوا صاحب یس تم پرزہ ناوان آس  
 صفیو سیت تس صاحبس کورکھ انکار عمد او قصد کیا زہ کہہ اوس سمن پیغمبر انکار کران عاد تھی۔ دو سہم  
 اوس سمن گمانہ کہ پیغمبر آخر الزمان آسہ بنی اسرائیل قومہ منزہ۔ خدا یں کور یہ ہندس خیالس بدل۔ تمی  
 گو یمن آس پیغمبر برحقہ سہ حسدہ عناد فلعنة اللہ علی الکفرین پس لعنت بو یں یمن کافرن یعنی  
 یہودن پٹھے یہو پزس انکار کور دیدہ و دانستہ بسمها اشتروا به انفسهم ان یکفروا بها انزل اللہ بعتیا  
 ان یُنزل اللہ من فضله علی من یشاء من عبادہ سوا حالت چھہ سیٹھاہ خراب یہ تھچہ یوسہ سہو  
 اختیار کر تھے پتہ گمانہ پنہ نین پان تم آخر چھہ عذابہ نشہ موکلاون یٹھان چھو۔ سہ حالت گہ کفر و انکار  
 کرن تھچہ چیزس بس اللہ تعالیٰ ان آس پیغمبر برحقس پٹھے نازل فرمو یعنی قرآن مجید۔ سوا انکار یہ  
 چھہ کران تم محض سرکش یہ ضد کر چھہ سببہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو نازل کران پن فضل پنہ نیو بند

فَبَاءٌ وَيَعْصِبُ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۙ ۹۰ ۖ وَإِذْ أُقْبِلَ لَهُمُ الْمَوْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۙ ۹۱ ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

واندرہ بس بندس پٹھہ یرھان چھو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ حسد و سرکشی سببہ فَبَاءٌ وَيَعْصِبُ عَلَى غَضَبٍ پس آے زیتھہ یم یہود اکس بیزاری پٹھہ بیاکھ بیزاری۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنہ سببہ اکھ بیزاری۔ انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنہ سببہ بیاکھ بیزاری یا کفرہ سببہ اکھ بیزاری حسدہ سببہ بیاکھ بیزاری وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ یمن کافر ان آسہ آخرتس اندر سومی عذاب یتھہ اندر ذلت نہ خواری آسہ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یمن یہودن ہندہ کفر حسد چ دلیل۔ وَإِذْ أُقْبِلَ لَهُمُ الْمَوْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ یلہ تم یہودن و نہ چھو یوان کہ تہہ انو ایمان تمن ساری کتابن پٹھہ یسہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان نازل کرہ وار یمن پیغمبرن پٹھہ تمہہ سائہ چھہ دپان اس کرو پڑھہ تھہ کتابہ یوسہ اسہ پٹھہ بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل کرنہ آیہ یعنی تورایت تمہہ علاوہ، ہمہ کتابہ چھہ تمن چھہ کران انکار۔ یعنی انجیلس نہ قرآن مجیدس۔ تمن دوشون چھہ کران تم انکار و ہُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ حالانکہ تمہہ کتابہ نہ چھہ در ذات خود پڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر مرثہ۔ تمہہ علاوہ چھہ تمہہ دوشوے کتابہ تصدیق کران تھہ کتابہ یوسہ تمن نشہ چھہ یعنی توراتس قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۙ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ تلہ کیاہہ آسوکھ تہہ قتل کران خدایہ سد پیغمبراز کہ بروٹھہ ہر گاہ تہہ توراتس ایمان اندہ ون نہ پڑھہ کرہ ون آسوسہ لہذا چھہ تہہ س کافر آسوس اندر شکی کانہہ۔ تمہہ علاوہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ

مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ  
ظَالِمُونَ ﴿۹۱﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ  
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا  
وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ  
قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ آيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۲﴾

بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیه آویشک توبہ نش حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید و رسالت صحیحہ صاف صاف  
دلایلہ بیٹھے۔ سوگو عصا۔ ید بیضا۔ دریاوس شق کر تھے اُپور ترن۔ تم معجزات آس تہندس نبی برحق  
آس پٹھے دلالت کران۔ مگر توتہ زُون توبہ گو سالہ یعنی ووژھ سونہ سُنہ پُن معبود حضرت موسیٰ  
سندہ کوہ طورس پٹھے گشہنہ پتہ آسوہ تہہ ووژھ معبود تجویز کرنس اندر ظلم و ستم کرہون تہہ چھوہ دعویٰ  
کران تور اتس پٹھے ایمانک مگر یہ کام پٹھے صریح شرک سمعہ سیت لازم چھو یوان بصراحت حضرت  
موسیٰ اس تکذیب کرن۔ لہذا تھہ پاٹھ ہکن تم با ایمان آتھہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا  
فَوْقَكُمُ الطُّورَ بیه چھو سو وقت تہ ژیتس پاونس لایق یلہ اسہ توبہ نشہ عمد و پیمان رٹھہ کوہ طور  
تجووسی تھاو یواسہ تہندس کلن پٹھے ہکن۔ تو پتہ فرماو یواسہ توبہ حکم۔ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ جلد  
کمز و قبول تور اتک تم احکام تم اسہ توبہ دت عمل کرنہ خیطرہ ہمت و چنگلی سان تہ تراو و آس یہ کوہ  
طور توبہ پٹھے وَاسْمِعُوا بیه بوزوا حکام وارہ دلو سیت۔ تمہ پتہ کور تم کوہ طورہ پٹھے پنہ کہہ خوفہ قالوا  
سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا دؤ پٹھے بوزاسہ قبول کورنہ اسہ۔ بوزاسہ کتو سیت مگر عملا کرو اس نافرمانی۔ امہ  
تہنہزہ بد عملی ہندو جہ اوس کہ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ تہند دل آس چاونہ آمت و ژھہ سُنہ  
تہ و ژھس پرستش کرنک حجت بِكُفْرِهِمْ تہندہ برو ٹھمہ کُفرہ سب۔ یلہ تمہودریا وہ غیرہ عبور کر تھہ اُپور  
واتھہ آکھ بت پرست قوم و چھتھہ درخواست کور حضرت موسیٰ اس اجْعَلْ لَنَا آيَاتًا كَمَا آتَيْتَنَا بِالْحَقِّ  
سانہ خیطرہ کریون حض مقرر آکھ جسم معبودہ اتھہ پاٹھہ یمن لوکن چھہ قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾ وَ لَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾ وَ لَتَجِدَنَّاهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

ایماناً کہہ اگر تم مومنین تھے فرماؤ تمکن یہودن تمکن ایمانک دعویٰ چھو اے یہود و چھو تہمتہ تہمتہ ایمان کہہ کہہ کفر چہ کلمہ چھو ہتہہ کہہ ناومت تمہہ کلمہ کاڑا ہتہہ چھہ۔ تمکن کا میں ہند تجویز تو بہہ کورمت چھو تہمتہ ایمان اگر تہہہ پنہ خیالہ با ایمان چھوہ۔ بعض یہود آس دعویٰ کران زہ آخرتہ نمزہ چھہ خالص سانی خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ تہمتہ یہ دعویٰ چھو باطل۔ فرمودن قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے پیغمبر برحق تہہہ فرماؤ تمکن یہودن ہر گاہ تہمتہ ہونہ موجب عالم آخرت محض تہمتہ خیطرہ خاص چھو بیولوگو و رای پس کر تو تہہہ موٹک تمنا چھوے پزیرا تہمتہ دعویٰ اس اندر۔ اس چھہ سنی و نان کہہ وَ لَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ تم یہ دعویٰ کہہ ون یہود کرن نہ ہرگز موٹک تمنا کیا زہ تم چھہ خبری تم چھہ کا میں ہند سزا چھو تم ضرور کھیون۔ لہذا تہمتہ پاٹھہ کرن تم موٹک تمنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر تم ظالمین ہندین حالاتن ہنز وَ لَتَجِدَنَّاهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ تم لو کہہ کیاہ کرن موٹک تمنا البتہ لبیو کہہ تم ساروی لو کو اندرہ پزیرا حریص زندگی پیٹھہ و من الَّذِينَ أَشْرَكُوا بیہ لبیو کہہ تہہہ تم مشرکن ہندہ کھو نہ زیادہ طامع نہ حریص زندگی ہند۔ یَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ آرزو نہ خواہش چھو کران تمواندرہ پر ہتہہ اکھاہ ہر گے تس و انس نہ عمریہ ہس ونہ اکھ ساس ورہ تمہہ سیت چہ ہاسو عذابہ نشہہ وَ مَا هُوَ بِمُزْحَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ حالانکہ تس بیحہ نہ عذاب نشہہ دور تھاوتھہ نہ بجاوتھہ زہتھہ عمر حاصل سپدن وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ

وَمَا هُوَ بِزَحْرَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَكِرُوا اللَّهَ بِصِيرِيهَا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ  
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى  
 وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ  
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾

چھو پورو چھن دول تهنرہ سارے پیچھ کامہ تمئن پیٹھہ تمن عذاب کرنہ بیہ۔ یہود آس وانان کہ جبریل امین چھو وحی بیتھہ یوان بنی کر تمس نشیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو سون دشمن ہر گاہ آس ور اکی بیہ کانہ ملکہا وحی بیتھہ یوان آسہ ہاتلہ انہ ہو اس تہ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو تمن رد کران فرماوان چھو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فرماو وحض یمن یار رسول اللہ لیس اکھاہ جبریل امین سندن دشمن آسہ آستن۔ اتھہ تھہ چھنہ کانہہ دخل قرآن مجید نہ مانہ نس سیت کیا زہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ پس بیشک جبریل امین وول یہ قرآن مجید تہ واتون تھنہ س دلس اندر خدایہ سندی حکمہ۔ اتھہ منز چھنہ جبریل امینہ سندن کانہہ دخل۔ تمہ علاوہ چھو یہ قرآن مجید مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کران تمن آسمانی کتابن تمہ امہ بروٹھہ نازل سپز مژہ چھہ۔ اتھہ ونس کن کیاہ چھو وچھن پانہ قرآن مجید س کن پزہ وچھن تہ حقیقت چھہ کہ سو چھو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ رہنمائی کرہ ون ضروری مصلحتن کن ستمو سیت خیر دارین حاصل سپدہ بیہ چھو سو خوشخبری دودہ ون باایمان۔ آسمانی کتابن ہنز چھہ شان بیہ آسان۔ ہر حال یہ قرآن مجید چھہ آسمانی کتاب قابل اتباع و پیروی جبریل امینہ سندن عداوتہ سببہ یہ قرآن مجید نہ مانن گیہ سخت حماقت پس رود جبریل امینہ سندن عداوتک مسئلہ تھہ متعلق چھو قانون کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ لیس شخصہہ دشمن آسہ خدایہ سندن بیہ تھنہ یں ملائکن ہند بیہ تھنہ یں پیغمبرن ہند بیہ جبریل امینہ سندن بیہ میکا مکہ سندن آدہ آستن پس پز پانھہ اللہ تعالیٰ تہ چھو دشمن چھن کافرن



وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا  
 الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ ابْتَدَأَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

ہند سم تہندین سخن خاص ہند ہند دشمن آسن یہود آس وان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم توہم پٹھہ کونہ چھہ تڑھہ کانہہ واضح دلیلہ نازل سپدان سچ آسہ کانہہ زان پچھان آسہ ہا تمحسی  
 جو اہل اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ ہمہ دلیلہ ہنز کیاہ کھی چھہ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا  
 يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ بیٹک آسہ کرہ نازل توہم پیٹھہ یار رسول اللہ واریاہ واضح دلیلہ بین دلیلن  
 ہنز بین یہودن پور خبر چھہ۔ مگر تم چھہ تمن دلیلن انکار کران بے خبری سبب۔ بلکہ چھہ ہم انکار کران  
 عدول کھی ہند عادت آسہ سبب کیاہ قاعدہ گلیہ چھو کہ انکار چھونہ کران واضح دلیلن مگر سوئی نیس  
 عدول کھی ہند عادت آسہ تھے گئے فاسق۔ بعضے یہودن یلہ سو عمد ژٹس آو پاونہ نیس عمد تمن نشہ  
 ہینہ اوس آمت توراتس اندر پیغمبر آخر الزمانس پیٹھہ ایمان اندہ نیس تہ پڑھہ کرہ نیس متعلق۔ تمہو کرو تھہ  
 عمدہ سی کیفیتہ انکار۔ لہہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ اتھہ متعلق ارشاد فرماوان أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ ابْتَدَأَ  
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ یہ عمد ہمیں چھا تمن انکار۔ ہنز حالت چھہ ہمہ سچ  
 کہ تمہو چھونہ تسلیم کرنہ آمت عمد زاتہ پورہ کورمت۔ بلکہ یلہ یلہ سو عمد نیس متعلق کانہہ عمد کورمت  
 چھو سو چھو ضرور تمہو آندرہ اک جماعتن چھہ رودمت۔ بلکہ تعمیل و ایفای عمد نہ کرہ و آندرہ نیر اکثر تھے  
 بین نہ تمہہ عمدک یقینی چھو تعمیل و ایفای عمد نہ کرن اوس فسقی۔ مگر تھہ عمدس کلہ پٹھے انکار کرن  
 گو صریح کفر یتس فرمو کہ کہ اکی جماعتن یہود و آندرہ چھہ رود سو عمد۔ کیاہ بعضے یہود رود قائم تھہ  
 عمدس پیٹھہ بدستور۔ چنانچہ تمہو اوان ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ فرماوان تہندہ ہمہ خاص عمد شکنی ہنز ذکر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

الْكِتَابُ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾  
 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۗ وَمَا  
 كَفَرَ سُلَيْمٌ ۗ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا ۗ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  
 السِّحْرَ ۗ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

بِنَدَىٰ فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ بِهِ يَلْمِزُ آوْتَمَنُ  
 عَنْ اَكه عظیم الشان سے جلیل القدر پیغمبرِ خدا یہ سبہ طرفہ یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اُس صاحب پیغمبر برحق آتھہ تصدیق سے کران اوس تھہ کتابہ یوسہ تمن نش موجود آس یعنی توراتس  
 کیا زہ تھہ کتابہ منز آس تہمدہ نبوتِ خبر۔ تھہ عن نظر کر تھہ اوس تمن نسبت ایمان ان سے پڑھ کران عین  
 توراتس پیٹھہ عمل کران۔ توراہجہ کتاب اللہ آس آس تم سے پڑھ کران۔ تھہ آس تم خدایہ سنز  
 کتاب مانان سے تسلیم کران مگر باوجود اکل تر و اہل بتاؤ یعنی یہود و اندرہ اک جماعتن یہ کتاب اللہ یعنی  
 توریت پس پشت تھہ پاٹھہ کہ زن نہ تمن امہ کتاب اللہ آج خبری آس تمہ بدل کوزکہ بیاکھ چیزہ  
 اختیار وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۗ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ ۗ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا  
 يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ سمہ آیہ کہ سمہ ترجمہ و تشریح بیان کرنے بردنٹھہ یوزدنتھہ یہ کتھہ کہ  
 بردنٹھہ وقتہ اوس دنیاس اندر خاص کر تھہ شہر بابلس اندر سحرک سے جاڈیک سیٹھہ زور و شور سے چرچہ  
 جادک سے سحرک عجائبات و جھتھہ اوس جاہل لوکن اشتباہ سے ترڈسپدمت کہ حضرت انبیائے ہندین  
 معجزاتن ہنز حقیقت سے ما آسہ امی کج چنانچہ بعضی ساحرن آس لوکھ مقدس نظرہ و جھتھہ واجب  
 الاتباع زانان بیہ آس بعضی لوکھ سحرس رزکام زانتھہ سو پچھہ نچ کوشش کر تھہ تھہ پیٹھہ عمل کران  
 یرشہان۔ اللہ تعالیٰ ان یوٹھہ یہ غلط خیال گوٹھہ لوکن نشہ دور سپدن۔ تم سوز شہر بابلس اندر زہ ملک  
 آکس اوس نادہاروت بیس اوس ناداروت کی کامہ خیطرہ کہ تم تارن لوکن فکرہ سحر ج حقیقت تائیجہ تم  
 روزن سحرس پیٹھہ عمل کرنے نشہ تھہ بیہ گزان نہ سائرن ہنز پیر وی سے متابعت اللہ تعالیٰ تھو فرماوان

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

کہ بیہ چہجہ یہود تمہے بے عقل کہ تمہو کرنے خدا یہ سزہ کتابہ ہنز متابعت بلکہ کر تمہو متابعت تمہہ سحرچ سمیک چرچہ کران آس شیطان یعنی خبیث جن حضرت سلیمان سدس عمد حکومت اندر بیہ آس بعضے بیوقوف حضرت سلیمان پٹھہ سحر زانہ نگ خیال کران بس محض غلطی لغو اوس کیا زہ سحرک اعتقاد تھاوان یا تمہہ پٹھہ عمل کرن پٹھہ بالکل ٹھہ حضرت سلیمان علیہ السلام پٹھہ زانہ تہ ثعود باللہ سحرچ کانہہ کو ماہ کر مژ لیکن شیطان یعنی خبیث جن آس بے شک ٹھہ چرچہ تمہہ ، کفر چہ کامہ یعنی سحر کران۔ پانہ سو کو مہ کر تھہ آس لوکن تہ سحر پٹھہ ناوان سوی سحر و تاز تام۔ تمی سحرچ چہ تمہہ ہم یہود پیروی کران وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَيِّنَاتٍ هَادِيَاتٍ وَمُلَوَّاتٍ بیہ چہ ہم یہود تمہہ سحرچ پیروی کران بس سحر دون ملکن پٹھہ نازل کرنہ اول کتبہ خاص حمیتہ موکھ یم شہر بابل اندر روزان آس یمن دون ملکن ناوانس ہاروت و ماروت وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ تم زہ ملک آس نہ سحر پٹھہ ناوان کانہہ آگس یوت تان نہ احتیاطا گوڈہ تس و نان آس سون وجود تہ پٹھہ مخلوق ہندہ خاطرہ آزمائش تہ امتحان خدا یہ سدہ طرفہ پٹھہ لوکن متعلق سائہ ذریعہ سحرس پٹھہ مطلع پدیدت ظاہر پدیدہ کہ سہ پٹھہ تمہہ اندر پٹھہ گمراہ سپدان۔ سہہ پٹھہ ہن پان بجاوان۔ لہذا اتھنہ ژہ سحرس پٹھہ مطلع پدیدتہ کافر سپد کہ یعنی سحرس اندر پٹھہ سمکھ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ پس آس بعضی لوکہ پٹھہ تان ملکن نشہ تمہہ قسمک سحریمہ سیت تم دون باژن اندر جدائی کران آس وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یم ساجر آس نہ ہیکان کانہہ آگس گنہ قسمہ ضرر و اتاوتھ امہ سحرہ سیت مگر خدا یہ سندی حکم تقدیرہ سیت۔ یعنی سمسدہ حقہ تم کانہہ ضرر تکلیفہ

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ تَبَوَّأَتْ لِمَنْ  
 مَاشَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

یہ دھت آسہ ہا۔ وَيَتَعَلَّبُونَ مَا بَدَّلُوا وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ بے آس پھنجان تم تمہ قسمک سحر نیس تمن  
 گناہ آسنہ موکھ مفر اوس۔ بے اوسنہ تہدہ خیطرہ کانہہ خاص نفع واتاودن چیزاہ۔ تم یہود چھہ تھہ  
 سحرس متابعت کر تھہ سخت نقصانس نہ ضررس اندر گرفتار۔ یہ تھہ چھہ آس یوت دان۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
 لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ بلکہ یہ تحقیق تم یہود تہ چھہ یہ تھہ ضرور زمانان کہ یس  
 شخص کتاب اللہس بدل سحر چھو اختیار کران تس شخصس چھو نہ آخر تس اندر کانہہ حصہ باقی روزان  
 وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بے کوتاہ تھہ چھو سوجیز یعنی سحر نہ تقر تھہ تمو  
 کن نہ فروخت کر بن پان کاش تے زمان آسن وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بے ہر گاہ تم لوکھ کفرہ نہ سحرہ بدل ایمان انہ بن۔ پر ہیز گاری نہ تقویٰ  
 اختیار کرہ بن تھہ صور تس اندر اوس خدایہ سدا اجر نہ ثواب نہ معاوضہ سیٹھاہ بہتر امہ کفرہ نہ سحرہ نشہ  
 کاش تے کینہہ زمانان آسن۔ بعضی یہود و کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنزہ جلسہ اندر  
 محض شرارت نہ کن لفظ راعنا دن شروع۔ یہ لفظ چھو عربی نہ عبرانی نہ۔ عربی لفظ آتھہ چھو امیک معنی  
 سون کر تو حض رعایت۔ یعنی یہ مضمون نیس تہہ بیان آسہ کران سو فرماؤ تو حض یہ دوبارہ۔ اسہ حض  
 تور نہ یہ وارہ فکرہ عبرانی لفظ آتھہ چھو امیک معنی تھہ نہ خراب۔ تم یہود آس تمی معنیہ تمن برو تھہ  
 کنہ یہ لفظ استعمال کران عبرانی پاٹھہ چھو امہ لفظک معنی اے احمق۔ عرب دان صحابہ صیب آس نہ اتھہ  
 یہودن ہندس شرارتس واقف سپد مت تم نہ آس یہ لفظ امیک زت معنی بوزت استعمال کران۔  
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب کر تھہ یہ لفظ استعمال کران تمہہ سیت آس تمن

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾  
 مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  
 أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

شرارت کرہ نچ بیہ ہن گنجائش تہ موقعہ حاصل سپدان اللہ تعالیٰ ان تھاونہ تمن ان گنجائش عنہ قسمہ  
 باقی۔ تمہو فرمو و مسلمانن یہ لفظ استعمال کرنہ نغیرہ ممانعت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا  
 وَقُولُوا انظُرْنَا اے باایمانو تہمہ مہ آسہو و نان لفظ راعنا بلکہ آسہو و نان یلہ توبہ امہ قسمک  
 مطلب ظاہر کرنچ ضرورت پیوان آسہ انظُرْنَا امہ لفظک معنی تہ چھو سانس حاس کن کر تو ہن نظر۔  
 اسہ نہ حض تور نہ پورہ پاٹھ فکڑہ تہند کلام شریف **وَاسْمَعُوا** بیہ بو زوالے باایمانو وارہ یہ حکم یاد تھو و کہ  
**وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** یمن کافرن ہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب۔ پیغمبر برحق نسبت امہ قسح  
 گستاخی کرن اکھ پانہ بیہ کرہ ناون دو چھہ دتھہ بین لو کن اتھہ تہ امہ قسح گستاخی پنہنہ چالا کی سیت۔ بعضی  
 یہودی آس بعضے مسلمان قسم ہاوتھہ و نان کہ اس چھہ تہند دلی خیرہ خواہ۔ بیہ چھہ آس یرشان کہ تو  
 بہ گتھہ دینی احکام خدایہ سہہ طرفہ سانہ خوتہ رت عنایت سپدن تم احکام آس تہ قبول کر ہو۔ مگر کیاہ  
 بنہ تہند دینی احکام چھنہ سانیو دینی احکامو خوتہ زیادہ رت کینہہ تہ اللہ تعالیٰ چھو بہند س اتھہ خیر خواہی  
 ہندس دعویٰ اس تر دید و تکذیب کران فرماوان چھو **مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا  
 الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ** ہرگز چھونہ پسند کران کافر لوکھہ اہہ تم اہل کتابو  
 اندرہ آستن یا مشرکو اندرہ آستن ہتھہ تھہ کہ تہندس پروردگار سہہ طرفہ کیاہ سپدہ توبہ پیٹھہ نازل  
 کانہہ رت کتھہ۔ یعنی تم چھنہ ہیکان زرتھے توبہ کانہہ خیر و اتن حسد و عداوت کن بل چھوہ تم زیوہ سیت  
 ظاہر کران۔ دل چھنہ تہندہ حسدہ سیت برتھہ۔ مگر تہندہ امہ حسدہ سیت بنہ نہ کینہہ **وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو پنہنہ رحمت و عنایت سیت خاص کران یس یرشان چھو تس

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶۷﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۶۸﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ بُوذُ فَضْلٍ عَطَا كَرَنِ وِوَل۔ بہودو کر یو و اعراض قبلک حکم بدلس پیٹھ۔ تھہ پاٹھ کر یو بعضے مشرکوتہ اعراض بعضی حکمن ہندس منسوخ سپدلس پیٹھ۔ تھہ اعراض پیٹھ اللہ تعالیٰ رد فرماوان **مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا** اسے سُنہ آیہ کریمگ حکم منسوخ کران چھہ۔ یا چھن سو آیہ کریم ذہنوشہ مشر وان یہ چھنہ اعراض کرہ نچ کا نہہ محلی کیا زہ تھہ بدل چھہ اَس تمہ خوتہ رت یا تھہ ہویا کھ حکماہ جاری کران۔ اتھہ منزتہ چھہ آسان بخیر بخیر حکمہ تہ مصلحت۔ اے اعراض کرہ ونہ شخصہ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کیا زہ چھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ ہُوہو پر تھہ چیزس پیٹھ قدرتہ وول۔ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** بیہ چھوی نا زہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسی چھہ خاص سلطنت آسان تہ زمین ہنزلس چھہ کلی اختیارات سارنی کائین ہندیلہ نہ لس اتھہ قدرت و سلطنتس منز کا نہہ اکھاہ شریک تہ حصہ دار چُوہ۔ لہذا تمن مصلحتن ہند رعایت کر تھہ دو ستم حکم جاری کرنس اندر گس اکھاہ بیجہ لس مزاحت تہ گانگل کھر تھہ لس چُوہونہ دو ستم حکم جاری کرنس اندر کا نہہ ہتھہ رتہ ون۔ نہ چھوس کوڈ نیک حکم برقرار تھاونہ نشہ کا نہہ اکھاہ ہتھہ رتہ ون۔ یہ تھہ تہ بوز تہ وارہ کہ **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** بیہ چھونہ کا نہہ اکھاہ اللہ تعالیٰ اس ورا ی ہتھنہ دوست تہ نہ یار مددگار وون یلہ سو ی ہتھن یار چھو سو کریا کا نہہ کومہ مصلحتہ ورا ی۔ بیہ یلہ سو ہتھن مددگار چھو ہتہ یلہ ہتھن حکمن پیٹھ عمل کرو۔ سور چھہ توہہ مخالفن ہندہ مزاحتہ شرہ نشہ۔ حکم ثانی بہتر یا تھہ ہو آسن ہجہ باعتبار ثواب تہ آتھہ۔ سُنہ ہجہ باعتبار آسانی تہ آتھہ یعنی دو ستم حکم آسہ گوڈ بچہ حکمہ خوتہ آسان۔ یہ تہ ہجہ ہتھہ کہ دو ستم حکم آسہ گوڈ بچہ کچھ معانی ہند حکم۔ دو ستم حکم

سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِئًا مَّحْسَدًا ۖ إِنَّكُمْ عِندَ  
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا

جاری کرنس اندر چھہ سمہ تھہ ضروری کہ سُو دوسم حکم جاری کرنس اندر چھہ ضرور کہہ نہ کہ نہ مصلحت بیه چھو سُو حکم قادر مطلق۔ بیه چھو حاکم محکوم من بند خیر خواہ۔ ہر گہ کانہ اکھاہ محکو من ہنز مزاحمت کرہ سُو چھو تمن محکو من مدد کران۔ بعضی چھو قانون بدلاونہ یوان۔ سمہ وجہہ کہہ قانون بنان والس چھہ کنہ کانہ غلطی آسان تھہ منز گمہ۔ امہ قسمج تبدیلی یا نسخ چھو احکام الہین منز حال کیاہہ اللہ تعالیٰ چھو غلطی گزہ نہ نش منز ہتہ پاک۔ بعضی چھہ حکم بدلاونہ یوان محکو من ہنز حالت بدل سپد نہ خیطرہ تھہ پانھہ مریضہ سز حالت بدل نہ موکہ چھو نسخہ نہ علاج بدلاونہ یوان۔ تھہ ہیو نسخ چھو جائز تھہ منز چھو نہ کانہ اشکال عقلی یا نقلی۔ بعضی یہو دو کور عناد اعرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھہ پانہ ہز حضرت موسیٰ علیہ السلام پٹھہ توریت نازل سپدیکہ ونہ۔ تھہ پانھہ ہز گوٹھہ قرآن مجید تہ توہہ پٹھہ نازل سپدن۔ اتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماون **أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ** **كَمَا سَأَلْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** اے یہو دو کیاہہ تہہ چھوہ یشھان پنہ نس موجودہ پیغمبرس تمہ قسمک سوال کرن تہ در خواست کرن۔ سمہ قسمک در خواست ٹھہندین مالین تہ بدٹمن ہندہ ذریعہ چھہ ازہہ بروٹھہ حضرت موسیٰ اس کرنہ آمت۔ مثلاً سمہ ہاویون حض اللہ تعالیٰ وارہ کارہ ن پانھہ۔ لمہ قسمک در خواست۔ سمہ منزہ صرف پیغمبرس پٹھہ اعتراض گزہ خدایہ سز **مصلحتن** ہنز مزاحمت کرن مقصود آہہ تمہ پتہ آسنہ ایمان آنہ نگ تہ پڑھ کرہ نگ کانہ ارادہ یمہ گنیہ صریح کفر چہ تھہ **وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ** **فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** بس شخص ایمان انہ بدل کفر چہ تھہ کرہ پس پز پانھہ سُو شخص ڈول سیزہ وتہ نش امہ قسمک سوال تہ در خواست کرن آس۔ سمہ موکہ لغو تہ بے کار کہ خدایہ سز ساری کائین اندر

وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا  
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ ۝ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا

چھ حجہ حکمہ کا نہ بندس چھونہ حق چون و چرا کر نگ۔ بعضے یہود آس شب و روز یہیے کوشش کران  
 کہ کمنہ پاٹھ گروہہ مسلمان اسلامہ نشہ پھیرن دوستی لاکتھ خیر خواہی ظاہر کرتھ۔ پریتھ کنہ قسمک تدبیر  
 بعمل آتھ آس باوجود ناکامی پریتھ وقتہ آتھ خیال س آسان۔ اللہ تعالیٰ ان کر با ایمان خبر دار یہ بندہ امہ  
 خیالہ سیت۔ فرعون و کثیریون من اهل الکتاب لویز و نکر من بعد ایمانک لکافرا اہل کتاب  
 یعنی یہود و اندرہ چھہ اکثر لوکھ یرشہان کہ توہم پھرہ ہن تم ایمان اتھہ بہ کفر س کن تہند یرضن چھونہ  
 تہنزہ خیر خواہی پیٹھہ منی یہ تم ظاہر کران آس بلکہ حسداً من عند انفسہم محض تہندہ حسد کہ وجہہ  
 ہس حسد تہندین دلن منز پھٹ پھٹ نیران چھو۔ بہ نہ سیمہ وجہہ کہ یمن نش کیاہ چھو پوز کھٹتھہ بلکہ من  
 بعد ما تبین لہم الحق تمن نشیر پر وارہ ظاہر سپندہ پتہ۔ وون اوس ممکن یہ تہنزہ خباثت بوز تھہ سپدن  
 مسلمان تمن پیٹھہ غضبناک۔ اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ فاعفوا و اصفحوا اے مسلمانو تمہ کرو تمن  
 معاف۔ تمہ کرو تہندس اتھہ شرارتس در گذر حتیٰ یأتی اللہ یامرہ یوت تان اللہ تعالیٰ اتھہ معاملس  
 متعلق ہن حکم نو قانون جاری فرماوہ ان اللہ علیٰ کل شیء قدير اللہ تعالیٰ چھو پیشک پر تھہ چیز س پیٹھہ  
 قدرتہ وول۔ یوتان جہادک عالمس اندر امن و امان قائم تھو نگ حکم تہ دشمنان اسلامس سیت قتل  
 و قاتلک حکم نافذ کرنہ بیہ توتان روز تہ تہندین بین حکمن پیٹھہ مستقیم۔ و اقيموا الصلوة و اتوا  
 الزکوة تہہ ہر و سردست نمازہ پابندی سان بیہ یمن پیٹھہ زکوة فرض چھہ تم دیو زکوة۔ و ما  
 تقدّموا لانفسکم من خیر یجدوہ عند اللہ بیہ یوسہ رزگوماہ پتہ بہتری خیطرہ تہہ سوزو بروٹھہ کن  
 سولوبہ تہ ضرور پورہ پورہ اللہ تعالیٰ اس نشیرہ ان اللہ بما تَعْمَلُونَ بصیر کیاہ اللہ تعالیٰ چھو تہنزہ



أَوْ نَصْرِي تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾  
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

سارے کام و چھان تہ ژر ژان۔ تمو کامیو اندرہ گوشہ نہ آکس ذرس برابر تہ تہمز کانہ کوماہ ضائع وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي یہود تہ نصاریٰ چھہ ونان جتس اندر ازن نہ مگر تہ تم یہودی آسن یہ آس ونان یہودی تم نصاریٰ آسن یہ آس ونان نصاریٰ اللہ تعالیٰ چھہ تمن دوشونی رد کران فرماوان چھک تِلْكَ أَمَانِيهِمْ تم چھہ تہمد خام خیالات دس تسلی دنہ چہ تھہ بمن ہنز حقیقت نہ کینہی چھہ سیمہ چھہ تمن رایہ گوشہان قُلْ تہہ فرماو و حض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے یہود و تہہ کرو اتھہ پیٹھہ پنن دلیل پیش گر تہہ اتھہ دعویٰ اس اندر پوزونہ ون چھوہ۔ سو دلیل یمن نہ تم پیشی کر تھہ کیاہہ تمن نشہ چھہ اچ کانہہ دلیل اتھہ بدل چھہ اس فرماوان کہ بَلَىٰ کہ ضرور اتن جتس منز مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سو شخص بس پنن تھہ نومراوہ معبود بر حقس یعنی فرمانبرداری کرہ عقائدن تہ عملن اندر بکمال اخلاص۔ دلہ کن آسہ فرمانبرداری مصلحتہ و رای تہ عنہ ظاہر داری و رای بتھس شخصہ سندہ خیطرہ چھوامہ فرمانبرداری ہند عوض تہ مزور تہمد س پروردگار س نشہ حاصل سپدہ ون بتھن لوکن آسیہ نہ قیامتک دوہ کانہہ خوفناک واقعہ پیش یک خوفانہ آسین تم لوکھہ تمہہ دہہ غمگین سپدہ ون کیاہہ ملائک آسن تمن بشارت بوزہ ناوتھہ بے فکر تھاوان منسوخ سپد تہس کھمس پیٹھہ عمل کرہ ونس و نبتہ کتہ صورتس اندر فرمانبرداری۔ لہذا چھہ یہود نصاریٰ فرمانبرداری آسینس سزوار بلکہ حکم ثانی یعنی دو تہس کھمس پیٹھہ عمل کرہ ونی ن شمار کرنہ فرمانبرداری تہ مطع۔ یہ شان چھوہ مسلمانن و رای بیہ کانہہ ہند کیاہہ تمو کور نبوت و شریعت محمدیہ قبول اتھہ کن نظر کر تھہ سپد ثابت کہ تہ چھہ جتس منز

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ كَذَلِكَ قَالَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
مَتَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهِ

واتس سزاوار وهو محسن یعنی مخلص آواتھ شرط تھاوندہ مجھ امہ سیت منافق الگ سپدن کیاہہ تم  
چھہ کافر ناس سزاوار کہہ پھرہ سمیای کینہہ یہود تہ نصاریٰ تموی ہوت پانہ وان مذہبی بحث کرن۔  
یہودہ چھہ پتہ اعتقادہ موجب نصاریٰ ان ہندس ونیس باطل زمانان تم چھہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامہ  
سندس رسالتس تہ انجیلہ کس کتاب اللہ آسئس پڑھہ کران۔ نصاریٰ تہ چھہ یہودیتس منسوخ زاتھہ  
باطل قرار دو ان تم تہ چھہ حضرت موسیٰ علیہ السلامہ سندس پیغمبر آسئس انکار کران۔ یہہہ چھہ تم  
تورایتس کتاب اللہ مانان دوشوے فریق چھہ کمال تعصب کن اکھ اگس انکار ان ہی چھو اللہ تعالیٰ بیان  
فرماوان وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ يَهُود لگ  
ونہہ نصاریٰ ان ہند مذہب چھو نہ کنہ بنیادس پیٹھہ قائم یعنی سوچھو بے بنیاد تہ غلط مذہباہ۔ تھے پاتھہ چھہ  
وانان نصاریٰ کہ یہودن ہند مذہب چھو بے بنیاد تہ غلط مذہب وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ حالانکہ تم  
دوشوے فریق چھہ پن پن آسانی کتاب پر ان یعنی یہود چھہ توریت پر ان نصاریٰ چھہ انجیل پر ان تہ  
وچھان دوشون کتابن اندر چھو دوشون پیغمبرون تہ دوشون کتابن ہند تصدیق موجود یوسہ دوشون  
مذہبن ہنز بنیاد چھہ اگرچہ قرآن مجید نازل سپدنہ موکھہ چھہ تم روزہ مرثہ قابل عمل بلکہ چھہ تم  
دوشوے کتابہ منسوخ سپر مرثہ یہودو نصاریٰ آس یہ چھاؤن داسی کرانی تہ مشرکن تہ بت پرستن تہ آو  
جوش كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تھے پاتھہ تم لو کہ ہم محض بے علم چھہ یعنی مشرک  
تہ بت پرست لگ امی تسچہ کتھ ونہہ۔ تمودو پ یہودن نصاریٰ ان ہند مذہب چھو بے بنیاد آس چھہ  
پرس پیٹھہ۔ ہم کتر تن اکھ اگس اہار كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي  
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۰﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّ مِمَّا تُولُوهُ فَاتِمُّوْا وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

اللہ تعالیٰ کرہ پانہ قیامتہ دوہہ یمن سارنی معاملن یتہ مقد من منز فیصلہ تمن منز سم لو کھہ پانہ وان  
اختلاف آسن کران تحقیقسن اندر جھہ سم تر شوی فریق یظ ظالم اے مخاطب ژہ وبتہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ  
مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وون گہہ اکھاہ چھہ یظ ظالم تس  
شخصہ سندھ خوتہ نس منع یتہ بندش کمرہ خدایہ سزنا مسجدن اندر ذکر و عبادت کرنہ نشہ۔ تہند ناہنیہ  
نشہ۔ بیہ کرہ کوشش تمن مسجدن ہنزہ ویرانی اندر۔ بیہ کام چھہ کر مژہ سمو تر شوی فریقو۔ یہود وکر قبلک  
حکم بدل سپنہ کس موقس پیٹھہ لوکن اندر تمہہ قسمک شھکہ یتہ شہات پیش یموسیت لوکھ انکار رسالت  
کر تھہ ترک صلوة یعنی نماز تراونس پیٹھہ آمادہ سپنہ۔ نمازہ تراوند سیت سپنہ مسجدہ غیر آباد کیاہہ  
مسجدن ہنز آبادی چھہ نمازہ سیتی گویا یہود وکرے یہ شھاہ کوشش مسجد نبولیس اندر گوژھنہ کانہہ یتہ نماز  
پرنہ اثاثن نصاریٰ او اندرہ بعضہ رومک پادشاہ تمن پیٹھہ یلہ یہود وچڑا ہی کر تھہ بیت المقدس پیٹھہ حملہ  
کور۔ بعضہ جاہل نصرانین ہندہ اتھہ واژ سخت بے حرمتی مسجد اقصیٰ اس بد امنی ہندہ وجہہ آیہ نہ تھہ  
منزہ نمازی ہرنہ گہہنس کاس۔ امہ اعتبارہ سپنہ نصاریٰ یتہ مر تکب اتھہ جرمس جناب سرور کائنات صلی  
اللہ علیہ وسلم تمویلہ فتح مکہ کرنہ بروٹھہ بارادہ عمرہ مکہ شریفسن کن تشریف انیوو۔ مشرکین مکودیت نہ  
تمن مکہ شریفسن اندر اثاثنک عمرہ کرنک اجازت۔ چنانچہ تمن پیو تمہہ درہہ واپس تشریف ٹین۔ امہ  
اعتبارہ سپنہ مشرک یتہ مر تکب امہ جرمک لہذا چھہ سم تر شوی فریق بند ظالم اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ  
يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لِيْمَ لُو کھہ گئے تے یمن نہ تمن مسجدن اندر تھہ لدن یتہ پڑہ ہاخوف وہیبتہ وراکی  
توہہ آسہ بیمہ مسجدہ با عظمت و حرمت یعنی مسجدن بے حرمتی کرن لوکن نہ یمن مسجدن اندر اثاثنہ  
دیون یاد خدا یتہ عبادت کرنہ خیطرہ اتھہ برابر چھونہ کانہہ ظلم لھم فی الدنیا خزی و لھم فی الآخرة  
عذاب عظیم یعنی لوکن ہندہ خیطرہ چھو دنیاں اندر بڈر سوائی بیہ چھو یعنی ہندہ خیطرہ دک یتہ دود  
تلہ ون عذاب یشہہ یشہہ پیچھہ کامہ کر تھہ چھو تمن خیال ہمزس پیٹھہ آسک بیہ جتنس واتک دعویٰ۔

عَلَيْهِمْ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿۱۱۶﴾ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَو  
اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فِیْکُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ

یہود و کریوہ تحویل قبلہ سپد نس پیٹھ اعتراض کہ مسلمان کیا زہ پھیر اکہ جہنہ نغہ میں جہتس کن اللہ تعالیٰ ان فرمود تم ن جواب **وَلِلّٰهِ الشُّرُوْکُ وَالْمُتَعٰوِبُ** معبود برحقہ سندی چھ ساری طرف تہ جت مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفاہ چھو تہندی مملوک تہ مخلوق تہ طرفس چھو نہ تہند مکان سو چھو مکان آسنہ نغہ منزہ تہ پاک۔ سو یلہ پریتھہ طرفک مالک چھو۔ لہذا تھہ طرفس سو قبلہ یثہ تھہ طرفس کرہ مقرر۔ کیا زہ قبلہ مقرر کر نس اندر چھہ ییہ جمت کہ عبادت کرہ و نین بدن، نماز گذارن سپدہ امہ سیت اتفاق تہ اجتماع خاطر حاصل۔ یعنی دل روز کھ ڈنجر۔ یلہ یہ حقیقت چھہ **قَابِ مَّا تُوَلُّوْا فَاِنَّ وُجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلَیْمٌ** پس تھہ طرف کن تہ پھیر و تھہ طرفس کن چھو معبود برحقہ سندہ ذات پاکک رخ۔ پز پائٹھ اللہ تعالیٰ چھو سارنی طرفن احاطہ کرہ ون۔ لیکن باوجود آل کور تم جت عبادت یعنی عبادتک طرف معین کیا زہ سو چھو سٹھہ زان و ول تس چھو معلوم تھہ چیزس اندر کیا ہ سیاہ مصلحت چھہ چونکہ تہندس علیس اندر آس قبلہ معین کر نس اندر مصلحت۔ لہذا گورن قبلہ معین۔ بعض یہود چھہ حضرت عزیر علیہ السلامس خدایہ سندنچو ونان۔ بیہ آس نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلامس خدایہ سندنچو ونان۔ مشرک آس ملائکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ کن بہنن سارنی لغو تھن رد کران تہ فرماوان چھو **وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ** بیہ چھہ ونان تم یہود تہ نصاریٰ تہ مشرک خدائس چھہ اولاد گبر تہ کورہ۔ کیواہ لغو تہ مہمل چھہ ییہ تھہ۔ سو چھو سمو تھو نغہ منزہ تہ پاک **بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** بلکہ چھو تس معبود برحقہ سندی تہ ساروی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو۔ موجود اتواندرہ **كُلٌّ لَّهُ قٰنِیْنٌ** تم ساری چھہ خدایہ سندہ مملوک آسحہ علاوہ تسد محکوم تہ فرمانبردار۔ حکیا زہ تہندن تصرفات قدرتن نغہ چھہ کانہ اکھہ تمو اندرہ کلہ ہکان پھرت تم گئے مارن۔ پیدہ کرن۔ بیمار پاون۔ بلراون **بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** سو ی چھو آسمان تہ زمین ہند موجود تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون تسنز قدرت چھہ تھہ عجیب کہ **وَ اِذَا قَضٰی**

لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ  
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ یلہ سُو کا نہہ کو ماہ کرن یرشہان ہُو۔ مثلاً کا نہہ چیزا ہ پیدہ کرن یرشہان  
 ہُو سُو چھو نہ کینہہ تہہ کرن۔ فقط ہُو تھہ چیز س مَن حکم کرن کہ سپد۔ آتی چھو سپدان، بنان از عدم  
 بوجود یوان تس چھو نہ سُو چیز پیدہ کرنہ خیطرہ آلاتن تہ اوزارن تہ سامان ہنز ضرورت پیوان  
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ۔ بیہ چھہ بعضی جاہل تہ نادان یہُود تہ نصاریٰ  
 بیہ مُشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل بیہ تھہ و نان کہ اللہ تعالیٰ کونہ ہُو پائے اسہ سیت تھہ  
 کرن ملائکن ہندہ وساطتہ و رای تھہ پاٹھ سُو ملائکن سیت تھہ کرن ہُو۔ یا ملائکن ہندہ واسطہ۔ یا تھہ  
 پاٹھ ملائیک پیغمبرن سیت بطور وحی اللہ تعالیٰ کلام ہُو کرن۔ تھہ کلامس منز کونہ ہُو اسہ ہن احکام  
 بیان فرماوان۔ تا کہ اسہ روزہ ہانہ نہیں کانہہ پیغمبرہ سنز ضرور تھی۔ یا کونہ ہُو اسہ کم از کم بیہ تھہ پانہ  
 فرماوان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہُو پیشک سون پیغمبر۔ تا اینکه اس کرہ ہو تمن پڑھ کر تھہ ہنز  
 اطاعت و فرمانبرداری۔ یا ہر گاہ کلام فرماونہ توتہ کونہ ہُو کا نہہ دلایلا اسہ مَن سوزان ہندس پیغمبر  
 آسنس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ہُو بہنزن تھن رد کرن گوڈنی ہُو فرماوان کہ سمہ تھہ بہنزہ چھہ جاہلانہ تھہ  
 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ يَشَاءُ رَبُّ هَذِهِ  
 بَرُونْتَهُمْ لَئِن رَأَوْا سَحَابًا لَأَنْزِلُنَّهُمْ سَحَابًا مَّحْمُولًا۔ معلوم سپد کہ سمہ تھہ چھنہ کنہی تہ  
 وقعت تھاوان بلکہ چھہ تم محض بروٹھمن جاہلن ہنز پیروی کرن امیک وجہ ہُو کہ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 مَن ہنن بروٹھمن جاہلن ہندول چھہ کج فہمی اندر۔ کھہ آس ہو۔ تھی موکھ چھہ بہ ہند بود لو اندرہ اکی قسمیہ  
 تھہ نیران۔ چوچو امہ قسمہ جاہلانہ تھہ چھہ بالکل باطل لہذا آونہ مَن جاہلانہ تھن ہندہ جو ابک کا نہہ  
 خیال کرنہ۔ پس روزیہ تھہ کہ اسہ نشہ کونہ چھہ واتان کا نہہ تڑھہ دلایلا سمہ سیت ثابت سپدہ ہار سالت  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھہ متعلق ہُو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  
 کہہ دلایلہ ہنز کیاہ چھہ کھی اسہ کرہ واریاہہ دلایلہ بیان وضاحتہ سان سمہ نافع تہ کافی چھہ تمن لو کن ہندہ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾  
 وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ  
 قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ  
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾

خیطره یم یقین تہ اطمینان حاصل کرن یشھان چھہ۔ پتھہ رُو داعتراض کرہ ون لوکھ تمن مند مقصد چھو خواہ مخواہ ضد کرن۔ تمن تسلی سپد نگ بیچہ نہ کانہہ ذمہ دار سپد تھہ۔ یتس اوس مُمکن کہ یہود و نصاریٰ ان ہندہ امہ جمالتہ و عنادہ سیت ماسپدہ ہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندول مبارک آزدہ۔ بیہ سپد ہن تم غمگین۔ تم دپہ ہن تہندہ اسلام انہ نچ کوسہ صورتھہ بیچہ پادہ سپد تھہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور۔ بیان امہ پتہ آیہ کر تمس منز تمن تسلی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ای پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیشک اسہ حض سوزہ تہہ پوزدین پتھہ لکن گن۔ پڑھہ کرہ ونین ہندہ خیطرہ خوشخبری بوزہ ناوہ ون بیہ نہ مانہ ونین ہندہ خیطرہ سزاو عذابک یم کرہ ون۔ توہہ نہز بیچہ نہ باز پرس کرنہ تمن لوکن ہندہ ہم نار جہنم اندرو اتہ ون آسن کہ تمو کونہ کوردین اسلام قبول۔ تم کیا زہدوات نار جہنم۔ تہہ رُو زوئین کوم کران۔ کانہہ ہندہ مانہ نگ یانہ مانہ نگ مہ بیو غم نہ مہ کھیو فکر وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ بیہ تمکن نہ ہرگز یہود تہ نصاریٰ زانہہ تہ خوش گڑھتھہ توہہ نشہ یوت تام نہ تہہ تہندہ منہ نچ پورہ پیروی کرو۔ یہ کتھہ چھہ حال۔ لہذا چھو تہندہ توہہ نشہ راضی سپدن تہ حال۔ لہذا ہرگہ گنہ وقتہ تہندہ زبان امہ قسمہ کانہہ کتھہہ بوزو یا کانہہ اشارہہ بُو قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ تہندہ گڑھہ تمن صاف فرماؤن کہ ہمہ کتھہ تراوو۔ حقیقتس اندر چھو ہدایت سنی پتھہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت فرمووو۔ سو ہدایت گو اسلام۔ تی چھو ثابتہ بچود لیلو سیت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تہندہ تہندہ مذہبک پیروئین چھو حال تہ ناممکن سمہ موکھہ کہ امہ سیت چھو لازم یوان آکھہ حال تہ ناممکن

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ  
 بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾ يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ  
 اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾  
 وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا

کتھاہ کیا زہ ہر گاہ تہہ پیروی کرنہ لگو تہہ سدس غلط ملط مذہبس لیس محض تہہ دین خواہش اتن ہند اکھ مجموعہ  
 چھو۔ تی کروہ ہتہ (نعوذ باللہ) توبہ نشہ علم قطعی واتنہ پتہ۔ اتھ صورتس اندر ہیجہ نہ توبہ بجاو تھ اللہ  
 تعالیٰ اس نش کا نہہ دوستا نہہ کا نہہ مدد گارہ بلکہ پیہ لازم کہ تہہ سپدو خدا لہ سدس پنجہ قہرس اندر گرفتار  
 تہہ ماخوذ۔ چوہجہ پیہ چھو محال کیا زہہ دل لائل قطعہ وسیت چھو ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو توبہ نشہ ہمیشہ راضی۔  
 پس تہہ غصہناک سپدن توبہ پیٹھ اتہ چھو محال۔ لہذا پیروی کرن تہہ سدس باطل مذہبس تہہ تہہ چھو محال۔  
 لہذا تمن بہودو نصارے ان ہند توبہ نشہ خوش سپدن تہہ محال لہذا چھہ تہہ ہندہ اسلام انہ نچ صورتھی  
 کا نہہ۔ لہذا کریون دل مبارک پئن امہ فخرہ نشہ خالی۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تمن اہل کتابن ہند  
 تذکرہ سہم قرآن مجیدس پڑھ کر۔ **الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ** یمن بہودو نصاریٰ ان  
 اسہ عطا کر کتب یعنی تورایت وانجیل تھے آسن تھہ کتابہ تھہ پانچہ پران تھہ پانچہ ہزن شوہ یعنی تمک  
 مضامین وارہ فخرہ تاران۔ پرنس پیروی کرہ ٹک پورہ ارادہ کران **أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ** تنقیس لوکھ چھہ  
 بیشک تھہ دین حقس ایمان اتان تہہ پڑھ کران۔ **وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ** سم لوکھ اتھ  
 دین حقس انکار کرن تمن چھو تمک نقصان تہہ تاوان پنہ نس پانس۔ تم سپدن ایمانہ کیو فاندو تہہ منافعو  
 نشہ محروم۔ **يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ** اے حضرت یعقوبہ سند یو پچو یو  
 ژتس پاوو میانہ تمہ نمش سمہ میہ توبہ عطا کر موہ **وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ** بیہ دتموہ فضیلت توبہ  
 وار سہن لوکن پیٹھ وار سہن کھن اندر۔ دوبارہ آویان کرنہ وارہ تاکیدہ خیطرہ **وَاَتَّقُوا یَوْمًا** کھو ژو تہہ چو  
 تمہہ دوہہ کہ عذابہ نشہ **لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا** سمہ دوہہ نہ کا نہہ کھایت ہیجہ کر تھہ کا نہہ اکھاہ

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ  
 إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَأَيُّنَا لُحْيٌ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا  
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا  
 إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

کانسہ آس کئی چیزک۔ کانسہ اکھاہیہ نہ کانسہ آس بار وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ  
 نہ دیہ کانسہ فائدہ نہ نفع کانسہ آس کانسہ اک سز شفاعت نہ سفارش۔ تمن صاحبن وراي تمن الله تعالیٰ  
 شفاعت کرہ نلک اجازت دیہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ بیہ تمن یاری نہ مدد کرنہ کانسہ نہ بجاوہ نہ تمن پنہ  
 نیوزوروسیت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ثلاث پادویلیہ آزمائش کر حضرت ابراہیمس پن پروردگارن  
 بِكَلِمَاتٍ پنہ نیواکامو اندرہ کئیو حکومت کَاتَمَّهُنَّ پس ان بجاتم تم حکم وارہ پانہ۔ قَالَ إِنِّي  
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا الله تعالیٰ ان فرموس تمہ ساسہ راضی گڑھتھہ بہ کر تھہ ژہ اتھ بدل نبوت نہ  
 پیغمبر عطا کر تھہ لوکن ہند امام نہ پیشوا قَالَ حضرت ابراہیمس دوپ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي پروردگار امیانہ  
 ذریئہ منزہ نہ کرتہ کانسہ یہ مہربانی عطا۔ قَالَ الله تعالیٰ ان فرموس لَأَيُّنَا لُحْيٌ الظَّالِمِينَ  
 شامل سپدہ نہ میانہ طرفہ یہ عمدہ نبوت چاند ذریئہ چاندہ منزہ ظالمین۔ یعنی تم مشرک آسن تمو اندرہ تمن  
 بیجہ نہ یہ مہربانی حاصل سپد تھہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا سووقت نہ چھٹنا قابل ذکر سمہ  
 وقتہ اسہ خانہ کعبہ کور لوکن ہندہ سنج، جمع سپدنج بیہ ایچ جائے وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى بیہ  
 کوراسہ حکم بالیمان۔ اے با ایمانو مقام ابراہیم بناویون سنج عنہ وقتہ نماز پر سنج جائے سنج  
 برکت حاصل کر نہ خیطرہ۔ مقام ابراہیم گئیہ سوکن اتھہ پیٹھ دودنہ روز تھہ حضرت  
 ابراہیم خانہ گعبک دیوار آس بنا کر ان۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بیہ کوراسہ حکم حضرت  
 ابراہیمس نہ حضرت اسمعیلس أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ سیٹھاہ پاک تھویون یہ میون گرہ لِّلطَّائِفِينَ



السُّجُودِ ﴿۱۶۵﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ  
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۶﴾  
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۶۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَالْعَاقِبِينَ وَالرُّكْعُ السُّجُودُ طواف کرہ دین ہندہ خیرہ۔ بیہ اعتکاف کرہ دین ہندہ خیرہ۔ یا تھ  
 شہرس منزسہ دین ہندہ خیرہ یا بھیر میں لوکن ہندہ خیرہ۔ بیہ نمازہ پرہ دین ہندہ خیرہ۔ وَإِذْ قَالَ  
 إِبْرَاهِيمُ بیہ پاوڈرٹس سیمہ وقتہ حضرت ابراہیم دعا کور رَبِّ اجْعَلْ هَذَا دوہن اے میانہ پروردگار  
 مگرن یہ علاقہ تھ منزسہ بَلَدًا آمِنًا شہراہ امن دوہون یا محفوظ پریتھ فسکو آفتوتہ بلا یونشہ وَإِذْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ بیہ کر عطا تہ کین لوکن میوہ تہ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اتہ کیو لو کو آندرہ  
 تمنی سَمُو ایمان اولن معبود برحقس بیہ یقتس دوہس یعنی قیامنس قَالَ اللہ تعالیٰ فرمودہ وَمَنْ كَفَرَ  
 کافرن تہ کرہ بہ عطارزق میوہ جاتوسیت کیاہ زہ رزقک معاملہ چھوعام کافرن تہ مسلمانن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا  
 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ دون نُس کافر ی روزہ پس تمتع تملہ ناؤن سو کم کہینہ کاس۔ تویہ و اتناول سو  
 مجبور سپد تھ نارہ کس عذابس منز یعنی ناچار ولتہ سو تھ منز۔ کیاہہ بیہ آسہ نہ تس سزاوار کانہہ جایہ۔  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کاژاہ تھہ جای چھہ سونار چھنم۔ تھہ منز تم واآن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
 بیہ پاوڈرٹس یلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کچھہ لہ تہ دیوار کھاران آس وَإِسْمَاعِيلُ سیت آسکھ حضرت  
 اسمعیل فرزند پنن تعمیر چہ کلمہ منز یا آسکھ تم کتہ تہ رب پلہ ناوان تہ تم آس پانہ تمو کینو سیت دیوار  
 بلند کران۔ یہ کوم کران کران آس مزگان یا یلہ امہ تعمیر چہ کلمہ نَشْرَہ دو شروے صاحب فارغ سپد اتی  
 لگبیہ دعا کر نہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے سانہ پروردگار بیہ کر قبول تہ یہ خدمت  
 سان۔ چہر پاٹھہ ٹی چھکھہ بوزہ ون سون دُعَا تہی پھچہ پورہ خبر سانن نینن مقاصدن تہ ارادن ہنز رَبَّنَا

وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا  
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ  
 يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ  
 إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنُ سَفَهَةٌ نَفْسُهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا  
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے سانہ پروردگار بیہ کراسہ دوشون پن زیادہ زیادہ تابعدار تہ فرمانبردار  
 وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ بیہ گرن سانو اولادواندرہ تہ اکھ جماعتھاہ پنہ نین فرمانبران ہنز  
 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا بیہ ہاواسہ تم ساری چیز موسیت اسہ چان عبادت چھہ گرن۔ احکام حج وغیرہ وَتُبْ  
 عَلَيْنَا بیہ کراسہ گن توجہ۔ توبہ سون کر قبول إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھاٹھہ ٹی چھو کہ فی الحقیقت  
 اسہ گن توجہ کرہ ون سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے سانہ  
 پروردگار بیہ سوز تم ن سانین اولادان گن یلہ تہند تعداد بدہ تہ بکثرت سپدہ۔ رُسُولًا مِنْهُمْ پیغمبر  
 عظیم الشان تموی آندرہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ نُس پران آسہ تم ن پیٹھہ نُس بوزہ ناوان آسہ تم ن چان  
 آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بیہ آسکھہ، پچھناوان سو کتاب یوسہ تم ن پیٹھہ نازل بیہ کر نہ وَالْحِكْمَةَ بیہ  
 آسکھہ پچھہ ناوان تمہہ کتابہ ہند مقاصد وَيُزَكِّيهِمْ بیہ آسہ تہند نفوس پاک کران إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ پڑھاٹھہ ٹی چھو کہ طاقتہ وول، چانی قدرت چھہ غالب۔ ٹی چھو کہ حمیتہ وول۔ وَمَنْ  
 يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنُ سَفَهَةٌ نَفْسُهُ بیہ گس کرہ روگردانی حضرت ابراہیمہ سدہ ملتہ نشہ  
 مگر کرہ سنی نُس ذاتی نادان تہ احق آسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پڑھاٹھہ ٹی چھو کہ حضرت  
 ابراہیم دُنیاہس اندر عمدہ رسالتہ خیرہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بیہ چھو سُو پڑھاٹھہ آخر

قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ وَوَضَىٰ بِهَا اِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَ  
 يَعْقُوبُ طِبْنِي اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ لَكُمْ الدّٰيْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا  
 وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۳۲﴾ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
 الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوْا نَعْبُدُ  
 الْهٰكِ وَالْهٰ اٰبَآءُكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ الْهٰ وَاٰجِدًا  
 وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

تس اندر نیکو کاری قابل مخصوصاً ندره همدہ خیرہ سوڑی کہنہ چھو۔ لاذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت  
 لرب العالمین یلہ فرمودہ تس پن پروردگارن اسلام ان، فرمانبرداری مطیع سپد، عرض کوڑن اسلام  
 اولن مہ فرمانبرداری تہ اطاعت کرمہ اختیار عالین ہمدس پروردگارہ سنز۔ ووضی بہا ابراہم بنیہ  
 امی کتھ ہنز وصیت کمر حضرت ابراہیم پنہ نین فرزندن و یعقوب بیہ امی وصیت حضرت یعقوب  
 پنہ نین فرزندن، فرمودہ کہ یبنی اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ لَكُمْ الدّٰيْنَ ای میانو فرزندو پر پناہ اللہ تعالیٰ ان  
 کور برگزیدہ ہمدہ خیرہ یہ دین اسلام فلا تموتنن اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کس یکتھہ منر و تہہ سمہ  
 دینہ و رای عنہ دینس پیٹھہ۔ منس تان روز زیوہ تہہ اتھہ دینس پیٹھہ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ  
 يَعْقُوبَ الْمَوْتُ کیاہ تہہ آسوہ موجود سمہ وقتہ ووت حضرت یعقوبس مرگ تہ یہ عالمہ گوہنک  
 وقت اذ قال لبنيہ ما تعبدون من بعدی یہ ساتہ تم ہر تھہ پنہ نین پنچوین تہہ کمسنز عبادت کمر و میہ  
 پنہ قالوا نعبد الهک والہ اباک ابراہم و اسمعیل و اسحاق تمودو پ عبادت کرو اس چانس خدایہ  
 سنز یہ چانین بزرگ مالین ہمدس خدایہ سنز۔ تم گے حضرت ابراہیم۔ حضرت اسماعیل، حضرت  
 اسحاق۔ الہا و اجدًا نِس خدائنی چھو لا شریک وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُوْنَ اس ساری جھہ تس گردن دارہ  
 ون یعنی تہندی مطیع تہ فرمانبردار تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آس جماعتھہ (یعنی حضرت ابراہیم تہ

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾  
 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ  
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ  
 الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ  
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۴﴾ فَإِنْ

تہمد فرزند حضرت یعقوب سے تہمد فرزند) بیشک یوسہ گذرے ہے۔ لہا ما کسبتکم تہمدہ نفعہ خاطرہ  
 چھوڑتے ہیں تم کو یعنی تمہیں یہ بکارت ہے تم کو اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تہمدہ خیرہ چھوڑتے ہیں تمہ کو یعنی  
 توہیں یہ بکارت ہے تمہ کو وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ توہیں یہ نہ پڑھتے تھے، شہزادہ عملہ ہند بکارتیج  
 چھنڈ گئی۔ معلوم سپد بزرگن سے محبوبان الہین کن خالی نسبت گرن تہمز متابعت کرنے و رای اتھہ چھوڑنے  
 کا نہ فائدہ سے نفع وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا وان چھہ یہود اہل اسلامن۔ تہمد بنو یہود۔  
 نصاری چھہ ونان تہمد بنو نصاری تھی سیت لبو تہمد ستر و تہمد۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تہمد فرمو  
 یو کہ ہرگز بنو نہ اس یہود سے نصاری بلکہ کمر اسہ اختیار حضرت ابراہیم علیہ السلامہ ستر و تہمد یوسہ  
 ستر و تہمد چھہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اوس نہ حضرت ابراہیم ہرگز مشرک اوندہ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  
 اے مسلمانو و توہ تہمد تفصیلاً کہ ایمان اون اسہ کنس خدا اس وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ یہ انو ایمان تہمد کتابہ یوسہ لہ کن کہ سوزنہ تہمد کتابہ یوسہ حضرت ابراہیم علیہ  
 السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ  
 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ یہ یوسہ کتاب عطا کرنے آہ حضرت موسیٰ اس حضرت عیسیٰ اس وَمَا  
 أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ یہ یوسہ کتاب عطا کرنے آہ بین پیغمبران پنہ نس پروردگار سندہ طرف۔  
 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اُس چھہ ہمد اوندہ کا نہہ اُس منفرق کران وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اُس

اَمْنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا  
 هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسِيْكَفِيْكُمْ اللهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۷۵﴾  
 صِبْغَةَ اللهِ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهٗ  
 عِبْدُوْنَ ﴿۱۷۶﴾ قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِنِّيْ اِلٰهٍ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ وَلَنَا  
 اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۷۷﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ  
 اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا

چھ تہندی فرمانبردار قان اَمْنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ پس ہر گاہ تمو یودو تہ نصاریٰ او پڑھہ کمر پتھہ پاٹھہ  
 توہہ پڑھہ کمر وہ فَقَدْ اِهْتَدَوْا پس تھین و تھہ لب تمو وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ہر گاہ تم  
 اعراضی کرن توہہ سیت ، یمن کھن اندر موافقت کرن نہ۔ کس چھہ تم مگر چھہ نسی مخالفس پٹھہ۔  
 مگر تہہ مہ برود تہہہ مخالفک کانہ پروا۔ فَسِيْكَفِيْكُمْ اللهُ تہہ چھو بس اللہ تعالیٰ سوکرہ پانے  
 عنقریب توہہ تھہ تھہہ شردور وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ سنی چھو سوری بوزہ ون سورے زانہ ون تہہہ  
 تھہ۔ تہہہ تھہ چھو بوزان۔ تہہہ حال چھو ہوزانان۔ سو انزراوہ نیاسے پائے۔ تہہہ مہ برود کانہ فکر۔  
 اے مسلمانو تہہہ دپو اس روز دینہ کس تھہ حالتس پٹھہ مضبوط لیس حالتس پٹھہ اس اللہ تعالیٰ ان رنگت  
 چھہ صِبْغَةَ اللهِ اس چھہ رنگت آمت خدایہ سہہ رنگ سیت لیس نہ زانہ ذلہ تہہ تغیر سہہ۔ وَمَنْ  
 اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ خدایہ سہہ خوتہ کس بیہہ رت رنگ دتھہ۔ وَنَحْنُ لَهٗ عِبْدُوْنَ اس چھہ  
 تہہہ ی یاژ بندگی کران قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِنِّيْ اِلٰهٍ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ اے یہودو تہہ نصاریٰ او تہہہ  
 چھوہ اسہ سیت خدایہ سہہ سہہ معاملس اندر ہر کران وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانچہ سو چھو سون پرورد گارتہ  
 تہہہ پرورد گارتہ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ اسہ یں بکار پتھہ عملہ۔ توہہ یں بکار پتھہ عملہ۔ ہر ہی تھہ  
 پٹھہ چھہ لاکن وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ اس چھہ تہہہ دی رضا خیطہ سارے عملہ کران۔ اسہ منز چھو  
 اخلاص اعتقاد تہہ اخلاص عمل تہہ۔ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ

هُودًا اَوْ نَصْرًا قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَمَّا اللّٰهُ ط وَمَنْ اَظْلَمُ  
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَا مِنْ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ  
 عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۰﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ  
 مَا كَسَبْتُمْ ؕ وَلَا تَسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾  
 سَيَقُوْلُ السُّفَهَاةُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمْ  
 الَّذِي كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

کَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصْرًا کیا ہے چھوہ وہنان کہ حضرت ابراہیمؑ سے حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ سے  
 حضرت یعقوبؑ سے تہم اولاد تم کیا آس یہودیانصرائی قُلْ فرمادیا کہ تمہے یا رسول اللہ مختصر پانچ  
 ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَمَّا اللّٰهُ اکی یہود سے نصاریٰ او توہے چھو خبر زیادہ کنہ اللہ تعالیٰ اس۔ یہ چھہ ظاہر تھہ کہ  
 زیادہ خبر چھہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ تم حضرات انبیاء آس ملت اسلام میں پیٹھہ توہہ  
 نہ چھوہ ایچ خبر مگر تمہہ چھوہ سو خبر کھان و مَن اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَا مِنْ اللّٰهِ یہ کس  
 اکھاہ چھوہ یژ ظالم تس شخصہ سندہ کھوتہ ہم کھٹ سو حقیقت حال یوسہ تس خدایہ سندہ طرفہ معلوم سپز  
 مژ آس وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ توپتہ چھونہ اللہ تعالیٰ تہم یو کر توتو نیشہ بے خبر تِلْكَ  
 اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آس بزرگن ہنزا کہ جماعتھاہ یوسہ گذرے یہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ  
 تمن یہہ بکارتہ یہ تمو کور توہہ یہہ بکارتہ یہ توہہ کوروہ وَلَا تَسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ توہہ  
 یہہ نہ پر ژھنہ تہ تمیک یہہ تم کران آس۔ تمہہ آہہ کریمہ سیت سپد معلوم کہ تم لو کہ پن پان منسوب  
 کرن کئہ تھدس خاندانس کن مگر اعمال وافعال آسکھ نہ تمہہ خاندانس موافق تہ مناسب تمن دیہ نہ  
 کانہہ فاندہ سہو ظاہری نسبت۔ کنعانس ڈیت نہ کانہی فاندہ پیئمیر زادہ آسنن۔ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاةُ  
 مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمْ الَّذِي كَانُوْا عَلَيْهَا وون ون ضرور بے وقوف لھہ کم چیزن پھر تم  
 مسلمان تمہہ قبلہ نیشہ یہہ کن تم وکھتام آس نماز پر ان یعنی بیت المقدس۔ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي  
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُضَيِعَ آيَاتِنَا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءٌ وَوُجْهُ رَحِيمٌ ﴿۱۲۳﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ  
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

فرما دیجھ تہہ یارسول اللہ خدایہ سندوی چھو مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفاہ سؤی چھو سارنی طرفن ہند  
مالک۔ کانسہ اگس چھونہ حق و اتان چون وچرا کرنگ۔ یوہے اعتقاد آسن شریعتین حکمن متعلق گوراہ  
راست یھدی من یثابہ ایل صراط مستقیم سو چھو تھہ ہاوان لیس یرھان چھو تہ تس اتھہ سیزہ و تہ  
گن۔ یعنی سو چھونہ و نان احکام اسلام اندر، ہو کیا زہ تہ یہ کونہ و کذالک ہتھہ پاٹھہ قبلہ شہد کوراسہ  
بہتر قبلہ ہتھہ پاٹھہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کمرودہ اسہ توه جماعتھہ درمیانہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ ہتھہ  
ہو تہہ گواہ حضرات انبیاء ان ہمدہ خیرہ تھندین امتن پٹھہ و یَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بیہ سپدن  
پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھند گواہ صفائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا بیہ کورنہ  
اسہ مقرر سو طرف قبلہ۔ ہتھہ گن توه و کلام نماز پران آسہ یعنی بیت المقدس اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ  
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ مگر یہ تھہ نراونہ خیرہ کہ گس اکھاہ کرہ متابعت تہ پیروی پیغمبر کریمہ  
سنز۔ بیہ گس پھیر ہتھہ متابعت نشہ و اِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً پز پاٹھہ یہ قبلہ بدلاون گذر یو سیٹھہ دشوار  
ضعیف الايمان لکن پٹھہ اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر تمن کو کونہ یمن ہدایت کور، و تھہ ہاواللہ تعالیٰ  
اِنْ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ آيَاتِنَا اللہ تعالیٰ چھونہ تھتھہ سو کیاہ کرہ تھند ایمان یعنی نماز ضائع۔ یوسہ  
توہہ بیت المقدس گن ہتھہ کمر تھہ پردہ اِنْ اَللّٰهُ بِالنَّاسِ لَرءٌ وَوَجْهُ رَحِيْمٌ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تھمن  
لوکن ہمدہ خیرہ سیٹھہ شفیق تہ مہربان۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ پز پاٹھہ اَسِ وَجْهِ وَجْهَانِ تھند

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ وَلَئِنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا  
 قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ  
 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

بھر پھر دھن آسانس کن تحویل قبلت حکم کرنا سپدہ نازل فَلَئِن لَّيُنَبِّئُكَ قِبَلَتَهُ تَرَضُّعًا پس پھر وہ اسے  
 تہہ تہہ قبلتس کن ئس توہہ پسند چھو قَوْلٌ وَمَنْعٌ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وُن چھو حکم کران اس توہہ کہ  
 پھر وبتھ پُن نماز پر چھ وقتہ مسجد حرامس کن۔ یعنی کعبہ شریفس کن۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ چھو سپد مت  
 ژندر دووارہ دوہہ در میان ماہ رجب ہجر ہجہ دو سیمہ و رہہ در مسجد نبوی۔ خانہ کعبس کن آید دگر نماز پر نہ  
 (بخاری و مسلم) امہ تحویلہ قیلے خبر سیمہ ساعتہ بنی سلمہ چہ مسجد والن واثر تم آس دگر نماز ہنز دویمہ  
 رکوعہ منزاک صاحبین فرماؤ بہ چھس گواہی دون کہ میہ پتر نماز بنی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم سیت مکہ  
 ہس کن۔ یم صحابہ صیب سپند خانہ کعبس کن نماز منزی متوجہ توی پیو اتھ مسجد مسجد قبلتین ناو  
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ چھونہ توی یوت حکم خصوصی یہ چھو یہ حکم توہہ تہ تہندین  
 ائمتین تہ۔ تہہ ساری تہ آبو پر تہ تہہ جلیہ کمر و پُن تہہ نمازہ اندر مسجد حرامس کن۔ ئس مسجد احرام کعبہ  
 شریفس آید لہہ چھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پز پانٹھ اہل کتاب چھہ یقینا  
 زانان کہ یہ حکم چھو پوز حکم تہندس خدایہ سندی طرفہ کیازہ تمو چھو پورمت توراتس اندر کہ پیغمبر  
 آخر الزمان پر ہ نماز دون قبلن کن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر بہودن  
 ہنز و کامیونشہ سم انکار قبلہ کران چھہ وَلَئِنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ قسم  
 ہاوت چھوس بو فرماوان کہ ہر گاہ تہہ تمین بہودن اہل کتابن سارے دلیلہ فرماو یو تو تہ کرن نہ سم  
 تہندس قبلتس خانہ کعبس قبول۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ تہہ تہہ میکونہ اختیار تہ قبول کمر تھ تہندس



إِذِ الْبَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۹﴾  
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ  
 مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

قبلس وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَوْلَهُ بَعْضٌ تمن چھو تو پتہ پاندوان تہ اختلاف یہود تہ چھنہ کران تسلیم نصاران  
 ہندس قبلس یس مشرقس کن چھو۔ نصاریٰ چھنہ کران تسلیم یہودن ہندس قبلس یس مغربس کن  
 چھو۔ سکن دون جمع سپدن چھو سیٹھاہ دشوار وَلَٰكِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر  
 وکن تہ تہ تہ ہندین یکن نفسانی خواہش تہ خیالاتن اختیار کرو۔ توبہ نشہ علم قطعی وحی الہی واتھہ لائک  
 إِذِ الْبَيْنَ الظَّالِمِينَ یقینا آیوتھہ صورتس اندر تہ شمار کرنہ حکم عدولی کرو نیواندرہ سمہ اندرہ چھو  
 مطلب اقس وکن۔ اگر چہ خطاب آو کرنہ بنی کر تمس کن الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ تم لو کہ یکن اسہ عطا کر کتاب یعنی توراہت وانجیل تم چھہ پرزہ ناوان اسس پیغمبر برحقس  
 تھہہ پائھہ تھہہ پائھہ پرزہ ناوان چھہ پنہ نین پچوین تموبشار تو موجب سمہ بیان آمرہ چھہ کرنہ ہنزن  
 کتابن اندر وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ باوجود آں چھہ تمواندرہ اکھ جماعتھہ ضرور  
 پوز کھٹان زانت کتر تھہ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ پوز حکم تحویل قبلس متعلق چھو  
 تھہدس پروردگار سندہ طرفہ۔ پس مہ آسو تردد کروہ دنیواندرہ۔ یکن امورن ہند پوز آسن چھو ثابت  
 تھہدس پروردگار سندہ طرفہ۔ لہذا چھو پرت آگس وندہ یوان کہ ہرگز مہ آس شک وشبہ کروہ نیواندرہ۔  
 وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا پریتھہ آگس دیندازس چھو او سمت اکھ اکھ طرفاہ قبلہ خیطرہ تھہ کن سو  
 پھیران اوس۔ دین محمدی تہ چھو اکھ مستقل دیناہ۔ اتھہ تہ کور اللہ تعالیٰ ان مستقل اکھ قبلہ مقرر۔  
 مقصد چھو عبادت تہ رزہ کامہ کرنہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس کتر و تھہ اے مسلمانو یکن منبر پر تھہ گونج

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَنَّ  
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰۰﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ

کویش کیا زہ۔ اِنْ مَا كُنْتُمْ تَوَاتِبْتُمْ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا تمہیں تیرے آسوتے تیرے، سارنی انہ وہ سونہرت اکہ وٹہ اللہ  
تعالیٰ بن فیصلہ بوزنانونہ خیلرہ قیامتہ دوہہ نیوکارن دیہ رت جزابدکارن دیہ سخت سزا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نِس پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھوپریتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ  
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر چھوپریتھہ بیہ وونہ یوان سہمہ طرفہ تہہ نیرہ وسفرس مغربچہ طرفہ یا مشرقہ  
کہ طرفہ یا شمالہ کہ طرفہ یا جنوبچہ طرفہ۔ پریتھہ جاپہ پیٹھہ گڑھ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی  
کعبہ شریفس اِنَّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک یہ حکم چھوپزپاٹ تہندس پروردگار سہدہ طرفہ وَمَا اللَّهُ  
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر تہنز وکامیولتہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ چھوپریتھہ حکم بیان یوان کرنہ کہ بیہ طرفہ تہہ نیرہ وسفرس، پریتھہ جاپہ پیٹھہ گڑھ  
نمازہ منزہ تہہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس اِنَّ۔ بیہ حکم چھونہ توی بوت بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اے لگو تہہ تیرے آسوتے پیٹھہ گرن تہہ ہن تہہ اٹھہ مسجد حرامس اِنَّ یہ حکم چھوس  
بوفرماوان لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تہہ ہنہ قسمہ تہہ کرکک اعتراض کرکک موقعہ روزوہ لوکن  
یعنی بیہودن یہ مشرکن اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوا ی تین لوکن سیموپان پانس ظلم گرن تہواندرہ تہند  
عنادتہ بعض تہوانہ سیت۔ تم کرہ نی طعنہ زنی بہر حال مگر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تہن مہ کھوتو  
تہنز پانس ہندمہ بروکانہ پرواء کھوتوان آسوتہ میانس حکمس خلاف کرنس وَلِأَنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ چھوس بیہ حکم فرماوان تہہ پورا گرن تہہ نعت تہہ پیٹھہ بیہ تہہ تہہ دینہ کین

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا  
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۵۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾  
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا  
تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَكُنُوبُكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّن

احکام من کُن و تھہ لبو اسلامس پٹھہ مضبوطی سان قائم روزو۔ چونکہ قبلک معاملہ اوس نہایت مہتم  
بالشان مخالفو اوس اتھہ پٹھہ سیٹھاہ شور ٹمٹت بید اوس امہ کین بعضی جزئیاتن اندر ترد و سپدنگ احتمال  
لہذا آویہ حکم مکرر بیان کرنے امیہ کنین سارنی پہلوون ہند لحاظ تھاوت امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کعبہ  
شریفہ کہ مقبولیتک و عاکوراسہ قبول۔ سو بنوواسہ اہل اسلامن ہند قبلہ بیتھہ پاٹ اسہ حضرت ابراہیمہ  
سند بیاکھ دعادر حق بعثت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبول کور کَمَا أَسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَنَا لَمْ  
کعبہ شریف بنوواسہ اہل اسلامن ہندہ خیطرہ قبلہ بیتھہ پاٹھہ اسہ سوز توبہہ کُن عظیم الشان پیغمبرہ توبہی  
منزہ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کس سان آیات پتر پتر توبہ بوزہ ناوان چھو وَيُزَكِّيكُمْ بید چھوہ توبہہ پاک  
وصاف کران شریکچہ تہ گوئمن ہنزہ ناپاکی نغہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بید چھو توبہہ پچھناوان قرآن مجید  
گاٹ جارچہ تھہ تہ طریق عمل وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بید چھوہ پچھناوان تم علوم تہ تم اسرار تم نہ تھہ  
تھہ پچھہ ہو۔ امہ امہ قسچہ نمردہ کرہ موہ میہ عطا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کمر و تھہ میون یاد۔ بو کرہ تھہ یاد  
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ میانین نعمن ہنز شکر گذاری کمر و میان حکم مانہ سیت۔ کفران نعمت مہ کمر و  
میان نافرمانی کرنے سیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمانو اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یاری تہ مدد ڈھانڈ  
واکھ صبر کرنے سیت کیا زہ صبر چھو پر بیتھہ کامیابی ہنز کو نزہیہ نمازہ پر نہ سیت کیا زہ نماز چھہ افضل  
عبادات إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو صبر کروئین سیت۔ نماز پر وہ نین سیت گو آتھی وَلَا  
تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بید مہ و توبہ کون کون سیم مارنہ یں تہ شہیدین کرنے خدایہ سزہ و تہ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ وَيَسِّرِ الصَّبِيرِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾  
 إِنَّ الصَّفَا وَالرِّوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

اندر یعنی دینہ خیطرہ تم چھ مردہ بل اُحیاءُ وَلَکِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ چھہ تم اہم مخصوص حیاتہ سیت  
 زندے۔ مگر چھہ بیكونہ تہمز زندگی محسوس کتر تھہ کیازہ سوچھہ سمہ زندگی خوتہ تھمز زندگی وَلَکِنْ لَّوْ  
 یَشْعُرُونَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ بیہ آزماوہ اُس چھہ ضرور۔ کیوہاہ  
 خوف سیت بیہ بوچھہ سیت۔ بیہ مال و جان تہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ وچھو صبر کم کرن تہ بے صبری کم  
 کرن وَيَسِّرِ الصَّبِيرِينَ بشارت فرماو بوچھہ صبر کرہ و نین یم بڈین مصیبتن پوٹھہ تہ صبر کرن لو کٹین  
 مصیبتن پوٹھہ تہ صبر کرن۔ بیہند عادت چھو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ تَمْنَى إِلَيْهِ كَانَهُمْ مُصِيبَاهُ وَإِنَّمَا  
 چھو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہہ ساتہ چہ تم دپان اُس چھہ مال و جانہ تہ اولادن سان خدایہ  
 سندی ملک۔ بیہ چھہ اُس تس اُن پتولا کہ رجوع کرہ و ن اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تہ  
 لو کہ تم تکالیف و مصیبتن پوٹھہ صبر کرہ و ن تہ مصیبتہ کہ وقتہ آیہ استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرہ  
 و ن اُس تمنی پوٹھہ چھہ خدایہ سندہ طرفہ بیشار مہربانی بیہ بڈر حمت اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بیہ چھہ تہ  
 لو کہ تہمو پزناٹ راہ راست لوب۔ برو تظہین آیات کریمن منز اُس ذکر خانہ کعبہ کہ سُوچھو قبولو اندرہ  
 بہتر قبلہ عبادت تو اندرہ بہتر عبادتس یعنی نمازہ اندر کمر و بٹھہ پُن اتھہ خانہ کعبہس اُن و ن چھہ اللہ تعالیٰ فرما و ن  
 اتھہ متعلق بیہ لمحہ بڈہ عبادت ذکر سوکئیہ عبادت حج اِن الصَّفَا وَالرِّوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ پزناٹ صفامرہ  
 یم زہ کوہ بیہ یمن منز سع یعنی دورہ دور کرن چھہ پروردگارہ سندہ دینہ کیویاد گاروتہ نشانو اندرہ فَمَنْ  
 حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ پس تہم شخص حج ادا کر نہ خیطرہ احرام گونڈمت آہہ یا عمرہ کر نہ خیطرہ فَلَا

شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ۝۱۵۱ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى  
 مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ  
 يَلْعَنُهُمُ اللّٰعُنُوْنَ ۝۱۵۲ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا  
 فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝۱۵۳ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۗ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ

جَنّٰهٍ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّظَلُوْنَ فِيْهَا ۝۱۵۴ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى  
 ستر پھر ہتھ سے وناں چھہ وَمَنْ تَطَّوَعَ خَيْرًا ۝۱۵۵ بِيْهٖ لَيْسَ اَكْهٰهٖ بِمَنْعَةٍ خَوْشٰى سِيْتٍ كَانَتْ رِزْكَامَا هٖ كَرِهَ ۝۱۵۶  
 اللّٰهُ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ پس پڑیا اللہ تعالیٰ چھہ نیکن ہنز قدر کرہ ون سوزی زانہ ون کم کوسہ کام کہہ نیٹہ  
 کسر اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ يَزِيْدُهُمْ اَنْعَامًا مِّمَّا كَفَرُوْا ۝۱۵۷ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى يَهْدِيْهِمْ  
 نازل کرنیو دلیو آندرہ تہ ہدایتہ اندرہ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ وارہ پاٹھہ لوکن ہندہ خطیرہ  
 تورات وانجیلس منز وضاحتہ سان بیان کرنہ پتہ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعُنُوْنَ اٰمٰنٰی لوکن  
 پیٹھہ چھہ اللہ تعالیٰ لعنت کران پڑکھنہ خیلرہ بیہ چھہ اٰمٰنٰی بیہ لعنت کرہ ون تہ لعنت کران۔ کیا زہ بیہندہ  
 پڑکھنہ سیت ووت نہ خدایہ سُنْد نور لوکن نغہہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا مگر تسم لوکھ توبہ کرن  
 سمو کامیو نشہ پھیرن۔ بیہ سنبھالن پتہ کلمہ دین اسلام قبول کرنہ سیت بیہ کرن وضاحت تمن تھن ہنز  
 سمہ پوشیدہ تہ کھٹت تھوان آسِ فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ پس تسم لوکھ تسم چھہ یمن ہند توبہ کرہ بو  
 قبول وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بوی چھوس سیٹھہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھہار حم کرہ ون۔ کانہہ توبہ کرہ  
 وناہ گھہہ اَسْن اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۗ پڑپاٹھہ تسم کفر سی پیٹھہ روڈ سمو یهودو آندرہ  
 بیہ مُود کفر سی پیٹھہ۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ تمن لوکن پیٹھہ چھہ بدستور  
 خدایہ سزہ لعنت۔ بیہ ملائکن ہنز لعنت۔ بیہ سارنی لوکن ہنز لعنت خُلِدِيْنَ فِيْهَا تھہہ لعنتس منز روزان  
 ہمیشہ۔ سو گونا ر جہنم لیس لعنتک گھرہ چھہ لِيَجْزِيَ عَنْهُمْ الْعَذَابُ لوژ روانہ تہ کم بیہ نہ کرن تمن نشہ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۱﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ  
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

عذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نہ بیہ تمن مہلت نہ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ بیہ چھو معبود تہند کئی معبوداہ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہ معبوداہ چھونہ تس وراہی۔ کانہہ چیزاہ چھونہ سزاوار عبادتس، تس آگس ذاتس وراکی  
 کیاہ تہند صفت چھو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عام رحمتہ وول، خاص رحمتہ وول۔ لیس منز تم زہ صفت آسن  
 سوہی چھو معبود آسنس سزاوار۔ یلہ بیہ آیہ کریمہ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ نازل سپد۔ کافر لگ۔ ونہ آج دلیل  
 کیاچھہ اتی سپد نازل إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑپاک آسمان ہندس تہ زمین ہندس پیدہ کرنس  
 اندر وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ راتہ کس تہ دوہہ کس انس تہ گڑھنس اندر۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بیہ  
 تمن ناوون تہ جہازن اندر تم سمندر تہ دریاون اندر پکان چھہ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ تم چیز تہ سامانہ ہیبت  
 سمہہ سیت لوکن نفع تہ فائدہ و اتان چھو۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ بیہ تھہ آسنس منز لیس  
 اللہ تعالیٰ چھو آسمانچہ طرفہ ابرہ منزہ نازل کران فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لیس چھو تھی سیت  
 مردہ ز مینس زندہ کران وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ چھو چھکر اوان اتھہ زمینس اندر پریتھہ  
 قسمک جاندار وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ بیہ اوون ہندس اورہ یور کرنس اندر وَالسَّحَابِ السَّحَابِ السَّحَابِ السَّحَابِ  
 وَالْأَرْضِ بیہ تھہ ابرس منز لیس رام تابع تہ فرمانبردار چھو لیس ووند چھو آسمانس تہ زمینس در میان  
 لَا يَتَّبِعُ الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ پڑپاک نبڈڈ نشانہ چھہ یمن ستن چیزن اندر عقلہ والین ہندہ خیطہ۔ پریتھہ  
 چیزاہ چھو دلالت کران تہندس خالق مطلق تہ معبود برحق آسنس پٹھہ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْفُرُ بِمَا

الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۶﴾  
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ  
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ  
 يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۴۷﴾  
 إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ

دُونِ اللَّهِ اُنْدَادًا بے چہرہ لو کو اندرہ بعضے لو کہ ہم ٹھہراوان چہرہ خدا لیس ورا کی بین خدا بے سندہ ہم پلہ تہ برابر تُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ تہندی محبت چہرہ تھوان خدا بے سندہ ہو محبت۔ تمنی چہرہ عبادتس اندر، اطاعتس اندر خدا بے سندہ شریک تھوان۔ خیال چھو کہ ہم چہرہ ذریعہ تہ واسطہ، سفارش کرہون خدا لیس نشہ یکن تہ چھو اندرونی طاقت قدرتس اندر یا کانہہ دخلہ خدا بے سزنا کا میں اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مگر تمہو لو کو پڑھ کمر خدا بے سندس کن آسئس تمن چھو ساری ہندہ خوتہ خدا بے سندوی سخت محبت کیا زہ تمن چھو یقین کہ سوی چھو سووی عطا کرہون تہ بے نہ کانہہ۔ تم چھنہ منگان کس ورا کی بے کانہہ۔ تم چھنہ کھو ژان کس ورا کی بے کانہہ سووی چھو ساری تفکک تہ نقصانک مالک بے نہ کانہہ۔ تمن بیٹھہ محبت چھو خدا بے سندہ بیٹھہ چھنہ نہ بے کانہہ ہند خدا بے سندہ رضا خیلہ چھہ تم خدا بے سندین رتین ہندن۔ انبیاء تہ اولیاء ہند محبت تھوان۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہر گہ زانہ ہن تم ظالم تمہو خدا لیس شریک ٹھہرا سو کتھ یوسہ زانہ ہنہ تمن تمہہ ساتہ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ سمہ ساتہ تم عذاب و چھنہ سنو گویہ بے کتھ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ پڑا پٹھہ سووی قوت چھو خدا بے سیوت وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ بے چھو اللہ تعالیٰ کڈر عذاب کرہون۔ تلہ ٹھہراو ہن نہ خدا لیس شریک إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا یلہ لوب ہن تہ بے تعلقی ظاہر کرن آخرتس اندر تم لو کہہ ہنہز متابعت تہ پیروی کرنہ یوان آس، تمن لو کن نشہ ہم پیروی کران آسکھہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ بے و چھنہ دو شوے عذاب نیو اچھو وَتَفَقَّطَتْ بِهِمُ الرَّسَابُ ژھین تمن برو ٹھہم ساری تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً  
فَنَنْتَبِرَ أَمْنَهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ  
حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا  
مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ

بیہ ورن تمہ وقتہ تم لو کھہ یم پیروی کران آس ہر گاہ اسہ دوبارہ بیہ ا کہ لہر دنیا ہس گن گزہنک موقعہ ہنہ  
با فَنَنْتَبِرَ أَمْنَهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا اُس تہ روزہ ہو تمن نشہ الگ ہتھہ پاٹھہ تم اسہ نشہ لوب تہ الگ رُوو  
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ ہتھہ پاٹھہ کیا ہاوہ اللہ تعالیٰ تمن پینہ عملہ سمہ تمہو خدا ہس  
وراک یئن ہندہ خیطرہ کرہ مژہ آس نہ امت تہ پیشمانی وَا مَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ بیہ آس نہ تم نارجمتہ  
منزہ نیرہ ون بلکہ چھو تمن ہتھہ منز ہمیشہ روزن۔ مشرکین عرب آس پوتلین ہندن ناون پیٹھہ بعضہ  
جانورن نامزد کتر تھہ تھاوان۔ تمہ پتہ آس تم تمن جانورن سیٹھہ تعظیم و تکریم کران۔ تمن جانورن  
نشہ آس نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تلان۔ خیال آس کران یہ چھو کھم خدا۔ امہ سیت سپدہ اسہ نشہ  
خدا راضی۔ امہ سیت کرہ سواسہ پن قرب عطا۔ اللہ تعالیٰ چھو تھہ تھہندس خیالس رد کران۔ فرماوان  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لو کو کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا کھو تم چیزیمز مینس اندر شرعہ موجب  
حلال تہ پاک چھہ۔ پانے مہ کتر و پانس پیٹھہ کانہہ چیز حرام۔ حلال گو تہ یہ خداین حلال کور حرام گو تہ یہ  
خداین حرام کور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ پتہ مہ پکو شیطان سندین پدین یعنی تہنز متابعت مہ  
کتر۔ یوگن سو پکناو وہ توکن مہ پکو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کیاہزہ پٹاٹھہ سو چھو تھہند نون دشمن  
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سو چھو نہ توہہ امر کران مگر گوہن  
ہند۔ بیہ تھہہ کاٹین ہند۔ بیہ امگوی کہ تھہ نور اوو خدا ہس پیٹھہ تے تھہ یمہ نہ توہہ معلوم چھہ۔ حرام  
کتر و حلال چیز۔ حلال زانو حرام چیز وَا إِذْ قِيلَ لَهُمْ يٰلَهُ وَننہ یوان چھو تمن مشرکین سمہ شیطان سنز پیروی



تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ  
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بِكُمْ  
 عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ  
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رِيبَاءَ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾

کران چھہ اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اے لو کو تمہ حمہ موجب پکوںس نازل کور اللہ تعالیٰ اَن پیغمبر برحقس  
 پیٹھ یعنی قرآن۔ مجید قَالُوا جواب چھہ تم دپان بَلْ نَنْبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ پکوا اَس تھہ  
 طریقس پیٹھ ہتھہ طریقس پیٹھ لب اسہ ہن مال تہ بدبب اُولُو كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا  
 يَهْتَدُونَ کیاہ تم لوکھہ کرنہ پنہ نین مالین ہنز پیروی ہر حالتس اندر۔ تلہ تہ یلہ نہ تم کنہ تہ زانان  
 آسن بیہ نہ کنہ صحیح وتہ پیٹھ آسن۔ یہ گنیہ تلہ کمال بے وقوفی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي  
 يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ یمن کافر ن ہنز مٹال چھہ تس جانور سنز مٹال اُس نہ مضمون کلام بوزان چھو  
 اِلَادُعَاءً وَنِدَاءً مگر ناداہ تہ اَلوا صُمُّ بِكُمْ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سم کافر چھہ زر کل اِن۔ اُس چھہ  
 تم زانان کنہ تہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالیمانو ہمو پڑھ کمر وہ کُنس خدا اُس بیہ تہندس بینبرس  
 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھیو تم پاک چیز سم اسہ توہہ عطا کمر مت چھہ۔ تلو تین چیزن ہند متع ہتھہ  
 دنیاچہ زندگی منز۔ پانہ مے آرمیہ ورانے کانسہ ہندہ خطہہ ہانس پیٹھہ کانہ نعمت حرام کران تہ ترا  
 وان وَاشْكُرُوا لِلَّهِ شکر دپو تس خدا یس سم بے شمار نعمد عطا کروہ اِن كُنْتُمْ رِيبَاءَ تَعْبُدُونَ چھوے  
 تس یوت معبود زانت عبادت کران اَلْمَاخُومَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تم کور نہ توہہ پیٹھہ کنہ تہ حرام مگر کران  
 سو جانور اُس پانے مومت آسہ وَالذَّمَّ بیہ کران حرام خون وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ بیہ کران حرام سورہہ ماز

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِمْ أَوْلِيكُمَا مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا  
التَّارَ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ أَوْلِيكُمُ الَّذِينَ اسْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ

وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ کوزن حرام یہ کیڑھاہ خدایس وراکی یہ کانسہ ہند قرب تہ رضا حاصل کرنہ  
خیطرہ کانسہ ہندہ ناوہ تھاوہہ آمت آسہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کس کس شخصہ  
لاچار تہ مضطر سپدہ کانسہ چیزہ نہیں نہ سمو چیز ووراکے۔ سوی سمو چیز واندہ نافرمانی کرنہ وراکی، لذت  
تھاڈنڈنہ وراکی تہ حدہ نشہ ڈالنے وراکی کہہنہ کھیہ تس چھونہ کانسہ گوانہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑاٹھ  
اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کروون، سیٹھاہ رحم کروون، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
پیشک تم لوکھ کھٹان چھہ تم مضمون تمہہ کتابہ ہند یوسہ نازل کمر اللہ تعالیٰ ان وِیُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِمْ  
بہ چھہ حاصل کران تمہہ بدل قیمتھاہ سیٹھاہ کم اَوْلِيكُمَا تم لوکھ تم کھٹان چھہ پڑہ تمہہ بدل چھہ بارہ  
تہ دیار حاصل کمرت کھیوان تہ چیوان مَآيَا أَكْلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّارَ چھنہ تم کھیہ کھیہ نیدن منز  
واتاوان مگر نارہ تیونگل۔ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کرہ نہ یمن سیت قیامتہ دوہہ تمہہ تہ۔  
وَلَا يُزَكِّيهِمْ بہہ کرہ کھیہ نہ پاک گناہ معاف کرنہ سیت وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بہہ چھو تہندی خیطرہ  
دگ تہ دودتله ون عذاب اَوْلِيكُمُ الَّذِينَ اسْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى یم لوکھ گئے تھے سمو گراہی میل  
ہند ہدایتس وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ بہہ ہو تمکھ عذاب مل مغفرتس فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى التَّارِ کاتیاہ ٹیڈ کرہ  
ون چھہ تم نارس پیٹھہ یعنی بے پروائی سان چھہ کامہ کران سمو سیت نارس گرفتار سپدن ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ  
اللَّهُ نَزْلَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ یہ سوڑی چھو تمین سمہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کمر نازل ہن کتاب پڑ

بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ ذَلِكِ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ نَزْلًا  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ  
 بَعِيدٍ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ  
 الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

ہیئت۔ سمو کور تہمتہ منز اختلاف۔ اؤس کر کہ پڑھ۔ اؤس کو زکھ انکار۔ اوڈ تھو دکھ کھٹھہ اوڈ نتر دوکھ۔  
 ذَلِكِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ پڑھا پھہ سمو اختلاف کور اھہ کتابہ اندر لیکن تور اتس  
 اندر اؤس پڑھ تہ اؤس انکار کرنہ سیت تم چھہ زٹھس اختلافس اندر ہمیت پھتھہ زانہہ واٹھ لیکنھ۔  
 یلہ برو ٹھمن آیاتن اندر پنہ نہ پھتھہ کامہ تہ تخن ہند سز ابو زکھ یود تہ نصاری لگت ونہہ اسہ کیاہہ آسہ  
 ہایہ سز اسہ ہجھہ نمازہ اندر پنہ نس پنہ نس قہلس گن پھتھہ کمر تھہ نماز پر ان۔ اللہ تعالیٰ ان کو زکھ تھتھہ  
 خیالس رد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی پھتھہ ایڑی یا اثر کہ تہہ  
 پھر و نمازہ اندر پھتھہ مشرقس گن اے نصاراو یا مغربس گن اے یہودو ولکن البر لیکن نیوکار گے  
 گوڈہ تھے من آمن بالله والیوم الآخر سمو ایمان اون۔ پڑھ کمر کہ اکس خدا نس بیہ تھندس گن آسٹس  
 بیہ قیامتکس دوہس والملائکة بیہ ملائکن ہندس و جودس والکتاب بیہ سارنی آسانی کتابن والنبیین  
 بیہ سارنی پیغمبرن و آتی المال علی حبه تو پتہ دن مال پئن خدا یہ سندی محبتہ سؤ مال ٹوٹھہ آتھہ  
 ذوی القربی پنہ نین محتاج آشناون والیتیمی بیہ نادار یتیمن یمن مول مودمت آسہ  
 والمسکین بیہ عام مسکینن تہ محتاجن وابن السبیل بیہ بے خرچ مسافرن والسائلین بیہ معھ  
 ونین۔ و فی الزقاب بیہ گردنہ آزاد کرنس اندر۔ مقروضن تہ غلامن ہنزہ گردنہ آزاد کرنس اندر  
 واقام الصلوة بیہ تھاون برپا نماز و آتی الزکوة بیہ آس ادا کرن ما لچ زکوة والنوفون بہدوم اذا

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ  
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ  
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

عَهْدُهُمْ بِسِ آسن پنہ نس عمدس وفا کرہون یلیر پانہ وان معاہدہ کران آسن وَالصَّابِرِينَ بسِہ آسن صبر  
 کرہون فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ بسِہ خنی اندر، تکلیفین اندر بسِہ لڑائیہ اندر کارن  
 سیت جبکہ وقتہ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا بسِہ لوکھ کیاہ گے پر زیار۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بسِہ لوکھ  
 کیاہ گے پر ہزگار خدا بسِہ کھوڑہون۔ مھتو فرماو کمالات انسانی۔ اگرچہ تم چھہ واریاہ چیز مگر اجمالاً چھہ تم  
 منحصر ترین چیزن اندر صحت اعتقاد، حسن معاشرت۔ تہذیب نفس۔ صحت اعتقاد گوڑہ کرن معبود  
 برحق بسِہ پڑہ کرن تمہن چیزن بسِہن پڑہہ کرن لازم چھہ۔ حسن معاشرت گو پرت حقدار س بسِہن حق  
 واتان۔ تہذیب نفس گو نماز پرن، زکوٰۃ دن عمدس وفا کرن تہ صبر کرن۔ تم ساری چیز چھہ جمع  
 ہتھہ آئیہ کر تمس اندر۔ بسِہ آئیہ کریمہ چھو انسانی کمالاتن جمع کرہون بسِہ گے اصول بر۔ یعنی نیکین  
 ہند اصول۔ امیر پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون فروع بر یعنی بسِہن ہند شاخ تہ اقسام۔ گوڈنیک قسم گو قانون  
 قِصَاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے با ایمانو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ مقرر آو کرنہ تو بسِہ پڑھہ  
 قانون قِصَاص یعنی مساوات مقتولن ہندہ حقہ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ ط آزاد شخص بسِہ قتل کرنہ آزاد شخص  
 بَدَلُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غلام بسِہ قتل کرنہ غلام بَدَلُ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى قتل کرنہ زنانہ بَدَلُ یعنی  
 شریف تہ کمینہ آج یادولت مند تہ فقیر آج چھہ نہ فرق فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بسِہ قتل کرنہ  
 عفو آو کرنہ پنہ نس بلے سہہ طرفہ کا نہہ چیزاہ یعنی مقتولہ سند یوار تواندرہ ہر گاہ کا نہہ اکھاہ عفو تہ

رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اُعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۱۴۷﴾  
 لَكُمْ فِي الْفُصَاصِ حَيٰوَةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۴۸﴾  
 كَتَبَ عَلَیْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَصِيَّةٍ  
 لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبٰیْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ ﴿۱۴۹﴾ فَمَنْ  
 بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اُنْتَهٰهُ عَلٰی الَّذِیْنَ یُبَدِّلُوْنَهُ  
 اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۵۰﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَسٍ جَنَفًا وَّ اٰثِمًا

در گذر کره **فَاتَّبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ** پس شوبه باقی وارثن دیتک مطالبه کرن سختی وراکی **وَأَذَاءٌ لِّلَّذِیْهِ بِإِحْسَانٍ**  
 بیه شوبه قاتلس سودیت ادا کرن مقتولہ سندین وارثن گن تارنہ درگی کرنہ ورا ای **ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ**  
**رَّیِّكُمْ وَرَحْمَةٌ** یہ قانون دیت و عفو چھو بند آسانی بذرحمت تہمدس پروردگارہ سندہ طرفہ **فَمَنْ اُعْتَدٰی**  
**بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ** پس کس اکھاہ حدہ ڈلہ امہ عفو کرنہ پتہ یعنی دیتس پیٹھہ تصفیہ سپد بچہ باوجود  
 کرہ مقتولہ سند یوارثواندرہ کانہ قاتلن نشہ انتقام نہ قصاص پنچ کوشش۔ تسدہ خیطرہ چھو آخرتس اندر  
 دودوہون عذاب۔ **وَلَكُمْ فِی الْفُصَاصِ حَیٰوَةٌ یٰۤاُولِی الْاَلْبَابِ** تہمدہ خیطرہ چھہ ہتھہ قصاصہ  
 کس کھمس اندر بڈ زندگی اے عقلہ والیو کیازہ یلہ کانہ اک سندہ قتل کرنک ارادہ کرن وول یہ زانہ کہ  
 میہ پیہ امیک قصاص ہینہ سوروزہ پانے قتلہ نشہ ہتھہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** ہتھہ تہہ قتلہ نشہ پتہ روزو قصاصہ  
 کہ بیمہ **کَتَبَ عَلَیْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** فرض آو کرنہ توہہ پیٹھہ ای بایمانویلہ حاضر آسہ سپدان  
 توہہ اندر کانہ موت یعنی مر نک وقت آسہ واتان موتک علامات آسن ظاہر سپدان **اِنْ تَرَكَ خَيْرًا**  
 ہرگاہ ہے سورتراوہ ہتھہ گن کانہ مالہہ **لِلْوَصِیَّةِ لِّلْوَالِدِیْنَ وَصِیَّتَ کَرْن** اتھہ ماس اندر ماس ماجہ ہندہ  
 خیطرہ **وَالْاَقْرَبِیْنَ** بیه آشناون ہندہ خیطرہ **بِالْمَعْرُوْفِ** انصافہ موجب نہ حسب دستور **حَقًّا عَلٰی**  
**الْمُتَّقِیْنَ** یہ چھو لازم پرہیزگارن ہندہ خیطرہ **فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ** پس ہم اک تبدیل کور  
 اتھہ وصیتس بوزنہ نہ معلوم سپد نہ پتہ **فَاِنَّمَا اُنْتَهٰهُ عَلٰی الَّذِیْنَ یُبَدِّلُوْنَهُ** پس چھونہ امیک گناہ مگر

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا تُتَمَّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا  
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

تعمنی پیٹھ سم اتھ تبدیل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ اللّٰه تعالیٰ جھو سوزی بوزوہون سوزی زانہ و ن یہ  
 حکم اوس ابتدائی اسلامس اندر پتہ سپڑیہ حکم منسوخ آیہ میرا نہ سیت فَمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 اِنْتَابًا پس نئس کھوڑہ وصیت کرہون سندہ طرف نہ قسمہ بے انصافی یا حق تلفی فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پس کرہ  
 وارثن منزاتھ وصیتس کینہہ اصلاح فَلَا تُتَمَّ عَلَيْهِ تس جھونہ کانہہ گناہ اِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک  
 اللّٰه تعالیٰ جھو مغفرت کرہون رُحْم کرہون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
 فرض آیہ کرنہ توہہ پیٹھ روزہ داری کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ پیٹھ ہاٹھ فرض آمرش آس  
 کرنہ تمن لوکن پیٹھ یم توہہ بروٹھ آس لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پیٹھ نہ متقی تہ پرہیزگار بنو۔ اَيَّامًا  
 مَعْدُودَاتٍ کیندن دوہن سم دوہ گزرنہ آمت چھہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  
 أَيَّامٍ أُخَرَ تمہہ پتے توہہ اندرہ کانہہ بیمار پیہ یا سفرس نیرہ تمن دوہن اندر تمس جھو اجازت تمن  
 دوہن افطار کمر تھہ تم دوہ پورہ کرن ہلکتھ یا سفرہ نغہ واپس ہتھ۔ بیاکھ آسانی چھہ وَعَلَى الَّذِينَ  
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ پیہ گڑھہ تمن لوکن ہند یمن طاقت آسہ روزہ دار روزنگ مگر روزن  
 نہ۔ فدیہ دیون اگس محتاجس اکہ دوہہ بدل دون وقتن برابر کھین دیون یہ حکم چھہ آمت منسوخ کرنہ  
 فمن شهد منكم الشهر فليصمه سیت مریض تہ مسافرن چھہ استثناء فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پس  
 ئس نیکی کرہ یعنی محتاجس زیادہ پن دیہ تہ جھو تہندہ خیطرہ بہتر وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ توپتے توہہ روزی داری ہند ثواب تہ فضیلت معلوم آسہ ہاتلہ اوس تہندہ خیطرہ روزہ دار

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ  
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
 فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ  
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾ وَإِذَا  
 سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

روز نوبی بہتر شہر رمضان الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ماہ رمضان گو سوریتھہ ہتھہ ریتس منز پورہ قرآن  
 مجید نازل آؤ کر نہ لوح محفوظ پیٹھہ بیت المعمور س گن ہڈی لئائیس و بئینت مین الہدی  
 وَالْفُرْقَانِ لیس قرآن مجید بوڈ ہدایت چھو لوکن ہندہ خیطرہ ہتھہ منز ہدایت نہ دلیلہ چھہ سمہ دلیلہ  
 ہوس نہ لہوس منز فرق کرہ و نہ چھہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ لیس اکھاہ توبہ اندرہ اتھہ  
 ریتس لہ سوروزن اتھہ ریتس روزہ دار وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ بیہ لیس توبہ اندرہ تمہ قسمہ بیمار  
 آسہ ہتھہ روزہ درتھہ مضر سپد لیس یا مسافر آسہ اتھہ ریتس اندر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تلہ چھہ تمس تم  
 بیماری ہندوہ یا مسافر تک دوہ بین دوہین اندر درن لازم يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ  
 تعالیٰ چھو یشھان ٹھہندہ خیطرہ آسانی سو چھونہ یشھن تھہندہ خیطرہ سختی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بیہ  
 چھو یشھان اللہ تعالیٰ کہ پورہ کتر و تھہ روزہ داری ہندوہ ہتھہ ثوابس اندر کی روزہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ بیہ  
 ہتھہ تھہ اللہ تعالیٰ بزرگ نہ بوڈ زانیون۔ بوڈ زانتھہ آسہ تھہ یاد کران۔ پر ان آسہ اللہ اکبر علی ما  
 هَدَاكُمْ ہتھہ تھہ پیٹھہ کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ کورہ توبہ ہدایت، تم کیاہ ہاوہ توبہ و تھہ رتھہ کامہ کرنس گن  
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یو تھہ تھہ پروردگار سنزن مہربانین پیٹھہ شکر گزاری کتر و۔ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نفعہ آسہ اکھہ جماعتھاہ، تموی ہڑتھہ یارسول اللہ خدا چھا اسہ نفعہ نزدیک تلہ مجھ ہوس لو تہ  
 لو تہ کترہ سو چھو ڈور تلہ مجھ ہوس ہڈ ہڈہ۔ آئی سپد نازل یہ آسہ کریمہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

دَعَانِ فَلَيْسَتْ جَبِيْبُوَالِيْ وَلِيُوْمِنُوَالِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۸۱﴾  
 اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ  
 لِبَاسُ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
 تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ  
 بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا حَتَّىٰ

قَرِيْبٍ بِيه يله توہہ پر ژھن میان بندہ کہ بو چھوسہ تمہن نزدیک کہہ دور فرماؤ کہ میانہ طرفہ کہ بو  
 چھوسہ نزدیک اِحْبَبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اجابت تہ قبول چھوس کران پر ہتھہ مکہ ون  
 سندس مکہ نس۔ پر ہتھہ درخواست کردہ ون سندس درخواست کرنس یلہ سو آسہ مناسب تہ قابل  
 قبول یلہ سو عاجزی سان مے یوت مکہ تہ مے یوت زانہ حاجت روا فَلَيْسَتْ جَبِيْبُوَالِيْ پس مان تم تہ  
 میان حکم۔ میہ نغمہ کرن طلب اجابت وَلِيُوْمِنُوَالِيْ بیہ کرن پڑھ میہ میانہ نزدیک آسک تھاون  
 یقین لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ہتھہ تمہن تمہ سیت میہ نغمہ وان تھہ بیہ اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ  
 اِلَى نِسَائِكُمْ حلال آہیہ کرنہ تھہ نہہ خیطرہ اے باایمانو روزن ہنزن راتن اندر پنہ نین منکوہ  
 زنانن نشہ نصح خواہش پورہ کرنہ خیطرہ نزدیک سپدن هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ  
 تمہہ ہتھہ تھہند لباس۔ تھہہ چھوہ تھہند لباس کہہ اک سندس بدنس سیت متصل ملیتھہ لباسک  
 پاٹھہ یا کہہ اک سندس سرس سرپوش تہ ستر۔ ہتھہ پاٹھہ لباس چھوہ بدنس ستر کران بدنگ عیب پوشیدہ  
 تھوان عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ اللہ تعالیٰ اس آس خبرے کہ تھہ کمر و خیانت پنہ  
 نین پانن یعنی خدایہ سندس کھمس مخالفت کرنہ سیت کر یو کہ گنہگار ہن پان۔ تو پتہ سپد و نام تہ پشیمان۔  
 پنہن معذرت کمر و پیش۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللہ تعالیٰ ان کور توبہ تھہند، معذرت تھہن قبول وَعَفَا  
 عَنْكُمْ تھہندین گونہن کوزن غفو فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ پس وون کمر و نزدیک پنہ نین زنانن سیت ماہ  
 رمضانہ چن راتن اندر ہلارتد وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ژھانڈوتہ حاصل کمر و تہیہ اللہ تعالیٰ ان از لہ



يَتَّبِعْنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
 ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۵﴾

تمہدہ خیطہ لیکھت آسہ یعنی اولاد۔ امہ اندرہ در او کہ زنانہ نشہ نزدیکی کرنہ اندرہ گزہہ اسن قصد بقائے نسک محض۔ نفع خواہش پورہ کرنی یوت نہ امی چہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ وقتہ بن امت تم دعا پچھہ ناؤ مژتم اتھہ مقصد س مناسب چہہہ بسم اللہ۔ اَللّٰهُمَّ حَبِّنَا الشَّيْطَانَ وَحَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ متفق علیہ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانَ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيْبًا (مصنف عبدالرزاق بحوالہ فتح الباری)۔ امیوک معنی گو پروردگار اسہ دوشون باژن تھاوشیطانس نشہ دور۔ بیہ بیہ ژبیہ اسہ عطا کرت اولاد تس تبغہ تھاون شیطان دور۔ پروردگار ایہ ژبیہ اسہ عطا کرت تھ یعنی اولاد۔ تھہ منزہ تھاوشیطانہ سند کا نہ حصہ۔ **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا** بیہ کھیوتہ چہیوماہ رمضانہ کین شبن اندر **حَتَّى يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ** تو تان یوتان مشرقہ کہ طرفہ ظاہر آسہ سپدان تو بہ صبح صادق سفید دھاو کہ بہنہ دھاوہ نشہ یعنی شبہ چہ تاریکی نشہ آسہ صبح صادق سفیدی ننان **ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ** تو پتہ آسوروزہ داری پورہ کران شامس تان ایس ابتدا ہی شب چھو **وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ** بیہ مہ آسوپنہ نین زنانہ نزدیک سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطہہ باشموت معافقہ کران۔ بختس ژپنہ ہیوان یا مونہ بیٹھہ کران یلہ تمہ مسجدہ اندر اعکافس روزان آسوادہ سواعکاف ماہ رمضان اندر آستن یا بین ریتن اندر آستن **تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ** تم چہہ نشانہ خدایہ سد مقرر کرمت **فَلَا تَقْرُبُوهَا** پس مہ سپدو یمن نشانہ تہ حدن نزدیک۔ سمودو نشہ ڈنچ چھنہ کتھہ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** چھو اللہ تعالیٰ نر او تھہ بیان کران آیات بن لوکن ہندہ اصلاح خیطہہ **لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** بیٹھہ تم خدایہ سنزونا فرمانیو نشہ کین۔ تہ پتھہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ  
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ  
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ

روزن۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ منہ کھینچو مال اکھ اسدناحق تہ حرام طریقہ  
ژور، خیانت، غصب کرنے سیت زارگند نہ سیت یا عقود فاسدہ کرنہ سیت یعنی تم معاملہ کرنہ سیت تم  
شرعس اندر ناجازہ چھہ۔ تم گے پھلیہ اندرے ٹھیکہ کرن ہی چیز۔ پیدہ سپدہ نہ بروٹھے خرید و فروخت  
کرن ہیو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یہ منہ آسو آپز مقدمہ نوان حاکمن نشہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ہتھہ حاکمن نشہ مقدمہ زینت لوکن ہند مال کھیوان آسو بظلم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
زانتھہ کمر تھہ یعنی توہہ آسہ خبری پنہ اپزہ دعویٰ آج۔ تہ اپزہ مقدمہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ  
پر ژشان چھہ توہہ لوکھ ہلالن ہند تم کیازہ چھہ یک آسان تو پتہ بدان بدان دُون سپدان تو پتہ بہ پنہ  
نس حالس پیٹھہ واتان۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ہتھہ فرماؤ کھ توہہ کیاہ چھو یمن کھن  
سیت۔ ہتھہ یوزو سوکھہ ہتھہ سیت توہہ تعلق چھو۔ یم ہلال چھہ نشانہ لوکن ہندین معاملاتن ہندہ  
خیطرہ۔ مثلاً مزورن ہنزہ مزورہ۔ زنانن ہندہ عدتک حساب مدت حملک حساب۔ مدت رضاع و فصال  
یعنی دوو چھکے تہ ژٹنک حساب۔ روزہ داری۔ زکوٰۃ بیہ جگ وقت معلوم سپدہ خیطرہ نون تہ صاف  
حساب قمری حساب نُس ہلاو سیت معلوم سپدان چھو۔ کفار مکہ آس احرام کھنڈت گرن اندر کئیہ ضرورتکہ  
وقتہ دروازو کن اٹن گناہ زمانان لہذا آس گرن ہندیو پشوکن دیوار تہ تھہ یاد یوار کن گرن منز اٹان۔ اتھہ کور  
اللہ تعالیٰ ان ردِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ چھنہ نیکی ہتھہ کیاہ ایو گرن  
منز گرن ہندیو پشوکن بلکہ چھہ بہ زمانہ جالپتچ طریق وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ نیکیو کار گوسوی نُس

وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸۹﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۰﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُوهُمْ وَآخِرُ جُزْأِهِمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ

خدائس کھوڑہ وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا بلکہ ایو گرن منز گرن ہند یو دروازو کن۔ پانے پتہ خیالہ کانہ کتھاہ گوناہ زانن یہ پھو خلاف اسلام۔ نیکی گنیہ سوی سمیک حکم خداین تہ پیغمبر خداین کورمت آسہ بدی گنیہ سوی سمہ زعمہ تمبو ممانعت کمر مژ آسہ وَاَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کھوڑو خدائس تہی سیت سپد و تمہہ رشتکار تہ کامیاب دون عالمن منز وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جُنگ تیاری کمر و خدا یہ سزہ و تہ منز ہند دین بلند کرنہ خیطرہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تمن سیت تم توہہ سیت جنگ کران ہجہ، جُنگ تیاری کران ہجہ وَلَا تَعْتَدُوا حَدِّمْ ذُلُو کانسہ پٹھہ مہ کمر و زیادتی، لوکٹ، زانانہ تہ بدہ مہ مار یو کہ قصد آسز کل مہ ڈٹیو کہ، زراعت مہ کمر و تباہ تہ بر باد عمد ٹکنی مہ کمر و اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ پزپٹ اللہ تعالیٰ پھونہ پسند کران حدہ ڈلہ و نین وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُوهُمْ ہر گاہ توہہ تمن سیت کانہہ عمد و پیمان آسہ نہ تلہ یتنس تہہ تم لیو کہہ تیتس مار یو کہہ وَاَخْرَجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ نینہر کڈیو کہہ تم تمہہ شہرہ اندرہ بیمہ شہرہ منزہ تمبو تہہ نینہر کڈیوہہ پرولمہہ بروکھنہ کیاہہ تم ہجہ فتنہ و فساد کران۔ کٹس خدائس شریک ٹھہراوان وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ و فساد تہ شرک پھو قتلہ خونہ زیادہ مشکل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تہہ مہ کرو جُنگ تمن سیت مسجد حرامس نزدیک یوتان نہ تہ تورہ جُنگ

فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ قَاتَلْتُمْ فَكَيْفَ تَكُونُ جَزَاءُ  
 الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۹۱﴾ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹۲﴾  
 وَقَتَلْتُمْ مَنْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ  
 بِاللَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۳﴾  
 الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ  
 اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

کرنس ابتدا کرن مسجد حرامس منز **فَإِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ قَاتَلْتُمْ** ہر گاہ جنگ کرنس اندر تموی شروع کور  
**فَاقْتُلُوهُمْ** تیلہ مار یوکھ نہہ تہ تہی کذالک **جَزَاءُ الْكُفْرَيْنِ** کیا زہ یوہے چھو سزا کافر ن ہند۔  
**فَإِنْ أَنْتَهَوْا** ہر گاہ تم لمہ پتہ شرک و کفر ہنغہ ہتھہ روزتھہ مسلمان سپدن تہ توبہ کرن **فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**  
 رحیم پس بخشہ اللہ تعالیٰ تم کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ بخشہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **وَقَتَلْتُمْ مَنْ حَتَّى**  
**لَا تَكُونَ فِتْنَةً** بیہ کرو تم سیت جنگ تو تان کہ فتنہ تہ فساد روزہ نہ کنہ۔ شرک سپدہ معدوم  
**وَيَكُونَ الدِّينُ بِاللَّهِ** پرستش تہ اطاعت بیہ کرنہ خدلیہ سنزی یاثر **فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ**  
**إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ** پس اگر تم ہتھہ روزن شرکہ ہنغہ فتنہ و فسادہ ہنغہ۔ پس چھنہ زیادتی کرن جائز  
 ظالمن و رانی کانسہ پیٹھہ۔ **الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ** تعظیمک رت چھو مقابل تعظیم کس رتس  
**وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ** تعظیمک چیز چھہ اولہ بدلہ۔ یعنی برو ہتھہ و رہہ یلہ ہتھہ آے وہ عمرہ کرنہ خیطرہ  
 ماہ ذی القعدس اندر سمو کافر و رٹوہ ہتھہ ہتھہ عمرہ کرنہ ہنغہ۔ حد بیہ ہنغہ دیت ہوہ نہ برو ہتھہ پجنہ۔ ہتھہ  
 موقعس پیٹھہ اوہ صلح حد بیہ سپد۔ پتہ آوہ ہتھہ دو سمہ و رہہ عمرہ القضا کرنہ خیطرہ اتھہ ماہ ذی القعدس  
 اندر مگر ہتھہ چھوہ اندیغہ کران ماہ ذی القعدس اندر جنگ کرنس اندر۔ ہتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ احکام  
 فرماوان۔ ہر گاہ تم توبہ تعظیم کین ریتن اندر تعظیم کین جاین اندر اوہ مقابلہ کرنہ خیطرہ ہین ہتھہ مہ  
 برو کانہہ پروا۔ تمہ تہ کرو تم سیت خوب مقابلہ **فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى**

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۴﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۷۵﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ

عَلَيْكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِّنْهُ وَمَنِ اتَّقَىٰ اللَّهَ جَعَلْ حَيْثُ كَانَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَلَا يُنْفِقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَالًا يَلْعَنُ لِمَنْ نَفَقَهُ وَأَخْبَرُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۙ

یقین زانو کہ پر پائے اللہ تعالیٰ ہے کھوڑہ توہم پٹھہ پس تمہ سے ڈلو جدہ تس پٹھہ تیرہ بن ایش بن سوحده ڈولمت آسہ وین سیت یاری سے مدد کرنے خیرہ و آنفقوا فی سبیل اللہ بیہ کرو خرچ مال پنن خدایہ سزہ دوتہ اندر دشمن سیت مقابلہ کرنے خیرہ پیرو مثل جنگ سامان۔ ٹھروے اتھومہ آسو جماد کرنے نیران۔ سو گویان پنن پائے ہلائس منز تراوان و لا تلحقوا بایدیکم الی التھلکۃ مہ آسو پنن پان پننہ نیو اتھو ہلائس منز تراوان مال خرچ نہ کرنے سیت۔ ماس اندر تھیں موقعن پٹھہ نخل کر تک انجام پھو ہلاکت سے تباہی و احسنوا کام آسو محنت سے مضبوط کران ان اللہ یحب المحسنین پر پائے اللہ تعالیٰ اس چھہ پسندر تکام سے بخت کام کرہ دن و اتتوا الحج والعمرة لله پورہ کرو حج سے عمرہ خدایہ سہہ خیرہ یعنی یلہ حج یا عمر ک احرام گنڈان آسو سو آسو با تمام واتوان منز سے مہ آسو احرامہ نشہ نیران بلا وجہ فان احصرتم ہر گاہ توہ بند ا یو کرنے، ہتھہ ایورنشہ، کانہہ دشمن یا بیماری رطہ توہہ ہتھہ فما استیسر من الہدی پس چھو لازم توہہ قربا تک جانور پس توہہ میسر سپہہ ذبح کرنے خیرہ سوزن و لا تلحقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محله بیہ مہ کا سو کلن مس یعنی احرامہ منزہ مہ نیر و توتوان یوت تان نہ قربا تک جانور پننہ جایہ و انت فتن کان منکم مریضا پس اگر توہہ منزہ کانہہ بیمار آسہ او یہ اذی من رؤسہ یا آسہ کلن کینہہ تکلیف بیہ سببہ مس پیس کاسن سو کاسن مس سے دین فدیه فندیة من رؤسہ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۶۷﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا

صیاماً أو صدقة أو نسك پس چھوٹس پیٹھ فدیہ دین، ترین دوہن روزہ دار روزن یا صدقہ کزن شین مسکین کھین دین یا ٹھہ یا تھاول ذبح کزن فاذا آمنتم پس یلہ توہم تمو چیز ونشہ امن والمان سپدہ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس ایس اکھاہ عمرہ چوکا میونشہ فارغ سپدت حجک احرام کنڈہ یعنی تمتع کرہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس چھوٹس پیٹھ لازم ذبح کزن پس جانور میتر سپدہ پس فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پس ایس اکس نہ جانور میتر سپدہ پس چھوٹہ ترین دوہن روزہ دار روزن حجہ کین دوہن اندر وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ بیہ ستن دوہن حجہ پتہ یلہ وانس ہیومن تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ سبے گے پورہ ذہ دوہ۔ ذَلِكْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ حکم گوتمن یم نہ کی آسن بلکہ آسن آفاتی وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھو ژوخد ایس بیٹھ نہ تھندین کمن خلاف کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ زانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ ون احکامن ہنز مخالفت کرہ ونین الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ حجک موقعہ چھو یکہنہ ریٹھ ہم مقرر چھہ شوال ذی قعدہ تہ ذی الحجک ذہ دوہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ پس ایس اکھاہ یمن رتین حج کر نہ خیطرہ احرام کنڈہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ پس گڑھہ نہ زنان سیت نزدیکی کرن یا تھہ متعلق تھہ ہا تھہ کرن نہ گڑھہ بدکاری تہ خلاف شرع کانہہ کام کرن۔ نہ گڑھہ پانہ وان ہرہ ہر تہ لایہ لای کرن اتھہ حجہ کس زمانس اندر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ یوسہ خیر حج کا ماہ تہہ کران چھوہ ہدی عباداتو اندرہ یا مالی عباداتو اندرہ تہ سوزی

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي مِنَ الْأَلْبَابِ ﴿۱۰۰﴾  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ  
 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ۖ وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿۱۰۱﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ  
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابَ إِلَيْهِ

چھوڑانا ان اللہ تعالیٰ تَزِدُّوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بپہ آسودہ تہ خرچ حلمان سیت۔ پچھان پچھان  
 مہ آسوج کر نہ نیران۔ بیشک رت و تہ خرچ گو تقویٰ لیس میں اتھہ دارنہ نغمہ بجاوہ و التَّقْوَىٰ يَأْتِي مِنَ  
 الْأَلْبَابِ مے پوت کھوڑو اے عقلہ والیومہ کرو میانین حکمن ہنز مخالفت لیسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ توبہ چھونہ کانہہ گوناہ ہر گاہے ہتہ ججس موقس پیٹھہ کسب کر تھہ، مزدور  
 محنت کر تھہ یا تجارت تہ کاروبار کر تھہ تلاش کرو معاش پُئ پُئ پنہ نس پروردگارہ سدہ فضلہ اندرہ۔ عام  
 خیال نُس لوکن ہند چھو کہ سفر جس اندر گرہنہ کُنہ قسمہ کسب و کاریا تجارت تہ کاروبار کرن اتھہ خیال  
 چھو اللہ تعالیٰ صریح طور رد کران فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
 الْحَرَامِ ادہ یلہ ہتہ میدان عرفاتہ نغمہ واپس پیٹھہ نُس کر و خدایہ سندیاد میدان مزدلفس نزدیک  
 تھہ راتس یعنی عید ہندس شمس روز و میدان مزدلفس اندر خدایہ سندیاد کران (مشتر حرام چھو میدان  
 مزدلفس اندس پیٹھہ اکہ کوبک ناو) وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ خدایہ سندیاد کرویتھہ پاٹھہ تم بیان  
 کورنو یعنی لبیک لبیک پر والہ الا اللہ پرود عاکرو۔ یا گو معنی خدایہ سندیاد کرو کیاہہ تم کوروہ ہدایت،  
 تم ہادوہ و تھہ ججمن احکامن کن وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ورنہ آسونا توہ تمسیدو تھہ  
 ہاونہ بروٹھہ گمر ہواندرہ، و تہ ذلیو اندرہ۔ یا گو معنی پڑ پاٹھہ آسوجہہ امس رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم سدہ تشریف اتنہ بروٹھہ و تہ ذلیو اندرہ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ توپتہ بیو

عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ﴿۱۹﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِئِنَ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا  
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

واپس تمی جایہ پیٹھہ سہمہ جایہ پیٹھہ ساری لوکھہ واپس آئے یعنی میدان عرفات پیٹھہ، قریش ہند پاتھہ مہ  
آسو عرفاتس منز ساری لوکن سیت سمن تو پتہ تہ پیٹھہ ساری لوکن سیت واپس سُن عازنانان۔ تم  
قریش آس پُن پان تھودزاتھہ مزدلفہ پیٹھہ واپس یوان۔ تمہ نِسہ فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت۔  
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ﴿۱۹﴾ جکین حکمن اندر جالیکن رسمن پیٹھہ عمل کرنس  
پیٹھہ منگو خدا پس مغفرت پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ زحم کرہ ون قَاذَا  
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ اده یلہ نُبہ موکلاوان آسو پنہ حجہ کامہ یعنی وڈر ہندکنہ پھل تراوتھہ،  
مَس کاتھہ، طواف زیارت کرت آسو موکلان قَاذِكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پس  
آسو خدلیہ سُدیاد کران۔ تھہ پاتھہ تہہ مالین بڈین ہندیاد کران آسوہ بلکہ تمہ خوتہ زیادہ آسو خدلیہ سندوی یاد  
کران۔ اتھہ موقعس پیٹھہ چھونہ کانہ ہندیاد کرن لازم خدلیہ سہہ یادہ وراہی۔ مالین بڈین ہندہ سیت فخر  
کزان چھو بے سُودتہ بے فائیدہ۔ پدرم سلطان بادونہ نکت جواب چھو نراچہ۔ قبرہ منزہ لیہ نہ پڑھنہ  
پدرت کیست۔ نتیجہ پڑھنہ عملت جیست فِئِنَ النَّاسِ پس چھہ لوکو اندرہ بعضے مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا تم ونان چھہ اہی سانہ پروردگارہ اسہ کر عطا دنیاس اندر رتوی تم چھہ  
ژھانڈان فقط دنیا کوی مطلب وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تھندہ خیلرہ چھونہ آخرتس اندر  
کانہ حصاہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لوکو اندرہ چھہ بالیمان تم دپان چھہ، منگان چھہ رَبَّنَا آتِنَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اہی سانہ پروردگارہ اسہ کر عطا دنیاس اندر رتہ رتوی آخرتس



وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۹۰﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا  
 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۹۱﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي  
 أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ  
 عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ  
 اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹۲﴾

اندر تیر توی و قنای عذاب النار بچاواسه عذابہ نشہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمنیٰ نشہ چھو نقل کرنے آمت کہ تمہو فرمود حسنه دنیا کیسہ نیک زمانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زمانہ۔ بد خوی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ و ان اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ایسے لوکھ گے تم تمنیٰ مندہ خیطرہ بوڈھہ چھو تمنیٰ تمنیٰ مندہ سمہ تمہو حاصل کرہ تمنیٰ تمنیٰ مندہ ثواب کریکھہ عطاڈرہ ذرہ حساب بوزتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ و ن۔ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کر واللہ تعالیٰ مند یاد گزراونہ آمتین دوہن اندر۔ تمہو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کرنک دوہ۔ تمنیٰ دوہن اندر آسو تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنیٰ درای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ایسے لوکھ جلدی گرہ منیٰ منزہہ واپس پیش اندر۔ دوئی دوہ پتہ واپس تس چھو نہ کانہ تصور وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ایسے لوکھ اس منز روزت ترسمہ ڈہک نہ پھل تہ تراوتھہ واپس پتہ تس تہ نہ کانہ تصور لِمَنِ اتَّقَى ایسے لوکھ اس خدایس کھوڑہہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوڑہہ ہمیشہ ای مسلمانو اللہ تعالیٰ اس یقین تھاو کہ بیشک نہہ ساری ایوتس نشہ جمع کرنہ تہ سوہراونہ قیامتہ دوہہ محشر کس میدانس اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَوْ كَانُوا إِلَّا رُجُلًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ مُسْتَمْسِكُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّسْتَمْسِكُونَ بِالْأَنْصَابِ وَأُولَئِكَ يَلْعَنُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَكَبِّرُونَ ﴿۹۳﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ  
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۴۳﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى  
 فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ  
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۴۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ  
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۴۵﴾ وَمِنَ

آخروج چھکنہ کا نہ فکر۔ بیاکھہ قسم گوتم دنیا تہ چھہ ژھانڈان آخرت تہ چھہ ژھانڈان ترسم قسم گوتم  
 ظاہرہ پاٹھ چھہ نمز اوان دنیا شہہ بیزاری تہ آخر تک خیال۔ بہنزه چھہ کتھہ توہ یار رسول اللہ عجائب چھہ  
 بوزنہ یوان دنیا چہ زندگی متعلق۔ چنانچہ اخس بن شریق ثقفی منافق اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے بیوان تو پتہ پٹھہ تہ مدرہ کتھہ کر کر تمہن ہن سچائی ہناونچ کوشش کران **وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ**  
 خدایس اوس گواہ پیش کران پتہ دلہ کس حاکس پیٹھہ۔ اللہ تعالیٰ اس آس خبرے تہند حال کیاہ چھو۔ سو چھو  
 فرماوان **وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ** حقیقت چھہ یہ کہ سو چھو تہند سخت دشمن۔ تہندین پیرون ہند سخت دشمن۔  
**وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ** امہ پتہ بلہ توہہ نہہ نیران چھو،  
 کوشش چھو کران شہرس منز فساد کرنچہ۔ یہ تباہ کران زراعت تہ چارواوی لوکن ہند۔ چنانچہ یوہے منافق  
 اخس بن شریق یلہ اسمہ دوہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ کہہنہ کالاہ کتھہ کرت دراؤ۔ نیمہ نیر تھہ  
 دین نار غریب مسلمان ہند زراعتس بہہ مارن تہند چارواوی تہ گہن **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** اللہ  
 تعالیٰ اس چھو نہ پسند فساد **وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ** تو پتہ یلہ تہس ونہ چھو یوان خدایس کھو ژ لوکن مہ  
 واتاوا نقصان **أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ** آمادہ چھو تہس کران سببہ تہ نخوت زیادہ گناہ کرنس پیٹھہ  
**فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ** تسدہ حقہ چھو بس نار جہنم تھہ منزواتھہ ہمہ تہس سو سببہ تہ غر و رک نار **وَلَبِئْسَ**  
**الْبِهَادُ** کاژہ چھہ جای آراج چھہ سو جہنم **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَيْتُرِي نَفْسَهُ** بہہ چھو لو کو اندرہ  
 ژورسم قسم یم ہن پان کنان چھہ **ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** خدایہ سندر ضاژھانڈنہ خیرہ **وَاللَّهُ**

التَّاسِ مَنْ كَثُرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
 اللَّهُ رَأَوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ۝ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ  
 الشَّيْطَانِ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ

رَأَوْفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھوتھیں بدن پیٹھہ سیٹھاہ مہربان  
 فِي السَّلَامِ كَافَّةً اے باایمانو داخل سپدو اسلامس اندر پور پور۔ اسلامک ساری حکم انو بجاؤ حکم  
 مانہ تہ اڈین حکمن پیٹھہ نہ عمل کرن یہ چھہ یہودن ہنز طریق مسلمان گو سؤی بس سارنی حکمن گردن  
 دارہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ پتہ پتہ مہ چکو شیطانہ سندین پدین دورنگی تہ نفاق تراوہ۔  
 اسلامہ کین حکمن سیت مہ ملہ ناو پتہ خیالہ یا شیطانہ سندہ وسوسہ سیت بدل احکام إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُبِينٌ پزپاٹ شیطان چھو تہ ندون دشمن۔ پتھہ آہہ کر تمس منز چھو اللہ تعالیٰ بدعتہ چین کا میں رد  
 کران پتھس آہہ کر تمس اندر آس مخلص بدن ہنز تعریف۔ بعضہ وقت چھو مخلص بندہ تہ افراطس  
 گرفتار سپدان۔ سو چھو پتہ خیالہ کانہہ رژ کا ماہ کران مگر سو چھہ شریعتس تہ سنتس موافق آسان۔ یوسہ  
 کام نہ سنتس موافق آہہ تھہ چھہ ونان بدعت۔ یہودی دینس منز آس بٹ واراکھہ تعظیمک دوہا۔ چنانچہ  
 حضرت عبداللہ بن سلام ہم یہودن ہند یو عالمہ اندرہ آس تم آس اسلام اتھہ تہ اتھہ دوہس تعظیم چہ  
 نظرہ وچھان۔ بیہ اوس یہود تمس منز وونہ ماز حرام تہ حضرت عبداللہ بن سلام آس نہ اسلام اتھہ تہ  
 وونہ ماز کھیوان اتھہ منز آس زانان پتہ خیالہ خدایہ سز اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ان کور اتھہ خیالس اصلاح  
 فرموان اے باایمانو اسلامک ساری احکام انو بجا۔ سمہ آہہ کر تممک معنی تہ تفسیرہ سیت چھو ظاہر  
 سپدان کہ بدعتہ چین تہ خلاف شرع کا میں کتھہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ مذمت تہ رد فرماوان حدیث شریفن  
 منز چھو وضاحتہ سان بدعتہ چین، خلاف شرع تہ خلاف سنت کا میں ہنز مذمت بیان کر تھہ سخت وعید  
 بیان کرنہ آمت حقیقتس اندر چھو بدعت سیٹھاہ مذموم چیز۔ کیا زہ بدعت گو غیر شریعتس شریعت

بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿۶۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي  
 ظُلْمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَأِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ  
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۶۶﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ

بنیوں۔ شریعت گوئی یہ خدایہ سندہ طرف آسہ۔ یہ حضرت شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ  
 سندہ طرفہ اوٹمت آسہ۔ وون بس شخصہ پنے طرفہ کانہ چیزہ انور اوہ بس نہ شر عس تہ سٹس منز آمت  
 آسہ تہ گو خدا بس پیٹھ افتراء کرن ایز نور اوان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لیس خدا بس  
 پیٹھ ایز نور اوہ تس برابر چھونہ ظالم کانہ۔ زیادہ مشکل چھو یہ کہ اس بد چچ کام کردہ نس چھونہ توبہ  
 کر تک توفیق تہ بنان کیا زہ اس چھونہ امہ کامہ ہندہ گناہ آسک احساسی سپدان زانہ سو چھو زانان  
 بو چھوس یہ کام رٹر کران۔ حالہ یہ چھہ سر اسر نافرمانی تہ گناچ کام قَانُ زَلَلْتُمْ پس ہر گاہ جہند قدم  
 ڈلہ تہ ثابت زودنہ اسلامس پیٹھ یعنی جہہ کرو نہ اسلامہ کین سارنی احکاس پیٹھ عمل مِّنْ بَعْدِ مَا  
 جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ توبہ اسلامہ مذہب حق آسپہ نہ دلیلہ واتنہ پتہ ادہ تمیوک نقصان چھونہ کانہ  
 اس دمو خلاف اسلام کامہ کردہ وین ضرور سزا فاعلموا ان الله عزيز حكيماً جہند گڑھہ زانن وارہ  
 پاٹھ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو زبردست حمتہ وول هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِّنَ  
 الْغَمَامِ وَالْمَلَأِكَةِ چھہ پراران تم مگر اتھ تھہ کہ اللہ تعالیٰ تہ جہند ملائک گڑھہ واتن تمن نشہ  
 سفید ابرہ کین سا سبانن منز تمن سزا نہ خیطرہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِیہ گوڑھہ قصی ختم بن کرنہ۔ یعنی  
 جزاء و سزا ک قصہ بس قیامتہ دوہہ طے کرنہ پتہ۔ سو گڑھہ دنیا سی منز طے کرنہ بن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ سی گن بن سارے کامہ واتا ونہ۔ ساری مقدمات پیش کرنہ۔ سو ی گڑھہ پائے سارنی  
 امرن ہند فیصلہ بانبران کیا زہ چھہ ہم۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ  
 پرٹھو جہہ بنی اسرائیلن اسہ کاٹراہ نہ دلیلہ کردہ تمن پیش ہدلیتہ چہ، سمہ جہندہ خیطرہ جہ نعمہ آسہ مگر

اتَيْنُهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱﴾  
 زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۲﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَدْ

تموزان نہ تمن نعمن ہنز قدر تمو بدلاوہ تمہہ نعمو کرس سیت وَا مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَنَ لَسْ اَلکھاہ بدلاوہ خدایہ سز نعمت کُرا ن نفیس سیت سو نعمت واتتمہ  
 فَكَانَ اللَّهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ اده اللہ تعالیٰ تہ چھو سخت عذاب کرہ و ن تس سو سز اییہ دنہ تس  
 دنیا س اندر یا آخر تس اندر زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا چ زندگی چھہ کافر ن  
 مزین تہ خوبصورت بوز نہ یوان وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا توے چھہ تم مسکین تہ فقیر  
 با ایمان تس نہ ٹھہہ کران وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ تم لوکھہ  
 خدایس کھوڑ تہ شر کہ نشہ پتھہ رُود تم آسن قیامتہ دوہہ تمن پتھہ کنہ سیٹھاہ تھدین مرتین اندر  
 اعلیٰ علیس اندر۔ انسانس پڑہ نہ مال و دولتہ سیت مغرور سپن کیا زہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  
 حِسَابٍ اللہ تعالیٰ چھو رزق عطا کران یمن یژھان چھو حسابہ روستوی۔ امیک دار و مدار چھو  
 قسقس پتھہ۔ امیک دار و مدار چھو نہ کما س تہ مقبولیتس پتھہ۔ یعنی یہ چھو نہ ضروری کہ بس مال و  
 دولتس اندر بوڈ آسہ سو ی چھو اللہ تعالیٰ اس نشہ مقبول تہ مقرے۔ بدکتھہ چھہ خدایس نشہ  
 مقبول آسن تھہ چھو نہ ماس سیت تعلق کنہہ تہ سو چھو کنہہ وقتہ فقیرس مالدار بناوان تہ کنہ وقتہ  
 مالدارس فقیر تہ محتاج بناوان۔ چنانچہ یے فقیر صحابہ صیب یمن تم کافر مالدار ٹھہہ کران  
 آس بناو اللہ تعالیٰ ان بنی قریظہ تہ بنی نضیر کہ مال و دولتک، بیہ روم تہ فار سکین بجن بجن سلطنتن  
 ہند مالک کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اکھہ زمانہ اوس ساری لوکھہ آس اکسی دینس پتھہ۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا  
فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۲﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ

کیازہ گوڈنی آے دنیاں منز حضرت آدم بیہ تہند باڑ حضرت حوا یمن تم اولاد از اے تمن آس  
حضرت آدم علیہ السلام دین حق تعلیم دوان تم آس تمہہ تعلیمہ موجب عمل کران، اکس مدلس  
تال رودیہ سلسلہ تھے پاٹھ پکان تو پتہ پیو طبیعتن منز اختلاف تمہہ سیت پیواغراضن اندر تہ اختلاف  
تو پتہ پیو و کہنہ کالاه گڑھتھہ عملن تہ اعتقادن منز تہ اختلاف فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ  
وَمُنذِرِينَ سو اختلاف دور کرنہ خیطرہ سوز اللہ تعالیٰ ان تمن گن پیغمبر بشارت دودہ ون پڑتھہ  
ماندو نین بیم کرہ ون پڑس انکار کرہ ورنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بیہ سوزہ تم تمن سیت پتہ  
کتابہ یمن منز پوز اوس لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تھہ سو تمن کتابن تہ پیغمبران  
ہندہ ذریعہ فیصلہ کرہ تمن معاملن ہند یمن منز یمن لوکن اختلاف اوس وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ اختلاف پوونہ تھہ اندر مگر تموی یمن سو کتاب دنہ آس امرَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ  
الْبَيِّنَاتُ نن تہ واضح احکام تمن نشہ واتنہ پتہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ پانہ وان اکھ اکس پیٹھہ سرکشی کر نکہ  
سببہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پس کور ہدایت اللہ تعالیٰ ان با ایمان لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ  
بِإِذْنِهِ تھہ پڑہ تھہ کن تھہ منز تمن اختلاف اوس پتہ حمتہ سیت وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالیٰ چھو و تھہ ہوان یمن یرشہان چھو سیزہ وتہ گن۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ  
لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ای مسلمانو کیاہ تو بہہ چھوہ گمانہ تھہ کیا اثر و جنس

لَهَا يَا نِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ  
 الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ  
 قَرِيبٌ ﴿۱۶۱﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ  
 خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۶۲﴾

مختره وراى۔ حالانکہ وہ وات نہ توہمہ تہہ تکلیف تہہ تکلیف بروٹھین مسلمانن واتمت چہہ  
 مَسْتَهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ رٹ تنگی تہ فقرن بیاریوتہ سختی۔ وَرُزِلُوا بلا یوتہ مصیبتو سیت آی  
 تم دونوتہ الراونہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یوت پیٹھہ واژنوبت کہ تمہہ  
 وقتک پیٹھہ تہ بیہ تم تمن سیت با ایمان آس ساری لگ ونہ۔ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ کرسناواتہ مدد خدا  
 سمیک اسیہ وعدہ چھو آمت کرنہ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ جواب آکھ دنہ خبردار روزیاری تہ  
 مدد خدا چھو نزدیک واتہون یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پرژھان چھہ توہمہ یارسول اللہ با ایمان خرچ  
 کیاہ کرو کوتاہ کرو۔ کس پیٹھہ کرو قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فرما یو کھہ یہ کئیہ ہاہ تہہ خرچ کرو مالہ اندرہ  
 کم یا زیادہ فَلِلَّهِ الدِّينِ پس گوہہ گوڈہ دین ماس ماجہ یلہ تم محتاج آسن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بیہ آشناون بیہ یتیمن تمن نہ مول آسہ بیہ مسکینن بیہ مسافرنن وَمَا  
 تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو پتہ یوسہ نیکیاہ کرو تہہ پس بیشک اللہ تعالیٰ آس چھہ کج  
 پورہ خبر کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اے مسلمانو فرض آو کرنہ توہمہ پیٹھہ جہاد ہمیشہ خیطرہ۔  
 اگرچہ سو چھو توہمہ ناپسندی مگر توہمہ چھنہ چیزن ہنزنن حیقتن پیٹھہ نظر وَعَلَىٰ أَنْ تَكُونُوا سَيِّئًا وَهُوَ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ بسا اوقات بہہ توہمہ بس چیز ناپسند آسہ سو آسہ تہمدہ خیطرہ رت تہ بہتر وَعَلَىٰ أَنْ تَكُونُوا  
 سَيِّئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ تہ وقتہ بہہ توہمہ آسہ کانہہ چیز پسند مگر سو آسہ تہمدہ خیطرہ چھہ، خراب تہ مضر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ  
 قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ  
 كُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

والله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ای چھو سو روی زانان ہتھہ چھوہ نہ زانان۔ جہاد کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن ناپسندی، چھو پر ہتھہ حالس اندر فاسیدے فاندہ۔ کامیابی۔ مال غنیمت یا شہادت تہ بدمزور۔ جہاد نہ کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن پسندی چھہ بھہ خرابیہ آکھہ ذلت تہ فقر بیہ ثوابہ نشہ محرومی۔ جہادس اندر چھہ کلمہ اسلاج بلندی۔ مسلمان ہند عزت تہ سطوت۔ لہذا آسو خدلیہ سندس کھمس تقیل کرنس اندر جلدی کران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزاکھہ لوکٹ لشکرہ جہاد کرنہ خیطرہ۔ تمیگ امیر لشکر کوزکھہ حضرت عبد اللہ بن تحش پٹن پو پھتر برادر تمو کور مشرکن سیت جہاد ہتھہ منز مور تمو عمر بن عبد اللہ حضری آکھہ کافرہ۔ ماہ جمادی الثانی کہ ہتھہ دوہہ ہتھہ منز احتمال اوس ماہ۔ رجبکہ غرہ آسنگ۔ آکھہ پیٹھہ کور کافر و اعتراض کہ مسلمان چھہ تعظیم کین رتین منز تہ جہاد جاری تھوان۔ مسلمان سپد تردد پیدہ تمو پر ژھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ۔ ائی سپدیہ آئیہ کریمہ نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ پر ژھان چھہ توہمہ با ایمان تعظیم کس رتین اندر جنگ کرنس متعلق قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ہتھہ فرما دیو کھہ واقعی تعظیم کس رتین اندر جنگ کرن چھو بوڈ گوناہ یلہ قصد ازانہہ کرت واقعی سپدہ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مگر لوکھہ خدلیہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ ہتھہ رٹن۔ خدلیہ سندس گن آسس انکار کردن مسجد حرامس منز گفر تہ شرک جاری تھوان تہ پوتل تھاون تہن ہنز پر ستش کرن بیہ تنگ لوکھہ جلا، وطن کرن تمہہ شہرہ منزہ کڈن یہ چھو زیادہ



اللَّهُ وَالْفِتْنَةَ الْكَبْرَىٰ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ  
 حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَّرْتِدِدْ  
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ

بوڈ گناہ خدا کی نشہ و الفتنہ الکرمن القتل زیادہ بوڈ گوناہ گودین حقس اندر با ایمان ہندین دلن اندر شبہ تراوتھہ تم لمہ دینہ نشہ پھرن۔ بیہ تمس پیٹھہ ظلم و تشدد کرن۔ بیہ کنس خدا کی شریک ٹھہراون۔ بیہ چہو زیادہ مشکل کا نہہ شخص مارنہ خوتہ تعظیم کین رتین اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا بیہ چھولمہ خوتہ مشکل کہ تم مشرک چھہ ہمیشہ توہیہ سیت جنگ کرنگ ارادہ تھاوان پنہ گمانہ۔ توتان یوتان توہیہ واپس پھرہ نوہ دین اسلامہ نشہ کس دین توہیہ اختیار کورمت چھوہ۔ گرس گن، ہر گاہ یکن پلہ ہا۔ ون یلہ یہند ارادہ امہ قسمک چھہ لہذا چھو توہیہ لازم سارنی رتین اندر یمن سیت جہادہ خیطرہ تیار روزن۔ تعظیمک ریتھہ آسنگ نہ کا نہہ پرواہ کرن۔ لہ گروہہ وارہ ہتھد خیال کرن کہ۔ وَمَنْ يَّرْتِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کس اکھاہ توہیہ اندرہ کافرن ہنزہ کوشہ سیت امہ پنہ دینہ، دین اسلامہ نشہ پھیرہ تمہ منزہ نیرہ یعنی مرتد سپدہ العیاذ باللہ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ توپتہ مرہ گرس پیٹھہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کس تم لوکھہ تم چھہ تہنزہ سارے عملہ گروہن ضائع دنیا و آخرتس اندر وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تمے آسن نارس منزواتن والیواندر ریتھہ نارس اندر تم ہمیشہ روزن دزان ہاں ہر گاہ کا نہہ مرتد سپدہ تھہ دوبارہ مسلمان سپدہ آسند اسلام چھو قبول۔ تسنز رتہ عملہ تہ دین دوبارہ اسلام اتھہ قبول کرنہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیشک سمولوکو

## وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

ایمان بخدا الون بیه، مہم ہجرت کریمہ، مہم جہاد خدایہ سزہ و تہ اندر کر۔ **أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ** تم لو کہہ چھہ امیدوار پروردگارہ سہدس ر **خمس وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اللہ تعالیٰ تہ چھو تہہہ حقہ معفرت کرہ و ن رحم کرہ و ن۔ یمو صحابہ صیو اتھہ مذکورہ جہادس اندر شمولیت کر مثر آس تمن اوس ترؤد کہ خبر چھاسہ ما آسہ گناہ کھو تمت تنظیمہ کس ر تیس اندر جہاد کر نہ سیت۔ سؤ ترؤد کو رکھہ اللہ تعالیٰ ان مہمہ آیہ کریمہ سیت دؤر **يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** پر ژھان چھہ توبہہ یار رسول اللہ با ایمان شرابس تہ زارس متعلق **قُلْ فِيهِمَا أَثْمٌ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ** تہہ فرماوید کہہ یمن منز چھو بوڈ گناہ اگر چہ نفع تہ چھو کینہہ یمن منز لو کن ہندہ خیلرہ **وَأَثْمُهُمَا الْكَبِيرُ مَن تَفْعِيهِمَا** مگر گناہ تمن ہندوی چھو زیادہ یمن ہندہ نفعہ خوتہ۔ یہ چھو گوڈ نیک آیہ کریمہ ئیس شرابس تہ زارس متعلق نازل کر نہ آو۔ ہتھہ منز بیان کر نہ آو کہ مہم دو یو چیز ویجئے شرابہ تہ زارہ سیت چھو شخص وار یمن گونہن منز گرفتار سپدان۔ کیا زہ شراب چینہ سیت چھہ عقل ڈنجہ روزان۔ یوسہ عقل انسان گنہہ کر نہ نشہ ہتھہ رٹان چھہ۔ یلہ عقلہ اندر فتور یوان چھو، انسان چھو گنہن تہ نافرمانین منز دروؤ دوان۔ عقل چھہ ونان ہتھہ رزہ ییمہ سیت چارواکی سز ن زلگن گنڈ (ڈنگ) چھو کر نہ یوان ادہ چھونہ سوما لکس نشہ ژلٹھہ ہیکان۔ ہتھہ ڈنگ ونان چھہ۔ ہتھہ پاٹھہ چھہ عقل انسانس گنہو تہ نافرمانیو نشہ ہتھہ رٹان۔ زارہ سیت چھو مال و دولتک حرص تہ طمع پیدہ سپدان مہمہ حرصہ تہ طمعہ موکھہ چھو شخص تھہ دوان تہ ژورہ کران۔ لو کن ہندس حقس پیٹھہ ناجائز طریقہ پاٹھہ قبضہ کران۔ امی طریقہ چھو سوار یمن گنہن گرفتار سپدان۔ یمن دون چیزن شرابک تہ زارک نفع تہ فایدہ چھو عارضی لذتہ حاصل سپدن کم کینہہ و قس تان۔ بیہ مال حاصل سپدن زار گندت۔ سؤ تہ چھو عارضی پاٹھی آسان۔ کیا زہ سؤ چھو بے برکت جلدی ختم گوہان۔ لہذا چھو نہ یمن دوشون چیزن ہند نفع تہ فائدہ یمن ہندس نقصانس تہ ضررس مقابل کنی۔ لہذا یوت یمن منز نقصان چھو تیوت چھو نہ نفع تہ فایدہ۔ نفع تمن دون چیزن ہند چھو عارضی تہ وقتی۔ ذاتی تہ انفرادی۔ مگر ضرر یمن دون ہند چھو دائمی متعدی تہ عام۔ بعضے صحابہ صیو تر دو شراب چون تہ زار گنڈن فوراً امی آیہ کریمہ کہ نازل سپدنہ سیت۔ مگر بعضی روادیمہ کیو مضر تو نشہ چنہ خاطرہ احتیاطی

## قُلْ فِيهِمَا اثْرُ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا كَبِيرٌ

تدابیر اختیار کرتے بدستور استعمال کران۔ پتہ یلہ سپد بیاکھ آئے کریم لیس سُوْرہ مایدس منز چھو نازل۔ یکدم رُودساری صحابہ صیب شراب چہ نہ نشہ تہ زار گند نہ نشہ ہتھ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ اِی بایمانو شراب چون، زار گندن، پوتلین پرستش کرن تہ تیر وسیت ماز تقسیم کرن تم ژوشوے چیز چھ مردار نجس تہ ناپاک۔ ممو چیز و نشہ روز و ہتھ۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ تَنْتَهُوْنَ شیطانہ چھو نہ یڑھان مگر توہہ منز عداوت تہ دشمنی تراوان۔ شراب چلیہ سیت تہ زار گند ناونہ سیت۔ بیہ چھو شیطانہ سند غرض ممو دو یو چیز وسیت ہتھ ہتھ رن خدایہ سندہ یادہ نشہ۔ خصوصاً نماز پر نہ نشہ۔ کیا زہ شراب چیتھ چھو شخص بیہوش تہ مست سپدان۔ اتھ حاکس منز تھہ پاٹھہ بیہہ خدایہ سند یاد کرت۔ یا نماز ہرت۔ زار گند تھ چھو زینہ وان شخص خوش سپدان۔ اتھ خوشی منز چھو نہ تس خدا ژتیس پیوان۔ لیس شخص ہاران چھو ممو غمگین تہ آزرده سپدان۔ تمہ علاوہ چھو سو اتھ فکرہ آسان کہ بیس بازس منز تھہ پاٹھہ زینہ بو۔ امہ فکرہ سبہ چھنہ تس خدایہ سنزیاد کرنس کن یا نماز پر نس کن اتھ وتھ پیوان۔ شیطانہ سنز چھہ کام بنان۔ اصل مقصود اوس ہتھ آئےہ کرتس منز شراب تہ زار حرام آسن بیان کرن۔ مگر سیت آئی بیان کرنہ بیہ زہ چیز۔ ازلام تہ انصاب۔ ازلام چھو زارہ کیوی قسمواندرہ اکھ قسم۔ ہتھہ پاٹھہ کہ پانژھہ شہ زن آس سمت چندہ کرت مول ہیوان وونٹھہ یاکانہ جانورہ توپتہ آس تس کھش کران تہ ماران توپتہ آسنہ رقمہ موجب تسدس مازس تقسیم کران، تم بوت رقم کوڈمت آسہاتس دہن تیوت حصہ نہ بلکہ آس کہہنہ تیر اتان یمن تیرن علامات تہ نشانہ آس آسان تھوانہ آمت تے تیر آس اکس تھلیس منز تراوان توپتہ تھیلہ منزہ اکھ تیراہ کڈان۔ تمی موجب اکس زلس مازدوان امہ سیت اوس اکس کم تہ اکس زیادہ حصہ واتان۔ انصاب گیہ بت پرستی۔ امہ اندرہ چھو مطلب شراب چھنچ تہ زار گند چ پور مذمت کرن۔ یا فرماو کھہ شراب چون تہ زار گندن چھو اتھ سزاوار کہ تم گڑھن بت پرستی سیت ذکر کرنہ ین کیا زہ تم زہ چیز چھہ خدایہ سندہ یادہ نشہ خصوصاً نمازہ نشہ (یوسہ نماز اسلامہ کیوتہ ایمانہ کیوشعائیروتہ نغانواندرہ بوڈ نشانہ چھو) ہتھہ رٹان یلہ امہ موجب ایمانہ نش شخص دور پیو دویمہ طرفہ چھو اوس گُرس تہ بت پرستی سیت واطھ

مِنْ تَفْعِيهَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ  
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
 مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۰﴾

لگان۔ امی مناسبہ آو شراب چھینس، زارگندس تہ بتہ پستی منع کرنہ۔ وارہ گزہہ عقلہ والین ہند غور  
 کرن کہ کوتاہ چھہ چھو شراب چون تہ زارگندن۔ اسلا مس اندر چھو شرابک تاؤأم الخبائث بیہ راس  
 الاثام یعنی سارنی چھہ کامین ہنز موج تہ سارنی گنہن ہند منع تہ اصل چھو شراب چون وَيَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ بیہ چھہ تم پر ژھان توہہ کیا کرن خرچ کوتاہ کرن خرچ قُلِ الْعَفْوَ تہہ فرماو یوکھ  
 بیہ پنہ نیو تہ پنہ عیالہ کیو ذالی اخراجا تو نشہ بچان آسوہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ \* فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیاہ چھو اللہ تعالیٰ واضح کران تہ نہ راوان تہندہ خیطرہ پنہ احکام بیہ  
 تہہ وارہ فکر کران آسودنیو آخر تہ کین معاملاتن اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى بیہ چھو تم پر ژھان  
 توہہ تیمن متعلق قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ تہہ فرماو یوکھ پر تہہ کاماہ تہنز سنبھالن تہ درست کرن  
 چھہ بہتر وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ہر گاہ تہہ تم پانس سیت کھینس چھینس اندر، تجارتس اندر ملہ  
 تاو یوکھ کانہہ حرج چھونہ۔ پن چھوہ بابی وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ مگر اللہ تعالیٰ چھو زانان  
 توہہ اندرہ بدنیت کس چھو۔ نیک نیت تہ کوم سنبھالہ ون کس چھو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ یرہہ ہاسخت تہ دشوار احکام نازل کرت کرہ ہیوہ مشتقس گرفتار مگر تم یو ژھنہ تہ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو زبردست حکمتہ وول۔ صحابہ صیواندرہ اکھ صاحبہ یمن تاواوس مرثد  
 بن ابی مرثد۔ تمن آس خواہش اکس مشرک زنانہ سیت نکاح کرنچ بروٹھ پیٹھے۔ تہہ متعلق آیوہ  
 سُو صاحب اجازت پنہ نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کور نازل بیہ آیہ کریمہ

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أَلَمَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعِبَتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَاعِبَتُكُمْ أُولَٰئِكَ  
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۳﴾ وَ  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ لَا فَاعِلَ لَهَا وَالنِّسَاءُ فِي

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا اے باایمانو نکاح مہ کرو مشرک زنان سیت یوتان نہ تمہہ ایمان  
 ان وَلَا أَلَمَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعِبَتِكُمْ پڑپاٹ مسلمان باایمان کنیزی چھہ بہتر مشرک آزاد  
 زنانہ ہندہ خوتہ اگرچہ سو آستن حسن وجمالکہ لحاظ توہہ پسندی وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 مسلمان باایمان زنان مہ کرو نکاح مشرک مردن سیت یوتان نہ تم نہ ایمان انن وَلَا وَاعِبَتُكُمْ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا وَاعِبَتُكُمْ پڑپاٹ باایمان غلامی چھہ بہتر مشرک آزاد مردہ سہہ خوتہ اگرچہ  
 سو آستن بیہ سئہ اعتبارہ پسندی أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ کیاہہ ہم مشرک چھہ ناددوان  
 نارس کن وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ چھہ ناددوان بواسطہ حضرات  
 انبیاء علیہم السلام جنس تہ مغفرتس کن پنہہ حکمہ سیت وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیہ چھہ اللہ تعالیٰ بین احکام تراوت بیان کران لوکن۔ یتھہ تم نصیحت حاصل کرن وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 الْمَحِيضِ بیہ چھہ پڑژھان توہہ لکھہ حیض متعلق۔ یلہ زنان سو وقت یوان آسہ متھس حالتس  
 منز چھہ تمن نزدیک گڑھن جائزہ نہ قُلْ هُوَ أَذَىٰ جہہ فرما یوکھہ سو چھہ ناپاکی فَاعِلَ لَهَا وَالنِّسَاءُ فِي  
 الْمَحِيضِ پس آسو الگ روزان زنان رشہ حیضہ کس حالتس اندر۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ تمن  
 نزدیک مہ آسو سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ توتان یوتان نہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بلکہ  
 گڑھنہ مردہ سہہ حیضہ کین دوہن اندر تونہ پڑٹھہ کوٹھہ آگن تان، نہ اتھہ لاگن نہ توکن نظر دن۔

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۳﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ سَأَلْتُمُوهُنَّ

ہر گاہ کا نہ شخص حیضہ کین دوہن اندری نزدیکی کرت نفع خواہش پورہ کرتس پڑہ توبہ کرن، استغفار پرن کیا زہ یہ سپد سخت گنہس گرفتار۔ امہ علاوہ چھو افس مردس جرمانہ تہ دین سو گو یکہ نہ رقم گزہ خیرات کرن **فَاذَاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** یلہ تمہ پاک آسن سپدان۔ بس آسو تمن نزدیک یوان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ مگر تمی جایہ کن سمہ جایہ کن ینک تجویز اللہ تعالیٰ ان کورہ۔ سوگیہ سوی جای سمہ نشہ دور روز نک حکم کور نوہ حیضہ کین دوہن اندر۔ سوگیہ برو نطمہہ طرفی جائے۔ امہ جایہ نشہ گزہ نہ ڈکن زاہ تہ بیس جایہ گن تہ چھو حرام تہ ناجایز ہمیشہ یتھہ پاٹھہ حیض کن دوہن اندر برو نطمہہ طرفی جای استعمال کرن حرام تہ ناجایز چھو۔ کیا زہ یمن دوہن چھہ آسان سو جای ملوث تہ ناپاک حیضک خون جاری آسنہ موکھہ۔ پتہ چھہ سو جای حیضک دوہ ختم گزہ تھہ پاک سپدان۔ مگر پاکھہ و تھہ ہتمہ طرفی نوسہ ہتمہ سو چھہ ہمیشہ آسان ناپاکھہ۔ مردن ہنز تہ زنانن ہنز تہ لہذا گزہ ہمیشہ تمہہ جایہ نشہ دور روزن۔ بیہ چھو حیضکس حالتس اندر نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ نشہ گزہ ہنس منز یہ خطرہ کہ مردس چھو ستر چہہ جایہ تمہہ سیت ورم کھسان تہ نار گندان۔ زنانہ چھو بچہ دانہ اندر تیتھہ قصور پیدہ سپدان سمہ سیت سہ بانٹھہ تہ لے اولاد چھہ سپدان **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ ٹاٹھہ توبہ کرہ ون بندہ **وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** بیہ چھس ٹاٹھہ صاف و پاک پاٹھہ روزن وال بندہ۔ یہود آس ونان یلہ زنانہ نشہ مرد بیہ برو نطمہہ جائے استعمال کرنہ خیطرہ مگر پشتمہ کہ طرفہ تیلہ چھو اولاد یعنی شر دولہ اچھہ کر تھہ زیوان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یہودن ہند یہ خیال چھو بالکل غلط **نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ سَأَلْتُمُوهُنَّ** زنانہ تمہزہ چھہ زراعت تہند۔ پس بیو زراعتس پنہ نس۔ پار خوش کردہ مگر جای گزہ آسن سوی یتھہ منز بیول تراوتھہ کل کھسہ۔ ادہ سہ جای یتھہ پاٹھہ استعمال میں کو کر تھہ یتھہ پاٹھہ۔ ذرن کر توبہ پشتمہ کن کر تہ۔ لہ روز تھہ کر تہ۔ بہتھہ کر تہ۔ و تھہ ونہ کر تہ تمیک چھوہ توبہ اختیار۔ مگر جای گزہ آسن

وَقَدْ مُؤَاظَمْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مَلُوقُوا وَ  
بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳۲﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ  
تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۳﴾  
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ  
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۳۴﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ

سوی یوسہ امہ خیطرہ مخصوص چھہ سوگیہ بروئٹھہ طرح جائے۔ وَقَدْ مُؤَاظَمْتُمْ بروئٹھہ کُن  
سوزوپنہ طرفہ کانہہ رثعملاہ۔ یعنی زنانہ نشہ نزدیک سپدنہ اندرہ آسونیت تھوان اولاد حاصل  
کرچ محض نہ نفیج خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ بلکہ آسوامیدوارروزان کہ دیوہ اللہ تعالیٰ دنہ کنہ کی وقتہ  
اسہ اولاد عطا کرہ۔ کیا زہ اولاد صالح بہ پھور رثعمل۔ باقیات الصالحانہ اندرہ اکھ چیز وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
بیہ کھوژواللہ تعالیٰ اس تہمدین کمن مخالفت کرنہ نشہ۔ وَأَعْلَمُوا أَنكُمْ مَلُوقُوا بیہ تھادو یقین بیتک  
چھوہہ جہہ خدائس بروئٹھہ کُن واتہ ون تس سیت ملاقات کرہ ون۔ سارنی عملن ہند حساب دنہ خیطرہ  
وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ دیوہ بشارت خدائس کھوژہ ونین باایمان کھجیہ دیدارچ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ  
عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اے باایمانوہہ کرو خدایہ سندن نام پاک ٹھور پنہ نین قسمن منزر ژہ کامہ کرنہ نشہ  
یعنی خدایہ سندن قسم مہ آسواوان أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ نیکیو نشہ پتھہ روزنہ  
خیطرہ۔ پرہیزگاری نہ کرنہ خیطرہ۔ لوکن منزر صلح نہ کرنہ خیطرہ۔ مثلاً کانہہ باوہ ہاتسم خدایہ سندن قسم  
نمازنہ پرنس پٹھہ۔ یا کانہہ رثکام نہ کرنس پٹھہ۔ کھم چھو تھم سندن گڑھہ سو قسم پھراون کھج کفارت  
دن۔ سہ رثکام گڑھہ ضرور کرن وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سورے بوزہ ون۔ سورے زانہ  
وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ رثہ نہ توہہ لغوتہ بیوہہ قسمن پٹھہ وَلَكِنْ  
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لیکن سورہوہ توہہ تمن قسمن پٹھہ یمن متعلق  
دلہ سیت اُپرونہ تک قصد کورمت آسوہ۔ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون تمن تم اپزہ نشہ توہہ

مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۶﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
 عَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا  
 يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ  
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

کرن۔ اللہ تعالیٰ چھو تحمل سے زیادہ کرہ و ان لکن ین یؤلون من نساءہم تمن لو کن ہمدہ خیرہ چھو  
 حکم تم قسم باون زنانہ نزدیک گوہن پیٹھ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ بیان گزہہہہ ہمدہ ژون ریتن  
 فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر یمن ژون ریتن اندر اندر تمومردو قسم پھڑاوت زنانہ  
 نشہ نزدیک کر پس اللہ تعالیٰ چھو رحم کرہ و ان مغفرت کرہ و ان تہمدہ حقہ۔ تمن چھو نہ کانہہ باز  
 خواست وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ہر گاہ تمومامہ اندرہ طلاقہ کوی قصد کوراتھہ مدتس اندر رجوع  
 کورکھہ نہ زنانہ نزدیک سپدہ نہ سیت فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ سوڑی بوزہ و ان  
 سے سوڑی زانہ و ان۔ تلہ گوہوی طلاق ادہ پڑہ نہ مردس زنانہ نزدیک گوہن نوو نکاح کرنہ و رای۔  
 ایجاب و قبول سے فاتحہ خیر نوو پرنہ و رای وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق دنہ  
 آموہ زنانہ پیارہ ناون پنہ نین پانن یعنی نکاح مہ کرن ترین عذر ن یعنی حیض تان وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ  
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ تمن طلاقہ واجنن زنانہ چھو جائیز کہ تمہہ کیاہ کھٹن تمہہ یہ  
 اللہ تعالیٰ ان آسہ پادہ کورمت تہمدین رحمن چہہ دانین اندر اولاد یا خون حیض کیاہہ عدت تک حساب  
 چھو تمی موجب کرنہ یوان إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تمن پور پڑہہ چھہ خدایہ سزہ سے  
 کامل یقین چھو کہ ہتمہ دوہک۔ پتم دوہ گو قیامتک دوہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا یمن مطلقہ زنانہ ہندرن، خاوند چھہ زیادہ حقدار یمن کن رجوع کرنس سے یمن بیہ  
 واپس پنہ نس نکاحس منز تھونس منز اتھہ انتظار کس مدتس اندر اندر نو نکاح کرنہ و رای۔ ہر گاہ تم



ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

تمہ اندر نیک نیتی ہند ارادہ تھاوان آسن۔ یہ حکم اصلاح آویبان کرنہ سمہ خیطرہ کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ زنانہ ہند بہ چھہ تنہی حق مردن پیٹھہ، یتھہ مردن ہند چھہ زنانہ پیٹھہ  
 یعنی واجب آسنس منز چھہ برابر۔ مردہ سُنْدِ حق چھو زنانہ پیٹھہ فرمانبرداری کرن۔ مردہ سُنْدِ عزت  
 ر چھن۔ تمسندس چیزس نہ مال و متاعس ر چھہ نہ حفاظت کرن۔ بیہ پنہ نس پانس ر چھہ کرن وو پر  
 مردن سیت تعلق تھاوانہ نشہ۔ تمن سیت تمہہ ہاتھہ کرنہ نشہ۔ زنانہ ہند حق چھو مردن پیٹھہ۔ تمن  
 سیت رُت سلوک کرن۔ تہند اخراجات پورہ کرن۔ تمہ دیک احکام چھہ ناوان وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیہ چھہ مردن پنہ بین خاندانین پیٹھہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھو  
 عزتہ وول نہ حکمتہ وول۔ تمس چھو اختیار لیس فضیلت دیہ نہ تس الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طلاق یتھہ منز یہ  
 رجعت کرن جائیز چھہ مردس سو چھو دون لٹن تانن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  
 تمہ پتہ چھونہ بیہ رجعت کرن حق مردس یعنی دومہ طلاق پتہ۔ بلکہ چھہ زی صورتہ تمہ پتہ  
 یارٹس پانس نش باقاعدہ یا تراؤنس یکہ توتان یوتان عدت ڈ بریس پور حقوق ادا کرت۔ عدت ڈ برت ہر گاہ  
 تو پتہ مرد بڑھہ بیہ اس زنانہ سیت نکاح کرن۔ نو نکاح کرت نواہجاب و قبول کرت سپدہ  
 سہ بیہ آسنس زنانہ۔ ہر گاہ تر تم طلاق نہ ڈ تینس تلہ گنیہ بیہ اس مردس نشہ ترہہ جداتہ الگ۔ ادہ  
 چھونہ اس زنانہ اس مردس سیت بیہ نکاح کرن توتان جائیز یوتان نہ سوزنانہ بیس مردس سیت گوڈہ  
 نکاح کرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان برو تھمس آہیہ کر تھمس منز بانہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جَائِزًا چھونہ توہیہ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱۹﴾  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ  
 زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

اے مردو ان تَاخُذُوا مِمَّا انْتَبَهُوا مِنْ شَيْئًا اینکہ واپس کیا یہو جہہ تمہہ مالہ منزہ کہنہ نِس مال  
 توہہ یمن زنانن دیو تمہ آسوہ اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰہِ مگرے کھوژن سم ہاژہ کہہ  
 قائم بیکن نہ تھاوت سم پروردگارہ سد احکام تہ قانون یعنی تعلقات باہیں متعلق فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
 يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰہِ ہر گاہہ ہہ واقعی طور کھوژو۔ ای خدایہ سند احکام تہ قانون قائم تھاونہ کیوزمہ  
 دارو کہ سم ہاژہ بیکن نہ قائم تھوتھہ خدایہ سند احکام تہ قانون فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس چھونہ  
 کانہہ حرج تہ گناہ تمن پٹھہ فِيمَا افْتَدَتْ بِہِ بیتھہ اندر کہہ زنانہ کیادیہ طلاق بدل کیہنہ مال  
 مردس۔ اتھہ چھہ ونان خلع یعنی زنانہ ہیہ مردس طلاق کیہنہ مال دت تِلْكَ حُدُودُ اللّٰہِ سم احکام  
 چھہ پروردگارہ سد قانون فَلَا تَعْتَدُوهَا پس مہ کتر و یمن قانون ہنز خلاف ورزی وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰہِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ نِس اکھاہ خلاف ورزی کرہ خدایہ سندین قانونن  
 ہنز پس تے لوکھہ چھہ پنے نِس پانس ظلم کرہ ون۔ آخرتس منز گرفتار عذاب کرنہ سیت فَإِنْ  
 طَلَّقَهَا پس ہر گاہہ مردن اس زنانہہ بیاکھہ طلاق دیت دو یو طلاقو پتہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اده  
 چھنہ سوزنانہ حلال اس مردس پیٹھہ۔ یعنی اس سیت نکاح کزون چھونہ جائیز حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
 غَيْرَهُ یوتان نہ سوزنانہہ پس شخص سیت نکاح کرہ فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر سو دو سم خاوند اس زنانہہ  
 طلاق دیہ۔ تو پتہ تہنز عدت تہ ووبرس فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا پس چھونہ کانہہ  
 گوناہ ہر گاہہ یم گوڈ نکب ہاژہ پانہ وان رجوع کر تھہ ہیہ نکاح کرن اِنْ طَلَّقَا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰہِ

يَتَرَجَعَانِ تَلَاً أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمْ  
 النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا  
 لِيَتَّعِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

ہر گاہ یمن یقین آسہ اس کیاہ تھا وو خدا یہ سند احکام سے قانون یعنی حقوق زوجیت قائم و تحک  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تم چھ پروردگارہ سند احکام سے قانون تم چھ سووژہناوان  
 زانن والین ہدہ خیطرہ وَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ای مردویلہ جہہ طلاق دتوہ پنہ نین زانن طلاق رجعی  
 یعنی سو طلاق یتھہ منز مردس چھو اجازت نوونکاح کرنہ ورا ای رجوع کرن فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو  
 پتہ واتن تمہ زاننہ عدتک مدت و برنس قریب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس چھو اختیار توہہ  
 عدت گزہنہ بروٹھہ رجعت کر تھہ ریو کھہ تمہ پانس نشہ پنہ نس نکاح تل باقاعدہ سے رتہ طریقہ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تراوی کھہ یلہ رتہ طریقہ یوتان عدتک دوہ تمن پورہ پاٹھہ گزرن  
 وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِيَتَّعِدُوا مہ آسیو کھہ تمہ بند کران تمن تکلیف واتاونہ خیطرہ تمن پٹھہ  
 ظلم کرنہ خیطرہ عدتک مدت زینٹھرونہ سیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ پس نس شخصہ امہ سچ کوم  
 کرہ یعنی ناحق کانسہ ظلم کرہ۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سمو کورپان پانس ظلم کیا زہ آخرتس منز کھیہ  
 سو ظلم کر نک سزا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا خدلیہ سد آیات سے احکام مہ آسو زانن ٹھٹھہ  
 باشیہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاوژ تیس خدلیہ سزہ تمہ نعمہ سمہ توہہ عطا  
 کرہ نوہ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ خصوصاً گروادیہ بد نعمت کہ نازل  
 کرن توہہ پٹھہ یہ بد کتاب یعنی قرآن مجیدیہ ہمتہ تھہ یہ سیت اللہ تعالیٰ چھو توہہ وعظ و نصیحت

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى

کران وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ یہ کھوڑو اللہ تعالیٰ اس یقین زانویشک اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ پورہ زانوں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ ۗ یہ یلہ توہہ طلاق دتوہ پنہ نین زنانن توپتہ دو بر بیہ تہنز عدت ۗ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ۗ پس مہ رٹیوکھ ہتھ تہہ (ای رشتہ دارو) تمہ زانہ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نکاح کرنہ ۗ نیشہ پنہ نین مجوزہ خاوندن سیت ادہ آستن سوسی طلاق دوہون خاوندیاہہ کانہہ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ یلہ تمہ پانہ وان راضی سہمت آسن قاعدہ موجب ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ سموکھوسیت چھ نصیحت یوان کرنہ تس مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ لیس آسہ توہہ اندرہ پڑھہ کران معبود برحق بیہ تہتمس دوہس یعنی قیاس۔ تعمیل احکام خداوندی کرہ سوسی شخص لیس خدایہ سنز پورہ پڑھہ آسہ بیہ آسیس قیاق پڑھہ سمہ دوہہ خدالیس بروٹھ کنہ استادہ بیہ کرنہ۔ لیس نہ تعمیل احکام کران چھوزنہ تمس خدایہ سنز تہ قیاق پڑھے چھہ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ یہ نصیحت قبول کرن چھو تہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہنز تہ زیادہ پاکی ہنز تھہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ اللہ تعالیٰ چھوزانان سارے مصلوہ تہہ زانونہ کینہہ تہ۔ لہذا پڑہ توہہ خدایہ سہدہ فی حکمن پیٹھہ عمل کرن۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ماچن ہمد گڑھہ دودھہ دمن پنہ نین اولادن پورن دون ورن ادہ تمہہ ماچہ نکاحس اندر آستن یا طلاق دنہ آثرہ آستن لِيَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ یہ گو تہندہ خیطرہ لیس پورس

لَكُمْ وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾  
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْوَلَدَ وَلَا بَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودُ  
 لَهُ بِوَلَدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

مُدّ تس دودھ چاؤن بخره **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** اس چھ سندس ماس پیٹھ  
 چھوٹے اس ماجہ ہند کھین چین تہ پوشاک قاعدہ موجب **لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا** کانسہ شخص چھونہ  
 خدایہ سندہ طرفہ کانہہ حکماہ ونہ یوان مگر سوئی حکم ئس سوبرداشت ہیچہ کمر تھ لہذا آوزانہ حکم کرنہ  
 اس چھس دود و نک کیا زہ تہمدہ حقہ چھوتی سہل تہ آسان۔ مردس آو حکم کمر نہ تہمش زنانہ ہند کھین  
 چین تہ پوشاک و نک کیا زہ تہمدہ حق چھوتی سہل تہ آسان **لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْوَلَدَ وَلَا بَوْلُهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهَا**  
 ضرر تہ نقصان پیہ نہ و اتاؤنہ کانسہ ماجہ پنہ نس چھ سندہ سیت نہ کانسہ ماس پنہ نس چھ سندہ سیت۔ یعنی  
 چھ سندس ماس ماجہ ہند کمر نہ آھ اس چھ سند و جہہ تکلیف و اتاؤن۔ مثلاً موج کرہ ہا اس چھس دود ونہ  
 نغہ بلا وجہ انکار یا مول کرہ ہاجرا اس چھس ماجہ لغہ جداتہ دور توپتہ دیاوہ پیس کانسہ زنانہ اتھہ اس  
 دود۔ یا کرہ اس ماجہ آئزہ کھینہ چہنہ کن تہ اخر اجا توکن تنگ تہ کمر نہ کرن **وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ**  
 وارث پیٹھ تہ چھو بیوی حکم ئس ماس پیٹھ چھو **فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا**  
**جُنَاحَ عَلَيْهِمَا** پس ہر گاہ تم دوشوے یعنی مول تہ موج پانہ وان رضامندی تہ مشورہ سان دون  
 ورنہ اندر اندر اس چھس دود و ثمن بیضن اودہ ثمن پیٹھ چھنہ کانہہ گناہ **وَلَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرُضِعُوا**  
**أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ** بیہ ہر گاہ تہہ بیچو کہ چھ کیاہ چاوہ ناوون دود بیہ کانسہ زنانہ ہند کمرہ خاص وجہہ  
 موکھ۔ مثلاً پنہ ماجہ ہند دود آسہ تس چھس مضریا آسہ ماجی کمرہ تکلیف کمرہ و اتنک خطرہ تھہ تہ چھونہ کانہہ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمُ مَا آتَيْتُمُ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۱﴾  
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۲﴾  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ

گناہ توہم بیٹھہ اِذَا اسَلْتُمُ مَا آتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ یلہ تہہ دیو تمن سومزور یوسہ توہمہ تمن سیت مقرر  
 کر مرثا ابوہرت پاٹھہ تہ ضابطہ موجب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کھو ژو خد ایس  
 بیہ تھاو یقین کہ بزپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تہزہ سارے کامہ وارہو چھان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا بیہ تم شخص توہمہ اندرہ مر ن پتھہ گن تراوتھہ زنانہ منکوہہ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا تمن زنانہ ہند گدھہ پیازن ژورن ریتن تہ دہن دوہن۔ بیہ چھہ تہزہ عدت ایس کاس چھونہ  
 جائز تمن زنانہ پانس زینت گرن۔ مشک مٹھن۔ گرہ منزہ ٹیرن۔ یہ گپہ عدت تس زنانہ ہنز تمس خاوند  
 مومت آسہ بچہ آسین نہ شکمس منز کہہ تہ۔ سمہ بروٹھہ گدرے یہ عدت تس زنانہ ہنز ٹیس مردان  
 طلاق آسہ ڈیٹمت تمسز عدت چھہ تریہ حیض۔ بیاکھ گنہیہ تس زنانہ ہنز عدت تس خاوند مودمت  
 آسہ۔ شکمس منز آسین بچہ۔ تمسز عدت گیہ توتان یوتان سو پر لیسہ یعنی تمسز عدت چھہ بچہ زینس  
 تان تمیک حکم بیہ بیان کرنہ سورہ طلاقس اندر ۱۰ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ پس یلہ زنانہ پورہ کرن ٹین عدت پس چھونہ توہمہ کانہہ گناہ اے زنانہ ہند یو  
 متعلقہ تہ رشتہ دارو پتھہ تھہ منز کہہ تہہ زنانہ کیاہ کرن پنہ جہہ دو سمہ نکاح تلاش ٹیس شر عس موافق  
 آسہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو تہزہ سارنی کاین ہنز پور خبر تھوان وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ بیہ چھونہ توہمہ کانہہ گناہ ای مردوہر گاہ تہہ کانہہ

فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذُكَّرُونَ نَهْنٌ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ  
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُزُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ  
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۳۵﴾  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

اشاره کمر و امه قسمه چن زنانه سمه خاوند مرت عدتس منز آن نکاحس پیغامس متعلق یا پوشیده تھا  
 وونمیک اراده پنہ نین ولن منز۔ علم الله انکم ستذکر و نهن اللہ تعالی اس چھو معلوم کہ تمہ کرو ضرور  
 تمن زنانه سیت نکاح کر تک تذکرہ خیر۔ اشارہ پیٹھ تذکرہ کرنس چھو نہ کا نہہ حرج و لکن لا  
 تواعد و نهن سراً لیکن نکاحس متعلق گڑھنہ وعدہ قرار کرن پوشیدہ پاٹھہ إلا ان تقولوا قولا  
 معروفاً مگرے کا نہہ کتھاہ کمر و ضابطہ موجب تہ گو اشارہ پاٹھہ نکاحس متعلق کتھاہ و اتاوان  
 ولا تعزموا عقد النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ بیہ نہ کرو پوختہ ارادہ فوراً اس زنانه سیت نیتھر  
 کر تک یوتان نہ تس عدتک ایام ختم گڑھن۔ سمه عدتک حکم تہ تجویز اللہ تعالی ان پنہ کتابہ اندر  
 فرمودہ و اعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ بیشک اللہ تعالی چھو زانان تہ  
 سوزی بیہ تہندین دن اندر چھو فاحذروا پس کھو ژوتس۔ ناجائز ارادہ مہ آسودن اندر تھاوان۔  
 یعنی عدتس منزی مہ آسو نکاح کر تک ارادہ کران۔ کیا زہ عدتس منز نکاح کرن چھو حرام تہ ناجائز  
 و اعلموا ان اللہ عفور حلیم بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ اللہ تعالی چھو سیٹھاہ مغفرت کہ دن توبہ  
 کرہ و نین ہندن ہر گاہ کا نہہ ناجائز کامہ ہند ارادہ کورمت آسہ تو پتہ پیہ جس نادوم تہ پیمان گڑھت کرہ  
 توبہ تس چھہ امید مغفرتچ۔ اللہ تعالی چھو حلیم ہر گاہ توبہ نہ کرہ و نس جلدی سزا دن نہ تمہ سیت گڑھہ  
 نہ دھو کہ کیون سو کیاہ مولکیو بلکہ چھو خطرہ نہ نہ کنہ وقتہ رئیس لا جناح علیکم ان طلقتم النساء  
 ما لم تمسوهن او نفرضاوهن توبہ پیٹھ چھو نہ کا نہہ گناہ ای مرد و ہر گاہ تہہ طلاق دیو

تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۶﴾  
 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۳۷﴾

زمانن تمن اتھہ لاگنہ بروٹھے، کھس منز اٹنہ بروٹھے۔ بیہ مہر مقرر کرنہ بروٹھے۔ اتھہ صورتس منز چھونہ توہہ تمن زنانن مر دین مطہ کھسان وَمَتِّعُوهُنَّ تنھہ صورتس اندرو اتا و تہہ تمن کا نہہ فاندہ نہ نفعاہ یعنی تمن دیو تہہ خرچاہہ سمیگ ادنی درجہ گواشاگک اکہ جورہ نہ اعلیٰ درجہ گو مہر ک نصف عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ آسن والس پیٹھہ تنھہ تس شوبہ۔ تنگد تنس پیٹھہ تنھہ تس شوبہ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ خرچاہہ دستورہ نہ قاعدہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بیہ چھو لازم نیک معاملہ کرہ و نین لوکن پیٹھہ۔ پریتھہ مسلمانس پرہ رتوی معاملہ گرن۔ خوش معاملہ آسن بد معاملہ نہ لائن وَلَئِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ہر گاہ تہہ طلاق دیو تمن زنانن خلوت صحیحہ کرنہ بروٹھہ در حالیتھہ مہر اوس مقرر کرنہ آمت فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تلہ گزھہ تمن دین مقرر کرنہ آمتہ مہر ک نصف إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ مگرے زنانہ پتہ خواہہہ موجب سو نصف نہ معاف گرن أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نہ سو شخص معاف کرہ بس اتھہ نکاح جاری تھا و نک یانہ تھا و نک اختیار چھو۔ سو گواخوند۔ یعنی خاوندہ پر بودمہ سوزی مہر پتہ حق کرنہ وصول وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ای حقدار و جہند معاف گرن چھو زیادہ قریب پرہیز گاری سیت وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مہ مخر او پانہ وان اکہ گس پیٹھہ احسان گرن إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو تنھہ سارسی بیہ تہہ کران چھو ہارہ و چھان حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ راہجہ کرہ و سارنی



حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ  
 قِنْتَيْنِ ﴿۱۲۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا  
 اللَّهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ  
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا

نماز ان پختہ نہ نماز اتھہ گدھوہ یا پنیہ وقتہ نشہ ڈلہ وہ۔ بیہ کرور لہجہ منزمہ نمازہ۔ منزم نمازنگیہ وگر  
 نماز۔ نہ چھو بیہ تہ تاکید سارنی نماز ان ہندہ خاطرہ۔ کیا زہ پر بیٹھ نماز چھہ پانژو نماز واندرہ منزم نماز۔  
 سارنی نماز ان متعلق گدھوہ لازم تہ ضروری آسک بہوی خیال تھاون **وَقُومُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ** ووتھد  
 روزو خدا کس برو تھہ کتہ عاجزی سان۔ تھہہ کا نہہ حرکتھامہ کرو نمازہ اندر سمہ سیت لبند بیہ بیہ چھو نہ  
 نماز پران۔ سوگو کھیون چون۔ تھہہ کرنہ تہ اورہ پور نظرہ دنہ۔ **فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا** پس ہر گاہ  
 تھہہ کھو ژود شمس یا بیہ کانسہ کس پرو نماز پتھر، وودنہ یا سوارین پیٹھ بہتھ **فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا  
 عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ادہ یلہ امنک پورہ اطمینان سپدہ خوچ حالت گدھوہ ڈور کس کھر و خدیلہ سند  
 یاد یعنی پرو نماز حسب دستور تھہہ پانٹھ اللہ تعالیٰ ان پتھنا وود تھہہ تہ بیہ تھہہ زانہو۔ یعنی لڑایہ منزیاد شمنہ  
 سدہ خوفہ کتہ وقتہ وودنہ یا سواری پیٹھ اشارہ سیت نماز پران چھوہ جائیز۔ مگر امن و امان یلہ حاصل سپدہ تلہ  
 گدھوہ بیہ تھہہ طریقہ نماز ادا کرن سمہہ طریقہ خدا این کھم کور۔ سمہہ آئیہ کریمہ اندرہ چھو صاف ظاہر  
 سپدان کہ نماز و قس پیٹھ ادا کرن کوتاہ ضروری تہ لازمی چھو **وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا** بیہ تم توبہ اندرہ مرنس قریب آسن (اے مردو) تہ پتھ کن تراون زنانہ تمن پڑہ وصیت کرن  
**وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ** وصیتاہ پنہ نین زنانہ ہندہ خاطرہ **مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ** خرچ دنہ خیطرہ  
 اکس ور کس تان۔ بیہ گدھون نہ گھر و منزہ کڈنہ تمہہ زنانہ **فَإِنْ خَرَجْنَا** پس ہر گاہ تمہہ زنانہ پانے درایہ  
 گھرہ اندرہ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** پس چھو نہ توبہ کا نہہ گناہ اے اس بیتہ سند یوار تو **فِي مَا قَعَلْنَا**

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲﴾  
 وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳﴾  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  
 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۵﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ تہ اندر یہ کیونکہ ہاہ تمہہ زمانہ کرن پنے نس پانس منز کا نہہ جائز کا ماہ۔ زینت یا بیہ  
 کی نہہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ وول۔ یہ حکم چھو منسوخ سپد مت وراثتہ کہ  
 حکمہ سیت وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ بیہ تہن زنانن طلاق ونہ آمت آسہ تمن شوبہ خرج دین  
 ضابطہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ یہ چھو لازم پر ہیہ گزارن پیٹھ۔ ساری مسلمان گے پر ہیہ گاری  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تہہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ وارہ بیان کران تہ ویشہ  
 نادان تو ہیہ پن آیات تہ احکام تہہ تو ہیہ فکرہ ترہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  
 الْمَوْتِ تہہ وچھونا تہن لوکن گن سم درای ژلنہ خیطرہ پنے نیو گرو اندرہ (تم آس واریاہ ساس لو کہ)  
 مر ہیہ خوفہ۔ تہندس شہرس اندر یلہ طاعون ووتھہ یاد شمن سیت مقابلہ کر نک تاب او کھ نہ تہ توے  
 ژل۔ تمو کور خیال ژلنہ سیت لبو آس مر نہ نشہ نجات۔ تقدیرس پیٹھ ژودنہ راضی۔ تمہ پتہ یلہ وات  
 تم آس میدانس منز فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اتی فر موو کہ اللہ تعالیٰ ان مژو۔ یکدم موو ساری  
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ تو پتہ گو کی نہہ کالاه (ستھ آٹھ دوہ تقریباً) اللہ تعالیٰ ان کمر تم ہیہ زندہ یٹھہ تم امہ گنہہ نشہ توبہ  
 گرن اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو فضل کرہ ون لوکن پیٹھ یمن پیٹھ تہ  
 کوژن پن فضل۔ ہیہ زندہ کمر تھہ دیتھہ توبہ کر نک موقعہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لو کہ  
 چھنہ خدایہ ستر شکر گذاری کران وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ای مسلمانو تہہ منہ

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ  
 قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ  
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۸﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ  
 مُوسَى إِذْ قَالَ لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا  
 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

آسور من کھوژان۔ ٹھہ آسو خدایہ سزہ و تہ اندر خدایہ سندہ دینکے تھزہ خیطرہ جماد کران۔ جماد کر نہ  
 خیطرہ تیار روزان۔ بیہ تھاوو یقین اللہ تعالیٰ چھو سوزی بوزہ دن سوزی زانہ دن مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کہہ اکھاہ چھوئیس ووڑم دیہ خدائیس ووزماہ رت یعنی تہزن دن تن اندر کرہ مال پن خراج  
 وژہہ والنجر۔ اتھ تھوو اللہ تعالیٰ ان ناو قرض مجازہ پاٹھ۔ امہ اندرہ چھو مطلب پٹھہ پٹھہ قرضک عوض  
 ضرور چھو ونہ یوان، تھہ پاٹھ بیہ ضرور خدایہ سند کھمہ موجب رژن دن تن اندر مال خراج کر نک عوض  
 عطا کر نہ فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ہس کرہ تمن عطا اللہ تعالیٰ سچ مزور واریاہ گن زیادہ۔ کسی دہہ گن تہ،  
 ستہ گن تہ، ست ہتہ گن تہ، ستہ ساسہ گن تہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ اللہ تعالیٰ ای چھورز قس  
 اندر تنگی کران آزمانہ خیطرہ سوی چھورز قس اندر وسعت کران امتحانہ خیطرہ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تن  
 گن بیہ نہ کانسہ گن ایونہہ ساری واتانہ اَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ ٹھہ وچھو ناشر یض ہنزہ ہس جماعو گن مِنْ  
 نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ یم نبی اسرائیلو اندرہ آس مِنْ بَعْدِ مُوسَى حضرت موسیٰ سندہ وفاتہ پتہ إِذْ قَالَ لِلنَّبِيِّ  
 لَهُمْ يَلِهَ تَمُوودُونَ پنے ہس پیغمبرس حضرت شموئیس ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا مقرر کر یون سانہ خیطرہ پادشاہ تہ  
 امیراہ اکھ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پٹھہ تہزہ ماتحتی اندر اس خدایہ سندہ خیطرہ تھندس دشمنس جالوس  
 سیت جماد کرو قَالَ تم پیغمبرن فرموو کہ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا  
 أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا یہ ماسپدہ کہ اگر توبہ پٹھہ جماد فرض آو کر نہ تمہہ پتہ کمر ونہ توبہ جماد تمو

دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا  
 مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ  
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَتِيْ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ  
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ  
 قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَا بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ  
 الْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاَسَعُ عَلِيْمٌ ﴿۳۸﴾

دوپ اسم کیاہ گواہی کروندہ جماد خدلیہ سنزہ و تہ اندر وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا حالانکہ اسمہ  
 چھو تہندہ دستہ ذاتی تکلیف تہ و اتانہ آمت اس چھہ جلاوطن کرنہ آمت، شریو باژو منزہ کڈنہ آمت  
 فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ پس یلہ فرض کرنہ آو تہن پیٹھ جماد تہہ وقتہ تہل بٹھ  
 پھیر کہ۔ بزول سپد۔ مگر نہ کیش و شخصو تہمواندرہ تم آس تریہ تہہ تہ ترواہ شخص وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ  
 اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون ظالمین تہ نافرمان وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا  
 بیہ فرمو و تہن پیغمبرن ہن۔ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ ان کور مقرر طالوت چھند بادشاہ قَالُوْا اَتِيْ يَكُوْنُ لَهُ  
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا دینہ لگ تہ تھ پاٹھ چھو حق اسمہ پیٹھ حکمرانی کرنہ وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اس  
 چھہ پانہ حکومت کرنیک حقدار تہندہ خوتہ۔ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةَ مِنَ الْمَالِ بیہ چھونہ تہ وسعت مال و  
 دولتس اندر سانہ کھوتہ زیادہ کیہنہ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ پیغمبرن فرمو کہ پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ آن  
 کور سوئی برگزیدہ توہہ پیٹھ وَزَادَا بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بیہ کترن تہ زیادتی عطا عکس منزتہ تہ  
 جسمس منزتہ اللہ تعالیٰ ان اوس تہ علم سیاست علم تدبیر ملک علم حرب یعنی جنگ کرنہ علم  
 عطا کورمت بیہ اوس سو قد بلند تہ خوبصورت وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو عطا کران  
 ملک ہن لیس یڑھان چھوتہ تہ۔ کانہ چھونہ حق تہ اعتراض کرنہ وَاللّٰهُ وَاَسَعُ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ  
 چھو سیٹھاہ آسن دول۔ سو کرہ تہ وسعت عطا۔ سو چھو سیٹھاہ زنان وول۔ تہسمی چھہ خبر کہنہ تھہ قابل

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ  
 سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ  
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٥﴾  
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ  
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

چھو۔ بنو بنی اسرائیل دوپہمیک کیاہ نشانہ تہ علامت چھو کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ چھو واقعی یسوی طالوت حکمرانی خیطرہ مقرر کر رومت وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فر موووکہ بن بنیغبرن بیشک افسندہ بادشاهی ہند نشانہ چھو یہ کہ توہہ نش وائہ سو صندوق تھ اندر خدلیہ سندہ تہندہ خیطرہ ڈلک قرار چھو وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ بیہ کینہہ بچے مت چیز تمو چیز واندرہ ہم چیز پتھ گن تراومت چھہ حضرت موسیٰ ان تہ حضرت ہارون تھہ تابوتس واتاون توہہ نشہ ملایک یعنی حضرت موسیٰ سند نعلین۔ حضرت ہارون سند عمامہ بیہ کینہہ حصہ من وصولواتک بیہ تورا تچہ کبہہ چہہ لَآيَةَ لِّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ بیشک اتھ منز چھو پور نشانہ تہندہ خیطرہ چھوے تہہ پڑھ گرہ ون۔ اتی آئے ملائک سو صندوق ہتھ توپتہ واتووکہ طالوتس نشہ بنی اسرائیل آس سو حال پانہ وچھان۔ اتی کور تمو تسلیم تہندس پادشاہتس۔ توپتہ سپد ساری آمادہ امندس قیادتس اندر جہاد کرنس پیٹھ۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ادہ یلہ دراو طالوت بنی اسرائیلن ہنز لشکر ہت۔ بیہ اوس گر مگ موسم۔ فوجس لچ دتہ پکان سخت تریش۔ تموڑھونڈ آب قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ دوپکھ طالوتن ای لوکو معلوم چھونہ توہہ اندرہ گس چھو مخلص تہ گس چھونہ مخلص۔ لہذا کرہ اللہ تعالیٰ توہہ آزمائش برونھہ اسمہ دریاوہ سیت فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي پس بس اکھاہ تمہہ دریاوک آب چہہ سو چھونہ میون یعنی میانہ جماعتک وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي پس نہ سو آب تہہہ تہ سوی چھو میون اَلْاَمِنْ عَرَفْتُمْ يَبِيذًا مگرے کانزہاہ دوڑھہ سیت تلکھہ دامہ ہناچہ۔ اتی آوبروتھہ دریاواہ

اعْتَرَفَ عُرْفَةَ بَيْدِهِ فَشَرُّوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ  
هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا الْاِكَاْفَاةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتٍ وَجُنُوْدِهِ  
قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُوْنَ اَنَّهُمْ مُّلْكُوْا اللّٰهَ كَمَا مَنَّ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيْلَةٍ  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيْرَةٌ لِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَكَمَا  
بَرَزُوْا لِلْجَالُوْتِ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ  
اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۹﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ

اگر مگر یمن رودند طالوتہ سند اتھ متعلق بیان کُرْنِ یادے فَشَرُّوْا مِنْهُ یمن آس سخت تریش لُحْمُو۔  
تموچوید برتھ آباہ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ مگر نہ کم کبھو و تمبو اندرہ۔ تمبو کور صبری فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ  
اٰمَنُوْا مَعَهُ پس یلہ طالوت بیہ تم بالیمان تم اتھ امتحان منز کامیاب رود تمونہ آب چوویا تمبو اتھ  
سیت تھتھ کم دامہ ہناہ چیہ تم آس ترہ ہت تہ تر واہ۔ تے یلہ امہ دریاوہ نشہ پور تر۔ پور تر ت و چھ  
تمو دشمنہ سز لشکر یعنی جالوتہ سز قَالُوْا الْاِكَاْفَاةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتٍ وَجُنُوْدِهِ جالوتہ سز یہ لشکر و چھت  
کھوژدہنہ لگ اسہ کتہ چھو طاقت جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ سیت جنگ کر تک قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُوْنَ اَنَّهُمْ  
مُلْكُوْا اللّٰهُ مگر یمن یقین اوس پنہ نس خدایس سیت ملاقات کر تک تمو دو کچھ کم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيْلَةٍ  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيْرَةٌ لِاِذْنِ اللّٰهِ پروامہ برو کینہہ۔ کثیراہ کمی یہ جماعہ آسہ تے سپرہ غالب وار یمن جماعتن  
پیٹھ خدایہ سندہ حکمہ سیت وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ اللہ تعالیٰ چھو صبر کر و یمن سیت سیت  
وَکَمَا بَرَزُوْا لِلْجَالُوْتِ وَجُنُوْدِهِ حتمہ پتہ یلہ طالوتہ سند فوج دراو جالوتس تہ تہندس فوجس سیت  
مقابلہ کرنہ خیطرہ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْکٰفِرِيْنَ دعا لگ  
کرنہ اے سانہ پروردگارہ ژہ تراو اسہ پیٹھ صبر و استقلال بیہ در راؤ قدم سانہ بیہ کریاری اسہ غلبہ وہ  
کافرن ہندس قومس پیٹھ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ پس دیت شکستہ طالوتہ سز ی لشکرہ ہتھ منز حضرت  
داؤد اوس اکھ سپاہ جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ خدایہ سندہ حکمہ سیت وَقَتْلَ دَاوُدَ الْجَالُوْتِ حضرت

وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا  
يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ  
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾  
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ  
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاتَّخَذْنَا عِيسَى ابْنَ

داوودن مور جالوت یلہ طالوتن لشکرہ منز اعلان کور کہ کوه اکھاہ مارہ جالوتس۔ تس کرہ بونپنہ صاجزادہ  
سیت نکاح بیہ دس نصف سلطنت حضرت داوود اور ونٹھ گن دوہن بو کرہ یہ کوم۔ چنانچہ یان مقابلہ  
سپد حضرت داؤد آو جالوتس قتل کرتھ تو پتہ کور طالوتن وعدہ پنن پور۔ دامادیتہ بناون بیہ تھوون  
سلطنتک شریک پانس سیت۔ پتہ یلہ طالوت نہیں اگس لڑایہ اندر شہید سپد پتہ سپد ساری مملکتک  
پادشاہ حضرت داؤد وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت داؤدوس عطا پادشاہت تہ  
حمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ بیہ پچھون تم تم چیز تم تس خوش کمر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ اڈو لو کو سیت اڈین لو کن ہند شردور کرہ ہالک گڑھہ ہاتاہ تہ  
برباد کفر وشر کہ سیت فتنوتہ فسادو سیت وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ مگر اللہ تعالیٰ چھو فضلہ وول  
مخلوقن بیٹھ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تم قصہ برو ٹٹھن لو کن  
ہند چھہ نن نشانہ پروردگارہ سدہ قدر تک یم اُس توہہ پیٹھ پران چھہ پز پات سچھہ حجہ دلیلہ تھہ پیٹھ  
کہ تمہ چھوہ بیٹک پیغمبر واندرہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ تم پیغمبر یمن ہنز ذکر تھہ سورہ شریفص منز آیہ  
کر نہ یا تمبو پیغمبر واندرہ تھہ چھوہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فضیلت دیت اسہ تمواندرہ بعضی  
پیغمبرن بعضین پیٹھ۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تھو اندرہ چھہ بعضی تم تمکن سیت اللہ تعالیٰ ان تھہ گرہ  
پلا واسطہ مثل موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بعضین ہند درجہ کمرن بلند تم کمرن خاص تمبو

مَرِيَمَ الْبَيْتِ وَيَدُّنَهُ يَرْوِجَ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ  
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ اختلفوا  
فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا ۗ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا  
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

خصوصاً تو سیت تم نہ بین آئی عطا کر نہ۔ حضرت ابراہیمس غلت۔ حضرت دادئس ملک تہ نبوت  
حضرت سلیمانس تسخیر جن وانس و ہوا۔ حضرت محمد عربیس صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ ختم  
نبوت۔ معراج جسمانی۔ سیر ملک و ملکوت بیہ کمال قرب و ائیننا عیسیٰ ابن مریم البیت بیہ  
کرہ اسمہ عطا حضرت عیسیٰ اس نئس فرزند حضرت مریمہ سند چھو، نہ دلیلہ، بد معجزات و ائیندہ یروج  
القدس بیہ کور اسمہ تمن تاسید جبریل امینہ سندہ سیت۔ سواوس تہندہ حفاظتہ خیطرہ تمن سیت سیت  
آسان و لو شاء اللہ ماقتل الذین من بعدہم تویتہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہ ہاسارنی لوکن ہند ہدایت  
تیلہ کرہ ہن نہ تم لو کہ تم پیغمبرن پتہ آئی پانہ وان اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی من بعد ما  
جاءہم البیت نہ دلیلہ تمن نشہ و اتہ پتہ و لكن اختلفوا فیہم من امن و منہم من کفر مگر تمبو کور  
اختلاف سمہ سبہ تمبو قتل و قتال تہ خونریزی تہ کمر۔ چنانچہ تمبو اندرہ رود بعضے حقس تہ ایمانس بیٹہ  
ثابت، بعضیو یو کور تمبو اندرہ کفر تہ انکار حقیقت چھ و لو شاء اللہ ماقتلوا ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہ  
ہاتمن سارنی ہند ہدایت تم اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی کر ہن نہ و لكن اللہ یفعل ما یرید لیکن  
اللہ تعالیٰ سند ارادہ اوس ستھ پائہ۔ سو بیہ یژہان چھو پنہ حکمتہ سیت تہ چھو کر ان پنہ قدر تہ سیت۔  
یا ایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم و لا شفاعۃ من قبل ان یأتی یوم لا ینفع فیہ ولا خلۃ و لا شفاعۃ  
سو خوفناک دودہ ینہ برو نھ سمہ دودہ نہ ہیون



الْقِيَوْمَ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

کُن آسہ نہ یار برادری آسہ نہ سفارشہ ہند کانہہ سلسلہ آسہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافر ی چھہ بڈ ظالم۔ سمو پنہ نس پانس ظلم کور کفر و شر کہ سیت۔ خدایہ سزہ نافرمانی سیت۔ تمنی نہ دیہ کانہہ ہنز دوستی فاندہ نہ کانہہ ہنز سفارش۔ ای با ایمانو تہہ مہہ بو تمن ہی اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ گو سوی کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس سزوارتس و رای اَلْحَمْدُ الْقِيَوْمِ سوی چھوپانہ زندہ بین سارنی زندہ تھوادہ وَان لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کھسان جھنہ تس نہ پنک تہ نہ نندر۔ یعنی مغلوب چھنہ تس کران نہ لوژ نندر تہ نہ گوب نندر لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تہندوی چھوتہ سوری یہ آسمان اندر چھو بیہ یہ زمینس اندر چھو مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کس اکسند طاقت تہ جرات چھوسو کیا کرہ کانہہ شخصس سفارش تس نشہ تہندہ حکمہ تہ اجازتہ وراے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سو چھوپانے زانان مخلوقن ہند ساری حالات۔ تم تمن بروٹھہ کُنہ چھہ بیہ تم تمن پتہ کنہ چھہ یعنی پوشیدہ تہن حالات۔ حاضر و غائب حالات ظاہر و باطن حالات زانہ ون چھوسوی لہذا سفارش کرہ ون کیاہ چیز بیجہ تمو حالاً تو علاوہ بیش کثرت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مخلوق بیجہ نہ احاطہ کثرت کُنہ چیزس تہندہ علمہ اندرہ مگر تیزی ہنہ سیت ایشئمن سو بڑھہ۔ حدیث شریفس اندر چھو کہ حوض کوثرس پیٹھ یں مہ پیش کر نہ کیہنہ لوک۔ تمے بین پکناونہ جہنمس گُن۔ بہ دیہ تم چھہ میان تم چھہ میان۔ تم کیاہہ نیو کھ جہنمس گُن۔ دینہ اتم انک لا تَدْرِي مَا اَحَدٌ ثَوَابِعَدَكَ توبہ نہ حض چھوہ نہ پتہ سمو کیاہ نور و توبہ پتہ دینس اندر۔ دلمو جماعتو اندرہ چھہ اکھہ جماعتھہہ معتزلہ۔ تم چھہ انکار کران شفاعتس۔ مگر اہل سنت و جماعتن ہند اعتقاد چھو اللہ تعالیٰ یمن شفاعت کر نک اختیار دیہ تم کرن ضرور شفاعت تہ تہند شفاعت کرہ اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ ان چھوسانس رسول کر تمس ﷺ وعدہ کور مت شفاعتک۔ تم کرن پنہ نس اتمس ضرور شفاعت۔ تمو فر موو حدیث شریفس اندر شفاعتی لاهل الکتابر من اُمّتی میون شفاعت چھو بڈین گنکارن ہندہ خطیرہ میانواتیو اندرہ۔ مگر تم تہ بین گوڈہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ  
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ٥٥ لَا آكَرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اللہ تعالیٰ اس شفاعت کر تک اجازت۔ چنانچہ عرش مجیدس بروٹھ کنہ یتھہ دن تم دنیا کین ستن  
دوہن برابر کٹوی سجدہ۔ یتھہ سجدس منز پر ن تم تم حمد و ثنا پروردگارہ سجد۔ تم نہ کانہہ پرمت آسن۔  
ستہ دوہ فرمادیکہ اللہ تعالیٰ تلوحض تھودس مہارک سل نعط و اشفع تشفع مگو ہزیہ مگو تہ کر وہ عطا۔ بیہ  
کمر و شفاعت۔ تھند شفاعت کرو اس قبول۔ امہ اجازتہ پتہ کرن تم ادہ شفاعت۔ مگر یتس چھہ وارہ اکھ  
کتھاہ سو چھس قابل۔ سو گئیہ یہ کتھہ کہ کانہہ اکٹھ گڑھہ نہ ناجایزہ حرام چیز، ممنوع کام کرنس پیٹھہ یافرائض  
تہ واجبات تراونس پیٹھہ آمادہ سپدن تہ جرات کرن۔ شفاعتس پیٹھہ اعتماد تہ بھروسہ کرت لینے کانہہ دپہ بہ  
کرہ تہنر مخالفت تہ تا فرمانی تم کرنم شفاعت یہ چھو عقلہ تہ انصافہ لٹھہ سیٹھاہ دور تمہ علاوہ چھو یہ محض اکھ  
خیالہ باطل تہ بے بنیاد۔ اللہ تعالیٰ چھوپانہ فرماوان قرآن مجیدس اندر وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ  
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٥٤  
اکھاہ مخالفت کرہ سانس پیغمبرہ سزا حکام تس نش وارہ پاٹھہ وانتہ پتہ بیہ کرہ سو پیردی با ایمان ہنزہوتہ وراہی  
بیہ گتہ وتہ ہنزہ۔ پکاناون اس سوتی وتہ یوسہ وتھہ تم اختیار کمر۔ بیہ واتا دون اس سو جھنمس یوسہ سیٹھاہ  
چھہ جای چھہ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيُرَاوَهُ كُرْسِيُّ جَهَنَّمَ يَأْتِي مِنَ السَّمَاءِ نِزْلًا  
بوڈ تہ کھول۔ حدیث شریفس منز چھو ست آسمان چھہ کر سیس منز تھتی یتھہ ست پنہسہ چھہ بڈس  
میدانس منز۔ عرش مقابلہ چھو کر سی تھوی یتھہ اکھ پنہسہ چھو بڈس میدانس منز۔ نتہ گو معنی احاطہ  
کرت چھو تھنڈ علم آسمان تہ زمین وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکر اوان چھو تہ تس یعنی دشواری تہ تکلیف  
منز چھنہ تراوان تس آسمان تہ زمین راجھہ تہ حفاظت کرن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بیہ چھو سیٹھاہ عالی۔  
تھندس علوس نما تھاہ چھنہ سو چھو سیٹھاہ بوڈ۔ تھندس بجز نما تھاہ چھنہ۔ لَا آكَرَاهُ فِي الدِّينِ زور تہ  
زبردستی چھنہ دنس اندر قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ کیا زہہ پڑاٹ وارہ نیو بذات خود بیہ دلیلو سیت۔  
ہدایت تہ گراہی، ایمان تہ کفر حق تہ باطل پوز تہ ایز فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پس بس

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۶۱﴾  
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ  
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۶۲﴾  
 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَرَ اِبْرَاهِيْمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اَللّٰهُ  
 الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّى الَّذِى يُعْبٰى وَيُسَبِّحُ قَالَ اَنَا

اکھاہ انکار کرہ باطل ہے ایزین معبودن شیطان و غیرن اقرار تہ پڑھ کرہ کنس معبود برحقس فقہا استمسک  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس بیشک تمی کر تھپ محکم گندس رزہ ہندس۔ سو گو حدیث قال اللہ قال رسول  
 اللہ۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا یتھ نہ ڈیجر چھوٹنہ قسمہ۔ یوسہ نہ مثر اونہ بیہ زمانہ تہ۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ چھو دوست تہ مددگار  
 ایماندارن ہند۔ بومو طاغوتن انکار کر تھ کنس خدائس پڑہ کر يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سو چھو  
 تمن گھر چوتار کیو منزہ کڈت یا لوب رتھہ اسلامس نورس اندر واتاوان وَالَّذِينَ كَفَرُوا یمو لوب کو خدائس  
 معبود برحقس انکار کور اَوْلِيَا لَهُمُ الطَّاغُوتُ تہند دوست گے شیطان يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ  
 تم چھہ تمن اسلامہ نورہ نشی کڈت یا لوب رتھہ کفر چن تاریکین اندر واتاوان اَوْلِيَا لَهُمُ النَّارُ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ تے لو کہ چھہ نارہ وال یتھہ منز تمن ہمیشہ روزن چھو عذابس گرفتار اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَرَ  
 اِبْرَاهِيْمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اَللّٰهُ الْمَلِكُ ہندو چھو نا اے پیغمبر یا ژہ و چھنا اے و چھہ ونہ تس شخصس  
 یس ناواوس نمرو۔ ہم بحث کرو حضرت ابراہیمس سیت تہندس پروردگارہ ہندس وجودس متعلق کیا زہ  
 اللہ تعالیٰ ان اوئس دتمت ملک تہ پادشاہت باوجود آں اوئس خدایہ سندس وجودس مگر اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّى  
 الَّذِى يُعْبٰى وَيُسَبِّحُ یہ بحث سپدتمہ وقتہ یلمہ تم پر ژہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تہندس پروردگار سند  
 شان کیاہ چھو۔ حضرت ابراہیمس فرموس میوان پروردگار گو سوی یس سارنی زندہ کران چھو بیہ مارن

أُحْيِ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ  
 الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ  
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٢٥﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ  
 هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ  
 مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

چھو قال آکا اُحْيِ وَأَمِيتُ نمرودن دوپ بہتہ چھوس زندہ کران تہ ماران قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
 بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فرمودس حضرت ابراہیمن اللہ تعالیٰ سنز بیا کہ کام چھہ  
 سو چھو آفتاب کھاران پریتھہ دہنہ مشرق تہ طرفہ ڈہ کھارتن اکہ دہنہ مغربہ کہ طرفہ فَبُهِتَ الَّذِي  
 كَفَرَ پس سپڑیہ کافر نمرود حیران لاجواب تہ کینہہ پھورسنہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھونہ و تھہ ہاوان ظالمین۔ یہ دلیل آس ذات باری تعالیٰ سندس وجودس پیٹھہ۔ امہ پیتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 مر نہ پیتہ زندہ کرنس پیٹھہ زہ دلیلہ فرماوان أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ بیہ و چھتھنا تہ تہ شخصس کنس  
 پوک اکہ شہرہ کن وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سو شہر اوس منہدم تہ ویران سپڑمت مکان ہنہ پیش  
 آس دہہ بیٹھمت تمہہ کینن ڈکینن پیٹھہ۔ سو پکہ ون اوس حضرت عزیز۔ شہر اوس بیت المقدس نس بخت  
 نصران اوس ویران تہ تہہ کورمت۔ امی ویران شہرہ کن یلہ حضرت عزیز پوک سیت اوس سوار ی ہند کھر  
 بیہ توشہ دانس منز کھینہ چینک چیز قَالَ دہنہ لوگ پان پانس سیت أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 تھہہ سنا پاتھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھہ شہرس آباد (بیہ) اکہ ویرانی پتہ۔ یہ دون نہ تہونا ممکن زانتھہ بلکہ ونوکھہ مہ  
 گدھہ کج کیفیت معلوم سپدن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ پس کر اللہ تعالیٰ ان تہنز زندگی زایل یعنی ماتم اللہ  
 تعالیٰ ان اگس ہنس ورسنن ثُمَّ بَعَثَهُ تویپتہ کران اکہ دہنہ و ہر بیہ زندہ تویپتہ تلن تھود قَالَ پر ڈھنس پانیا  
 ملکہ سندہ ذریعہ کج لَبِثْتَ تہہ کیتس کاس شہر پوک تہنس قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ دین بو ٹھور یوس

عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ ۖ وَانظُرْ  
إِلَىٰ حِمَارِكَ ۚ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ  
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ۖ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ  
لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۸﴾  
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ  
تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْبِئِرَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَاخْذُ أَرْبَعَةً

عالم بادوہس یادوہہ خوتہ کم کاس اؤس دوہس قَالَ بَلَىٰ كَيْفَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۸﴾ ان فر موس  
نہ بلکہ گویا کہ ہمت ڈری فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وچہ دن سان  
قدرت۔ ملاحظہ کر پنے بس کہیں چینیس گن۔ پوت کال گھت چھنہ سوئہ قسمہ ڈولمت تہ متغیر سپد مت  
وانظر الى حمارك بید وچہ ژہ پنے بس کھر س گن تمس کیاہ چھو بنو مت اڈجہ تان چھس دودر سمہہ  
ولنجعلك آية للناس بید چھو سون مقصد ژہ کرو تھ اس لوکن ہندہ اعتمادہ خیلرہ پنے قدرتک  
اکہ نشانہ وانظر الى العظام وون وچہ ژہ بمن کھرہ سزن اڈجن گن کيف نشزها کتھہ پاٹھہ  
ملہ ناو کہ اس تمہہ اڈجہ ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا توپنہ کتھہ پاٹھہ ولو اس تمن پیٹھہ مازہ بید چھو وچھانی یکدم سپد  
کھر زندہ توپنہ ووتھ تھوودژن ٹانگ۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اده ملہ یہ سوزی حال تمس نبیو قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ  
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دینہ لوگ بوچھوس یقین کران کہ بیشک چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس  
پیٹھہ قدرتہ وول وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ بید پاوژ تیس تہہ سو وقت ملہ حضرت  
ابراہیم عرض کو رخدائس ای میاہہ پروردگارہ مہ ہاوتہ کتھہ پاٹھہ کھرہ کتھہ ژہ مردہ زندہ قیامتک دوہ بوہادہ  
ہا میک علم حاصل کھر تھہ کیاہہ خبر چھایہ کافر نمرد ما پر ژہ اتھ متعلق دوہارہ قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنِ اللّٰهُ تَعَالٰی  
ان فر موس کیاہہ ژہ آئی ناچھہ ونہ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْبِئِرَ قَلْبِي دین گتھہ ناچھہ بن مگرامہ عرض  
کرنہ اندرہ چھو میون مطلب بچھہ میون دل مطمئن سپدت چانین دشمن سیت بحث کرنہ خیلرہ قوی سپدہ۔

مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۶﴾ مَعْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ فَرْمُوسَ مَعْدَا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ بِسَ رَتَكَ نَزَهَ زُورِ جَانُورِ - مَوْرَ، كُوْمَرُ، كُوْمَرَتَه كَاوِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ بِسَ رَ جَهْمُكْهُ كَبِيْرَه كَالَا هَ پَا سَ نَشَه - وَا رَه تَهَا كَه وَنَه - تُو پَتَه مَارَكَه - كَلَه تَهْمَد تَهَاوَالِك - بَدَشَن جَهْمَدِيْنَ كَرُكْفَتَه - جَهْمَد مَازَلَه نَاوَا كَه اَكْسَ سِيْت - ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا تُو پَتَه تَهَاو پَرِيْتَه كُو هَسَ پِيْطَه تَهْمَدَه مَلْنَاو مَتَه مَازَه اَنْدَرَه اَكْه اَكْه حَصَه - ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا تُو پَتَه وَهَ تَمِيْنَ اَلُو - تَمِيْنَ يَمِيْنَ نَزِيَه نَشَ دُوْرَانِ دُوْرَانِ وَاعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تُو پَتَه زَانِ نَزَه بِيْشَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوِ پَرِيْتَه جِيْزَسَ پِيْطَه قَدْرَتَه دُوْل - حَمْتَه دُوْل مَعْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثَالِ تَمِيْنَ لُو كَن هَنْزِيْمِ خَرْجِ جَهْمَه كِرَانِ مَالِ بَنِيْنَ خَدَلِيَه سَنَزَه وَوِيْتَه اَنْدَرِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ تَمَه پَهْلَجِ مِثَالِ تَهْمَه نِيْرَانِ جَهْمَه زَمِيْنَسَ مَنزُوْرُو تَهْمَه تَهْمِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ پَرِيْتَه تَهْمِلَسَ جَهْمَه اَسَانِ تَهْمَه تَهْمَه پَهْلَجِ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ لَمَه عِلَاوَه جَهْوِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَرَه رَاوَانِ بَسِيْدَه خَيْطَرَه يَشَهَانِ جَهْوِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوِ وَسَعَتَه دُوْل تَسَ جَهْمَه حَمْتَه جِيْزِجِ كِي - اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوَرُتَ زَانِ دُوْل - تَسَ جَهْوِ مَعْلُوْمَ كَمَسْنَرِ كَبِيْطَه نِيْتَه جَهْمَه - تَمِيْ نِيْتَه مَوْجِبَ جَهْوِ سُوْءُ وَسَعَتِ عَطَا كِرَانِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا آدَى تَمَ لُو كَه تَمِ خَرْجِ جَهْمَه كِرَانِ مَالِ بَنِيْنَ خَدَلِيَه سَنَزَه وَوِيْتَه اَنْدَرِ تُو پَتَه جَهْمَه پَتَه تَمَسَ رُوْءِ نَسَ پِيْطَه اَحْسَانِ تَه مَنْتِ تَهَاوَانِ تَهْمَسَ كَمْهَرِ نَكِ اِذَاوَا تَاوَانِ اَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَهْمَزَ مَزُوْرُ جَهْوِ اَمَه خَرْجِ كَرُجِ جَهْمَدِسَ پَرُوْرِدْ گَارَسَ نَشَ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِيَه اَسَه نَه تَمِنَ

مِنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۳﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ  
 يَتَّبِعَهَا آذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
 تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  
 رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ  
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

کانہ خوفہ قیامتک دودہ نہ آسہ تمہن کانہہ غماہ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا آذَىٰ  
 رزق تھہ ون سائیس بیہ درگزر کرن یہ چھو بہتر تمہہ خیراتہ کھوتہ ہتھہ پتہ کتھہ رنگ تکلیف نہ اذہہ آسہ واللہ  
 عَنِّي حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو آسن دول نہ بیہ ٹیڈ ہینہ دول۔ جلد چھونہ رمان نہ گرفتار کران سائیس  
 تکلیف نہ اذہہ اتادہ ونین۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ای باایمانوہ کترو  
 خیرات پٹن بر باد منت نہ احسان تھاونہ سیت۔ بیہ پامہ نہ اذہہ نہ سیت کالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ  
 تس شخصہ سدما تھہ بس مال پٹن خرچ کران چھو لوکن ہاونہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیہ چھو  
 نہ سو پٹھہ کران کنس خدا بس نہ پٹتس دوہس یعنی قیامتس فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ بس چھہ  
 تھمز مثال تمہہ پشاجہ کنہ ہنزہ ہتھہ بیٹھہ میزہ آسہ لار تھہ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا تھہ بیہ شکل رود۔ سو میزہ  
 بس چھلانہ بس تھاوہ اتھہ کنہ چھلانہ چھو تھہ تڑھی ہتھہ آس۔ سموا تھہ کنہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ ہنزہ  
 لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا تم یکن نہ کانہہ چیزے حاصل کر تھہ تمہہ منزہ بیہ تمو وومت آسہ۔ ہتھہ  
 پاٹھہ تم خرچ کتر تھہ منت تھاوان یا کرن خرچ تھیکتہ نہ لوکن ہاونہ خیطرہ تم چھونہ تھہ خرچ کر نس کانہہ  
 ثوابہ نہ مزو دیاہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ تھہ ہاون کافران وَمَعَلِّ الَّذِينَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
تَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ أَيْرَبُوتَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ  
فَأَتَتْ أَكْطَاهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ  
بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۖ يُؤْذُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ  
تَحْتَلُّونَ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا ۖ فَأَصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وون گیه مثال تین لوکن ہنزیم خرچ کران  
چھہ مال پین خدایہ سندر ضارٹھانڈ نہ خیطرہ بیہ پنہ نین پان ہنڈ اعتقاد یقین صدقات و خیراتہ کس ثوابس  
متعلق مضبوطہ پنختہ کرنہ خیطرہ کَمَثَلِ جَنَّةٍ أَيْرَبُوتَةٍ تمہہ باغ مثال نیس تھڑرس پیٹھ آسہ سمیک زمین  
سیٹھاہ رت آسہ اصابہا وابل فأتت اکٹھا ضعیفین تھہ آسہ پیوان کٹل رُود سمہ سیت تھہ دوگن  
میوہ نیران آسہ فان لم یصیبها وابل فطلَّ ہر گاہ کٹل رُود پیس تہ نہ توہہ چھو تھہ نیگ رُود پیوٹوی  
کانی سپدان رت زمین آسہ مٹھہ۔ تھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ بالیمان بدن صدقات و خیراتن ہڈ نفع تہ فابندہ  
عطا کران وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یہ کینڈھاہ تہہ کران چھوہ تہ سوڑی چھوہ اللہ تعالیٰ وچھان  
اَيُّوْذُ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ تَحْتَلُّونَ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کیاہ توہہ اندرہ چھا کانسہ  
یہ تھہ پسند کہ تس کیا آسہ باغاہ، خضر کلین تہ دچھہ راٹھن ہنڈ تمبوے کلیو منز آس جوہہ پکان کہ فیہا من  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس شخص آس اتھ باغس منز پریتھہ کتہ قسمک میوہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفًا  
اس شخص آسہ جُزک وقت آمت بیہ آسہ اس خام عیال فَاَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ  
توپتہ ولتہ اتھ باغس آسندس تند ولواہ تھہ سیت نار تہ آسہ یعنی نارِ سموم امی سیت پیہہ باغ دژتھہ۔ یکی



الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ  
 طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
 تَيَسَّبُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَايِهِ إِلَّا  
 أَنْ تُعْضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۳۱﴾  
 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

کیفیت چھہ بنان سیکین بیٹھ احسان تہ منت تھاوانہ سیت۔ اذہ تہ پامہ دنہ سیت۔ ریا کر نہ سیت۔ گنڈا ک  
 یبینُ اللہ لکمُ الآیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تھے پانچھ چھو اللہ تعالیٰ ویزھہ ناوان توہمہ پنن آیات۔ سیتھہ  
 تہہ غور و فکر کمر تھہ پنن صدقات و خیرات منت تہ احسان تھاوانہ سیت۔ اذہ تہ پامہ دنہ سیت، لوکن ہاوانہ  
 سیت ضامع تہ تباہ کران آہونہ۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** ای باایمانو خرچ  
 آہو کران رٹان کا مین اندر۔ تمہ اندر رت رت چیزہ زینان تہ کماوان چھوہہ **وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ** بہہ رت رت چیز تمہ اندرہ یہ آسہ زمینہ اندرہ تہندہہ خیطرہ کھور۔ **وَلَا تَيَسَّبُوا الْحَيْثُ** بہہ مہ  
 آہورڈی تہ خراب چیزان ہند قصد کران **مِنْهُ تُنْفِقُونَ** تھی ردی چیزہ منزہ آہو خرچ کران ردی تہ  
 کھوٹ چیز آسہو ژارت تہ الگ کڈت تھاوان خدایہ سہہ خیطرہ دس ٹیت۔ یہ گوپست ہمت لاگن۔ کھوٹ  
 پانسہ۔ کھوچہ روپیہ۔ کھوٹ پھٹہ ووٹ یاد مرثہ ژوچہ۔ دودر یومت غلہ مہ آہو خدایہ سنزہ وتہ دوان  
**وَلَسْتُمْ بِأَخِيَايِهِ** حالانچہ تہہ چھوہہ نہ سوی چیز پانس رٹہ ون گنہ صورتس اندر **إِلَّا أَنْ تُعْضُوا  
 فِيهِ** مگرے گنہ ساتہ اہجہہ بٹھہ سہہ اندر سہل انگاری کرو تہ کل گڑہ ہیو۔ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ** وارہ زا نو یہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز حمد پنے آمت تعریف کرنہ آمت۔ تمس چھونہ تہندین  
 رڈی مالن ہنز ضرور تھی۔ سوچھونہ راضی سپدان کھو ٹیو دیارو سیت۔ سوگڑہ ہما خوش فقیرس مسکینس  
 حاجت نیر نہ سیت۔ تمس بلہ نہ کھوٹ پونسہ گنہ چلیو و تمس کیاہ حاجت دراؤ **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  
 وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ** شیطان چھوہہ توہمہ کھوڑہ ناوان محتاج سپدنس۔ بہہ چھوہہ امر کران توہمہ چھہ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾  
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۷﴾  
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۳۸﴾  
إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ  
تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

کامین ہند یعنی مخلک وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اللہ تعالیٰ چھوہ توہمہ صدقہ و خیراتس پیٹھ  
وعدہ کران پتہ بڈہ مغفرتک بیه رزقس اندرو عتک وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوپانہ آسن  
وول سوڑی زانن وول یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ عقل ودانائی چھو عطا کران یس یشھان چھوہ تہس وَمَنْ  
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یس اس عقل ودانائی ایہ عطا کرنہ پیشک تہس آو عطا کرنہ  
خیر کثیر۔ یعنی واریاہ خیر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت بہجہ قبول کران مگر عقلہ والی وَمَا  
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بیہ یہ کثیر ہاہ تہہ خرچ کرہ وہ  
یانذر تھو وہ وہ کانہہ نذرہہ پس چھو اللہ تعالیٰ تہ سوڑی زانان وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ چھوہ نہ  
ظالمن ہندہ خیطرہ کانہہ مددگارہ ہم مخلہ سیت۔ احسان تھاونہ سیت، ازاد نہ سیت، لوکن ہاونہ تہ تھینہ  
سیت خیر ایجہ ثوابہ نشہ پتہ نین پانن محروم کرن یا ہم حرام مالہ سیت خیرات کرن۔ یا ہم نذرنا جائیز تھاون  
غیر اللہ یعنی خدا ایس ورا ی مخلوقن ہندہ خیطرہ یا ہم جائیز نظرن وفا کرن نہ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ  
فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ہر گاہ تہہ پن صدقاتن پاتھہ دیو  
تہہ گو سیشاہ جان۔ مگر ہر گاہ لو تہہ پاتھہ تہ زورہہ پاتھہ دیو بیہ دیو فقیرنی سو چھوژور بہترن پاتھہ تہ آسن والین

مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۵﴾ لَيْسَ  
عَلَيْكَ هُدُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا  
ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

دنه خوتہ۔ فرضک صدقے آسہ زکوٰۃ وغیرہ ہو سون پاٹھ دین چھو بہتر بیٹھہ پیس بہ رغبت پادہ سپدہ۔ ہر گاہ  
تھک صدقہ آسہ سو چھو پوشیدہ ماٹھی دین بہتر بیٹھہ ریالہ بیہ۔ وَیَکْفُرْ عَنْکُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ لمہ سبہ جہدین بعضی ٹھمن بخشایش بہ در گذر کران۔ بیہ چھو اللہ  
تعالیٰ پورہ زانان بیہ تہہ کران چھوہ لَيْسَ عَلَیْكَ هُدُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ توبہ نہ  
حض چھوہ مہ یار رسول اللہ سم کافر راہ راستس پیٹہ ان۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی کس یٹھہ تس کرہ ہدایت وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ تہہ کس مالہ خرچ کرد خدلیہ سدہ خیطہ تمک فاندہ چھوہ توبہ پانس وَمَا  
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ توبہ چھوہ نہ خرچ کران خدلیہ سندی رضا حاصل کرنہ خیطہ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ تہہ یہ کیوہا خرچ کمر ونبہ مالہ اندرہ تمک ثواب بہ بدلہ  
ایہ توبہ عطا کرنہ۔ توبہ کتہ تمک ظلم بیہ نہ کرنہ۔ جہد حق بیہ نہ ضائع کرنہ۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ خیرات گچھہ دین تمن فقیرن سم ہند آسن کرنہ آسٹ خدلیہ سنزہ وتہ اندر یعنی تہد وقت  
آسن مصروف دینہ چن تمنی کامین اندر یمن اندر عام لوکن ہندہ خیطہ بہتری آسہ۔ سو گو جلاہیو، تبلیغ ہیو طلب علم  
دین ہیو۔ سم چھہ مصارف صدقا تواندرہ بہتر مصرف لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یمن نہ تمی سبہ آسن  
ہیکان اورہ پور پچیر تھہ رزق کمانہ خیطہ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْدِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ناواقف لوکھ آسن  
تمن مالدار زانان تہدہ سوالہ بٹھہ روز بچہ سبب تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ تہہ پر زنا و بچھہ تم تہدہ بٹھہ علامتہ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ  
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۶۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۸﴾  
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَكْفُومُوا الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا بَايِعُهُ

سیت یعنی فاتحی ہندہ سببہ آسن تہند ہتھہ زرد۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَاقًا تم آسن نہ لوکن منگان چھپر  
لاگت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یہ کنیوہ ہاہ تہہ خرچ کمر و مالہ اندرہ یکن ممسکین پیٹھہ یکن منزیم پانژھہ  
صفت موجود آسن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوزی معلوم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
أَمْوَالَهُمْ بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سم لوکہ مال پنن خرچ کران چھہ رات کیت یادولہہ  
لوت پانژھہ یان پانژھہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تہندہ خپترہ چھہ تہنز مزور پروردگار س نیش ولا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا سم  
لوکہ سود کھیوان چھہ لَا يَكْفُومُوا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ تم دو تھن نہ قیامتہ  
دوبہہ قبر و منزہ مگر تس شخصہ سند پانژھہ نیش زورہ ژنڈ آسہ دژمثر شیطان کی سیت آسیس دماغ خراب  
گومت یعنی سیتہ لدہی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا بَايِعُهُمْ مِثْلَ الرِّبَا بیہ سزا آسہ تمن امی موکہ کہ تموی کیا  
دوپ ہیون کئن تہ چھو بیازی ہو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چھو ہیون کئن  
حلال کورمت۔ سود چھن حرام کورمت حلال و حرام کر نک اختیارہ وول چھو سوی یوت فَمِنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى پس نیش آگس ووت پنہ نس پروردگارہ سدہ طرفہ نصیحت کلام۔ تو پتہ رود

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۹﴾  
 يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 كَفَّارٍ آثِيمٍ ﴿۳۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

سوامہ سود کہ معاملہ نشیہ ہتھہ فلہ ما سلف و امرہ الی اللہ پس یہ کنیوہا ہتھہ کن گذریووتہ گو تھند  
 وی ملک۔ فیصلہ تھند کر پانہ خدا وَمَنْ عَادَ سیم لو کہ خدایہ سد حکم بوز تھہ بیہ دوبارہ کرن زاتھہ کمر تھہ  
 سود کہ معاملہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ گے دوزخی تم روزن تھہ  
 دوزخس منز ہمیشہ کیا زہ تمبو کور خدایہ سد حکم نظر انداز یَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ  
 گالان چھو اللہ تعالیٰ سودس سود کین دیران چھنہ کانہہ بر کتھاہ ہر راوان چھو اللہ تعالیٰ خیر اتس۔ آگس  
 چھو اللہ تعالیٰ ذہن گن تہ ساسہ گن بیہ لچھہ گن تہ دوان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آثِيمٍ اللہ تعالیٰ اس چھونہ  
 پسند کہنی ناپاس بندہ ٹیس سودس حلال آسہ زانان کہنے مجرم بندہ ٹیس سودہ کس معاملس پیٹھہ ڈاڈ آسہ  
 کمرت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پڑھتہ سبھو لو گو ایمان  
 اون بیہ کریچھہ رتھہ عملہ بیہ تھو کہ نماز برپا۔ بیہ دژک مانج زکوة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس تھندہ خیطرہ ہتھہ تھنز مزور تھندس پروردگار س نشیہ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ  
 خوفانہ بیہ نہ کانہہ غماہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ای با  
 ایمانو کھو تڑو خدا ٹیس بیہ تراو سور تم ٹیس باقی آسہو رودمت سود کہ لو کن نشیہ چھوے تھہ پڑاٹھہ با ایمان

اللَّهِ وَذَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ فَإِنْ  
لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ  
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِنْ  
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ  
إِلَى اللَّهِ تَمَّتْ تَوَافِي كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۹۱﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ہر گاہ سودہ نشیہ پتھہ روزونہ تلہ روزو خبر دار نہ  
تیار جنگ کرنہ خیطرہ خدا ئس نہ تہندس رسولس سیت وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ہر گاہ تہہ  
توبہ کرد سودہ نشیہ پتھہ روزو تلہ ابوہ اصل رقم واپس دنہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ مہ کھرو تہہ کانہہ  
پیٹھہ ظلم نہ بیہ توبہہ پیٹھہ کانہہ ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر قرضدار آسہ تنگ دست فَنَظِرَةٌ  
إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تس گدھہ پیارن یوتان تس وسعت بیہ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
دونہ ہے تہہ سور قم صدقس پیٹھہ تس قرضدارس تراویہ پتھو تہندہ خیطرہ بہتر۔ ہر گاہے توبہہ تمیک  
ثواب معلوم آسہ بایا ہر گاہے تہہ مناسب زانو۔ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بیہ کھو ترو تہہ  
دوہس سمہ دوہہ تہہ واتا ونہ ایو خدا ئس بروٹھہ کن تَمَّتْ تَوَافِي كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تویہ  
بیہہ پرتھہ آگس تمہہ ساری نیک و بدک بدلہ پورہ دنہ بیہ تم کورمت آسہ۔ بیہ بیہ نہ تمن بہ بیچ وجہ کتہہ  
قسمہ ظلم کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّقُوا ائِ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ای بایمانو تہہ یلہ  
قرضک لین دین آسو کران عنہ خاص مقرر مدتس تان، پس آسو لیکن وَتَلْبَسُوا بَيْنَكُمْ كَاتِبًا  
بِالْعَدْلِ بیہ لیکن یہ کاغذ توبہ اندرہ کانہہ لیکن وولہ پور پوز۔ ئس نہ کی یا زیادتی کرہ رس قرض اندریا

فَاكْتُبُوا وَلِيكُتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكُتَبَ كَمَا عَمَلَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ وَلِيُبَيِّنَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ هُوَ فَلْيُبَيِّنْ  
وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

وقس اندرو ولا ياب كاتِبٌ أَنْ يَكُتَبَ كَمَا عَمَلَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ بيه مه كمرن انكار كانه ليكهن وول بيه كاغذ  
ليكهن نيه كيازه الله تعالى ان كتبه پاهه سو پجه نو ليكهن بس آسن سو تمه كس شكر انس اندرو كو كاغذ ته  
امه قسمك دستاويزات ليكهن دو ان وَلِيُبَيِّنَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بيه آسنس سوئ شخص ليكهن او ان ته  
عبارت ونان بس پيهه حق چهو يعني بس قرض نوان آسه وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ كهو زن سو خدا بس بس تهند  
پروردگار چهو وَلَا يَبْخُسَ مِنْهُ شَيْئًا كم مه كمرن سو لمه منزه كانه چيزه فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا بس هر گاه قرض نوه ون كم عقل آسه يا ضعيف ته تا توان آسه أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يُبَيِّنَ هُوَ يا آسه نه بيكان سو پانه عبارت ون ته نه زانه موكه فَلْيُبَيِّنْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ بس ليكهن او ان ته  
عبارت ون والي تهو ند معتبر ته كارن تهند واره پاهه ته الناصه پاهه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ بيه تهو يو كه شاهد ه گواه مسلمان مرد و آندره فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ هر گاه  
نه زه مسلمان مرد بين يعني يسه ته دستياب بيكن نه سپد تهه تيله روزن گواه كه مرد ته زه زانه وسن  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يم تهه پسند كره كه گواهو آندره أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَى كيازه هر گاه همته گوهه دو يو آندره آس زانه زميس پاوليس دو تم زانه وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمِعُكُمْ أَن تَكْتُمُوا  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَمْسَاطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ وَ  
اتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲۶﴾

دُعُوا گواہین ہند گڑھ نہ انکار کرن یلہ تمہن گواہ روزنہ خیطر ہاد آسہ یوان دنہ وَلَا تَسْمِعُكُمْ أَن تَكْتُمُوا  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ سستی منہ آسہو کران بیہ معیادی کاغذ لیکنہ نشہ ادہ معاملہ لوگٹ آسٹن یا بوڈ  
ذَلِكُمْ أَمْسَاطُ عِنْدَ اللَّهِ بیہ چھو تہندہ خیطرہ انصافس زیادہ قائم تھادہ ون خدا ایس نشہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
بیہ چھو بیہ لیکن زیادہ قاسم تھوہ ون گواہیہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا بیہ چھو زیادہ نزدیک ہتھہ تھہ کہ توہیہ  
روزہ نہ شک نہ شبہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً مگرے آسہ تجارتاہ فوری ہینہ دیک تَدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ ایس تجارتاہ تہہ پانہ وان پھران آسہو یعنی ہینہ دول آسہ قیمت دوان کنن دول آسہ چیز پیش  
کران فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا پس چھو نہ کانہہ حرج توہیہ ہر گاہ اتھہ صورتس  
منز لیکیان آسہونہ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بیہ آسہو گواہ تھاوان یلہ تہہ خریدو فروخت کران آسہو۔  
لیکنہ کانہہ دو یواندرہ انکار کرہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نقصان گڑھ نہ وانٹاونہ من نہ لیکنہ  
والس نہ نہ شاہدن وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ ہر گاہ توہیہ تہ کورودہ کاتین نہ شاہدن وانٹوودہ  
تکلیف نہ ضرر سوچھو تہندہ خیطرہ بوڈ گناہہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کھو ترو خدا ایس ہمیشہ خصوصاً تمہ کامہ کرنس  
اندر سمونہ منع آو توہیہ کرنہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چھوہ دین ود نیاجہ کامہ تہ احکام پچھہ ناوان



وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ سَكْتَهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَ  
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۶۸﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ  
 اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

والله بكل شئ عليم اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ پور زانہ دن وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا  
 دون ہر گاہ تہہ آسو سفرس اندر تو پتہ لیون نہ تہہ کانہہ لیکن دولاہ تہہ سفرس منز فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ  
 تہہ صورتس اندر گدھن بند تھونک چیز پیش کرن یمن چیزن قبضہ کرہ فرضک رقم دنہ دل فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُم بَعْضًا پس ہر گاہ مطمئن آسہ تو ہہ اندرہ اکہ بیٹس پیٹھ یعنی اکہ اگس پیٹھ اعتماد نہ اعتبار آسہ  
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ پس سگس پیٹھ اعتماد نہ اعتبار آو کر نہ سو کرن ادا پن  
 امانت۔ بیہ کھوژن خدا لیس پنہ نس پروردگار س تمسند حق مہ کھن وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اے مسلمانو  
 مہ آسو گواہی کھٹان وَمَنْ سَكْتَهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ پس اکہاہ شہادت نہ گواہی کھٹان آسہ تمسند دل  
 چھو گندگار۔ یعنی سو مہ زانن یہ شہادت نہ دن باچھو زیوہ ہندی یوت گناہ بلکہ چھو یہ دلگ گناہ نہ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کیا زہہ پر ہتھ گنہگ ارادہ چھو دلہ پیٹھے دو تھان۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زانان یہ تہہ  
 کران چھوہ دولویا تا نو سیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدا یہ سندوی چھو نہ سوزی یہ آسمانن  
 اندر چھو بیہ یہ زمین اندر چھو۔ خود آسمان نہ زمین چھو تہندوی وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا  
 يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ہر گاہ نہ راووتیہ تہندین دن اندر چھو یا کھٹھ تھاو۔ اللہ تعالیٰ چھو نہ سوزی  
 زانان۔ تھہ سارسی پیٹھ ہیوہ سو حساب فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ تو پتہ کس خوش  
 کر لیس تس کرہ مغفرت کس خوش کر لیس تس کرہ عذاب وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿۲۸۶﴾ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  
 لَا فَرْقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا  
 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۷﴾ لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا  
 وُسْعًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا

چیز سپید قدرت و ول یلہ یہ وَاِنَّ شَيْئًا وَاَمَّا فَا اَنْشِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحَاسِبْكُمْ بِه اللّٰهُ نازل سپہ صحابہ  
 صیب سپہ نمگین عرض کوزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدس منز کہ یارسول اللہ  
 یہ حض چھو سیٹھا مشکل سانہ خپیرہ۔ فرمودہ بچہ کیاہ تہہ تہ ونوہ تی یہ یہودو تہ نصاروون پنہ نین  
 پیغمبرن سمعنا وعصینا تہہ مانو، تہہ کمر و تسلیم خدایہ سُد کُم تہہ دپو سمعنا واطعنا بوزاسہ مون  
 اسہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ توہہ پیٹھہ رحم۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراول اللہ تعالیٰ ان کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم سیت باایمان ہند تعریف فرموون اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ  
 پیغمبر برحق کمر پڑھ تھہ ساری یہ نازل آوکمر نہ تہن پیٹھہ تہندس پروردگار سندنہ طرفہ یہ کمر پڑھ تھہ  
 باایمانو کُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پریتھہ اک اون ایمان کُنس خدایس بیہ تہندین  
 ملائکن۔ بیہ تہنزن کتابن بیہ تہندین پیغمبرن سارنی تہودو پ لَا فَرْقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ اَس جھنہ  
 فرق کران پیغمبر و آندرہ کانسہ اَس منز۔ اسہ نش جھہ ساری پیغمبر برحق۔ تم حضرت آدمس علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام پیٹھہ حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم تان آس سوزنہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا بیہ  
 وون باایمانو بوزاسہ مون اسہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ وون جھہ تہانڈان اس چون مغفرت  
 ای سانہ پروردگادہ چولا کہ جھو اٹن ژے نش لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعًا عبادتک تکلیف چھونہ  
 اللہ تعالیٰ ووان کانسہ اَس مگر تہندہ طاقتہ موجب لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ پرت اَس جھو  
 ثواب تمہ کوی یہ تم کموومت تہ حاصل کورومت اسہ نیکیو اندرہ بیہ جھو پریتھہ اَس تمہ کوی عذاب تہ

تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۹﴾

سزا یہ تم گرونت اسمہ بدیو آندرہ رَبَّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ای سانسہ پروردگارہ رفته متہ  
 اسمہ ہرگاہ اسمہ کینہہ مشت گویا خطا گو رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ای  
 سانسہ پروردگارہ بیہ متہ کھارتہ اسمہ پیٹھہ عبادتک سو بو ریس بو رکھو رتھہ ژہیہ تمن لو کن پیٹھہ سم اسمہ  
 بروٹھہ آس رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ای سانسہ پروردگارہ بیہ مہ تلتنا واسمہ سو بو رسمکہ تلتک  
 اسمہ طاقتھہ چھوندہ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا بیہ کر عفو اسمہ۔ بیہ کر مغفرت اسمہ۔ بیہ کر اسمہ  
 پیٹھہ رحم اَنْتَ مَوْلَانَا ژہی چھو کہ سون مولانہ آغہ فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس کر ژہ  
 اسمہ یاری تہ مدد کافرن پیٹھہ حدیث شریف من چھو آمت یلہ سم آیات کریمہ نازل سپد تو پتہ پتر  
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم آیات اللہ تعالیٰ ان فرماو کہ اَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا س پتہ ادہ  
 ہز۔ یعنی اجابت کو رسم اسمہ اسمہ چھندین سارنی مطالباتن



## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝  
 مِنْ قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللَّهُ خدایہ سی چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ مراد چھو اللہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللہ تعالیٰ چھو معبود برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تس وراى۔ سؤى چھو زندہ مر نہ نپہ منزہ تہ پاک۔ سؤى چھو سارنى زندان زندگى عطا کر ہون۔ پانہ چھو قائم بذات خود۔ سؤى چھو سارنى چیزان قائم تھاوہون۔ سؤى چھو ازلا وابدأ موجود۔ تس ورائى تم چھہ تم سارى چھہ پنہ نس وجودس اندر۔ پنہ وجودہ کس حفاظت تہ را چھہ کرنس اندر۔ تس کن محتاج۔ لہذا چھونہ کانہہ اکھاہ عبادتس سزوار تس ورائى۔ عبادت کنیہ عاجزى تہ پستى نر اون۔ یہ شو بہ تمس برو نٹھ کنہ نر اون کس سیٹھاہ بے حدود بے نہایت عزت تہ بجر آسہ۔ کس نہ حیات وبقاءس منز کانہہ کن محتاج آسہ۔ سو چھونہ کانہہ تہ تس کنس خدائس وراى۔ اتھہ کن نظر کر تھہ شو بہ نہ بندن ہنز کانہہ برو نٹھ کنہ عاجزى و پستى نر اون تس عزت و عظمتہ ولس خدائس وراى نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تمى کر توبہ پیٹھہ بیہ نازل بیہ بڈ کتاب پڑیاٹھہ یارسول اللہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ چھہ حالتس اندر کہ یہ کتاب چھہ تصدیق کران کن سارنى کتابن سمہ امہ برو نٹھ نازل کرنہ آسہ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ \* مِنْ قَبْلِ بیہ کورتى نازل تورایت تہ انجیل امہ برو نٹھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہس پیٹھہ تورایت حضرت عیسیٰ روح اللہ ہس پیٹھہ انجیل هُدَىٰ لِلنَّاسِ سمہ دوشوے کتابہ آسہ لو کن ہندہ خیطرہ بوڈہایت وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ بیہ کرہ تمى نازل حضرت انبیاءن پیٹھہ تمہ کتابہ تہ تم معجزات سموسیت ہمزس تہ ہمزس فرق سپز۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بیشک تم لو کہ انکار چھہ کران خدایہ سندین کن آیاتن تم تہندس وحدانیتس پیٹھہ دلالت چھہ کران لَهْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝  
 هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
 آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ

تہمدی خیطرہ چھو سخت عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ اللہ تعالیٰ چھو غلبہ وول تہ قدر تہ وول بدلہ تہ انتقام بینہ وول إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بیٹک اللہ تعالیٰ آس نش چھونہ کانہہ چیزہ کھٹھ نہ زمین تہ نہ آسمان اندر لہذا چھو تمسند علم نہایت کامل هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ سوگو سؤی قدر تہ وول نس ماجن ہندن شسمن اندر، چیرہ دانین اندر چھو توہمہ سارنی شکل و صورتہ عطا کران۔ ہتھہ پاتھہ سؤی شہان چھو آس اکھ صورت بیس بیاکھ صورت۔ ساری اعضاء ہتھہ آپھہ نس۔ آس۔ ڈیکہ ہو گن۔ سارنی برابر مگر باوجود آل چھونہ کانہہ کانہہ بیو۔ امہ اندرہ چھہ ننان تہنز کمال قدرت پس سہ ثابت کہ حیات کاملہ تہ تمس بیوت قیومیت تہ تمس بیوت۔ علم کامل تہ تمس بیوت۔ قدرت کاملہ تہ تمس بیوت۔ تم گئے اصول صفات۔ تم ساری چھہ موجودتس ذات پاکس اندر بدرجاتم بغایت کمال کانہہ ہمدہ شرکتہ ورائی۔ امی سیت سہ ثابت کہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس لایق معبود آس سزوارتس ورائی الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سؤی چھو غالب توحیدہ کین مخرن ہیحہ سؤی انتقام ہتھہ حکمتہ وول تہ چھو۔ تہ گو سیتی چھونہ مخرن عذابس گر فاقر کران۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ سوگو سؤی یم نازل کتر توہمہ پوٹھہ یار سؤل اللہ تہ بد کتاب قرآن مجید ومنہ الیک مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ تمہ منزہ چھہ کینہہ آیات مضبوط تہ محکم پنہ نین معین پوٹھہ صاف تہ واضح تمین پوٹھہ احکامن ہند دار و مدار چھو وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ بیہ چھہ کینہہ آیات امہ کتابہ ہند یکن ہندین معین ہخر چھو بین لفظن ہندین معین سیت یکن آیاتن ہند معنی پر چھہ آس معلوم چھونہ فَأَمَّا الَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَوَّ  
 الرِّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا  
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٤ رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ  
 هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٥

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ہس سمن لوکن ہندین ولن اندر ہجر تہ وٹھ چھو فیتبعون ما تشابه منه تم  
 چھہ تی بدیتی تہ ہجرہ موکھہ پتہ لگان تمنی آیاتن سمن ہمدہ معنی وضاحت چھہ آسان ابیتغاء  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فتنہ تہ فساد تلکچہ غرضہ بیہ پتہ طرفہ غلط معنی کر چھہ غرضہ ہتھہ لوکن اندر  
 شک تہ شہادت پادہ سپدن تم ڈلن راہ راستہ نشہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانچہ تمن آیاتن ہند  
 صحیح معنی چھونہ زمانان کانہہ تہ اللہ تعالیٰ اس ورائے وَالرِّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ توے سمن گائل تہ پختہ کار  
 عالم چھہ يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا تم چھہ ونان اسہ اون ایمان سمن تشابہہ آیاتن ساری  
 آیات محکم تہ تہ تشابہہ تہ چھہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیح تھہ سکران  
 نہ قبول مگر عقلہ والی۔ تم عقلہ والی چھنہ اتھہ پنہ نس صحیح طریقہ آہس پیٹھہ تھہ کان تہ تہینگان  
 بلکہ چھہ تم خدایہ سنزے مہربانی تہ نعمت زانتھہ تس بعا جزئی منگان رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا  
 ای سانہ پروردگارہ بل متہ کر چھہ ڈالتھہ متہ دل سان اسہ ہدایت کرنہ پتہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ  
 رَحْمَةً عطا کر تہ اسہ ہن ہڈر حمت۔ سور حمت گیہ بیجہ اسہ تھہ تہ قائم تہ محکم راہ راستس پیٹھہ إِنَّكَ  
 أَنْتَ الْوَهَّابُ پز پٹھہ تھی چھہ سیٹھہ عطا کرہ ون۔ بڈر حمت عطا کرہ ون رَبَّنَا اے سانہ پروردگارہ  
 آس چھنہ بیہ دعا منگان ہنہ دنیوی غرضہ خیطرہ بلکہ چھہ آس بیہ دعا کران محض چانہ آخر چھہ عدلیہ نشہ  
 پچہ خیطرہ کیا زہ اسہ چھہ پڑھہ۔ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَلَدَّيْبٍ فِيهِ بیشک تھی چھہ سونہرہ ون  
 ساری لوکن محشر کس مید اس اندر تمہ دوہنہ بیمہ دوہنہ کس یس منز کانہہ شک تہ خبہ چھونہ۔ کیا زہ تہ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَى فِيهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ  
 الْمِيعَادَ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
 أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۙ كَذَّابِ  
 إِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ  
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 سَعْتَلْبُونَ وَنَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۙ قَدْ كَانَ

جہت تھے دوہمے تک پانہ وعدہ فرمودت إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ پڑھا اللہ تعالیٰ جھونہ ہرگز پنے  
 نس وعدس خلاف کران إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بِتیک  
 سمولو کو کھر تہ انکار کور ہرگز بھکتہ تمن نفع تہ فاندہ واتا وجھ نہ جہند مال و دولت نہ جہند اولاد دخد ایس نشہ  
 کنہ چیزک وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بیہ آسن تھے یہندہ سیت نار جنم تاونہ بیہ جھوند حال جھو کذاب  
 إِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فرعونی لوکن تہ بیہ تمن کافرن ہند ہیو حال سم بروئھ آس کذبوا  
 بِآيَاتِنَا تموتہ کیازان لہو سان آیات توے کھر کہ نافرمانی فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس کھر تم گرفتار  
 عذائس اللہ تعالیٰ ان پنے نین گنہن تہ نافرمانین ہندہ سبہ۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ جھو سخت  
 عذاب کرہون سخت سزادوہون قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتَلْبُونَ وَنَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ  
 فرماوہتہ یارسول اللہ ﷺ یمن کافرن ای کافر و ہتہ سپد و جلدی مغلوب مسلمان ہندہ اتھہ دنیا س اندر تو  
 پتہ بیو سو نبرت و اتاوندہ نار جھنمس۔ سوچھہ سیٹھاہ پچھہ جایا ہتہدہ ٹھہر نہ خیطرہ۔ ہتھہ منز قرارہ بدل  
 سخت بیقراری آسہ توہمہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْهِ التَّقَاتَا تقیق اوس ہتہدہ خیطرہ بوڈمؤنہ تہ  
 عبرت حاصل کر تک نشانہ تمن دون جماعتن ہندس مقابلہ کرنس منز ہم میل کھہ آس سیت جنگ  
 بدرس منز فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کھ جماعت آس جماد کران خدا یہ سبہ خیطرہ یعنی حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم سز لشکر۔ تم آس تریہ ہتھہ تہ ترواہ (۳۱۳) صاحب۔ مہاجر و اندرہ ستہ ستھہ

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّكَاثُفَةِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى  
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ  
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زَيْنَ  
لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

(۷۷) انصار و اندرہ زہ ہتھ تہ شہ ترہ (۲۳۶) صاحب۔ سیت آسکھ زہ ۲ گمر۔ ستھ ۷۰ و و نھ۔  
آھ ۸ شمیرہ۔ شہ ۶ زرہ۔ و اُخری کافرہ بیاکھ جماعت آس خدا نئس انکار تہ گفر کرہ و ن ابو جملہ  
سز لشکر تم آس نوشته تہ پنواہ ۹۵۰ زن تمن سیت آس آھ ہتھ گمر۔ ستھ ہتھ و ونث یرو نھم  
و مثلیھم رأی العین مسلمان آس و چھان کافر ن پانس دو گن وارہ کارہ اچھو سیت۔ باوجود آل آس  
قوت ایمانی سببہ تمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ تیار۔ تھند حوصلہ آس بلند سپدان۔ نتہ گو معنی کہ کافر  
آس و چھان مسلمان پنہ خوتہ دو گن۔ تھند حوصلہ آس پرت سپدان یکنے گنیہ یاری خدا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ  
بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو یاری تہ مدد کران نئس یڑھان چھو تس۔ ستھ پانھہ یڑھان چھو ستھ  
پانھہ۔ ان فی ذلک لعیبرۃ لاولی الابصار پڑپانھہ ستھ جنگ بدرہ کس و اقص اندر چھہ بدعبرت  
گاشدارن ہندہ خیطرہ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناتیر المقنطرة من الذهب  
والفضة والخیل المسومة والانعام والحرف زینت آودنہ لوگن ہندہ خیطرہ نفسن خواہشاتن ہندس  
نبتس۔ مثلاً زنانہ۔ گمر۔ گمر۔ بیہ سوئمر مت واریاہ مال۔ سون تہ روپھہ۔ بیہ نشانہ دار گمر۔ بیہ چار وای۔  
وونث۔ گمن تہ تیر۔ بیہ زراعت۔ ذلک متاع الحیوة الدنیا بیہ سو روی چھو دنیا چہ ناپائیدار زندگی  
ہند آھ سامانہ۔ نہ دنیا س اعتبار نہ اتھہ سامانس کینہہ اعتبار وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَالِ اللہ تعالیٰ سی  
نش چھہ جای رتھ واپسی ہنز قُلْ اُوْتِيتُكُمْ بِغَيْرِ مِّنْ ذٰلِكُمْ فرما دیو کھہ تہہ یارسول اللہ کیاہ بو کروہ توہہ



الْبَابِ ۱۴) قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۱۵) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْتًا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۶) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۱۷) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

خبر تمجید یہ سمو ساروی چیز و خوتہ سیٹھاہ بہتر تہ افضل جھو للذین اتقوا عند ربهم جدت تجری من تحتها الأنهار سیم لوکھ خدائس کھوژن تھمدہ خیطرہ جھتھ تھمدس پروردگار س نیش تم تم باغ سمو منز جو یہ پکان جھتھ۔ خلدین فیہا تمنی باغن منز جھو تمن روزن تہ بسن ہمیشہ ابد الابد و ازواج مطہرہ تہ جھتھ تھمدی خیطرہ تمن باغن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ سمہ پاک و صاف آسن حیضہ نشہ، نفاسہ نشہ بیہ ساروی آلائیشو تہ گندہ گو نشہ و رضوان من اللہ بیہ جھو تھمدی خیطرہ رضای خدا یوسہ ساروی نعمتو اندرہ بذنعت جھتھ و اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ جھو وارہ و چھان بدن ہند حال۔ پر تھتھ آس دیہ جزا ہند ہند کامہ ہند الذین یقولون ربنا اننا امتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تم متقی۔ ہندہ خیطرہ سمہ مہربانی تہ انعامات جھتھ۔ تھمد صفت جھتھ سیم۔ تم جھتھ عاجزی سان مگان آسان کہ سانہ پروردگارہ بیشک اسہ اون ایمان۔ وون کر تہ سائین گنہن مغفرت۔ بیہ رحمتہ اسہ نار کہ عذابہ نشہ۔ بیہ جھتھ تھمد صفت الصابریں و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار تم جھتھ صبر کرہ وون بیہ جھتھ تم پوزونہ وون۔ بیہ جھتھ تم فرمانبرداری کرہ وون بیہ جھتھ تم رژن کابین اندر مال پٹن خرچ کرہ وون خدایہ سدہ رضا خیطرہ۔ بیہ جھتھ تم گنہن مغفرت تہ بخشائیش مجھ وون سحرہ کین و قن اندر پاس آخرس۔ کیا زہ تمہ وقتہ جھتھ دعا قبول سپدنج زیادہ امید شہد اللہ انہ لآلہ الاہو گواہی جھتھ دژ مر اللہ تعالیٰ ان برو تھنیں ستابن اندر اچی کہ کانہہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس وراہی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْبَلِيَّةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ<sup>۱۸</sup> إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ  
الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>۱۹</sup> فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ  
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْبَلِيَّةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ بے جھہ ڈر مشرگوای ایچ ملا نکو پنے نین اڈکارو اور اون اندر، تہنز ذکر جھہ  
تسبیحات و تحمیدات و تہلیلات۔ بے جھہ ڈر مشرگوای ایچ علم و الیو پنے نین تقریر اتن و تحریر اتن و بیاناتن  
اندر قَائِمًا بِالْقِسْطِ در حالیتہ سو معبود بر حق جھو قائم تھاوت پریتھہ چیزک نظام اعتمد الہ سان۔  
تھی جھو مکر و نہ یوان لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کانہہ معبوداہ جھونہ تس و رای سو جھہ غلبہ دول تہ حمتہ  
دول۔ کیا زہ بے جھہ تمنزی کام بے نہ کانہہ ہنز ان الدین عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ بیشک پوز دین تہ  
مقبول دین جھو اللہ تعالیٰ آس رُغمہ صرف دین اسلام و مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اختلاف گور نہ بہو دو تہ نصاروا و اسلامکس دین حق آسس اندر مگر تمن رُغمہ لہ تھہ  
ہند پور علم و اتنہ پتہ۔ یعنی یہ اختلاف کور تمو خبر آسٹھ دیدہ و دانستہ زانتھہ کر تھہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ سُو  
اختلاف کور کھ حسد کن تہ عنادہ کن نئس تمن منز آسٹھی اوس وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ وون نئس انکار کرہ پروردگارہ سندین آیاتن یعنی قرآن مجیدس تہ معجزاتن بیتھہ پاٹھہ تمو  
یہود و کور پس اللہ تعالیٰ جھو تمن جلد حساب ہیوہ وون تس لجنہ زیادہ وقت تمن حساب ہمیں اندر۔ حسابہ  
پتے گو تہ بندہ خیطرہ سخت عذاب فَإِنْ حَاجُّوكَ وون ہر گاہ توبہہ سیت یار رسول اللہ سیم لوک بحث لاگن  
فَقُلْ تہہ فرما دیو کھ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ مہیہ کور ہن رخ کنئس خدا نئس کن بے تمو ساروی  
سیم مہیہ پتہ پتہ پکان جھہ میان متابعت کران جھہ تہہ مانو یا متہ مانو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْأَمْسِينَءَ اسَلَمْتُمْ فَاِنْ اسَلَمُوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَاِنْ  
 تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ مَوْلَا اللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ۙ اِنَّ  
 الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَعِيْرَ  
 حَقِّ ۙ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
 فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ  
 اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۙ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيْرِيْنَ ۙ

وَالْأَمْسِينَ تُوپتہ فرماؤ جنہمبہ یہودن نصراءن بہ عریکن مشرکن سیم آن ہرہ چہہ ءء اسَلَمْتُمْ کیاہ  
 تہہ چہوہ اسلام قبول کران۔ یعنی تہہ کر تو اسلام قبول۔ تہہ اندر آس تہندہ حقہ بہتری فَاِنْ اسَلَمُوْا  
 فَقَدْ اهْتَدَوْا ہر گاہ تموا اسلام قبول کور تلہ لب تموسنر وتہہ وَاِنْ تَوَلَّوْا ہر گاہ اسلام قبول کرنہ  
 نشہ تموتہہ بخر۔ تہہ مہ بر و تمیک کانہہ پروا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ توبہہ اوس نہ منہ مگر پیغام و  
 اتناون۔ تہہ واتوووہ توبہہ پورہ پاٹھہ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چہووارہ و چہان بدن ہند حال۔  
 سو پر تہہ پائے نافرمان۔ کیاہ کور تموا اَنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰهِ سیم لوکھہ انکار کران چہہ خدایہ  
 سندین آیاتن مثلاً یہود تم چہنہ مانان انجیلس تہہ قرآن مجیدس وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَعِيْرَ حَقِّ سیم چہہ قتل  
 کران پیغمبرن ناحق۔ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ سیم چہہ قتل کران تمہن  
 لوکن سیم تمہن امر چہہ کران انصاف کر نک۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ تمہن ونبو بشارت کڈرہ عذاب۔  
 مروی چہو از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلو کمر شہید صمخس تہہ تاجہ ۴۳ پیغمبر۔ تُوپتہ کر مے  
 یکھہ فہمایش نیک لو کو اندرہ اکھہ ہت تہہ ستہ توزینو۔ تہی دوہہ شامس تان کر کہہ تم تہہ شہید۔ تہنزی ذکر  
 چہو اللہ تعالیٰ فرماون تہہ آئیہ کر تمس اندر اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 سیم لوکھہ گے تم بہنہزہ عملہ ضائع کیندہ دیاعس اندرتہ تہہ آخرتس اندرتہ۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيْرِيْنَ سیم  
 آئیہ نہ تمہن کانہہ مدد گارہ سزا کہہ وقتہ اَللّٰهُ تَرٰ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ آیاو چہان چہوہ تا تمہن

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ  
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّبَهُمْ  
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا  
 رَيْبَ فِيهِ تَتَّوَفَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۵﴾  
 قُلِ اللَّهُمَّ لِيكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

لو کن کن یمن اکه کافی حصہ چھو آمت دنہ تور اٹک۔ اگر تم ہدایت ژھانڈہ ون آسن سوی حصہ اوس  
 تہدہ حقہ کافی۔ یُدْعَوْنَ اِلَى الْكِتَابِ لِلَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ناد چھو یوان دنہ تمن خدایہ سزہ تھہ کتابہ کن یوسہ  
 تمنی نشہ چھہ بٹھہ تمنی سیت تمن منزہ ہی اختلاک فیصلہ ایہ ہا کرنہ۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ  
 مُّعْرِضُونَ تو پتہ چھہ تمہ نشہ ژلان تہ روگردانی کران تمواندرہ اھہ جماعت۔ بیہ چھہ تم بٹھہ پھر ان  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ بیہ اعتراض کرن چھہ چھو تمنی موکھہ تمن چھو پنہ  
 جایہ اھہ خیالہ کہ تمن زالہ نہ نار جنم مگر کینڈن دوہن۔ تو پتہ ہنہ تمن مغفرت۔ نارہ نشہ یمن کڈنہ۔ بیہ  
 چھو چھہ باطل اعتقاد۔ اتھہ پیٹھہ چھہ تمن نشہ دلیلہ کانہہ تہ۔ وَغَرَّبَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم چھہ  
 دینہ کس حقس منز دھو کس منز تراومت پنہ نیو کھو ییمہ تمبو پانے ٹھہراوہ مزہ چھہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ  
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ پس کیسا حال آسہ ٹھہر یلہ آس تم سو نبر اوکھہ تمہ دوہنہ سمہ دوہنہ تہن پٹشی بیہ احکم  
 الجائیس نشہ کرنہ۔ سمہ دوہنہ کس پٹش منز نہ کانہہ شیکھاہ تہ شہماہ چھو۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ  
 هُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ بیہ تمی دوہنہ پر بٹھہ آگس پنہ کر تو تک پورہ پورہ بدلہ دنہ۔ کانہہ نسبت بیہ نہ ٹنہ  
 قسمگ ظلم کرنہ۔ ہی وومت آسکھہ تی لون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورج مکہ پتہ مسلمانن روم تہ  
 فارس فتح سپد تک وعدہ۔ منافق تہ بہود لگ اتھہ پیٹھہ ٹھٹھہ تہ استہزاکرنہ۔ اتی سپد نازل بیہ آسہ کریم  
 قُلِ اللَّهُمَّ لِيكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایسویہ دعامنگان۔ یا

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُدَالُّ مِمَّنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ  
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  
 وَتَرْزُقُ مِمَّنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا

اللہ ہی چھوک ساری ملک مالک۔ عطا چھوکھ کران ہی ملک بس یرشان چھکھہ و تَنْزِجُ الْمَلَكَ  
 وَمِمَّنْ تَشَاءُ اتمہ چھکھہ ہیوان ملک بس نشہ۔ یرشان چھوکھہ و تَعِزُّ مِمَّنْ تَشَاءُ مِمَّنْ تَشَاءُ بے چھوکھ  
 عزت دوان نس بس یرشان چھوکھہ۔ بے چھکھن ذلیل کران سو بس یرشان چھن بیدک الخیر ہی  
 اتمہ چھو سوزی خیر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک ہی چھوکھہ پر ہتھ چیزس بیٹھ قدرتہ دول تُولِجُ  
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ داخل چھو ہن کران راتھہ دو بس منز۔ بے چھو ہن دوہ داخل  
 کران راتس منز یعنی مختلف موسمن اندر۔ رات ہند وقت کم کرتھہ دوہ بڑاوان۔ ذہک وقت کم کرت  
 رات بڑاوان۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ بے چھو ہن ہی جان کڈان بے جانس نشہ۔ پوت ٹھولہ  
 منزہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ بے چھو ہن ہی بے جان کڈان جاندارس نشہ۔ ٹھول جانورس نشہ  
 وَتَرْزُقُ مِمَّنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بے چھوکھہ ہی رزق عطا کران بس یرشان چھوک نہ نس حسابہ و رای  
 اسباب ذریعہ و رای لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مہ بناون نہ مہ تھاوان  
 باایمان کافرن پن دوست۔ باایمان مسلمان تراوتھہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
 بس اکھاہ یرشہ کام کرہ بس چھونہ نس خدا بس سیت کانہہ تعلقا ہنہ چیزس اندر یعنی خدایہ سندین دشمن  
 سیت ہم دوستی لاج شوہ نہ خدایہ سند دوست۔ نس تھیون خدایہ سزہ دوستی ہند تعلق إِلَّا أَنْ  
 تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا مگرے تم ہندہ شرہ نشہ چھنہ خطیرہ ظاہر داری سان چھنہ بے و يُحِذُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

وَيَحِذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ  
تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ ۗ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾  
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ  
سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيَحِذِّرُكُمْ اللَّهُ  
نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۰﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

اللہ تعالیٰ چھو توہمہ پنہنذات پاکہ نشہ کھوڑہ ناوان یعنی پنہن بیزاری تہ غضبہ نشہ۔ تمہس کھوڑو تہنزمہ کمر  
دنا فرمانی ورا لی اللہ المصیر اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پریتھہ کانسہ پتولا کہ واتن۔ آخر سوکمرہ ہتھ سپدہ  
تس نش پیش۔ قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ فرماؤیو کہ یارسول اللہ ہر گاہ  
تہہ پوشیدہ تھا دو تمہہ کتھہ سمہ تہندین دلن اندر چھہ یانتر اوو بہر حال تمہہ سارے چھہ اللہ تعالیٰ اس  
معلوم ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ یہ چھو تس معلوم تہہ سوڑی۔ یہ آسمان اندر چھو۔ یہ  
زمینس اندر چھو ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ یہ چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس پیٹھہ قدر تہہ وول یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ  
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۗ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ پریتھہ کانسہ چھو خدا لیس نشہ واتن تمہہ دوہہ سمہ دوہہ  
لبہ پریتھہ شخصہہ تہہ سوڑی یہ تم کورمت آسہ خیر چو کامیواندرہ پانس بروٹھ کنہہ یہ تہہ سوڑی یہ تم  
کورمت آسہ چھہ کامیواندرہ تھہ تہہ لبہ پانس بروٹھ کنہہ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ تمنا کرہ  
ہر گاہے میہ منزہ تہہ ہتھہ قیاس منز آسہماز پیٹھہ زیوٹھہ وقاہہ۔ یہ تمنا کرہ سو شخص لیس نیکیہ تہہ وچھہ تہہ  
بدیہ تہہ وچھہ۔ دون لیس بدیے بدیہ آسن سو کوتاہ افسوس تہہ غم آسہ کھیوان ۗ وَيَحِذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ  
یہ چھو اللہ تعالیٰ توہمہ کھوڑہ ناوان پانس نشہ یعنی پنہن بیزاری نشہ۔ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۗ یہ چھو اللہ  
تعالیٰ مہربان پنہن نین بدن پیٹھہ۔ کھوڑہ ناوان تہند تہہ چھہ بڈ مہربانی۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ فرماؤیو کہ تہہ یارسول اللہ خدا لیدہ سہہ محبتک دعویٰ دوہہ نین کہہ ہر گاہ توہمہ خدا ٹوٹھہ چھوہ

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ  
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾  
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى  
 الْعٰلَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾  
 إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  
 مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

تلقہ کرو میان متابعت۔ تمہے سیت ہو خدایہ سبب محبوب و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم یہ کلمہ  
 مغفرت تہندین گنہمن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون میانین تابعداران  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما دیو کھہ فرمانبرداری کرو خدایہ سزہ یہہ تہندس پننبرہ سزہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ پس ہر گاہ تم مجھہ پھرن اطاعت قبول کرن نہ پس اللہ تعالیٰ اس چھہ  
 ناٹھہ کافر تہ مکر بندہ۔ تنھن بدن پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ بیزار إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ  
 وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ پڑھاٹھہ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت آدم بہہ حضرت نوح بہہ خاندان حضرت  
 ابراہیم تہ خاندان حضرت عمران برگزیدہ سارنی عالمین پیٹھہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ سم کہہ  
 اکسہ اولاد چھہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری یوازن۔ سوری زانان۔ تس چھہ خبر کوہ کھہ  
 قابل چھو إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ یلہ حضرت عمرانہ سند یو باژو دوپ سمن ناواوس حنہ رَبِّ إِنِّي  
 نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا اے میانہ پروردگارہ بہ چھس نذر تھاوان چانہ خیرہ یہ میانس ششکس  
 منز اولاد چھو۔ آزاد گزھہہ روزن سؤد نیاپو کا میونعہ چانہ عبادتہ خیرہ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ پس کرن قبول تہ میانہ طرفہ پڑھاٹھہ شی چھو کھہ سوری بوزہ ون سوری زانہ ون۔ فَلَمَّا  
 وَضَعَتْهَا پس یلہ تس زایہ کور قَالَتِ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ دین پروردگارامہ اس امیدہ زیو پیٹو۔  
 سوی تھاوان بو محض چانہ عبادتہ خیرہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیرہ آزاد۔ مگر میہ زایہ کور وَاللَّهُ

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَ  
لَیْسَ الذَّکُوْرَکَ اِلَّا اُنْثٰی ۗ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۗ وَاِنِّیْ اَعِیْنُهَا  
بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۳۷﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ  
حَسَنٍ ۙ وَاَبْتَدَاهَا نَبَاً حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ۙ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا

اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ اسنډه اظهاره وراى آس الله تعالى اس خبرى امس كياه زاول مگرام كوراظهار ندامت  
پنه طرفه وَلَيْسَ الذَّكُوْرَكَ اِلَّا اُنْثٰی بيه پنچو جهنډه كوره هيو۔ سو چئهو آسان قوت وول ته مشقت  
برداشت كرن وول وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ بیشك ميه كور امس كوره ناو مریم یعنی عابده  
وَاِنِّیْ اَعِیْنُهَا بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ وون جهس بوتها وان سو بيه تمسز ذریت یله  
سوامس ٿه عطا كره كه چانس پنهنس منز۔ مردود شیطان سنډه شره نشه فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ پس كره  
قبول سو الله تعالى ان چوسنډه خونه زیاده رت پاڻه۔ وَاَبْتَدَاهَا نَبَاً حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا الله تعالى ان  
دیت امس رت تهڊن پائے ته بڊن پائے به آس ونه ماجه هندس شمسكى اندر ته حضرت عمران گوسمه  
عالمه۔ امه پته یله به زایه۔ آسنز والده حضرت حنه آیه بیت المقدسه کین خاد من نشه۔ دو پنجه ریٿون  
به میان گور یوسه مه بیت المقدسه كه خدمته خیطره نذر تھا و مڙجهه۔ یکن خاد من پيو اختلاف پرتهه  
اک كره خواهش بوی ته بوی رشن به كور پنډه نگرانی اندر۔ حضرت ذکریا علیه السلام ته اوس یوی اندره  
آهه خاد من بیت المقدسك تمو ڏوپ به گور روزه مه نش کيا زه بو چئوس اسنډه ماسو۔ آسنز ماس جهه میانس  
عقد نکاحس اندر۔ بهر حال اختلاف رفع كرنه خیطره تراوه تمو چیره۔ چیره تراونچ طریق آس تمن دوهن  
به كه قلم آس تراوان دریاوس اندر۔ سمسند قلم آهس پیڻه ایستاده روزه به۔ هیورگن پچه هاتسنډه حقه اوس  
فیصله سپان۔ چنانچه تمو خاد منو ته تراونهر آروس اندر پنډن قلم۔ تمواندره رُود حضرت ذکریا سنډ قلم  
ایستاده۔ هیورگن لوگ پچنه۔ کس آیه تمنی به حضرت مریم سپر دکر نه تمو بنووا که بالاخانه۔ تنه منز تھا  
وهه به حضرت مریم۔ تنه بالاخانس آس تم هیر لاگان۔ تی هیر ه پیڻه آس تمن نشه کنه کنه یوان۔ تمه پته



ذَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِيزَ قَا قَالَ يَمْرِي اُنِي لِكِ هَذَا  
 قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾  
 هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
 طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

آس سوہیر تلان۔ پانس سیت نو ان سے قفلس تل بند کرتھ تھوان۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ  
 وَجَدَ عِنْدَ هَارِيزَ قَا يِلَه يِلَه حضرت ذکریا آس یوان تمن نشہ اتھ بالاخانس منز لبان آس تمن نشہ  
 عجیب وغریب رزقہ۔ وندک میوہ ریتہ کالس منز۔ ریتہ کالک میوہ وندس منز قَالَ يَمْرِي اُنِي لِكِ هَذَا  
 پر ژھان آسکھ اے مرتم مہ ورا ی چھونہ یوت ژہ نش کانہ یوان تم چیز کتھ چھکھ ژہ انان قَالَتْ هُوَ  
 مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ دپان آس سبویہ چھو خدایہ سدہ طرفہ واتان۔ پزپاٹ  
 خدا چھو رزق سوزان نئس یژھان چھو تس حسابہ روستوی اسبابوہ ذر لئو ورا ی۔ یہ بوڑھہ سپز عجیب  
 کینقیانہ پیدہ حضرت ذکریا آس۔ تمن اوس نہ اولاد پنہہ بجز کمہ سببہ پنہ نین باژن ہندہ ہانڈہ آسنہ سببہ آس  
 اولادہ نشہ سپدمت مایوس۔ مگر حضرت مریمہ سندیہ کلام بوڑنہ سیت سپز کھہ اکھ امیدہ پیدہ۔ اتی کوڑکھ  
 اتھ محر ائس۔ اتھ بالاخانس منز خدا نئس گن رجوع تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ  
 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ امی وقتہ اتھہ جلیہ مؤنگ دعا حضرت  
 ذکریا عن۔ دوہن ای میانہ پروردگارہ عطا کر میہ خاص پنہہ طرفہ پنہہ کمال قدرتہ سیت، رت فرزندہ۔  
 پاک نافرمانیو نشہ۔ پزپاٹ ژہ چھو ک بوڑہن قبول کرون دعاءس فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ پس دیت آلو تمن ملائکیو یلہ تم نماز آس پران اتھہ بالاخانس منز اَنَّ اللّٰهَ  
 يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بشارت دوان توہہ فرزند عطا کرئج لیسند ناو چھو یجی مُصَدِّقًا  
 بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصَوْرًا وَّزَيْنًا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ تم تصدیق کرہ و ان آسن اللہ تعالیٰ سدس

مَنْ اللَّهُ وَسَيِّدًا أَوْ حُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ رَبِّ  
 أَنَّى يَكُونُ لِي غَلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ  
 كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ  
 آيَتِكَ الْآتَاكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرَّ رَبَّكَ  
 كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۲۱﴾ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ  
 يٰمُرِّيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ

کس یعنی حضرت عیسیٰ اس بیہ چھہ تم سزاوار تہ رغبت نہ کرہ ون زمانن کن قادر آتھہ بیہ پیغمبرہ  
 نیکو کارواندرہ۔ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ دوہن ای میانہ پروردگارہ  
 کتھہ پاتھہ ہنہ میہ فرزند۔ حالانکہ میہ چھو بزرگ وقت دوہمت بیہ چھہ میان آشلن ہانٹھ۔ قَالَ مَلِكُن  
 دوہن كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ تھہ پاتھہ بغیر اسباب و ذرائع۔ اللہ تعالیٰ یہ برتھان چھو تہ چھو کران  
 تس نش چھو نہ مشکل کہنی چیز قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً دوہن پروردگار میانہ خپترہ کر کہینہہ علامتہہ  
 سمہ سیت مہ معلوم سپدہ تہسہ کیاہ کورٹھہ مین دُعا قبول تہیہ کیا کورٹھہ میہ فرزند عطا۔ قَالَ اللَّهُ  
 تعالیٰ ان فرموس آيَتِكَ الْآتَاكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا نشان تہ علامت چون چھو تہ تہکھنہ  
 کتھہ کر تھہ لوکن سیت ترین دوہن مگر اشارہ پاتھہ یان سُو حال تہہ پانس منز لکھہ تان زانزہ اللہ تعالیٰ ان  
 کوزی تہسہ فرزند عطا۔ وَاذْكُرَّ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ بیہ کر تہہ پنہ نس پروردگارہ  
 سُد یاد بکثرت۔ بیہ آسن سُو پاکی یاد کران شامس تہ صحن تہ۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ ان کور چون دُعا قبول۔  
 مایوسی تہ نامیدی پتہ کورنہ فرزند عطا۔ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يٰمُرِّيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ  
 وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیہ پاو تڑ تیس یلہ ملکو دوپ حضرت مر تھس بیشک اللہ تعالیٰ ان  
 کتر کتھہ تہہ برگزیدہ تہہ کر تھہ قبول ماجہ ہند نذر بیہ کتر چھہ پاک ساروی آلودہ گیونشہ۔ بیہ کر تھہ شی منتخب  
 علیجو زانو آندرہ۔ تہی یوت کورنہ عطا فرزند ماس و رای یٰمُرِّيْمُ اذْكُرِّي رَبَّكَ وَالْحَمْدُ لِي وَاذْكُرِّي

نِسَاءَ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ يَرْيِمُ أَقْنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي  
 مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۳﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلُونَ آيَاتِهِمْ يُكْفَلُ مَرْيَمَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۴﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَرْيِمُ  
 إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم عبادت آس کران پنہ نس پروردگارہ سنزیتھہ نہ برگزیدہ گی ہند غور و پیدہ  
 سدی۔ یہ آس سجدہ تہ رُوع کران یعنی نماز پران بین نماز پرہ وین سیت ذلک من انباء الغیب سم  
 قصہ چھہ غیبہ جو خبر و اندرہ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ خبرہ آس توہہ کن یار سؤل اللہ بطریق وحی سوزان چھہ۔  
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ توه ما آسوه تم احبارن تہ خادمن نش إِذْ يُتْلُونَ آيَاتِهِمْ یلہ تم دریاوس منز پن  
 قلم تراوان آس آس منز چیرہ تراوتھہ دریافت کرنہ خیطرہ۔ یہ آس تمہ وقتہ چیرہ تراوتھہ طریق۔ یا کور  
 تمو خادموا تھے پاٹھہ پانہ وان فیصلہ کہ قلم تراو دریاوس منز و چھو کسند قلم روزہ آس اندر وودنہ۔ سمند  
 قلم آس منز وودنہ روزہ سوی کرہ حضرت مریمس پرورش آيَتُهُمْ يُكْفَلُ مَرْيَمَ نمو احبار و اندرہ  
 عس کرہ کفالت حضرت مریمہ سنز وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ یہ آسوه نہ تمہ تم نشہ یلہ  
 تم پانہ وان تنازعہ آس کران إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَرْيِمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ تہ تمس پا وویلہ وون  
 ملا نکو حضرت مریمس پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھوی تہ بشارت فرماوان آس کلمہ سنز نس تہمدی طرفہ  
 آسہ اسْمُهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سمند ناو آسہ مسیح عیسیٰ مریمہ سُنْدُجُو۔ مسیح چھوس لقب۔  
 عیسیٰ چھوس ناو۔ بعضی وقتہ چھو لقب ناوس پیٹھہ مقدم یوان کرنہ تعظیمہ خیطرہ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نس باعزت باوقار آسہ دنیا و آخرتس منز یہ پروردگارہ  
 سمند یومقر ب ہند و اندرہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْهَيْدِ وَكَلِّمُ النَّاسَ سیت منز نس اندر تھے

وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْبَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۷﴾  
 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳۸﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقُ

پاٹھہ پتھہ پاٹھہ بوڈوا تھہ جو ان سہ تھہ کرہ کلام و مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ آسہ سوڈو نیکو کار و اندرہ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ حضرت مریم دوپ پروردگار ہامہ تھہ پاٹھہ بنہ اولاد حال تھہ  
 مہ چھونہ تھہ تہ لوگت کانسہ انسان۔ کانہ مرد چھونہ مہ نزدیک آمت نہ جائیز طریقہ پاٹھہ نہ ناجائز  
 طریقہ پاٹھہ۔ عادتاً چھونہ چہ زیوان مردہ سہ نہ نزدیک بیہ ورائی کانسہ زنانہ۔ معلوم چھونہ کہ اللہ تعالیٰ  
 تھہ پاٹھہ کرہ مہ فرزند عطا۔ کانسہ سیت نکاح کر تھہ کر مہ عطا کینہ محض پنہ قدرت کاملہ سیت کریم عطا  
 قَالَ اللہ تعالیٰ اَن فرموس ملکہ سہ واسطہ کَذَلِكَ تھہ پاٹھہ یعنی پنہ قدرت کاملہ سیت۔ اللہ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کر ان اسبابو تہ ذرا لیبو ورائی بیہ یثہان چھونہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا  
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سولہ ہنہ چیز کہ پیدہ کر تک ارادہ کر ان چھو کس چھونہ تس کنہہ کرن آسان فقط  
 فرماون تھہ کُن بیہ تھہ س عکس منز آسان چھو کہ سہ۔ اتی چھو چیز سہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیہ پچھناوہ تس چانس فرزندس کتاب یعنی ہرن تہ لیکھن بیہ گاہہ جار چہ تھہ بیہ  
 تواریت تہ انجیل۔ بعضے عالمو فرموو کتابہ اندرہ چھو مراد قرآن و حدیث۔ کیاہہ آخر زمانس منزلیہ  
 حضرت عیسیٰ آسانہ پٹھہ نازل سہہ ہر زمین تمہہ وقتہ کرہ سو پیروی کتاب و سنت حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ سوزہ تس سارنی بنی اسرائیل کُن پیغمبر کس فرماوہ تہن اِنِّي قَدْ  
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ای بنی اسرائیلوہ آسوہ توہہ پتھہ کینہہ معجزہ تھہ س پروردگارہ سہہ طرفہ ہم  
 معجزہ میانس پیغمبر آسہس پٹھہ دلالت چھہ کر ان اِنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخْتُ فِيهِ

لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ  
 اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  
 أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَلِحُجَّتِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ  
 بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بیشک بہ بناون تہندہ خیطرہ میثرہ ہند جانورہ۔ تس و مہ بھو کھہ۔ سو بہ و ڈوہ و ن جانور  
 خدایہ سیدہ جمعہ سیت۔ دو سہ مجزہ گو و اُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ بلہ  
 راؤن بو سوئس او نو ی زامت آسہ ماجہ۔ تس بیہ اہجن گاش۔ بیہ بلہ راؤن بو تہتر ہلدہ۔ بس بدنس آسن  
 سفید داغ۔ سہ زہ مرض آس تہمہ وقتہ لاعلاج۔ چنانچہ اکی دوہہ بلرا و تہو ہنواہ ساس (۵۰،۰۰۰)  
 بیمارامہ قسمک۔ بیہ کرکھہ زندہ مومت انسان خدایہ سیدہ جمعہ سیت وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  
 تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بیہ کرودہ بو توہہ خبر کج بیہ تہہ کھیوان چھوہ بیہ یہ تہہ گرن اندر موجود تھاوان  
 چھوہ۔ اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک اتھ منزہہ ہد دلیل تہندہ خیطرہ ہر گاہ تہہ  
 پڑھہ کرہ ون چھوہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ چھوس بو توہہ گن یوان تہہ کتہہ تصدیق  
 کران یوسہ مہ بروٹھہ چھہ نازل کرنہ آس۔ سو کتاب گنیہ تورایت ولِحُجَّتِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
 بیہ آس بو توہہ گن بیٹھہ بلا حلال کرہ تہندہ خیطرہ تمو چیز واندرہ بعضہ چیز سہم توہہ بیٹھہ حرام آست آس  
 کرنہ بیہ میون دعوائے نسخ چھونہ بلا دلیل بلکہہ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بیہ آس بو توہہ گن تہندس  
 خدایہ سیدہ طرفہ اچ دلیل بیٹھہ۔ سو دلیل گنیہ میون بنی آسن فَاتَّقُوا اللَّهَ پس کھوژو اللہ تعالیٰ آس  
 تہندس حکم مہ کمر و مخالفت وَأَطِيعُوا دینہ کس معاملس منز ما نو میون حکم۔ خلاصہ میانہ دینی  
 تعلیمہ ہند چھو اکی کہہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پڑھا تھہ اللہ تعالیٰ چھو میون

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ  
 الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ  
 أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا آمَنَّا  
 بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ﴿۵۳﴾  
 وَمَكْرُؤًا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِرِينَ ﴿۵۴﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

تہ ہند معبود جس کرو تہنزی عبادت۔ یو ہے چھوہ راہ راست۔ تھہ وتر گن ساری پیغمبر آی نادووان  
 فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ پس بلہ ژ یون حضرت عیسیٰ ان تمن بنی اسرائیل نشہ تہند انکار تہ گھر  
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ دو چھہ بنی اسرائیل کن گوہ اکھاہ چھو توہہ آندرہ میون مدگار خدائس گن  
 لُوکن نادونہ خیطرہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ روشن دلواندرہ خدائس گن رجوع کرہ و نیواندرہ و تھہ اکھہ  
 جماعتھاہ تم آس باہ زن۔ تمبوی ڈوپ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ اس چھہ خدایہ سندہ دینک مدگار آمنا بِاللَّهِ  
 اسہ اون ایمان تہ اسہ کتر پڑھہ کُنس خدائس وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ اے عیسیٰ تہہ رُوز و گواہ۔ آس چھہ  
 فرمانبردار گس خدایہ سندہ تہند۔ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ای  
 سانہ پروردگارہ اسہ اُون ایمان تھہ ساری یہ ژیہ نازل کور تھہ۔ یہہ کراسہ پیروی تمس چائس پیغمبرس  
 حضرت عیسیٰ اس۔ جس لیکھہ اسہ تہ شاہدن سیت وَمَكْرُؤًا یہہ کتر یہود و واریاہ حیلہ تہ مکر۔ پوشیدہ  
 تدبیر حضرت عیسیٰ اس تہ حوارین تکلیف و اتناونہ خیطرہ وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان تہ کتر تم تدبیر  
 مہموسیت حضرت عیسیٰ ان تہ حوارینو نجات لوب۔ یہودون ہمد تدبیر میل خاکس سیت۔ چنانچہ  
 یہود ویلہ تم گرفتار کرنہ تہ توپتہ کاٹھس پڑھہ کھارنہ خیطرہ تیاری کتر اللہ تعالیٰ ان کتر ہمیں اکس شخصس  
 حضرت عیسیٰ سنز شکل تہ تم کھارن آسانس پڑھہ۔ جس شخصس حضرت عیسیٰ سنزہ شکلہ بناونہ آؤ  
 سُورُوث تمبو یہود و تہ دیو چھہ پھہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو اتھہ متعلق بیس جلیہ فرماوان وَأَمَّا تِلْكَ الْأَمْثَلُ  
 وَلَٰكِنْ شِئْبَهُ لَهُمْ - وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو ساریوی تدبیر کرہ و نیواندرہ بہتر تدبیر کرہ

يُعِيسِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَى وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى  
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ  
 فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۵۵ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا  
 شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِيْنَ ۝۵۶ وَاَمَّا  
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اٰجُوْرَهُمْ وَاَمَّا

۱۵۵ اِذْ قَالَ اللهُ سُوْقَتِ كَرِّ وَايَدِيْلِهِ اللهُ تَعَالَى اِنْ فَرَمُوْا حَضْرَتِ عِيْسَى اِسْ يٰعِيْسَى اَي عِيْسَى  
 كِيْنِهِنه غَمَّ مَهْ بِر اِنِّي مُتَوَفِّيكَ بِشَكِّ بُوچَهوسِ ثِيَه دِفَاتِ دُوْدُوْنِ پِنه نِسْ مَوْعَسِ پِيْطَه۔ لِهَذَا مَهْ كَهُوْثَرَه  
 سِيْمِ دُتْمِنِ مَآكْهَارِ نَمِ كَاطْهَسِ پِيْطَه۔ يُوْدِمَه نَه تَمْنِ تَمِيْكَ مَوْعَسِ۔ وَرَافِعُكَ اِلَى بَلْكَ كَهَارَتِ ثَه بُوپَانَسِ  
 كُن۔ وَاِتَاوَتْه بُوْثَه عَالَمِ اِلَا اَسْ مَنَزِ وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِه كَرْتِ يُوْثَه پَاكِ مَحْرَنْ هِنَزُو تَمْتُو  
 نَشِر۔ لَعْنِي بُوْرَجَهْتِ ثَه تَمْنِ لُو كَنْ هِنْدِ بُو اِرَاوْدُو نَشِر۔ سَمُوْثِيَه اِنْكَارِ كُوْرِي وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِه كَرَكَه بُوچَانِ بِيرو۔ چُون كُحْمِ مَانِ وَالْغَالِبِ تَمْنِ لُو كَنْ پِيْطَه  
 سَمُوْثِيَه اِنْكَارِ كُوْرِي قِيَامَتِ دُوْمَسِ تَانِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ تُوپِيَه جَه مِي كُن تُوپِه سَارِنِي هِنْدَه وَاَتَجِ  
 جَاءِ۔ فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ لِيْسْ كَرَه بُوِي فَيَصِلَه تُوپِه مَنَزِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ تَمْنِ سَارِنِي مَعَالِنِ  
 مَنَزِ سَمْنِ مَنَزِ تَهْرَه اَخْتِلَافِ كِرَانِ اَسُو۔ تَمُوچِيْزِ وَاَنْدَرَه گُوَاكْه مَعَالِمَه حَضْرَتِ عِيْسَى سُنْدِ۔ اَتَه تَه كَرَه بُوِي  
 فَيَصِلَه فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيْسْ تَمْ لُو كَه تَمُوْكَرَه اِنْكَارِ كُوْرِي لَعْنِي يَهُودِ نَوَارِي فَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا  
 شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِيْسْ كَرَه يُو تَمْنِ سَخْتِ عَذَابِ۔ دِنْيَا سِ مَنَزِيَه اَخْرَتِ سِ مَنَزِيَه۔  
 وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِيْنَ بِه اَسَنَه تَمْنِ كَانَه مَدْكَارَه تَمَه عَذَابِه نَشِرَه مَوْلَاوَنه خِيْطَرَه وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ دُوْنِ سَمُو لُو كُو اِيْمَانِ اُوْنِ پْشَه كَر كَه كُنْسِ خُدَا لِيْسِ بِه كَر كِيَه رْثَه عَمَلَه فَيُوَفِّيهِمْ  
 اٰجُوْرَهُمْ لِيْسْ كَرَه اللهُ تَعَالَى تَمْنِ پُوْر مَزُوْرِ عَطَا وَاللهُ لَا يُوْحِبُ الظَّٰلِمِيْنَ اللهُ تَعَالَى اَسْ جَهَنَه لِيْسَنْدِ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ  
 الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ  
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا  
 تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
 مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ  
 نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ

عالم ذلك نتلوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ سوری قصہ حضرت عیسیٰ سندھجہ آس توہمہ  
 پٹھہ پران یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمہ ہتھہ حجہ دلیلہ جہندس نبوتس پٹھہ۔ بیہ ہتھویہ قرآن  
 مجید محکم بیان۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ پزپاٹ حضرت عیسیٰ سزمثال ہتھہ خدائس  
 نش حضرت آدمہ سزمث۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ حضرت آدم کورن پادہ مشہ نشہ نہ اوس مؤلی نہ نہ  
 اوس مؤجی ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ توپتہ فرموان آس سپدہ پیدہ انسان، اتی سبتتھہ پٹھہ فرموان  
 حضرت عیسیٰ سپدہ پیدہ ماس وراى، تی سپد۔ حضرت آدمہ سند ماس ماجہ وراى پیدہ سپدن اوس زیادہ  
 عجایب مگر تہزہ، الوہتک، ہتھونہ کانہہ نہ ذکر کران حضرت عیسیٰ زاو ماس وراى ماجہ نشہ۔ تہندس پیدہ  
 سپدنس ہتھہ لوکھہ زیادہ عجایب زاتھہ تمن متعلق خدا آسک دعوائے کران۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ  
 مِنَ الْمُمْتَرِينَ پوز ہتھوتی یہ حضرت عیسیٰ آس متعلق ووت توہمہ نشہ پنہ نس پروردگارہ سبہ طرفہ  
 پس مہ آسوتہہ شک نہ خبہ کرہ و نیو اندرہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پس پس  
 اکھاہ توہمہ سیت اتھہ معاملس منزہرہ قضیہ کرہ توہمہ نشہ امیک علم واتنہ پتہ سو کریون جہہ مغلوب  
 بیہ طریقہ تس سیت گرو تہہ مبالغہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا  
 وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ پس فرماو کہ ای عیسیٰ و لو آس و مونا توپتہ  
 سونہر اوکھہ ہن لوکھہ تہ تہند لوکھ۔ پنہہ زنانہ نہ تہزہ زنانہ۔ بیہ ہن پان تہ تہند پان۔ ساری سبت گرو



عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۙ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْ  
 اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ ﴿۶۱﴾  
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۙ ﴿۶۲﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ  
 الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا  
 اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا

خدا ئس گن التجا۔ تو پتہ معگو خدا ئس لعنت اپز یارین ہندہ خیطرہ۔ اس ونویا اللہ ئس اسہ منزہ اپز یور چھو  
 حضرت عیسیٰ سندس معاملس اندر تمس کر لعنت۔ آتھہ چھہ دنان مہابلہ۔ خراکک عیسائی تم بحث کرنہ  
 آس آمت تمودوپ، کھہ آسہ دیو سوئج مہلت۔ تم اندرہ تم گائل ہی آس تمودوپ بین عیسائین  
 پنہ جابہ چھہ کھہ توہہ چھو معلوم یہ صاحب چھو بیشک پیغمبر خدا۔ یہ تہ چھو توہہ معلوم کہ تم قوم  
 کانہہ پیغمبرس سیت مہابلہ کور سو قوم گوفنا تہ تہا۔ لہذا چھوئی مشورہ اس صاحبس سیت گرو اس  
 مصالحت۔ چنانچہ درای امی خیالہ۔ یورہ آس درامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیت آسبھ  
 حضرت علی۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا حضرت امام حسن تہ حضرت امام حسین۔ تم صاحبین  
 اوسبھ فرموومت بوکرہ دعاتہ ککر زہ آمین۔ مگریلہ تم عیسائی نزدیک وات تم نشہ عرض کور بگ اس  
 حض کردنہ مہابلہ توہہ سیت کینہہ تہ۔ پس سپز یمن سیت مصالحت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت  
 ہر گاہ تم عیسائی مہابلہ کرہن۔ مال وجانہ گدھہ بن تہا و بر باد اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ پز پاتھہ یہ ذکر  
 کرنہ آو تم چھہ ہمز واقعات وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ بیہ چھونہ کانہہ معبود آس سزاوار۔ اللہ تعالیٰ  
 اس درای۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بیہ چھو پز پاتھہ اللہ تعالیٰ سیٹھہ غالب۔ سیٹھہ  
 حکمتہ وول فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ پس اگر تم توتہ حق قبول کرنہ نشہ بھہ پھرن۔ ئس  
 پھر آوتہہ یہ معاملہ خدا ئس سو چھو پز زانان مفسدین۔ سوہیہ پائے تم انتقام قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ  
 تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ فرماو یو کھہ تہہ یار رسول اللہ ای اہل کتابو ولو تھہ کلمس گن ئس

مَنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۳﴾  
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ  
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۴﴾ هَآأَنْتُمْ  
هَؤُلَاءِ حَآجُّوهُ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

اسمہ منزتہ تو بہ منزبر ابر مسلم چھو اَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَلَا يَكْفُرُ اَبَدًا بَعْضًا بِبَعْضٍ اُرْسَابًا  
مَنْ دُونَ اللّٰه سُو كلمہ گو یسوی کہ آس كزوندہ كانسہ ہنز عبادت اللہ تعالیٰ اس وراى۔ یہ ٹھروونہ  
تس كانسہ چیزہ شریك منہ چیزس اندر۔ یہ رشن نہ اسمہ آندره اُو اُوین روب تہ معبود۔ معبود بر حقس  
ورای۔ عیسای آس پوپ یائئن مشائخ تہ مولوین اسمہ طریقہ مانان کہ ہر گاہ تم سراسر منہ چیزس اندر  
عقلہ خلاف یا نقلس خلاف كانسہ كتھاہ كره ہن۔ سو آس تم بے چون وچر امانان تہ تسلیم كران۔ چنانچہ از تہ  
چھہ عیسای فی كران۔ امہ قسمگ مذہبی تقلید چھو یقیناً حرام۔ کیا زہ یہ مرتبہ یعنی كانسہ ہنز كتھہ بے چون  
وچر امان چھونہ خدا پس وراى یہ كانسہ ا كسند۔ پیغمبرہ سندن مرتبہ تہ چھو یہ مگر تل یدلہ خدا یہ سندن طرفہ  
تھہ متعلق ارشاد آیس۔ الغرض بے چون وچر اچھو صرف خدا یہ سندا پیغمبر خدا یہ سندن حکم ماننہ یوان۔  
تہن پتہ چھونہ كانسہ ا كسند قول قابل تسلیم تہ قابل قبول۔ مگر سُو یس نقل اسمہ آمت كرنہ از خدا  
ور سول۔ اسلامس اندر یس تقلید ائمہ مذہب چھو۔ سو چھو اوی قسمگ۔ لہذا اسمہ طریقہ ارباب مذہبن  
ہند قول مانن گو فی الحقیقت خدا ور سولہ سندی قول مانن۔ البتہ ہر گاہ تہوند كانسہ قولہ قرآن وحدیثہ كس  
صریح نقلس خلاف اسمہ سو چھونہ ہرگز قابل تسلیم و عمل تھہ متعلق چھو پانہ ارباب مذہابو باتفاق  
فر موونت کہ سون كانسہ قولہ ہر گاہ قرآن وحدیثس خلاف اسمہ سو دیولہ بہ ہمر تھہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا لیس  
ہر گاہ تم اسمہ توحیدہ ہشہ ہشہ ہجرن فَقُولُوا اشْهَدُوا پس دیو كھہ تہ اے اہل کتابو گواہ رُو زو۔ يَا كَا  
مُسْلِمُونَ تھہ كتھہ پیٹھہ کہ آس چھہ مسلمان موحد يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اے اہل کتابو ہنہ  
کیازہ چھوہ قضیہ لاگان، تنازعہ كران۔ حضرت ابراہیمہ سندس حقس اندر۔ ونان چھوہ تم آس بہودیا  
نصاریٰ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ﴿۶۴﴾ حالانکہ نازل آونہ كرنہ تورایت تہ انجیل۔

تَحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

مگر تمہیں پتہ دار یا ہمہ گاہ۔ یہودیت سے نصرانیت زلیہ تواریت و انجیل نازل سپد نہ پتہ۔ تواریت آواز نازل کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ اس کے سلسلہ ہے۔ انجیل آواز نازل کرنے حضرت موسیٰ اس پتہ دویہ سلسلہ ہے۔ اَفَلَا تَعْلَمُونَ کونہ چھوہ عقل کران۔ بُرُوْثُھِمۡ زَمَانُکَ شَخْصٌ کَھۡہ پانٹھ ہنہ ہیر و ہتمہ کتابہ ہند۔ هَاۤءِنتُمْ هٰذَا حَاجِبُكُمْ واره ہڈوای لو کو اختلاف چھوہ تہہ کران فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تہہ منزج تہہ کبیہ ہاہ خبر چھوہ یعنی حضرت عیسیٰ اس متعلق۔ اُوْجُھوس دپان خدا تہہ اُوْجُھوس دپان خدایہ سُنْدُچُو۔ تہہ دس معاملس منز چھوہ نہ تہہ کئی تہہ قِلْمٌ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پس کیا زہ چھوہ اختلاف کران تمہن معاملن اندر یمن ہنز نہ تہہ کینہہ خبر تہہ علم چھوہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اکی چھوہ زانان حضرت ابراہیم گوہ صاحب اوس تہہ چھوہ نہ زانان مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اوس نہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تہہ نہ نصرانی وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ اوس سوساروی ایزودینو نے بیزار۔ پوزدین اختیار کردہن تابعدار تہہ فرمانبردار متحد کامل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سوس مشر گوآندہ۔ ہم دعویٰ چھہ کران اس چھہ تہہ دس ملتس پیٹھ۔ حالہ ہمہ ہم چھہ پائے کانہہ چیزاہ بناوان۔ کئیو۔ پتو یا بیہ کئی چیزک۔ تہہ چھہ نمان۔ تہہ نٹھہ چھہ برکت ژھانڈان۔ تس چھہ حاجت منگان۔ ای چھا کورمٹ حضرت ابراہیم نعوذ باللہ۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ پزپانٹھ زیادہ نزدیکی چھہ لو کوآندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تہہ ہمو ہنز متابعت تہہ پیروی کتر تہہ دس و قس اندر وَهَذَا السَّبِيحُ بیہ چھوہ تمہن نزدیک یہ بوڈ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا

النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۸﴾  
 وَذَاتُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِ يُضِلُّوكُمْ  
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۶۹﴾ يَا أَهْلَ  
 الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۷۰﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي

بہ چھ تین نزدیک بالیمان۔ اُمّی تمس پیغمبر برحقہ سند یعنی پڑھو وُن اس چھہ بردین ابراہیمی نہ کہ  
 توہہ یا مثر کن وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو دوست بالیمان ہند تہزہ کامہ  
 سنبھالان وَذَاتُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یژھوویہوڈوآندرہ اک جماعتن لویضلو نکم تم  
 کرہ ہن توہہ دین حقہ نشہ گمراہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فی الحقیقت چھہ تم توہہ گمراہ کرن  
 یژھان بلکہ چھہ تم امہ سیت پنہ نین پانن گمراہ کران وَمَا يَشْعُرُونَ مگر تمیک چھہ نہ بیان  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ خدایہ سندین  
 آیاتن، قرآن مجیدس انکار کران۔ حالانکہ توہہ چھوہ پنہ جایہ اتھہ اقرار کران يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ  
 تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ای اہل کتابو کیا زہ چھوہ ہز اہزس سیت ملہ  
 نوانن بہہ کیا زہ چھوہ ہز کھٹان یعنی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ توہہ چھوہ زانانن بہہ چھو  
 بیشک پیغمبر آخر الزمان وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ  
 وَالْكَفْرَ وَالْخُرُءَ بہہ وون یہوڈوآندرہ اک جماعتن بین یہوڈوین مسلمان گمراہ کرنچ اکھ صورت چھہ بہہ تہ  
 کہ ظاہر پاتھہ اینوا ایمان اتھہ یہ نازل آو کر نہ مسلمانن پیٹھہ یعنی قرآن مجیدس صمسن توپتہ کمر وتھہ انکار  
 شامس لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیٹھہ تم بالیمان ای سیت اسلامہ نشہ پھیرن تہ رجوع کرن۔ شکھہ پچھہ تہ  
 حوصلہ سد پچھہ ہست۔ وَلَا تَتُومُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بہہ مہ آبرو ڈھہ واجہ تصدیق کران مکنہ دینس

أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ هَدَى  
هُدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتَيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤٣﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ

مگر تمہنی سیم پیرو آسن تہندس دینس یعنی یہودی تیس۔ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُدَى اللَّهُ تہہ فرماؤ یو کھ تہمز و  
چالا کیو سیت ہیجہ نہ کبہنہ بنت۔ کیا زہ پز پاتھہ ہدایت لیس لوگن بنان چھو سو ہدایت چھو خدایہ سُنَد  
ہدایت۔ سو ی چھو اصل ہدایت۔ سو چھو خدایہ سُنَد سی اتھس اندر۔ تمیک اختیار ہول چھو سو ی۔ کس  
سو ہدایت کرہ کس ہیجہ نہ ڈالٹھہ کانہہ کٹھہ طریقہ۔ لیس نہ سو ہدایت کرہ کس ہیجہ نہ کانہہ ہدایت کرہ  
أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتَيْتُمْ ہیہ ڈوپ یہو ڈواندرہ اک جماعت۔ تصدق مہ آسو کران تھہ تھہ کہ  
کانہہ کیا ہیہ عطا کر نہ تہیہ توبہ بنی اسرائیل عطا کر نہ آؤ۔ سو گو نبوت، کتاب۔ حکمت۔ اَوْ يُحَاجُّكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ تھہ تھہ تہ مہ آسو تصدق کران کہ مسلمان کیا ہ کرن توبہ مقابلہ خدایس تہندس نشہ۔  
کیا زہ تہند دین چھو مضبوط تہمز۔ دلیل چھہ قوی۔ یہ آس یہو دونان پانہ وان اتھہ اکس۔ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ  
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ تہہ فرماؤ یو کھ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پز پات فضل و کرم چھو  
خدایہ سُنَد س اتھس اندر۔ لیس خوش کر لیس کس کرہ عطا۔ ہر گاہ کبہنہ کالاہ نبوت و ہدایت تم عطا کر بنی  
اسرائیل واندرہ بعضی صاحبین و ن یو تھہ تم نبوت و ہدایت عطا کر بنی اسماعیل واندرہ اکس مخصوص  
صاحبس تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سنز رحمت چھہ وسیع۔ سو چھو سیٹھہ زانہ وان  
تمس چھہ خبر گوہ چھو قابل تہ سزوار اتھہ رحمتس يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لیس نہ حقہ سو یژھہ لیس  
کرہ مخصوص رحمتہ سیت۔ نبوتہ سیت کتابہ سیت تہ حکمتہ سیت تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

يَقْتَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا  
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ  
هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

اللہ تعالیٰ چھو بو، فضلہ وول و من اهل الکذب من ان تا امنه يقنطار يؤدده اليك بيه چھ بعضے اہل کتاب  
آندرہ تمہ قسمک لوکھ ہر گاہ تم بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھہ اوقہ سو تک امانت پبہ تھاونہ سودی  
واپس ثیہ یلہ ژہ مگھس مثل عبد اللہ بن سلام و منھم من ان تا امنه بيدينار لا يؤدده اليك سمو  
یہود و اندرہ چھہ بعضی تم ہر گاہ تم زہ اکھہ دینار یعنی اکھہ موہر امانتھہ تھواکھہ سودی نہ واپس سو اکھہ  
دینار نہ۔ الاما دمت عليه قائما یو تان و ودنی روزکھہ ژہ تمس مطالبہ نہ و گرای کران ذلک یا کھھ  
قالوا لیس علینا فی الامین سبیل یہ خیانت کرہ تک وجہ چھو تم چھہ دپان اسہ چھونہ ناخواندن،  
نا تعلیم یافتن غیر اہل کتاب بن ہند مال کھینس اندر کا نہہ قصور اہ نہ گنہاہ۔ بیه اسی تم و نان کہہ تورا تمس اندر  
چھو اسہ سائہ دیکھن مخالفن ہمدس ماس اندر خیانت کرن جائیز۔ اللہ تعالیٰ چھو کھہ اندر د فرماوان  
ويقولون على الله الكذب نور او ان چھہ تم بیه کھہ و نہہ سیت اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز و هم یعلمون  
زانتھہ کتر تھہ۔ یمن چھو معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان چھونہ کتر جا یہ امیک اجازت دیو تھت۔ امانس اندر  
خیانت کرن چھو پر ہتھہ کانہہ ہمدہ حقہ مموع۔ پر ہتھہ دینس نہ مذہبس منز نا جائز کبلی بہنزیہ کھہ چھنہ  
ہرگز صحیح بلکہ خیانت کرن چھو سخت گناہ۔ خیانت کرونس پیٹھہ چھو ضرور سخت الزام۔ کیا زہ تھہ  
متعلق چھہ سان زہ قانون۔ اکھہ گو من اوفی بعهدہ تیم اکب و فاکور پنہ نس عمدس بس تم خدا بس  
سیت کورمت آسہ یا جائز عمدہہ کانہہ مخلوقس سیت کورمت آسہ واتقی بیه کھو ژہ اللہ تعالیٰ اس کہہ  
کانہہ ہند مال زانہ نہ حلال بلا وجہ فان الله يحب المتقين بس بیشک اللہ تعالیٰ چھو دوست تھوان،

قَبِيلاً أُولَئِكَ لَإِخْلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا  
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۰﴾  
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمْ بِالْكُتُبِ لِتَحْسَبُوهُ  
مِنَ الْكُتُبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتُبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

پسند کران پر ہیزگارن۔ دو قسم قانون گوران الذین یشترؤن بعہد اللہ وایمانہم شمتاً قبیلاً پڑپاٹ  
سہم لو کہ کنان تہ بدلاوان چہہ خدایہ سندس عمدس بس امانس متعلق چھو توراتس منز بیان کرنہ آمت۔  
یائس عمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھو پنہ نیوازیو قسموسیت کم مؤلس حاصل چہہ کران  
تم قہمتہا تہ مولاہ سیٹھاہ کم۔ یعنی وشتمہ ہند اکھ ترکھہ یا کپک بہنہ گز۔ تم تم کعب بن اشرف  
یہودیس نشہ بنان آس نعت پیغمبر آخر الزمانس تحریف کرنس پیٹھہ اولئک لایخلاق لہم فی الآخرة  
سہم عمد شکن تہ اپزیا رہز قسم باہ وون سہم چہہ بہندہ خیطرہ چھونہ آخرتس اندر کانہ حصہ ثوابک۔  
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ کرہ نہ تمکن سیت اللہ تعالیٰ تھہ تہ۔ بیہ ویہ نہ تمکن  
نظر تہ قیامتک دوہ۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ کرہ تہزن کائین ہنز کانہ تعریف نہ گہہ تم گہو نشہ پاک  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بلکہ آسہ تہندی خیطرہ ہڈر عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّنْتَهُمْ بِالْكُتُبِ  
سہمویہودواندرہ چہہ اکھ جماعتہا سہم زیوہ شتہہ تہ ہج کر تھہ توراتج عبارت پران چہہ۔ ہتھہ جلیہ نبی کریم  
ﷺ سندین تعریفن تہ نعتن تحریف تہ تغیر چھو آسان آمت کرنہ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ الْكُتُبِ ہتھہ توہہ  
گمان گہہہ بیہ تہ چھہ تور لکتی عبارت وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتُبِ حالانکہ فی الواقع چھہ نہ سہو توراتج عبارت  
کینہ تہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ونان چہہ سہم کہ بیہ عبارت تہ چھہ خدایہ سندس طرفہ  
وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ سہو عبارت چھہ ہرگز خدایہ سندہ طرفہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ  
هُم يَعْلَمُونَ نوراوان چہہ سہم خدائس پیٹھہ اپز۔ حالانکہ سہم چہہ زانان اس چہہ اپز ونان مگر زانہ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  
 وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  
 وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۷۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا  
 الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ  
 أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

کر تھے چھہ ایز و دان۔ تھے پائلہ چھہ نصاریٰ تہ ایز نور او ان خدا ایس پٹھے۔ تم چھہ دیان حضرت عیسیٰ ان  
 چھو کورمت خدا آسک دعویٰ لوکن دیت نادمو پنے نس عبادتس کن تھے چھو ذکر ان اللہ تعالیٰ  
 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کانہ بشر نس چھہ نہ تھے ممکن کہ اللہ  
 تعالیٰ ان کیا آسہ تس عطا کر مر سون کتاب یتھ اندر توحیدک حکم تہ شرح ممانعت آسہ۔ بیہ آسٹس عطا  
 کر مر عقل تہ فہم۔ بیہ آسٹس عطا کورمت نبوت تھے یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ تو  
 پتہ کیا ونہ سولوکن تہہ بنو میان بندہ خدا ایس و رای یعنی میان کرو عبادت۔ ولکن کونوا ربینہ بلکہ  
 چھہ تہنز کوم لوکن و ن۔ بنو تہہ اے لوکو خدایہ سد بندہ۔ پن خاص تعلقات تھاوہ ون تس سیت۔  
 عبادت کرو تہنزی یا اثر۔ کیا زہ سو کھو تہر گاہ بولوکن پنے نس عبادتس تہ پر ستشہ کن نادمہ۔ اللہ تعالیٰ ان  
 یوسہ مہربانیاہ چھم عطا کر مر سونیم و اہل بیہ گوہیم بیزار بہا کنتم تعلمون الکتاب وبہا کنتم  
 تدرسون امی و چھہ کہ تہہ چھو ک پنچھنا وان لوک سون کتاب یتھ منز توحید کی سبق چھہ۔ امی و چھہ  
 کہ تہہ چھوہ سون کتاب پانہ ہران ولا یأمرکم ان تتخذوا والملیکة والنبيين اربابا بیہ بیہ نہ  
 سو بشر امر کر تھہ کہ تہہ بناو کھہ ملا یک تہ پنمبر معبود پن خدا ایس و رای ایأمرکم بالکفر بعد اذ  
 انتم مسلمون کیا بیہ چھا ممکن کہ سو بشر کیاہ کرہ توہہ گھرک تجویز، تہہ مسلمان بنہ پتہ واذ اخذ  
 اللہ ميثاق النبیین سو وقت پاو ورتس یلہ اللہ تعالیٰ ان عہد کرناوساری پنمبر لہا اتیتکم من



اتَّبِعْتُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ  
لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  
عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ط قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ  
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَٰئِ اسْلَمَ مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

کتاب و حکمت البتہ کثیرا ہا می توہم عطا کور کتابتہ حجتہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ توستے والیہ  
توہم نش پیغمبرہ عظیم الشان مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ سُو آسہ تصدیق کرہون تہزن سارنی بنیادی تہن  
سمہ توہم سیت چہہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تہہ کرزہ تمس پیغمبرس ضرور پڑہہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بیہ کرزہ  
تہندس دینس ضرور مدد قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ آن فرموؤکھ اے پیغمبر و وارہ کرداتھ پڑھہ اقرار  
وَأَخَذْتُمْ عَلٰی ذَلِكُمْ إِصْرِي اتھ پڑھہ کرہہ میون عمدتہ حکم قبول ہتھہ عمدس تہہ و فاکردو قَالُوا  
أَقْرَرْنَا ساروی پیغمبر و وپ اسمہ کور اقرار قَالَ فَاشْهَدُوا اللہ تعالیٰ آن فرموؤکھ پس روز و اڈا دین  
گواہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ بؤتہ چھوس توہی سیت گواہ اندرہ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لیس سیمو منزہ روگردانی کرہ امہ معاہدہ پتہ تے چہہ کافر تہ نافرمان۔  
أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا تم عمد شکیں چھا خدلیہ سندہ دینہ و رای بیاکھہ دیناہ ژھانڈان و لَٰئِ اسْلَمَ  
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانچہ لیس اکھاہ آسمانس تہ زمینس اندر چھو تموساروی چہہ گردن دار  
متر خدلیہ سندس خمس طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سیت یا لاچار سیت و إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ پتولا کہ چھو تس  
گن سارنی رجوع کرن۔ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا فرماویو کھہ تہہ یارسول اللہ ﷺ آسہ کر پڑہہ

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ  
 اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ  
 عِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ  
 لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  
 وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۴﴾ كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا  
 كَفَرُوْا وَاَبْعَدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ  
 الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۷﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ

کنس خدائیس بیه تہمتہ یہ آسہ کن نازل آو کر نہ وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ  
 وَالْاَسْبَاطِ بیه تہمتہ یہ نازل آو کر نہ حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت  
 یعقوبؑ بس بیه تہمتہ دین اولاد کن پٹھہ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ بیه تہمتہ یہ عطا کر نہ آو  
 حضرت موسیٰؑ اس، حضرت عیسیٰؑ اس، بیه سارنی پیغمبرن پنہ نس پروردگارہ سندہ طرفہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ  
 اَحَدٍ مِنْهُمْ کانہ فرق چھنہ اس کران سمواندرہ کانہ اس اندر وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ اس چھہ خدایہ  
 سندی فرمانبردار تم کوراسہ یہ دین عطا۔ آسہ گر قبول تہ اختیار یو ہے دین وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا  
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وون نیس اکھاہ ژھانڈاہ اسلامہ وراى بیاکھہ دیناہ۔ آدہ سو دین نیس نہ ہرگز قبول تہ منظور  
 کر نہ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بیه آسہ سو آخرتس اندر تاوان زدواندرہ تم نہ نجات ہمکن  
 لب ت۔ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا وَاَبْعَدَ اِيْمَانِهِمْ اللّٰهُ تعالیٰ تھہ پاتھہ ہاوہ و تھہ تم کن سو کفر تہ  
 انکار کوراکہ پھرہ ایمان انتھہ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ بیه سمواکہ پھرہ گوای دژیہ پیغمبر چھو پزبور  
 وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ بیه واژہ تم نشہ نہہ دلیلہ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بیه کتہ لہ اللہ تعالیٰ

اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝۷۱  
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝۷۲  
 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ  
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۷۳ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ  
 اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰلُوْنَ ۝۷۴  
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مِّلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ ۝۷۵

سیزہ و تیرہ پیٹھ سے من ظالم سمو ایمانیہ جالیہ کفر تھوو اولیک جزاؤم اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ  
 وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ سمی لوکن ہند سزا جھو یمن پیٹھ لعنت خدایہ سز بیہ ملائکن ہنزیہ سارنی لوکن  
 ہنز خلدیبن فیہا تنہ لعنتس منز روزن گرفتار ہمیشہ یا لعنتس اثرس منز۔ سو گو عذاب جنم تنہ منز  
 روزن ہمیشہ لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ لوژراونہ تہ کم بیہ نہ کرنہ تمن نشہ سو عذاب نہ  
 بیہ تمن مہلت دنہ یعنی جہنم قید خانہ منزہ یمن کنہ وقتہ بھر کڈنہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ  
 وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ مگر سمو توبہ کورامہ پتہ بیہ سنبھالکھ دل پنن بیہ عملہ پننہ پس  
 تہدہ خیطرہ جھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون، رحم کرہ ون اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ پزپاٹ  
 سمو کفر کورایمان انہ پتہ ثُمَّ اَزْدَادُوْا كُفْرًا تو پتہ کرکھ زیادتی کفرس اندر لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الصّٰلُوْنَ یہ ہند توبہ بیہ نہ ہرگز قبول کرنہ پس توبہ تم بین گنہن ہندہ خیطرہ گرن۔ بیہ چھ تے گراہ  
 تہ ذلت اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ پزپاٹھہ سمو کفر کور تہ مؤد کفر سی پیٹھہ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مِّلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا پس ہرگز بیہ نہ تمن نشہ قبول کرنہ ثبوت سنون سمہ سبت سو ری  
 زمین ہر آسہ لو اوفتادی بہ ہر گاہ سو ثبوت سنون عذابس بدلہ دیہ ہرگز پس نہ قبول کرنہ۔

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۙ  
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ۙ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي  
إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ممکن تھیں لو کہ ہندہ خیرے چھوڑ کر عذاب ۙ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۙ  
ہیہ آسنہ تمن کا نہہ بدگارہ۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۙ ای مسلمانو ہر گز یہ کہو نہ کامل  
نیکی یعنی بڑے ثواب حاصل کر تھہ یوتان نہ خرچ آسو کہ ان تمہ مالہ منزہ ئس توہہ ٹوٹھ آسہ آدہ سو کم  
آسنہ یا زیادہ ۙ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ہیہ یہ تہہ خرچ کر دکنہ چیزہ اندرہ۔ ئس اللہ  
تعالیٰ چھوٹہ پور زانان۔ تھہ پٹھہ کرہ وہ ثواب عطا مگر ثواب عظیم گو تھہدہ خیرہ تمہ چیزہ منزہ خرچ  
کرن ئس ٹوٹھ آسہ ۙ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۙ ساری کھینک چیز آس حلال بنی اسرائیل ہندہ خیرہ تورات نازل سپد نہ  
برونٹھ۔ تمو چیز وورای سم حضرت یغون پانس پٹھہ حرام آس کرمت بطریق نذر۔ تمو اوس نذر  
تھوومت کہ ہر گاہ عرق النساء ک تکلیف مہ دور گڑھہ تلہ تراوہ بڑوونہ مازہ توونہ دود کھيون۔ امہ سبہ  
آس نہ تم سم زہ چیز استعمال کران۔ تھہدس شر یعتس منزہ آسالمہ طریقہ نذر تھاون جائیز۔ یعنی کانہہ  
چیز پانے پانس پٹھہ حرام کرن یا کانہہ حلال چیزہ ترک کرن ئس خدا ئن حلال کورمت آسہ۔ تہ چھو  
اسلامس منزہ ناجائز۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم ۙ لَوْ شِئْنَا مَا آخَلَ اللَّهُ لَكَ  
تہہ کیازہ چھوہ پانس پٹھہ سو چیز حرام کران ئس خدا ئن تھہدہ خیرہ حلال کورمت چھو قُلْ فَأْتُوا  
بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۙ فرما یوکھ تہہ یار سول اللہ ای یہود تو تھہ چھوہ تورا تک  
حوالہ دوان۔ ئس کرو پیش تورات تہ سوی پرو۔ ہا و وکتہ ئس چھو تورا تس اندر لیکتہ۔ ہر گاہ تہہ

صَدِيقَيْنِ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ  
 إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اعتراض کرئس اندر پزیرا چھوہ سو اعتراض اوس تہوندیو ہے کہ توہمہ مسلماننے چھوہ دپان اس چھوہ برملت ابراہیمی تلہ کیاہ چھوہ تم چیز کھیوان ہم چیز حضرت ابراہیمس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان آس حرام کرمت۔ تنہ اعتراض کوزکھ اللہ تعالیٰ ان رد۔ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس پس اکھاہ اپزنو رواہ معبود برحقس پیٹھ امہ پتہ تہ۔ پس تے چھوہ ظالم بے انصاف قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فرما دیو کھ پوز فرمود اللہ تعالیٰ ان حضرت ابراہیمس متعلق یہ خبر۔ ولو اتھہ پزہ تھہ پیٹھہ کرو فیصلہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پس ہر گاہ توہمہ تہندہ متابعک د عوی چھوہ۔ تیلہ کتر و تہنز متابعت۔ تم آس ساروی دینو نشہ بیزار۔ ثابت آس بردین اسلام۔ یہ آس نہ تم مشرگو اندرہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا پزپاٹھ عبادتک گوڈکوی سوگرہ پس تعمیر آو کر نہ لوکن ہندہ عبادتہ خیطرہ، سوگو سوئی گرہ پس مکہ شریفس منز چھوہ۔ پس سیٹھاہ بارکت چھوہ۔ سمہ آیہ کریمہ سیت چھوہ اللہ تعالیٰ رد کران یسوزن ہندس ہمیس اعتراض سوگو یو ہے کہ تم آس دپان ہر گاہ تہہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس پیروی چھوہ کران۔ تلہ اوس حضرت ابراہیمس عراقتہ پیٹھہ ہجرت کر تھہ شامس منز پن وطن بنوومت۔ تہند قبلہ اوس بیت المقدس۔ تہہ تھہ پاٹھہ چھوہ د عوی کران تمن سیت قرطب تہ نزدیکی ہند۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود کھ ساروی مقامات مقدسں بروٹھہ چھوہ گوڈکوی مقدس تہ مخرم گرہ کعبہ شریف پس محہ معظمس اندر چھوہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ یہ چھوہ کعبہ شریف یوڈ ہدایت عالمین ہندہ خیطرہ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ اتھ خانہ کعبس منز چھوہ خدایہ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا

سندہ قدر تک بن نشانہ۔ تمواندرہ گواکھ مقام ابراہیم۔ سنوکن پتھہ پتھہ ایستادہ روزتھہ حضرت ابراہیم  
 خانہ کعبہ بنا کر ان آس۔ تھہ کنہ منزے چھہ ژور نشانہ۔ تھہ منز چھہ حضرت ابراہیمہ سند پائے مبارک  
 سنے متی (۲) تے پائے مبارک چھہ سنے متی ژنہ نین تان (۳) تے نشانہ چھہ تھہ کنہ پتھہ یوت کال  
 گڑھتھہ تہ وہہ موجود (۴) بیہ چھہ سنوکن ازتان موجود۔ باوجود آنکہ کعبہ شریف چھہ دشمنواریاہ  
 پھرہ بے خرمی کر مژ۔ لوہر مت تہ مہدم کور مت۔ مکز تھہ کنہ چھونہ کانہہ تغیراہ سپدمت و من  
 دَخَلَهُ كَانَ أُمَّتًا بِيَسْ أَسْ كَافًا هَجْرًا أَمِينًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ  
 بیہ چھو خدایہ سندی خیطرہ لوگن پتھہ مہ امہ گرج زیارت کرنہ خیطرہ بقصد سفر کرن۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
 سَبِيلًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِمَّا رَزَقَهُ لُحْمًا ذَرْبًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وون یس اکھاہ حج مہ آستھہ حج کرہ نہ۔ منہ کرتن۔ تمیک نقصان چھو تاس پاس۔  
 اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز ساروی مخلوقا تو نغیر۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فرما وویار سول  
 اللہ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ انکار کران خدایہ سندین آیاتن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ حال لکھہ اللہ  
 تعالیٰ چھو وہ چھان تہ یہ تہہ کران چھوہ۔ سو دیہ وہ ضرور امیک سزا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ فرما ووتہہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیا زہ چھو کھہ چھہ رٹان خدایہ  
 سزہ وہ تہ نشہ دین اسلامہ نشہ۔ مَنْ آمَنَ تم لو کھہ سموا ایمان اون تہ پوز دین قبول کور تَبْغُونَهَا عِوَجًا  
 ژھانڈان چھوہ تہہ اچھہ دینس اندر نقصان تہ خرابی وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ حال لکھہ توبہہ چھوہ معلوم بیہ چھو

مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾  
 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ  
 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
 مُّسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

دین حق و ما اللہ بے غافل عتبات عملون اللہ تعالیٰ چھونے بے خبر ہنر و کامیونہ۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ای با ایمانو ہر گاہ جہہ کا نہہ کتھاہ مانوکتہ جماعت اہل کتابو اندرہ  
 یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ تم و اتنا توہ توہہ ہنہدہ ایمان انہ پتہ بیہ گرس گن وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ  
 وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ جہہ کتھہ پاٹھہ بیجو بیہ گرس گن پھیرت توہہ پٹھہ ہے پھہ  
 خدایہ سند آیات پر نہ یوان۔ کیے توہہ منز چھو موجود تسند پیغمبر وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ  
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کس اکھاہ زورہ کرہ تھپ کسی خدایس کس تھقیق تس آیہ و تھہ ہاونہ سیزہ و تہ گن  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اے با ایمانو کھو ژو اللہ تعالیٰ اس بیٹھہ تس کھو ژن شوہ۔ تس  
 کھو ژن گو کہ ہتھہ پاٹھہ جہہ گف و شر کہ نہہ پٹھہ روزوتھہ پاٹھہ روزو ساروی گنہونہہ تہ پٹھہ وَلَا تَمُوتُنَّ  
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ بیہ مہ منر و مگر اسلامس پیٹھہ جان دیو اسلامس پیٹھہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
 جَمِيعًا بیہ کمر و زورہ تھپ اللہ تعالیٰ سزہ مخم رزہ ساری سمٹھہ تہ مٹھن روزتھہ۔ حکمہ رزہ تھپ  
 کرن گو ساری اسلامین حکم اصولن تہ فروغن پیٹھہ پور عمل کرن وَلَا تَفَرَّقُوا اَللّٰهُمَّ سِدِّدِ  
 نَا لِفَاتِقَاتِنَا مَہ کرو مسلمان آتھہ ہمازہ اسلامس اندر پھہ اچ سخت ممانعت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 ژ کس پاو سو نعمت خدایہ سز یوسہ خاص توہہ عطا کرنوہ اے قبیلہ اوس و خورج کیو مسلمانو اِذْ كُنْتُمْ  
 اَعْدَاءً یلہ جہہ آہوہ اسلامہ بروٹھہ آتھہ اسند سخت دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

پس تروا اللہ تعالیٰ ان اُلفت جہندین و لن اندر چنانچہ تہم سپدوہ تہمزہ ہر بانی سیت پانہ وان بای بای۔  
 پیاکھہ ہر بانی گیبہ تہمدہ حقہ بیہ کہہ و کُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ بیہ آسوہ تہمہ اکہ تارہ کھوڈوہ کس  
 بیٹھس پیٹھہ واتمت۔ تیار آسوہ تہمہ منز کیاہ پیہ ہو تہمہ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ تعالیٰ ان بچا و وہ تہمہ منز  
 پینہ نشہ ایماکہ برکت۔ لہذا کریوہ توبہہ یکن خدایہ سنزن ہر بانی ہنز قدر۔ پانہ وان مہ کمر و ہر ہر تہ لایہ  
 لای۔ امہ سیت سپد نوہ سمہ ہر بانیہ ضالچ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُم آیٰتِہ تہمہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ ان بیہ  
 حکم واضح تہ ن پاتھہ بیان فر مویتھہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ پن احکام تہ ہدایت چہ دلیلہ صاف صاف  
 بوضاحت بیان کران۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تہمہ توبہہ تہمہ پیہ راہ راستس گن تہ تہمہ و تہ پیٹھہ روز و تہمہ  
 ثابت تہ حکم و لَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ یَدْعُوْنَ اِلَى الْخَیْرِ بیہ چھو لازم توبہہ اندرہ آسن کھہ جماعتہاہ تم  
 ناد آسن و وان لوکن خیرس گن یعنی دین اسلامس گن یا خیرہ چن کا میں گن۔ پانہ وان متحد و متفق روز نس  
 گن و یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ بیہ تم امر آسن کران رثن کا میں ہند۔ منع آسن کران  
 تھہ کامیو نشہ۔ معروف گیبہ تمہ کامہ بیہ موافق آسن قرآن و حدیثس۔ مُنْکَرِ گیبہ تمہ کامہ سمہ مخالف  
 آسن بتاب و سٹس و اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رثن کا میں ہند امر کرہ ون تہ تھہ کا میں ہند منع کرہ ون  
 جماعتھی چھہ آخرتس منز ثواب حاصل کرئس اندر کامیاب تہ رستگار و لَا تَكُونُوا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوا  
 وَاخْتَلَفُوا بیہ مہ آسو تہمہ اے مسلمانو تم لوکن بہمہ سمو مفرق تہ الگ الگ سپدت و نیس اندر پانہ وان  
 اختلاف کور من بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ صاف صاف تہ واضح احکام تم نشہ واتنہ پتہ و اُولَٰئِكَ لَهُمْ



عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵۶﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا  
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا  
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۵۷﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ  
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵۸﴾ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ  
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵۹﴾  
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

عَذَابٌ عَظِيمٌ تہندی خیطرہ چھو بہیہ یوڈ عذاب یوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ تھی دوہہ سیمہ  
دوہہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سفید تہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کس یکن ہند  
بٹھہ سیاہ سپدن تمن پیہ ونہ اَکْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کیاہ انکار کوروہ  
توہہ اقرار کرنہ پتہ۔ کس تہو مزہ جہنمکہ عذابک۔ کیاہ تہو ہے ایمان ائنہ پتہ کفر چہ کامہ آہوہ کران  
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وون تمن ہند بٹھہ روشن تہ سفید آسن۔ تم آسن خدایہ  
سندس رحمتس اندر یعنی رحمتہ جایہ اندر۔ سوگوجنت۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم روزن تھہ جنتس اندر  
ہیشہ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ بیان آؤ کرنہ تم چھہ خدایہ سند آیات تہ فیصلہ  
جات۔ تم آس توہہ پیٹھہ صحیح طور پر ان چھہ یار رسول اللہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ  
چھونہ ہرگز مخلوقن پیٹھہ ظلم یشھان کرن۔ وون یہ کینہ ہاہ کانہ ہندہ خیطرہ جزاء و سزا ایمان آؤ کرنہ تہ  
چھو بہ بالکل مناسب تہ موزون تہندہ کامہ موجب وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سُدی  
چھو تہ سوزی یہ آسان تہ زمینس اندر چھو تھہ کُن نظر کمر تھہ پڑہ ہاسارنی پنہ نس مالکہ سز فرما ہر داری  
کرن۔ سیمو فرما ہر داری کر تم چھہ ثواب و اجرس مستحق۔ سیمو فرمائی کر تم چھہ عذاب و سزا اس  
مستحق وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خدایہ سی کُن یکن و اتا و نہ ساری معاملات تہ ساری مقدمات۔  
فیصلہ چھو تس کرن۔ تس و رای بیکھ اختیارہ و ولہ آسہ نہ کانہہ تہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

الْأُمُورِ ۱۰۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
الْفَاسِقُونَ ۱۱۰ لَنْ يُضْرَبَكُمْ إِلَّا أَدْمَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ  
الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۱۱۱ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا  
تُفْقَوْا إِلَّا الْحَبْلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبَعْضٌ

اے مسلمانو آبیو ہتھ اُمتو آندره ہمت امتاہ در علم ازلی۔ کڈنہ آمر لو کن ہندہ فاسیدہ خیطرہ۔ تہندہ ہمت  
آسک وجہ چھو کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تہہ چھوہ لو کن رٹن کا مین ہند امر  
کران۔ تہ چھہ کامیونہ منع کران۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیہ چھوہ پانہ کنس خدا کس پڑھہ کرئس پیٹھہ  
ڈاڈ کران۔ خدا چھون ہمیشہ مُزہ تہ پاک زانان شریک آسنہ نہ۔ تس ایمان آنتھ تہ پڑھہ کتر تھہ۔ تمکن  
تمکن پڑھہ کرن لازم چھہ تمکن سارنی چیزن چھوہ پڑھہ کران وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
ہر گہے بیہو و نصاریٰ تہ ایمان آنہ ہن، خدا کس کٹوی زانہ ہن، پیغمبر برحقس پڑھہ کرہ ہن۔ تہ اوس تہندہ  
خیطرہ سبھاہ ہمت۔ تلہ سپد ہن تم خیر الامم آسلس منز توہہ سیت شامل۔ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تمواندہ چھہ بعضی ایمان آندون۔ اکثر چھہ فاسق تہ کافر۔ بلکہ چھہ تم مسلمان  
دینی و دنیوی ضرورتاؤنہ خیطرہ سخت کوشش کران مگر لَنْ يُضْرَبَكُمْ إِلَّا أَدْمَىٰ ہرگز تمکن نہ تم توہہ  
ضرورتاؤنہ تھہ۔ مگر زیہ سیت و ن چھہ تھہ تمی سیت شہلاؤن دل پنن وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ ہر گاہ تم  
توہہ سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ نیرن يُؤَلُّوكمُ الْأَدْبَارَ تمکن نہ مقابلہ کرتھہ بلکہ ڈلن توہہ کُن تھر  
پھر تھہ شکست کھیوان ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ توپتہ ایچھہ نہ کُنہ طرفہ مدد کرنہ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا  
تُفْقَوْا ترانہ چھہ آمر تمکن پیٹھہ خواری تہ تم لہنہ بن تہ تہتہ إِلَّا الْحَبْلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنَ النَّاسِ  
مگرے کانہہ بچاؤک ذریعہ خدایہ سندہ طرفہ یا لوگ ہندہ طرفہ تمواندہ کرانہ حاصل آہ سوروزہ تمہ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَٰلِكَ  
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾ لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّاءَ الْيَتْلُ وَ  
 هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ

خواری نشہ محفوظ۔ خدایہ سند ذریعہ گوکہ کانہہ آسہ تمہو اندرہ خدایہ سندس عبادتس سیت مشغول۔  
 مسلمان سیت آسہ نہ مقابلہ و مقاتلہ کران لوگن ہندہ ذریعہ اندرہ چھو مطلب تم آسہ مسلمان سیت صلح تہ  
 معاہدہ کورمت۔ و بآئو بغضب من اللہ حاصل کر تھہ آسے تم بہو خدایہ سند غضب و ضربت  
 عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ یہ آسہ تراوندہ تمن پیٹھہ محتاجی تہ بد حال۔ ذلک یاتھہم کانسوا یكفرون و بآیت اللہ  
 وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ یہ سزا آھہ امی موکھہ دنہ کہ تم آس خدایہ سندین آیات تہ احکام انکار  
 کران۔ تمن ہندہ تعمیل کرنہ نشہ دانستہ ہتھہ روزان۔ یہ آس پیغمبرن یعنی تم احکام الہی و اتاودہ و نین  
 ناحق قتل کران ذلک بما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بے عملی تہ بد کرداری تہ شقاوت سہز تمن امی  
 وجہہ، کہ تمہو کرنا فرمانی، یہ آس تم حدہ ڈالان لیسوا سواً چھنہ تم ساری ہی تہ برابر کیا زہ من  
 أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّاءَ الْيَتْلُ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ اہل کتاب اندرہ چھہ  
 آھہ جماعتھہ ایم راہ راستس پیٹھہ، دین حقس پیٹھہ قائم روز تھہ چھہ۔ رات ٹیت چھہ خدایہ سند آیات  
 پران۔ یہ چھہ تم سندس حضورس اندر سر بسجود روزان یؤمنون باللہ و الیوم الآخر و یأمرون  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ پڑھہ چھہ تمن کنس خدائس یہ قیامتس  
 دوہس۔ یہ چھہ رٹن کائین ہند امر کران یہ چھہ چھہ کامیو نغہ منع کران۔ یہ چھہ تم رٹن کائین اندر  
 بروٹھہ گدھان۔ و اولیک من الصالحین یہ چھہ تم نیکو کارو اندرہ و ما یفعلوا من خیر فلن

فِي الْخَيْرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا يَفْعَلُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا  
 صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا  
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

يُكْفَرُوا ۗ بیه یوسه رثکامه سم کرن۔ سو هرگز تمن نش پوشیده امینه تھانہ۔ بلکہ پیچھے تمبوک  
 ثواب ضرور عطا کرنہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ چھو پورزان وول پر ہیز گارن إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پزپاٹ سمبو لو کو انکار کور، کُفْر سی پیٹھ  
 رُود، تمن ہیچ نہ خدایہ سیدہ عذابہ بشرہ بجاوت تہ موکلاوت کانہہ۔ تھو ند مال تہ جھند اولاد کنہ قسمہ  
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تہ لوکھ چھہ جھنمی۔ یعنی چھو تھہ منز ہمیشہ روزن۔  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مثال چھہ تجہ سم لوک خرچ کران چھہ تھہ و نیاجہ زندگی  
 آندر۔ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ تمہ و اوچ مثال تھہ منز سخت  
 سردی آسہ۔ سوئی ولتہ کنہ قومہ کس زر اٹس سمبوپان پانس ظلم کور۔ کس کور تم و اوژن سہو تھو نذر رعیت تباہ  
 تہ بُر باد تھہ پاٹھہ گزھہ تمن ہند خرچ کُرن سوڑی آخر تَس اندر ضائع تہ بیکار وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ  
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ ان کور نہ تمن پیٹھ ظلم۔ بلکہ کور تمبوپان پانس ظلم کُرنہ سیت  
 کیا زہ کافر ن ہنز کانہہ عمل چھہ کُرنہ سببہ قبولیتس سزاوار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ

لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَّوَدُّوْا مَا  
عِنْتُمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ  
كَبُرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ  
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذِ الْقَوْمُ  
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عٰلِيكُمْ إِلَّا نَمْلَ مِنَ الْغَيْظِ  
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾

دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا اے باایمانو! یہ آسیدھے بناوان پنہ جماعتہ وراى ہیہ کانہہ سر بوج، پنہ نین  
اسرارن محرم۔ تم دشمن چھنہ کانہہ کئی کران توبہہ خلاف قنہ وفساد کرس اندر وڈ واما عینتم  
کا نچھان چھہ تم پریتھہ وقتہ تھندہ تکلیف تہ سختی منز آسن قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تہنز دشمنی  
چھہ تھندہ یوچا نئیدہ اندرہ نیران۔ تہنز وکتھو آندرہ وارہ نان۔ یہ چھو توتہ کی وَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ الْكِبْرُ نِس  
عداوت تھندہ ن دلن اندر چھو۔ سو چھو سیٹھاہ بوڈتہ زیادہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اپز  
پاٹھہ آسہ کتر واضح تھندہ خیطرہ تھندہ عداوتک بغضانہ۔ چھوے تھہ عقلہ وال تلہ زانو تھہ پائے سمو  
نشائوسیت تھندہ ن دلن ہند حالات هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وارہ یوزوایہ بالیماؤ۔  
تھہ چھوہ تھندہ محبت تھوان حالیحہ تہن چھونہ تھندہ محبت کیہنہ تہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تھہ چھوہ  
سارنی آسمانی کتابن ایمان آنان۔ پڑھ کران تہن چھنہ سارنی کتابن تہنز پڑھ۔ تم چھہ توبہہ سیت دھو کہ  
پاٹھہ پکان۔ مگر تھہ چھوہ توتہ تہن سیت دوستی ہند تعلقات تھوان۔ وَإِذِ الْقَوْمُ قَالُوا آمَنَّا یلہ تم توبہہ  
سمکھان چھہ تمہ ساتہ چھہ توبہہ ہونہ خیطرہ منافقانہ طریقس پیٹھہ ونان کہ اسہ اون ایمان وَإِذَا خَلَوْا  
عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَمْلَ مِنَ الْغَيْظِ مگر یلہ توبہہ وراى آسان چھہ تمہ ساتہ چھہ تھہ پن کھیوان شرارتہ  
تہ تھہ سیت قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ فرما یو کہ تھہ یار سول اللہ تھہ کھن کیاہ تھہ چھہ ہر گاہ تھہ تھہ سیت  
متر و تہ توتہ نیرہ نہ تھندہ مطلب إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پڑھاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون

تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا  
بِهَا وَإِنْ تُصِروْا وَتَتَّقُوا لَا يُضْرِكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ  
اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۴۰﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ  
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴۱﴾  
إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى  
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

تمہ سارے کتھے سمہ تہندین سین اندر پو شیدہ چھہ ان تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ ہر گاہ توہہ کا نہہ  
رثا کتھاہ پیش یوان چھہ۔ کا نہہ خوشی ہنز کتھاہ واتان چھہ تمن چھو تمہہ ساتہ مصیبت پیوان وان  
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ہر گاہ توہہ کا نہہ مصیبتاہ یا غماہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھہ تم خوش گدھان  
تمہہ سیت۔ وون تم امہ قسمک دُشمن آسن تمنی سیت شویا توہیہ دوستی لاگن یا دوستی ہند تعلقات  
تھاون۔ مگر تھنہ تہہ بانہر و تہنزہ دُشمنی سیت۔ تمیوک علاج چھو صبر وان تَصِروْا وَتَتَّقُوا لَا يُضْرِكُمْ  
كَيْدُهُمْ شَيْئًا ہر گاہ تہہ صبر واستقلال کمرت خدا بس کھو ترو، کبہنہ ضرر رہیجہ نہ واتاوتھہ توہہ  
تہونہ مکرو فریب عنہ قسمہ ان اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو تھہ سارسی یہ تم  
کران چھہ احاطہ کرہون تہہ پوزانہ ون۔ سو دیہ توہہ تہندین حالاتن ہند اطلاع۔ تمن دیہ سزا وَاذْ  
غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ بیہ چھوہ توہہ یادیا رسول اللہ علیہ صلوات  
دراوہ تہہ حضرت عائشہ صدیقہ سندہ حجرہ مبارک کہ اندرہ توپتہ واتوہ تہہ کوہ احدس نزدیک تہہ پیوکھہ  
توہیہ بالیمان حاذجنگس پیٹھہ مناسب مناسب جاین ٹھہراون۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اوس  
تمہہ ساتک تہندہ سوزوی کلام یوزان تہندہ حال زانان إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا  
یلہ نا توہہ اندرہ دو یوہ جماژو ہمت ہار نک تہہ واپس تزلہ نک ارادہ کریوہ۔ خدا چھو تہندہ دوست تہہ مددگار۔  
سُو تھہ پٹھہ دیہ ہا تمن ہمت ہار تھہ تزلہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بالیمان پزہ خدایہ سی پیٹھہ



الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَيَتَقَلَّبُوا خَاطِبِينَ ﴿۱۳۷﴾ لَيْسَ لَكَ  
 مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳۸﴾  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَيِّغُرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ  
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً تَمَّوَاتِقُوا

العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بپہ چھ حقیقت کہ یاری تہ مدد چھو نہ کانہہ ہندہ طرفہ عزتہ و اہلس تہ حمتہ و اہلس  
 خدائس و رای لِقَطْعَةً طَرَفَاتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ كَافِرٌ وَأَنْدَرَهُ اِسْ جَمَاعَتَسِ هَلَاكٌ كَرِهَ أَوْ يَكْتُمُهُمْ  
 فَيَتَقَلَّبُوا خَاطِبِينَ یا کر کیکہ خوار و ذلیل ہس ژن تم و اہلس ناکام گره ہتھہ۔ چنانچہ ستن کافر ن تم ہڈا ڈانگر  
 آس آہہ گردن و نہ۔ سنت زن آہی گر فقاہ کرنہ۔ باقی ژل شکست فاش کھیٹھ۔ نبی کر تمس صلی اللہ  
 علیہ و سلم یلہ جنگ احدس منز کافر ن ہندہ طرفہ سخت تکلیف و و ت۔ وندان مبارک سپد شہید روی  
 مبارکس سنیاہی خود شریفک کرواریاہ زخم آہی بدن مبارکس بیہ آہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت بے دردی سان  
 شہید کرنہ۔ دل مبارک سپد نبی کریمہ سہتمہ سیت سیٹھاہ آزدہ۔ ارادہ کورکھہ کہ دشمن پوٹھہ کرہ ہن  
 دُعای بد۔ اتی سپد نازل بیہ آہی کریمہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے پیغمبر خدا تو بہ نہ حض چھو نہ  
 دخلاہ اتھہ معاملس اندر کاہہ سپد تن مسلمان کانہہ متہ سپد تن۔ امیوک سوزوی اختیار چھو خدا ہس  
 اتھہ تو بہ پزہ صبر کرن۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ توتان یوتان دو یو چیز و اندرہ اکھ چیز لینہ بیہ  
 یاد بیہ اللہ تعالیٰ تم ن توبہ کرنک توفیق۔ تم سپدن مسلمان۔ جہند دل مبارک سپدہ خوش یا کر کیکھ  
 عذابس گر فقاہ۔ ہر گاہ گھرسی پوٹھہ تموا اصرار کور۔ تمہ سیت شہلن مسلمانن ہند دل قَاتِمٌ ظٰلِمُوْنَ  
 کیاہہ تم چھہ پز پٹھہ ظالم کفر و شرک کر چھہ سببہ۔ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سندی  
 چھو تہ سوزی بیہ آسمان تہ زمین اندر چھو یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مغفرت گره ہس  
 یڑھہ تہ تہس۔ عذاب کرہ ہس یڑھہ تہ تہس وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن



اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۳۶﴾ وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ  
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

سینچاہ رحم کرے وہ یَا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اے باایمانو مہ کیو  
 مال ڈوگناؤ ڈوگناؤ کیجا یہ چھ سو کام یوسہ جنہنس و اتناوہ۔ سوڈ چھو حرام کم آستن یا زیادہ۔ یہ چھونہ  
 مراد ڈوگناؤ ڈوگناؤ مہ کھیو کم کم کھیو۔ تنہہ چھہ ونان قید واقعی۔ تمہہ وقتہ اوس واقع تنہہ پانہ سپدان۔  
 لوک آس ڈوگناؤ ڈوگناؤ سوڈ وصول کران۔ یہ چھونہ قید احترازی تمیک مطلب یہ نیر ہاکہ ڈوگناؤ  
 ڈوگناؤ آسانا جائیز کم کم آسانا جائیز۔ وَأَتَقُوا اللَّهَ کھوژو و خدائس لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تنہہ  
 ہنہ سپد و کامیاب۔ نارہ نشہ نجات لبنتہ واتو جنس وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ بس نار دراصل تیار آمت چھو کرنہ کافرن ہندہ خیترہ۔ باایمان آستہ مہ واتناو یو کھہ بن پان  
 کافرن ہنزہ جاہہ منز۔ نافرمایو سیت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ حکم مانو خدایہ سُد وَالرَّسُولَ یہہ تہندس  
 پیغیرہ سُد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیوہ توہہ پیٹھہ رحم یہہ کرنہ قیامتک دودہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
 یہہ تلو دور پنہ نس پروردگارہ سیدس بدس مغفر تس کن۔ تمہہ عملہ کرو سموسیت مغفرت تہ جنت  
 حاصل سپدیو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یہہ تنہہ جنس کن میو یک پنہ چھو تیوت یوت  
 ستہہ آسمان تہ ست زمین ڈوگنہارہ نشہ موزاوت کھہ اکس سیت ملاناو تنہہ تھاوت گزہہ۔ یہہ گوپناہ  
 تمیوک۔ زیتھرک اندازہ چھو خدایہ سی معلوم أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سوی جنت چھو تیار کرنہ آمت  
 خدائس کھوژوہ ونین ہندہ خیترہ۔ سم خدایہ سیدس حکم تقیل کرن۔ ممنوع چیز و نشہ پتھہ روزان  
 الَّذِیْنَ يُنْفِقُونَ اول درجہ متقی گے تہ لوگ یم خرچ کرن خدایہ سندہ خیترہ فی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا  
 أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ  
 اللَّهُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۷﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ  
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ  
 الْعَامِلِينَ ﴿۱۳۸﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

پریتھہ حاس اندر۔ دستس اندرتہ تنگی اندرتہ وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظِ بِهہ تم تھہ ژاپون آسن  
 وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ بِهہ تم غفورہون آسن لوگن پیٹھہ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ اللہ تعالیٰ چھو  
 تھین نیلو کارن ٹوٹھہ تھاوان وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً بِهہ گئے دوسمہ درجہ متقی تھے تم کا نہ تھہ  
 کاہا کرن اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ یا کرن ظلم پنہ نین پان پیٹھہ ذَكَرُوا اللّٰهَ تمہہ ساتہ آسن یاد کران  
 خدایہ سندس وعیدس تہ کہنکس سزاس فَاَسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ پس آسن مغفرت تھانڈان پنہ نین  
 گوئین ہندہ خیطرہ۔ تمہہ طریقہ بسہ معافی ہینہ خاطرہ مقرر کرنہ آمر چھہ۔ سو گو ہر گاہ گنکاران بین  
 پیٹھہ زیادتی کر مر چھہ لوکن ہند حق ضایع کورمت چھو تلہ گدھہ حقدارن ہنن حق واتاؤن۔ یا تم نیشہ  
 معافی حاصل کرن۔ تھہ گنہس پنہ نی پانس سیت تعلق آسہ تمہہ سیت بہہ کا نہ ہند حق ضائع سپدمت  
 آسہ نہ تھہ منز گدھہ خدایہ سی نش معافی حاصل کرن وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ کس اکھاہ چھو  
 مغفرت کرہون سارنی گنہن خدائس وراہی۔ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ بِهہ آسن  
 نہ تم لوکھہ تھہ تھہ کامہ پیٹھہ اصرارتہ ڈاؤ کران زاتھہ کرتھہ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 تھے لوکھہ گئے تم تمہن ہنرمزور چھہ بڈ مغفرت پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ بہہ تم جنت سمو منزہ جو بہہ پکان آسن خَلِدِيْنَ فِيْهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ وَ نِعْمَ  
 اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ کیاہ رٹمزوریاہ چھہ بہ رٹہ کامہ کرہون ہندہ خیطرہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۳۲﴾ هَذَا  
 بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَا تَهِنُوا  
 وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ إِنْ  
 يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ  
 الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۵﴾

بزپاٹ گڈریے توہمہ بروٹھہ واریاہ طریقہ لوک۔ یمن منز مسلمان تہ آس یمن منز کافر تہ آس۔ تمن سپد پانہ وان اختلاف تہ مقابلہ۔ لیکن انجام کار سپد کافر ن شجکت تہ تاہی مسلمان فتح و نصرت۔ ہر گاہ تہہ تمہدین ہلاکتہ کین آثار ن تہ نشان ہند ملاحظہ کرن یرشان چھوہ۔ **فَمَسُوا فِي الْأَرْضِ** پس پھیر توہمہ روے زمینس **فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ** پس وچھو تانا فرمان۔ پڑھ نہ کرہ وین ہند انجام کیاہ چھو سپد مت۔ **هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ** یہ چھو واضح کلام لوکن ہندہ خیرہ۔ تم ہر گاہ اتھ منز غور کرن۔ بذعبرت سپد بچھہ حاصل۔ **وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ** بیہ چھو یوڈ ہدایت تہ نصیحت خاص خدا پس کھو تہہ وین ہندہ خیرہ **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا** بیہ ہر گاہ تہہ و کین تہہ جنگ احدس منز مغلوب تہ سپد و کیا ہش کتھاہ گنیہ۔ امہ سیت مہ سپد و تہہ سست بیہ مہ کھنیہ امیک غم **وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** تمہی سپد و غالب ہر گاہ تہہ پوختہ با ایمان تہ پڑھہ وال آسو۔ تہہ پیٹھہ ثابت قدم رُوڑو۔ **إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ** ہر گاہ ازی تہہ جنگ احدس اندر ووت توہمہ تکلیف کیاہ ہش تہہ چھہ **فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ** پس تھتھن ووت اتھ قومس یعنی یمن کافر ن تھتھوی تکلیف جنگ بدرس منز **وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ** اس چھہ تم زندگی ہند ایام لوکن اندر وارہ واریہ بدلا وان۔ اکہ دوہنہ عیش و آرام بیہ دوہنہ غم تہ تکلیف **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** بیہ ووت توہمہ یہ تکلیف تہہ تر اوہ اللہ تعالیٰ با ایمان۔ **وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ** بیہ تہہ واتا وہ توہمہ اندرہ بعضین شہادتہ کس

وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَبْحَثَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ اَمْ  
 حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا  
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ وَمَا  
 مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌۙ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُۙ اَفَاٰبِيْنَ

مرتبس یعنی توبہ اندر بعضین کرہ شاذ تک درجہ عطائس نمود مرتبہ چھو۔ واللہ لایحیث الظالمین  
 اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران ظالمین یعنی کافران سے مٹر کن۔ یعنی تمہی غلبہ دین امہ مؤکھ نہ کہ تم کیاہ  
 چھس ناٹھ بلکہ آسہ اتھ اندر تہندی خیطرہ واریاہ مصلحو۔ ولایخص اللہ الذین امنوا اچی بیاکھ  
 مصلحت آس بیٹھ اللہ تعالیٰ صاف و پاک کرہ ہا با ایمان امہ تکلیفہ سیت گنن ہند و آلا یثونغہ۔ ویبھق  
 الکفرین۔ بیہ بیٹھ گا بہا سمن کافرن۔ یعنی تم دین مؤقہ ظلم و ستم کرہ نک بس ظلم و ستم تہندہ تہا ہی  
 ہند باعث بنیو۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ کیاہ توبہ چھا خیال تہہ کیاہ و اتوجشس آزمائشو سے  
 امتحان و وری۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰدِقِيْنَ۔ وینہ آسہ نہ نیومت کہ جماد  
 گم کو توبہ اندرہ سے تکلیف بیٹھ صبر کرہ و ن کم چھہ توبہ اندرہ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ پڑاٹھ آسو تہہ مؤ تک تمنا کران سو و چھہ بروٹھ یعنی خدایہ سزہ و تہ اندر آسو تہہ  
 مرن یڑھان۔ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ بس تھقین و چھون توبہ سو اچھو سیت۔ وون کیا زہ  
 چھوہ بانبر ان۔ یلہ جنگ احد س منز کافر و غلبہ لوب تممن تیر اندازن ہندہ جایہ ڈلنہ سیت یم گوہ درس  
 اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتہ خیطرہ مقرر کورمت آس۔ فر موومت او سبھکھ اگر تہہ و چھو  
 سہ دشمن چھہ چھہ ماز ثنان توتہ ڈلرہ نہ تہہ پتہ جایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسے دو بیہ شیتھ زخم۔  
 وند ان مبارک سپد شہید یعنی اکھ کھنڈ آیہ و تھہ آس دندس سمہ سیت خون جاری سپد۔ بیہ آیہ کر کھکھ  
 وند تہندہ شہاد تچ سمہ سیت بعضے صحابہ صہین ہند حوصلہ ہست سپد تھی وقتہ کور نازل اللہ تعالیٰ ان وما

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ  
عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۴﴾  
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ كَتَبَ مُوَجَّلًا ۖ  
مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۵﴾ وَكَأَيِّنْ  
مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا

مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ ۗ يَهُونَ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ ﷺ مگر پیغمبر اور۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ گنمت چھہ تمن  
برونٹھه واریاهه پیغمبر آقائین مَاتَ کیاہہ ہر گاہہ تم پائے سمعہ عالمہ گنمتِ آسن اَوْ قُتِلَ يَادُشْمَنٍ ہندہ اتھہ  
شہید سپد مت آسن انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کیاہہ تہہ پھیروہ پوت تمہہ موکھہ تراوہہ تہہ جماد  
کران۔ یاڈلوہ تہہ امہ دین اسلامہ نشہ کفر س کن وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ لَيْسَ الْكَاهِا پھیرہ پوت اودہ  
پھیرن فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا پس کانہہ ضررتہ نقصانہہیکہ نہ واتاوتھہ اللہ تعالیٰ اس بلکہ چھوس تمیک  
ضررتہ نقصان پان پانس وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ دیہ جلدی رثمزور شکر گزاران وَمَا  
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ تھا دوویاد کانہہ اکھاہہیکہ نہ مثر تھہ خدایہ سندہ حکمہ وراہی  
کتاباً مُوَجَّلًا پر تھہ آسند مران پھولیکھنہ آمت، وقت مقرر کرنہ آمت۔ ژانہ سیت نہہیکہ سو وقت  
پتھہ نیر تھہ۔ ثابت قدم روزنہ سیت ہیکہ نہہ برونٹھہ پتھہ۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وون  
لیس اکھاہہ عمل کر تھہ دنیاوی ثواب نہہ مزور پڑھان پھوٹس چھہ کران اس تمہہ منزہ کینہہ عطا وَمَنْ  
يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا بیہ لیس اکھاہہ آخر تک ثواب نہہ مزور پڑھان پھوٹس نہہ چھہ اس  
تمی منزہ عطا کران۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ بیہ کزواس جلدی رثمزور عطا شکر گزاران۔  
وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ بیہ کئیپاہہ پیغمبر یمن سیت سیت جماد آس کران۔  
واریاہہ لوکھہ خدایہ سند پور تیوبند واندرہ کافران سیت۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس

لِمَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ  
 قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾  
 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ  
 تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُوا كُفْرًا بِكُمْ فَتَقَبَّلُوهُ

آس نہ تم خدایہ سہ بندہ سست سپدان خدایہ سزہ وہ جگس اندر تکلیف واتتہ سیت وَمَا ضَعُفُوا  
 وَمَا اسْتَكَانُوا نہ آس تم ہمت ہاران۔ نہ آس تم دشمن بُروٹھہ کنہ ہتھیار تراوان نہ آن مانان بلکہ  
 آس خوب مضبوطی سیت تکلیفیں پیٹھہ صبر کران۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر و  
 استقلال کرہ وینن سیٹھہ پسند کران۔ ہوند چھو محبت تھاوان وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ آس نہ تم  
 تکلیف و اجبہ وقتہ کینہہ ونان إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر آس خدایہ سی منگان رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے  
 سانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ گنہن سائین۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بیہ ہر گاہ سانہ طرفہ کینہہ زیادتی  
 نہ کوتاہی لبنہ آہ سانہ کامہ اندر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مضبوط تھاو قدم سان وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
 الْكَافِرِينَ غلبہ وہ آسہ کافرین پیٹھہ صبر و استقلال لکہ برکتہ بیہ دعاء و التجاء کہ برکتہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ  
 الدُّنْيَا پس عطاور اللہ تعالیٰ ان ثمن و ثبہک ثواب یعنی غلبہ تہ مال غنیمت وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ  
 بیہ آخر تک رت ثواب تہ رت مزور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھہ ناٹھہ امہ  
 قسمک نیکو کار بندہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے بالیمانو إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تہہ مانو  
 کافرین ہزہ تھہ يُرِيدُوا كُفْرًا بِكُمْ تم پھر نوہ توبہ پوت گھر س کن فَتَقَبَّلُوهُ خسرین پس ہو

خُسْرَيْنَ ﴿۱۴۶﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾  
 سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا  
 بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا وٰهُمْ النَّارُ وَ  
 بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاةٌ  
 اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاٰذِنِهٖ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنٰزَعْتُمْ  
 فِيْ الْاٰمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَا تَحِبُّوْنَ

جہ تہہ تاوان زد دُنیاو آخرتس اندر۔ بیہ سپدہ توہہ پرستہہ قسمہ ناکامی۔ کافر بن نہ زانہہ تہ تہند دُوست  
 بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ بلکہ ہُو اللہ تعالیٰ تہند مولیٰ تہ آقا۔ مددگار تہ دوست وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ  
 سوی ہُو توہہ سارنی ہندہ خوتہ بہتریاری کردہن سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَالرُّعْبَ جلدی  
 تراو داس کافرن ہندین دن منزہبت تہ رُعب بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا  
 کیا زہ تمو کیاہ ٹھہر او کُتس خدائس تجے چیز شریک تَمَن ہندہ قابل شریک آسنہ خیطرہ نہ تم کانہہ دلیلہاہ  
 نازل کردہ وَاوٰهُمْ النَّارُ تَمَن کافرن تہ مُشرک ہنز جای چھہ نار جہنم وَ بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِيْنَ  
 سو چھہ سیٹھہ چھہ جائے تَمَن ظالمین تہ مُشرک ہندہ خیطرہ تم خدائس ورا ی بین تہ معبود زانان چھہ  
 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاةٌ حَقِيقٌ پوز کور اللہ تعالیٰ ان وعدہ پُئن توہہ سیت اِذْ تَحْسَبُوْنَهُمْ بِاٰذِنِهٖ  
 یلہ تہہ تم کتروان آسوکھہ ، ماران آسوکھہ تہندہ حکمہ توتان یوتان جہہ مضبوط آسوہ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ  
 ادہ یلہ تہہ پانہ سُمت سپدیہ وَتَنٰزَعْتُمْ فِيْ الْاٰمْرِ بیہ کورہ اختلاف نبی کریمہ سیدس کُمس اندر  
 وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَا تَحِبُّوْنَ تہندہ کُمک پابند روو نہ تہہ۔ حالہہ تم (خداین)  
 اوس توہہ ہوومت سو چیز بس توہہ پسند اوس غلبہ تہ قُت۔ وون آس ضرورت بیہ کھنہ کالاصبر کرکچ۔  
 مگر توہہ کوروہہ مِنْكُمْ مِّنْ فِرْيَدِ الدُّنْيَا توہہ اندرہ آس بعضی تم دنیا زہانڈان آس وَمِنْكُمْ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ  
 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَ  
 اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۲﴾ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا  
 تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدُّ عَوْكُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ  
 فَآثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لَّيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ  
 وَلَا مَا آصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾

مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ اس بعضی تم آخرت ژھانڈان آس امی سببہ سپد توبہ منز اختلاف سمعہ وجہ  
 تہہ نبی کریم ﷺ سندس خمس پیٹھہ رودہ نہ ۱۵۲ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ تو پتہ پھر نوہ تہہ اللہ تعالیٰ  
 ان تمن کافرن نشہ تہہ آسوہ غالب تو پتہ سپدوہ مغلوب۔ توبہ سزاو نہ خیطرہ نہ بلکہ توبہ آزمايش کرنہ  
 خیطرہ کہ توبہ اندرہ کہ چہہہ منافق کہ چہہہ باایمان۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یعنی زانو کہ اللہ تعالیٰ ان اور توبہ  
 عفو۔ توبہ سپدہ نہ آخرتس اندر تہہ امیک کا نہہ بازخواست وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھو فضلہ وول باایمان ہندہ حقہ۔ تالیئکہ امہ نافرمانی سببہ کر نوہ نہ تہہ ساری ہلاک اِذْ تُصْعِدُونَ  
 وَلَا تَلَوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ تہہ پاو پتہن حال تہہتس جزم تہہند کوتاہ سخت اوس یلہ تہہ کہ اوس کھسان کھسان  
 ژلان آسوہ نہ تہہ کن آسوہ نہ کاسہ کن نظر تہہ دو ان وَالرَّسُولُ يَدُّ عَوْكُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ حالانچہ یہ  
 بوڈ پیغمبر اوس توبہ پتہ پتہ نادا نادر وان اکی خدایہ سند یو بند و ژو مہ واپس پھیر و مہ کن یو چہوس پیغمبر خدا  
 مگر توبہ بوزوی نہ کیہ نہ۔ فَآثَابَكُمْ پس واتو وہ توبہ خداین غَمًّا بِغَمِّ غم پیٹھہ غم۔ لَّيْلًا  
 تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا آصَابَكُمْ یوتھنہ تہہ مال غنیمت اٹھ گدھنک تہہ جسمانی  
 تکلیف واتنک غم کھیو۔ کیا زہ بدہ غمہ سیت چھو لوٹت غم مشتہ گدھان۔ بدہ غم گئے صحابہ صین ہند  
 شہید سپدن بیہ نبی کریم سندہ شہادتچ خبر یوزن۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس چھہ  
 خبر سمعہ سارچی یہ تہہ کر ان چھوہ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اٰمَنَةً تو پتہ سوز اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھہ



ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُبُوءًا بِأَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ أَلْتُمْ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ  
 مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ  
 الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَّفَاتْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ  
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ

اکی مسلمانو لمحہ غمہ پتہ آرام و قرار نکاسا بندرہا یغشی طائیفۃ منکم یوسہ ولنہ آیہ توہم اندر  
 اکیس جماعتیں۔ یعنی با ایمان۔ تمہے سیت رو دندہ تمن غے ژیتس و طائیفۃ قدا اہمتہم انفسہم بیاکھہ  
 جماعت تمن آس پے مژ پنے پانچ فخر کہ آس تھہ پانھہ مکلویتہ یعنی منافقین یظنون باللہ غیر الحق ظن  
 الجاہلیۃ تم آس خدا کی نسبت لہذا خیالات تھاوان جاہلیتک تہ حماکب خیالات یقولون هل لنا  
 من الامر من شیء ونان آس تم اسہ چھہ اختیار کئے چیزک۔ یعنی سون چھا بوزان تم۔ سانہ مشورے  
 تم پہن یوت پٹھہ ماوانہ بانوبت۔ تہ گو معنی تم آس ونان۔ بنیو وہ اسہ ، حاصل سپدہ اسہ سو چیز سیمیک  
 وعدہ اسہ تھاوانہ اوس یوان۔ یعنی فتح تہ غلبہ۔ یہ آس منافق ونان۔ مسلمان ڈالہ۔ گمراہ کرنہ تہ بد ظن  
 کرنہ خیرہ قُلْ تہہ فرماو کھہ یارسول اللہ لان الامر کله للہ پڑپانھہ سارکوی اختیار چھہ کھنس خدا کیس۔  
 یہ سویشہ تی بنہ یخفون فی انفسہم کھٹت چھہ تھاوان پانس زبہ تالا یبدون لک تمہ تمہ تھہ  
 سمہ نہ نثر اوان چھہ توہم نش یقولون لوکان لنا من الامر شیء ونان چھہ تم منافق ہر گاہ اسہ تان  
 یکھنہ اسہ ہا یعنی سانہ مشورہ موحیے عمل کرنہ آسا آمزیا ہر گاہ سون دین پوز آسا تاقولنا ہنا تیلہ  
 تمہونہ اس مارنہ یتھہ میدان اُحدس اندر۔ اسے دیو وہ جنگ کردہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فرماو یاکھہ  
 تہہ یارسول اللہ ہر گاہ ہے تہہ آسو گر ن پنے نین اندر تہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم  
 البتہ ضرور نیرہ ہن تم لوکھہ تمن یتہ میدان اُحدس اندر مر ن لیکھنہ اوس اُمت۔ پنے نین مرچن جاہن

اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّكِفُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقَتَلُوا لِيَجْعَلَ

گن و لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ كَيْدِهِمْ هَاهُ يَوْمَ تَسِيدُ بِهِنَّ اللَّهُ تَعَالَى آزمايش كرده با مَا فِي صُدُورِكُمْ تنهيه تهنيدين سين منزله دن منزله چھو يعني ايمان وَلِيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ بهي تنهيه واره صاف نزاره هاتر بهي تهنيدين دن اندر چھو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اگر چه الله تعالى اس چھو پانس پور علم سارني هندين دن هند۔ مگر يتھين موقعن پيٹھه چھو سو آزمايش به امتحان کران يتھه لوکن به پناه لکم کم چھه با ايمان به کم چھه مَاتُوا كَالَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ پز پناٹ تم لوکھه سم توبه اندر ژل يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ تمبه دوه تبه سمه دوه زه جماژ مسلمان هنز جماجه به کافرن هنز جماجه کهه اکس مقابل رزو جنگ احدس اندر إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ تم ڈال نه کانسه مگر ڈال شيطان بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا تهنزو بعضي کاميوسيت سمه تمبو کره يعني کوه دره منزله نيره نه سیت سو جای خالی تراونه سیت۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ پز پناٹھه الله تعالى ان کور تمن عفو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پز پناٹھه الله تعالى چھو سيٹھاه مغفرت کره دن تزيڈ کره دن۔ گنھگارن چھونه فور اربانن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّكِفُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ای با ايمانومه بنو تبه کافرن بي۔ يعني منافقن هي۔ تم اگر چه ونان چھه پانس مسلمان مگر در حقيقت چھه تم کافر۔ تبه مه کرو تمبه قسيچي کته سمه تم کران چھه وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ ایله تم سفرس چھه نير انکته شهرس گن ياييله جماد کر نه چھه نير ان تو پته چھه سفرس اندر مران يا چھه جمادس اندر شهيد سپدان لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقَتَلُوا هر گاه به تم آسهن اسي نيشه پنه نس شهرس اندر سفرس يا جمادس آسهن نه در امت تله مامر ه بن نه يکن مارن۔ ای با ايمانو تبه مه

اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵۷﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَـمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿۵۹﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفُصَاوِمُنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

آسوا مہ قسمیہ تھے وہاں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم یعنی اللہ تعالیٰ کرہ سمہ تھے تہمزہ تہمیدین دل اندر بوذ حسرت تہ افسوس۔ واللہ یحییٰ ویمیت اللہ تعالیٰ ہی بھو زندہ تھاوان تہ ماران۔ سفر آستن یا حضر۔ جنگ آستن یا امن موت و حیات جہو تسندی اختیار س اندر واللہ بما تعمالون بصیر اللہ تعالیٰ بھو تھہ ساری یہ تہہ کران بھوہ وارہ و جھان۔ سو دیہ توہہ بھمز و ہ۔ ولین قتلتم فی سبیل اللہ اومتھو بھ ہر گاہ توہہ خدیہ سزہ دتہ اندر یعنی جہاد کران کران مارنہ بیو یا مروتہ بکھاہ پروا بھو۔ کمغفرۃ مین اللہ ورحمۃ خیر مینما یجمعون خدیہ سئد مغفرت تہ تہمز رحمت بھہ تہمزہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر تہ ساری خوتہ یہ تم لوکھہ سونبر او ان یا و ان چھہ ولین مئتم اوقتلتم لاالی اللہ تحشرون بھ ہر گاہ تہہ مئز و یا مارنہ بیو جہاد س اندر، ضرور بھو توہہ سئد تہ جمع سیدن معبود برحق نیشہ بہ نہ کانہہ نیشہ۔ فبما رحمۃ مین اللہ لنت لھم پس خدیہ سندی رحمتہ سیت سپدہ توہہ یا رسول اللہ تہمزہ حقہ نرم تہ حلیم یمن لوکن ہندہ خیطرہ سمومہنز مخالفت کر۔ توہہ اوس حق تمن سختی سیت بازخواست کر نک ولو کنت فظا غلیظ القلب لانیفصاومن حولک اگر تہہ آسہو خدا نخواستہ کڑکھل۔ دلہ در۔ سئد خو ضرور نزلہ ہن تم تیلہ توہہ نیشہ۔ محروم سید ہن تم تہمز یو فیض و برکات ونیشہ۔ فاعف عنھم واستغفر لھم پس کرو تہہ تہ تمن معاف بہہ مگو تہمزہ خیطرہ خدا پس مغفرت وشا و رھم فی الامر بہہ آسو تمن سیت تتھن معاملکن پٹھہ مشورہ کران۔ تمہہ سیت سیدن تہمزہ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۶۸﴾  
 إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُكُمُ فَسِنَّ ذَ الَّذِي  
 يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَمَا  
 كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُ طُ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۷۰﴾ أَفَمِنَ آتِبَعِ  
 رِضْوَانِ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطِ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَ

حوصلہ بلند فَاذَا عَزَمْتَ پس یلہ تہہ کنہہ معاملس اندر مشورہ کر تھہ کنہہ رلیہ پیٹھہ پوختہ ارادہ آسو کر ان  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس آسو پورہ اعتماد کر ان خدا پس پیٹھہ تو پتہ سو کام کر ان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
 پتہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ آس جھہ ناٹھہ تس پیٹھہ اعتماد کرہ دن بندہ إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ توبہ مد  
 تہ یاری کرہ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تیلہ بیجہ نہ کانہہ اکھاہ توبہ پیٹھہ غالب سہ تھہ وَإِنْ يَخْذُكُمُ ہر گاہ سؤہ  
 توبہ مدد کرہ نہ فَمَنْ ذَ الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ پس گوہ اکھاہ چٹھو پس توبہ تس پتہ یاری بیجہ کر تھہ  
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس خدا یہ کسی پیٹھہ بیہ نہ کانہہ آس پیٹھہ کرن اعتماد با ایمان جنگ بدر  
 کہ مال غنیمتہ اندرہ یلہ رَاؤُ اَکھہ سُرُخِ ثَاڈر اہ۔ لو کو ڈوپ یہ ثَاڈر آسہ تھو مشر تلتھہ نبی کر یمن صلی اللہ  
 علیہ وسلم پتہ خاص استعمال خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سوزیہ آیہ کر یہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَلْ چٹھونہ  
 ہر گز سز او ار کانہہ پیغمبرس سوزیاہ کرہ خیانت مال غنیمتس اندر وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس  
 اکھاہ مال غنیمتس اندر خیانت کر تھہ کانہہ چیز تھاوہ تلتیتھہ خاص پتہ خیطرہ۔ سو پیہ قیامتک دوہ سو چیز پتھہ  
 پیش کرنہ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تو پتہ بیہ پر تھہ آس پورہ بدلہ دنہ تمبو کہ یہ تم کو رمت آسہ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تمن بیہ نہ کنہہ قسمہ ظلم کرنہ أَفَمِنَ آتِبَعِ رِضْوَانِ اللَّهِ آیائس اکھاہ پیروی کرہ خدا یہ  
 سزہ رضامندی۔ مال غنیمتس اندر کرہ نہ کنہہ قسمہ خیانت۔ یعنی تی کرہ بیٹھہ خدا راضی آسہ كَمَنْ بَاءَ  
 بِسَخِطِ مِّنَ اللَّهِ سوچھا برابر تس شخصس بیوہ پس واپس گرتھہ خدا یہ سز بیزاری ہی بیٹھہ۔ نافرمانی تہ

بِسِّ الْمَصِيْرِ ﴿۱۳۷﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيْرِهِمْ  
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۳۹﴾ أَوْلَئِكَ  
 أَصَابَتْكُم مَّصِيْبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ

خیانت کرنے سبب۔ ہرگز چھنہ ہم زہ برابر بلکہ چھو فرمانبردار سے امانتدارس خدا راضی۔ نافرمان سے خیانت  
 کرہوں بس پڑھے چھو خدا بیزار۔ وَمَا وَهَّجْتُمْ بِهٖ چھہ تسزئی جائے نارِ جہنم وَّ بِسِّ الْمَصِيْرِ کاتراہ  
 چھہ جای چھہ سونا جہنم هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ تم لوکھہ چھہ مختلف درجائن پڑھے امانت داری چھو  
 تھو درجہ پنہ نس خدا بس نشہ جتن اندر۔ خیانت کرہون چھہ جنمی وَاللَّهُ بِصِيْرِهِمْ يَعْمَلُونَ بِهٖ  
 چھو اللہ تعالیٰ تہنرہ سارے کلمہ پانہ وچھان۔ کہہ چھو امانتدار کہہ چھو خیانت کرہون۔ بس مال عام  
 مسلمان ہند آسہ یا نمنک یا نمنک مدرسک آسہ تھہ منز خیانت کر نس سے چھو یو ہے سزائس مال غنیمتس  
 خیانت کرہون سیدہ خطرہ اذ بیان کر نہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پڑا پڑا اللہ تعالیٰ ان تھاؤ بدمنت  
 بالیمان پڑھے۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کیا زہ سوزن تمن منز پیغمبراہ جلیل القدر سے عظیم  
 الشان تموی منزہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ بس پیغمبر تمن خدا یہ سہ آیات پران چھو۔ وَيُزَكِّيهِمْ بِهٖ بس  
 پیغمبر تمن جاہلانہ خیالون نشہ پاک کران چھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بِهٖ چھو کھہ پچھناوان قرآن مجید  
 وَالْحِكْمَةَ بِهٖ عقلہ ہنرہ کھہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پڑا پڑا آس تم تہنرہ تشریف آنہ  
 بروٹھہ نہ گرائی اندر اَوْلَئِكَ أَصَابَتْكُم مَّصِيْبَةٌ کیاہ یلہ ووت توہرہ جنگ احدس منز کھہ تکلیفہ سے  
 مصیبتہا قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِثْلَهَا حالانکہ توہرہ واتووہ تمن دشمن تمہ دوگنہ جنگ ہدرس منز۔ سٹھہ کروکھہ  
 قتل۔ سٹھہ کروکھہ قید تمو منزہ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا دہنہ لگوہ ٹہہ تجہ کن یہ مصیبت کیا زہ سناوٹ آسہ یعنی  
 تھہ پاٹھہ ووت آسہ آسہ گوٹھہ نہ واٹن آسے مسلمان آس۔ آسہ سیتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوس۔

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷۶﴾  
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعِينَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۷﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادُ فَعَوَّاهُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَا ۗ ط  
 هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ جہ فرمایا کہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبت ووت توہم پہ نہ فی طرفہ۔ کیا زہ جہ نے مخالفت کر ہو میانس کھمس یہ حالت سپدہ ہانہ توہم۔ لِنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ یاری کرنس پیٹھہ تہ۔ چنانچہ کرنوہ توہمہ نن یاری بدرس منز۔ یاری نہ کرنس پیٹھہ تہ یلہ توہمہ پانہ غلطی کرنوہ خالی تراونہ سیت جنگ احدس منز۔  
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعِينَ بیہ ئیس تکلیفہ تہ مصیبتہ ووت توہمہ تمہہ دوہنہ تمہہ دوہنہ جمائز کہہ آس سیت میجر جنگ احدس اندر فَبِإِذْنِ اللَّهِ پس ووت سو مصیبت توہمہ حکم خدا ہتھہ منز واریاہ جموہ آسہ۔ تموہم جو اندرہ گیہ کہہ حمت وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ ہتھہ معلوم سپدہ ہابا ایمان کم چہہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا بیہ ہتھہ معلوم سپدہ ہامناق کم چہہ کیا زہ مصیبتہ وقتہ چھو ننان۔  
 مُخْلِصٌ كَمْ چہہ غیر مخلص کم چہہ۔ وَقِيلَ لَهُمْ وَننہ آوہن مناقن یلہ تم ٹل میدان جنگ تراوتھہ تم گے عبد اللہ بن اے بیہ جہز جماعت تم ترہ (۳۰۰) ہتھہ لوک آس تَعَالَوْا آووا پس قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جمادکر و خدایہ سزہ ووتہ اندر۔ أَوْادُ فَعَوَّاهُ تہ نے توتہ کر یو کہہ دشمن پانس نشہ دَعُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَا ۗ دہنہ لگ تم ہر گاہ آس زانہ ہو جنگ کرن تلہ روز ہو تو ہی سیت هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ تم مناقن آس تمہہ دوہنہ نیز نزدیک کفرس ایمانہ خوتہ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ونان چہہ تم ہی پنہ نیو چا نیو سیت یہ نہ تہندین دکن منز چھو یعنی ول چھو کہ کہہ تہ زیو ہتھہ بیا کہہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو تہ پور زانان تہ سوزی یہ تم کھتھہ تھوان چہہ

قَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۷۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا  
 إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا وَالْوَاكِعُونَ مَا قَاتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ  
 أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۸۰﴾  
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ  
 يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸۱﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ تم گئے ناتھے سمو دوپ پنہ نین ہم نسب باہن ہندہ حقہ تم جنگ احدس منز شہید سپد وقعدوا حالانکہ پانہ زود بہتھے گرن اندر لَوَاكِعُونَ مَا قَاتِلُوا ہر گاہ تم سون مانہ بن مارہ گدھے بن نہ۔ اہہ دیوک مہ نیز و جنگس۔ گرہ بہتھے کیاہ چھہ تمکن تھہ پھوران قُلْ فرماؤ یوکھہ تہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلا دور بیخوکر تھہ تہہ پنہ نیو پانور تھہ مران۔ ہر گاہ تہہ پوزنہ ون ہجورہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ مہ کر تہہ ہر گز گمانہ اے بوزونہ تمن لوکن متعلق تم شہید سپد خدایہ سزہ وتہ اندر أَمْوَاتًا تم کیاہ چھہ مردہ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ چھہ تم زندے پنہ نس پروردگار س نش۔ تمن چھو تمہ عالمک رزق تہ یوان عطا کر نہ بس تھہ عالمس منز شوہہ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش چھہ تم تمو مہر بانو سیت سمہ تمن عطا کرہ مژہ چھہ اللہ تعالیٰ ان پنہ فضلہ سیت وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ بیہ چھہ تم خوش تہ مُرور سپدان تمن لوکن ہندہ رتہ حالہ سیت لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ یمن ونہ تمن نشہ وات۔ یہ بوزنہ سیت کہ أَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن کیا چھونہ کانہ خوفانہ کانہ نماہ۔ تم چھہ امن و امانس اندر زندگی بسر کران يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِ اللَّهِ وَخُشْيَةِ اللَّهِ گدھان پروردگارہ سہہ نعمتہ سیت تہ ہندہ فضلہ سیت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ سمہ تھہ سیت کہ اللہ تعالیٰ چھونہ ضایع کران با ایمان ہنزان عملن ہنز مزور۔ جنگ احدہ پتہ یلہ کافر واپس گدھان آس تم

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِيلٍ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾  
 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
 فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٣﴾

لگ پاپہ وال ان ذیبتہ کہ اسہ کر بد غلطی۔ سون گوژھہ مسلمانن پیٹھہ پورہ حملہ کرن۔ کیا زہ اس سپہ ای تمن  
 پیٹھہ غالب۔ لہذا چھو بہتر اس گڑھویتہ پیٹھہ بیہ والیں۔ بیہ کرو تمن سیت جنگ توپتہ کروکھہ تم کی ساتہ  
 ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ ان تروو تہندین ولن اندر رعب۔ تمویہوک نہ امہ جایہ پیٹھہ بیہ والیں گڑھتھہ۔ انج  
 خبر و اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی۔ تمویہ سوز صحابہ صمیمین ہنز اکھہ لشکر اکھہ تمن کافران  
 تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ۔ آتھہ اندر سمٹھہ تمن کافران اکھہ قافلہ نہیں تجارتہ خیطرہ مدینہ شریفس گن  
 گڑھان اوس۔ تمن دوچھہ تہہ ونزہ مسلمان کہ منکب لوکھہ چھہ توہمہ سیت بیہ جنگ کرانج تیاری کران۔  
 مسلمانویلیہ یہ خبر یاز تمویہ ڈوپ کانہہ پروا چھونہ۔ اسہ چھو بس اللہ تعالیٰ۔ آئینہ آیات کریمین منز چھو  
 اللہ تعالیٰ امی واقعک تذرہ کران۔ اکثر مفسر چھہ فرماوان کہ یہ چھو غزوہ حمراء الاسدک واقعہ۔ یہ چھو  
 کہ جایہ ہندناویسہ مدینہ شریفہ پیٹھہ آتھہ میل دور چھہ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تم با ایمان  
 سَمُوْهُم مِّنْ خَدَائِلِ سُنْدِیہ پیغیر خدایہ سُنْد یعنی درای کافران تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ جنگ اُحدس منز تکلیف تہ زخم واتنہ پتہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ  
 خیطرہ تمویہ نیکی کر ختم ماننہ سیت۔ بیہ رُوو پتھہ نافرمانی نشہ چھہ بڈمزور سوگو جنت۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ  
 النَّاسُ یمن بعضی لوکو وینیوو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ پڑپاٹ ڈُٹمن چھہ سپدان جمع یا چھہ تم سامان  
 حرب جمع کران توہمہ سیت بیہ جنگ کرنہ خیطرہ فَاخْشَوْهُمْ نہیں کھوژو تمن۔ تمن سیت مُقابلہ کرنہ نشہ  
 رُوو پتھہ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا یہ بوزنہ سیت ہریو تہندہ ایمانک جوش وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ



فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسْسِمْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا  
 رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۶۲﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ  
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِنۡ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۳﴾  
 وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوْا اللّٰهَ شَيْئًا

الْوَكِيْلُ ۗ بِيہ دُپک کانہہ پروا چھو نہ آسہ۔ بس چھو آسہ اللہ تعالیٰ بیہ چھو سوی رت وکیل۔ آس چھہ پنے سارے کامہ تس پُغر او ان۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھہ فرماوان بیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھو سو کلمہ ئس حضرت ابراہیم ہر۔ نارس منتر تراویحہ وقتہ اللہ تعالیٰ اَن کو رکھہ کفایت۔ ئس کلمہ پُر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند یو صحابہ صیو جنگ اُحدس منز اللہ تعالیٰ اَن کو رتمن تہ کفایت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان فَاَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسْسِمْهُمْ سُوءٌ ۗ پَس گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند صحابہ صیب خدایہ سز بد نعمت تہ بوڈ فضل بیتہ۔ ووت نہ تمن کانہہ تکلیفہ تہ کانہہ سختیہ۔ **وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ** پتہ پتہ پک تم خدایہ سزہ رضامندی **وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ** اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ جنگ اُحدہ پتہ یلہ کافر ثل ابو سفیان لگ دپنہ وون چھو توہہ تہ آسہ بیاکھہ مقابلہ بدر صغرئی کس موقعس پیٹھہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و نہ ناؤس ادہ کیاہ منظور چھو آسہ۔ سو دوہ یلہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درای صحابہ صیب بیتہ بیتہ جلیہ۔ مگر ابو سفیانس درے بیہ نہ کوٹھہ۔ اگرچہ تمواؤس اکھ شخصہہ سو رمت ئس مسلمانن ہندین دلن اندر خوف و ہیبت تراوان اوس۔ مگر تہندین دلن اندر سپد نہ تمیوک کانہہ اثر بلکہ سپد تہوند ایمان تمہہ سیت بیہ ہن زیادہ مضبوط۔ تم سپد لڑایہ خیطرہ بالکل تیار تمہ جی تعریف چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ بیہ چھو کھہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑاوان۔ فرماوان چھو کھہ **اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ** بیہ خبر دنہ وول چھو نہ مگر شیطان ئس کھوڑہ ناوان چھوہ توہہ پنے نین ہم مذہب دوستن ہندہ سیت یعنی کافر ن ہندہ سیت ای میانو دوستو با ایمانو **فَلَا تَخَافُوهُمْ** تہہ مہ کھوڑو تمن تہہ وقتہ **وَ خَافُوْنَ** تہند گڑھہ کھوڑن مے یوت **لَنْ كُنْتُمْ** **مُؤْمِنِيْنَ** چھوے تہہ با ایمان تہ پڑھہ وال **وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ** توہہ مہ ہز کرن غمگین

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَأَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۶﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَأَلَمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهَا تُنْبِئُهُمْ خَيْرٌ  
 لِأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّهَا تُنْبِئُهُمْ لِمُومِنِينَ لَمَّا لِيَزِدُوا دُؤْلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶۸﴾  
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

تم لو کہ تم کفر سُن جلدی جھہ کران یعنی منافق۔ یان تم و چھان جھہ مسلمان ہند پوتر کوت گوہان۔  
 ائی جھہ تم کفر سُن واپس پھیران تہ کفر چہ کتھہ ونہہ ہیوان اِنَّمَنْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا پڑاٹ تم تمکین نہ  
 ہرگز کانہہ نقصان و اتاوتھہ اکس ذرس برابر تہ خدائس یعنی خدایہ سندس دینس۔ بلکہ جھہ و اتاوان  
 نقصان پنہ نس پانس یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ جھو یڑھان تمن دینہ نہ آخرتس  
 اندر کانہہ حصہ یعنی تمن کرہ آخر تکہ کیونتمتہ مہربانیونشہ حُروم وَاَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ جھو تہندہ  
 خیطرہ بوڈ عذاب نار جہنمس اندر اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ پڑاٹھہ تمکو مثل ہیوت کفر ایمانس  
 یعنی ایمانہ بدل کورکھہ اختیار کفر لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا تم تہ تمکین نہ ہرگز کانہہ نقصان و اتاوتھہ خدایہ  
 سندس دینس عنہ قسمہ وَاَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمہ مہ کھبو تمن ہند کانہہ غم کیازہ تہندی خیطرہ جھو ڈگ  
 تلمہ و ان عذاب وَاَلْيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِنَّمَا تُنْبِئُهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ بیہ مہ کرن گمان کافر اس  
 یوسہ مہملت ووان جھہ تمن سو کیاہ جھہ رث تہ جان تہندہ خیطرہ اِنَّمَا تُنْبِئُهُمْ لِمُومِنِينَ لَمَّا لِيَزِدُوا دُؤْلًا اس جھہ نہ  
 تمن مہملت ووان مگر تھہ تم گنھن منز زیادتی کرن۔ یعنی تھہ تہندی گنھن ہنز ناؤ بر نہ ایہ۔ پتولا کہ  
 تیکھہ یحہ وٹ سزاؤ نہ۔ دنیاس منزئے تمن عذاب بیہ کرنہ وَاَلَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ بہر حال جھو تہندی  
 خیطرہ آخرتس منز کڈ ر عذاب مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ جھو نہ  
 یڑھان سو کیاہ تراوہ توہہہ بالایمان تھہہ حالس پیٹھہ تھہہ حالس پیٹھہ تہہہ و تکینس چھوہ یعنی امتیازہ و رای بلکہ  
 جھو سو یڑھان بالایمان تہ بے ایمان منز فرق کرن۔ تھہہ سُن نظر کر تھہہ جھو سو سختی تہ تکلیف نازل

الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝۹۹ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ

کران حتی یبیز الخبیث من الطیب یتھہ اللہ تعالیٰ ناپاکن پاکوئشہ یعنی کافرین تہ منافقن باایمانوئشہ الگ کرہ۔ تہ چھونان آزمایشوسیت باایمان چھہ آزمایش پیٹھہ صبر کران۔ منافق چھہ نہ تاب کران۔ تم چھہ ایمانہ نشہ دست بردار سپدان **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ** بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ سندان سؤ کیاہ کرہ توہہ خبر پوشیدہ معاملن ہنز یعنی توہہ کیاہ باوہ سو۔ کبہ چھو باایمان تہ کبہ چھو منافق۔ نہ تہ بنہ نہ۔ **وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِۦ مَنْ يَشَاءُ** بلکہ چھو سو برگزیدہ کران۔ چنہ نیو پیغمبرواندرہ لیس یشھان چھوئش چھو پوشیدہ حالات بادان **فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِۦٓ** لیس کٹر وپڑھہ کنس خدا لیس بیہ تھندین سارنی پیغمبران **وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ** ہر گاہ تہہ کفر وشرک تراوتھہ ایمان آؤ، کفر و نافرمانی نشہ پتھہ روزوتلہ چھہ تھندہ خیطرہ بڈمزور آخرتس اندرتس **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ** بیہ مہ کمرن گمان تم کوکھہ سم بخل چھہ کران سوما مال خرچ کرنس اندر لیس تمن اللہ تعالیٰ نے عطا کرینہ فضلہ سیت۔ سو بخل کردن کیاہ چھو تھندہ خیطرہ جان۔ ہرگز نہ **بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ** بلکہ چھو سو بخل کردن تھندہ خیطرہ سیٹھہ تھہ کیاہ **سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ** جلدی بیہ نال تراونہ تمن سوما سون تہ روپھہ) بیج زکوٰۃ تہ صدقہ نرس اندر تم بخل کران آس قیامتک دوہ۔ تھہ مالس بیہ سرفاہ تہ اژدھابناوت ٹخیلہ سزہ گردنہ منز نال تراونہ۔ لیس کس ٹوپہ آسہ دوان تہ تڑپ آسہ ہیوان پرازہ آسہ ٹران۔ سؤی اژدھا آسیس وپان انا مالک انا کنزک بوچھوسے نہ وودر بوچھوس مال چوں۔ بوچھوس خزانہ چون سمہ پیٹھہ نہ تہ خدایہ سد حقوق اوسکھ ادا کران۔

بِاللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۸۶﴾  
 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ  
 أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ  
 وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۸۷﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿۸۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ الْيَتِيمَا الْأَلْتُمْ مِنْ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا

مخل کرزن چھو سیٹھاہ پھہہ کیازہ ساری یلہہ مران سورى ولتہ خدایہ سى نئش وَ بِاللّٰہِ مِیْرَاثُ السَّمٰوٰتِ  
 وَالْاَرْضِ خدایہ سندی سپدہ خود بخود سوزی۔ حقیقتہ پاتھہ آسمان وزمین ہند مالک اوس تہ سوی تہ سپدہ  
 تہ سوی۔ لہذا بے سندس ماس اندر مخل کرزن کاژاہ حماقت چھہ۔ یہ شخص نے مخل کرہ باخدا یہ سندی مال  
 خدایہ سزہ وتہ اندر خرچ کر نہ سیت زینہ ہامنز یہ اکھہ بوڈ فاندہ۔ وَاللّٰہِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیْرٌ یہ چھو اللہ  
 تعالیٰ تہ سوزی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ لہذا یہ خرچ کران آسو تہ آسو مخلو ص دل خرچ کران۔ محض  
 خدایہ سندہ رضا خیرہ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰہُ قَوْلَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰہَ فَقِیْرٌ تھین اللہ تعالیٰ ان بوڑہ پانہ  
 تمن لوگ ہنزہ تھہ تم ونان آس اللہ تعالیٰ چھو (نعوذ باللہ) محتاج۔ تمی چھو لوکن قرض منگان وَ نَحْنُ  
 اَغْنِیَاءُ اُس چھہ مالدار۔ بوڑس بیٹھے چھہہ اکتفا کران سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا بلکہ چھہہ اس لیکھتھہ  
 تھوان تہنزہ سمہہ سارے تھہہ تہندین نامہ اعمال منز وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقِّ یہ چھہ اس لیکھان  
 تہنزہ کامہ تہ کر توت۔ یک گنیہ ناوالاد تمن لوکن ہند سمو بیغیر چھہہ ناحق مارمت ہم یلہہ چھہہ منس منز تراوند  
 پِن وَ نَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِیْقِ اس ولوکھہ ژہو مزتہ دزبھہ عذابک۔ ذَلِکَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 اَیْدِیْکُمْ وَاَنَّ اللّٰہَ لَیْسَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعَبِیْدِ یہ عذاب چھو تمنی کا میں ہندہ بدلہ سمہہ کامہ پینہ نیوا تھو کرہ  
 مرہ چھوہ۔ اللہ تعالیٰ تہہ چھو ہندن نسبت ظلم کرہ ون تہہ طریقہ جزمہ وراى کیاہ دہبک سزا الَّذِیْنَ قَالُوْا  
 اِنَّ اللّٰہَ عَہْدُ الْیَتِیْمَا الْاَلْتُمْ مِنْ لِرَسُولٍ ہم بہو دگے تہہ لوک سمو اپز نور اوت ڈوپ کہ اللہ تعالیٰ

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ  
 وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۲﴾  
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا  
 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  
 الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ  
 زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

ان چھو اُسے بروٹھیں پیغمبر ان ہندہ ذریعہ حکم فرمواؤمت کہ اُس کرو نہ پڑھہ کانہ پیغمبرس توشتان  
 حاشی یآیتینا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ یوتان نہ سواسہ ہا وہ خاص مجڑہ سوگو خدایہ سدہ خیطرہ لیہ نذرو  
 نیاز کرنہ۔ تہہ قربانس یعنی نذرو نیازس گڑھہ آسماجہ طرفہ نارہ اون سوی کھیہ تہہ نذرس یعنی زالیس  
 قُلْ فرماؤکھ تہہ یارسول اللہ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ہزپاٹھہ آے توہہ کن واریاہ  
 پیغمبر مہ بروٹھہ نہ دلیلہ ہتھہ۔ وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ ہیہ سو مجڑہ ہتھہ تہہ سمیک تہہ مطالبہ کران چھوہ قُلْ  
 قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ادہ کیازہ مارو کھہ توہہ تم پیغمبر اگر تہہ پوزوان چھوہ۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ  
 فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ پس ہر گاہ توہہ تم لو کھہ تکزہب کرن کانہہ پرولمہ بروٹھہ یارسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیک تہہ بروٹھہ کی تہہ پیغمبر آے تم تہہ آو تکزہب کرنہ۔ یہ نو کتھہ کانہہ  
 ہتھہ۔ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ تم تہہ آس نہ دلیلہ ہدایت نامہ تہہ روشن کتابہ ہتھہ  
 آمت۔ ای لو کو توہہ مہ روز نو خیال دنیاعی منز ما چھوروزن نہ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پرتھہ  
 شخصہ ما چھومرہ نک مزہ تہہ ون یعنی پرتھہ اکس چھومرن۔ سمہ دنیاہہ اندرہ نیرن وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ  
 أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توہہ سارنی ہیہ پورہ پورہ بدلہ ونہ تہہ مزور ونہ پنہ نین پنہ نین کا مین ہنزہ۔ نیکن  
 رٹمزور نا فرمان سخت سزا۔ مگر قیامتگ دوہ۔ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  
 پس اُس تہہ دور ہیہ تھاونہ نارہ نشہ واتاونہ ہیہ جنتس منز۔ ہزپاٹھہ سوی سہد کامیاب تہہ رستگار۔ تسد

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْإِمْتَاءَ الْغُرُورِ ﴿۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي  
 أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا  
 وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۸۶﴾  
 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ  
 لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

مرا دسپد حاصل۔ بیٹھے پانچھ لیس جنتہ نشہ دور آوتھاوہ۔ جہنم منہ آوتراوہ سو سپد سخت ناکام تہ نامراد  
 وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْإِمْتَاءَ الْغُرُورِ۔ بیہ مہنہ یہ دنیا بچ زندگی مگر دھوکھک اکھ سوداہ سمیک  
 ظاہری رونق و چھتھہ خریدار تنبلان چھو۔ تو پتہ چھو سو چیز مثل ہیوان۔ کبہنہ دوہ گڑھتھہ چھو تھہ سو ماہیہ  
 دو تھان۔ تلہ کنہ چھو نہ سو کنہی آسان۔ بیٹھے مثال چھہ دنیا چہ زندگی ہنز۔ امہ زندگی ہند عارضی رونق  
 و چھتھہ گڑھتھہ نہ آخر تہ نشہ غافل سپدن لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ضرور ایو تہ  
 آزماوہ ای مسلمانو مالی نقصانہ سیت تہ جانی نقصانہ سیت وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ بیہ یوزو تہ ضرور آیندہ تمن لو کن نشہ تمن تو بہ برو تھہ  
 کتابہ آہ دنہ یعنی بہو دو نصاری ان نشہ بیہ مشرکن نشہ دل آزاری ہنزہ واریاہ تھہ سمو سیت تو ہی سیٹھاہ  
 تکلیف واریہ مگر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہر گاہ تہ تھہ پیٹھہ صبر کرو  
 خلاف شرع کامیو نشہ چھہ زوزو تہندہ خیطرہ چھوتی بہتر۔ کیا زہ یہ صبر تہ تقوی چھو تمبو کامیواندرہ  
 تمن ہند سیٹھاہ تاکید چھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تریس پادویلہ عمد کرنا  
 واللہ تعالیٰ ان اہل کتاب یعنی تمن کوزن حکم تو پتہ کور تمو تسلیم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ خُرو نر تراوہ سمہ  
 کتابہ ہند ساری مضمون واضح طور و اتا زہ تم لو کن وَلَا تَكْتُمُونَهُ ہر گز تھازو نہ امہ کتابہ ہند کانہ  
 مضمونہ کھٹھہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پس تر دو تمویہ عمد پس پشت اٹھہ پیٹھہ کر کھہ نہ کانہ عمل

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِهَا آتَوًا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ  
 يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۹۰﴾

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ کچھ یہ کتاب کم مونس بیچ نہ کہے تہ حقیقت چھہ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ  
 پس سیٹھاہ پیٹھ چھو تہ یہ سمواتھ زبون کیا زہ امیک سزا چھو نار جنم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِهَا  
 آتَوًا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا تہہ مہ ہز کرو خیال کہ تم لوکھ یم خوش سپان چھہ پنہ نین  
 چھہ کا مین پیٹھہ یہ چھہ پسند کران لوکھہ گڈھہ تہنن کا مین ہنز تعریف کرن سمہ نہ تمو کرہ مثرے چھہ  
 ہر مرہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ پس ہر گونہہ کردو تہہ گمان دنیاء اس اندر تہندہ خاص  
 عذابہ نشہ بیچ کیاہ چھہ کانہہ صور تھاہ بلجہ دنیاء اس اندر تہہ یہہ تمن عذاب کرنہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 یہہ چھو تہندی خطرہ ہڈر عذاب آخرت اس اندر وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 سزے سلطنت آسمان تہ زمین ہنز چونکہ سوی چھو پادشاہ حقیقی لہذا چھو لازمی تہ ضروری تہندہ حکم  
 گڈھہ مان۔ تہنن نافرمانی کرن چھو سخت جرم وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہہ چھو اللہ تعالیٰ پر چھہ  
 چیزس پیٹھہ قدر تہ وول تمس چھہ نافرمان سزاؤس پیٹھہ تہ پور قدرت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ پڑاٹھہ آسمان تہ زمین ہندس پیدہ کرنس اندر وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہہ  
 ڈہکس تہ راہکس یس گڈھہ صلس اندر چھہ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ضرور واریاہ دلیلہ تہ نشانہ خدیہ  
 سندس سوی آسس پیٹھہ عقلہ والین ہندہ خطرہ الَّذِينَ يَنْذَرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
 تم عقلہ وال تہ گائل لوک گئے تہ سم یاد چھہ کران معبود برحقہ سند پر چھہ حلس اندر۔ وودنہ روز تھہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹﴾  
رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ اَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ  
مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۰﴾ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي  
لِلْاِيْمٰنِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

تہ۔ بہتھ تہ لرتراوتھ تہ ویتفکرون فی خلق السموات والارض یہ تم فکر نہ تامل چھہ کران  
آسمان وزمینہ کس پیدہ کرنس اندر۔ درذکرو فکر مشغول روزت چھہ۔ وان تم۔ ربنا ما خلقت هذا  
باطلا اے سانہ پروردگارہ تہیہ کر تھکنہ تم مخلوقات پیدہ بے معنی تہ بیکار۔ بلکہ چھہ تم ساری  
چیز چاہے قدرت کاملچہ دلیلہ۔ تکی چیز چھہ دلالت کران چانس وجوؤس تہ وحدانتیس سُبْحٰنَكَ  
منزہ تہ پاک چھوک تہ کانہہ کام بے ہودہ کرنہ نشہ۔ اس چھہ اتھ بدل وجان اقرار کران فَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ پس بچاؤ اسہ موحد آسجہ وجہہ نارہ کہ عذابہ نشہ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ  
اَخْرَيْتَهُ اے سانہ پروردگارہ اس چھی تے نارہ نشہ سمہ موکھہ نجات منگان تہ تہ اٹھہ واتاوتہ ہن  
نارس پس بیشک سوکور تھن تہیہ سخت رسواتہ خوارتمہ عذابہ سبت وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ  
چھونہ ہرگز تھن ظالمن تہ نشہ کانہہ مددگارہ اٹھس چاہے امہ عذابہ نشہ بچاوتہ چھہ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا  
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمٰنِ اے سانہ پروردگارہ ہتھہ پاٹھہ اسہ چانیو مخلوقا تو سبت چانس  
وجوؤس تہ وحدانتیس پیٹھہ استدلال کوریتھہ پاٹھہ یوز اسہ بواسطہ یا بلاواسطہ آلودوہ وانا آلودوان ايمان  
گن اعلان عام کران کہ اے لوکو اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ انوا ایمان پنہ نس پروردگارہ سندس ذاتس تہ  
تھمدس صفتان فَاٰمَنَّا پس اُون اسہ ایمان امہ نقلی دلیلہ سبت تہ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اٰی  
سانہ پروردگارہ۔ وون کرتہ مغفرت اسہ سائنن بڈین گنہن وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا یہہ کر معاف اسہ



ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿۳۲﴾  
 رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْزُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ  
 عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَنِّي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي  
 وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا أَلْكَفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلُهُمْ  
 جَنَّةٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ

سان لوکٹ گناہ تہ و تَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ بیہ مارا سہ نیلو کارن سیت شامل تھوتہ۔ یعنی سون اندر کر  
 بر ایمان رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اے سانہ پروردگارہ عطا کر اسہ تمہ سارے مہربانی یمن  
 بند وعدہ کور تھہ ژ یہ پنے نین پیغمبرن ہندہ ذریعہ۔ وَلَا نَحْزُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رسوامہ گر اسہ قیامتک دوہ  
 نارس منز واتا ونہ سیت۔ اسہ واتا و ابتداء جنتس۔ ژ تہ چھوتھہ امیک وعدہ کور مت إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
 الْبِعَادَ پز پانٹھہ ژہ ہرگز وعدس بدل کر کھنہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ  
 مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَنِّي نہس اجابت کور تمہن تہند پروردگارن تہندس مگنس۔ فر موویکھہ یو چہوس نہ ضایع  
 کران تہ راوہ راوان کانسہ عمل کرہون سز عمل توہہ اندرہ۔ اُدہ سُو مرد آستن یازنانہ بَعْضُكُمْ مِّنْ  
 بَعْضٍ تہہ چھوہ پانہ وان اڈاؤین ہند جزو یعنی ثواب حاصل کرنس اندر چھوہ تہہ ساری برابر فَالَّذِينَ  
 هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا پس سہو لو کو ہجرت کر تم پنے نیو  
 شہر و اندرہ کڈنہ آئے۔ تمہن میانہ وتہ اندر ایدانہ تکلیف ونہ آو سہو مقابلہ کور کارن سیت تم مارنہ تہ  
 شہید کرنہ آئے لَأَلْكَفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور کرہ بہ تمہن بخشالیش تہندین تمہن گنہن یمن  
 میانین حقون سیت تعلق چھو وَلَا أُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بیہ واتا کھہ یو تم تمہن

اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴿۱۹۷﴾ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱۹۸﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿۱۹۹﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ

جنتن اندر سمومنز جو یہ پکان آسن کواکبا من عند اللہ یہ چھ تم خدایہ سندہ طرفہ تهنزن رثون عملن ہنز مزور و اللہ عیندہ حسن الثواب اللہ تعالیٰ سی نعمہ چھور رثون عملن ہند رت ثواب لا یغرتک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے پوزرہا نڈونہ بیٹھ نہ حض یہ دھوکہ دینی کافر ان ہند اورہ پورکران شہرن اندر دنیا ک تمتع تلان متاع قلیل یہ چھوزنگی ہند کم سامانہ۔ بے اعتبار کیندون دوین روزہ ون۔ مرنہ سیت گڑھہ یہ سورے ختم ثم ما و لهم جہنم چھ پتولا کہ چھ تهنزے جاعے نار جہنم۔ و بئس البھاد کاڑھ چھہ جایا ہ چھہ سکو لیکن الذین اتقوا ربھم لیکن تمولو کو اندرہ سم کھوژان خدائس پنہ نس تہ مسلمان تہ فرمانبردار سپدن لھم جنت تجری من تحتھا الانھار تہندہ خیطر چھہ تم تم جنت سمومنز جو یہ پکان آسن خلدین فیھا تمنی جنتن اندر روزن ہمیشہ۔ نزل من عند اللہ یہ چھ پیش کشاہ یوسہ تمن واتہ ونوی برونھ کنہ بیہ تھا ونہ خدایہ سندہ طرفہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار بیہ سم کیندہ ہا ہ خدائس نعمہ چھو نیکو کارن ہندہ خیطرہ تہ چھو بدر جماسیٹھا رت تمہ خوتہ یہ کافر نیا ہ چھو نیا اس اندر و ان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ بیشک بیہ چھہ اہل کتابو اندرہ ضرور کینہنہ لوکھ تم پڑھ کران چھہ کس خدائس وما انزل الیکم بیہ تمہہ یہ کیندہ ہا ہ توہہ نازل آو کر نہ وما انزل الیھم بیہ یہ کیندہ ہا ہ تمن لو کن ن نازل آو کر نہ خشعین باللہ سمہ طریقہ چھہ تم کھوژان خدائس کہ لا یشترون بالیت اللہ شتا قلیلا تم چھنہ بین اہل کتابن ہند پاٹھ

لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ أَمْهَجَ اللَّهُ أَعْمَهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

خدا کی سند کلام کم حقیقت مونس کنان اُولَٰئِكَ اَمْهَجَ اللَّهُ اَعْمَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تھے کیا ہجھہ تم لوکھہ بہنہز۔  
رژمزور ہجھہ ہندس پروردگار س نیشہ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ ہجھو جلد حساب بوزہ  
ون حساب بوزتھہ کرہ سوتھن مزور عطا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا صبر کرو تھلین پوتھہ  
مضبوط روزویلہ کافرن سیت مقابلہ کرو وَرَابِطُوا مُستعد تہ تیار روزو وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھوژو خدا انس  
پر ہتھہ حالس اندر۔ شریعتہ کیوحدونشہ مہ دلونکہ حالس اندر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تمی سیت سپدوتھہ کامیاب  
پر ہتھہ کامہ اندر۔ دنیاءس اندر تہ تہ آخرتس اندر تہ۔



سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَإِحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۝ اے لوگو کھوڑو اپنے نفس پروردگار سے مخالفت نہ نافرمانی کرنے یعنی الَّذِي  
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَإِحْدَةٍ ۗ تم بہت پیارے اور وہ کسی شخص سے یعنی حضرت آدم ۗ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
بہت پروردگار نے پیدا کر تمہیں شخص سے یعنی حضرت حوا سے پیدا کران حضرت آدم  
سزایا کہ نہ منزه و بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ۗ وَنِسَاءً ۗ بہت سے بچے اور عاقل منزه تمن دون نے مویہو  
نہ زمانہ بے شمار ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ بہت کھوڑو جس خدا جس سے مسند واسطہ دھتہ  
تہہ اگہ اس نے چھوہ پنے نین حق ہند مطالبہ کران یعنی ونان چھوہ پانہ وان کہ خدا جس کھوڑو میںون حق کر  
اد۔ دون یلہ تہہ چھوہ خدا جس کھوڑو نک تجویز کران لہذا اگر تہہ تہوند تہ پانہ جس کھوڑو۔ خصوصاً گھوہ  
آشنائی ہند حقوق ضایع کر نس تہ کھوڑو ۝۱ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ بیشک اللہ تعالیٰ چھوہ ہمیشہ  
توہہ پیٹھہ پورنگرالی کران۔ سو چھوہ ہند ساری حالات پانہ و چھان ۖ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ بہت آسواہی  
والیہ تہ سر براہو یتیم پنے نوی مال حوالہ کران تہ واپس روان ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ بہت مہ  
آسویں روی مال ہند رس رس ماس سیت بدلاوان ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ بہت مہ کھوہ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ<sup>۱۰</sup> وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۗ وَلَا تَوْتُوا

تہند مال ملہ ناوت پنہ نس ماس سیت۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ہر پاپٹہ بہ مال بدلاؤن چھو سیٹھا ہوؤ گناہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ بہ ہر گاہ تہہ کھو ژو یتیم کورین سیت نیتھر کر تہہ ماہیکو نہ اس تمن منز عدل و انصاف قائم تھاوتہ۔ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا تلہ گدھہ تہند ہکال کزن تمن یتیم کورین ورا ی بین زنان سیت سمہ توہہ خوش کر نوہ یزیتہ۔ تریہ۔ تریہ تہ۔ ژور۔ ژور تہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً پس ہر گاہ زہ زنانہ۔ تریہ زنانہ یا ژور زنانہ آسنہ کس صورتس منز تہہ کھو ژو عدل تہ انصاف بکایہ ہیکو نہ کر تہہ تمن منز سارنی معاملن اندر تیلہ گدھہ کسی زنانہ پیٹھہ اکتفاء کزن اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا کبیرہ بیٹھی۔ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا بہ یعنی کسی زنانہ پیٹھہ یا صرف کبیرہ پیٹھہ اکتفاء کزن چھو زیادہ نزدیک بیتھہ کتھہ کہ تہہ کردنہ بے انصافی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً بہ آسو ووان زنانن مہر تہند دلہ چہ خوشی سان۔ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا پس اگر تمہہ زنانہ پنہنہ خوشی سیت مہرہ اندرہ کا نہہ حصہ یا سوزی مہر تراون پس کھیو تہہ تہ تہہ تہ ضرر کہ اندیشہ ورا لی سو چھو تہندہ خیطرہ مزہ دار تہ خوشگوار جبر کر تہہ مہر بخشاونہ سیت چھونہ مہر معاف سپدان۔ تھہ پاٹھہ جعل سازی کر تہہ کا غدس پیٹھہ زنانہ ہند دستخط یا نیٹھہ کر نانہ سیت چھونہ مہر بخشش سپدان وَلَا تَوْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ اگر یتیم بالغ سپدن مگر تم آسن و نہ کم عقل تلہ مہ آسو ووان تمن کم عقلن سو مال پن۔ اَلَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرِزْقُوهُمْ  
 فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝  
 وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ  
 مِنْهُمْ رُسْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ  
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۖ

قِيمًا نِس مال عام طور اللہ تعالیٰ ان چھو بنوومت زندگی قایم تھاو تک اکھہ ذریعہ سوی تمن کم عقل  
 بکن اتھہ لھجہ تم کرن سُو ضایع تہ خراب۔ وَأَرِزْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ بیه آسیو کھہ تمہہ منزہ  
 کھیواو ان چاوان۔ بیه آسیو کھہ پُو شاک بناوان وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بیه آسیو کھہ زیوہ سیت  
 معقول طریقہ سیت فہما نیش کران تسلی دوان کہ یہ مال چھو تھندی۔ اس چھہ محض ایچ حفاظت کرنہ  
 خبطہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ بیه آسوتیمین آزمائش کران۔ تھندہ ذریعہ آسو بازہ کانہہ چیزانہ ناوان  
 تا اینکه معلوم آسہ سپدان تھندہ فہم وشعور کوت دوت حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یوتان تم تھتر کرنس  
 قابل سپدان آسن فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُسْدًا پس اگر تھہ لبو تمن منزہ صلاحیت مالچہ حفاظت کرنچ  
 فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اودہ دیو تمن مال پُتن یعنی کریو کھہ سپرد وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ  
 بِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا بیه مہ آسو مال تھندہ زیادہ خرچان، جلد جلد موکلاوان۔ سمہ خیالہ کہ تم  
 ماڈن تہ بالغ سپدن۔ پتہ پتہ نہ آسہ خرچنک تہ کھینک کانہہ موقع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ بیه  
 نِس ولیاہ تہ سر پر ستاہ مالدار آسہ سُرُوزن بالکل پاک یتیمہ سُنَد مال کھینہ نشہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
 بِالْمَعْرُوفِ بیه نِس سر پر ست فقیر آسہ سُو کھن چھین تمنہ منزہ مناسب طریقہ موجب فَإِذَا

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَٰسِبًا ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تَوْبَةً عَلَيْهِمْ يُهَيِّئُ اللَّهُ سُبُلًا ۚ وَاللَّهُ عَٰلِمُ  
 غُيُوبِهِمْ پس گواه تھا دیوگھ تم پر تمہے وکفی باللہ حسیباً کافی ہے جو اللہ تعالیٰ حساب ہیوہ و ن  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردن اده تم لوگب آسن یاڈ تہدہ خیطرہ  
 تہ چھ اکھ حصہ تہہ ماس اندر۔ لیس تراون پتہہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ تہہ پاتہہ چھو زمانن اده تمہ لوکچہ آسن یاچہ تہدہ خیطرہ  
 تہ اکھ حصہ تہہ اندر لیس تراون پتہہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 اده سوما لکم آسن یا زیادہ آسن نَصِيبًا مَّفْرُوضًا سارنی ہندہ خیطرہ چھو تہہ ماس اندر اکھ حصہ  
 مقرر کرنہ آمت خدایہ سندہ طرفہ۔ تہڈا گھہ نہ کانہہ تہ نہ مرد تہ نہ زانہ۔ نہ بوڈ تہ نہ لوگب تمہ حصہ  
 نِشہ خرؤم سن کرنہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ  
 فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ بیہ یلہ حاضر آسن سپدان ترگس تقسیم کرنکہ وقتہ آشنا یتیم تہ مسکین پس آسو  
 تمن کھن چین دوان تمی تر کہہ مہ مالہ منزہ۔ بیہ لکم اوس ابتداءس اندر۔ پتہ چھو نہ بیہ لکم رؤد مت یلہ  
 وراثتک صرح احکام نازل سپد۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بیہ آسو تمن سیت تہہ کران  
 مناسب طریقہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
 عَلَيْهِمْ بیہ گڑھہ کھوژن تمن لوگن ہند یتیم ہندہ حقہ تہندس تفصائل۔ زانن گڑھہ کہ ہر گاہ تمن

لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ①  
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا  
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ②  
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرَّمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِن كُنْ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

سر پرستن پنہر مہر وقتہ لوکت لوکت اولاد پانس پتھہ کن روزہ بہن تہندہ خیطرہ گزھہ فخر بہ غم تھاون۔  
متھوی معاملہ گزھہ یوزن پر بہتھہ تیمہ سندہ حقہ فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولاً سدیداً پس  
کھوژو اللہ تعالیٰ اس۔ بیہ وبو مفیدہ مرئو ط کلام إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا پز  
پاٹھہ تم لوکھہ تیمن ہند مال چھہ کھیوان ناحق ظلم و ستم کر تھہ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا تم  
چھہ مگر پنہ نین یڈن منز نار بران وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا بیہ واتن عنقریب تم دزہ ونس نارس اندر  
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللہ تعالیٰ چھو تو بہ وراثتک حکم فرماون تہندین اولادن ہندہ حقہ۔ کوہ کھہ  
پاٹھہ گرہ۔ وراثتہ منزہ بہن حصہ حاصل لِلَّذِ كَرَّمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ افس مردہ مند حصہ چھو دون زنان  
ہندس حصص برابر۔ بیلہ اٹھہ پٹو تہ زہ کو رہ آسن۔ سارس مالس سپدہ نصفاً نصف اٹھہ نصف گوپٹوس۔  
بیاکھ نصف گو دون کورین باگر تھہ۔ ہر گاہ پٹوس سیت آسہ اٹھہ کور تلہ یں مالس تریہ حصہ کرنہ زہ حصہ  
گے پٹوس اٹھہ حصہ گو کورہ۔ ہر گاہ پٹوی بیوت آسہ وارث تلہ گو سوڑی مال تمس وَإِن كُنْ نِسَاءً فَوْقَ  
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پس ہر گاہ پتھہ کن روزن کورہ زہ یادو یو خونہ زیادہ پس تہندہ خیطرہ چھو  
ساری مالہ کیو تریو حصہ اندرہ زہ حصہ۔ افس مال مرمت شخص پتھہ کن تروومت آسہ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً ہر گاہ اکے کور روزہ پتھہ کن فَلَهَا النِّصْفُ تمس ولتہ مالک نصف حصہ باقی گو یں آشانو تم  
حقدار آسن۔ وَلَا بُوَيْهٍ مردہ سندس مالس ماجہ ہند حصہ چھو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ



النِّصْفُ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
 كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑩ وَلَكُمْ  
 نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا

سمو دیو اندرہ پر پتھہ اکس والتر شیم حصہ۔ تمہ مالہ منزہ ہس مال مومت شخصن پتھہ کن تر وومت آسہ  
 ان کان لہ ولد ہر گے تس مومت شخص آسہ روومت اولاد تر فان کم یکن لہ ولد ہس ہر گاہ  
 تس اولاد آسہ نہ روومت وورثتہ آسہ وارث آسہ روومت مول موج فلأولئک الثلث تلہ گوماجہ  
 ترسم حصہ بانی گومالس فان کان لہ إخوانہ السدس ہر گاہ امس مردس آسن روومت بائی یابینہ  
 تر تلہ والتر ماجہ شیم حصہ بانی گومالس بین بامن نہ کنہی من بعد ووصیة یوصی بہا اودین یہ تقسیم یوسہ  
 بیان کرنہ آسہ کنیہ وصیت تر قرض ادا کرنہ پتہ ابائکم وانبائکم لاتدرون ایہم اقرب لکم نفعاً مال  
 تہند یہ پتہ تہند۔ توہ پتھہ کہنہ خبر کوہ چھو توہہ تمواندرہ زیادہ فاسیدہ تر نفع واتناوہ ون۔ ای خبر چھہ  
 خدایہ سی یاثر فریضۃ من اللہ تمی خدا این چھو پر پتھہ اکس حصہ مقرر کورومت ان اللہ کان علیما  
 حکیمنا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہ ون۔ سوی چھو حکمتہ وول۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم  
 یہ چھو تہندہ خیطرہ نصف تمہ مالک ہس پتھہ کن تراون تہنزہ زانہ ان کم یکن لہن ولد ہر گہ نے  
 تم روزہ اولاد فان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکن ہر گاہ تم اولاد روزہ پتھہ کن تلہ چھو تہندہ  
 خیطرہ روزہ ترسم حصہ تہندہ مالک ہس تم پتھہ کن تر وومت آسہ من بعد ووصیة یوصین بہا اودین یوسہ

أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
 تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً  
 وَوَلَةً أَخْرَأُتُ فَلِجُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ ط

تقسیم چھو تمہ وصیت پتہ یوسہ تمو کر مثر آسہ کانسہ ہندہ حقہ بیہ قرضہ ادا کرنہ پتہ **وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ** بیہ زمانن ہندہ خیطرہ ژور سم حصہ تہندہ مالہ منزہ ئس تہہ ہتھہ کن تراؤد ہر گاہے توہہ آسہ اولاد **فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ** ئس ہر گاہ توہہ ہتھہ کن اولادہ آسہ تلہ ولتہ تہنزن زمانن تہمدہ مالک اؤ تھم (۸) حصہ ئس توہہ ہتھہ کن تروومت آسہ **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ** سوی وراثت بیہ جاری کرنہ تہنزن وصیتہ قرض پورہ کرنہ پتہ **وَلَا تَرَكَتُمْ** کان رگاہ کانہہ شخصہ آسہ نہ مول مؤج آسہ نہ اولاد آسن **أَوْ امْرَأَةً** یا کانہہ زمانہ آسہ ئس نہ مول نہ مول مؤج تہ اولاد آسن **وَوَلَةً أَخْرَأُتُ** ئس آسہ یوی یا بینہ **فَلِجُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ** ئس چھو تمو دو ویو اندرہ پر ہتھہ آسندہ خیطرہ شتم حصہ **فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ** وون ہر گاہ تمہ خونہ زیادہ آسن تم تلہ چھہ تم ساری شریک آسن **تَرْتَمِسُ حَقُّنِ** اندر **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ** بیہ تقسیم تہ وراثت بیہ جاری کرنہ تمہ وصیتہ پتہ یوسہ وصیت کرنہ آسہ بیہ قرض تھہ واللہ **غَيْرِ مُضَارٍّ** مگر بیہ وصیت گزہ آسن تو ہی یوسہ نہ کانسہ وارثس ضرر و اتاؤہ۔ یعنی مالکہ تریمہ حصہ خونہ گزہ نہ زیادہ آسن۔ یوسہ وصیت ترسمہ حصہ خونہ زیادہ آسہ سو بیہ نہ جاری کرنہ **وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ** یوسہ حکم چھو خدایہ سندہ طرفہ **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ** اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہ وون تہ ژڈرہ وون۔ تمس چھو معلوم گہہ چھو میان حکم مانان تہ کہہ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴ وَالَّذِي  
يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ

پھونہ مانان۔ یہ مانن والین پھونہ سیتی سزاوان کیا زہ سوچھو حلیم تہ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اسم احکام  
پھہ خدایہ سند نشانہ بیونشہ گزہ نہ ڈن وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیس اکھاہ حکم مانہ خدایہ سند بیہ  
تہندس پیغبرہ سُنْدُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لیس واتا وہ خدا تمہن  
جنتن اندر یومو منز جو بیہ پکان آسن۔ تمنی جنتن منز روزن تم ہمیشہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیہ گنیہ  
بڈا کامیابی تہ رستگاری وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ لیس نافرمانی کرہ خدایہ سز بیہ تہندس رسولہ  
سز ویتَعَدَّ حُدُودَهُ بیہ ڈلہ تہند یوحدونشہ۔ مساوی زانہ یمن حدن ہنزا بندی کرن سوگو گھر۔  
تمیک سز اچھو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا لیس واتا وہ خدا نار جہنم اندر ہمیشہ خیطرہ وَلَهُ عَذَابٌ  
مُّهِينٌ بیہ پھو تہندی خیطرہ ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بیہ  
سمہ زانہ پھہ کامہ کرن تہنز و منکوہہ زنا نواندرہ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ لیس رٹو  
تہن تمن پیٹھہ ژور گواہ مسلمان فَإِنْ شَهِدُوا پس یلہ تم ژور گواہ گواہی دن تہنزہ پھہ کامہ پیٹھہ  
فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا لیس کر یوکھہ تمہ  
زانہ بند کرن اندر یوتان تمہ مر ن یا فرماوہ اللہ تعالی تہندہ خیطرہ ہیکھہ حمماہ۔ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ

سَبِيلًا ۱۵) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَهَا مِنْكُمْ فَادْوُهُمَا فَإِنَّ تَابَا  
وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۱۶)  
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ  
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ ۱۷) وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۸) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ  
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الثَّنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

بہ ایم زہ شخص مردہ زانہ پچھ کوم کرن توبہ اندرہ فَادْوُهُمَا پس و اتاودو تکلیف تمن  
اتھوسیت تہ کتھوسیت۔ فَإِنَّ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس ہر گاہ تمہو توبہ کور۔ پن  
حالت درست کرکھہ پس تراودو تمن تکلیف و تک خیال۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا پڑپاٹ اللہ تعالیٰ  
پچھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ تم احکام آس حد زنا نازل سپد نہ بروٹھہ إِنَّمَا  
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ توبہ قبول کرن پچھو  
نہ مطہ اللہ تعالیٰ آس پیٹھہ مگر تمن لوکن ہند توبہ تم پچھہ کوم کرن نادانی سببہ توبہ کرن تمہہ پتے توبہ یعنی مرتکب  
وقت واتنہ بروٹھہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس تہندوی توبہ کرہ اللہ تعالیٰ قبول  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ پچھو سوزی زانہ و ن تہ سیٹھا حکمتہ و ول۔ تم پچھہ پور خبر کم  
چھہ دلہ کن توبہ کران تہ کم چھنہ بصدق دل توبہ کران۔ تہند حکیم آس گوکہ سو پچھونہ بصدق دل توبہ  
کروئین مندہ چھاوان تہ رسوا کران وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ بہ چھونہ توبہ  
قبول سپدان تمن لوکن ہند تم پچھہ کلمہ روزن کران حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي  
تُبْتُ الثَّنَ یوتان تمن مرتک وقت واتنہ عالم آخر تک چیز نیکھہ بوزنہ تمہہ ساتہ و پن اس چھہ توبہ

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۸  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَّبُوا بِبَعْضٍ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۱۹ وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا

کران وون۔ تمہے ساتھ توبہ چھو نہ قابل قبول ولا الذین یموتون وھم کفار بیہ چھو نہ تمن لوکن ہند توبہ قبول تم مران ہنس پٹھ۔ اولیک اعدنا لھم عذابا الیما تم لو کہ ہم چھہ تہندہ خیطرہ چھو اسہ تیار تھوومت کڈر عذاب یایھا الذین امنوا لا یحل لکم ان ترتوا النساء کرھا ای بایمانو ہرگز چھو نہ توبہ جائزہ حلال تہہ کیاہ سپد و جبرأتہ زبردستی زنانن ہند وارث ولا تعضلوھن بیہ مہ آسیو کہہ زنانہ ہند کران لیتن ہبوا ببعض ما اتیتموھن بیٹھ تہہ وصول کمر و تمہ مالہ اندر کہہ نہ ئس توبہ تمن دیتمت آسوہ الا ان یاتین بفاحشہ مبینہ مگرے تمہہ کانہہ تمن چھہ کاماہ کرن تلہ چھو تہہہ خیطرہ تمہہ بند کرہہ جائیز ہنجر سوما ل وصول کرن ئس توبہ تمن دیتمت آسوہ چھو نا جائز ہند ستور وعاشروھن بالمعروف بیہ آسوزنانن سیت زندگی بسر کران رت پاٹھ۔ فان کرھتموھن ئس ہر گاہ توبہ تم ناپسند آسن فعسی ان تکرھوا شیئا ئس ممکن چھو ئس چیز توبہ ناپسند آسہ ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اللہ تعالیٰ تھاوہ تھہ اندر تہندہ خیطرہ واریاہ خیرتہ برکت وان اردتم استبدال زوج مکان زوجہ ہر گاہ تہہ ارادہ کمر و اگس زنانہ بدل بیاکھہ زنانہ کرن یعنی اکھ موکلاون ئس بدل بیاکھ کرن وایتتم احدھن قنطارا تھہ حاس اندر ہر گاہ تموزنانواندرہ کانہہ واریاہ مال آسوہ دیتمت فلا تخذوا منھن شیئا ئس بیٹھہ تمہہ مالہ منزہ واپس ہوان آسیو کہہ کینہہ اتاخذونہ بہتانا و انما مبینا کیاہ ہیو کہہ سوما ل واپس ظلم کمر تھہ۔ ہن پان بدس ظلمس گرفتار کمر تھہ۔ تہ گھہ نہ ہرگز کرن و کیف



الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذُنُوبًا حَرَامًا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٦﴾

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ بیه چھو حرام توبہ۔ تمن بین سیت نکاح کرن سیمہ دود چینہ سببہ تهنز پینہ آسن سبز مثره یعنی توبہ آسوه تهنزن حقیقی ماجن ہند دود چومت یا دودہ ماجن ہند دود چومت یا آسہ تمہو تهنزن حقیقی ماجن یا دودہ ماجن ہند دود چومت وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ بیه آہ حرام کرنہ توبہ تهنزن زنانن ہنزہ ماجہ یعنی تهنزہ ہمشہ، ماسہ ہمشہ تہ پوپھہ ہمشہ۔ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بیه آہ حرام کرنہ توبہ تهنزن تمن زنانن ہنزہ کورہ تمن سیت توبہ خلوت صحیحہ کورمت آسہ۔ بیه کورہ تہہ رجھان چھووکھ سیمہ کورہ تمن برو تھین خاوندن ہنزہ آسن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس ہر گاہ تہہ آسونہ تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت تلہ چھو نہہ کانہ حرج تهنزن کورین سیت نکاح کرنس۔ کیاہہ صرف نکاح یعنی ایجاب و قبول سیتی چھنہ زنانہ ہندین اصول و فرو عن ہنزہ حرمت سپدان۔ بلکہ چھہ حرمت سپدان خلوت صحیحہ سیت وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ بیه چھہ حرام توبہ پیٹھہ تهنزن پنچوین ہنزہ منکوہہ زنانہ بیه تمہہ زنانہ یکن سیت تھند یو پیٹو یو ناجائز طریقہ ہمستری کر مثرہ آسہ۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ بلکہ تمن پنچوین ہنزہ زنانہ چھہ توبہ پیٹھہ حرام تمہچو توبہ پینہ پشتک آسن۔ منکھ پنچوین ہنزہ زنانن سیت نکاح کرن چھو جائز۔ یلہ نہ تمہہ زنانہ تھندس نکاح اندر روزن منکھہ طریقہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بیه آو حرام کرنہ توبہ پیٹھہ دون بینین سیت یکہ وئہ نکاح کرن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ کنیوہاہ امہ قسمہ اسلام انہ بروٹھہ گذر یومنت چھو تھہ سارسی چھو عفو۔ آیندہ خیطرہ گڑھہ احتیاط کرن إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۲﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ  
 طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ

کرهون سیٹھاہرم کرہون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بیہ بھو حرام آمت کر نہ توہر پیٹھ تمہن زنانہ  
 سیت نکل کرن یمن خاوند موجود آسن إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مگر نہ تمہہ زنانہ یمن تہہ مالک سپدو۔  
 بیہ تہنہہ کینزہ سپدن تہہ خاوند زندہ تہہ آسن دار الحرب بس اندر۔ تمہہ ہتھ حلال کِتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سنی  
 احکام ہتھ لیکھمت اللہ تعالیٰ ان توہر پیٹھ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ بیہ آیہ حلال کر نہ تہنہہ خپترہ تمہہ  
 سارے زنانہ سیمہ سموز ناوورای ہتھ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ایکنہ ژھانڈ یوک تہہ تمہہ زنانہ پنہ نیو  
 دیار و بدل مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ درحالیتم گنہہ نشہ بچہ ون آسوں۔ گنہہ ون آسونہ یعنی باقاعدہ  
 ایجاب و قبول کثرت مہر مقرر کثرت دون شاہدن بروٹھہ کنہہ بیہ نکاح کر نہ فَمَا اسْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ  
 ہس تموز ناو منزہ تمہن نشہ توہر نفع ملوہ یعنی نفع خواہش پورہ کثروہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ہس دیو  
 تمہن تہنڈ مہرہ ہس مقرر کر نہ آمت بھو وَاكْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بیہ بھونہ  
 توہر کانہ گناہ تھہ چیزس پیٹھ ہتھہ پیٹھ ہتھہ باثرہ پانہ وان راضی سپدو۔ عقد نکاحہ وزہ کانہہ چیز مقرر کر نہ  
 پتہ۔ زیادتی کر تو یا کسی کر تو کثرت چیزس منز تمیک بھو توہر اختیار إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا پڑ پائھ اللہ  
 تعالیٰ بھو سو روی زنانہ۔ ہس بھو معلوم تہنڈ فائدہ تہہ نفع تھہ چیزس منز بھو۔ تمہی مناسبہ بھو سو  
 احکام تہنڈہہ خپترہ جاری کر ان سو بھو سیٹھاہ حمتہ وول۔ حکمت بھو سو احکام پن توہر پیٹھ مقرر کر ان  
 اگرچہ توہر متہ ترش فکرہ۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بیہ ہس اکھاہ



فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ  
فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ  
غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ  
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  
لِئِن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

یعنی نہ توہمہ اندرہ ایمان آزاد زانہ سیت نکاح کثرت **فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ** یہیں کثرت نکاح کا نسخہ ایمان کیزہ سیت یوسہ کا نسخہ مسلمانہ سن کیزہ آسہ۔ کیا زہ کیزہ ہند مہر چھو آزاد زانہ ہندہ خوتہ کم آسان۔ کیزہ سیت نکاح کرنس منز گھنہ عار زان **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ** اللہ تعالیٰ سی چھ پور خبر تھندہ ایمانچ۔ ممکن چھو سنو کیزہ آسہ ایمانکے اعتبارہ تھندہ کھوتہ بہتر۔ تمیک پور علم چھو اللہ تعالیٰ آس۔ پس رود نسخہ اعتبارہ تھہ منز چھو توہمہ **بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ** اڈا این ہند جزو۔ ساری برابر کیا زہ سارنی انسان ہند اصل چھو حضرت آدم تہ حضرت حوا علیہا السلام۔ وون یلہ معلوم سپد عار گھنک چھو نہ کانہہ وجہا۔ لہذا گھو ضرور سچہ وقتہ کیزہ سیت نکاح کرن **فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ** پس کثرت نکاح کیزہ سیت بشر طیکہ تھندین ماکن ہند اجازت کرو حاصل **وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** بیہ دیو تمہ تھند مہرہ قاعدہ موجب **مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ** در حالیہ تمہ کیزہ آس پانس راجھہ کرہ وین پانھہ۔ چھہ کامہ کرہ وینہ آس نہ۔ نہ آس دوستی تہ یار زلا گویہ کانہہ سیت یعنی ڈورہ پانھہ چھہ کامہ کرہ وین آس نہ **فَإِذَا أُحْصِنَ** پس یلہ تمہ کیزہ۔ نیتھر گر اکنہ بن **فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ** پس ہر گہ تمہ پتہ تمہ کانہہ چھہ کامہ کرہ **فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ** پس چھو تھند سزا تمہ سزا اک نصف پس سزا مقرر کرنہ آمت چھو نیتھرہ گر اکنہ آزاد زانہ ہند۔ **ذَلِكَ لِيَأْخِشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ** یہ کیزہ سیت نکاح کرن چھو تھندی خیطرہ تمہ بے نکاح روز محس حالتس اندر چھہ کامین منز بتلا سپد نگ خطرہ آسہ توہمہ اندرہ **وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** ہر گاہ

رَحِيمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

جہ صبر کمر دیتے ہو، بہتر تہندہ خیرہ۔ تمہے سیت سپدہ راجہ تہندس نلس غلام بنہ نشہ۔ نتہ ہر گاہ صبر کمر ونہ کینزن سیتی کمر ونکاح تلہ بن تہند اولاد غلام کس شخصہ سند تم سنز سو کینز آسہ ۛ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۛ اللہ تعالیٰ بھو مغفرت کرہ ون۔ رحم کرہ ون تمن تم نہ تاب تمین کمر تہ۔ مجبور سپد تہہ کرن کینزن سیت نکاح یُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۛ یژہان بھو اللہ تعالیٰ وارہ نزاوتہہ توبہہ حلال و حرامک احکام بیان کرن ۛ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۛ بھو توبہہ ہوان و تہہ تمن اہل حقن ہنزیم توبہہ برو تہہ آس، تمن ہند قصہ بیان کمر تہہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۛ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۛ بھو بھو سو بر حمت متوجہ توبہہ کن۔ اللہ تعالیٰ بھو سیٹھاہ علمہ وول سیٹھا حکمتہ وول ۛ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۛ اللہ تعالیٰ بھو یژہان کہ توبہہ دیہ توفیق توبہہ کرنک تہ تہند توبہہ کرہ قبول۔ ۛ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ۛ مگر تم لو کہہ پیروی بھہ کران نفسہ چن خواہش تم بھہ یژہان ۛ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۛ ایجہہ تہہ ذلو سیرہ وتہ نشہ۔ خدلیہ سند یو لکم ونشہ وکہہ پاتہہ یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۛ اللہ تعالیٰ بھو یژہان احکامن اندر توبہہ پیٹہہ بور لوژراون ۛ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۛ انسان بھو پیدے کر نہ آمت کمزور۔ توتے آس نہ اس پیٹہہ تہہ احکام فرض کر نہ یم نہ سو برداشتی کمر تہہ بیجہ ہا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۛ ای با ایمانومہ کہیو مال کہہ اکند ناجایز طریقہ پاتہہ، سودہ پاتہہ، غصبہ پاتہہ تہہ دھوکہ پاتہہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۛ لیکن ہر گاہ پانہ وان رضامندی سان تجارت کمر ونس شریعتہ کیو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>۲۸</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
 فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>۲۹</sup> إِنْ  
 تَجْتَبَوْا كِبَارًا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ  
 مُدْخَلًا كَرِيمًا<sup>۳۰</sup> وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>۳۱</sup>

اصولومطابق آسمه تنهنه چهنونه كانهه خرج وَلَا تَتَّبِعُوا أَنْفُسَكُمْ بيه مه كريد كه ماره پن پان۔ یعنی توهه  
 كامه مه كمر و سمو سبت نهه قتلک سز او ار سيد و إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا به پيا نهه الله تعالى چهو بيمشه توبه  
 پي نهه رحمته دول وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا بيه نهس كهاه سم چيز كره سمو نعيه  
 ممانعت آيه كرنه سر كشي ته ظلمه كن۔ نهس جلدي واتا وون آس سونارس اندر وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
 يَسِيرًا به چهو الله تعالى اس نهه سهل ته آسان إِنْ تَجْتَبَوْا كِبَارًا تَنْهَوْنَ عَنْهُ اكي لوكو هر كا نهه  
 نهه روزو بډيو ممنوع چيزو ته بډيو گهنو نهه بيه كمر ور نهه عمله نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بخشايش كزو آس  
 تهندين لوكين گهنن وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا بيه واتا ووه اس نهه عزت نهه جا به منز سو گيه جنت  
 وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بيه مه كمر و آرزو ته تمنا نهه ساري مرد ته زاننه تمه كنه  
 چيز ك بيه سبت فضيلت دنه آو توبه اندر ائين يعني مردن ائين پي نهه يعني زنانن پي نهه۔ مثلامرد آسن يا  
 مردن دو گن بوگ آسن يادون مردن هنز گوا بهي مكممل آسن كيازه لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا  
 مردن هنده خيبره ههه تمن عملن هنز مزدور ته ثواب مقرر آخرتس اندر سمه تمو كره مره آسن۔  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ زنانن هنده خيبره ههه تمن عملن هنز مزدور ته ثواب مقرر آخرتس  
 اندر سمه عمله تمو كره مره آسن۔ آخرت نهه جناتك دار و مدار چهو عملنه پي نهه۔ تنهه منز نهههه خصوصيت  
 كانهه هنده خيبره۔ نهس نههه رت كره دنيا س اندر نههه رت ليه سو آخرتس اندر۔ تمنا كرنه سبت كياه  
 نهه۔ بلحم پزه وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ در خواست كرن ته مكن الله تعالى آس جهنن فضل۔ سوي كنده جهنن

وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۶ وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۳۷  
 الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

ساری مطلب تہ آرزو۔ یہ سہ نازل یلہ زناؤ تمنا کور اس تہ ہے مرد آسہو آسہ تہ بہہ ہامردن ہنز ہش  
 مزور تہ حصہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو پر پتھ چیزا ہ پور زانہ ون وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ پر پتھ کتہ مالہ خیطرہ ہس مال پتھ کُن تراون مول مؤج تہ  
 رشتہ دار کور آسہ مقرر تمہ مالک وارث تمن ہند بیان کرنہ آو۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ وون رو دباقی  
 تم لو کہ تمن سیت توہہ معاہدہ کور مت آسہہ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ پس دیو تمن پن حصہ یعنی شیم حصہ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو پر پتھ چیزا ہ پتھ گواہ۔ پر پتھ چیزا ہ چھو پانہ  
 وچھان۔ یہ حکم اوس ابتداء اس اندر۔ پتہ چھو یہ حکم منسوخ آنت کرنہ بآیہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ - الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مرد چھہ حاکم پتھاول زنان پتھہ دیو وچھو بِمَا فَضَّلَ  
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اکہ سہہ مو کہ کہ اللہ تعالیٰ ان چھو قدرتی فضیلت دیشتت اڈین، اڈین پتھہ  
 یعنی مردن زنانن پیٹھہ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بیہ سہہ مو کہ کہ تمو مردو چھو خرچ کور مت پن مال  
 تمن پیٹھہ۔ مرس من زنانن و نفق منز۔ لہذا چھہ زنانہ محتاج مردن کُن۔ خرچ دیو وون سندا تھہ چھو بلند تہ  
 تھو دتسہہ اتھہ خو تہ پس خرچ دنہ بیہ۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ پس سہہ زنانہ نیک تہ رتہ  
 پتھہ مردن ہندس فضیلتس کُن نظر کر تھہ تہنز فرمانبرداری کران۔ تمہہ پتھہ مردن ہندہ بروٹھہ کنہ نہ  
 آسہہ کس صورتس منز پنہ نس پانس تہ مردہ ہندس ساری ماس راجھہ تہ حفاظت کران۔ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور تم نے اسے شریک نہ کرنا۔ چاہے تم نے اپنے آپ کو کچھ سے بڑا سمجھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کیا ہے جو تمہیں حق تو ہے مگر ہندو حفظ ملک امر کورمت مردن وَاللّٰہِ تَخَافُوْنَ شُرُکُہُمْ ہندو روزہ تمہارے زمانہ تمہیں ہندو نافرمانی ہند توہمہ اندیشہ آسہ فَحَظُّوهُنَّ لیس کسے گوڑہ تمن زبانی نمایش تہ نصیحت وَاھْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ تو پتہ کریو کھ الگ ہستہ و نغہ۔ یعنی پانس نشہ مہ دیو کھ شو کھ وَاضْرِبُوهُنَّ تو پتہ لایو کھ۔ مگر تھوی سمہ سیت نہ زخم لیکھ یا کانہہ تان پھٹیکھ۔ اعتدالہ سان۔ اچھہ منز چھہ ترہ درجہ (۱) نافرمانی ہندہ خوفہ تہ اندیشہ وقتہ گیہ نمایش (۲) نافرمانی ظاہر سپد بھہ وقتہ کبیرہ جدائی و تھرس اندر (۳) گرہ گرہ نافرمانی کرس پیٹھہ گوادہ لائن وَإِنْ أَطَعْتَكُمْ پس ہر گاہ تہنز فرمانبرداری کرن فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لیس مہ تھلڈ و تمن ناحق ظلم کرنے خیطرہ کانہہ و تھاہ تہ بہانہہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا پتہز پاٹھہ اللہ تعالیٰ پھو سیٹھہ تھو دہ بوڈ۔ تمہد علم تہ قدرت چھہ سیٹھہ بڈ۔ اگر تہہ تمن زنانن ناحق تکلیف واتھو وہ تیلہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ تہ توہمہ پننہ نافرمانی کرنے موکھہ گرفتار بلا وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا پس ہر گاہ کھو ڈو تہہ اے حاکمو یا سر پرستو تمن دون باژن ہندس زیادہ مخالفتس کنہ قسمہ اصلاح نہ سپد نس فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تیلہ سوزیو کھ تہہ مردہ سند یو رشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ ہند یو رشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ تمن صح قابلیت آسہ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ہر گاہ تم دو شوے فیصلہ کرہ و ن سودلہ اصلاح سپد ن آسہ ریشھان اللہ تعالیٰ دیہ توفیق ملہ ژار کر نک تمن دون باژن اندر إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا پز

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ  
 بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ (۳۶) ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ  
 النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ (۳۷) ۝ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ

پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سو روی زانہ دن۔ سارچی خبر تھا وہ دن و اعبُدُ واللہ و لا تُشْرِكُوا بِہِ شَيْئًا  
 بیہ کمر و عبادت کنش خدایہ سنز۔ بیہ مہ ٹھہر او یوس شریک کا نہ چیز اداہہ سو انسان آستن یا غیر انسان  
 نہ عبادتس اندرنہ تمسرد یو خاص صفتو اندرہ کنہ صفتس اندر۔ سو زانیون شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ کمر و مالس ماجہ نسبت احسان یعنی رت معاملہ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ بیہ کمر و  
 احسان آستان سیت وَالْيَتَامَىٰ بیہ یتیم سیت وَالْمَسْكِينِ بیہ مسکین نسبت وَالْجَارِ ذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ بیہ نزدیک ہمساین تہ دور ہمساین نسبت وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ بیہ تس  
 رفیقس نسبت لُحس بچھہ ہبہ بہتھ آسوہ وَأَبْنِ السَّبِيلِ بیہ مسافرس نسبت وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 بیہ علامن کیمزن نسبت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران تس  
 لُحس متکبر آسہ دلہ کن آسہ پن پان بوڈ زانان۔ بین آسہ نچہ نظرہ و چھان تھیہ دن آسہ۔ زیوہ سیت  
 آسہ پن تعریف پانے کران۔ ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بیہ تم گے تم پانہ بخل  
 کران چھہ بیہ چھہ لوکن تہ خٹک تجویز کران وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بیہ چھہ کھٹت  
 تھاوان تہ یہ کیخہ ہاہ تم اللہ تعالیٰ ان عطا کورمت چھو پنہ فضلہ سیت۔ سو گو مال یا نعمت حضرت پیغمبر آخر  
 الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہود آس تم دو شوے چیز کران وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا  
 بیہ چھو آسہ تیار تھومت یتیم ناسپاس کافرن ہندہ خیطرہ ذلیل کرہ دن عذاب وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ وَمَا ذَا  
 عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ  
 حَسَنَةً يَضْعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ  
 إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ بے تم لوک یم مال پین خرج کران چھہ لوکن ہاونہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 بے چھہ ایمان انان کنس خدایس وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بے چھہ پڑھ کران پتمس دوہس یعنی قیاس  
 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا بے تمسند رفیق تہ دوست شیطان آسہ۔ پس سیٹھاہ پچھہ  
 چھو تھند دوست سو چھو تمن کاین ہند مشورہ دووان یکن کاین ہند سخت ضرر پچھو وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ  
 بے کیاہ سنا نقصان گڑھہ ہاتمن کافرن لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تم ایمان اند ہن پڑھ کرہ ہن  
 کنس خدایس بے قیامتہ کس دوہس وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بے کرہ ہن خرج سومال بس اللہ تعالیٰ نے  
 دیمت او سچھہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس آس گوڈہ بیٹھہ بھندہ نیک و بدج پور خبر۔ تمی  
 موجب دیکھ سزا إِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ ظلم کران کانسہ اکس ذرس  
 برابر و ان تک حَسَنَةً يَضْعَفْهَا بلکہ چھو تیوت رحمتہ وول کہ ہر گاہ با ایمان بندہ سنز آسہ اکھ نیکی  
 تھہ چھو اللہ تعالیٰ تمس واریاہ گن زیادہ ثواب عطا کران۔ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے چھو پینہ  
 طرفہ بطور انعام عملن ہندہ معاوضہ و رای بڈمزور عطا کران۔ فَكَيْفَ إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ  
 پس کیاہ سنا حال سپدہ تمن کافرن ہند تمہ وقتہ سمہ وقتہ اس حاضر کروکھ پریٹھہ انجھہ طرفہ اکھہ اکھ گواہ۔  
 یعنی پین پین پیغبر وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تھہ تہ انوہہ تمن پینہ نین امتین ہند گواہ یار رسول اللہ  
 يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ كُفُّوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ كُفُّوا  
 كُفُّوا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ كُفُّوا يَوْمَئِذٍ كُفُّوا

يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسْوَى  
 بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا  
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  
 الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

کہ تمنا کرن کافر بیہ سہو نافرمانی کر پیغمبر برحقہ سز ہر گئے تم زمینس مزد و برت۔ تم پٹھہ بیہ با زمین ہموار کرنہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا مگر تمہ سیت ماندیکہ کہہ پروردگار س نشہ بیکن نہ تم کا نہ تھاہ ژورہ تھاوتھہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اے بالیمانوتہمہ آسو مستی تہ بے ہوشی اندر نماز پران۔ بلکہ آسو ٹھہران توتان یوتان توبہ ہوش آسہ یوان۔ تہ زان آسہ توبہ تگان کہ تہہ کیاہ چھوہ نمازہ منظر پران۔ یا گو مطلب نماز پر چرچہ جاہ مہ آسو نزدیک سپدان در حالت سکر و بیہوشی۔ یعنی مسجدن منزمہ آسو اذان اتھہ حاس منز۔ (پہ آہہ کریمہ چھو شراب حرام سپدنہ بروٹھہ نازل سپدنہ) وَلَا جُنُبًا بیہ مہ آسو بے غسلی ہندس حاس منز نماز پران إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ مگرے ٹھہرنہ ورا ی فقط چکن آسوہ مسجدہ منز حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا یوتان نہ غسل کران آسو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ بیہ ہر گاہ تہہ بیمار آسو بیٹھہ بیماری اندر آب استعمال کرن مضر آسہ ٹھہندہ خیطرہ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا آسو مسافر اوجاء احدًا منکم من الغائط یا بیہ توبہ اندرہ کا زخماہ بیت الخلاء نشہ فارغ سپدت، فضلات دفع کتر تھہ۔ أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ یا سپدہ تہہ نزدیک زنانن نشہ سمہ سیت غسل پٹھوہ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً کس لبونہ تہہ آب سمہ سیت غسل یا طہارت کتر ہو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کس قصد تہ ارادہ کتر و تہہ پاک میوہ ہند فامسحوا بوجوهکم کس اکھ ژنڈ دنہ پتہ دیو پٹش تھین پنہ نین وَايِيكُمْ دویم ژنڈ دتھہ دیو پٹش زین پنہ نین اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا



صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسْحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۳۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ  
 يَشْتَرُوْنَ الصَّلٰةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۳۴﴾ وَاللّٰهُ  
 اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفِيْ بِاللّٰهِ وَلِيًّا ؕ وَكَفِيْ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۳۵﴾  
 مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَ  
 يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا عفو کرہ و ن سیٹھا مغفرت کرہ و ن۔ پس پروردگار سند شان یہ چھو، سو چھو  
 بندن پیٹھ سہل احکام نازل کران پس شخص نشہ آب دور آسہ آسہ میلن تس چھہ تہتم کر تک  
 اجازت۔ اده سو مسافر آستن یا مقیم آستن شرعی میل گوژور ساس اتھ یعنی زہ ساس گز اَلَمْ تَرَ اِلَى  
 الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ آیا وچھان چھوہ تا تمن لو کن کن سکن کتابہ منزہ یعنی تور ایچھہ علمہ منزہ  
 اکھ حصہ آودنہ یعنی یہ چھہ بنظر تعجب و تھنس لائق اکھ کتھاہ يَشْتَرُوْنَ الصَّلٰةَ مثل چھہ ہیوان تم  
 گرا ہی یعنی کھر چھہ اختیار کران وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ پانہ آس تم ڈلیتی مگر تم چھہ  
 یڑھان تہہ تہ گڑھو گراہ سپد تھہ سیزہ و تہ نشہ ڈن۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس پور  
 معلوم تھندین دشمن ہند۔ یعنی تھند دشمن کم چھہ توے چھو سو توبہ آگاہ کران وَكَفِيْ بِاللّٰهِ وَلِيًّا كَافِي  
 چھو اللہ تعالیٰ تھند دوست تہ رفیق وَكَفِيْ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا اللہ تعالیٰ چھو کافی تھند مددگار من الَّذِيْنَ  
 هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا تمکن ہنز ذکر کر نہ آسہ تم چھہ بہو دو منزہ۔ سم تغیر دو ان  
 چھہ توراتہ کین معاملاتن۔ ڈالان چھہ تمن کلماتن پنہ نیو حالو نشہ۔ معنیو تہ مطلوبو نشہ وَيَقُوْلُوْنَ  
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا بیہ چھہ و نان بوزاسہ کھو سیت مگر مون نہ آسہ کھنہ۔  
 بوز تہہ بوزانہ مہ ایوبہ کھر و سون رعایت لیکاً اَلَيْسَتْ لَهُمْ سے چیز چھہ و نان زیو پن گول مول  
 کھر تھہ۔ لہجہ بد لاو تھہ۔ لہجہ تخفیرہ بدل لہجہ توقیر کھر تھہ تھنہ لوکن فکرہ ترہ و طعناتی الدین بیہ دین

لِيَايَا السِّنْدِيَّةِ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سِعْنَا  
 وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۚ  
 لَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ امْنُؤْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا  
 مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَنْطَسَ وُجُوهُهَا فَذَرُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا

اسلامس طعنه زنی کمر تھے۔ سم الفاظ آس سم یہود استعمال کران یمن زہ زہ معنی چھہ۔ آکھ معنی  
 تعریفک۔ بیاکھ معنی مذمتک مسلمان دُھوکہ دنہ خیطرہ۔ مسلمان آس تعریفک معنی مراد یوزان۔ مگر  
 سم آس پنہر جلیہ مذمتک معنی نوان۔ لفظ راعنا چھو رعایہ اندرہ تہ رعوتہ اندرہ تہ۔ صحابہ صیب آس  
 رعایتک معنی یوزان۔ مگر سم یہود آس پنہر جلیہ رعوتک معنی یوزان۔ بیاکھ معنی چھو آتھ ”پہل سُد۔  
 تمہہ خیطرہ آس تم شیخ زیز یٹھرات پران راعینا یعنی ای سانہ پہلہ۔ گجہ راجھہ۔ امی سیت آس طعنے  
 دوان۔ نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم گجہ راجھہ دنان۔ بیہ آس دین اسلامس تہ طعنے دوان کہ یہ چھو  
 آس گجہ راجھہ سُد دین۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان **وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سِعْنَا وَأَطَعْنَا** ہر گاہ سم دنہ ہن یوز  
 آسہ بیہ مون آسہ **وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا** یوزوحس سون۔ سانس حاسل کن کمر و نظر لکان خیرًا لَّهُمْ  
 البتہ تی اوس تہندہ خیطرہ بہتر و اقومر بیہ اوس بی مناسب **وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ** مگر  
 اللہ تعالیٰ ان کر سم پنہر رحمتہ لغیرہ ہندہ حق تہ پوز پوشیدہ تھاو نہ سببہ دور **فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** پس  
 ان نہ ایمان سم مگر کمی بہندہ لو کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ** ای تمہو لو کو سمن کتاب دنہ آسہ **امْنُؤْا**  
**بِمَا نَزَّلْنَا** ایمان او پڑھ کمر و تمہہ کتابہ یوسہ آسہ نازل کمر **مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ** یوسہ کتاب  
 تصدیق کران چھہ تمہہ کتابہ یوسہ توہہ سیت چھہ یعنی تورات **مِن قَبْلِ أَنْ نَنْطَسَ وُجُوهُهَا** سو وقت  
 واسنہ بروٹھہ کہ آس کیا دموتغیر تہنزن سکل نس آجھہ تہ نمبہ تھاو دکھ نہ کنبہ تہ **فَذَرُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا**  
 پس بناو کہ آس چھہ تہندہ تھر ہی **أَوَلَمْ نَعْلَمْ كَمَا عَمَّآ أَصْحَابُ السَّبْتِ** نہ کرو کہ توھی لعنت بہ تھہ بہ

أَوْ نَلَعْتَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ  
 يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

واره والین لو کن کر تمن کمر اسمہ واندرن هنزہ تہ خنزیرن هنز ہش شکل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا خدایہ  
 سُد نِس حَم جُھو صاور سپدان سُو جُھو ضرور پورہ سپدان إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ پزپاٹ اللہ  
 تعالیٰ جُھو نہ سزا دتھہ تہ مغفرت کران شرکس۔ نِس کیاہ ٹھہراوہ کانہہ شریک۔ بلکہ جُھو مُشرکِن دانی  
 سزاس اندر بتلاء تھاوان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہہ وراي جُھو مغفرت کران سارنی گنہن  
 لوکنن تہ بڈین تہ۔ سزاوند وراي تمَن یڑھہہ تہ تمن۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا  
 نِس اکھاہ شریک ٹھہراوہ خدا نِس۔ نِس نتیق نور اوہ تم گناہ سیٹھاہ بڈ۔ یعنی سُو سپد بڈہ جُرمک مُرتکب  
 نِس نہ قابل مغفرت تھی جُھو۔ توتان یوتان نہ شرکہ نیشہ ہتھہ روزہ تہ توبہ کرہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ  
 أَنفُسَهُمْ آیا وچھان چُھکھناژہ تمن لوکنن تم پن پان مقدس تہ پاک زانان چھہ۔ ہم پان پانس  
 تعریف کران چھہ۔ تمہہ سیت اندیکھ نہ کبھنہ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ بلکہ جُھو قابل تعریف سُو ی  
 نِس خدا پاک کرہ تہ مقدس ونہ۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ظلم بیہ نہ کرنہ کانہہ اگس تھہہ پتہ پینٹس برابر  
 تہ نِس خضر آنچہ ہندس سزس منز آسان جُھو أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وچھہ تھہ  
 پاٹھہ چھہ تم نور اووان کنس خدا لیس پیٹھہ لہز۔ پن پان مقدس تہ پاک زانہ، سیت۔ باوجود شرک  
 چھہ تم پن پان مقبول زانان۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا یہی کتھہ چھہ کافی نپٹس گنہس بتلا آسنہ  
 خیطہ۔ اٹھ گُن نظر کر تھہ نِس عذاب تمَن کرنہ بیہ سُو جُھو نہ بہندہ جُرمہ کھو تہ کبھنہ تہ زیادہ۔ أَلَمْ

أَوْ تَوَانِصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ  
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ  
أَمْنًا سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ  
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ  
فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ  
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

ترالٰ الٰذین اوتوا نصیبا من الکتب آیاد پھجان پھکھنا تہ اے مخاطب تم لو کن گن سمن بتاہ ہند یعنی تورا تک اکھ حصہ عطا کر نہ آمت پھجو۔ مگر باوجود آل پھجہ تم یومنون بالجبوت والطاغوت پھہ کر ان قریش ہندین پو تیلن بیہ شیطا س و یقولون للذین کفروا وان پھجہ تم کافر ن خوش کر نہ خیر ہ ہؤلآء اهدی من الذین امنوا سبیلا کہ کافر پھجہ زیادہ سیزہ وتہ پیٹھہ بالایمان ہندہ خوتہ اولیک الذین لعنہم اللہ سے لوکھ کیاہ گے تم سمن اللہ تعالیٰ ان لعنت کر تم پنیہ رحمتہ نشہ دور کرن ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا نس اس اللہ تعالیٰ لعنت کرہ نس لبہن نہ تہ تمسندہ خیر ہ کانہ مدد گارہ عذابہ وقتہ۔ املہم نصیب من الملک کنہ تمن پھجہ نئہ قسمہ پادشاہت فاذالایوتون الناس نقیرا تلہ تہ دمن نہ سم لو کن اکھ رتھہ تہ نقیر پھجہ ونان خضرہ آنچہ پیٹھ نس زاویل دلیل پھجہ آسان املہم یحسدون الناس علی ما اتہم اللہ من فضلہ بلکہ پھجو سمن یہود ن حسد لو کن ہند بالخصوص نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھہ پتھہ پیٹھہ کہ تمن گور اللہ تعالیٰ ان عطا پن ہو ذ فضل نبوت تہ رسالت بیہ متعدد ازواج طاہرات فقد اتینا آل ابرہیم الکتب والحکمة و اتیناہم ملکا عظیما نس یہ نوکانہ کتھاہ پھجہن تحقیق اسہ کرنا عطا حضرت

فِيهِمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ  
 سَعِيرًا ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا  
 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا ۝۵۷ إِنَّ اللَّهَ

ابراہیمہ سندس خاندانس کتابتہ حکمت۔ بیہ کمر آسہ تمن بڈ بادشاہت عطا۔ تمن اندر اوس حضرت  
 یوسف تہ حضرت سلیمان تمن بڈ سلطنت آس بیہ حضرت داؤد یمن بے شمار نکاح آس فینہم من  
 امن بہ و منہم من صداعنہ کس تموتہ وقتہ کیوہو و اندرہ آس اڈیو تمن پیغمبرن پڑھ کمر بیہ  
 آس اڈیم کفر و انکار سی پیٹھ روو۔ تمن نشہ پھر کھ ہتھ۔ ہر گاہ وون از کہ وقتہ یہود تہ توہ پڑھ کرن نہ  
 یار رسول اللہ تہ نہ حض سپو آزرده۔ یہ بہنز نوکٹھا چھہ و کفی بجہم سعیرا کافی چھو جہنم تہ نہ  
 زالنہ خیطرہ تمن سزا دہ نہ خیطرہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا پڑ پاتھ سمو لو کو انکار  
 کورسائین آیاتن تہ آکا من جلدی و اتا دو کہ اس تم نارس اندر کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ  
 جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ پلہ پلہ بز نہ آسہ یوان تہ دز تھہ آسہ بیوان تہنز ژم۔ فور آسو کہ تھہ  
 ژمہ بدل بیا کہ ژم پیدہ کران تھہ وارہ آسن عذابک مزہ ژبان إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا پڑ پاتھ  
 اللہ تعالیٰ چھو غالب حمہ وول وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سمو لو کو پڑھہ کمر کس خدائس بیہ  
 تہندس پیغمبرس بیہ کریٹھہ رتھہ عملہ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جلدی و اتا دو کہ آس  
 تم تمن جتن اندر سمو منز جو یہ پکان آسن خلدین فیہا ابدًا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ لہم فیہا  
 اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تہندی خیطرہ آسن تمن جتن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا بیہ و اتا  
 دو کہ آس تم زٹھس سائس تل إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا پڑ پاتھہ ای با ایمانو اللہ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوْا وَالْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

تعالیٰ چھو توہم امر کران سمجھو کی امانت و اتناو تمکس حقدارس وَاذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بیہ چھو حکم کران اللہ تعالیٰ کہ یلہ تہہ لوگن منز فیصلہ کرن ہیوان آسو، سو فیصلہ آس  
 زیوہ عدلہ موجب کانسہ کمسز طرفداری و رای کران إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ پزپاٹ اللہ تعالیٰ سمہ  
 کتھ ہنز توہمہ فمابش تہ نصیحت چھو کران کیاہر ژکتھاہ چھہ سو إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا پزپاٹ  
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سو روی بوزہون بیہ تہہ امانس متعلق و نان چھوہ تہ سو روی و چھہ ون بیہ تہہ امانس کران  
 چھوہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے باایمانو! حکم خدایہ سُنَد بیہ پیغمبر خدایہ  
 سُنَد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بیہ تم توہمہ منز یعنی مسلمان تہہہد حاکم آسن تمن ہند احکام تہ مانو فَإِنْ  
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نہس اگر اختلاف سپدہ توہمہ کتہ امرس منز کتہ بیہ چھا خداو پیغمبر خدایہ سُنَد کتہ چھو  
 نہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نہس نیون سو معاملہ خدا نہس تہ پیغمبر خدا نہس تہہ۔ پیغمبر خدا کرن  
 پائے تمیک فیصلہ یہ گو عہد رسالتس اندر۔۔ تمن پتہ کرو پیش ائمہ مجتہدین تہ علماء دین سو معاملہ۔ تم  
 کرن تمیک فیصلہ قرآن و حدیثہ موجب إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوے تہہ پڑھ  
 کران خدا نہس بیہ پنتس دوہس یعنی قیاس ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بیہ اختلافہ وقتہ رجوع کرن  
 قرآن و حدیثس کن ای چھو بہتر بیہ سیٹھاہ رت انجامہ کن۔ کیا زہ امیک نتیجہ چھو دنیاء آس اندر آمن و  
 راحت تہ آخر کس اندر نجات و سعادت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّبِعَا كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا  
 بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا يَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ  
 يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَاءَ وَتَوَفَيْتَنَا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وچھان چھوہ نانہہ یارسول اللہ تمن لوکن گن تم زیوہ سیت دعویٰ چھہ کران پڑھہ  
 کرنگ تھہ کتابہ یوسہ توہہ پیٹھہ نازل آہہ کرنہ بیہ یہ توہہ بروٹھہ نازل آو کرنہ یعنی تورات یُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّبِعَا كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ باوجود آل چھہ تم ارادہ کران کہ فیصل بناؤن شیطانس وَقَدْ أُمِرُوا  
 أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ تمن آیو حکم کرنہ شیطانس انکار کرنہ۔ تھہ نہ کانہہ چیز مانہ تک وَيُرِيدُ  
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کیا زہ شیطان چھو پڑھان تمن سیٹھہ زتھہ گمر ای منز بتلا کرن  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بیہ بلہ ونہ چھو یوان تمن ولور رجوع کر وتھہ کھمس گن بس اللہ  
 تعالیٰ ان نازل کور۔ وَإِلَى الرَّسُولِ بیہ کور ورجوع بیغیر خدا بس گن تم یہ فیصلہ کرن تی کور منظور  
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وچھو کھہ تھہ یارسول اللہ منافق تھہ ساتہ اعراض کران تہ  
 تھہ پھر ان توہہ بروٹھہ گن نہ نشہ عجیب طریقو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بس کیاہ سنا حال بہہ  
 تھہ وقتہ بلہ تم تمنہ مُصِيبَتَسْ گرفار گزہن رِمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ تھہ ناجاز حرکتہ کہہ شامتہ یوسہ  
 تمویہ مُصِيبَتِ واتھہ بروٹھہ کر مثر آس۔ یعنی مُقَدَّمْ فیصلہ کرنا ونہ آسِ آمتِ اگس کافر س نشہ۔  
 ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ تھہ پتہ یین توہہ نیش قسم ہوان إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَاءَ وَتَوَفَيْتَنَا کہہ آسہ اوس

الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ  
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۶۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ  
 رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۶۴﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  
 حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۶۵﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

نه اراده امه آندره مکر رثوی۔ بیه اوس آسہ اراده دون منرگوشہ موافقت سپدن اولیک الذین یعلمہ اللہ  
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ ہم گے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی چھو زماناں تہندین وکن منرگمہ فمسک اتفاق تہ کفر چھو  
 فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا جس کروہتہ تمن نشہ درگذریہ کریو کھ سمہ  
 حرکتر اونچ نصیحت۔ بیه فرماؤ کھ پنہنہ جایہ موثر کلاماہیمہ حرکتر اوس متعلق وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  
 إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بیه سوزنہ آسہ کانہہ پیغمبر اہ مگر بی خیطر کہ تہند کھم بیه ماننہ خدایہ سبہ کھمہ  
 سیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ بیه ساسہ سمونا فرمانی کر تھہ پنہ نین پانن ظلم کریو و ہر گاہ  
 توہہ نشہ آسہ ہن آمت نادم تہ پشیمان گڑھتھہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لیس مگھ ہن مغفرت خدائس  
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بیه مگھ باہندہ خیطرہ مغفرت پیغمبر بر حق تہ یعنی تہہ تہ مگھ ہو تہندہ خیطرہ  
 دعای مغفرت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ لبہ ہن تم اللہ تعالیٰ آس توبہ قبول کرہ و ان تہ رَحْم  
 کرہ و ان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لیس قسم چھو تہندس پروردگارہ  
 سبہ ہر گز چھنہ تم با ایمان یوتان نہ تھی اتھہ فیصلہ آس کرہ ناوان پنہ نین تنازعن آندر ثُمَّ لَا يَجِدُوا  
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ توپتہ آس نہ کھنہ قسمہ دل نگ سپدن تہندہ فیصلہ سیت وَيُسَلِّمُوا



عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا  
 فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ  
 بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٧﴾ وَإِذَآ آتَيْنَهُمْ مِنْ  
 لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾  
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ

تَسْلِيمًا بلکہ آسن پورہ پاٹھ سو فیصلہ مانان تہ تسلیم کران وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ بیہ ہر گاہ اس تمن حُم کر ہو کہ مارئوکھہ پان ہن یا نیر و پنے نیو شر و  
 آندره مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ تنہہ کھس کرہ ہن نہ تعمیل مگر تموا آندره کمی بوکھ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا  
 مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا بیہ ہر گاہ تم عمل کرہ ہن تمن لیکن پیٹھہ سمہ نصیحتہ  
 تمن کرنہ ہٹھہ یوان۔ البتہ سیٹھہ جان اوس تہندہ خیطرہ۔ بیہ اوس زیادہ بہتر تہندہ ایمانجہ درہ رہ خیطرہ  
 وَإِذَآ آتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا بیہ گرہ ہوتھہ صورتس اندر اس تمن پنے طرفہ بڈمزور عطا۔  
 وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ ہاوہ ہوکھہ اسی ضرور و تھہہ سبز جنس و اتج۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ  
 وَالرَّسُولَ بیہ سم لوکھہ حُم مان خدایہ سندیہ پیغمبر خدایہ سندیہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
 ہس تے لوکھہ آسن تنہہ جماعتس سیت یمن اللہ تعالیٰ ان ہن انعام عطا کور مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تم گے حضرات انبیاء بیہ صدیق، بیہ شہداء۔ بیہ، نیکوکار۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ  
 رَفِيقًا کیاہ رثہچھہ سمَن حضراتن ہنزر فاقت ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ بیہ چھو بیہ خدایہ سندی فضل  
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ہس چھو اللہ تعالیٰ ہی پور زان و اول یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِزْبًا مِنْ

بِاللَّهِ عِلْمًا ۴۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا  
ثِبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۴۱ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ  
أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ ۙ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ  
شَهِيدًا ۴۲ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ  
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ  
فَوْزًا عَظِيمًا ۴۳ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

با ایمان و پچاؤ بہن کرو ہتھیار۔ سلاح سامانہ پن آسوپا نس سیت تھان فانفروا ثبات اوانفروا جمیعاً  
اؤہ آستونیران جماتو جماتو یا آستونیران اکہ وئہ کئی جماعت وراں منکم لمن لیبطئن بیہ چھہ  
پزپاٹھہ توہمہ منزہ بعضی تم ضرور جمادہ خیطرہ نیر نس منزستی کران چھہ۔ چتھہ روزان چھہ فان  
اصابکم مصیبتہ توپتہ ہر گاہ توہمہ جمادس منزکیہنہ تکلیف واتان چھو قال قد انعم الله علی اذکم  
اکن معہم شہیداً وان چھوسو شخص تمہ ساتہ پیٹک خد لین کر میہ پیٹھہ مر بانی کہ بہ اوس نہ جماد  
کرنہ ڈرامت تمن سیت ولین اصابکم فضل من الله لیقولن توپتہ ہر گاہ تہہ کہانہ فضلہ نہ مر  
بانیہ خدلیہ سندہ طرفہ واتان چھو یعنی فتح نہ غنیمت تمہ ساتہ چھو وان کان لہ تکلن بینکم و بینہ  
مودة زن نہ توہمہ سیت کسبی تعلق چھس محبت مال اتھہ گوہس پیٹھہ افسوس کتر تھہ یلیتینی کنت  
معہم فافوز فوزاً عظیماً کاش کہ بہ تے آساتمنی سیت۔ میہ تہ سپدہ باد کامیابی حاصل۔ اللہ  
تعالی چھوس فرماوان۔ بد کامیابی حاصل کر چیلہ خواہش کانہہ آسہ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین  
یشرون الحیوة الدنیا بالآخرہ سو کرن تلہ جماد خدلیہ سزہ و تہ اندر۔ کلمہ اسلامکہ تہزہ خیطرہ۔  
نہایت ایمانداری نہ اخلاصہ سان، نفاق تراوتھہ۔ تمن کافرن سیت تم دنیا چ زندگی چھہ مثل ہیوان

فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْلَبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَا لَكُمْ  
لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا  
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝  
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

آخر تس بدل وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُعْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نُس اكهاه  
جماد كره خدليه سنزه وټه اندر نيس بيه مارنه ياسپده سوي غالب۔ دوشون حالتن اندر كړو آس نيس عطا  
بدمزور آخر تس اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بيه كياه عذر چهو توبه كه نهه چهو نه جماد  
كران خدليه سنزه وټه اندر۔ حالانكه جماد كړنگ سبب چهو موجود۔ سوگو گوډني پروردگار سنده كلمه كنه  
تمزره خيطره تمه علاوه چهو بيا كه وجه كه وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا كزور بايمان هنده حفاظت خيطره به چهو  
جماد كران ضروري۔ نيته تم كافر ن هنده ظلمه ته ستمه نسيه آزاد سپدن۔ سمن منز كينه مرد جهه، كينه  
زنانه جهه ته كينه لوكت جهه۔ ستم كافر ن هندیو ظلمو سببه پریشان سپدن دعا كران جهه۔ بعاجزي مكان جهه  
آي سانه پروردگار آسه كڼه ته ستمه شهره اندره نيمر۔ ستمك لو كه سخت ظالم جهه۔ ستم آسه رنكارنگ مضميتن  
گرفار كران جهه۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بيه  
نلتن ټه سانه خيطره پنه طرفه كانه دوستاره۔ بيه سوزن ټه سانه خيطره پنه طرفه كانه مددگاره نيس  
آسه سمن ظالم ن هنده ظلمه نسيه موكلاره به۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ستمو لو كوپوره  
اسمان اون كڼس خدا نيس تم جهه ستم احكام بوزتمه جماد كران خدليه سنزه وټه اندر محض تهندي رضا  
خيطره۔ تهنده كلمه كنه تمزره خيطره وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ ستمو كره ته انكار

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ  
 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ  
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ  
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ  
 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ  
 لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ

کور تم ہتھ جنگ کران شیطانہ سیدہ خیرہ یعنی کفر سے غلبہ خیرہ ہ فقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ تمس جہاد کرو  
 تمہ اے ایمانو شیطانہ سیدہ یازن سیت یعنی کافر سیت۔ یقین تھا و کہہ۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ  
 ضَعِيفًا ہز پاتھ شیطانہ سزہ چالہ ہتھ گوڈہ پیٹھے سست تہ کمزور۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ توہمہ ہتھ و کھنا تم لوکھ تمکن و نندہ آیو و جگ مہ کمر و اتھ ہن  
 رتو تمہ ہتھ ہتھ۔ سز دست تم حکم توہمہ کمر نہ یوان ہتھ تم پیٹھ کرو عمل۔ نماز پروا بندی سان بہ دیو  
 زکوٰۃ۔ مگر تم آس بے تالی سان جہادک اجازت طلب کران فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اودہ بلکہ تم  
 پیٹھ جہاد فرض کرنے آو إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ تمہ وقتہ جگہ جماعت  
 تمہوی اندرہ لوکن یعنی مکہ کین کافر تھوی کھوڑنہ ہتھ خدائس شوہر ہا کھوڑن أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً بلکہ  
 تمہ خوتہ زیادے وَقَالُوا وَنَدَّ لَبًّا وَلَهُ سِيت يازوہ سیت رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ خدایا سہ پیٹھ  
 کیا زہ کور تھ ژہون جہاد فرض لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اسہ کونہ ڈرنا ہتھ ژہ مہلت کنہ و قس  
 تام قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ فرما یو کہ تمہ یار رسول اللہ دنیا ک تمتع چھو سیٹھاہ  
 کم۔ آخرت چھو سیٹھاہ بہتر تم ہدہ خیرہ ہم خدایہ سزہ ہا فرمائی نشہ ہتھ روزن۔ سو آخرت حاصل  
 کرنے خیرہ چھو بہترین ذریعہ جہاد۔ وَلَا تَطْلُبُونَّ قِتِيلًا توہمہ ہرگز تمہ قسمک ظلم پیہ نہ کرنے آس  
 پتہ داوہ برابر تہ۔ ایش عمل کرو متیوت بیو ثواب عطا کرنے۔ عملو اندرہ چھو جہاد کرن خدایہ سیدہ رضا خیرہ

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۴۴﴾ اَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ  
حَسَنَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  
يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ  
هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿۴۵﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ  
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ

بذ عمل۔ اُمّہ نشیہ کیازہ وچھو کہہ پن پان محروم کران۔ کیاہ تمہہ چھوہ مؤنس تہ مرئس کھو ژان موتہ خیطرہ  
ئس وقت مقرر کرنہ اُمّت چھو تمہہ نشیہ بیچہ نہ کانہہ تہ چھہہ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ  
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ بیتہ آسو تمہہ تہ بیتہ، ضرور وایہ توہمہ موت اگرچہ آستو تمہہ چونہ مرئی سیت  
مضبوطہ تہ محکم کرنہ آمتین قلامن تہ مکان اُندر وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بیتہ  
ہر گاہ واتان چھہ تمّن منافقن نعمتہاہ وان چھہ تمہہ ساتہ یہ نعمت واثراز طرف خدایا اتفاقاً۔ تہ مسلمان ہند  
طاقت اوسنہ کنہی وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ بیتہ یلہ واتان چھہ تمّن کانہہ سختیہ  
جنگس اُندر تمہہ ساتہ چھہ دپان یہ واثراہہ تمہدہ طرفہ۔ تمہدہ بے تدبیری سیت۔ گرن منز آس آرامہ  
سان خواخوہ کدوہ گرواندرہ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تمہہ فرماؤ کہہ میون چھو نہ اتمہ اندر کنہی دَخَلَ۔  
سوزوی چھو خدایہ سدری طرفہ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا بس کیاہ گو تمّن  
منافقن تمّن چھہ اتمہ تمہہ تہ تران فہرہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ حقیقت چھہ بتی کہ اے  
انسان یہ کینہہ ہاہ واتان چھوے ژیہ رُت رُت سو چھو خدایہ سدہ طرفہ سوی چھوے عطا کران پنیہ  
فضلہ سیت وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ بیتہ کینہہ ہاہ واتان چھوی ژیہ خراب تہ چھہ تہ  
چھوی پنیہ نی طرفہ کیازہ سبب تمیوک چھو چاہہ چھہ عملہ تہ نافرمانی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اَسْمَہ  
حض سوزوہ تمہہ واقعی لوکن گن پیغمبر برحق۔ منافق تہ کافر متہ مانن وَاكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بس چھو

لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۸۹ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ  
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝  
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ  
مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۝ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ  
عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۹۰ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ  
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

گواہ امہ کتبہ ہند اللہ تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ نِس اکھاہ کھم مانہ پیغمبر برحقہ سُنْد تھی  
مُون کھم خدایہ سُنْد۔ ہم نافرمانی کمر تہمز تم کرنا فرمانی اللہ تعالیٰ سنز۔ تھہ پاتھہ اللہ تعالیٰ سنز اطاعت  
کرن عقلا تہ واجب تھہ پاتھہ تھہ رسول کریمہ سنز اطاعت کرن تہ عقلا واجب۔ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا بیہ نِس اکھاہ تھہ پھرہ تہ اعراض گرہ کمر تن۔ تہہ مہ حض کتھہ تمیک غم۔ نِس  
سوزوہ نہ اسہ تہہ تہندہ خیطرہ راپھہ کہ تہہ مہ دیو تم ن ہر گز کھر کرنہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ بیہ تھہ تم  
منافق ونان توہہ برو تھہ کنہ سان کام پھہ کھم مان۔ فرمانبر داری کرن۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ  
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ نِس یلہ نیر ان پھہ توہہ نشہ رات کیت پھہ اکھ جماعت تموا آندہ  
یعنی تہند زھہ تہندس فرمائس بدل کرہ ٹک مشورہ کران وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ پھو  
لیکھان تہ سوزوی بیہ تم راجحیت توہہ خلاف سازشہ کران پھہ موقفس پیٹھہ دیکھہ سو خوب سزا۔  
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نِس مہ کرو تہمز ن بے ہود کین کن کائہ خیال تہ التفات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جہہ پٹرا  
ووہی معاملہ خدا نِس تِس پیٹھہ کرو تہہ اعتماد وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا نِس پھو اللہ تعالیٰ تہند وکیل تہ کار ساز  
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا زہہ جھنہ ہم منافق تامل تہ غور کران قرآن مجید س اندر، اچ فصاحت و  
بلاغت و چھان۔ کوتاہ تھہ درجہ پھو بیہ فصیح و بلیغ۔ اتھہ منز پھہ تمہ خبرہ یمہ چیز چ دلالت پھہ کران  
کہ پھو بیشک کلام خدا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا ہر گاہ بیہ قرآن

كَثِيرًا ۲۲) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
 وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
 يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۲۳) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  
 الشَّيْطَانَ الْإِقْتِلَالَ ۲۴) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا  
 نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسْ الذِّينَ

مجید آسہا خدا کیس و رای بیہ کانسہ ہندہ طرفہ ضرور لہ ہن تم تلمہ تھتھ منز واریاہ اختلاف باعتبار فصاحت و  
 بلاغت تہ تہ پوشیدہ حالات بیان کرنکہ اعتبارہ تہ وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ بیہ  
 یلہ و اتان پچھہ تَمَن نَش کانسہ خبراہ اُنْج یا خوُفُ سُوْخْم ہچھہ تم شائع کران تھقیقہ و رای۔ تھتھ منز پچھہ  
 نیران واریاہ خبرہ بے بیاد تہ بے اصل وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ بے سو  
 معاملہ تم پیش کرہ ہن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نیشہ یا تَمَن لوکن نیشہ تم تموا اندرہ معاملہ شناس  
 آس یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ زانہ ہن تم لوکھہ تم پورہ  
 تحقیقات کرہ و ن پچھہ تموا اندرہ اُنْج حقیقت کیاہ چھہ تو پتہ یوسہ تھتھ تم مشہور کرہ نس لائق زانہ ہن سوا  
 بیہ ہا مشہور کرنہ۔ یوسہ تھتھ نہ تھتھ لائق آسہا سوسیہ ہا تھووظ تھوانہ وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
 لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْإِقْتِلَالَ ہر گاہ نے خدایہ سندیہ خاص فضل تہ رحمت توہمہ پیٹھہ آسہا کہہ توہمہ کور  
 نوہ قرآن مجید عطا۔ توہمہ کُن سُوْزَن ہُن پیغمبر برحق تہ کرہ ہو ہتھہ ساری کم کینوہ و شخصو واری شیطانہ سنز  
 متابعت فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ای پیغمبر تھتھ کمر و جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر۔ امیک مہ ہجر و پروا  
 لوکھہ نیر نہ توہمہ سیت جہادس کنہ نہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ الْإِقْتِلَالَ توہمہ پچھونہ مگر پینہ نی کامہ ہنزہ ذمہ داری  
 ہند تکلیف دہ دیوان۔ لوکن ہنزہ کامہ ہنزہ پچھنہ توہمہ پیٹھہ کانسہ تہ ذمہ داری وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ تھتھ  
 دیو صرف ترغیب با ایمان جہاد کرنک تو پتہ نیر تن جہاد کرنہ خیطرہ کانسہ یا متہ نیر تن تھتھ سپدہ خدا کیس  
 نیشہ بری الذمہ۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا شاید کہ اللہ تعالیٰ رٹہ پچھہ کافر ن ہند قوت،

كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۸۴﴾ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً  
 حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ  
 لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا ﴿۸۵﴾ وَإِذَا حُيِّتُمْ  
 بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۶﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْعَلَ لَكُمْ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ لَارِيبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۸۷﴾

طاقت سے زور والہ اللہ اشد باسا کیازہ اللہ تعالیٰ چھوڑ زیادہ سخت زور رکھنے سے طاقت رکھنے والا ہے۔  
 چھوڑ زیادہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا  
 میں شخص سفارش سے مدد کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کسی کو شہادت دے گی وہ اس کا بدلہ لے گی۔ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا  
 اشفاق سے سفارش سے مدد کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا اور جس نے کسی کو شہادت دے گی وہ اس کا بدلہ لے گی۔ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا  
 آسہ تمہیں سزا کا کھ حصہ آخرت میں اندر وکان اللہ علیٰ کل شیء مقبیتا اللہ چھوڑ پر ہتھ چیزیں پٹھے  
 طاقت والے۔ سو چھوڑ پٹھے قدر سے سب سے نیکی پٹھے ثواب عطا کران سے بدی پٹھے سزا دوان۔ وَإِذَا حُيِّتُمْ  
 بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا یہ بیلہ آسہ توبہ ای مسلمانوں تعظیم سے سلام یوان کرنے میں آسہ  
 تمہیں تمہیں جواب دوان تمہیں خور سے طریقہ سے لے تو تہ تمہیں ہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا  
 بے شک اللہ تعالیٰ چھوڑ پر ہتھ چیزیں پٹھے باز خواست کرہ و ن سے حساب ہوہ و ن اللہ لا الہ الا هو  
 معبود برحق گو سوسوئی کہ نہ معبودا چھوڑ نہ تو ورا لیکر جمعہ لکرم الی یوم القیامۃ ضرور سونہرا وہ سو  
 توبہ سارنی قیامت دوہ لاریب فیہ کہ نہ شکا چھوڑ نہ تمہیں کس واقعہ میں اندر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا  
 اللہ حدیثا یہ کہہ لکھا چھوڑ خدلیہ سہہ خود سے زیادہ پزیر کلام فرمائیں اندر۔ مکہ کیو مشر کو اندرہ کہہ  
 جماعتہا آسہ مدینہ منورہ تموی کور ظاہر کہ آسہ آسہ مسلمان سپد سے ہجرت کرتے۔ تو پتہ گئے یہ  
 وانس حیلہ کور کہ آسہ انو تورہ مال تجارت تو پتہ آسہ نہ وانس کینہہ سے تہ سپد مر تہ۔ تمین متعلق سپہ



فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا  
 أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ  
 فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝۸۵ وَذُوالْوَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا  
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فخذُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيْثُ  
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۸۶ إِلَّا

مسلمانان زہ جہاڑ۔ آڈیو دوپ تم چھہ کافر آڈیو دوپ نہ تم چھہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم چھہ  
 واقعی کافر ای مسلمانو چھہ کیا زہ چھوہ اختلاف کران اتھہ منز **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ** ای  
 مسلمانو کس کیا سپدوہ توہہ۔ منافقن ہمدس معاملس منز کیا زہ گیر توہہ اندر زہ جہاڑ۔ اکھ جماعت چھہ  
 دپان تم چھہ کافر۔ بیا کہ جماعت چھہ دپان تم چھہ مسلمان متفق سپدوہ ہمدس کافر آسہن پیٹھہ۔ **وَاللَّهُ**  
**أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا** اللہ تعالیٰ ان پھر تم واپس گھر س گن۔ پنہ نیو چھہ عملو سببہ **أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا**  
**مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** کیاہہ چھوہ یڑھان و تھہ ہاون تمن سمن و تھہ راوہ راو اللہ تعالیٰ ان **وَمَنْ يُضِلِّ**  
**اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا** کس و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ تسدہ خیطرہ لبونہ تہہ کانہہ و تھہا با ایمان نہ  
**يُجِ** **وَذُوالْوَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا** تم کیاہہ آسہن موئن بلکہ چھہ تہہہہ دہج خواہش کہ ہر گاہہ تہہہ  
 ہو کافر چھہ پاٹھہ تم کافر چھہ **فَتَكُونُونَ سَوَاءً** کس نہ ہو تہہہ ساری معاذ اللہ برابر گھر س اندرہ دوون  
 یلہ جہنم خیال توہہ نسبت یہ چھو **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ** پس مہ بناویون تمن اندرہ کانہہ پن  
 دوست تیار **حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** یوتان نہ تم بیہ ہجرت کرن محض خدا یہ سیدہ رضا خیطرہ  
**فَإِنْ تَوَلَّوْا فخذُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** کس اگر تم اسلامہ نشہ اعراض کرن تھہ  
 پھر نہ۔ گھر سی پیٹھہ بدستور روزن۔ تلہ ریو کہ تہ مارو کہ تیس پیوہہ تہ تیس **وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ**  
**وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** ہر گزمہ بناویون تموا اندرہ کانہہ اکھاہہ دوست تہ نہ مدگار۔ تمن نشہ روزو بالکل

الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ  
جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ  
اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْلَ الْيَكُومَ السَّلَامَ ۚ فَمَا  
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ الْآخِرِينَ  
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ وَيُبَايِعُوا قَوْمَهُمْ مُكَلَّمًا دُونَ إِلَى

الک۔ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر مہ مار یو کہ تم تم سم دشمنو نشیر الگ  
سپد تہہ الحاق کرن تہہ قومس سیت تمن سیت تو بہہ صلحک معاہدہ کورمت آسوہ اوجاءوکم  
حصرت صدورہم ان یقاتلوکم اویقاتلوا قومہم بیہ مہ مار یو کہ تم ہر گاہ تم تو بہہ نش براہ  
راست صلحہ خیطرہ بن تہہ حالش اندر کہ دل تہند آسن تو بہہ سیت لڑای کرنہ نشیر یا تہندہ طرفہ پنہ نس  
قومس سیت لڑای کرنہ نشیر چو نگر نہ آمت۔ یعنی تم آسن یرشہان غیر جانبدار روزن۔ تم سیت تہ مہ  
کمر و جنگ۔ تہہ ماویہ خذلیہ سند اجسان کہ تہندین دلن اندر تراواللہ تعالیٰ ان تہندہ بیت۔ تم آی تو بہہ  
نش صلحک درخواست ہتہ ولوشاء اللہ لسلطہم علیکم ہر گاہ خدایزہہ یا تمن کرہہ با تو بہہ بیٹہہ مسلط  
فلقاتلوکم تلہ کرہ ہن تم تو بہہ سیت مقابلہ تہ جنگ فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوالیکم  
السلم پس یلہ تم الگ روڈ تو بہہ سیت جنگ تہ لڑای کرنہ نشیر تمہ علاوہ سوزکھ تو بہہ کن پیغام صلح  
فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلًا پس اتہہ صورتس اندر تھاونہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ تمن  
سیت خوا مخواہ جنگ کرچ کانہہ وتھاہ۔ یعنی اتہہ صورتس، منز چٹھونہ تو بہہ اجازت تمن سیت جنگ  
کرنک ستجدون الآخیرین یریدون ان یبایعوکم ویبایعوا قومہم تہہ لیون بیاکھ جماعتھاہ تم  
یرشہان تہہ تو بہہ نشیر تہہ آمنس منز روزن پنہ نس قومس نشیر تہہ امنس منز روزن کلماد و الی الفتنۃ  
ارکسوا فیہا مگر یلہ یلہ تمن کانہہ قنٹس کن و اچس نوان چٹھو فور اچھہ تہہ کن تہہ منز پوان فان لکم

الْفِتْنَةَ أَرْكُسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ  
السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

يَعْتَزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ پس ہر گاہ تم توہمہ نش الگ روزن نہ پیغام  
صلح سوزن نہ۔ آٹھ ہن ہتھ رٹن نہ۔ فَخُذُوا مِنْهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ تلو کر یو کہ تم گرفتار  
ہیہ مار یو کہ تیس پیوہ نہ تیس وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا تم اسم قسمک لو کہ ہیہ ہدہ  
خیطہ دژ آسہ توہمہ دلایاہ صاف تہ روشن رٹس تہ قتل کرنس پیٹھہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا  
إِلَّا خَطَاً ہیہ چھو نہ جائز کانسہ بالیمانس سوکیاہ مارہ کانسہ بالیمانس مگرے وشفہ پاٹھہ بغلطی کانسہ کانسہ  
مارہ تمیک حکم چھو ہیہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ پس اکھاہ کانسہ  
بالیمانس بغلطی مارہ، قتل کرہ تہند گوٹھہ اکھ بالیمان غلام یا کیز آزاد کرن۔ ہیہ گوٹھہ خون بہادمن مشقولہ  
سدین وارٹن کن وراٹتہ تمہ حصہ موجب إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا مگرے تم مشقولہ سد وارٹ معاف کرن  
سوزوی یا کانسہ حصہ تمہ منزہ تلہ نہ کینہہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ پس ہر گاہ مشقول  
آسہ دشمن ہیہ قومہ منزہ مگر آسہ سو مشقول پانہ بالیمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تلہ چھو قاتلس پیٹھہ منہ  
صرف بالیمان غلام آزاد کرن ہیہ نہ کینہہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ ہر گاہ مشقول آسہ تمہ  
قومک تمکن سیت توہمہ عمد و پیمان آسہ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تلہ چھو قاتلس

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ذِ  
تُوبَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۱۲۱﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً  
فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۱۲۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَتَبَيَّنُوا أَوْلَاءَ تَقُولُوا إِنَّمَا أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ  
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ

پیٹھہ منہ اکھ ٹون بہا دین مقولہ سندس دن وارثن کن بیہ با ایمان غلام آزاد کرن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وون تیس نہ غلام آزاد کرن تیسر سپدہ تمند گڑھہ دون۔ رتین پے در پے روزہ دار روزن تُوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ یہ چھو اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ تہندہ حقہ توبہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانن وول بود حکمت وول۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً فِجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا بِیہ کس اکھاہ قتل کرہ کانسہ با ایمانس ویدہ ودانسہ تمند سز اچھو تار جہنم۔ تھہ منز روزہ ہمیشہ ابد الآباد وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا بیہ چھو کس پیٹھہ غضب خدا، بیہ لعنت خدا، بیہ چھو تہندہ خیطرہ تھاومت تم تیار بود عذاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ای با ایمان اولیہ تہہ سفر آسو کران خدا یہ سزہ و تہ اندر یعنی جہاد کرہ آسو نیران فَتَبَيَّنُوا أَوْلَاءَ تَقُولُوا إِنَّمَا أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا پس تحقیق آسو کران بیہ منہ آسو تمن سم توبہ اسلامی سلام کرن یا کلمہ شریف ہر ان سمہ سیت تہند مسلمان آسن ظاہر سپدہ زورہ و نان کہ تہہ چھو ہنہ ولہ کن مسلمان تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ حاکس منز کہ تہہ آسو ژھانڈان دُنیاچہ زندگی ہند سامان مال غنیمت حاصل کرنہ سیت فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ کس اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پشمار مال سوی کونہ کمر و تہہ جائز طریقہ حاصل ناجائز طریقہ دُنیا ک مال حاصل کرن چھو ناجائز كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ تہند حال تہ اوس تھوی یعنی اسلام تہ کلمہ و رای اوسنہ توبہ اسلامک کانسہ علامتھا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ توبہ پیٹھہ اسلامک

قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٤٦﴾  
 لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ  
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ  
 الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٧﴾  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿٤٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

توفیق دین سیت فَبَيَّنُوا پس آسو جنبه واره تحقیق کران کہ ممکن لوکن ہند حال کیاہ پھو۔ ہم جہاد شمن  
 کہند دوست۔ ہر ہمرہ گڑھ نہ کنہ تو مس پیٹھ حملہ کرن۔ بیہ کمر و غور کہ ٹھنڈ حالت تہ آس ابتداء س اندر  
 یہی ہاں اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پڑھا اللہ تعالیٰ پھو پور زمانا یہ جہ کران جھوہ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرِّ جھنہ برابر با ایمانوا ندرہ تم تم کنہ عذره ورا کی جمادس نیر نہ نشہ پتھ روزن۔  
 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بیہ ہم محض خدایہ سیدہ خیطرہ مال وجانہ سیت جماد  
 کرن۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً فضیلت دیت خداین مال  
 وجانہ سیت جماد کردہ وین، جمادہ نشہ پتھ روزہ وین نشہ در جس تہ مرتبس منزر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ  
 اگر چہ دو شون پھو اللہ تعالیٰ ان رتہ ثوابک وعدہ عطا کورمت ایمانہ سبہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مگر فضیلت دیت خداین جماد کردہ وین تمہ نشہ پتھ روزہ وین پتھ مجہ مزورہ سیت  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ہم جھہ پروردگارہ سیدہ طرفہ درجات ہم سوتن عطا کردہ بیہ  
 گزن تن عطا مغفرت تہ رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ مغفرت کردہ  
 و ن سیٹھاہ رحم کردہ و ن إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ  
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا  
 فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۹۰﴾  
 إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ  
 لَإِيسْتِطَاعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۹۱﴾  
 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ طَوْغَ مَا كَانَ اللَّهُ

بڑا پھلے تم نے گمراہی میں، جہاد سے نیرہ و نین، سمو پان پانس ظلم کو ترک ہجرت کرنے سے تہ قبض  
 روع کرنے خیر ہ ملائیک یو ان چھہ۔ تم چھہ پر ژھان تہہ کتھہ حاکس منز آسوہ قَالُوا كُنَّا  
 مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ تم چھہ جواب دوان آس کزوری تہ بے نسی ہندس حاکس اندر۔  
 دشمن ہندہ خوف آس نہ ہیکان پنہ نین اسلامی عقایدن پیٹھہ عمل کثرت۔ ضروریات دین تہ شعایر  
 اسلام بجاکتھہ قَالُوا مَلَايِكَ چھہ دپان اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاِسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا کیاہ خدایہ  
 سُنْد زَمِيْن اوسنا کھول۔ تہہ ہیکہ ہونا بیہ کُنہ جایہ کُن ہجرت کثرت تہہ تین پھور نہ امیک جواب۔ قَالُوا لَيْك  
 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کس تم کو کن ہنز جای چھہ جہنم۔ کاژاہ چھہ جایا چھہ سو تہ ہندہ  
 واتہ خیر ہ إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ مگر چھہ مستغنی امہ نشہ تم تم  
 واقعی کزور نہ ہیکہ ون آسن۔ مردو آندرہ زنا تو آندرہ تہ لوکیو خیر یو آندرہ لَإِيسْتِطَاعُونَ حِيلَةً  
 وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا تم نہ ہیکہ کُن نہ حیلہ سیت امہ شہرہ آندرہ ثلث نہ لہہ تا ہن کانہ وقہاہ  
 ثلثہ خیر ہ وتہ نشہ بے خبری سبہ قَالُوا لَيْك عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ کس تم تم چھہ تہ ہندہ  
 حَقہ چھہ امید کہ اللہ تعالیٰ کرہ تم من معاف وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ معاف  
 کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا  
 كَثِيرًا وَوَسْعَةً بیہ کس اکھاہ ہجرت کرہ خدایہ سزہ وتہ آندر سولہ زمینس آندر واریاہ جای بسنہ

عَفْوًا غَفُورًا ۱۱) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  
 فِي الْأَرْضِ مَرْغَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۝ وَمَنْ يَخْرُجْ  
 مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ  
 الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ۱۲) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۱۳) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا ۱۴) وَإِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُبِينًا ۱۵)

خیطرہ، وسیع جای گذارہ، معاشہ، خیطرہ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۱۱) یہ  
 اُس الکھادہ اور اوپنہ وطنہ منزہ ہجرت کر تھہ خدا اُس سے جہندس رسولس کن ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ تو  
 پتہ یہی اُس آتھہ حالس منز مرگ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بیشک تمسنز مزدور تہ ثواب سپد منہ  
 خدائس وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھہ مغفرت کرہ ون سیٹھہ رحم کرہ ون  
 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۱۳) یہی بلکہ تھہ کمنہ قسمس  
 سفرس نیران آسوا ی بالسمانوس پھونہ کانہہ خرج توہہ ہر گاہ تھہ نمازہ ہندین رکعتین کی کثرو۔ ڈورن  
 رکعتن نمازہ بدلہ پیروزی رکعہ۔ سوگوئیہ پشمن نماز، وگر نماز تہ خفقن نماز۔ سمبورا ی سمہ نمازہ ڈورن  
 رکعہ خوتہ کم پھہ تمہ گیہ صبح نماز تہ شام نماز۔ تمہ پھہ برابر پندہ نسی حالس پیٹھہ تھاوند۔ صبح زہ رکعت  
 فرض۔ شام ترے رکعت فرض۔ سنت پھو اختیاری آو موقعہ بدن آونہ موقعہ ترلان۔ تھہ پھونہ  
 کانہہ باز خواست إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۱۴) ہر گاہ توہہ خوف آسہ کافران تہ دشمن ہندہ  
 پریشان کرنگ إِنْ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمُ عَدُوًّا مُبِينًا ۱۵) پزپاٹ کافر پھہ ہمیشہ جہندن دشمن وَإِذَا  
 كُنْتُمْ فِيهِمْ ۱۶) اُس بلکہ تھہ تمن منز تشریف تھاوان آسویار رسول اللہ یا توہہ پتہ اُس امام آسہ فوجک

وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ  
 مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا  
 مِنْ وَرَائِكُمْ مَسْجُودَاتٍ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
 مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ  
 عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ  
 أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ توپے تہہ ارادہ کر وتم نمازہ پرہ ناوٹک فلتنقم طائفۃ منہم معک کس  
 وتھن اکھ جماعت تم پرن توہرہ سیت نماز ولیاخذوا اسلحتہم بیہ رن تم سلاح پئن پائس سیت  
 فاذا سجدا فلیکونوا من ورائکم کس یلہ تم اکھ رکعت پرن تم نیرن توہرہ پتھہ کن نگرانی تہ پہرہ  
 ونہ خیرہ ولتات طائفۃ اُخری اتھہ جایہ آین دویم جماعت لہ یصلوا سمونہ ونہ نماز ادا کر  
 فلیصلوا معک کس پرن تم نماز مسبق بنت توہرہ سیت ولیاخذوا حذرہم واسلحتہم تم تہ  
 رن پائس سیت پئن سلاح سامانہ کیازہ نمازہ منزے ماہیہ دشمن سیت مقابلہ کرن۔ وذ الذین کفروا  
 لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیعتکم کیازہ کافرن ہنز خواہش چھہ ہر گاہ تہہ سلاح سامانہ نفعی کتہ  
 وقتہ بے خبر سپد ہو۔ فییبیلون علیکم مئیلۃ واحدا تم کرہ من تمہہ ساتہ توہرہ پتھہ کئی حملہ۔  
 ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطرا وکنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم بیہ پھونہ توہرہ  
 کانہ نگاہ ہر گاہ توہرہ رودک، بارشہ ہند کانہہ تکلیف آسہ یا آسہ تہہ بیمار تمہہ ساتہ کیاہ موزار او تہہ سلاح  
 وخذوا حذرکم توپتہ تہ گڑھ پئن بچاو کرن، دس خبر دار روزن ان الله اعلم الکفیرین عذابا



خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰﴾  
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا  
 وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِبُوا الصَّلَاةَ إِنَّ  
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۱﴾ وَلَا  
 تَهْنُؤُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ  
 يَأْتُونَ كَمَا تَأْتُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ

مُهِينًا نېزېاڅې الله تعالى ان چھو تيار تھومت کافر ان بندہ خيبره خوار ته ذليل کرهون عذاب فاذا  
 قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا کس بيله جبه نماز خوف موکلاو کس کمر و خدليه سند  
 يادووتهد ته سته بهت ته وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ بيه کر تراوت ته غرض پر بتهه کالس اندر روزو مشغول  
 بذکر الہی۔ نمازہ منز اس تھيف مگر ذکر خدا چھو پر بتهه کالس منز برابر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِبُوا  
 الصَّلَاةَ کس بيله تو به خوف دور سپدتهه اطمینان حاصل سپده۔ ياسفر ختم سپدتهه پنه نس شرس منز واتو  
 ته مقيم سپو کس تھوو برپا نماز قاعده موجب۔ حسب معمول إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ  
 كِتَابًا مَّوْقُوتًا کيازه نېزېاڅ نماز چھه فرض ته ميه با ايمان پيٹھه و قبيچہ پابندی سان۔ کس چھه نماز  
 فرض آسنه موکھ ادا کرن لازم وقت مقرر کر نه آمر آسنه موکھ پنه نس و کس پيٹھه ادا کرن ضروري ته  
 لازم وَلَا تَهْنُؤُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ بيه مه آسو سستی ته کوتاهی کران دشمن پته لارنس اندر تھکنه  
 کہ سبه إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ كَمَا تَأْتُونَ هر گاه تبه دود ته دگ محسوس چھوه  
 کران زخم ته چھوکن بندہ و جهه تھند دشمن ته چھو چھو کن ته زخم هنز دگ محسوس کران تھندی پاٹھه  
 مگر تمن کونه چھه سستی ته کوتاهی کرههان حال بحه وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تبه چھوه خدا ليس ربه  
 تمی بده ثوابک امید وار تچ نه تمن کاننه برانتهاه چھه نه امه موکھ کرهوه تبه زياده چست و چالاک آسن  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله تعالى چھو سوزوی زان و ن سيشماه حکمته وول إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۴۰ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ  
 بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۴۱  
 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۴۲ وَلَا تَجَادِلْ  
 عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ  
 كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۱۴۳ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا  
 يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى  
 مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۴۴ هَآئِنْتُمْ

بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ہر پانچہ نازل کراسہ توہمہ پیٹھہ یہ کتاب قرآن مجید پوز حکم  
 پیٹھہ۔ پیٹھہ تہہ فیصلہ کرو لو کن منرتھی موجب پیہ یہ توہمہ اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی ہووے تووہ وَلَا تَكُنْ  
 لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا پیہ مہ حض سپد و تہہ خیانت کرہ و نین ہند طرفدار وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ بِہ مگو  
 خدائس مغفرت إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بیٹک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ مغفرت کرہ و ن سیٹھہ رحم  
 کرہ و ن وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ تہہ مہ حض کرو جواب دہی تمن لو کن ہندہ  
 طرفہ سم خیانت چھہ کران، نقصان چھہ و اتاوان پان پاس إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا  
 ہر پانٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران تس تس بوڈ خیانت کرہ و ن آسہ تس بوڈ خطا کار آسہ  
 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ سم لو کھ چھہ یہ پن خیانت لو کن نیرہ مندہ  
 چھہ تہہ کھٹان مگر خدائس نیرہ چھہ مند چھان تہ کھٹان وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  
 حالیکہ سو چھو تمن پر تہہ وقتہ سیت سیت آسان خصوصاً سمہ ساتہ رات کیوت تدبیر سو چھس متعلق تم  
 تہہ کران چھہ سم نہ سورا ضی چھو وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللہ تعالیٰ چھو تہن سارنی  
 کائین پنے علم و اطلاع سیت احاطہ کر تہہ۔ تہہ ہر علمہ نیرہ چھہ نہ کانہ تہہ تہ کانہ کوماہ هَآئِنْتُمْ هُوَ لَا عِجَابَ لَكُمْ

هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ  
 اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۙ وَ  
 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ  
 اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى  
 نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً  
 أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۙ  
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اسی مسلمانوں پر گواہ تھے جو اب دینی چہرہ کران مگر من ہندہ طرف سے دنیاچہ  
 زندگی اندر فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جہتہ و نحو قیامتک دودہ گس کرہ جواب دہی جہتہ  
 طرفہ خدا پس نشہ اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا تہ کس کوہ سائبہ وکیل جہتہ طرفہ خدا پس نشہ وَمَنْ  
 يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ بیہ نِس اکھاہ کانہہ پتھہ کاماہ کرہ۔ سمیک ضرر نہیں وائتہ تہ کرہ ظلم پان  
 پانس۔ یعنی سمیک ضرر اس پانس وائتہ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ توپتہ معہ مغفرت اللہ تعالیٰ اس تمہہ گناہہ  
 نشہ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا سولہ اللہ تعالیٰ اس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون وَمَنْ  
 يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ بیہ نِس اکھاہ کانہہ پتھہ کاماہ و نحو کما وان سوچھونہ کما وان کینہہ مگر  
 پنہ نسی پانس پتھہ بڈ خرابی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سوروی زانہ ون سارنی کاین  
 اندر سیٹھاہ حمتہ وول وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا و ون نِس اکھاہ کانہہ گناہہ نہ  
 زانہہ یازانہہ کرہ پانہ توپتہ لگہ بڈ ہانہہ کانہہ بے گنہس فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا پس تھین تم  
 کھور پنہہ گردنہ پتھہ اپریک تہ تہ گنہگ اکھ بوڈ بوراہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ بیہ ہرگز نہ  
 خدا یہ سڈ بوڈ فضل تہ بڈ رحمت توپتہ شامل حال آسما لہمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضْلَوْا البتہ تمبو

أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾  
 لَآخِرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۲﴾

آندرہ اک جہاتن کر یو مہختہ ارادہ توہمہ ڈالنے خیترہ، غلطی اندر تراونہ خیترہ وَا مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ڈالہ ہن تہ گمراہ کرہ ہن نہ تم مگر پنہ نے پان۔ نہمہ ہیجہ نوہ نہ کانہ ضررتہ نقصان و اتاوت پنہ نیو چالاکیو اندرہ کئہ چیزہ سیت وَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کیازہ اللہ تعالیٰ آن سوز توہمہ پیٹھہ یہ کتاب (قرآن مجید) بیہ پچھہ ناو نو تہمہ عقلہ ہنزہ کئہ۔ بیہ پچھہ ناو نو تہمہ تمہ تمہ کئہ سمہ نہ تہمہ زاہو بروٹھہ وَا كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ہمیشہ رُود توہمہ پیٹھہ اللہ تعالیٰ سُد بوڈ فضل لَآخِرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ کانہ خیر و برکت پچھہ عام لوکن ہندین اکثر پوشیدہ مشورن اندر۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مگرے کانہ تموا اندرہ خیرات کر ٹک یا کئہ رتہ کامہ ہندہ کر ٹک یا لوکن اندر اتحاد و اتفاق کر ٹک تجویز و ترغیب آسہ کورمت۔ تمن مشورن اندر پچھو واقعی خیر و برکت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نُس اکھاہ امہ قسمیہ کامہ کرہ محض خدایہ سُد رضا تہاندنہ خیترہ۔ ریاست تہ شہرت حاصل کرنہ خیترہ نہ نُس کروا س نُس بروٹھہ پین عطارت مژور۔ مگر تمن خیانت کرہ و نین ہند پو شیدہ مشورہ امہ قسمک پچھہ کیازہ تموا کر مخالفت نبی کریمہ سز۔ وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نُس اکھاہ مخالفت کرہ رسول کریمہ سز ہدایت و تھہ تس نشہ وارہ ظاہر سپدن پتہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ کرہ پیروی

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ أَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ  
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ  
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

بالیمان ہمزہ و تہ و رای بیہ کنہ و تہ ہمزہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا پھر وہ  
سُوَ اس تہ تہ طرفس کن یتہ کن سُو پھیو رُو نیا س منز۔ یہ سُو کر نہ لوگ تی دموس کر نہ۔ وگ ترا ووس  
ڈن۔ مگر و اتا وون سُو اس پتو لاکہ نارِ جہنم۔ سینہا پچھہ سوتہندہ و تاج جایاہ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ہمزہ پڑ پات اللہ تعالیٰ کرہ نہ بخشائش سزا دتہ تہ تہ تہ تہ کہ تہس کیا ایہ کانہہ چیز ایہ  
کانہہ شخصہ تہند شریک ٹھہرونہ۔ بلکہ چھو مٹر کس ہمیشہ ابد الابد سزاس منز گر فثار روزن وَيَغْفِرُ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہ و رای تم گناہ آسن تم کرہ مغفرت تہ بخشائش اللہ تعالیٰ سزا وند و رای  
تہس یرتہہ تہ تہس۔ گناہ صیغہ آستن یا گناہ کبیرہ۔ البتہ اگر مشرک شرک نشہ پتہہ روزہ، پوز توبہ کرہ،  
بصدق دل مسلمان سپدہ، کنس خدا تہس پڑہ کرہ سولہ تلہ عذاب دائمی نشہ نجات۔ مٹر کس بخشائش نہ  
سپد نک وجہ چھو ای زہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا تہس شخصہ اللہ تعالیٰ اس سیت  
کانہہ شریک ٹھہر او ان چھو۔ سُو چھو امر حقہ نشہ دور جہہ گمراہی اندر پیوان۔ سُو امر حق گو توحید باری  
تعالیٰ تہس عقلہ کن نہ واجب چھو۔ تمہ علاوہ چھو حضرت خالق مطلق سدا یو چھو توادندرہ تہس تعظیم کرن  
لازم۔ مشرک چھو پنتہ شرک سیت حضرت خالق سزاہانت تہ بے تعظیمی کران۔ تمہی چھو تہس عذاب  
دائمی سزا مقرر کر نہ امت باقی گناہ تم چھہ اگر چہ تم چھہ گمراہی مگر توحیدس خلاف چھہ تمہ موکھ آی  
تم قابل عفو و مغفرت قرار دند۔ شرک تہ ٹھہر گوئی نای قابل مغفرت آسنس اندر کیا زہ ٹھہرس اندر تہ  
چھو انکار خالق لینہ یوان ہند اچھہ دوشوے نای قابل مغفرت۔ سزاوار عذاب ابدی۔ تم مشرک کا تیاہ



## الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿۱۱۸﴾

سیت ملناوہ وین زنائن یتھہ گون مس بوزنہ پیہ بھتس، ڈیکس لہتھہ وال کڈوونین زنانن۔ ذندن پھہر وا وہ سیت یابہ گنہ چیزہ سیت خوبصورتی خیطرہ بخر اوہ وین زنانن۔ تکی کیا گیہ خدایہ سزہ پیدہ گرمہ شکلہ تغیر دیوہ ونہ زنانہ۔ تھتھ پاتھہ پھو حدیث شریفس منز آمت زین الرجال باللحی وزین النساء باللواتب مردن آوزینت ونہ ریشہ سیت۔ زنانن آوزینت ونہ متہ سیت۔ لہذا گو مردن ہند ریش کائن یا کر بن یا زنانن ہند مس کائن یا کر بن خدایہ سزہ پیدہ کرہ موہ شکلہ تغیر دین۔ امکوی تجویز پھو انسانس شیطان کران توے پھو ریش کائن گناہ کبیرہ اندرہ۔ تمہ علاوہ چھہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس صریح کھمس، ریش کاسنہ سیت مخالفت سپدان۔ بخاری شریفس منز پھو حدیث شریف کہ فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبہ کمر وای مسلمانو، بایمانو، مٹرکن ہنز مخالفت، تہہ تھاوو ریش پور، گونژہ کمر و پست مٹرک چھہ گونژہ تھاوان تہ ریش کاسان۔ بیاکھ حدیث شریف پھو صحیح مسلمس اندر کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المحوس والمشرکین مخالفت کمر و آتش پرستن ہنز پیہ مٹرکن ہنز۔ مٹرک آس ریش کاسان۔ مجوس آس ریش کرپان۔ یہ پھو صریح فرمان پیغمبر اسلام ریش متعلق۔ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان قرآن مجیدس اندر فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان یتصیبہم فتنۃ او یتصیبہم عذاب لیلہ کھو تن تم لو کہ تم پیغمبر برحقہ سندس کھمس مخالفت کرن کہ تمن ولتہ دنیا س اندر بدبلیاہ آخرتس اندر کڈر عذاب۔ بیس آیہ کر تمس اندر پھو اللہ تعالیٰ فرماوان واما کان لیؤمنن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا ان یكون لہم الخیرۃ من امرہو ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضلالًا مبینًا کاسنہ با ایمان مردس یا با ایمان زنانہ پھونہ ہرگز۔ تمہ تھہ ہند اختیار کہ بلہ اللہ تعالیٰ پیہ تہند پیغمبر گنہ تھہ متعلق کاسنہ کھماہ فرماوان تمن کیاہ روزہ کاسنہ گنجا پشاہ تھہ کھمس بدل کر چن بس شخصاہ خدا ورسولہ سندس کھمس بدل کرہ بس بھتیک سو پیونہ گراہی اندر۔ بیوک انجام پھو نار جہنم۔ کوتاہ افسوس تمن مسمان ہندہ حقہ تم رسول کریمہ سندہ بھتیک تہ متاعک دعویٰ دوان چھہ تو پتہ چھہ تہندس اتھہ صریح کھمس مخالفت کران۔ ریشہ کاسنہ سیت۔ تہند کھم بس پشت تراوتھہ نظر انداز کر تھہ شیطانہ سندس کھمس تعمیل کران۔ تسزہ لاف زنی ہند تصدیق کران۔ امی پھو شریعتک کھم کہ بس ریش کاسنہ یا کرہ سو پھو فارق۔ ومن یتخذ الشیطان ولیًّا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا وون بس اکھاہ شیطانس





وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۳۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ  
 مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۳۴﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ  
 دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

سَوَاءً يُجْزَىٰ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا کس کس شخصہ اطاعت منہ کی کران  
 کانہہ پیچھے کوماہ گرہ۔ سواز قسم عقائد استن یا از قسم اعمال استن تنہہ بدلہ بیہ کس ضرور سزا دہہ آخر کس  
 اندر۔ ہر گاہ سو پیچھے کوم از قسم عقائد شرکی و کفری آسہ تلہ چھو تمن عذاب دانہس نہ سزاہ ابد کس  
 گرفتار سپدن۔ ہر گاہ سو پیچھے کوم عملی آسہ تمہہ نشہہ توبہ آسہہ امت کر نہ۔ تنہہ خدایہ سندہ طرفہ  
 بخشاش آسہہ سبز مثلہہ بیہ کس سزا دہہ کئہہ مخدود و قس تان۔ تمہہ عذابہ نشہہ کبہ نہ سُو خدا کس و رای  
 کانہہ کس کانہہ دوستس، کانہہ مددگار کس کس تمس مولا وہہہ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ  
 أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بیہ کس اکھاہ کانہہ رز کاماہ گرہہ۔ مرد و آندہہ یا زانا و آندہہ با ایمان آسہہ  
 فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کس تے لوکھ واتن جنس تمن لیہ نہ کئہہ قسمہ ظلم  
 کر نہ تہمز کانہہ صحیح عمل لیہ نہ ضائع کر نہہہ آسہہ کر تمس منز آؤ ذکر کر نہہہ با ایمان آسک۔ امہہ اندرہ  
 چھوہہ اور تے تم تنہہ دینس پیٹھہ آسک کس دین خدا کس نشہہ منظور تہ مقبول دین آسہہ۔ سُو گودین اسلام  
 ”اہل اسلام“ گے تے تمن منز تم ترہہ صفت آس۔ پور تہ کامل فرمانبرداری۔ اخلاص بیہ اتباع ملت ابراہیمی۔  
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کس اکھاہ چھو رت دینہ کن، تمس شخصہ سندہ خوتہ تم پن گردن دار، پن تنہہ  
 کورن معبود بر حقس کس یعنی فرمانبردار سپد عقائدن تہ عملن اندر۔ در حال ہیہہ سُو آسہہ با اخلاص ساری  
 کماین اندر۔ کانہہ عملاہ گرہہ نہ کئہہ ذاتی مصلحتہ یا ظاہر داری خیطرہ۔ بیہ کرہ متابعت حضرت ابراہیمہ  
 سندس ملتس یعنی اسلامس۔ تنہہ منز نہ کئہہ قسمہ ہجر تہ کئی چھو۔ تمہہ علاوہہ چھو سُو ملت قابل اتباع تہ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۱۵﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۱۶﴾  
 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا  
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا  
 تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

پیروی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پہنچو اختیار کورمٹ حضرت ابراہیم بن مخلص  
 دوست۔ یہ کتھہ چھو ظاہر کہ دوستہ سدس طریقس پیٹھہ پن چھو محبوب نہ مقبول آسان۔ تم تہندہ ملیج  
 متابعت کرن تہندی خیرہ چھو نجات نہ سعادت۔ اللہ تعالیٰ سنزی پورا طاعت کرن چھہ لازم کیا زہ  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدلیہ سنزوی چھو تہ سنزوی یہ آسان نہ زمین اندر چھو  
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا یہ چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس احاطہ کترتھہ پنہہ علمہ سیت۔ امنی دون  
 چیزن پیٹھہ چھو وجوب اطاعتک دار و مدار کہ کمال سلطنتس پیٹھہ۔ یہ کمال اطلاع و علمس پیٹھہ۔ تم  
 دو شوے چیز چھہ اللہ تعالیٰ سی منز بدرجہ اکمل موجود وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ای پیغمبر برحق  
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض چھہ لو کہ توہمہ یتیم زنان ہندس نکاحس متعلق تلوے پڑھان قُلِ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تہہ فرماو یو کہ اللہ تعالیٰ چھو توہمہ اجازت ووان تمن سیت کاح کر نگ۔ بشرطیکہ تہہ  
 کمر و تہند حقوق پورہ او۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ  
 مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ دون تم آیات پر نہ یوان چھہ توہمہ پیٹھہ تمن چھو  
 تعلق تمن یتیم زنانن سیت تمن نہ تہہ سو پن حصہ ووان چھوہ لیس تہندہ خیرہ مقرر کرنہ امت چھو۔  
 یہ چھوہ تہہ خواہش تھوان تمن سیت کاح کر نگ چھہ تہی بہانہ کھیو تہندہ مال۔ تمن یتیم زنانن ہر  
 گاہ تمہ مال و جائدادہ نہ حسن و جمالہ واجبہ آسن تلہ چھوہ تمن سیت کاح کران مگر شریعتہ موجب لیس  
 میراث نہ مہر تہند حق چھو آسان نہ چھو کھنہ برابر او کران۔ اگر صاحب حسن و جمال تمہ آسان

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۷۲﴾  
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

بہنہ تلوہ چھوہ تمہن سیت نہ پانہ نکاح کران نہ چھو کہہ بیہ کانسہ سیت نکاح دوان کرنہ۔ کیا زہ ٹھہ چھوہ  
آسان کہ جہند مال و دولت ماروزہ نہ تلوہ اسہ نش وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان ضعیف تہ بے کس لو کٹین ہندہ حقہ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان کہ یتیم ہندہ حقہ کمر و پر ہتھہ معالسا اندر عدل تہ انصاف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بیہ چھو واورہ سمہ کتھہ ہند خیال کہ یوسہ رثا کا ماہ تہہ کمر و یتیم تہ زنانن نسبت تہ  
سوزی چھو واورہ پات اللہ تعالیٰ پور زنانن وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا بیہ  
ہر گاہ کانہ زنانہ کھوڑہ تہ اندیشہ کرہ پنہ نس خاوندہ سدس مای تہ محبت باقی نہ روزہ نس بے التفاتی کرہ  
نس۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اتھہ صور نس اندر چھو نہ کانہ حرج تمہن  
دوشون ہر گاہ ہم پانہ وان کتھہ طریقہ صلح کرن۔ مثلاً اگر زنانہ یرھان آسہ کہہ بوروزہ ہامسی خاوندس نشہ  
بیہ گوڑھ نہ میہ تراوت بیا کھ کالج کرن۔ اتھہ صور نس اندر تراوہ سوبین کینہہ حقوق سم جہند مردس  
پیٹھہ آسن۔ مردس چھو جاہز تمہن تسلیم کرن تہ زنانہ سیت صلح کرن وَالصُّلْحُ خَيْرٌ تنازعہ خوتہ،  
جدائی تہ موبکارہ خوتہ چھو صلحی رت تہ بہتر وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ انسانی طبیعتن چھو سیت تھا  
ونہ امت بجل۔ پر ہتھہ اکھاہ چھو یرھان خرچس اندر کمی کرن۔ ہر گاہ زنانہ اخراجاتن اندر کمی کرہ۔  
مردس بیہ یوزنہ میہ سپد مالی فاندہ۔ سو سپدہ امس زنانہ پانس سیت تھو نس پیٹھہ راضی۔ دوشون باثون  
ہنز خواہش تہ طبع یلہ پورہ سپدہ دوشوے سپدن صلحس پیٹھہ راضی وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  
 بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا  
 كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا نہس ہر گاہ جہہ ای مردوزنان سیت احسان کرو پچھہ سلوک کرنہ نشہ ہتھہ روزو  
 توہہ بنہ وہ بوڈ ثواب کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو ہتہزہ سارے کامہ پورہ زنانہ تمہی موجب دیوہ سو توہہ مزورہ۔  
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ یہ کتھہ پچھہ مسلم کہہ جہہ ہی کونہ ہر گزوار ہیکن زنانہ منز  
 سمن سیت توہہ کجیح کورمت آسوہ پر ہتھہ چیزس اندر عدل تہ برابری کمر تھہ۔ خصوصاً دلہ چہ مایہ تہ  
 محبتس اندر وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ ٹھہر دل آستن سو برابری کرن سیٹھاہ پڑھان مگر چوہیہ ذلک معاملہ  
 پٹھونہ کانسہ پنہ نس اختیارس اندر تمہہ موکھ پٹھونہ دلہ کس معاملس اندر باز خواست کینہہ مگر باقی معاملن  
 اندر سم اختیاری چھہ فَلَا تَبْلُغُوا كُلَّ الْمِيلِ تمہن اختیاری چیزن اندر گڑھنہ کسی زنانہ کن سوروی توجہ  
 تہ رغبت کرن فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سیمہ یک طرفہ توجہ کرنہ سیت بیا کھ زنانہ تراو ہون ہتھہ بالکل  
 الوند ہیو چیزہ۔ حقوق شریعیونشہ بالکل محروم۔ نہ کمر و تمسہ حقوق پورہ ادایمہ سیت سہ خاوندہ واجن  
 بو زنہ پیہ ہا۔ نہ ایہ موکلاوند رتہ طریقہ تائیکہ بو زنہ پیہ ہا سو بے نکاح تہ بے خاوند۔ بیا کھ شخصاہ گرہ ہا نس  
 سیت کجیح۔ امہ طریقہ زنانہ الا نرتھاون پیہ گوئس نسبت صریح ظلم کرن۔ ہر گاہ پنہ نس نکاحس منز  
 تھون آسہ تلہ تھایون رتہ طریقہ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا تھہ صورتس اندر ہر گاہ بروٹھہ کنہ ناگوار  
 معاملات آسن پیش امت تمہن معاملاتن کرو اصلاح آیندہ خیطرہ روزو تھہو معاملہ تونشہ بالکل ہتھہ۔  
 بروٹھہن معاملاتن کر وہ اللہ تعالیٰ تہ درگڈر فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
 حَكِيمًا وون ہر گاہ تمہن دون باژن منزکنہ طریقہ موافقت سپدہ نہ بلکہ سپدن تم ا کھ ا کھ نس نشہ جد اطلاقہ

اللَّهُ وَإِسْعَاحِكِيمًا ﴿۱۳﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ  
 اتَّقُوا اللَّهَ ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۱۴﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۱۵﴾ إِنَّ يُشَاقِدُ هَبْكُمْ

سیت یاخلعہ سیت تھے منزہ تھوں سمودویو منزہ کانہہ یہ خیال کہ میانہ وراوی پچہ نہ بنیس و تھے بلکہ کرہ  
 اللہ تعالیٰ پر تھے اگس سمودویو اندرہ بیس نغیر بے نیاز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا وسعتہ وول سیٹھاہ جمعہ  
 وول **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** اللہ تعالیٰ سزوی ملک چھو تہ سوزوی یہ آسمان اندر چھو،  
 یہ زمین اندر چھو تہس مالک حقیقی تہ مالک کلہ سنز فرمانبرداری کرن چھہ لازم تہ ضروری۔ امیک حکم  
 چھونہ توہی یوت کرنہ یوان **وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ**  
 بلکہ واقعی طور فر مو اسہ امیک حکم تمن لو کن تہ تمن آسانی کتاب یعنی تورات وانجیل عطا کرنہ آیہ  
 توہہ بروٹھہ۔ توہہ تہ چھو حکم کرنہ یوان کہ کھو تہواللہ تعالیٰ اس۔ تہند ساری حکم مانو۔ نافرمانی نغیر روزو  
 پتھہ۔ پتھہ سورہ شریفس چھو گوڈ کرنہ آمت امی حکمہ سیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ - فَإِنْ تَكْفُرُوا**  
 یہ کتھہ تہ آیہ تمن یهو وونصاری ان ہیہ توہہ تہ وارہ بیان کرنہ کہ ہر گاہ تہہ احکامن ہنز مخالفت کتھہ کتھہ  
 کرو تمیک چھونہ اللہ تعالیٰ اس کانہہ پروانہ کانہہ ضرر **فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**  
 کیا زہ اللہ تعالیٰ سزوی چھو ملک تہ سوزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تھس ہڈس پادشاہس چھونہ  
 کانہہ نقصان تہزہ نافرمانی سیت۔ بلکہ نقصان چھو توہہ پان پائس تھس ہڈس شہنشاہ اعظمہ سنز مخالفت  
 کرنہ سیت۔ **وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا** اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ ہندس اطاعت و فرمانبرداری کن محتاج۔  
 سو چھو کامل الصقات آسنہ مو کہ بذات خود تعریف کرنہ آمت۔ لہذا چھنہ کانہہ ہنزہ نافرمانی سیت  
 تہندین صفین اندر کتھہ قسمہ کی لبہ یوان **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا**

أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الْخَيْرِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ  
 قَدِيرًا ﴿۱۳۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ  
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۱۳۵﴾

اللہ تعالیٰ سزاویہ چھوٹے سوزوی یہ آسمان اندر تیز زمیں اندر چھوٹے سوزوی چھوٹے تین سارنی چیزن اندر  
 قادر مختار، پنے نین فرمانبردار بدن ہندہ خیطرہ چھوٹے سوزو کافی کار ساز سوتہند کار ساز آتھہ گوہ اکھاہ ہیجہ  
 تین فرمانبردار بدن ضرر و اتاوتھہ اِنْ كَيْشَأَيْدُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الْخَيْرِينَ اللہ تعالیٰ سمہ  
 دینہ چہ کامہ توبہ فرماوان چھوٹے چھوٹے سوزو تہندی سعادتہ خیطرہ فرماوان۔ ورنہ سوزو ہیجہ یہ کوم بین لوکن نشہ  
 تہ پورہ کرناوتھہ تمس چھہ اچ پور قدرت۔ ای لوکو توبہ رُو زونوہ یہ خیال کہ اس چھہ کمتان۔ ہر گاہ سو  
 یژ توبہ سارنی کرہ وہ ختم توبہ بدل انہ بین لوکن تمنی دپہ یہ کوم گرن وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا  
 اللہ تعالیٰ چھوٹے ہمیشہ پرستہ وقتہ آتھہ پیٹھہ قدرتہ وول۔ کانہ تہ ہیجہ نہ تہندس کھمس چھہ رٹھہ وول ہر گاہ  
 تم تہ یوژتہ نہ یہ چھوٹے تمند بوڈ عبادت تہ مہربانی۔ لہذا زونوہ تہ تمندین کھمن تعمیل گرن سیٹھاہ  
 غنیمت۔ بیہ پنے خیطرہ بوڈ سعادت۔ دینہ چن کامین ہند عوض تہ بدلہ نہ آخر تسی اندر۔ لہذا دنیاہ اس  
 منزدینہ چن کامین ہند نفع تہ فائدہ نہ ہند سیت مہ آسوبہ دل سپدان مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
 ئس اکھاہ دینچ کوم کترتھہ دنیاہ ک ثواب تہ نفع تہ فائدہ ژھانڈنہ سوزو چھوٹے سخت غلطی پیٹھہ فَعِنْدَ اللَّهِ  
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیاہہ اللہ تعالیٰ اس نشہ چھوٹے دنیاہ ک ثواب تہ آخر تک ثواب تہ۔ یلہ اللہ  
 تعالیٰ اس نشہ اعلیٰ تہ ادنیٰ دوشوے چیز ہندہ خیطرہ چھوٹے شرط با ایمان گرن۔ اکھہ پھر ہر تہ سپدنگ تہ چھوٹے  
 یوہے کھم۔ پس کیاہہ یہ ہست ہمت ہست ادنیٰ چیز تہ اس نشہ ژھانڈنہ یہ چھوٹے اس ہند۔ وَكَانَ اللَّهُ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ چھوٹے سیٹھاہ بوزن وول سیٹھاہ وچھن وول سارنی ہنزہ کتھہ، ممکن تہ  
 درخواست کرن چھوٹے بوزان۔ سارنی ہنزہ نین ہند چھوٹے اس پور علم۔ آخر تک ثواب ژھانڈنہ و نین دپہ  
 سوزی آخر تک ثواب۔ دنیاہ ک ثواب ژھانڈنہ و نین دپہ دنیاہ کوی ثواب مگر آخر ہیجہ ثوابہ نفع سپدان تم  
 محروم۔ لہذا گوہہ دینچ کوم یعنی عبادت کرت آخر تہ کسی ثواب اس امیدوار روزن۔ عبادت تہ دینچ کوم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ  
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا  
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا  
 وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۵۰﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

کرم گزیده گزیده نه دنیا ک ثواب نه مزور ژهانڈن۔ اُمہ اندرہ چھو نہ مراد دُنیا گزیده نه ژهانڈ نوئی نه بلکه  
 گزیده ضرور ژهانڈن۔ مگر عبادتک معاوضه نه بلکہ گزیده مُستقل طور خدا نِس نِسِه دُنیا ضرور ژهانڈن  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ اے باایمانو ساری معاملاتن اندر اداء کہ وقتہ  
 تہ یہ فیصلہ کر کہہ وقتہ تہ آسو عدل و انصاف پڑھے قایم روزان۔ ہر گاہ اقرار یا گواہی دینچ نوبت بیوان  
 آسہ تمہہ ساتہ تہ خدایہ سزہ خوشنودی خیرہ آسو پیز گواہی، حقیقت حال صاف صاف ظاہر کران  
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اگرچہ سو گواہی یا ظہار آستن تو بہ پنتہ حقہ مضر سپدان اَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 یا تہندس ملس ماجہ یار شتہ دارن متعلق مضر سپدان اِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا گواہی دیکہ وقتہ مہ آسو  
 سمہ کتھہ ہند کا نہ خیال تھاوان کہ تہ نِس پڑھے آسہ گواہی دین چھہ سو چھا میر کنہ فقیر۔ تہہ مہ آسو کانہہ  
 ہنزہ امیری و فقیری گن و چھان فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا اللہ تعالیٰ اس چھو تمن دوشون سیت تہندہ خوتہ  
 زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ چھو پڑھان اتھہ معاملس اندر پوز پوز راون فَالَّذِينَ تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا لہذا مہ  
 کرم و تہہ بیروی پنتہ فقیرہ خواہشہ ہنز پزہ نِسہ ڈلس اندر وَلَنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ہر گاہ تہہ گواہی دوان اوزک یور و نو۔ صاف صاف پوز، پوز و نو نہ یا پیز گواہی دینہ نِسہ  
 کروانکار۔ یاد تھاوزہ اللہ تعالیٰ چھو تہنزہ سارے کامہ پوز زنانان۔ سو دیہ تو بہہ پائے پوز سزا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے جمل پانہہ ایمان اے و نو تہہ یوزوارہ ضروری عقایدن ہند تفصیل۔ تو پتہ  
 کرم و تمن چیزن پوز پڑھے۔ پڑھے کرم و خدا یہ سدس ذاتس۔ یہ تہندس سارنی صفتن۔ یہ کرم و پڑھے تہندس

عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ  
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  
 بَعِيدًا ۝۱۳۶ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  
 أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝۱۳۷  
 بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ

پیغمبر یعنی حضرت محمد ہندس رسالتس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ یہ کبر و پڑھے تھے کتابہ  
 یوسہ کتاب تم نازل کرینے نس پیغمبر پیٹھے یعنی قرآن مجیدس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ یہ  
 تین ساری کتابن یہہ تم نازل کرہ قرآن مجیدہ بروٹھے بین پیغمبرن پیٹھے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُنس شخصہہ اکار کرہ خدا یہ ہندس ذاتس یا تہندین صفتن یہہ تہندین ملائکن  
 یہہ تہنزن کتابن، یہہہ تہندین پیغمبرن یہہ پتھس دوہس یعنی قیاس فقہ صلاک بَعِيدًا پزپاٹ  
 سو شخص پو حقہ نشہ، علم واقعی نشہ، یہہ مقصد اصلی نشہ، یعنی نجات نشہ گراہی ہندس سنس چاہس اندر  
 یہہ نہ دونوی چھوئےہہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا یہہ پٹ پٹ تم لو کہ  
 گووہ مسلمان سپد توہ پتہ یہہ کافر مُرد توپتہ سپد یہہ مسلمان توپتہ سپد یہہ مُردتہ کافر توپتہ کہ کہ زیادتی کُفْرَس  
 اندر مر کُفْرَس دُوس تان لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا یہہ نہ نہ زمانہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ  
 تمن مغفرت نہ بخشایش نہ ہلہ اللہ تعالیٰ تمن منزل مقصود یعنی جنٹس کن کانہ وتھاہ کیا زہ مغفرت نہ جنت  
 چہ ایمانس پیٹھے ثابت قدم روزن والسن کیتھرہ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  
 مُنَافِقِينَ سَمِعَ تھہ ہنز کہ تھہہہ خطرہ چھو آخرتس اندر سخت دودوہون عذاب تجویز کرنہ آمتس وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تم گئے ناتے سمو کافر بناوین دوست با ایمان تراو تھ  
 أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعَوْدَةَ تم چھامن نشہ گوہتھہ معززین یشھان تمن نشہ عزت بیجہ نہ کینہہ فَإِنَّ



الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا<sup>(١٣)</sup> وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  
 أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَقْعُدُوا  
 مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ<sup>(١٤)</sup> إِذْ أَمْثَلَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا<sup>(١٥)</sup>  
 لِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالَوْا  
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالَوْا أَلَمْ

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا از سوروی عزت چھوی خدا جس اٹھہ سوئی کس عزت یڑھہ دیکن کس بہ عزت  
 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَقْعُدُوا مَعَهُمْ اى  
 مُسلمانو جہہ مہ آسومناقن ہند پاٹھہ کافر ن سیت کانہہ تعلق تھاوان خصوصاً اسمہ وقتہ تم کھریاتن ہند  
 تذکرہ کران آسن۔ چنانچہ اسمہ بروٹھہ تہ چھو اللہ تعالیٰ ان سورہ العاص اندر حکم نازل کورمت توہم  
 پٹھہ کہ یلہ عنہ مجلسہ اندر خدایہ سندین آیات واحکا من نسبت انکار یا ٹھٹھہ آسہ یوان کرنہ تھہ مجلسہ منز  
 آہزنہ تہہ تمن سیت بہان حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ یوتان نہ تم بہہ کانہہ بدل کتھاہ تھان نہ  
 شروع کران آسن اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ ورنہ سپدو جہہ تمنی ہی گھس اندر۔ اٹھہ منز چھہ منن کافر تہ  
 پوٹھہ کافر یعنی منافق برابر۔ چنانچہ سزاء کفر یعنی نار جہنم تھہ منز تہ چھہ برابر اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ  
 الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سونبرہ ون نہ جمع کرہ ون منافق نہ  
 کافر ن نار جہنم منزاکہ وَ لِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ سیم منافق پیاران تہ امید وار چھہ آسان  
 تھندس نقصاس اِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالَوْا اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ توپتہ اگر توہم حاصل سپدان چھہ  
 خدایہ سدہ طرفہ کانہہ تھہ ساتہ چھہ تھدی ہتھہ توہم ونان اَس اَس ناتوہی سیت جمادس، منز شریک  
 آسہ تہ دیو کینہہ مال غنیمتہ اندرہ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ہر گاہ کافر ن حاصل سپدہ غلبک کانہہ  
 حصا تمہ ساتہ چھہ تمن نشہ گوہ تھہ تمن ونان قَالَوْا اَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَنْتَعِمُ مِنَ الْيُؤْمِنِينَ

نَسْتَحُذُّ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿۳۶﴾  
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا  
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ  
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾ مُذَبَّذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا  
إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا

کیا آس ہیو ان ناتوہہ پیٹھ غالب سپدن کیاہ آسہ بجاووناہہہ مسلمان نش آسہ کورنہ زانتھہ کر تھہ توہہہ بچاونہ  
خیطرہ مسلمان مدد سو طریقہ کوراختیاریمہ سیت جنگگ حال بدلیوونہہ سپدوہ غالب لہذا دیوایسہ تہ کینہہہ  
حاصل کرمتہ مالہ اندرہ غرض کہ دو شوی طرفو آس تم مال حاصل کران۔ دنیاء س اندرے تم اپزہ  
مسلمان ہتھ زندگی بسر کران آس مگر **فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اللہ تعالیٰ کرہ فیصلہ توہہہ تہ تم  
منز قیامتک دوہ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** تھہ فیصلس منز دیہ نہ اللہ تعالیٰ ہرگز  
کافرین مسلمان پیٹھہ غالب سپدن کا نہہ و تھہہہ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ** بڑپاٹھہ منافق چھہ آمہ  
دورنگی چالہ سیت ڈھوکہ دو ان پنہہ خیالہ خدائس **وَهُوَ خَادِعُهُمْ** سو چھو تہن امی قسمہ امیک بدلہ تہ  
سزاوندہ وول۔ چونکہ تہندین دلن اندر چھونہ ایمان کنہی تمہہ موکھ چھہ تہم نماز فرض زانانہ چھو تہن  
نماز پر نس پیٹھہ کنہہ ثوابک اعتقاد تمہہ موکھ چھہ تہند حال **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى** یلہ  
تم منافق دو تھان چھہ نمازہ کن و تھان چھہ سیٹھاہہ سستی سان کیا زہہ دلچسپی تہ فرحت چھہ اعتقادہ تہ  
امیدواری سیت پیدہ سپدن **يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** تم چھہ نماز پر ان فقط  
لوکن ہاونہ خیطرہ خدایہ سدا چھہ تہم کران مگر زیوہ سستی سو تہہ کمی **مُذَبَّذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ** کافرین  
تہ با ایمان در میان چھہ تم لائہہ۔ متردد تہ حیران۔ نہ اور تہ نہ اور۔ **لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ**  
نہ چھہ یم مسلمان سیت نہ چھہ یم تہندین دشمن یعنی کافرین سیت **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا**

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ  
 الْمُؤْمِنِيْنَ اَتْرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۳۶﴾  
 اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَّجِدَ  
 لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿۱۳۷﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ  
 وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِي  
 اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۳۸﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاۤئِكُمْ

تمن اللہ تعالیٰ تھہ راورہ تہندہ خیرہ لیونہ تہہ ہدایت تہ با ایمان نہ نچ کا نہہ و تھہہ یٰ اٰیہٰ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا  
 تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ای با ایمان تہہ بناؤ یو کہہ کافر تہہ منافق تہہ دوست  
 با ایمان تراوت اَتْرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا کیاہ تہہہ چھوہ یرشھان تمن سیت دوستانہ  
 لاکھہ پائس پیٹھہ خدایہ سندنون الزام ہیون تہہ پن پان خواجواہ مجرم تہہ مستحق عذاب بناون اسہ یلہہ توبہہ  
 ایچہ ممناعت کر تہہہ کیا زہ تھو و و تمن سیت دوستی اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ پز پات  
 منافق آسن جہنمہ کس بوئس طبقت اندر تر کس تکل وَلَنْ يَّجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا تہہہ کہن نہ تہہہ ای مخاطب  
 یہندہ خیرہ کا نہہ مددگارہ ٹس تمن عذابہ نشہہ بچاوتھہ ہیچہہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا  
 بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ مگر تمن تموا اندرہ نفاقتہ نشہہ توبہہ گرنہ بیہہ تمن یاتراوتھہ پن دین کور  
 خالص خدایہ سندہ رضا خیرہ یعنی تمن پنہ نین عقائدن اخلاقن تہہ اعمالن اصلاح کرن فَاُولٰٓئِكَ مَعَ  
 الْمُؤْمِنِيْنَ پس تمن توبہہ کرہ و ن لو کہہ آسن با ایمان سیت جنتہ کین در جن منز آخر تس اندر وَسَوْفَ  
 يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا اللہ تعالیٰ ویہ آخر تس اندر کاہل با ایمان بڈمزور سوون تمن توبہہ کرہ  
 و ن چھہ تمن تہہ کرہ اللہ تعالیٰ بڈمزور عطا- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاۤئِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْسْتُمْ وَاَنَّ  
 اللّٰهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ توبہہ عذابس گرفتار کر تہہہ ہر گاہہ تمسندن نعمن ہمز تہہہ

اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَاٰمَنَّا بِاللهِ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۳۷﴾  
 لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ  
 وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۳۸﴾ اِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفَوْا اَوْ تَعْفَوْا  
 عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۳۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ  
 بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقْرِضُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ  
 وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ

شکر گذاری کر و بیه یلمه تس پڑھے کر و اللہ تعالیٰ چھو لوکن ہمنزن عملن ہند قدر دان تمس چھہ سارنی ہندہ  
 حاج پور خبر - سو چھو زانان کوہ گمہ نیتہ چھو عبادت کران - گندس ولس اندر کوتاہ خلوص چھو لا یحب  
 اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران کانسہ ہنز بیچہ کتھہ زیوہ  
 بیچہ ہین تہ مشہور کرن مظلومس و رای یعنی یس ظلم کرنہ آسہ آمت - سوی ظالمہ سزہ کتھہ مشہور  
 کرہ تس چھو نہ کانسہ نناہ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا اللہ تعالیٰ چھو مظلومہ سہند فریاد یوزہ ون - ظالمہ سہند  
 حال پورہ زانہ ون اِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفَوْا اَوْ تَعْفَوْا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ہر گاہ رث  
 کوم ن پاتھہ کر و پاپوشیدہ پاتھہ یا کانسہ ہنزہ ہدی درگزر کر و سو چھہ رث کوم - پس اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ درگزر  
 کرہ ون سیٹھاہ قدر نہ وول - با وجوہ قدرت چھو درگزر کران لہذا آسو تہ تہ درگزر کران - تہہ بدل کرہ  
 اللہ تعالیٰ تہندین گنہن درگزر اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ بے شک تم انکار چھہ کران خدا یس  
 تہ تہندین پیغمبرن وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقْرِضُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ بیہ تم یشھان چھہ فرق کرن باعتبار  
 ایمان - خدا یس تہ تہندین پیغمبرن اندر یعنی خدا یس کرہ ہن یشھہ، تہندین بعضی پیغمبرن کرہ ہن انکار  
 وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ بیہ چھہ تم پانہ اقرار کران کہ آس چھہ، بعضی پیغمبرن ایمان  
 انان بعضین چھہ کران انکار وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقْرِضُوْا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ بیہ چھہ یشھان کفرس تہ  
 ایمانس در میان آتھہ ترم و تھہ کڈن اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا امہ قسمک لوکھ تم خدا یس ایمان

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ اُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاَلَمْ يُقِرُّوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُوْلٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۱۵۶ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى الْكَبِيْرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْهُمْ

ان پیغمبر تہمدین کرن انکار، یا اذین پیغمبر کرن پڑھہ نہ اذین کرن انکار جھہ یقیناً کافر وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا اسہ جھو کافرن ہندہ خیرہ عذابہ ذلیل کرہ ون تیار تھو ومنت سوی عذاب بیہ تمن نہ کرنہ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاَلَمْ يُقِرُّوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وون گنیہ تم لو کہ یو پڑھہ کر کنس خدایس بیہ تہمدین پیغمبر بیہ کر کہ نہ کانہہ فرق تین اندر پڑھہ کر جھہ اعتبارہ ایمان نہ جھہ اعتبارہ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ یعنی لو کن نبیہ کرہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر مزور پنن عطا یوسہ تمن شو بہ وَاَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ای پیغمبر برحق اہل کتاب یعنی یو دچھہ در خواست کر ان تو بہ کہہ تہہ والو تمن پڑھہ کتاباہ آسانہ پڑھہ۔ اتھہ اہدس ونہ نس مہ کرو اعتبار فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى الْكَبِيْرَ مِنْ ذٰلِكَ پس یقین در خواست تہ سوال کور تمبو حضرت موسیٰ آس امہ خوتہ بدہ چیز کہ فَقَالُوْا اَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً پس وون تمو حضرت موسیٰ اس کہہ ہاویون اللہ تعالیٰ ن پانہہ، بے حجاب۔ تا یجہ اس وچہون سو پنہ نیو اچھو فَاَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ چنانچہ اتھہ گستاخی پیٹھہ رٹ تم ترہہ۔ پنہہ ظلمہ تہ شرار تہ سبہ۔ تو پتہ گے حضرت موسیٰ سندہ دعایت بیہ زندہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ  
 الطُّورَ بَيْنَنَا وَهَمُ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا  
 لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۵۴﴾  
 فِيمَا نَقُضُوا مِنْهَا أَكْفَرَهُمْ وَكَفَرَهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ  
 بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

الْبَيْتَاتُ کوزکھ بیاکھ شرارت - ووژھ بنوؤکھ معبودین - حق و باطلیہ کا اثرانہ دلیلہ تمن نشہ واتنہ  
 پتہ یعنی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام تَعَفُّوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ پس کورہیہ آسہ تمن اتھہ بجرمس تہ  
 عَفْوَتہ درگدر تھند توبہ کورہیہ قبول وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا بیہ کور عطا آسہ حضرت موسیٰ اس  
 نون غلبہ، بیہ کافی رُعب - مگر نہ کرسان عفو تہ درگذر کرن کا نہ اثر تمن پیٹھ نہ حضرت موسیٰ سند  
 رُعبن - بلکہ رُوو تم بدستور پنہ نس شرار تس پیٹھ تہ نافرمانی پیٹھ - وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بَيْنَنَا وَهَمُ  
 بیہ تل آسہ کوہ طور تمن نشہ عمد رنہ خیلرہ تمن پیٹھ گن - مُعَلَّقٌ تہ الوند تھو تمن سیدہ سیدو وَقُلْنَا لَهُمْ  
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ کراسہ، حکم تمن شر کہ دروازہ کن آؤو خدا پس گن نمتھ - وَقُلْنَا لَهُمْ لَا  
 تَعْدُوا فِي السَّبْتِ بیہ کریو حکم آسہ تمن بنہ وارہ ووه مہ ڈلوسانہ حکمہ نشہ گاڈر ٹنس اندر وَأَخَذْنَا  
 مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بیہ کرہ نا و آسہ تم وارہ پاتھہ عمد تہ اقرار مگر تمو پٹھہ اوساری عمد تہ اقرار فِيمَا  
 نَقُضُوا مِنْهَا أَكْفَرَهُمْ وَكَفَرَهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ پس امی سبہ کہ تمو کیا پھڑ ووسوہنن عہد - بیہ کوزکھ انکار خدایہ  
 سندن آیاتن وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ بیہ کھر کہ شہید حضرت انبیاء ناق، کھر آسہ تم عذابس  
 گرفتار - وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بیہ تھندہ بیہ ونہ موکھ کہ سان دل چھہ محفوظ تمن کرہ نہ کا نہ بیاکھ  
 مخالفت دین یعنی اسلام تھہ قسمہ اثر - بیہ ونہ اندرہ چھو تھند مُراد کہ آس چھہ پنہ نس مذہبس پیٹھ مضبوط تہ  
 پیٹھ - بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ مضبوطی و پیٹھہ گی چھہ کینہ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تھندہ کُفر سبہ  
 تھندین دکن پیٹھہ شروک دیو تمت تہ مہر کر مرث - تا اینکہ پڑہ تھہ ہند اثر چھو نہ بہندین دلن پیٹھہ سدان

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۵۵﴾ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿۵۶﴾ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿۵۷﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس ایمان آن نہ تم مگر کمی۔ سو کم ایمان قابل قبول ہتھونہ لہذا چھہ تم بے ایمان نہ کافرے وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا یہ کمر آہ تم عدالہس گرفتار تہندہ کفرہ سبہ۔ بیہ حضرت مرتس پیٹھہ بڈا پڑتہ بہتان نووراونہ سبہ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ بیہ یہ دعویٰ کرنہ سبہ کہہ آہہ مور حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریم سہند پچو پیٹھہ خدا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حالیکہ یہ چھہ تم محض غلط تہ اُپزوان۔ حقیقت چھہ کہہ نہ مور سو تمونہ دیو چھہ پھہہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ آویاکہ شخص تم ہئو بناونہ۔ سوی ڈکھور تموکا ٹھس۔ سوی شخص دیو چھہہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْهُ پترپاٹھہ تم آتھہ منز اختلاف کران چھہ اہل کتابو آندرہ تم چھہ بڈس شکس تہ غلط خیالس منز یسمت مالھو بہ من علم چھہہ تم ان کا نہ خبراہ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ تخمینہ تہ قیاسی ٹھن پیروی کرنہ وراہی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا \* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ حقیقت چھہ یہ کہ ہرگز کرنہ تمونہ ہئو دو حضرت عیسیٰ شہید۔ بلکہ کھار تم اللہ تعالیٰ ان پاس گن آسانس پیٹھہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سارنی پیٹھہ غالب حکمتہ وول پتہ قدرتہ سیت تہ حکمتہ سیت موکہ لوون حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہندہ شرہ نشہہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ پترپاٹھہ اہل کتابو آندرہ کہنہہ لوکہ آن ضرور حضرت عیسیٰ اس ایمان تہندہ مرنہ بروٹھہ امہ آندرہ تہ چھو معلوم سپدا نکہ ونہ چھہہ تم مومت کہنہہ بلکہ چھہ ونہ زندے آسانس پیٹھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿۱۵۸﴾ فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا  
 حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
 كَثِيرًا ﴿۱۵۹﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
 بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۶۰﴾ لَكِنَّ  
 الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْبُقِيْمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۶۱﴾

شَهِيدًا قیامتک دوه دن تم یعنی حضرت عیسیٰ تمین یہودن ہندہ انکار کرچ گواہی فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِيبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ پس یہودن ہند یو ظلموتہ نافرمانیو سبہ کراس حرام تمین پیٹھے  
 رت رت لذیذہ مفید چیز تیم تمین پیٹھے حلال آس بروٹھے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - یہی تہندہ  
 واریمین لوکن خدایہ سنزہ وتہ یعنی دین حقہ نشہ پتھے رنجہ سبہ - وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ یہی  
 سودہینہ خیترہ - حالانکہ تمہ نشہ اوس تمین منع آمت کرنہ تور اتس آندر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 یہی تہندہ وراکی لوکن ہند مال ناق مشروع ذرا لہو وراکی کھینہ خیترہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
 آسہ چھو تمہو آندرہ کافرن ہندہ خیترہ تبار تھاومت عذاباہ سیٹھاہ کڈر - لَكِنَّ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لیکن تیم یہودو آندرہ علم دیس آندرہ بختہ چھہ یہی  
 تیم تمہو آندرہ با ایمان چھہ تیم چھہ پڑھ کران تھہ کتابہ یوسہ تمین نازل آسہ کرنہ یہی تمین بتانن سمہہ تمہ  
 بروٹھے نازل آسہ کرنہ - وَالْبُقِيْمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہی تیم  
 تمہو آندرہ نماز پڑھون چھہ، یہی تیم زکوٰۃ دوه دن چھہ - یہی تیم پڑھ کرہ دن چھہ کنس خدایس یہی پتس  
 دوس یعنی قیامتہ کس دوس اُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی لوکن گرو آس عطا آخرتس منز



اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ  
 وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ  
 وَاَلْسَباطِ وَعِيْسَى وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَهٰرُوْنَ وَسَلِيْمٰنَ  
 وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ﴿۳۷﴾ وِرْسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ  
 قَبْلُ وِرْسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَاَكَلَمَ اللّٰهُ مُوسٰى  
 تَحْلِيْمًا ﴿۳۸﴾ وِرْسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ  
 عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَاَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۳۹﴾

مزدیہ سیٹھاہ بڈ۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ پڑھاٹھ اسہ سوزوخی توہمہ  
 گن یار سول اللہ تھے پاٹھ تھے پاٹھ اسہ وحی سوز حضرت نوح سے تین پیغمبران پیٹھ تم ن پتہ۔ وَاَوْحَيْنَا  
 اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْسَباطِ وَعِيْسَى وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَهٰرُوْنَ وَسَلِيْمٰنَ  
 وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا تمہا آندرہ بعضی حضرات تم گن اسہ وحی سوز مثلاً حضرت ابراہیم گن حضرت  
 اسماعیل گن حضرت اسحاق گن، حضرت یعقوب گن، تہمدین اولاد گن بیہ حضرت عیسیٰ اس گن  
 بیہ حضرت ایوب گن، حضرت یونس گن، بیہ حضرت ہاروس، بیہ حضرت سلیمان۔ بیہ سوز اسہ  
 حضرت داوود گن وحی۔ اسہ کتر عطا تم پن کتاباہ زبور وِرْسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ  
 وِرْسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَاَكَلَمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَحْلِيْمًا بیہ سوز اسہ وحی تم پیغمبران گن یہند حال  
 بروٹھ اسہ بیان کور۔ یہنز ذکر سورہ انعامس منز کرنہ آمرٹھ۔ بیہ تم پیغمبران گن یہند حال نہ ونہ  
 اسہ توہمہ بیان کور بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حضرت موسیٰ سے صاحب وحی۔ چنانچہ تم سیت کور اللہ تعالیٰ ان  
 کلام خاص طور کلاماہ وِرْسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ تم ساری پیغمبر سوز اسہ ایمانس پیٹھ نتاج بشارت ودہ ون  
 وَمُنْذِرِيْنَ کفرس پیٹھ عذابک بیم کرہ ون لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

لَٰكِنَ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِۦ وَالْمَلٰٓئِكَةُ  
يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿۲۷۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ  
صَدُّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّا لَّعِيْدًا ﴿۲۸۰﴾ اِنَّ  
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ اَمَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ  
طَرِيْقًا ﴿۲۸۱﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِكَ

پیغمبر بناؤتھے سوزاںہ تم می موکھ کہ بیٹھنہ لوکن عذراہ خدا بس نشہ پیش کرنہ خیرہ ہ باقی روزہ تم  
حضرات انبیاء سوزنہ پتہ۔ ورنہ تم ہمیشہ کن ورتھہ قیامتک دوہ وار سین کھن ہندرت آن سپد نہ اہ  
معلوم عقلہ سیت لہذا کیا ہٹا ہٹھو سون یہ ونہ بچ تھاونہ خدا من کانہ گنجائش وکان اللہ عزیزاً حکیمنا  
اللہ تعالیٰ چھو پنہ نین کامین اندرسارنی پیٹھہ غالب تمہ اعتبارہ ہمیشہ ہا سوتمن عذابس گرفتار کرتھہ۔ مگر  
سارنی کامین منز چھو حکمتہ وول تمسنز جمت سپنر مقضی پیغمبر سوزنس لکن اللہ یَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ  
اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چھو گواہی ووان تمہ کتابہ ہندہ ذریعہ ہوسہ توبہ کن نازل کرن۔ نازل نہ  
کرن سونپنہ کمال علیہ سیت۔ تمہ کتابہ جن نہ انسان اولین و آخرین عاجز کرتھہ ہیواکھ آینہ کریمہ  
پیش کرنہ نشہ تمی سببہ چھہ سوتکتاب ہڈ دلیل تھندس نبوتس پیٹھہ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ۔ سببہ چھہ  
ملا یک تہ گواہی ووان تھندس نبوتس پیٹھہ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا حقیقت چھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو گواہ آسرس  
اندربس۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّا لَّعِيْدًا بیتک سمو لو کوونہ  
دلیلہ وچھتھہ تہ انکار کورہیہ رچھہ لوکھ تہ پتھہ خدایہ سزہ ورتھہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ تم ڈل سینرہ ورتھہ  
نشہ۔ پزہ نشہ سیٹھاہ دور گمراہی اندر اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ اَمَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ  
طَرِيْقًا پزہ پات سمو لو کو انکار کورہیہ کورکھہ ظلم لوکن نقصان عظیم و اتا ونہ سیت، دین حقہ نشہ پتھہ رتنہ  
سیت اللہ تعالیٰ کرنہ تم زانمہ تہ بچائش۔ سببہ ہا ونہ تم ورتھہ جنس کن اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا  
اَبَدًا مگر ہا ویکہ بچ ورتھہ تھہ منز چھو روزن تم ہمیشہ ابد آباد وکان ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ يَسِيْرًا اللہ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَاْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
 إِلَّا الْحَقَّ ۗ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ  
 أُلْقِيَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ

تعالی اس نیشہ چھوہ سزا دین تم سبھاہ سہل تہ آسان  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَاْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ای ساری جمانہ کیو لکو پڑیاٹ آو توبہ کن یہ پیغمبر برحق حضرت محمد عربی  
 صلی اللہ علیہ وسلم پڑتھہ، پوزد عوی تہ پزد لیل ہتھ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ لہذا چھو پوزد عوی  
 دلیل آسہس لازم کہ ہتھ کرو پڑھہ تمن بیہ کرو یقین تھہ یہ تم فرماون۔ یہ چھو تہندہ خیطرہ سبھاہ بہتر  
 فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر گاہ ہتھ انکار کرو تمیگ نقصان چھو توبہ پائس۔  
 خدا بس چھونہ تمیگ کانہہ پرول کیا زہ بیشک تہندوی چھو ملک تہ سوزی یہ آسمان اندر تہ زمینس اندر  
 چھو۔ لہذا تھس بڈس مالکس کیاہ نقصان ہیکو تہہ واتناو تھہ پنہ انکارہ سیت وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا اللہ تعالی چھو پوز زان وول ساری ہندہ ایمانک تہ کفرک۔ حمتہ وول تہنر حمت چھنہ  
 مُقْتَضًى تھہ تھہ کہ معر کیا گروہن فور اگر فقا عذاب کرنن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ای اہل  
 کتابو یعنی نصاراومہ کرو پنہ نس وینس اندر زیادتی۔ حدہ نیشہ مہ نیر و نیر پیغمبرن ہندس تعریف کرنس  
 اندر۔ مہ ٹھہراویو کھہ تم خدایہ سند پجو۔ خدا چھو اولاد آسنہ نش منزہ تہ پاک۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا  
 الْحَقَّ بیہ مہ و نیو خدا بس نسبت کینہہ تہ مگر تی یہ پوز چھو إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ  
 كَلِمَتُهُ چھونہ حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریمہ سند پجو۔ مگر چھو پیغمبر خدایہ سند بیہ تہند حکم اُلْقِيَ  
 إِلَى مَرْيَمَ بس تم واتنوو حضرت مریمس کن وَرُوحٌ مِنْهُ بیہ چھو اللہ تعالی سند آک زوحہ وول یعنی

تَقُولُوا شَئْنَةٌ إِن تَهْوَأَخْبِرُكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ  
 سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۱۴﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ السَّيِّئُ أَنْ  
 يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ  
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَبِّحْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۱۵﴾

جانداراہ۔ سو جان تہ زوواتنوا اللہ تعالیٰ ان جبریل اینہ سندہ پھو کہ کہ واسطہ حضرت مرتس منز۔ سونہ  
 چھو خدایہ سند پونہ چھو خدا۔ نہ چھو تریو خدایہ اندرہ اکہ تم ساری عقائد چھہ باطل تہ اہز یلہ سمہ  
 سارے کتھ باطل تہ اہزہ چھہ لنداکرو چھہ ساری امہ نشہ توبہ۔ قَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ پس پڑھ کرو  
 کنس خدا پس یہ تہندن پیغمبرن۔ تمنی ہنزہ تعلیمہ موجب زانیون خدا کنوی، توحید کرو اختیار۔ تثلیث  
 گالوتہ توحید پالو وَلَا تَقُولُوا شَئْنَةٌ۔ یہ کتھ منہ ونیو کہ خدا چھہ تریہ إِن تَهْوَأَخْبِرُكُمُ۔ یہ گو  
 شرک۔ پڑھ کتھ ونہ نشہ یعنی شر کہ نشہ زو و پتھ تی چھو تہندہ خیلہ بہتر إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ  
 کیا زہ معبود بر حق چھونہ مگر کنوی سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ منزہ تہ پاک چھو سوا اولاد آسنہ نشہ۔  
 تمس کیاہ ضرورت چھہ اولاد ن، ہنز لہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تہندی چھو تہ سو روی یہ  
 آسمان اندر چھو یہ زمین اندر چھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا سو چھو سارنی بدن ہنزہ کامہ خیلہ کنوی  
 کافی۔ سوی چھو کار ساز مطلق۔ یہہ چھہ تمسیدہ معبود بر حق آج بڈ دلیل۔ تس و رای تم چھہ تہ تم  
 ساری چھہ کار سازی اندر تس گن محتاج۔ لہذا چھونہ معبود آسٹس سزوار تس و رای کا نمہ تہ۔ نصاری  
 چھہ بل حضرت عیسیٰ اس تہ ملائکہ مقرر بین معبود تہ خدا زانان۔ حالانکہ تمو کرنہ پانہ زانہ انکار خدایہ  
 سد بندہ آسنہ نشہ۔ نہ کرن تم زانہ تمہ نشہ عارتہ مند چھہ۔ یہ کرن نہ زانہ مند چھہ تہ عار ملائکہ  
 مقرر بین مثل جبریل امین وغیرہ۔ کیا زہ تم چھہ خبری کہ خدایہ سنزہ بندگی نشہ عارتہ مند چھہ کرنک  
 نتیجہ کیاہ چھو لَنْ يَسْتَنْكِفَ السَّيِّئُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عار چھونہ زانان

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ  
 يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ (۴۶) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ  
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝ (۴۷) فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

پانہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدایہ سُبْحَانَهُ آسمان سے نہ مقرب ملائکے وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ  
 وَيَسْتَكْبِرْ تَمَّ جَهَنَّمَ زانان کہ جس کھا خدایہ سز عبادت کرنے نشہ عارتہ بحیرہ کرہۃ فَيَسْخَرُهُمُ إِلَيْهِ  
 جَمِيعًا پس اللہ تعالیٰ کرہ سارنی لوکن پانس برونھ کنہ قیامتک دودہ جمع فَاثُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تویپتہ سمولولو کویمان انتھ رثہ عملہ آسن کرہ  
 مرہ تمن دیہ پوز موزرہ یہ کرکیہ زیادہ بمن فضل عطا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ  
 عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بیہ سمولولو کو خدایہ سز عبادت کرنے  
 نیشہ عارتہ بحیرہ کورمت آسہ پس کرہ تمن عذاب۔ سؤی آسہ کڈر عذاب۔ تویپتہ لمن نہ تمن پنہ رہائی  
 خیطرہ خدایس ورا ی نہ کانہ دوستانہ کانہ مدگارہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ای ساروی لوکو بیشک آسہ توبہس کن تہدیس پروردگارہ سیدہ طرفہ بذ  
 دلیل، ہڈجنت یعنی ذات مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیہ کوراسہ نازل توبہس کن  
 نورہ روشن تہ صاف یعنی قرآن مجید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ پس سمولولو  
 پڑھ کمر کنس خدایس بیہ زود تھپ کمر تھ تہدیس دینس سمہ خیطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ  
 قرآن مجیدس پڑھ کرن لازم چھ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ پس واتا وہ تمن سؤپنہ نس  
 رحمتس اندر سؤگو جنتس بیہ فضلس اندر سؤگو چتچہ حجہ نعمہ، دیدار خدایس الہی وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

مِنْهُ وَفَضْلٍ لَّا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝<sup>ط</sup>  
 يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا  
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا  
 تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ۙ ع

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ ہا وہ تمن و تھ پند نس قر بس کن۔ و تھامہ سبز۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ لُوکھ چھ توبہ نہ فتمولی طلب کران کلاس متعلق کلامہ گو بس نہ وارثو آندرہ نہ  
 مول آسہ نہ اولاد آسن نہہ فرما یو کہ کہ اللہ تعالیٰ چھو توبہ یہ حکم فرماوان کلاس متعلق۔ لِنِ امْرُؤًا  
 هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ یلہ کانہہ شخصہ مرہ تس روزہ نہ پتھہ کن اولاد نہ  
 آسیس مول موح۔ فقط آسیس بینہ، سٹھہ بینہ بس چھو تس (بینہ) تمسدہ مالہ منزہ واتان نصف حصہ، باقی  
 نصف حصہ گو عصبو اندرے کانہہ آسیس نہ تس۔ ہر گاہے آسیس۔ تلہ یہ سونصف حصہ تہ آمس بینہ  
 و نہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ سُوکالہ چھو وارث سپدان اس بینہ ہند ہر گاہ سُو مرہ تس روزہ  
 نہ پتھہ کن پٹن اولاد کنہہ تہ۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ بس ہر گاہ کانہہ روزن پتھہ کن  
 زہ یاد یو خونہ زہ یاد بینہ تمن چھو آسندہ متز کہ مالہ منزہ واتان تریو حصو منزہ حصہ۔ وَإِن كَانُوا  
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ بیہ ہر گاہ کانہہ روزن پتھہ کن باسے تہ بینہ، مردہ  
 زنانہ، بس چھو تمن واتان مردس زہ حصہ زنانہ اکھ حصہ آسندہ مالہ منزہ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا  
 وَاللَّهُ يُحِلُّ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ چھو دیک احکام توبہ فرماوان تہ بیان کران چھ نہ تہہ ناوقفی سببہ ممرہ  
 سپد۔ اللہ تعالیٰ چھو پرتھہ چیزہ پورزانہ ون۔

## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اکی با ایمانو تمہند ایمان اُن چھو مکان یتھ کتھہ کہ تمہہ کر و پورہ پٹن معاہدہ تم توہہ ایمان اَنہ نس منز خدا بس سیت کرمت چھوہ۔ یعنی شریعتک احکام اَنو بجا۔ کیا زہ ایمان اَنہ سیت سپد توہ پیٹھ تم ساری احکام لازم۔ لہذا اُنس چیز لازم نہ مَنہ کھوت سو گزھہ پورہ کرن نہ پورہ ہو رن اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حلال آئی کرنہ تمہندہ خیطرہ چار پائین نہ تیر چار وایو اَندرہ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ تم چار واین ورائی یہند حکم توہہ پٹھہ بُر وٹھہ ہر نہ پیہ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔ مگر شکار کرن گزھہ نہ حلال زانن یلہ تمہہ جگ یا عمرک احرام گنڈت آسویاتھہ زمین پاکس اَندر آسویاتھہ حرم و نہ یوان چھو لَنَ اللَّهُ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو سوی حکم فرماوان اُنس حکم۔ یشھان چھو۔ کانسہ ہند طاقت چھونہ چون وچر اگر نک۔ ہنہ کیا زہ نہ یہ کونہ۔ سوس جانورس یشھان چھو تس چھو ہمیشہ خیطرہ حرام کران۔ بس یشھان چھو تس ہمیشہ خیطرہ حلال کران۔ بس یشھان چھو تس مخصوص حالتس اَندر حلال کران۔ بس یشھان چھو تس چھو گنہ خاص حالتس اَندر حرام کران۔ اکی لاکو توہہ چھو پڑتھہ حالتس منز حکمس تعمیل کرن لازم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ اے با ایمانو حلال مہ زانو یعنی بے حرمتمی مہ کرو خدا یہ سیدین دینہ کین نہ عبادتہ کین نشان۔ یعنی بس چیزن ہندہ ادب نہ تعظیم کر نک حکم کرنہ آو تمن حکم خلاف کر تھ تمن چیزن ہنز بے ادبی کرن چھہ حرام۔ مثلاً حرم شریفک نہ احرامک ادب چھو احرام گنڈت نہ حرم شریفس منز آتھہ گزھہ نہ شکار

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَاتَّعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

کرن یہ چھو حرام۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بیہ مکہ کرو بے  
خرمتی تعظیمہ والین رتین۔ تم گے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم تہ ماہ رجب۔ یکن رتین اندر مہ کرو و کافرین  
سیت جنگ بیہ مکہ کرو بے خرمتمی تین جانورن تین ہنز رہ نال یوان چھو تراونہ۔ تم کیا تین خدلیہ سبہ  
خیطرہ خر مس منز قربان کرنہ۔ کیا زہ تم چھہ خدلیہ سبہ نیاز۔ یہ نیاز تھا یون مخصوص تہندی  
خیطرہ۔ تس وراوی بیہ کانسہ ہندہ خیطرہ اودہ سو ملک مقرب آستین یا نبی مرسل یا لئی اکمل۔ تس وراوی  
بیہ کانسہ ہندہ خیطرہ کانہہ جانورہ نیاز تھا یون یہ گو شرک محض حرام۔ بیہ مکہ کرو بے خرمتمی تین لوکن  
تیم عزتہ والہ گرہہ زیارتہ خیطرہ یوان آسن یعنی کعبہ شریفکہ زیارتہ خیطرہ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا تیم ژہانڈان آسن پنہ نس پروردگارہ سبہ فضل تہ رضا مندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
توپتہ بلہ حج یا عمرہ کرت موکہ لو، احرام مژرا و و پس کرو شکار۔ ہر گاہ توہہ حج خواہش آسہ بشرطیکہ سو  
شکار آسہ نہ حرم شریفس منزر وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
باعث مہ بن توہہ ہرگز تین لوکن ہنز دشمنی سمو جہہ پتھہ رچیوہ کعبہ شریفکہ زیارتہ نشہ حدیمیس  
گن۔ جہہ کیاہ ڈلوحدہ توپتہ کروا کائن ہنز خلاف ورزی۔ تین ہیو انتقام قتل و عارت کرنہ سیت۔ تین  
نعبہ رُو زو پتھہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ اکھ اکس کرو مدد رتین کا مین اندر بیہ پرہیز گاری اندر  
شرعی احکامن پتھہ پابندی کرنس اندر۔ تمیک آسوا اکھ اکس ترغیب و وان۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ مدد مہ آسوا کران اکھ اکس گنہن، بیچہ کا مین تہ طلسم اندر۔ مثلاً تمی حکم تم چھہ تین خلاف  
کرنس اندر مہ آسوا کانسہ مدد کران وَاتَّقُوا اللَّهَ کھو ژو خدا میس تس کھو ژنہ سیت چھہ سارنی حکم



وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا  
 أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

پیٹھ پابندی کرن سہل تہ آسان سہان اِنَ اللّٰہ شَدِیدُ الْعِقَابِ اللّٰہ تعالیٰ جھو پڑپاٹ احکامن ہنز مخالفت کرہ وینن سخت عذاب کرہ و ان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ حرام آی کر نہ توہم پیٹھ اکی مسلمانو تہم چیز، مردار جانور نئس شرعی کھش کر نہ و رای پائے آسہ مؤمت، بیہ رتھ یعنی خون۔ بیہ سورہ مازہ بیہ تمسند ساری اجزاء۔ سکن ترین چیزن اندر ہجھہ مادی خیانت تہ گندگی لہنہ پوان۔ امہ پتہ فرمؤ و خدا لئن تمکن حرام چیزن ہنز ذکر تہم بذات خود حلال تہ پا کھی آسن مگر مالک تحقیق و رای بیہ کانسہ ہند قرب تہ رضامندی تمہ سیت ژھانڈنہ خیطرہ آسؤ بیس کن لاکنہ تہ نامزد کر نہ۔ نئس نہ خالق و مالک جھو مؤت و حیائت۔ تمہ مکھہ سپنر اتھ اندر بد نیتی ہنز تہ بد اعتقادی ہنز اکھ ناپا کیاہ تہ خیانتاہ پیدہ لہذا آویہ تہ حرام کر نہ سؤگو وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بیہ جھو حرام سؤ جانور نئس خدا لئس و رای بیہ کانسہ ہندہ ناوہ تھانہ بیہ وَالْمُنْخَنِقَةُ بیہ لئس ہوٹ بیہ چیر نہ وَالْمَوْقُوذَةُ بیہ لئس ژنجہ سیت مار نہ آسہ آمت وَالْمُتَرَدِّيَةُ بیہ لئس تھزرہ پیٹھ کوہ پیٹھ یا کیر س منز و س پیٹھ مؤمت آسہ وَالنَّطِيحَةُ بیہ لئس جانور نئس جانورہ سنزد ٹھولہ سیت مؤمت آسہ۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ۔ بیہ لئس جانور کانسہ درندن ژا ایلن کھیؤمت آسہ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ مگرے سؤ ساروی جانور و آندرہ کانسہ جانور س امہ صدمہ سیت مرنہ بروٹھ زندے آسٹھ شرعی ذبح کر نہ بیہ سؤ جھو حلال۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ۔ بیہ ہجھہ حرام تم جانور تہم ذبح لین کر نہ تمکن جائین، تمکن جائین خدا لئس و رای بیہ کانسہ ہنز پرستش کر نہ ایوان آسہ یا خدا لئس سندہ گرہ یعنی خانہ کعبہ و رای۔ بیہ کنبہ جلیہ ہندہ تعظیمہ خیطرہ ذبح کر نہ یکن۔ اگر چہ ذبح کر جھہ وقتہ ایتن تس پیٹھ بسم اللہ اللہ اکبرے پر نہ۔ سؤگو حرام وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْذِّكْرِ بیہ جھو حرام جھہ کیاہ کرو مشترک جانورہ سندا ز تقسیم زارہ کیوتیر و سیت ذَلِكُمْ فَسُقُ بیہ سوزوی جھو گناہ ناجائز تہ حرام تمؤ

بِالْاَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ  
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
 مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹﴾ يَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا حَلَلْ لَهُمْ قُلْ اِحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ

چیز و نشہ روز و پختہ الْيَوْمَ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ از کہ دوہہ (یعنی ۹ ذی الحجہ الحرام ۱۰ھ، حجتہ  
 الوداعہ دوہہ) پس پیغمبر حج اوس نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم سمہ پتہ قریب تر یورینو انتقال ہر ملال  
 سپد حضرت پیغمبر اسلامہ (سپد کافر نامید ٹہندہ دیکھ مغلوب سپد نہ نشہ کیا زہ لہجہ بود لو کہ آس امہ  
 دوہہ حاضر آتھ جس اندر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ - پس نہ کھو ژو تمن کافرن - بلکہ کھو ژو مے یعنی  
 میانین احکامن ہنزمہ کرو مخالفت الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ از کی دوہہ کر مکمل مہ ٹہندہ خیطرہ ٹہندہ  
 دین - قوتس اندرتہ احکام تہ قواعدن ہندس پور کرس اندرتہ سمہ سیت کافر مایوس سپد  
 وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا بیہ کر میہ امہ اکمال دین کرنہ سیت پور توہہ پیٹھ پن  
 نعمت - بیہ روؤس یو ٹہندہ خیطرہ راضی، ٹہند دین دین اسلام آسٹس - بیہ چھومہ ٹہند دین آسنہ موکھ  
 ہمیشہ ہند - وون روزہ قیامتس تان ٹہند یوہے دین - بیہ دین منسوخ کرت پیہ نہ بیا کہ دینا ہر گز تجویز  
 کرنہ - پس شوہہ توہہ شکر گذار سپد تھ آتھ دینس پیٹھ پور قاسم روزن - امہ کین احکامن پیٹھ پور  
 پابندی کرت - امہ بروٹھ سم احکام توہہ یوزوہ کہ کم کم چیز چھہ حرام تھ متعلق چھہ یہ کتھ کہ قَمِين  
 اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ پس پس شخصہاہ ہر ایشان آسہ سپد مت بو چھہ ہندہ سبہ، بٹھ گٹھس  
 گن مایل سپد نہ خیطرہ نہ، سوئی سمبو حرام چیز و اندرہ کانہہ چیز کھیہ تس چھو اجازت تمیک فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ  
 رَّحِيْمٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حَلَلْ لَهُمْ لو کہہ  
 چھہ توہہ پر ژھاں کہہ شکار ہونیو تہ پازہ سندر ٹیٹو جانور و اندرہ گہہ گہہ جانور آو ٹہندہ خیطرہ حلال کرنہ  
 قُلْ اِحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ٹہہ فرما یو لو کہہ حلال آئے تھاونہ بد شعور ٹہندہ خیطرہ ہم ساری حلال جانور سم

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمَلَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَ عَلَيْكُمْ  
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝  
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ  
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ

ہوئین سے پازن ہندہ ذریعہ شکار کرنے بروٹھ حلال کرنے آمت آسن۔ ہوئین بیازن ہندہ شکار کرنے سیت یا  
تہندہ آس منزرفہ سیت پیہ نہ تہندس حلال آسنس پیٹھ کانہ اثر وَمَا عَمَلْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ  
تُعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمَلَكُمْ اللهُ بیہ سم شکارہ جانور تہہ پچھہ ناویہ کہ شکار کرن تمہ طریقہ سمہ طریقہ تہہ  
الله تعالیٰ ان شریعتہ ذریعہ پچھہ ناوہ سو طریق گوئیہ ہے کہ ہون گڑھہ پچھہ ناؤن کہ شکار س رزہ مگر  
تمسندہ مازہ منزہ کھیہ نہ پاس کھہ رتھہ تہ۔ بیٹھہ پاٹھہ پیہ پازس تعلیم دنہ کہ ہر گاہ تس وانس بیہ خیطرہ  
آوازیہ دنہ، فورابیہ وانس، سوے ادہ شکار س پتہ دوران تہ آسہ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَ عَلَيْكُمْ امہ قسمک  
شکارہ جانور انس شکارہ تہندہ خیطرہ رٹھہ ان، انس کھیہ تہہ تمہ منزہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ بیہ آسو تم  
ہون بیاز شکار س پیٹھ تراویحہ وقتہ خدلیہ سندا ناوہ ہوان یعنی بسم اللہ پر تھ آسید کہ تراوان۔ بیہ کھو ژو تہہ  
خد انس تمن سارنی تمن اندر یعنی تمن آیات کر بمن اندر فرماو اللہ تعالیٰ ان شکار جانورن ہندہ ذریعہ  
شکار کر نک ژور شرط۔ اہ گو شکار ہون وغیرہ گڑھن شکار کرن پچھہ ناون۔ تو پتہ سن تم شکار س پیٹھہ  
تراونہ۔ بیہ ایہ امہ وقتہ بسم اللہ پر نہ۔ بیہ واتاون تم سو شکار توہہ برٹھہ کن وَاتَّقُوا اللهَ بیہ  
آسو سارنی کا من اندر اللہ تعالیٰ اس کھوژان۔ شکار کر نس منزہ آسو تمہ قسمہ مشغول سدا نکہ نمازیانہ  
فرایعہ نشہ سپد و غافل۔ یا شکار حلال سپد نہ کیو تموژو وروشرطو اندرہ کتہ شرطس منز کر و پہلو تہی۔ إِنَّ اللهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ جلد حساب ہیوہ ون سمہ پتہ سو سارنی جزا تہ سزا دیہ۔ لہذا  
گڑھہ تس کھوژان الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ اژکہ دوہہ بیٹھہ پاٹھہ دینی، ابدی لمحہ انعامہ سیت تہہ  
مشر ف سپدوہ بیٹھہ پاٹھہ او توہہ اہ ذنیوی انعامہ تہ عطا کرنے سو گو یہ کہ از آی حلال کرنے تہندہ خیطرہ  
رت تہ پاک چیز ہمیشہ خیطرہ تم نہ زانہ تہ آیدہ حرام سپدن وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ اتَّبَعْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ  
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

وَلَعَلَّكُمْ تَحِلُّونَ ۝ بیا چھو تہندہ خیطرہ حلال تمن لوکن ہندہ اتھ کھش کرنہ آمت جانوریا تہندہ اتھ زرنہ آمت غذا تہ کتاب آیہ عطا کرنہ یعنی یہود تہ نصاری۔ بیا چھو تہندہ اتھ کھش کرنہ آمت جانوریا رنہ آمت طعام تہندہ خیطرہ حلال وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ اتَّبَعْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بیا چھو پائھ حلال چھو تہندہ خیطرہ آزاد پاک زنانہ با ایمانو آندرہ چھو پائھ حلال پاک زنانہ تمولو کو آندرہ تمن توہہ برونھ آیہ کتاب عطا کرنہ یعنی یہود و نصاری او آندرہ یلہ تہہ باقائدہ تمن مہر تہندہ عطا کر و مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ در حالیکہ توہ آسید کھ تمہ زنانہ پنہ نس کا حس اندر آندہ دن۔ تمن سیت تن پائھ چھو کام کرہ دن آسونہ۔ الحاصل کتابی زنانہ سیت نکاح کرن چھو شریعت اسلامیس اندر جائیز مشرک زنانہ سیت چھونہ جائیز تمہ خیطرہ چھو صریح حکم ممانعک قرآن مجید س منز موجود وَلَا تَتَّكِبُوا الشُّرُكَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ مَشْرُكَ زَنَانِ سیت مہ کرو نکاح یوتان نہ تمہ ایمان آن۔ مگر یہ تھ گڑھہ تھاون یاد کہ سائہ وقتک نصاری چھو عموماً ناوہ خیطرہ نصاری تمن آندر چھو اکثر تم تمن نہ ٹخنہ آسمانی کتابہ مانان چھو نہ چھو نہ مذہب مانان بلکہ چھو نہ تم خدا میں تہ مانان تمن اہل کتاب و ن چھو بے کار۔ لہذا تہندہ مذہب کھم یا تہنزن زنانہ ہند کھم چھونہ اہل کتابن ہند ہیو کھم۔ یہ گڑھہ تھاون نظرہ تل کہ نہ چھو حلال آسک مطلب چھو کہ تھہ آندر چھونہ در ذات خود کانہ حرام آسک و چھاہ۔ مگر ممکن چھو کانہ خارجی چیز آسہ تمہ قسمگ لہنہ یوان سبہ سبہ سو حلال چیز استعمال کرنہ سبہ بہ وار یہن حرام چیزن ہند ار تکاب آسہ سہا دن بلکہ آسہ خیطرہ گھر س بتلا سہ نک تھہ حلال چیزہ سیت فاسیدہ تہ نفع تلن چھونہ جائیز موجودہ زمانس منز یہود و نصاری ان سیت ووتھن بہن۔ کھیون چون بے ضرورت اختلاط کرن، تہنزن زنانہ ہند س زائس آندر لکن تمن چیزن ہند ئس نتیجہ نیران چھو تچ چھو ساری پور خبر۔ لہذا چھو ہدی نشہ تہ بد دینی ہند یو اسباب و ذریعہ نشہ اجتناب کرن تہ لوب روژن لازم وَلَا تُتَّخِذِي أَخْدَانٍ بیا نہ یار زلا گھو پوشیدہ پائھ چھو کام کرہ دن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْزَةِ مِنَ الْحَيَرَةِ ۚ بے نِس اکھاہ شر یعنی کھمن  
انکار کرہ، یعنی حلالِ قطعی زانیہ حرام نہ حرام قطعی زانیہ حلال نمہ کس حلال آسئس نہ سمہ کس حرام  
آسئس کرہ انکار۔ پس تہمین تمنز پریتھ رث عملاہ گھہ ضایح نہ بُراد۔ سو شخص آسہ آخر تس اندر  
تاوان نہ نقصان زود آندرہ لہذا زانو حلال چیز حلال نہ حرام چیز حرام  
الصَّلَاةِ ای بایمانویلمہ ہنہ نماز پر نہ خطرہ و تھان آسہ نماز ادا کر تک ارادہ کران آسہ ہتھ حاکس منز کہ  
ہنہ آسہ بطہارت نہ با وضو پس کمر و گوڈہ وضو تچ طریق چھہ یہ کہ  
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ کس آسہ گوڈہ پھلان ہنہ پنن بہ ترہ پننہ  
کھونہ وئن تان۔ بے آسہ موح کران یعنی ادر یو اٹھو دو یوسیت کس پنن نس پھش ووان۔ بے آسہ کھ کھور  
پنن ژنہ نین تان پھلان۔ سم ژور چیز چھہ طہارت تک فرض امہ علاوہ باقی چیز گئے سنت نہ مستحب  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ ہر گاہ ہنہ آسہ بے غسل۔ تلہ کرو نماز لاگنہ برو ہنہ سوزوی بدن پورہ  
پاک۔ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۚ ہر گاہ ہنہ بیمار آسہ آب استعمال کرن آسہ مضر یا مسافر  
آسہ آب میسر پدن آسہ دشوار آسہ جہہ ہنہ آسہ آب استعمال کرن آسہ مضر یا مسافر  
یا لوکھ حاجتہ نغہ فارغ سپدت اُولَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ۚ یا کر و اورہ یور تھپ زنان سنیت  
یعنی تم حرکات ستموسیت غسل مہ گھسان چھو تو پتہ کیونہ موقعہ آب استعمال کر تک آب نہ ہنہ موکھ یا  
آب استعمال کرن مضر آسنہ موکھ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۚ کس کروامہ بدل میثر استعمال کر تک ارادہ

طِيبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ طَمَائِرُ اللهِ  
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ  
 لِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۷ وَاذْكُرُوْا  
 نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ  
 قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ

فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ سمہ طریقہ کہ دہو پھس میٹھہ پیٹھہ ژنڈ تھہ آتھو سیت پنہ نین  
 تھین، پنہ نین زین، تھہ چیزس پیٹھہ دوہو آتھو ژنڈ تھہ لیس زینجھہ جھہ آسہ یعنی لیس نہ پارس منزویگہ  
 طَمَائِرُ اللهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ چھونہ یرھان توبہ پیٹھہ کیاہ تراوہ تھہ کسج تنگی تہ سختی  
 سمہ سیت جہہ پریشان کرہ ہو وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ بلکہ چھو یرھان اللہ تعالیٰ توبہ پاک وصاف  
 کرن تمی موكھ کرن مقر طہارتک احکام تہ قواعد۔ بیہ کرن نہ اکے صورتھہ طہارتج یعنی فقط آہ سیتی  
 یوت۔ بلکہ کوزن کہ ہر گاہے کانہہ آب بنہ تمہ ساتہ بیہ سو میوہ سیت تہ تمم کتر تھہ۔ تمی سیت بیہ  
 سو بے غسلی تہ بے وضوئی نغہ پاک سیت و لِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ بیہ  
 چھو یرھان اللہ تعالیٰ پور کرن پنہ نعمت توبہ پیٹھہ جھہ تھہ مرہانی پیٹھہ شکر گزار سپد و نعم ہنز قدر  
 زانو۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاور تیس خدایہ سزہ نعمو نمو نعمو آندرہ بڈ نعمت گنیہ کہ تم کر  
 تھنہزہ فلاح ورتگاری خیطرہ اسباب و ذرائع مقرر و مِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهٖ بیہ کریداد تھند سو  
 معاہدہ لیس تم توبہ سیت کورمت چھو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا یلہ توبہ ووب وہو زاسہ تہ مون  
 آسہ پریتھہ کلمہ پرہ وناہ چھو بزبان حال سمعنا واطعنا وناں کلمہ پرہ وئی گو سمعنا واطعنا وناں اگرچہ زیوہ  
 سیت مہ کرتن تم الفاظ بیان وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْر بیہ کھوژو خدا لیس ہرپاٹ  
 اللہ تعالیٰ چھو پور زانہ وناں دلہ چن تھن لہذا سوہ کام کرو سو کر و کمال اِخْلَاصِ مَحْضِ خَدَائِهِ سہہ رضا  
 خیطرہ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ اکی با ایمانو خدایہ سزہ خوشنودی خیطرہ روزو

الْصُّدُورِ ۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ  
 شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
 الْآتَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۸) وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۹)  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 الْجَحِيمِ ۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

الستاده خدایہ سدا احکام بجانہ خیرہ شہداء بِالْقِسْطِ ہر گاہ شہادت تہ گواہی دینج نوبت بیہ تمہ  
 ساتہ آسود عدل و انصافہ سان گواہی دوان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى الْآتَعْدِلُوا بیہ مہ  
 کمرن توہمہ آمادہ مند قویج دشمنی تمن نسبت بے انصافی کرنس بیٹھہ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  
 پر بیٹھہ حاس منکر و عدل و انصاف تی چھوڑی نزدیک پر ہیز گاری۔ تقوی اختیار کرن چھو توہمہ بیٹھ  
 فرض کیا زہ اللہ تعالی چھوہ فرماوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ کھوڑو اللہ تعالی  
 سزہ نافرمانی کرنہ نشہ۔ پڑپاک اللہ تعالی چھو پور خبر تھا وہون تہمزن سارنی کامین ہنزہ وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وعدہ کور اللہ تعالی ان تمن لوکن یبو  
 ایمان اُنھہ رتہ عملہ کرہ کہ تہندہ خیرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بڈ مزور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ سمولو کوا نکار کور پوز دین قبول کرنہ نشہ بیہ زانک ابہر سان  
 آیات تہ لوک گے جہنم اندر روزن والِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 اک با ایمانو رتیس پاو خدایہ سز نعت تہ احسان اِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ يَلِيهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ  
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱۱ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ  
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ  
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تو من یعنی قریشو، مکہ کیہ کافر و قصد کر یو تو بہ کن بہن آتھ ز بیٹھر او تک یعنی تو بہ پیٹھ بہک تہ معہ حملہ  
کر تک، یلہ تہہ ونہ ضعیف آسہ۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ۔ پس رب اللہ تعالیٰ پتھ تہند آتھ پنہ فضلہ  
تہ کر مہ سیت۔ تمن و یقین نہ تو بہہ پیٹھ غالب سپند۔ یہی نعمت یاد کر تھ وَاتَّقُوا اللَّهَ کھوژو اللہ تعالیٰ  
اس تمسبدین احکامن ہنزمہ کمر و مخالفت۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خدایہ سی پیٹھ بہ نہ کانہہ  
پیٹھ پڑہ اعتماد کرن بالیمان ہمیشہ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ان  
کرہ تاؤ بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سدہ خیلرہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا بہہ کر اسہ  
تمبو آندرہ باہ (۱۲) سردار تہند نمایندہ مقرر وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللہ تعالیٰ ان فرموو کھ یو جھوس تو  
بہہ سیت پرتھہ وقتہ تہند سوزوی حال و چھان لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ  
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَهُمْ سُو عمد اوس ایزہ کہ ہر گاہ تہہ نماز برپا تھو بہہ زکوٰۃ ادا کر وہیہ رود و پڑھ  
کر ان میانین سارنی پیٹھ برن بہہ کمر و تمن مدد تہندین دشمن سیت مقابلہ کرتھہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا بہہ کمر و زکوٰۃ علاوہ خیر چن کا میں آندر تمن مال خرچ بیٹھ اللہ تعالیٰ جھو قرض فرماوان قرضاہ  
رُت رتہ مالہ آندرہ دس پیٹھ بوربہ نہ وراں۔ بیٹھ آو قرض ناو تھاونہ امی موکھ کہ بیٹھہ پاٹ قرض ادا کیگی



مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾ فَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

پہلے لازمی آسان۔ تھے پاٹھ کرہ اللہ تعالیٰ امیک عوض سے بدلہ عطا لاکرہ ان عنکم سببکم البتہ ضرور کرہ ہو بخشایش تہندین گوئمن ولأذجلکم جئت تجری من تحتہا الأنہار بیہ واتاودہ وو بوئمن جئمن اندر تمو منز جو یہ پکان پچھ فممن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سوا السبیل پس نئس امہ عمدہ پتہ تہ گھر کرہ کئس ہز پاپ سؤ ڈول سیزہ وتہ نئسہ سبھہ دور۔ فبما نقضہم ميثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قسیة لیکن بنی اسرا نیلو پھڑ وو سوعہند۔ تمی سبہ گے تم گر فزار رنگار رنگ مفسبتن بیہ سید مہربانیو نغہ محروم رحمت والطفونغہ دور۔ تمی لعنتک اثر اوس کہ تہند دل کرا امہ سبھہ سخت۔ پڑن گھن ہند اوس نہ تہن کا نہہ آخر سپدان یحرفون الکلم عن مواضعہ چنانچہ تہند عالم آس بد لاوان تورا تہ کن کلمات تہ عبار نئس پنے جلیہ نئسہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ بیہ مشروہ تمو اکو ہو ڈھتہ تمو نصحتو اندرہ سمہ تہن گرنہ آسہ یوان تہن منز تہندہ خیطرہ فلاح دارین اوس ولا تزال تطلعون علی خائنة منهم الا قلیلا منهم ونہ پھونہ تہن ہین۔ چنانچہ توہن روزہ تہندین خیانتن تہ بد نئقن ہند ہمیشہ اطلاع سپدان۔ مگر نہ تمو اندرہ کم کئشترن لوکن ہند سیم مشرف بہ اسلام سپد تمو اندرہ فاعف عنہم واصفح ان الله یحب المحسنین پس سحر وجہہ تہن معاف بیہ درگزر۔ پزپاٹ اللہ تعالیٰ پھو دوست تھاوان احسان کرہ ونئمن بدن ونمن الذین قالوا اننا نصری اخذنا ميثاقہم بیہ تمو اندرہ سیم ونان جھہ اس جھہ نصاریٰ یعنی

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ  
 فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَسَوْفَ  
 يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾ يَا أَهْلَ  
 الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا  
 مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ  
 كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

پہنہ نس وینس نصرت کرہون) تمن نغیرتہ رث اسہ ایمان و عمل کرنس پیٹھ عمد۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا  
 ذُكِّرُوا بِهِ جس مشر و تمویتہ اکھ بوڈ حصتہ تمو نصحتو اندرہ سم تمین کرنہ اسہ یوان تمین منز تہنہ  
 خیطرہ فلاح دارین اوس فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس  
 تیز نور اسہ تمن منز بغض و عداوتک نار قیاس تام۔ کیا زہ تمن منز تہ سپد ترہ ۳ فرقہ۔ اکھ نسطوریہ۔ یم  
 حضرت عیسی اس ہجھ خدایہ سُنْدُیُو مانان۔ بیا اکھ یعقوبیہ یم حضرت عیسی اس ہجھ خدایمانان تریم ماکانہ یم  
 حضرت عیسی اس ہجھ تریو اندرو اکھ خدایمانان امانی ہجھوپانہ وان سخت اختلاف وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ  
 اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ آئیندہ کرہ اللہ تعالیٰ خبر تمن عمہ سارچی یہ تم کران آس، تو پتہ  
 کر یکہ گر فار عذاب آخر نس اندر یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اکی اہل کتابلا یہود و تہ  
 نصار او ہز پاٹ آو تو بہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا  
 كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ یہندہ علمک شان چھو کہ تم ہجھ وارہ نر او ان تو بہ واریاہ تھہ تمو کھو  
 اندرہ سمہ تو بہ کھتھ تھوان ہجھہ تورات و انجیلہ منزہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ یہ ہجھہ تو بہ وارہن  
 کھن در نڈر کران قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تقیق ووت تو بہ کن خدایہ

مُبِينٌ ۱۵ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۱۶ لَقَدْ  
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

سیدہ طرفہ ہدایتک یوڈ نور بیہ روشن تہ صاف بتاباہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَ تھہ چھو ہاوان تمی سیت اللہ تعالیٰ تم لوکن تم طالب چھ تہندہ رضا مندی ہند،  
 سلامتی ہزن و تن کن وَ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ تمی کڈان کھر چو تہ نافرمانیو  
 ہنز، وگھو آندرہ ایمانہ کس تہ فرمانبرداری ہندس گاش کن وَ یَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بیہ  
 چھکھ ہاوان سو و تھہ یوسہ و تھہ سیز چھ تھہ پیٹھ چھو کھ تھوان قاسم تہ محکم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بیشک تم لوکھ چھہ کافر سمو وون خدا چھو عین مسیح، مریم  
 سندنچو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ  
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا تھہ ہر ڈھتو تمین ہر گاہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ اس، بیہ  
 تہنزہ ماجہ، بیہ تم ز میس پیٹھ آباد چھہ تم سارنی گالں یڑھہ۔ کس کہہ اکھاہ ہیچہ کئہ چیزس خدا کس نشہ  
 مالک لاکھ تہ تم چاوتھہ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خدایہ سزای پادشاہت  
 چھہ آمان تہ زمین آندر، بیہ تم دون منز باگ چھو تھہ آندر یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُو چھو پیدہ  
 کران بیہ یڑھان چھو وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُو چھو پریتھہ چیزس پیٹھہ قدر تہ

مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ  
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا  
 يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنَّ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

دول۔ تم بڑھ آسمان وزمین بے مادہ پیدہ کرن تی کرن۔ تم بڑھ حضرت آدم بے پدر مادہ پیدہ کرن تی کرن۔ تم بڑھ حضرت حوا بے مادر پیدہ کرن تی کرن۔ تم بڑھ حضرت عیسیٰ بے پدر پیدہ کرن تی کرن  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یہود و نصاریٰ  
 چھہ دعویٰ کران کہ اس چھہ خدایہ سُنْدُ پُوہیہ تہند دُوست تہ محبوب یعنی اولادان تہ محبوبن ہند پانھ چھہ  
 اسِ مقبول۔ چھہ فرمایو کہ اڈہ کیا زہ کرہ سو توہہ تہمز و نافرمانیو سبہ عذائس گرفتار آخرتس اندر۔ توہہ  
 چھہ نہ کانہ خصوصیت بین او کن ہندہ خوتہ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بلکہ چھوہ توہہ تہ تموے عام لو کو  
 اندرہ تم پیدہ کر یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کس یشہ کس کرہ مغفرت کس یشہ کس کرہ  
 عذاب۔ آسانی کتابن اندر چھو ثابت کہ مغفرت نہ کس کس پامیان آسہ۔ کافرن تہ مشرکن ہندہ خیطرہ  
 چھو عذاب ابدی مقرر کرنہ امت ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یہ  
 چھہ آسمانن تہ زمین ہنز پادشہت یہ یہ کیوہاہ تمن در میان چھو تمہ سارچی پادشہت خدایہ سنزے  
 یا تہ یہ چھو سارنی کس کن پتولا کہ وائس۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ  
 الرَّسُلِ اکی اہل کتابو پز پاپٹ او توہہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم توہہ شریعتک  
 احکام ن پانھ بیان کران چھہ تمی وقتہ کہ پیغمبرن ہندین اوس واریاہہ کالہ پٹھہ ہند سہمت اَن تَقُولُوا مَا  
 جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ یہ پیغمبر برحق او توہہ کن سوزنہ، سٹھنہ توہہ و تھہ کیکو قیامتک ددہ کہ آسہ

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ ۱۹ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ ۲۰ يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

نصیب آورنے کا نہ خوش خبری نہ برا خبری کرنا وہاں پہنچا تو تمہیں کن بشارت فرما وہ دن تمہیں کرے۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ اللہ تعالیٰ چھو پرستہ چیزس پیٹھ قدرت و ول منزه کہنیہ کالہ پیغمبرن ہند سلسلہ بند کرنس پیٹھ تہ، تو پتہ پیغمبر سوزنس پیٹھ تہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۙ بیہ چھو سو وقت تہ قابل ذکر بیہ حضرت موسیٰ پیغمبرن فر مو پتہ نس قومس ای میانہ قومہ ژتیس پا و تہ نمہ نعمہ، سمیہ اللہ تعالیٰ ان توہم عطا کر وہ لِاجْعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ۙ اگہ نعمت گتہ کہ توہم منزه بنا و ن واریاہ پیغمبر مثل حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ، بیہ حضرت ہارون علیہما السلام وغیرہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۙ بیہ بنا و نوہ تہ پادشاہ۔ چنانچہ فرعونہ سندس ملکش پیٹھ کورودہ توہم قبضہ ۙ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ بیہ گتہ نوہ توہم تہ تہ نعمہ عطا سمیہ کانہہ کرن عطا عالیو آندرہ۔ دریا و منز و ژن توہم و تہ۔ تہ تار نوہ اپور، تہند دشمن فرعون تہ تہنر لشکر کرن غرق تہ دریا و منز يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۙ ای میانہ قومہ سمیہ نعمن تہ احسان شوہ قدر کرن۔ خدا یہ سندس جہادہ کس تعمیل کرنہ سیت، آژوشا کس ملکش اندر نیس تہندہ حکمرانی خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت چھ کرو اتھ اندر آژتھ عمالقن سیت جماد۔ بیہ ملک چھو تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت لہذا سپدہ توہم اتھ منزا تہ و نوسی فتح حاصل وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۙ تھنہ پوت پھیرو، دشمن سیت مقابلہ کرنہ نصیب و اگس ایو

فَنَقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ ﴿۲۲﴾  
 وَإِنَّا لَنُؤْتِيكَهَا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا  
 فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿۲۳﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكُمُ  
 غَلَبُونَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴﴾  
 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُؤْتِيكَهَا أَبَدًا ۖ إِنَّا دَاخِلُونَ فِيهَا فَادْهَبْ  
 أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي

سُوپوت پھر ان تہند آسہ تہندہ حقہ سیٹھاہ نقضانک باعث قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ دہندہ  
 لگ ای موسیٰ اتھ ملکس اندرچھہ زبردست لوکھ روزان۔ اس بیجوتہ تمن سیت مقابلہ کرت وَاِنَّا  
 لَنُؤْتِيكَهَا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا اَس اژونہ ہرگز اتھ ملکس اندر یوتان نہ تم امہ ملکہ منزہ نیرن  
 فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ کس ہرگاہ تم نیرن امہ ملکہ منزہ تل اژوا اس ضرور قَالَ رَجُلَيْنِ  
 مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا امہ ساتہ دتھہ مردجورہ تمن یوشع تہ کالب ناواوس، خدا بس  
 کھوڑہ و دیو اندرہ۔ تمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان پن مہر بانی کر مژا س۔ تمود و پیک ای بنی اسرا ایلو ادْخُلُوا  
 عَلَيْهِمُ الْبَابَ وَ تھوا اژو تہبہ امہ شہر کس دروازس تام فَادْخَلْتُمُوهُ فَانكُمُ غَلَبُونَ تہبہ بلہ دروازس  
 تل و اتو تہبہ سپدو ضرور تمن پیٹھ غالب وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کرد خدا یہ سی  
 پیٹھ توکل و جھوے با ایمان دشمن ہندس بے ایمان آسٹس پیٹھ مہ کرد نظر۔ مگر تمن پیٹھ سپدہ تہبہ ہنما  
 بیہ ہند کانہ اٹ۔ بلکہ کورنہ تمبو تمن دون شخصن ہنزہ ہنما بیہ کن کانہ توجتہ۔ تہبہ ہنما و جھہ نہ جو ابے  
 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُؤْتِيكَهَا أَبَدًا ۖ إِنَّا دَاخِلُونَ فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ تم  
 لگ توتہ و ہند ای موسیٰ اَس نہ حض اژونہ ہرگز اتھ شہر س منز یوتان ایک لوکھ جبارین اتھ منز

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ  
 الْفَاسِقِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَإِنَّا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۶﴾  
 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ  
 مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ  
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ

روژن۔ ہر گاہ ورن تمین سیت جنگ کرن چھوطلہ گدھو تہہ نہ ٹھند پروردگار۔ ٹھی زہ کرو تمین سیت جنگ  
 سون طانت چھونہ اس بہوودہ نی۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي حضرت موسیٰ ان  
 کور دُعا پروردگار امیہ چھونہ اختیار مگر پنہ نی پانس پیٹھ۔ بیہ پنہ نس ہانس حضرت ہارونس پیٹھ  
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کس مناسب فیصلہ کرژہ اسہ منزبہ اتھ نافرمان قومس منز  
 قَالَ فَإِنَّا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  
 اللہ تعالیٰ ان فرمووہس چھو میون فیصلہ بہوی کہ یہ ملک روزہ ژنجن درین تام تمین پیٹھ حرام۔ ہم بیکن  
 نہ اتھ پیٹھ تسلط حاصل کر تھ۔ ہم روزن اتھ میدانس منز حیران۔ اسہ طرفہ یوان بیہ طرفہ گدھان۔  
 اتھ و تھانہ یوان ہنہ طرفس کن۔ لہذا نہ کھوی تہہ امہ نافرمان قومک کانہ غمی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي  
 آدَمَ بِالْحَقِّ ای پیغمبر برحق بیہ پیر و حض تمین لوکن پانس پیٹھ تہہ حضرت آدمہ سندین دون پچوین ہائیل  
 نہ قابیلہ سُد قصہ۔ ہنز پاٹ پیٹھ تمین نیک لوکن کن پانس نسبت کرہ تک غرورہ پیغمبر زرا تہہ إِذْ قَرَّبَا  
 قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ بلہ تمبو دو شوی قربان کور خدایہ سدہ خیطرہ کس او  
 قبول کرنہ اسندی قربان ہانس ہائیل ناواوس۔ سو اوس قبولیتس لایق۔ بے سُد قربان ہانس ناواوس قابیل  
 آوند قبول کرنہ کیا زہ سو اوس نہ تھہ لایق۔ بیہ اوس ہائیل ہنز س پیٹھ۔ قابیلہ سُد دعویٰ اوس غلط۔  
 قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قابیلن ڈوپ ہائیس ہوما تھ ژہ ضرور قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہم دو

لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ  
 اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾  
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾  
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يُوزِلْتِي آعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

پس۔ میوں تصور چھو نہ کیہ تہ۔ قبول چھو نہ یوان کرنہ مگر پرہیز گارنی ہند نیاز لکن بسطک الی  
 یدک لتقتلنی ہر گاہ تہ اتھ زٹھر اوکھ میہ کن میہ مارنہ خیطرہ ماآنا بسطی یدی الیک لاقتلک  
 یو ہرگز پین اتھ زٹھر اونہ تہ کن تہ مارنہ خیطرہ۔ تہ نہ سمہ موکھ کہ یو کیاہ پو شے نہ تہ چانہ کھوتہ  
 چھوم طاقت زیادہ مگر ائی اخاف اللہ رب العالمین محض سمہ موکھ کہ یو چھوس کھو ژان خدا پس  
 پس ساری جمانک پروردگار چھو ائی ارید ان تبوء ایثمی وایثمک فتکون من اصحاب النار  
 وذلک جزا الظالمین میوں ارادہ چھو تہ گدھکھ گدھن میانہ تنک گناہ ہتھ تہ۔ پینہ نافرمانی ہند گناہ  
 ہتھ تہ تاکہ بچھ تہ پوختہ پاتھہ نار جھنمس مغزواتن والیو آندرہ۔ تی چھوسز اطاملن ہند فطواعت لہ نفسہ  
 قتل اخیه فقتلہ پس اجازت دیت تمس نفس پین یوی مارنک پس موزن سو فأصبح من الخسیرین  
 توپتہ سپد سو تاوان زدو آندرہ۔ توپتہ سپد حیران کہ یو کیاہ کہہ بای سندس لاش فبعث اللہ غرابا یبحث  
 فی الأرض لیریہ کیف یورای سواءہ اخیه اده سوز اللہ تعالی ان کاواہ اکھ تم تونہ سمیت تہ پنجو سمیت  
 زمین ہیوت کھن۔ توپتہ کھن دوبہ ہنا توپتہ اوئن بیاکھ مردہ کاواہ سوتروون اتھ دوس منز۔ پیٹھ  
 تراونس میو۔ امی موکھ ہتھ ہا وہ اللہ تعالی اس قاتلس سمہ ہتھ پاتھ دو براوہ سو بای سندس لاش تہ  
 بدس۔ چنانچہ قاتیلن یلہ وچہ کاوہ سندیہ حال دہنہ لوگ قال یوزلیتی آعجزت ان اکون مثل هذا  
 الغراب فأورای سواءہ اخیه یلہ کاوہ سندیہ حال وچھون دہن افسوس چھو میانہ خیطرہ، کیاہ بو چھوسہ



الْغُرَابِ فَأَوَارَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشُّدَمِيِّينَ ۗ<sup>٣١</sup>  
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ  
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ ۗ<sup>٣٢</sup> إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ۗ

عاجزِ تمسِ کاوسِ ہیوہنہ نشیرتہ۔ آمدندی پاٹھ تھوون بائی سندیان دوبراوتھہ فاصبحہ من الشدیمیئین  
 اُمتہ پتہ یلہ دوبراون تہ سپندان دم تہ پشیمان کیا زہ وری اوسس گومت ڈاک، بائی سند لاش تہ بدن لکھ وان، اورہ  
 یور پھروان، یہ اوسس نہ فخرہ اندریوان تمس کیاہ کرہ بو من اجل ذلک کتبتنا علی بنی اسرائیل انہ  
 من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً اتھہ کن نظر کتر تھہ کہ خون  
 ناحق کتر تھہ کیاہ چھوپانہ قاتل نادم تہ پشیمان سپدان، لیو کہ اسہ یہ حکم ساری انسان ہندہ خیطرہ عموما تہ بنی  
 اسرائیلن ہندہ خیطرہ خصوصاً کہ پزپاٹ سم شخصن مورکانہ شخصہ ناحق۔ در حالیتجہ تم اوس نہ  
 مورمت کانہ شخصہ نہ اوسن زمینس منز کانہ فتنہ وفساد بر پار کورمت زن تم ماری لاکھ ومن  
 احیاءا فکانما احیاء الناس جمیعاً یہ تم بچو وکانہ شخصہ مارہ گورھنہ نشیرتہ زن تم بچا و ساری لاکھ۔  
 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات پزپاٹ آئی تمن نشیرتہ یعنی بنی اسرائیلن نشیرتہ امہ حکمہ پتہ سان پیغمبر  
 نہ دلیلہ ہتہ۔ یہ اتھ حکمس تا سید کران ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ توپتہ  
 تہ چھ بے شمار لو کہ تمبو اندرہ توپتہ زمینس اندر زیادتی کران تمن سپنہ کانہ اثر بلکہ کتر تمبو شھید بعضے  
 پیغمبرتہ۔ إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کانہ سزا چھونہ  
 تمن لو کن ہند تم جنگ کرن خدا پس تہ تھندس پیغمبرس سیت تھہ پاٹھ کہ کوشش کرن زمینس اندر بد



إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَأَنَّهُمْ مَا فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾  
يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخُرُجِينَ  
مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿١٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

بہ کمر و تہنزه و تہ اندر جہاد۔ بہ نئس راہ عمل تہندہ خیطرہ تم مقر رکور۔ تہ منزکر و پوزجد و جہد تہ تہ تہ  
رستگار نہ کامیاب ہدو۔ ان الذین کفروا الوان لہم ما فی الارض جمیعاً و مثلاً معہ لیفتدوا  
بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم و لہم عذاب الیم۔ پزپاٹ۔ سوکر۔ انکار کور ہر  
گاہ تہندس قفس منزیہ سو سو روی مال و دولت نئس زوی زمینس منز ہجو۔ ظاہر تہ پوشیدہ بہ تیوت  
تہ سیت توپتہ دن سوی تیوت مال فد بہ قیامتہ عذابہ نغہ چنہ خیطرہ سو قبول ایگھ نہ کرنہ بلکہ ہجو  
تہندہ خیطرہ ہڈر عذاب مقر رکرنہ آمت۔ یُریدون ان یخرجوا من النار و ماہم یخرجین  
منہا و لہم عذاب مقیم۔ کوتاہہ یضمن تمہ تارہ منزہ ہڈنہ پاٹ نیر ان مگر نیر تہہ ممکن نہ ہڈنہ صورتس  
منز۔ تہندہ خیطرہ ہجو عذاب دانئس و السارق و السارقتہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بہا کسبنا نکالاً من  
اللہ و اللہ عزیز حکیم۔ بہ نئس مرد ڈورہ کرہ یا بسہ زنانہ ڈورہ کرہ تہن ژنود ہجن اتہہ ہڈہ  
پٹہ۔ بہ ہجو تہندہ ڈور کر تک سز اخذ لیہ سندہ طرفہ۔ اللہ تعالی ہجو عزتہ و ول تہ قوتہ و ول۔ نئس سز اسو  
بڈہ سو کرہ مقر۔ سو ہجو سیٹھا حکمتہ و ول۔ سو ہجو مناسب سز امقر کر ان۔ فمن تاب من بعد  
ظلمہ و اصلح فان اللہ یحب علیہ ادہ نئس اکھاہ توبہ کرہ پنہ قصورہ پتہ۔ بہ سنجالہ بن حال،



يَا تُوكُّ طِيْحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ أَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ  
 إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا  
 وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلِيهِ شَيْءٌ  
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ  
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۱﴾

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ

معنی یہ مطلب بیان کران تحریف لفظی و معنوی کران۔ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ تو پتہ  
 جماعتیں اس نبی کریم سے فرمودے۔ تم نے یہ سنا ہے وہاں کہ ہر گاہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اسے بیان کرنا  
 کرنا قبول و ان لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ہر گاہ تمہاری بیگانہ نہ ہو تو تمہارے فرمودے سے روکو پتہ  
 سے مکر و قبول و مَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ کس شخص سے خیرہ اللہ تعالیٰ سے ہے کہ سو گزشتہ آزمائش  
 اندری روزن کفر و گمراہی اندر فَلَئِنْ تَمْلِكْ لَهُ مِنْ أَلِيهِ شَيْءًا تَهْتَدُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ خیرہ اللہ تعالیٰ  
 اس سے کہ نہ حاصل کر تہ۔ یعنی تم لوگ ہنر شقاوت آتہ در جس و اثر منہ اسے کہ تم اس ہدایت بندہ  
 سے محروم تہندہ خیرہ مہ سپدن تہند دل مبارک آزرده سے نمکین اُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ  
 يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ تم گئے یہندہ خیرہ نہ اللہ تعالیٰ ان یوشہمت چھو کہ تہند دل بجا گزشتہ پاک سپدن  
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تہندی خیرہ چھ دنیاس اندر بڈ  
 خوری۔ یہ چھو تہندی خیرہ آخرتس اندر یوڈ عذاب سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ تم  
 لو کہ چھ اپزہ خیرہ تہنر ان زورہ کن دودہ ون۔ سخت حرام کھیوہ ون فَإِنْ جَاءُوكَ پس ہر گاہ تم  
 توبہ نش من حکم پر زہنہ خیرہ فیصلہ کرناوند خیرہ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ پس چھو توبہ  
 اختیار خوش کردہ فرماؤ کہ حکم، خوش کرہ کینہہ مہ فرماؤ کہ انکار کریو کہ فیصلہ فرماوند نشہ وَاِنْ  
 تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْءًا ہر گاہ کینہہ فرماؤ کہ نہ ادہ تہہ مہ بتر و کانہہ پروا۔ توبہ بیکن نہ تم



وَالرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ  
 اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ  
 اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ  
 فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

کتابہ ہنزراچھہ تہ حفاظت گرن۔ امہ کتابہ موجب پانہ عمل کرن بیہ لوک تہ عمل کرہ ناون، منہ امر  
 کرنہ۔ بیہ آس تم امہ کتابہ ہند گواہ تہ اقرار کرہ ون فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ نَس اکی بہو دوہ پوج  
 پیروی کرنس اندر یعنی حضرت محمد ہندس رسالتس تصدیق کرنس اندر مہ کھو ژو لو کن۔ کھو ژون شوہ  
 مے۔ کیاہہ بو چھو س چھند پروردگار۔ تصدیق رسالت محمدیہ نہ کرنس پیٹھہ کرووہ بو سخت عذاب ولا  
 تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا بیہ مہ آسید کہ سان آیات کنان دنیا حاصل کرنہ خیطرہ کم مؤلس نِس توبہہ  
 لو کن نفعہ حاصل سپدان چھو۔ یوی چھو توبہہ باعث بنان تصدیق نہ کرہ نک۔ توبہہ چھو اندیشہ ہر گاہ  
 امہ تصدیق کور تلہ ماگہ بیہ آمدنی ہند وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ  
 بیہ تھاووہ تھہ وارہ یاد کہ نِس اکھاہ نہ خدایہ سزہ نازل کر موہ کتابہ موجب حکم دیہ تم ساری چھہ کافر یعنی  
 سمو پڑس انکار کور تھہ پاٹھہ جہہ کران چھو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا بیہ اوس امہ تمن بہو ژون ہندہ  
 خیطرہ تورانس اندر بیہ حکم لیو کھمت تمن پیٹھہ فرض کور مت کہ ہر گاہ کانہہ شخصہہ کانسہ مارہ عمد اے گنہ یا  
 زخمی کرہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ پڑپاک اکھہ شخص یعنی (قاتل) ایہ مارنہ پس شخصس یعنی مقتولس  
 بدل۔ اچھہ بیہ کڈنہ اچھہ بدل، نس بیہ ژنہ لستہ بدل گن بیہ ژنہ کنہ بدل، ژند بیہ کڈنہ ژندہ بدل۔ تھہ  
 پاٹھہ بیہ زخمن قصاص ہینہ۔ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارًا لَّهُ پس نِس شخص بدلہ ہیون مُعَاف

قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
 يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ  
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَنْزَلْنَا

گرہ تمس سپدہ سونگھن ہنزہ بخشایشہ ہند سبب یعنی معاف کرس چھو بوڈ تو اب وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چونکہ یہود و اوس یہ حکم تہ پس پُشت تر و مت لہذا چھو اللہ  
 تعالیٰ یہ مکرر فرماوان کہ یہ سمنہ فیصلہ کرن تمہ حکمہ سیت نیس اللہ تعالیٰ ان نازل کور پس تمپ گئے ظالم  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ سوزاسہ تمن  
 پیغمبرن پتے حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم سند نیس تصدیق کر وہ ان اوس تھ کتابہ یوسہ تمن برو تھ  
 نازل کرنہ آمز اس یعنی تورا س۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ بیہ کراسہ عطا حضرت عیسیٰ اس پن کتاب انجیل تھ  
 منزہ تھو تورا س کی پاٹھ صحیح اعتقادن ہند لوکن ہندہ خیطرہ بوڈ ہدایت بیہ کافی روشنی تہ وضاحت  
 اعمالن متعلق۔ بیہ چھو سونجیل تہ تصدیق کر ان تھ کتابہ یوسہ تمہ برو تھ نازل کرنہ چھہ آمز یعنی  
 تورا س بیہ چھہ سونجتاب و تھ ہاودون۔ بیہ بد نصیحت خدا نیس کھوڑہ ونین ہندہ خیطرہ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ  
 الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ بیہ اوس اسہ حکم کور مت فیصلہ کرن انجیلہ وال تموے احکامو سیت تم  
 اللہ تعالیٰ ان تھ منز نازل کور مت چھہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سمنہ



إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاوِلُوشَاءَ اللَّهِ لِيَجْعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

وہنگ نصاریٰ یوزن و وارہ تم نہ فیصلہ کر تمہے حکمہ سیت بس اللہ تعالیٰ ان نازل کور جس تمے لوک گے  
فاسق۔ انجیل منزعہ حضرت محمد عربی سندہ رسالت خیر تہہ چھوہ تھہ خلاف کران **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ** بیہ کر اسہ تھہ پانچ تورات و  
انجیل پتہ نازل توہہ کن یار رسول اللہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید پڑیاٹ بس تصدیق چھو کران تم کتابین  
تمہ امہ برو تھہ نازل آمرہ چھہ کر نہ بیہ چھہ یہ کتاب تم کتابین ہنز را چھہ **فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ** بس فیصلہ کرو تہہ تم اہل کتابین منزعہ حکمہ سیت  
بس خدا بس نازل کور مت چھو۔ پیروی مہ کرو تہہ تمز ان خواہش ہنز سو پڑیاٹ نظر انداز کر تھہ بس  
توہہ نزعہ و اثر **لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُوشَاءَ اللَّهِ لِيَجْعَلَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
فِي مَا آتَاكُمْ** ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہ ہا توہہ سارنی بناو ہا گئی امتہہ، سارنی ہند کرہ ہا کوئی شریعتہ مگر تہہ کوزن نہ  
ای خیرہ کہ بیٹھ تہہ مختلف و قن اندر مختلف احکامو سیت آزمایش کرہ **فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** بس کرو  
رژن کا بس تہ مفید تھن اندر اکھ اکس نزعہ برو تھہ گوج کو شش۔ یعنی قرآن مجید س کرو پشہ تمہ کین  
احکامن پیٹھ کرو عمل **إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا** خدا یہ سی کن چھو توہہ سارنی امہ وہہ رجوع کرن  
**فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ** بس باوہ سو توہہ تمہ سارے کتھہ تم منزعہ توہہ حق و صداقت ظاہر

بَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَاتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ  
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

آسجہ باوجود اختلاف کران آسجہ وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بے جہہ  
اس توبہ مقرر حکم فرماوان کہ تہہ کرو فیصلہ لوگن اندر تہی حکمہ سیت نیس اللہ تعالیٰ ان توبہ بیٹھ نازل کور  
پتہ پتہ مہ پتہ ہنوز خواہش۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ بے کھو ژو تمن  
پور احتیاط کرو تہہ نہ تم توبہ خدایہ سندیہ احکامو اندرہ عنہ کھس تمیل تہ جاری کرنہ نشہ ڈالن فَان  
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قرآن مجیدک فیصلہ واضح تہ روشن آسجہ باوجود  
ہر گاہ تم لوک توبہ روگردانی تہ نافرمانی کران روزن تلہ زانو تہہ سمہ اللہ تعالیٰ چھو یڑھان بعضی گنہن ہندہ  
وجہ مصیبتس گرفتار گرن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ پڑپاٹ واریاہ جہہ سموکو کو اندرہ نافرمان  
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ بیلہ بعضی یہودوون آسہ چھونہ قرآن و توراتک حکم قبول، اللہ تعالیٰ ان  
فرموؤ کہ بیاہ تم یہود چھازمانہ جاہلیتک حکم ژھانڈان نیس کافر و آسانی شریعتس خلاف پانے بنوؤمت  
چھو۔ لہذا خدائی فیصلہ تراوتھ بے کانہہ فیصلہ ژھانڈن یہ گنہی عین جہالت وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ فیصلہ کرنس اندر کہہ اکھاہ ہیجہ آسجہ یژرت خدایہ سندہ خوتہ یقینہ والین نشہ۔  
لیکن یہ کتھ ہیجہ زان یقینہ والین ایمان دارن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
کی بایمانوا! یہود تہ نصاریٰ مہ بنو یو کہ جن دوست تم دوشوے چھ مسلمان ہند دشمن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ تم چھہ پانہ والی اڈاؤین ہند دوست یعنی یہودی یہودی پانہ وان، نصاریٰ نصاریٰ پانہ وان تمن

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۱۵۱ فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ  
 تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ  
 فَيُصِيبُكُمْ عَلَى مَا أَسْرُوفْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ نُذِمِينَ ۱۵۲ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ

بہت پانہ وان مناسبت۔ توہمہ چھنے تمن سیت کانہ مناسبت۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نِس  
 اکھاہ دوستی لاگہ تمن سیت توہمہ آندرہ۔ سوپیہ گزراونہ تموی آندرہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ کامیابی ہنز و تھ ہاوان ظالمین تمن نہ یہ بوڑن تکان چھو کہ کن سیت  
 گزہہ دوستی لاگن کن سیت گزہہ دشمنی تھاوان تم چھہ ہن نقصان پانے کران فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نِس وچھان چھہک ژہ ای وچھہ ونہ تم لوک بہہندن وکن آندر نفاق بیاری چھہ۔  
 يُسَارِعُونَ فِيهِمْ تم تھ پاٹھ چھہ جلدی کران بہود و نصاریٰ ان سیت رنس آندر توپتے تمن کانہ  
 شخصہہ تھہ پٹھہ ملامت چھو کران يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ دپان چھہ اس چھہ دلہ کن  
 تمن سیت زلان، بلکہ چھہ آس لہہ خاص مصلحتہ کن تمن سیت زلان۔ اس چھہ کھوژان کہ آسہ مالانہ  
 کانہہ بلایاہ تمی موکہ چھہ آس تمن سیت یارز تھاوان لاگھہ تھہ تمہہ ساتہ کرن تم آسہ کانہہ مدتاہ فَعَسَى  
 اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ نِس قریب چھو کہ اللہ تعالیٰ کرہ عطا مسلمان فتح یا کرہ جاری ہنہ  
 طرفہ کانہہ حکماہ ہنزہہ کامیابی ہند، منافقن ہنزہہ رسوائی ہند فَيُصِيبُكُمْ عَلَى مَا أَسْرُوفْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ نُذِمِينَ  
 نِس سیدن تمہہ ساتہ تم منافق تمن تھن پٹھہ سمہہ پنہ نین وکن آندر کھٹ تھاوان آس نام نہ پیشیان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ تمی ساتہ ون بالایمان  
 تجہہ کن کیاہ تمہ کئیہ تم لو کہ تم خدایہ سند سخت قسم ہاواہ آسہ ونان آس زہ آس چھہ توہی سیت۔ خفقس

لَعَلَّكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ  
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ  
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ  
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اندر آس سائین دشمن سیت رتھ۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ہمزہ سارے کار سازی  
 سبزہ امہ نفاقہ سیت تباہ تہ بر باد کس سپد تم تاوان زدو اندرہ۔ دوشوی طرف سپد تم تا کام کیا زہ کافر سپد  
 پانہ مغلوب۔ مسلمان سبز ہمزہ خباث معلوم۔ نہ گئے اور ک تمہ نہ گئے یورک يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ  
 يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اکی با ایمانوس اکھاہ توہہ اندرہ پتہ دینہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ نیرہ، مَرْتَدِّدٌ، سُوْمَةٌ  
 زانن تمسندہ مَرْتَدِّدٌ سیت ملاوت پزس دیش کا نہ نقصانہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ  
 وَيُحِبُّونَهُ کیا زہ اسلامی خدمت انجام ونہ خیطرہ کرہ اللہ تعالی پیدہ جلدی لو کو اندرہ تھس جماعتس تم  
 خدائس ناھہ آسن۔ تمن تہ آہہ خدا توٹھ اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ سم نرم دل شفیق  
 آسن با ایمان پیٹھ سخت زبردست آسن کافرن پیٹھ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جماد کرہ ون آسن  
 کافرن سیت خدایہ سزہ وتہ اندر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ پزہ چہ جایہ تہ دینہ کس معاملس اندر آسن نہ  
 تم کھوڑہ ون کانسہ ملامت کرہ ون سندس ملائس ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ با ایمان سم  
 صفت آسن یہ چھو خدایہ سُد فضل۔ پیٹھ جماعتس خوش کرئس تھہ جماعتس چھو عطا کران وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
 عَلِيمٌ اللہ تعالی چھو پند نس فضلس منز سیٹھاہ وسعتہ وول۔ اگر سوڑھہ سارنی گرہ سم صفت عطا۔ مگر  
 سارنی ہند حال چھو پور زان وول۔ تس چھہ خبر کس چھہ قابلیت کس چھہہ قابلیت إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اکی با ایمانو چھند دوست چھو اللہ تعالی یہ چھند پیغمبر یہ تم با ایمان الَّذِينَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۵۶﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ  
هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَالكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ وَ  
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَاهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ

یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تمکن ہنر طریق چھہ کہہ برپا چھہ تھاوان تم نماز، اولہ چھہ کران تم زکوٰۃ، در حالیکہ تم چھہ خشوع کرہون خدایہ سی بروٹھہ کنہ نمہ ون ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون بیہ تم لو کہ دوست تھاوان خدائس بیہ تھندس پیغمبرس بیہ بالیمان۔ تم گے خدایہ سد لو کہہ تہ خدایہ سز جماعت پزپاٹ خدایہ سز جماعتی چھہ غالب۔ یا ایہا الذین امنوا اتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء ای بالیمانو تم لو کہہ تم تھندس وینس چھہ ٹھٹھہ کران تہ گند ان، بکمال حقارت وچھانئس انکارک علامت چھو تمبولو کو اندرہ تم کتاب آیہ ونہ توبہ بروٹھہ یعنی یہود و نصاری بیہ تھٹھہ پاٹھہ کافر تہ مشرک مہ بناو لو کہہ بن دوست واتقوا الله ان کنتم مؤمنین بیہ کھوٹرو خدائس، یعنی تھنر نا فرمانی کرنس چھوے تھہ پزپاٹ بالیمان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَاهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ تھٹھہ پاٹھہ تھندہ دینہ کین اصولن سیت چھہ تم ٹھٹھہ کران تھٹھہ پاٹھہ چھہ تم تھندہ دینکن فروغن سیت تہ ٹھٹھہ کران۔ چنانچہ تمہہ ساتہ تہ لوگن نادووان چھوہ نمازہ کن یعنی بانگ دپان چھوہ۔ تھہ تہ چھہ تم ٹھٹھہ کران۔ گند تھناہ بوزان۔ کیا زہ یہ چھہ جماعتہا

مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ  
 مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ  
 مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ  
 مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥١﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا

عقلہ رسی۔ قُلْ يَا مَعْزِلُ الَّذِينَ فَسَقُوا مِنْ آيَاتِنَا وَمَا نُنزِلُ إِلَيْكُمْ وَمَا نُنزِلُ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ فرماؤ گھہ تہہ یار سؤل اللہ کی اہل کتابا یعنی یہو دوتہہ کوسہ تھہ چھوہ آسہ  
 اندر بیچ لبان تھہ پیٹھ تہہ آسہ چھو ٹھہہ کران۔ کیاہ یوہے الزام چھو توہ دووان کہ آسہ کیا کر پٹھہ کنس  
 خدا بس یہ تھہ یہ آسہ کن نازل آؤ کر نہ یعنی قرآن مجید۔ یہ تھہ یہ نازل آؤ کر نہ آسہ برو تھہ یعنی تورات و  
 انجیل۔ یہ کیاہ چھہ آس و نان کہ توہہ اندرہ چھہ اکثر تم تم نام فرمان چھہ۔ تم نہ پندہ کتابہ ہند یعنی  
 تورات کھم مانان چھہ۔ نہ چھہ توہہ قرآن مجید بیچ پٹھہ نہ تورات و انجیل پٹھہ۔ کیا زہ تورات و انجیل  
 منز چھو قرآن مجیدس پٹھہ کر نک کھم۔ تہہ چھوہ تھہ انکار کران۔ تم اکس حصس انکار کور تم کور  
 ساری انکار۔ لہذا چھو عیدار تہ قابل مذمت تہہ۔ ٹھس سزاوار تہہ مگر پین عیب چھوہ نہ یوز نہ  
 یوان کینہہ آسہ چھوہ پھیرت ناحق ٹھہہ کران قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فرماؤ گھہ  
 تہہ یار سؤل اللہ کہ یوما کرووہ خبر زہ خدا بس نغہ کوسہ و تھہ چھہ بدتر جزاء کیم تہ مزورہ ہندہ اعتبارہ  
 مَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ سوچھہ تمنی  
 لوگن ہنز و تھہ تمکن پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان لعنت کر۔ تمکن پیٹھہ تہمز بیزار ی چھہ تمکن اللہ تعالیٰ ان مسصورت  
 کر تھہ و اندر نہ سورن ہنز شکل کر۔ یہہ کر تمبو پر ستش شیطانہ سز۔ ووان و چھوہ تہہ کوسہ و تھہ چھہ  
 تھہ سو و تھہ تھہ منز غیر اللہ سز پر ستش کر نہ یہہ کتہ سو و تھہ تھہ منز توحیدی توحید چھوہ تھہ منز انبیاء  
 ہند تصدیق چھو۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تے کوکھ چھہ تم سیٹھاہ بد

امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ ط وَاللّٰهُ  
 اَعْلَمُ بِهَا كَاثُرًا ۙ وَيَكْتُمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَتَرَىٰ كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ  
 فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوْا  
 يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۲﴾ لَوْ لَا يَنْهٰهُمْ الرَّبُّنَّبِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ  
 قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۶۳﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غَلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَعْتَابَا

تر چه خبر آخر تس اندر جای کن کیازہ بہنر جای چھہ نار جہنم بیہ ہجہہ یژڈلمت سبزہ و تہہ نغمہ کیازہ توحید و  
 تصدیق رسالتہ نغمہ تم سیٹھاہ دور، متھین شخصن ہنز و تھہ یوسہ سبب سپدہ نار چھہ خدائس نغمہ  
 دوری ہنز، یقینا گنہیہ سوی و تھہ سیٹھاہ چھہ، آی یہود و توہہ چھوہ اختیار کر مژبیہ و تھہ۔ لہذا گمہ ہجہہ  
 چھوہ تہہ مؤحدن تصدیق انبیاء کرہ و نین معبود برحقہ سبز عبادت کرہ و نین ٹھہہ کران و اذآ جاءؤکم  
 قَالُوا امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهٖ بیہ یلمہ تم منافق توہہ نغمہ یوان چھہ دبان چھہ  
 توہہ اسہ اون ایمان حالہجہ ہم ژای تہ گھر یقہی تہ درای تہ گھر یقہی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِهَا كَاثُرًا ۙ وَيَكْتُمُوْنَ  
 اللہ تعالیٰ سی چھو پور علم تمن سارنی گھن ہند سمہ گھہ تہ عقائد تم دن منز گھٹان آس یعنی عقائد گھر یہ  
 وَتَرَىٰ كَثِيْرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ بیہ چھوک تہہ و چھان سمو  
 یہود و اندرہ واریاہ لوگھہ سم دورہ دور چھہ کران گنہہ یعنی اپزونہ نس اندر بیہ ظلم کر نس تہ مال حرام گھٹس  
 اندر لَيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ واقعی سیٹھاہ چھہ چھہ تمہہ کلمہ سمہ تم کران آس لَوْ لَا يَنْهٰهُمْ  
 الرَّبُّنَّبِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ تمن کونہ  
 سنا چھہ عالم تہ مشائخ منع کران اپزونہ نغمہ تہ حرام کھینہ نشہ۔ البتہ سیٹھاہ چھہ چھو تہ سوروی بیہ تم کران  
 آس وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ یہود و دوپ خدایہ سند اتھہ چھو عطا و بخشہہ کرنہ نشہ بند یعنی نعوذ  
 باللہ مخل چھو کران۔ غَلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَعْتَابَا قَالُوا تحقیق س منز چھہ بند گامت جہدی اتھہ، کیازہ

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا  
 مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَاتِ بَيْنَهُمْ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخُلُهُمْ جَنَّةٌ نَجِيهِمُ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا

تم چه پانه سخت بخیل۔ اژدها تھہ وند سبہ آیہ تمن لعنت کر نہ۔ تم آی خدا یہ سزہ رحمتہ لغیرہ دور کر نہ۔  
 بلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بلکہ چھہ خدایہ سندوشوے آتھہ و تھی۔ سوہ چھہ خرچ کران، پن فضل  
 و کرم عطا کران۔ تھہ پاٹھ خوش چھوس کران۔ تمن خوش چھوس کران وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا توہہ پیٹھہ یہ نازل کر نہ آوتھہ دس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ ہر  
 راوہ ضرور تمہو آند زوہ راہمین۔ یہو دن سر کشی تہ کھر تمن سپدہ نہ پنہہ جرمگ احساس عنہ وقتہ وَالْقَيْنَاتِ بَيْنَهُمْ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تھی سر کشی تہ کھر نتیجہ چھو کہہ آسہ تر و تمن آندر عداوت تہ  
 بغض نہ قیامتس تام یمن منز دور سپدہ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ یلہ یلہ تم لڑایہ تہ  
 جنگ نار چھہ مسلمان خلاف زوہ راوان اللہ تعالی چھو تھہ نارس ژھیہ تہ کران یلہ تم تھہ منز ناکام چھہ  
 سپدان وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تم چھہ پوشیدہ طور سیماہ کوشش  
 کران ملکس آندر خرابی ہنز تہ فسادی، چوچہ اللہ تعالی چھو نہ ہرگز پسند کران مفسدن تہ خرابی کرہ  
 و نین۔ لہذا یہ تمن ضرور سزا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخُلُهُمْ  
 جَنَّةٌ نَجِيهِمُ ہر گاہ اہل کتاب پڑھ کرہ ہن بیہ نافرمانیو نشہ چھہ روزہ ہن اس کرہ ہو ضرور تھہ دین  
 گنہن بخشائیش، بیہ واتاوہ ہو کہہ ضرور نعمن ہندس جتنس آندر مگر تم چھہ نہ سر کشی تہ نافرمانی تراوان سمہ  
 سبہ تم پن پان خرؤم چھہ کران۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنْحِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ



التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ  
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ  
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ  
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

لَأَكْفُوا مِنْهُمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ  
نازل کرنے آئی بواسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امن و سلامت کے لیے ہمارے ہی، اُدھ آسمان  
کیوں خدایہ سزا تمہارے لیے ہے۔ تمہیں آسمان کی طرف دُعا ہے۔ تمہیں یہ ہندو کھورویوں کے زینہ  
منزہ کھسان چھ۔ مگر تمہو کو تورات و انجیل ساری تعلیم ضائع تھے گے خوار تھے ذلیل و مہتمم  
مُقْتَصِدَةٌ تمہو اندر چھ۔ اہ جماعتہا میانہ روی کران تم گے۔ تمہو پیغمبر آخر الزمان ایمان اُون تہ پڑھ  
کر، حضرت عبد اللہ بن سلام ہو۔ یہود ان اندر، حضرت نجاشی یہو نصاریٰ ان اندر و کثیرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ  
مَا يَعْمَلُونَ اکثر چھ یہود و اندر تم بہنرہ کامہ سیٹھا چھ۔ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رَبِّكَ، ای بڑے پیغمبر وہ اتنا و خدایہ سزا بنان تہ سو روی یہ نازل آو کر نہ توہر گن چھندس پروردگارہ  
سیدہ طرفہ۔ دشمن ہندمہ برو کانہ پروا۔ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہر گاہ تمہ تہ کرو نہ یعنی  
سو روی نہ و اتنا نہ سیت تہ پانچ یہ فرض پٹھان چھو تھے پانچ تمہ منزہ کانہ کتھا نہ و اتنا نہ سیت تہ چھو  
یہ فرض پٹھان۔ تبلیغ احکام ان اندر مہ برو جہہ دشمن ہند کانہ پروا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ  
تعالیٰ حض گرہ پانہ توہر را جہہ لو کن ہندہ شرہ ریشہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہر پانہ اللہ  
تعالیٰ ہا وہ نہ ہر گز کامیابی ہنرہ و تہ کافرن۔ تم ہیکن نہ توہر کہینہ کر تہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى  
شَيْءٍ فرماؤ کہ تہہ یا رسول اللہ ای اہل کتابو تہہ چھو نہ مٹنے صحیح و تہہ پیٹھ۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَةَ

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ  
 مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٨﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّاصِرُونَ  
 مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَىٰ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
 يَحْزَنُونَ ﴿٧٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ  
 رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

وَالرَّحِيلِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يُدْتَنَانِ بِهِ نَجْمُهُ جَاءَ تورات و انجیلک احکام یہ تم احکام تم نازل  
 کرنے آئے توہم نے بوسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید و لیزیدکم کثیراً منہم  
 مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ یہ ہر راوہ ضرورت یہ توہم نے آنازل کرنے تمہیں  
 پروردگارہ سندہ طرفہ تمن یہودن نہ نصاری ان سرکشی نہ کفر ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کس مہ  
 کرو تہہ افسوس تمن لوکن ہندس کاس پیٹھ سموزہ نغیرہ انکار کور ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
 وَالصَّابِقُونَ وَالنَّاصِرُونَ یہ چھہ پڑتھ کہ تم لوکھ سمو ایمان اون یہ تم لوک تم یہودی، صابی نہ نصاری چھہ  
 مِنْ أَمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَىٰ صَالِحًا سمو ساروی اندرہ سمو ایمان اون کنس خدا کس یہ تمس  
 دوس یعنی قیامت۔ یہہ کرچھہ رزہ عملہ ۗ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس چھونہ تمن آخرتس اندر  
 کانہ خوفانہ چھو تمن کانہ غماہ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا چھہ منر چھونہ  
 کانہ شک کہہ آسہ کرناو بنی اسرائیل سارنی پیغمبرن تصدیق و اطاعت کرنس پیٹھ برو تھہ نہ عہدہ۔ یہہ سوز  
 تمن نے واریاہ پیغمبر سو عہد ژ تمس پاونہ خیطرہ ۗ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا  
 وَفَرِيقًا تَقْبَلُونَ مگر تہنز حالت آس یلہ تمن نغیرہ کانہ پیغمبر اہ اوس و اتان تم حکم ہیبت تم نہ تہزن نفسانی  
 خواہش موافق آسان آس تم آس تمو پیغمبر و اندرہ بعضین اپز یرونان بعضین آس قتل کران۔  
 وَحَسِبُوا أَنَّهُم لَأَكْثَرُونَ فِتْنَةً ۗ خیال آس کران اٹھ پیٹھ و تھہ نہ باز خواستی کہینہ فَعَبُوا وَصَمُّوا کس سپدان

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٤٠﴾ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ  
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا  
 يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ  
 مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٤٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

تہ زہرِ ثَمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توبتہ کر اللہ تعالیٰ ان تمن پیٹھ پتھر رحمتہ سیت توجہ کہ بیا کہ پیغمبرہ سوزن  
 تمن کن دیوہ تم سیزہ ورتہ پیٹھ من۔ مگر ثَمَّ عَمُوا وَصَمُوا کَثِيرٌ مِنْهُمْ توبتہ سپدیہ تمہو آندرہ واریاہہ آن تہ  
 زر یعنی تعمیل احکام کرنہ نشہ کر کہ زوگردانی وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اوس تہنزہہ سارے  
 کامہ وچھان یعنی تہند خیال اوس غلط کہ آسہ چھونہ باز خواستی کینہہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً چھہ تم لو کہ کافر تم دنان چھہ خدا چھو عین مسیح مریمہ سندیو یعنی تم زہ چھہ متحد  
 تہ کنی وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ حالانکہ پانہ چھو فرماوان مسیح بن مریم اکی  
 بنی اسرائیلو عبادت کرو تہہ معبود برحقہ سنز، ئس میون تہہ تہند پروردگار چھو إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ بیشک یم اک خدا ئس، بہہ کانہہ کنہ چیزس منز شریک ٹھہرو  
 تس پیٹھ کور یقیناً اللہ تعالیٰ ان جنت حرام۔ تہنزہہ جائے چھہ نار جہنم وَاللَّظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ تہتھن  
 ظالمن ہندہ خیطرہ آسہ نہ کانہہ مددگارہ ئس نارہ نشہ موکلاوت تمن جنس منزواتا وہ۔ چھہ پانہہ عقیدہ  
 اتحاد باطل چھو تھہ پانہہ چھو عقیدہ تثلیث تہ باطل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ یقیناً چھہ تم لو کہ تہ کافر تمہو دپ خدا چھو تریہ آندرہ اکہ (مول۔ گوہر۔ بہہ  
 روح القدس وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَالْوَاحِدُ حالانکہ کانہہ معبوداہ چھونہ کنس خدا ئس وراہی۔ وَإِنَّ كُمْ  
 يَنْهَوْنَ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہر گاہ تم سمو تھو نشہ چھہ روزن نہ البتہ

ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَدْتَهُمْ وَعَمَّا يَقُولُونَ  
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى  
اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا  
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَكَانًا يَأْكُلِنَ  
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَى يُوقِفُونَ ﴿٤٥﴾  
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

ضرور رتبہ تمن، سمو گھر چہ تنھہ کرہ تمواندرہ، آخرتس اندر کڈر عذاب نیس دگ تہ دود تملہ ون آسہ  
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم تم توحیدک مضامین تہ شرکک وعید شدید  
یوز تھ تہ چھنا تم خدائس کن رجوع کر تھ توبہ کران، بیہ کونہ چھہ تس مغفرت مکان۔ سو کرہ بھہ  
مغفرت بیزاہ سو چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ حمکرہ ون ما المسیح ابن مریم الی رسول حضرت  
مسیح بن مریم نے چھو عین خدانہ چھو جزوہ خدایکک چھو اکھ مرتبہ وول پیغمبرہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  
تس برو تھ تہ چھہ کڈرے مت کاتیاہ صاحب معجزات پیغمبر تمن نہ عیسائی خدامانان چھہ۔ ہر گاہ پیغمبری  
یا مجزہ، خدایک دلیل چھہ۔ تلہ گوہہ تم ساری پیغمبر تہ خدازان۔ ہر گاہ پیغمبری تہ مجزات خدایک دلیل  
چھہ تلہ کیاہ خصوصیت چھہ حضرت عیسیٰ سز تم چھو ک عین خدایا جزوہ خدامانان وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ تھے  
پاٹھ چھہ تہمز والدہ تہ خدانہ تہ جزوہ خدایکک چھہ سو پزیر نیو کار زاناہ۔ تمن دوشون ہندہ خدانہ آج  
دلیل کانا یا کلن الطعام تم دوشوے ماجہ پتھر آس سارنی انسان ہند پاٹھ غذا کھیوان۔ تم بہن زندگی  
قائم تھانہ خیطرہ کھینس چینس کن محتاج آسن تم ہیکنہ خدایکک یا خدایہ سند شریک آتھ۔ کیا زہ خدایک  
سوی نیس نہ کنہ چیزس کن محتاج آسہ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَى يُوقِفُونَ وچھو آس تھہ کن  
چھہ تمن لو کن وضاحتہ سان دلیلہ بیان کران۔ تو پتہ وچھو کو کن چھہ تم وٹہ پھیران۔ یہ پتھہ ما چھہ  
یوز نہ یوان۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تہہ فرما یو کھ یار رسول اللہ

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۷﴾ قُلْ يَا هَلَلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۴۸﴾ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۴۹﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۹﴾

اے یہود و نصاریٰ او کیا ہر چہ معبود برحق تراو تھ تمہن مخلوقن ہنز پرستش کران سم نہ مالک چہہ تہندس کنہ چیزس تہ نفیس تہ ضرر س واللہ ہوالسمیع العلیم حالانکہ اللہ تعالیٰ اکی چہو سوزوی بوزہ ون سوزوی زانہ ون توتہ چہوہ نہ تہہ تس کھوژان تہ کفر و شر کہ لغتہ بازیوان قُلْ يَا هَلَلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ فرماؤ کہ تہہ یارسول اللہ ای اہل کتابو نا حق مہ آسوپنتہ وینہ کین معاملن اندر حدہ ڈلان وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ بیہ مہ آسوپیروی کران تم لو کون ہنز سم توبہ برو نٹھی چہہ گمراہ سپد مت وَأَضَلُّوا كَثِيرًا بیہ چہہ تم پانس سیت واریاہ گمراہ کرمت وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بیہ چہہ تم پانہ سیزہ وتہ لغتہ بالکل ڈلت لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بیہ لعنت آیہ کرنہ تمہن سم بنی اسرائیلو اندرہ کافر سپد حضرت داوودہ سندس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے شہر ایلمک لو کہ۔ بیہ حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریمہ سندس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے اصحاب مایدہ۔ تمہن ہنز ذکر برو تھہ ایہ تہہ چہو مراد تمہن ہندہ لغتہ ذکر چہہ زبورس منزہ تہ انجیلس منزہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بیہ لعنت آیہ تمہن کرنہ امی موکھہ کہہ تمہو کیاہ کرنا فرمانی تہ مخالفت بیہ ڈل تم حدہ مخالفت تہ نافرمانی کرنس اندر کَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ تم آس نہ بازیوان تہ پتھ روزان تمہو چہہ کامیونشہ سمہ پیچہ کلمہ تم کران آس یعنی استمرار تہ ڈاڈ آس کران تمہن چہہ کاملن پیٹھ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واقعی سیٹھاہ

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَكَّنُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ  
لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَالِدُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ  
إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
فَسِقُونَ ﴿۸۶﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا  
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً  
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ يَأَنَّ

پہچھ اوس تہ یہ تم کران آس تری کثیراً منہم یتوگون الذین کفروا وچھو کہ تہہ واریاہ تمو بہودو  
اندہہ تم دوستی چھہ لاگان مٹرک یہودن سیت لبس ما قدمت لہم انفسہم البتہ سیٹھاہ چھہ  
چھو تہ یہ بہند یو نفسو تمن برو تھہ کنہ تروہ۔ تمیک نتیجہ چھو سیٹھاہ خراب ان سخط اللہ علیہم و فی  
العذاب ہم خالدون دنیاہ س منزگو تمیوک نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ چھو تمن پیٹھہ بیزار۔ آخرتس اندر  
آس تم ہمیشہ گرفتار عذاب نار ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم  
اولیاء ہر گاہ تم بزیاٹ ایمان آسما معبود برحق بیہ پنہ نس پیغمبرس یعنی حضرت موسیٰ اس بیہ تھہ کتابہ یوسہ  
تمن کن نازل کرنہ امر آس سمجہ پیروی ہند تمن دعویٰ چھو تملہ بناوہن نہ کافرن تہ مٹرکن ہن دوست  
ولکن کثیراً منہم فسقون لیکن تمو اندرہ چھہ واریاہ فاسق تہ بے ایمان۔ تہ چھہ کافرن سیت  
دوستی لاگتہ اسلامس تہ پیغمبر اسلامس تہ خلاف سازشہ کران لتجدن اشد الناس عداوة  
للذین امنوا الیہود والذین اشركوا البتہ لیو کہ تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ با ایمان ہند سخت دشمن  
کھہ یہود بیہ مٹرک ولتجدن اقربہم مودة للذین امنوا الذین قالوا اننا نصری بیہ لیو کہہ  
تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ یبززد یک با ایمان ہمزہ دوستی تہ مجتہس اندر تم لو کہ تم دنان چھہ آس چھہ نصاریٰ

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۶﴾  
 وَإِذْ أَسْبَعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا  
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۷﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ  
 الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۸﴾  
 فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ذَلِكَ يَأْتِ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ای مکھ کہ تمن منز چھہ واریہ عالم  
 تہ زاہد تارک ذیلہ بیہ چھہ تم مغرور تہ مخبر۔ وَإِذْ أَسْبَعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تموعیسا بیو لدرہ بعضی بلہ تم یوزان چھہ سو کلام پاک نیس  
 نازل او کر نہ پیغمبر بر حقس پیٹھ یعنی قرآن مجید و جھان چھوہ تو بہ کہ تہزہ اچھہ چھہ اوش بدان کیازہ تمو پوزہ  
 نووہ من حق اسلام بیہ آسہ کلام پاک کھنایت يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ونان چھہ تم ای سانہ  
 پرورد گارہ آسہ کمر پڑھہ آتھہ کلام پاکس۔ وون لیٹھ آسہ تہ آسہ کین گوان سیت وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ آسہ  
 کیا گہ اس کیا نونہ اسمان شریعت محمدیہ موجب معبود بر حقس وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ بیہ نیس پوز آسہ  
 نغمہ ووت بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ بیہ  
 کیازہ تھاکو نہ اس ارج امید کہ آسہ کیا و اتناوہ پرود گارسون جنٹس نیکو کاران ہدس جماعتس سیت فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ  
 بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نیس کر اللہ تعالیٰ ان عطا  
 تمن بیہ ویکھہ برکتہ تے جنت سمو منز جو یہ پکان چھہ۔ تمنی جنٹن منز روزان تم ہمیشہ۔ یچہ چھہ مزور  
 نیکو کاران ہنز وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا يَا تَبَّتْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ آتھہ بدل گے تم لوکھ سمو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ

انکار کو رہیہ زانک اہر سان آیات تہ احکام تہی لہمہ جے جنہمی ہمیشہ نارس اندر درزہ و ن یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ اے ہا سمانو حرام مہ کمر و پاس پیٹھہ تم پاک تہ لذیذ چیز، قسم ہاوت یا عہد کمر تہ۔ سم حلال کر تہمہ خیرہ اللہ تعالیٰ ان اده تم کھیک چیز آتن، چینک چیز آتن، لباس آتن یا مہکوحات آتن وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تحلیل و تحرکس متعلق سم حدود مقرر کر نہ آمت چھہ تمو و حدو نشہ مہ ڈلو ہر پائھہ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران حدہ نشہ ڈلہ و نین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا بیہ کھیو تمو چیز و اندرہ سم چیز عطا کر توہہ اللہ تعالیٰ ان حلال تہ پاک وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ بیہ کھو ترو س خدا جس نیس توہہ ہر تہ کمر و چھو یعنی کانہہ حلال چیزہ اہ حرام کرن اتھہ چھو بیزار اللہ تعالیٰ۔ لہذا کھو ترو تہمزہ بیزار ی۔ حلال چیزس حرام کرن اتھہ تریہ قسم۔ اکھ گو اعتقادہ کرن۔ بیاکھ گوزیوہ سیت، بیاکھ گو عملہ سیت۔ اعتقادہ اکانہہ حلال چیزہ اہ حرام زان یہ چھو کفر۔ زیوہ سیت و ن کنہ حلال چیزس یہ چھو مہ پیٹھہ حرام، ہر گاہ یہ قسم ہاوتھہ و و ن یہ چھو گناہ۔ سو قسم گڑھہ پھرن۔ تمہ فسج گڑھہ کفارت دن تہ سو چیز گڑھہ ضرور کھیون۔ تر ستم قسم گو عملاً کانہہ چیزہ اہ تراون یہ چھہ بدعت۔ بیہ گنیہ رہبایت۔ امیک چھوہ اسلامن اجازت ڈیشت۔ امہ نشہ گڑھہ ہتھہ روڈن۔ ہر گاہ کانہہ کانہہ حلال چیز آسہ ترک کور مت کنہ مصحلت جسمی یا نفسی خیرہ بطور علاج تھہ چھہ نہ کانہہ قصور مگر ہر گاہ کانہہ آسہ تر وومت کانہہ بزرگہ سندر قرب، نزدیک تہ رضامندی حاصل کر نہ خیرہ تہ چھو ناجائز تہ شرک۔ کیازہ قرب و رضامندی گڑھہ کنہ عملہ سیت کانہہ آکسنز ژھانڈن خدا جس و رای تم چھہ ترک اکل و شراب مقرر کور مت پنہ خیرہ اکھ عبادت۔ بیہ تس و رای بیہ کانہہ ہندہ خیرہ کرن یو ہے گو شرک، ثعو ذباللہ من ذالک لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِحُكْمٍ وَبِحَقٍّ تُوهِبُهُ لَكُمْ فَمَا تَنْتَقِبُوا فِيهَا مِنْ حُرْمٍ إِنَّمَا تَنْتَقِبُوا فِيهَا مِنْ غَيْرِ حُرْمٍ إِنَّمَا تَنْتَقِبُوا فِيهَا مِنْ غَيْرِ حُرْمٍ



بِاللَّغْوِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا  
آيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

کران لغوت بے ہودہ قسم ہاؤس پیٹھ۔ لغو قسم گو سوی لیس بغیر ارادہ زویو منزہ نیرہ۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ مگر باز خواست چھو کران توہم ضرور ثمن قسمن پیٹھ تم توہم ارادہ کر تھ مضبوط کرمت چھو ہر گاہ تم قسم تہم پھڑ اون اس تیج گڑھہ کفارت دن۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تمہ تیج کفارت چھہ سمہ وہ مسکین غذا کھیوان، درمیانی غذا۔ لیس روزمرہ تہم پنن عمیال کھیوان چھون۔ یا وہن مسکین پو شاک دین، یا غلام آزاد کران۔ لیس آکس نہ یہ بہتہ تیتر سپدہ سو روزن ترین دوہن پو لیس ہتھ روزہ دار ذَلِكْ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ بیچہ چھہ کفارت تہندین قسمن ہنز۔ یلہ تہم گنہ چیز س پیٹھ قسم ہوان تہ پتہ پھڑ او ان آسبو وَاحْفَظُوا آيْمَانَكُمْ چوہمہ یہ کفارت دن چھہ واجب لہذا آسبو راچھہ کران قسم پنن نین قسم کمر تھ گڑھہ نہ پھڑن بیون۔ پھڑ او وے بیہ تیج کفارت ضرور دن۔ ستنہ اژہ تھہا کمر وہ قسم پھڑ تھہ آسبو کفارت تیج دوان تہ چھہ سخت گناہ مگر افسوس لوکن چھوہ امیک کاہہ خیالاہ۔ کاہہ کانسہ نشہ گڑھان۔ سو چھوس کاہہ چیز کھینہ یاچینہ خیطرہ ونان۔ یہ چھو قسم ہاوتھ وپان یو کھیمہ نہ یاچیمہ نہ سو چیز۔ تو پتہ چھوس سو اصر ار کران زور کران کھینہ خیطرہ۔ اتی چھو سو چیز کھیوان یاچیوان۔ پھڑ او ان چھو سو قسم لیس ہوومت اوئن۔ تو پتہ چھوہ تمہ تیج کفارت دوان۔ لہذا یلہ کانسہ شخصن کاہہ چیز کھینس یاچینس پیٹھ قسم ہو اوادہ گڑھہ نہ تمس زور کران سو چیز کھینہ خیطرہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ستنہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ ویبڑھہ ناوان حکم پنن یو تھہ تہم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا  
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٤١﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا إِنَّمَا  
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٤٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

امہ نعتک شکر ہو۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**  
**فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اکی باسمائو شراب زار پتل تہ چیرین ہند تیر سم چھتہ مگر گندہ تہ ناپاک کلمہ  
 شیطانہ سنز و کامیو لدرہ۔ مہوساروی کامیو لشرہ روز و ہتھہ۔ ہتھہ تہہ کامیاب سپد و تہن چیرن ہند یو مضر  
 تولشرہ ہجو۔ تہن چیرن ہنز ہڈ مضر تہ ہتھہ کہ۔ **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي**  
**الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** شیطان چھو نہ بیوہان مگر ای زہ توہہ اندر تراوہ پانہ وان عداوت تہ بغض دل اندر  
 شرابہ تہ زارہ کہ ذریعہ **وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ** بیہ چھو شیطان بیوہان توہہ رشہ ہتھہ شرابہ  
 تہ زار کہ ذریعہ خدایہ سدہ یادہ رشہ بیہ نمازہ رشہ یوسہ خدایہ سد یاد کر بھو طریقو اندرہ بہتر تہ افضل طریق  
 ہتھہ بیوہ خرانی تہ نقصان تہن چیرن منز آہتھہ **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** کیاہ یہ یوزتھر روز و ناہتہ امہ رشہ  
 ہتھہ یہ آہہ کر سمہ یوزتھر و ون صحابہ صیوہ انتہینا یعنی آس زود ہتھہ۔ کس آس رشہ امہ وقتہ کینہہ شراب  
 موجود اوس تم دیت سو بھر تھہ تہ ہتھہ **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا إِنَّمَا**  
**عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ** بیہ کرو فرمانبر داری خدایہ فرمانبر داری رسول خدایہ ہتھہ کس اندر۔ بہنرہ  
 نافرمانی رشہ روز و ہتھہ۔ کس ہر گاہ تہہ پوت پھر و حکم مانو نہ کس زانو تہہ وارہ پاتھہ کہ سانس پنمبرس چھو  
 نہ مہ مگر ن پاتھہ یوضاحت حکم و اتیان عمل کرن یا نہ کرن یہ ہتھہ تہنر کوم۔ تمیک نتیجہ تلو تہہ پائے۔  
 یلیہ یہ آہیہ کر سمہ نازل سپد بھسی لو کو کور عرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یارسول اللہ واریاہ

الضلحت جناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصلحت  
 ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴿۹۳﴾ يأيها  
 الذين آمنوا ايبسوا لكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم و  
 رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد  
 ذلك فله عذاب أليم ﴿۹۴﴾ يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم

لوک تم شراب چیان اس زار بگردان اس تم حض گئے۔ سمہ عالمہ تم چیز حرام سپدہ بردوٹھ۔ ٹھند حال کیا  
 حض آسہ اتی سپد سمہ آئیہ کر سمہ نازل لکین علی الذین آمنوا وعملوا الصلحت جناتم چھوٹہ تمن  
 لوکن پیٹھہ سموا اسمان اون تر رثہ عملہ کر یجھ کا بہہ گناہ فیہا طعموا تنھہ مزنیہ تمو چو شرابہ اندرہ یا کھیو  
 زارہ سیت ز ستمتہ مالہ اندرہ حرام سپدہ نہ بروٹھہ۔ إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصلحت یلیہ تمو لوکو تمو چیز و  
 نیشہ ہر ہیز کور تم تمہ وقتہ ناجائز اس۔ بیہ او بچھ اسمان تہ بیہ کر یجھ رثہ عملہ ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا  
 وأحسنوا تو پتہ زود ہر ہیز گاری پیٹھہ اسمانس پیٹھہ ثابت تو پتہ کور کھ بیہ تمہ وقتہ کیو حرام چیز ونیشہ  
 ہر ہیز بیہ کر یجھ رثہ عملہ والله يحب المحسنين اللہ تعالیٰ چھو دوست تھا وان امہ قسمہ کین نیکو کاران  
 تہ رثہ عملہ کرہ ونین یأيها الذين آمنوا ايبسوا لكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم و رماحكم ای با  
 اسمانو البیہ اللہ تعالیٰ کرہ تو بہہ ضرور آزمائش شکار کہ عنہ قسمہ سیت احرامس حالتس اندر۔ سوگو سوئی شکار  
 تنھہ شکارس ٹھند اتھہ پکن۔ بیہ ٹھند نیزہ پکن۔ بس شکار ٹھہہ با کل قریب تہ نزدیک آسہ اتھہ پلہ ونہ سیت  
 بیسکان سور ٹھہہ یا نیزہ لا۔ تنھہ بیسکان سوز خمی کرہ۔ بیہ آزمائش کرہ اللہ تعالیٰ تو بہہ بیٹھہ لیعلم الله من  
 يخافه بالغيب مطلب امتحانک تہ آزمائشہ ہند چھو کہ حالت احرامس منز و حشی جانور شکار کران کور تم تو بہہ  
 پیٹھہ حرام۔ سمیک حکم ن پانٹھہ بروٹھہ اوہ ون چھو۔ تم و حشی جانور اسن تو بہہ برو ٹھکن پھر ان بیٹھہ اللہ تعالیٰ  
 نمبر اوہ کہ بہہ چھو کھو ژان تس تھندس عذابس و چھہ و رای فین اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بس  
 بس اکھہ حدہ ڈلہ یعنی عدول کھی گرہ۔ احرامس حالتس اندر کرہ شکار تسدہ خیطرہ چھو آخر تس اندر عذابہ

حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  
يُحْكَمُ بِهِ ذَوَاعِدِلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ  
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ طُغْفَاءُ اللَّهِ  
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٥﴾  
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ

دگ تله ون لیا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حورم ای باله سمانومه ماریون شکار احرامس حلتس اندراده احرامس کر نه خیره آستو گوئد مت یا عمره کر نه خیره۔ یعنی پانجه یله سو جانور آسه حرم شرعیس منز اده شکار کره ون احرامس منز آسه پنجه ته چھویو ہے حکم یعنی حرم شرعیف جانور گرهه نہ رن نہ زخمی کرن **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ** پس آکله مله شکارس زانجه کتر ته عمداً پس چھو تس واجب تمیک بدل دیکن تس جانورس ہیو پس موزن چار پایو آندره آکھ جانور له ته گو مثلاً هر گلتر موزن موزن تس بدل گرهه وونت قربان کرن۔ هر گلگور خر موزن پنجه بدل گرهه گل ملدن۔ هر گلگورس کت ملدن تس بدل گرهه پنجه مازن **يُحْكَمُ بِهِ ذَوَاعِدِلٍ مِنْكُمْ** تمیک فیصله کرن تو به مسلمانو آندره زه شخص عدل وانصاف کره ون **هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ** پس جانور قربان بیه کر نه کعبه شریف واتاوته **أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ** نت بیه افس جانور سندس قیمتس برابر مسکین غذا نه **أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا** نت بیه مسکین هنزه گرز دو بن روزه دار روز نه **لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ** پنجه سومه زبه پنه کلمه بنده سخی هند ته پنجه انجامگ عفا الله عما سلف الله تعالی انجور عفو تنه به از تام لو کو کور **وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ** پس آینه دو باره پنجه برم کره تس به الله تعالی انتقام آختر تس اندر **وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ** الله تعالی چھو غالب انتقام بیه وول تس پس بار بار عدول حکمی کره **أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ** ای لو کو حلال آنو کر نه پنجه خیره دریائی شکار کرن۔ احرامس منز آستو یله آستو دریائی کھینه چیز وسیت تمتع تلن چھو تو به اکل حلال بیه سدنی مسافرن۔ **وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا** حرام لو کره نه پنجه خیره خشکی

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
 تُحْشَرُونَ ﴿٩٧﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ  
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہند شکار یوتتان جُہہ حالتِ احرامس منز آسود ہر گاہ بیاکھ شخص نئس نہ احرامس منز آسود شکار کرہ تو پتہ دیہ  
 حُرْمَس تِس چھوتہ کھیون جاہیزہ حلال وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوژوتس خدایہ  
 سُدین کھن مخالفت کرنس سئمس بر وٹھہ کتہ جُہہ ساری سئمتھہ کھ وٹہ واتناون ایو جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ  
 الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ ان کور خانہ کعبہ نئس واجب تظلم گره چھو لوکن ہندہ دہمنی وڈوہی  
 کالین ہندہ قائم تہ بر پاروز نک باعث وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بیہ کرن تظلمہ وال ریتھہ تہ امن واما نک باعث  
 وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان نذرو نیازک جانور سیم محض خدایہ سندہ خیطرہ چھہ یوان خانہ  
 کعبس کن واتناونہ۔ بیہ تھن جانورن ہندہ ہنزہہ سیم تھن جانورن نال تراونہ یوان چھہ تم تہ کرن امن  
 واما نک باعث۔ ذلک بیہ کور اللہ تعالیٰ ان امی سببہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیٹھہ جُہہ وارہ زانو پٹھک اللہ تعالیٰ چھوژانان تہ سوروی بیہ آسمان  
 تہ زمین اندر چھو۔ بیہ بیٹھہ تہہ زانو کہ اللہ تعالیٰ چھو پڑ بیٹھہ چیزس بیٹھہ قدر تہ وول اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ زانو کہ بیٹھک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عذاب کرہ ون نافرمان بیہ  
 چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون فرمانہ دارن مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ چھو نہ سمس  
 سانس پیغمبرس منہ مگر پیغام واتہ ناون نئس تمو واتنوورتہ طریقہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ  
 اللَّهُ تَعَالَى چھو تہ سوروی زانان بیہ جُہہ زیوہ سمیت تانوسمیت منز اولان تہ ظاہر کران چھوہ۔ بیہ بیہ جُہہ دن منز

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ  
 أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءِ إِن  
 تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ وَإِن تُسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ بُدِّ  
 لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ

کھنٹت تھوان چھو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ فرماویو کھ تہہ یارسول اللہ برابر چھو نہ  
 ناپاک تہ پاک یعنی گناہ تہ اطاعت۔ یا کھنگار تہ فرمانبردار۔ بلکہ چھو خبیث مردود، طیب چھو مقبول۔ عاقل  
 گو سوی بس پٹن پان مقبول بناوہ مردود بنہ نشہ وَلَوْ أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ نہیں آندر  
 تراوتے تہ اے مخاطب ناپاک زیادتی تو گنہ کر تہ خیالی فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 بلکہ کھو تہ و تہہ خدایہ سندس حکم مخالفت کر نہ نشہ ائی عقلہ والیو تہہ تہہ کامیاب تہ رستگار سپدیو مھول  
 جنتہ سیت ہیہ مھول رضای اہی سیت۔ یلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت جہیان  
 فرماوتہ اک شخص پڑ تہہ تمن کیا حض ہر تہہ ذریہ چھان گزن فرض تریہ پھر ہر ژھن نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم تموف مھوس نہ کہنہ جواب۔ تو پتہ فر موو کھ ہر گاہ ہر مادہ ہاؤہ۔ تلہ ہیہ ہا تو ہہ ہر تہہ ذریہ  
 جگزن بس نہ تہہ کتر تہہ ہیہ ہو۔ برو ظہم لو کھ گے تباہ زیادہ ہر تہہ ہر تہہ کر نہ سیت۔ یوسہ تہہ یو فر ما  
 وان آسووہ تہہ پٹھہ آسو عمل کر ان۔ یوسہ تہہ نہ یو فر ماوان آسووہ تمیک مہ آسو ہر ژھان۔ اتہہ مطابق سپد  
 آئیہ کر سہہ نازلل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءِ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ ای ہا سناو فھول تہہ  
 غیر ضروری معاملن متعلق مہ آسو ہر ژھان تمن متعلق احتمال چھو کہ ہر گاہ بیان ہیہ کر نہ تو ہہ سپدہ تہ  
 بوژن باوار وَإِن تُسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ بُدِّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا تہہ ہر گاہ ہر ژھو تہہ تمہہ وقتہ یلہ قرآن مجید  
 نازل سپد ان آسہ تو ہہ ہیہ پورہ جوضاحت کر نہ تو پتہ ہیہ کو نہ تہہ کوم پورہ انجام اتہہ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللہ  
 تعالیٰ ان کور تو ہہ عفو فھول سوال کر ان از نام مگر آیندہ کمر احتیاط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو

مَنْ قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ  
بِحَيْرَةٍ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وِصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا

سیٹھاہ مغفرت کرہ و ان سیٹھاہ حلیمہ تہ چھوسو مٹھنہ توبہ حکم عدولی پٹھہ عذاب تہ باز خواست نہ کر نہ سیت  
دھوکہ لگہ کہ اسہ آونہ خلاف ورزی پٹھہ باز خواست کر نہ۔ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمًا مِّنْ قَبْلِكُمْ بِزَيْطٍ  
کتھہ ہر ژھہ تمبو لو کو تم توبہ بوٹھہ اس پنہ نین پیغمبرن، تو پتہ یلہ تم کتھن ہند جواب دہہ او تمبو کر نہ تھہ  
پٹھہ عمل۔ مٹھنہ ٹھہ تہ سوی نوہت پیش لیہ۔ لہذا چھو بہتر سوالے مہ آسبو کر ان ٹھہ  
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ پتھو لکہ سپد تم تم چیرن مٹھہ۔ کافر ن ہند رسم او اس کہ حیوانا تھن تہ حیوانا تھن ہند نین  
چن اس معبودان باطلن ہندہ ناوہ نیاز تھوان۔ تو پتہ اس تھند نین کن تر تھہ دو ان نغانہ تھاونہ خیطرہ تس  
اس ونان۔ خیرہ۔ بعضی جانورن اس پو تیلن ہندہ ناوہ تھوان۔ کامہ نشہ آزاد تھوان۔ ہتھہ پاٹھہ ازک  
کافر چھہ درم دلد تھوان۔ تس اس ونان سانبہ۔ بعضی کافر اس ماجہ ہندس شہنکسی اندر آہتھہ چس  
متعلق ونان کہ ہر گاہ یہ نر آسہ تلبہ کرون فلان پو تلبہ سدہ خیطرہ ذبح ہر گاہ مادہ آسہ تلبہ تھاونون رچھنہ خیطرہ  
پانس کیت۔ اُس اس ونان و صیلہ۔ تس وونٹہ دہ چہ آسھن پیدہ سپد مت تس اس سواری نشہ، پور تلبہ نشہ  
الگ تھوان۔ اُس اس حامی ونان۔ تمنی چیزن اس خدایہ سُنڈ حکم زنان۔ آتھہ ساری چھو اللہ تعالیٰ رد  
کران۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحَيْرَةٍ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وِصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ کتر نہ اللہ تعالیٰ ان مقرر کانہہ  
خیرہ نہ سانبہ نہ کانہہ و صیلہ نہ کانہہ حامہ۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ لیکن کافر چھہ پائے تم لہز رسوم ٹھہر او ان۔ خدا جس کن منسوب کران۔ آڑہ چھہ تمبو  
کافر و اندرہ بے عقل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یلہہ تم وننہ یوان چھو ایو  
رجوع کتھو تمن ارشادا تھن کن تم اللہ تعالیٰ ان نازل کر ہیہ تھندس پیغمبرس کن۔ تمن پٹھہ تم احکام

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا  
 يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا  
 حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  
 أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ

اور شادات نازل کرنے کی۔ قَالَوَحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تنہہ چھہ جواب وان اسہ چھو کافی تی یہ  
 اسہ وچھہ پن مال نہ بڈب کران اَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرما  
 وان کیاہ سوطریقہ اوسہ تمن ہدیتھہ حاسل منز کافی۔ کیاہر گاہ تہمد مال بڈب کینہ تہ زانان آسہن نہ نہ آ  
 سہن کنہ آسمانی کتابہ ہندس ہدایتس پیٹھہ توتہ کرہنہ ثم تہنزی پیروی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  
 ای با اسمائو کمر و پنہ نس پانس اصلاح کر فحجر۔ اصل گوم چھویہ توبہ منہ۔ بین اصلاح کرنس متعلق چھو  
 یہ حکم کہ تہہ پنہ مقتورہ تہ طاقتہ موجب بین اصلاح کر فحج کوشش کمر و مگر تمن کاہہہ اثر سپدہ نہ تہہ مہ  
 کھیو تمیک غم کہ تمن کونہ چھو اثر سپدان لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لیس شخص تہمدہ اصلاح کر نہ  
 باوجود گمر ای پیٹھی روزہ توبہ چھونہ تمیک کاہہہ نقصان تہ ضرر۔ یلہ تہہ پانہ پور ہدایتس پیٹھہ آسہو الی  
 اللہ فَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خدایہ سی کن چھو تہہہ سارنی رجوع کرن۔ پس گروہ سو توبہہ  
 خبر تمہہ سارچی یہ تہہہ کران آسہو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْنُوا ای با اسمائو شہادہ بینکم اذا حضر احدکم  
 الموت تہمدین باہمی معاملاتن اندر مثلاً وارثن کن مال سپر دکرنہ خیطرہ گروہن آسزی شخص۔ وصی یلہ  
 توبہ اندرہ کانہہ مرنگ وقت و اتان آسہ۔ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ  
 تمہہ ساتہ وارثن کن مال سپر دکرنہ وصیت تہ کر نہ خیطرہ گروہن زہ شخص مسلمان دیندار کن سم وصی بناونہ  
 بین۔ یازہ شخص غیر مسلم ہر گاہ تہ زہ مسلمان میسر سپدان إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ



مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تُحْسِنُ نَهْمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ  
 إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَنْتَهُمْ  
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَإِلَيْنَ الْآثِمِينَ ﴿۱۶﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا  
 إِثْمًا فَآخَرُونَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْأُولَىٰ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا  
 مَا عَتَدْنَا لَكُمُ الْآثِمِينَ وَالظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا

الموت ہر گاہ توہمہ سفرس منز آستہم ر تک وقت ولتہ تحسینو نہما من بعد الصلوة جہند گروہن  
 تم زہ گواہ رہن اولائے شہادتہ خیطرہ نماز پڑتہ۔ آنے زہ مسلمان بہتر چھو وگر نماز پڑتہ۔ آنے غیر مسلم تلہ یوسہ  
 تمن پندہ طورہ کانہہ نمازہ عبادتہ مقرر آسہ سوعبادت کثرتہ لوکن تھی فیقسمین باللہ إنا ارتبتمہ پس  
 ہاون تم زہ قسم خدایہ سندر گاہ تمن متعلق توہمہ شک آسہ۔ لانشترئی بہ ثمنًا ولوکان ذاقربى قسم  
 ہاون تم ہتھہ تھہ پیٹھہ کہ اس گروہ حاصل ہتھہ قسمہ سیت کانہہ فاندہ یعنی میت سندر مالہ طمہ موکھ گرو  
 نہ اس ایڈ قسم آدہ آستن آسہ آشتاپن رشتہ دار پین کانہہ ہند رعایت گروہن اس ولانکتہ شہادۃ اللہ  
 پرورد گلارہ سندر طرفہ یوسہ تھہ کونہ تک حکم چھو سنو تھہ تھاوونہ اس کھیت لانا اذ الین الاثمین ہر گاہ  
 اس بڑھہ تھہ گرو بیٹک اس چھہ تلہ گھنگاروتہ جرمو آندرہ فان عثر علی انہما استحقا اثما پس ہر گاہ کنبہ  
 طریقہ معلوم سپدہ کہ سمودو یوگاہو اور پین حق ثابت گنبہ سیت یعنی خیانت کرتہ ہوو کھہ قسم ایڈ فآخرین  
 یقومون مقامہما پس بدل زہ گواہ سپدن قائم ہن دون گواہن ہمزہ جلیہ من الذین استحق علیہم  
 الاولین تہمدہ طرفہ ہند حق ضائع کرنے او سیم زہ یوگواہ آن تم ہند نزد یک رشتہ دار فیقسمین باللہ  
 پس خدای سندر قسم ہاوتھہ وزن سم زہ گواہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا سان گواہی چھہ زیادہ درست  
 بروظھین گواہن ہمدہ خوتہ وما عتدنا لکم الایمہ قسمہ زیادتی کرنے اس حدہ ڈل نہ ہر گاہ اس حدہ ڈلت آسو  
 لانا اذ الین الظالمین تلہ چھہ اس ضرور ظالمو آندرہ ذلك ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا

بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرَكَاءَ إِيمَانِهِمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾  
 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوَالْأَعْلَمُ  
 لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ  
 اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ  
 الْقُدُسِ فَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

سمہ طریقہ قسموسیت چھو زیادہ امید کہ تم دن گواہی جان پاتھ۔ رتہ طریقہ۔ اُو یخافون ان شرکاء ایمانہم  
 بعد ایمانہم یا کھوژن کم از کم سمہ تھہ نشہ کہ ہر گاہ اس پوز پوزوونہ تلہ ایہ سان گواہی تہ رد کر نہ دو سمہ  
 گواہی سیت۔ و اتقوا اللہ و اسعوا بیہ کھوژو اللہ تعالیٰ اس معاملات و حقو قن منز مہ آسوا ہوزوان۔ بیہ  
 یوزو خدا بیہ سند احکام تو پتہ ماہو۔ ہر گاہ ماہو نہ تلہ سپدو فاسق تہ نافرمان و اللہ لا یهدی القوم الفاسقین  
 اللہ تعالیٰ چھو نہ نافرمان نجاق تہ سعادت و تھہ ہوان یوم یجمع اللہ الرسل سودوہ پاو ورتیس سمہ دوہہ  
 جمع کرہ اللہ تعالیٰ ساری پیغمبرن اتیوسان سوگو قیامتک دوہ کوتاہ ہولناک چھہ فیقول ماذا اجبتکم تو  
 پتہ ہر ژہیکھ توہہ کیہہ جواب اوہ دنہ سمن ائمن ہبہہ طرفہ قالوا الاعلم لنا تم دہن آسہ چھو نہ  
 ژتیس کھنی۔ تہ آسہ تمہ دوہیکھ شدت ہو لک اثر تمن پیٹھہ۔ زہول آسیکھ سپد مت انک انت علام  
 الغیوب ہز پات ژہی چھو ک ساری پو شیدہ چیز زانہ ون اذ قال اللہ لعیسیٰ ابن مریم اذکر نعتی  
 علیک وعلی والدتک سودوہ پاو ورتیس سمہ دوہہ ہر ژہہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام ای  
 عیسیٰ بن مریم ژتیس پاومیان تم احسانات تم مختلف و قن اندر مختلف قسمو ژہہ پیٹھہ تہ چانہ والدس  
 حضرت مریمس پیٹھہ مہ کرمت چھہ اذ ایدتک بروح القدس یلہ سو مدد کروی نہ پاک زوحہ سندہ  
 سیت (سوگو جبریل امین علیہ السلام) تکلم الناس فی المهد و کھلا کھہ اوسکھ کران ژہ لو کچارس لوکن  
 سیت منز بس منز بیہ بوڈ و اتھہ دون کلامن منز اس نہ کاہنہ فرقاہ واذ علمتک الکتاب و الحکمة بیہ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ  
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَ  
 تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي  
 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جُنْتَهُمْ بِالْبَيْتِ  
 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِثْنُ ١٠٠  
 إِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا  
 آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ ١١١ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

یله مه پنجه نامو سکھه شه لیکن ته گانجار چه کنه و التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیه تورات ته انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي بیه یله شه بناوان اوسکھه ره بهند جانوری میانه کهمه فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي کس اوسکھه شه منزه پنجه کوه دوان توپه اوس سوواره کاره جانور بنان میانه کهمه وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي بیه اوس من موتی لون، نابینا ته بیقهر لدریسه بلراوان میانه کهمه وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي بیه یله شه مرده اوسهک زنده کرت قبر و منزه کدان میانه کهمه وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جُنْتَهُمْ بِالْبَيْتِ بیه یله مه بنی اسرائیل شه نیشه پنجه رت یله تموجانه قتلک اراده کریو یله شه تمن نیشه ندره لیله بیته کهه فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُكُمْ مِثْنُ ١٠٠ دوان تموجه آندره تموجو لوکو سم کافر اس پنجه سمه روشن دلیده مگر نون حرت ته جود۔ وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي بیه یله مه حوارین کهم کور که پنجه کور مه بیه میانس جیمیسرس قالوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ تموجو دوپ ژیه کن تمیک جواب که آسه لون اسمان خدا کس ته ته ژیه ته دوان روز شه ای حضرت عیسی گواکه اس پنجه پنچاپک مسلمان فر مانبر دار خدایه سند ته چان ته إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يُعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بیه جهو قابل ذکر واقعه یه یله حواری بیودوب یا حضرت عیسی ابن مریم

يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۳۴﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کیا تھند پروردگار ہینا اسہ پیٹھ آسمانہ طرفہ نعم ہند خواجہ نازل کر تھ، والہ تھ، تہ ماہجو تھندس عنہ خمس خلاف قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرت عیسیٰ ان دو پچھ کھو ژو خدا ایس ہر گاہ تہہ بالہ آسمان چھوہ۔۔۔ پٹھ تھ کر نہ نشہ روز و پٹھ ہیکازہ بالہ آسمان پہرہ نہ مہجران ہنز فرمایش کرن۔ بے ضرورت امہ قسمک چیز طلب کرن چھو خلاف آدب۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ تم لگ ونہ اسہ خدایہ سندس قادر مطلق آسئس اندر عنہ قسمہ شک تہ تردہ چھو نہ بلکہ چھو سون مقصدیہ ونہ آندرہ آکھ کہ اس کھیمہ ہو کینہہ اسہ پچھ پچھ ہجو بہ روزہ ہن سال دل مطمئن۔ اسہ پیہ ہند معاشہ خیطرہ فجر تھاون تمہ نشہ بے فکر روز تھ کرہ ہو اس خدایہ سنز عبادت۔ بیہ سپد ما معلوم اسہ تو بہ فر مووہ پوز۔ بیشک چھو تہہ پیغمبر خدا۔ بیہ روزہ ہو اس تھندس اتھ معجزس پیٹھ گواہ۔ سو سپدہ ہائین لوکن ہندہ ہدایتک ذریعہ تہ سبب قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ چنانچہ یہ جواب بوز تھ سپد معلوم حضرت عیسیٰ اس کہ تھند عرض چھو صحیح اتی کوزکھ دعا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ یا اللہ ای ساندہ پروردگارہ نازل کر اسہ پیٹھ خواجہ۔۔۔ پٹھ منزر تھہ کر تھ، تیار سپد تھہ تھینک چیز آن آسمانہ طرفہ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تمیک و س تہ نازل سپدن بہ ساندہ خیطرہ، سائین برو تھمین پتھین ہندہ خیطرہ فرحت و سرورک باعث۔ بیہ سپدہ سوچانہ قدرت کاملک بوڈ نشانہ۔ کر اسہ امہ

خَيْرَ الرِّزْقَيْنِ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ  
 مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْدِبُ بِهِ عَذَابًا لَّا أَعْدِبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۷﴾  
 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي  
 وَأُمَّيِّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ  
 مَا لَيْسَ لِي بِحِجِّطٍ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي  
 وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۸﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ

طریقہ بہن رزقِ ثہ عطا شری چھو کہ ساری اندرہ بہتر عطا کرہ و ن قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَنَزَلُهَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ  
 تعالیٰ ان فر موو کہ بیشک بو کرہ نازل خواجہ توہمہ پیشہ ضرور مگر فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْدِبُ بِهِ عَذَابًا  
 لَّا أَعْدِبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ تمہ پتہ نئس اکھاہ توہمہ اندرہ ہر ان نعمت کرہ یعنی حقوق واجبہ ادا کرہ نہ تس  
 کرہ بو سو عذاب نئس نہ کاتبہ ائس کرہ بہ تمہ وقتہ کیو عالمیو اندرہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ یہ  
 چھو قابل ذکر یہ واقعہ نئس قیامتک دوہ در پیش یہ۔ اللَّهُ تعالیٰ فر ماوہ تمہ دوہمہ یا عیسیٰ بن مریم ؑ اَنْتَ  
 قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيِّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیاہ ثرے ووئٹھ لوکن بو تہ میان والیدہ زالیعون زہ  
 معبود، خدائس و رای (یہ یوزنہ سیت و وٹھہ ٹھہ حضرت عیسیٰ ائس) قَالَ ثَنَا ثَنَا وَنہ سُبْحَانَكَ مَنَزَرہ  
 نہ پاک چھو کہ ثہ شریک آئہ نہ شہہ۔ میلانہ دلجمہ اعتقادہ موجب تہ حقیقت واقعی موجب تہ مَا يَكُونُ لِي  
 مہ ٹھہ پاٹھ پڑہا ان اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحِجِّطٍ بُوکیا و نہ با سو ٹھہ سمیک نہ میہ کانہہ حق اوس نہ پینہ دل کہہ  
 اعتقادہ کہ اعتبارہ نہ حقیقت واقعی کہ اعتبارہ اِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ہر گاہ میہ پیشہ ٹھہ و نمو آسہ تلہ  
 آسہی ثہ خبری تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ثہ زاٹھ تہ سوزوی یہ میا ئس و ندس منز چھو  
 کھٹھہ۔ مگر یوزنہ نہ یہ چائس ذات پاکس منز چھو مگر تروی بن ایوہ بن ثیہ زانزو ٹھس اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ پڑیاٹ ثری چھو کہ سبٹھاہ زانہ ون ساری پوشیدہ چیز مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي بِہ میہ و ون نہ  
 لوگن مگر تی سمیک ثیہ حکم کور تھم اِن اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ سونو گنیہ یہ تھ کہ عبادت کور معبود

إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
 شَهِيدًا أَمَدُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۴ إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ  
 عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۱۵ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ  
 الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

برحقہ سزائیں میوں تہ تہند ہروردگار چھو وکنت علیہم شہیداً اامدمت فیہم ایس کاس یو تمن  
 منزاوس آسمانس پیٹھ کھارنہ بنہ بروٹھہ تہ آسمانس پیٹھہ کھارنہ بنہ پتہ تہ تئیس کاس اوس یو تمن بحرانی  
 کران تہ تہوند حال وچھان فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید تمہ پتہ بلہ تہ  
 میوں وقت پورہ کورتھ اہ لوسکھ تہ تہند ر اچھہ تہ چھو کھ پرتھہ چیزک حال وچھان ان تعذبہم  
 وانہم عبادک ہر گاہ تہ تمن عذاب کرکھ تم چھہ بندہ چانی۔ تہ چھوی پورہ اختیار تمن پیٹھہ۔ وان  
 تغفرلہم ہر گاہ تمن بخشکھ تہ مغفرتھی کرکھ فانک انت العزیز الحکیم چان اتھہ کانہہ پتھہ ہیچہ  
 نہ رٹھہ کیما تہ چھو کھ بیشک سارنی پیٹھہ غالب تہ جنتہ وول قال اللہ ہذا یوم ینفع الصادقین  
 صدقہم فرمو اللہ تعالیٰ ان یہ ازیک دوہ چھو سیمہ دوہہ نفع دیہ پز یارین پوز پین۔ سیمو لوکو پز  
 اعتقادس پیٹھ روز تھہ رتھہ عملہ کر مڑہ آسن لہم جنت تجری من تحتہا الانہر خالدين فیہا ابدا تہندی  
 خیطہ چھہ تم جنت تہ بلخ سیمو منزا جو یہ پکان آسن تم روزن تمنے جتن منزا ہمیشہ ابد الابد رقیب اللہ عنہم  
 ورضوا عنہ خدا تمن ریشہ راضی تم خدا س ریشہ راضی تہ خوش۔ ذلک الفوز العظیم یہ کیہ کیہ ہڈ  
 رسنگاری تہ کامیابی یعنی رضای خدا حاصل سڈن۔ دنیا عج کانہہ کامیابی چھنہ اتھہ برابر اللہ ملک

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾  
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ پادشاهتِ چھ آسمانِ منزتہ زمینِ منزبہ تہن سارنی پٹھہ تہم تہن دون  
 منز روزان چھہ۔ عالمِ علویکِ مخلوق تہ عالمِ سفلیکِ مخلوق تہ۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سؤی چھوہر تہتھہ  
 چیزس پٹھہ قدرتہ دول۔ امسی مالکِ کس ہرہ پنہ نین مخلوقن پٹھہ احکامِ مقرر کرن۔ سٹھہاہ چھہ تہ ناجائز  
 چھوہر تہتھس پادشاہہ سنز، تہتھس قدرتہ والِ سنز نافرمانی تہ عدولِ حکمی کرن۔



## سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ  
 وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ  
 مَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ  
 جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ساری حمدتہ شایچھ سزاوار تس  
 معبود بر حقس تم پیداه کر آسمان تہ زمین بیہ تم پیداه کر گمہ تہ گاش ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
 يَعْدِلُونَ یتھہ قدر تہ دول آتھہ چھہ کافر پنہ نس پروردگار سیت برابر تھاوان مخلوقو آندرہ معبودان  
 باطن (کجا خالق تہ کجا مخلوق) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ سُوگو سوسی پیداه کر ہون تم  
 تہہ پیداه کر و۔ رَبہ نیشہ بواسطہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ کمرن مقرر اکھ وقتاہ پرستھہ اکسیدہ زینہ  
 تہ مر نہ خیطرہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ بیاکھ وقتاہ چھو تس نشہ مقرر تہ مُعَیْن تھندہ دُوبارہ زندہ سپد نہ  
 خیطرہ ثُمَّ أَنْتُمْ مَمْتَرُونَ تو تہ تہ چھوہ تو بہ اندر بعض لوکھ شک تہ تر د ذکر ان مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نس  
 منز۔ حال ایچہ تم ذات پاکن سو زوی گوڈہ پیداه کور تمس نش کیاہ عجایب چھو دُوبارہ بیہ پیداکرن۔ وَهُوَ  
 اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ بیہ چھو سوسی معبود بر حق آسمانن منز تہ زمینن منز تہ۔ تس ورا ی چھہ  
 ساری معبودان باطل۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ زانان چھو سوتھند پو شیدہ احوال  
 تہ۔ نن احوال تہ۔ لو تہ لو تہ تھہ تہ بدہ بدہ تھہ تہ بیہ چھو زانان تہ سو زوی بیہ تھہ کر ان چھوہ نیک و بد عملو



رَّيِّمٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۵۱﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ  
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَاسْتَهْزِءُونَ ﴿۵۲﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ  
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۵۳﴾  
 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَسَوْهٌ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ

اندره۔ سمو ترشوی آیات کریمو سیت سید ثابت توحید باری تعالیٰ کیا زہ نئس اندر سم صفات آس  
 سوی چھو عبادتس سزوار بیہ نہ کانہ و مآتاتیبہم من الیوم من الیت ریمم الا کانو اعنہا معرضین بیہ  
 چھو نہ تمکن مکہ کین کافر ن تہ معکر نفعہ خدایہ سیدہ وحدانیتہ کیونشاواندرہ کانہہ نشانہ کانہہ دیلاہ  
 واتان۔ مگر تم چھہ تمونشاوانہ دلیلو نشہ ہتھ پھر ان۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ چنانچہ تموکورانکار  
 ہتھ ہزس قرآن مجیدس یلہ سوتمن نفعہ دوت۔ مگر تممن ہندہ امہ انکار کر نہ تہ ہتھ پھر نہ نفعہ لیہ نہ اچھ  
 ٹونہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَاسْتَهْزِءُونَ جلدی لکھہ تممن پتہ تمہہ چیزک یوتھہ تم ٹھٹھہ کران  
 آس یعنی عذابس گڑھن گرفتار اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرَارًا کیاہ تمووچھناہ پنہ نین سفرن اندر۔ اسہ کاژہ امرچھہ ہلاک کرہ  
 مرہ تمکن اسہہ دنیاس اندر سوتوت تہ طاقت دیوتمت اوس ٹیس نہ توہہہ دہمت چھو۔ بیہ آس آس تممن  
 پیٹھہ آساکھہ طرفہ پے درپے وزہ وزہ زود تراوان وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ بیہ آسہ ہمزہ  
 وبستیوتہ آبادیہ منزہ جوہہ تہ کولہ جاری کرہ مرہ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ باوجود آس کراسہ تم ہلاک تہند  
 یوٹھوتہ نافرمانیہ سببہ۔ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ توپتہ کمرہ اسہہ تممن پتہ واریاہ جماڑ سپدہ۔ ہتھہ پاکھہ  
 توہہہ پیٹھہ تہ ہمزہ نافرمانیہ سببہ اس عذاب نازل گروہہ کیاہ عجائب چھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ  
 فَلَسَوْهٌ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ هَذَا إِلَّا سُحُورٌ مَبْنُوءٌ تممن لوگن ہندہ کفر و عناد چھہ یہ کیفیت

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ④ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ  
عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضَىٰ الْأَمْرُ لَمَّا لَا يَنْظُرُونَ ⑤  
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا  
يَلْبَسُونَ ⑥ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ  
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ قُلْ

کہ ہر گاہ اس کاغذس پیٹھہ لیکھتھ کتاباہ توبہہ پیٹھہ نازل کرہ ہو تو پتہ کرہ من تم پتہ نیوا تھوسیت تھتھ  
تھپ۔ توتہ ونہ من تم کافر تہ معرہ یہ جھونہ مگر ناکارہ ہبوجودتہ سحر کیا زہیلہ نہ دلکن مانن غرض جھو  
آسان تلہ جھو پر تھہ دلیلہ نسبت کھنہ نہ کینہہ کھ پوان کڈنہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ بِسِ  
وَدُونَ سَمُو کافر وکیازہ جھونہ من پاٹھہ نازل سپدان حضرت محمد ﷺ ہٹھہ کانماہ مکاہ کس یہ ہندس  
پیغمبر آسٹس پیٹھہ تصدیق کرہ ہا۔ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جھو فرماوان ہر گاہ آس نازل کرہ ہون مکاہ  
بتھہ پاٹھہ تم پڑھان آس الْقُضَىٰ الْأَمْرُ لَمَّا لَا يَنْظُرُونَ تلہ یہ ہاقصہ ختم کرہ نہ یعنی تھہ صورتس  
اندر ہر گاہ تم ایمان آنہ من نہ۔ تلہ یہہ ہاتھنہ ہلاکت تہ گالکت حکم جاری کر نہ بتھہ اندر نہ تم نکتہ قسمہ  
مملت یہ ہاونہ موجود صورتس اندر آہہ تم مہلت ونہ بتھہ تم توبہ کر نک موقعہ حاصل سپدہ وَلَوْ  
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بسہ ہر گاہ اس پیغمبر بناوتھ سوز ہون کانہہ ملک سوتہ کرہ ہون اس  
بصورت انسان کیا زہ عام انسان جھونہ طاقت ملک و جھتک وَاللَّبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبَسُونَ توپتہ  
تراوہوک اس تم تمخی شین اندر تم اندر و نکس تم پیمت جھہ تمہ ساتہ ونہ من تم تھہ تمہ و نکس  
ونان جھہ تمسندس بصورت انسان آسٹس پیٹھہ کرہ ہن شہ خبر چھایہ چھا ملک بنہ جھونہ۔ لہذا مہ  
سپدوتہہ یارسول اللہ بنہز و کھوسیت آرزوہ یہ نوکھا جھنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ  
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پڑپاٹھہ ٹھہہ آو کر نہ تم پیغمبرن  
سیت تہ تم توبہہ بروٹھہ آس۔ توپتہ ول تم تمخی عذائن تھہ تم ٹھہہ کران آس۔ لی بنہ تم لوکن تہ

سَيُرَوُّا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝<sup>۱۱</sup>  
 قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتُبٌ عَلَى  
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۚ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ  
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝<sup>۱۲</sup> وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝<sup>۱۳</sup> قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَنْحِدُ وَلِيًّا

سیم توبہ ٹھٹھہ کران چھوہ۔ لہذا تمہ بانہر وکینہہ۔ قُلْ سَيُرَوُّا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُكْذِبِينَ فرماویو کہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو پھیرو تہہ ساری زمینیں تو پتہ وچھو کہ  
 چھو سپدمت انجام معکران ہند۔ مومنان آیات اہر بوزان قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پر ٹھٹھہ کہ  
 تہہ یارسول اللہ آسمان وزمینں منزیہ چھو تہہ ہند چھو قُلْ تم نے امیک جواب دین یورے فرماویو کہ  
 تِلْكَ سُورَى چھو معبود برحقہ سہد کیا زہ امیک جواب چھو نہ امہ ورا کی تہہ۔ كُتُبٌ عَلَى نَفْسِهِ  
 الرَّحْمَةُ تم چھو ذمہ ہر مٹھپاں پیٹھہ لوکن نسبت مہربانی کرن۔ ہم ہر کہہ نشہ توبہ گران لِيَجْمَعَنَّكُمْ  
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور کہہ توبہ سارنی جمع قیامتک دوہ تو پتہ ہیہ سارنی حساب قیامتک دوہ  
 گو تمکس پیش منزہ شیکھ چھو کانہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ڈیٹھہ کیٹھہ تہہ تہہ تہہ ممکن کافران توحیدہ چہ  
 دلیلہ رحمتک تہ عذابک وعدہ وعیدہ کمر و الْكٰفِرِيْنَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مگر سہو لوکو ٹھپان  
 پائے نقصانں تہ تاوانں منز ترود تم پٹھہ کرن نہ، ایمان آنن نہ۔ کیا زہ تہو چھہ ہن عقل تہ نظر صحیح  
 ضایع کر مٹھ۔ کانہہ چیز حاصل کرن خیلرہ چھو قوت فکریہ استعمال کرن لازم تہ ضروری آسان۔ تھہ  
 قوتں چھہ تم کامی ہیوان۔ لہذا تھہ پاٹھہ آنن تم ایمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ بیہ چھو  
 تہندوی تہ سوزوی بیہ رائس تہ دوہس منز روز تھہ چھو۔ یعنی مکان وزمانں منزیہ کینہہ ہاہ چھو تہہ چھو  
 تہندوی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سوی چھو سوزوی یازہ ون سوزوی زانہ ون قُلْ فرماویو کہ تہہ یا  
 رسول اللہ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَنْحِدُ وَلِيًّا قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعَّمُهُمْ وَلَا يُطَعَّمُهُمْ اِى كَافِرٍ وَتَهہ چھوہ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلٌّ  
 إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ  
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ  
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

پڑھان ہو کیا رٹن معبود برحقس وراى بىہ کانہہ دوستاہ مددگارہ تہ معبود البسنز عبادت بو کرہ سوتراوتھ  
 ئس آسانن تہ زمين مند پيدہ کروون چھو۔ بيه چھوسارنى کھياوان۔ تس چھونہ کھياوان کانہہ۔ کيا زہ سُو  
 چھو کھينہ چينہ نشہ منزہ تہ پاک قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ فرمايوکھ تہہ يارسول اللہ سَمُو عَقْلِي دَلِيلُو علاوہ چھہ نقلی دليلہ سَمُو موجب نہ بوئہ صورتہ  
 تس وراى کانہہ معبودزان۔ سَمُو نقلی دليل گنيہ بيہہ کہ ميہ اوامر کرنہ کہ بو آسہ گوؤ بھوئى کھمس تعويل  
 کرون۔ بيہ آم حکم کرنہ سٹھ نہ ہرگز بنوئہہ شرک اندہ وينو آندرہ۔ بيہ ييلہ تس صاحبس وننہ آؤئس  
 صاحب شرک اندہ نشہ معصوم تہ پاک چھو۔ وئن چھنہ بينن ہننز تھي۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ  
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فرمايوکھ تہہ يارسول اللہ بو چھوس کھوژان ہر گاہ بو نافرمانى کرہ  
 پروردگارس پنہ نس۔ بڈہ دو بھس عذابس۔ ئس عذاب حکم نہ مانوئين کرنہ بيہ۔ سُو بوؤدوہ گو قيامتک دوہ  
 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ تہہ ئس اُس نشہ تہہ دوہک عذاب ہتھہ ليہ رنہہ بیشک تس  
 کور خدائن بوؤر حم۔ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوي گيہ زن رستگارى تہ کاميابى يعنى تہہ دوہيچہ عذابہ نشہ  
 نجات لبين وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اى انسانہ ہر گاہ ژيہ و اتاوى اللہ تعالٰى کانہہ  
 تکليفاف، کانہہ بلاياہ کانہہ بيارياہ سہہ تنگياہ ئس چھونہ کانہہ اکھاہ ئس تھہ تکليفس ژيہ نشہ دُور ہيچہ کمر تھہ  
 تس معبود برحقس وراى۔ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر گاہ سُو اتاوى ژيہ

قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾  
 قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ وَتَفَّ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَقَدْ  
 وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ  
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا  
 هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمُ  
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمُ

کانہ خیراہ صحابہ، دولتہا، تسبیحہ کانہ رشتہ ہیچ نہ سو چھو پریتھ چیزس پیٹھ قدرت دول۔ وَهُوَ  
 الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سُوی چھو غالب پنہ نین بدن پیٹھ۔ یہ چھو سُوی بوڈ حمتہ  
 دول سارچی خبر تھادہ وں قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً تہہ پر تھو سمن توحیدور سالتہ کین مکران کہ  
 ساروی آندرہ تہہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن۔ سمسندہ گواہی سیت تہہ مختلف فیہ مسلس منز فیصلہ یہ کرنہ قُلِ  
 اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یوزے فرماویڈ کہ تہہ سہ ساروی خوتہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن اللہ تعالیٰ۔  
 سُوی چھو میہ منزتہ تہہ منز گواہ۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ  
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ کیا تہہ چھو امہ سجہ گواہی پتہ تہ گواہی دوان کہ خدا لیس سیت کیاہ  
 چھو یہ کانہ معبودتہ شریک۔ ہر گاہ تم دین تم چھہ توتہ امہ شرح گواہی دوان۔ تھہ صور تس اندر چھو  
 تہن سیت گفتگو کرن بے کار قُلْ لَّا أَشْهَدُ تہہ فرماویڈ کہ بوہر گز اتر تہہ ہنز گواہی چھو سنہ دوان قُلِ  
 إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تہہ فرماویڈ کہ تھہ صور تس اندر پن اعتقاد کہ سو معبود  
 چھو نہ مگر کئی۔ بوچھوس بیزار تمو چیز ونشہ تیم چیز تہہ تس شریک ٹھہراوان چھو۔ رسالتس متعلق  
 چھہ کافر وان کہ اسہ پڑ تھہ یہودو نصاریٰ ان تھہ متعلق چھہ یہ تھہ تھن کہہ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمُ الْكِتَابَ  
 يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ تم لو کہ سمن اسہ کتاب عطا کر تم چھہ اس پیغمبر برحق شک و شبہہ  
 واری تھہ پاٹھ زانان تہ پڑہ ناوان گوڈہ پیٹھ تھہ پاٹھ پنہ نین نچوین زانان تہ پڑہ ناوان چھہ الَّذِينَ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ  
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا  
 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ  
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتِنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا  
 مُشْرِكِينَ ﴿۲۴﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَٰ عَنْهُمْ  
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۵﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سمو لوگو باوجود شہادتِ عمری یعنی بڑگو ای آسجہ باوجود پین پان تاوانس  
 تہ نقصانس منز تراو تم ہر گز پڑھ کرن نہ، نہ توحیدس نہ رسالتس۔ تیم مکرین توحید و رسالت چھہ  
 عقلاً تہ نہایت بے انصاف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الظَّالِمُونَ بیہ تمہ اکھاہ چھو یڑ ظالم تہ بے انصاف تہ شخصہ سدہ خو تہ تیم اپز نوو رووکس خدا تہس پیٹھ  
 شریک ٹھہرونہ سیت۔ یا اپز زان تہند آیات تیم پیغبرن عطا آی کرنہ۔ پز پاٹ کامیالی تہ رستگاری  
 چھہ تہ ہرگز تھین ظالمین قیامتک دودہ بلجہ آس تم گرفتار عذاب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا بیہ چھو سو دودہ  
 تہ قابل ذکر سمہ دودہ اس تم ساری خلائق جمع کرؤ کہ محشرہ کس میدانس اندر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ  
 أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو پتہ و تو اس تم کو کن تیم خدا تہس شریک  
 ٹھہراوان آس۔ ای مشرگو تہ چھوہ تم معبودان باطل تیم تہہ خدایہ سد شریک زانان آسوکہ۔  
 سفارشہ خیطہ ہونہ چھو کہ پیش کران ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتِنَتُهُمْ تو پتہ آس نہ تم پینہ خیالہ نجاتک کانہہ  
 حیلہ تہ ہمانہ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اپز و تہ ورا ی کانہہ چیزاہ۔ دین قسم تہس  
 خدایہ سد تہس سون پروردگار چھو۔ اس آس نہ خدا تہس شریکی ٹھہراوان أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ  
 أَنفُسِهِمْ وارہ و چھو کیٹھ اپز و تھ پینہ تہن پان ہندہ حقہ۔ وَصَلَٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  
 بیہ مشھہ تمہہ سارے تھہ، اپزہ تھہ سمہ ٹھہراوان آس تم دنیاءس اندر وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

قُلُوبِهِمُ اكْتَنَتْ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ  
آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ يُخَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ  
وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾  
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ  
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَتَّوَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَّ لَهُم مَّا كَانُوا

سمو کافر و اندرہ چہ بعضی تم نہند قرآن مجید ہر چہ بوزان۔ مگر سو نہند بوزان حق تھانندہ خیرہ  
آسان چھونہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اكْتَنَتْ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اس چہ تہمدین دل پیٹھ  
تراومت ٹھہر۔ ٹھہنہ تمن فخرہ ترہ کینہہ بیہ چھو تہمدین کنن تر وومت زہنہ بوزان سیکھ کینہہ۔ تہمن  
چھن ہنز کیفیت چہ کہ وَان يَرَوْا كَلِمَةَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تمہ سارے ذلیلہ تہ وچھن توتہ  
کران نہ پڑہ زن نہ کہنی وچھتہ آسکھ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ يُخَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تا اینکه یلہ تومہ نشہ یوان چہ پڑہ خیالہ بحث کرانہ خیرہ مگر کینہہ چھو کہ نہ  
اندان لاجواب گدھتہ چہ ونان تم کافر تہ قرآن مجید چھونہ مگر برو ٹھہن ہند بہ قصہ تہ افسانہ وَهُمْ  
يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ بیہ چہ تم کافر قرآن مجید بوزنہ نشہ پتہ رٹان تہ منع کران بیہ چہ پانہ تہ  
آسہ نشہ پتہ ژلان تہ دور روزان وَان يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر یہ کرانہ سیت چھنہ تم  
تباہ کران مگر پنے نی پان بیہ چہ بیہ پن تباہی ژنیان تہ محسوس کران وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ہر  
گاہ ژہ وچھتہ ای وچھتہ سو وقت سمہ ساتہ تم کافر تہ مگر وودن تھانہ بن نار کس ٹھس پیٹھ پر ژہ گار  
کرانہ خیرہ بین پنے خیرہ تمہ ساتہ وچھتہ ژہ سیٹھا ہولناک منظر اہ کہ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ تمہ ساتہ  
لگن دہنہ تم ای کاش اسے دنیاء س گن بیہ سمہ ہو سوزنہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَتَّوَنُ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَنِ اس پنے پن خدایہ سندین آیاتن انکار کروہ ہونہ، تم اپوزانہ ہونہ۔ وگنہ ہو اس تہ

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۸﴾ وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۴۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

با ایمانوی اندرہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یہ ہندیہ تمنا کرن چھونہ منہ حقیقتس پیٹھہ مینی بل بڈا لہوہ  
 مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ بلکہ سپد تمن چیزن ہند اثرات ظاہر سم پو شیدہ تہ کھٹھہ تھوان آس تم از  
 کہ بروٹھہ دنیا س اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ہر گاہ تم یہ دنیا آس کن  
 وائس بین سوزنہ یہ کرن تے کامہ سمونہ منع اوسکھ یوان کرنہ پڑپاٹھ تم چھہ سم وعدہ کرنس اندر  
 بالکل اپزیر وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ یہ آس سم کافریتہ وان کہ ہیا کہ  
 زندگیاہ چھنہ یہ کینہہ سمہ سانہ دنیا چہ زندگی وراے۔ یہ کھہ چھ غلط کہ اس کیا سمومرنہ پتہ یہ زندہ کرنہ  
 وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ہر گاہ ژہ وچھہ کھہ آئی وچھہ ونہ سو وقت سمہ ساتھ سم قیامتک مخر وودنہ  
 تھاونہ بین پنہ نس پروردگار س بروٹھہ کھہ ژہ گھہ کھہ حیران تہ پریشان سو وقت وچھہہہ قَالَ أَلَيْسَ  
 هَذَا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ ای مخر وکیا آسنا یہ قیامت تہ مرنہ پتہ زندہ سپدن حق تہ پوز قَالُوا بَلَى  
 وَرَبِّنَا دین سانس پروردگارہ سڈ قسم یہ اوس واقعی بالکل پوز قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ یہ تہ ہندس اقرار کرنس چھونہ کینہہ اعتبار لہذا تہ وودن تہ عذاب پنہ  
 کفرک تہ انکارک تو پتہ بین سوزنہ سم جہنم س منز قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بیشک تاوان  
 پیو تمن لوکن سم انکار آسن کران مرنہ پتہ یہ زندہ سپدت خدا لیس بروٹھہ کھہ پیش سپدن یہ انکار  
 و تکذیب چھو دنیا س اندر کینون وودن حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا



وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾ وَ  
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآرْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي  
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ  
 يَبْجَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ  
 مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ

فِيهَا تَمَّ پتہ پلہ و انتھ پیہ تمہن قیامت ہنمہ تہ منگہ دپنہ لکن افسوس جھوسانہ خیطرہ آسہ کیازہہ کرے پیہ  
 سستی تہ کوتاہی اٹھ اندر وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ درحالیجہ تلن تم پتہ  
 نین گنہن ہند پور پتہ نین پٹشن پیٹھہ۔ وارہ یوزکہہ کوتاہہ تھہ آسہ پتہندیہ بور کیازہہ تمیک انجام آسہ سیٹھاہ  
 تھہہ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ جھنہ پیہ دنیاہ ج زندگی مگر گند ناہ تہ شغلاہ وَلَلْآرْءَاخِرَةُ  
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ آخر تک گرہ جھوس سیٹھاہ بہتر پرہیز گارن ہندہ خیطرہ کیاسمہ  
 ذلیلہ یوزتھہ تہ جھوہ ناتوہہ فخرہ تران۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ پز پٹھاہ آس جھہ  
 بخوبی پیہ تھہ زانان کہہ توہہ جھہ غمگین کران کافر ن تہ مکر ن ہنزہ کتھہ۔ مگر پروانہہ ہر وکینہہ خدائس پٹھر و  
 پیہ معاملہ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ سیم نہ حض جھنہ براہ راست توہہ اپز یور زانان وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ  
 بآيَاتِ اللَّهِ يَبْجَدُونَ لیکن سیم ظالم جھہ خدلیہ سندن آئین زانتھہ کتر تھہ عمدہ انکار کران خدا  
 چھڈہ نہ سمن عذابس گرفتار کرنہ وراہی۔ تہہ رُوزو بے فخر وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پیہ معاملہ  
 سپدنہ توہی سیت، بلکہہ توہہ بروٹھہ تہ آو پیغمبر ن انکار کرنہ۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا تموکور  
 صبر لوکن ہندس انکار س، نہ مانس پیٹھہ وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا بیہ انکار علاوہ آو تمہن عذاب تہ  
 تکلیف تہ واتاوندہ تا اینکه دوت تمہن مدد سون۔ تموک پیغمبر و تھہ پٹھاہ صبر کور تھہ پٹھاہ کتر و تھہ تہ صبر،  
 تھہ پٹھاہ واتر توہہ تہ سون مدد۔ کیازہہ پیہ اعانت و مدد کرن جھوساہ پتہ نین ہندن ہندہ خیطرہ مقرر

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِی الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۳۷﴾  
 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ  
 نَفَقَاتِی الْأَرْضِ أَوْ سُلْمَاتِی السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا یَسْتَجِیْبُ  
 الذِّیْنَ یَسْمَعُونَ ۗ وَالْمَوْتِیَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ یَرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

کورمت ولامبیدال لکلمات اللہ ہرگز یہ کہ نہ کانہ اکھاہ بدل کتر تھ خدایہ سندن مقرر کرتین  
 حکم و لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِی الْمُرْسَلِیْنَ بیشک توہر واثرہ بروظمین عظیمبرن ہنز خبرہ قرآن مجید  
 کہ ذریعہ یعنی تمن تھہ پاٹھ آو تکلیف دنہ۔ تھہ پیٹھ تھہ پاٹھ کور تمو صبر و لَنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ  
 إِعْرَاضُهُمْ یہ ہر گاہ توہر پیٹھ کافرن تہ مکرن ہنز روگردانی کرن چھو ناگوار سپدان۔ نهنز خواہش چھہ  
 تمن تم معجزات ہاون تمن ہند تم مطالبہ کران چھہ۔ دیوہ تمی سیت تمن ہدایت بنہ وَاِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ  
 تَبْتَغِیَ نَفَقَاتِی الْأَرْضِ أَوْ سُلْمَاتِی السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ بایہ کس ہر گاہ توہر طاقت چھو تہ کتر و  
 تلاش زمینس منز کانہ گوچاہہ یا آسماں کن لاگو کانہ ہیراہ توپتہ دیو کہ آنتھہ تم معجزہ تم تم توہر نشہ  
 ژھانڈان تہ طلب کران چھہ۔ چھوے طاقت تہ کتر و یہ چھو پوکہ توہر چھو سیٹھاہ آرزو عالک لو کہ  
 گزھہ سیزہ دوتہ پیٹھ بن۔ مگر یہ چھو خدایہ سندس یژھس خلاف وَاَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ  
 پروردگارے یژھہ ہاسارنی سونبر اوہ ہدایتس پیٹھ۔ مگر تم یوژھنہ تہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ کس  
 مہ ہوتہ بے خبر و آندرہ۔ یہ غم تہ فخر تراو تہہ إِنَّمَا یَسْتَجِیْبُ الذِّیْنَ یَسْمَعُونَ پرتھہ چھنہ مانان تہ  
 قبول کران مگر تہ تم وارہ بلازان چھہ پرتھہ یوز ژھانڈانہ خیلرہ۔ تمن چھو اللہ تعالیٰ تہ ہدایتک توفیق  
 ووان۔ سکو کافر و یوزنہ تھہ پاٹھ۔ لہذا آنتھہ پاٹھ بنہ بھکھہ ہدایت۔ وون ہر گاہ امہ انکار و اعراضہ موکھہ  
 تمن دنیاس منز پورہ عذاب آو کر نہ تمن چھایت روژان آخر چھو کہ مَرَانَ وَالْمَوْتِیَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ  
 إِلَیْهِ یَرْجَعُونَ سارنی مردن کرہ اللہ تعالیٰ زندہ قیامتک دوہ آخر کس آندر توپتہ بین تم و اتاونہ حسابہ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

خیطره الله تعالى اس نیشہ۔ سوی دیر تمہن پورہ مزاحمہ انکار و اعراضگ لہذا ترا و توجہ تمہد خیال۔ تہنہ۔ فجر تہ غم مہ بز و کینہہ **وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ** بیہ دوپ مکہ کیو کار فرود کونہ چھو نازل سپدان سمس بینبرس پیٹھہ کانہہ نشاناہ معجزاہ پنہ نس پروردگارہ سیدہ طرفہ۔ تمو معجزا اندرہ تمکن ہند اس مطالبہ چھہ کران۔ تمہہ سیت بیہند س بینبر آسئس تا سید سپدہ ہا۔ **قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** فرماویو کہ تمہہ یارسول اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ نشانہ تہ معجزہ نازل کرنس پیٹھہ قدر تہ دول۔ لیکن اکثر لو کہ چھہ زانان کہ معجزن ہند نازل کرن چھو اگس قانونس تحت آسان۔ بیہ چھونہ لوکن ہنز خواہیہ مطابق نازل کرنہ یوان امیہ انجامہ نیشہ چھہ اکثر لو کہ بے خبر۔ امہہ قسمکین معجزن ہند انجام چھو کہ ہر گاہ تم فرمایشی معجزہ تھہ تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ تلہ بین تم یکدم ساری گالنے تہ تباہ کرنہ **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ** بیہ تم جاندار زمینس منز خشکی پیٹھہ یادریاوس منز چھہ۔ بیہ تم جانور پنہ نیو دیو یو پرو سیت ہوا عس منز وڈان چھہ۔ سمو منزہ چھونہ کانہہ قسم نس نہ قیامتک دوہ تمہندی پاتھہ جماژو جماژو محشرہ کس میدانس منز جمع کرنہ ایہ۔ اگرچہ تم ساری چھہ بے شمار، لیکن آسہ نیشہ چھہ تم حساس اندر جمع کرنہ آمت **مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** کیا زہ آسہ چھونہ تہ درو مت پنہ نس دفترس منز یعنی لوح محفوظس اندر لیکنہ ورا ی کانہہ چیزاہ۔ پریتھہ اگس چیزس متعلق چھو آسہ لیوکھمت تم چیز قیامتس تان پیدہ سپدہ ون چھہ کمسند کیا حال آسہ **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ** تو پتہ بین تم ساری انسان جاندار تہ جانور پنہ نس پروردگارس نش جمع کرنہ سوی کرہ ساری منز فیصلہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو ”متفق علیہ“ کہہ اگر دنیا عس اندر

بِالْتِنَاصِمِمْ وَبِكُمْ فِي الظُّلْمِ مَنْ يَشَاءُ اللهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ  
يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ  
اللهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾  
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تَشْرِكُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ بِالْبِئْسَاءِ

اک پیغمبر جانورن پیغمبر جس جانورس ٹھول آسہ لائے قیامتک دوہ لیه تس نیشہ امیوک بدلہ بہنہ۔ تمہ  
پتہ لیه حیواناتن تہ جانورن ہم کرنے میوہ گنہ ہنہ تمن سیدہ میوہ۔ تمی ساتہ دین کافر' یا لیتنی کنت  
نرابا' کاش کہ بولتہ آسامیوے والذین کذبوا بالیتنصام و بکم فی الظلمت تم لو کہ سمو اہرزان  
سان آیات یعنی قرآن مجید تم بھہ پوزیوزنہ نیشہ زریوزنہ نیشہ کل۔ گھر چین رنگارنگ گٹن اندر گر فتر  
مَنْ يَشَاءُ اللهُ يُضِلُّهُ نِس یضہ اللہ تعالیٰ پزہ نیشہ اعراض کرنے موکھہ گمراہ کن تس چھو گمراہ کران  
وَمَنْ يَشَاءُ اللهُ يُضِلُّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے نِس یضہ اللہ تعالیٰ تس چھو سیزہ و تہ پیٹھہ دین حقس پیٹھہ اتان  
پنہ فضلہ سیت۔ بختس حالس منزہند غم کھیون چھو بے سؤد۔ بے معاملہ کر و تمہ خدا نِس سپرد  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللهُ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغَيَّرَ اللهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فرما دیو کہ تہہ  
یارسول اللہ ای مکہ کیو کافر و میوہ دتو ہر گاہ تو بہہ خدایہ سہ عذاب بےہ دنیاس اندر تمہو عذاب اؤندہ  
کانہہ عذابہ تم از تام مُحَرِّن تہ نافرمان پیٹھہ نازل کرنے آئے یا قیامتھی پیہہ و اتھہ تو ہیہ بھہ  
منزہ ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرنے خیطرہ دیوہ تہہ آلو خدا نِس وراکی ہیہ کانہہ  
چھوے تہہ شریک ٹھہر اونس اندر پزیر۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تَشْرِكُونَ ہر گز نہ ہر گز نہ بلکہ دیو تہہ نادتہ آلو تمہ ساتہ تس یوت تہہ بے نہ کانہہ۔ پس کروہ سؤی  
دور تہہ دفع سؤ عذاب سمہ خیطرہ تس ناد دیو۔ ہر گاہ سؤ یضہ سؤ عذاب دُور کران۔ بے مشیوہ تمہ ساتہ تم  
ساری اپز معبود سم تس شریک ٹھہر او ان آسہ۔ امی آندہ زانتو تہہ خدا نِس وراکی یلہ نہ قادر مختار کانہہ

وَالضَّرَاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَتَضَرَّعُوا  
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ  
 مُبْلِسُونَ ﴿۳۴﴾ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَبْعَ مِ

جھو عبادتس سزاوار کس بیکہ آتھہ وَلَقَدْ أَسْأَلْنَا آلَ إِمْرَأَتٍ قَبْلِكَ بِشِئْنٍ مِّنْ سِوَا سِرِّهِنَّ يَتَغَيَّرُ وَارْتَبَنَ  
 امتن کن توہمہ بروٹھ تمو کر تمہن پیغمبرن انکار تم زانکھ لہو۔ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَضَرَّعُونَ کس رٹ آسہ تم رزقچہ تنگی سیت تہ بیمار یو سیت بیٹھہ تم ہنہا بھٹن تہ اسہ کن رنج کمر تھہ  
 عاجزی تہ زارہ پارہ کرن۔ پنہ نین کفر و تکذیبہ کین گنہن ہندہ خیطرہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَتَضَرَّعُوا  
 کس کونہ سنا کرے یہ تمو عاجزی تہ زارہ پارہ سمہ ساتہ تمہن سون عذاب واژوو۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
 لیکن بہندہ دل آس سپد مت سخت عاجزی تھہ پانٹھہ کرہ ہن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیہ اوس  
 دیتمت شیطان زینت تہزون تمہن بچھہ کا مین سمہ تم کران آس۔ کس آئی نہ باز تم سمو بچھہ کامیونٹہ  
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کس یلہ تمو منشر واوہ تمہہ سارے نصیحو سمہ  
 تمہن کرنہ آسہ یوان پیغمبرن ہندہ ذریعہ ادہ مژراو آسہ تہندہ خیطرہ سارنی نعمن ہندہ دروازہ بیٹھہ زیادہ  
 غرق گوہن نافرمائین اندر حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تا اینکه  
 یلہ تم سیٹھاہ خوش لگ گزھنہہ تمو نعمتو سیت سمہ ونہ آسکھ آمزہ۔ غرور تہ بھجڑہ ہیوت بچھہ گزھنہہ آتی  
 رٹ آسہ تم عذابہ سیت ہنگہ تہ منگہ کس سپد تم حیران تہ پشیمان بیہ ساروی چیز ونشرہ نامیدہ فَقَطَّعَ دَائِرَ  
 الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس ژمنہ اومول ظالمین ہند۔ عالم سپد آزاد تہندہ شرہ  
 نیشہ۔ حمد یوہن خدا کس کس رب العالمین چھو سمہ تمہن ظالمین ہنز بنیاد گاج قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ  
 كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  
 أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ  
 الظَّالِمُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۹﴾

سَنَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ فرماؤ کہ تمہے یارسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم تلامیہ ونسو ہر گاہ اللہ تعالیٰ آسمانہ طرفہ کا نہ عذابا نازل کرہ نہ مگر سونیہ توہیہ بوژ تک  
 قوت، وچھنک قوت، بیہ کرہ تہمدین دلن پٹھہ مہر سیمہ سیت نہ کیہنہ تہ بیکو زانتہہ تمہ معبوداہ بیہ  
 معبود برحقس وراى توہیہ ستم قوت عطا کر تہ۔ ہر گاہ تمہ آتھہ تھہ اقرار چھو کہ کا نہ تہ بیہ نہ آسہ تم  
 قوت عطا کر تہ اہہ کیازہ چھو تھس وراى کا نہ متحق عبادت زاناں أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ  
 يَصْذِقُونَ اى پیغمبر برحق وچھو تھہ پاتھہ چھہ اس دلیلن ہنز وضاحت کران۔ تو پتہ تہ چھہ تم تم  
 دلیلن اندر غور و فکر کر نہ نشہ تھہ پھران تہ بے توجہی کران۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً  
 أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ فرماؤ کہ تمہ یارسول اللہ صلیہ ونسو تمہ اى کافر و ہر گاہ توہیہ  
 خدایہ سُنَد عذاب و لہہ ہمگہ تہ مگھہ ن پاتھہ رات کیت یاد و بلہ کیا ظالم وراى بیابہہ کا نہ تمہ عذابہ سیت  
 گانہ۔ پس کیازہ چھوہ نہ تمہ نافرمانی تہ ظلم و تعدی نشہ ہتھہ روزان وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
 وَمُنذِرِينَ بیہ چھہ اس سوزان پیغمبر کو کن گن صرف سیمہ تھہ خیطرہ کہہ تم فرماؤن با ایمان  
 فرمانبردارن خدایہ سزہ رضامندی ہنز بشارت بیہ کرن کافران تہ نافرمان پروردگار سزہ بیزاری ہند  
 ہم۔ اى خیطرہ سوزا سہ حضرات انبیاء، سیمہ خیطرہ سوزہ کہہ تم کیا ہاون لو کن تم تم معجزہ ستم بین  
 معجزن ہنز لو کہہ فرمائش کر تھہ۔ تھہ پاتھہ سوزوہ آسہ تمہ تہ یارسول اللہ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس ستمو لو کو پیغمبرن ہندہ بشارت تہ بیم کر نہ پتہ سائین آیتن پڑھ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا  
 يَفْسُقُونَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾  
 وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

کرم تھ رثہ عملہ کرہ تمہن آئند آخرتس اندر کانہ خوفانہ کانہ غماہ آسنہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بیہ سہمو لکو کو پیغمبرن ہندہ بشارت و نذارت کرنہ پتہ تہ  
 سائین آیاتن ایزاتھہ انکار کور تمہن رزہ عذاب دنیا س اندرتہ آخرتس اندرتہ۔ تہ کیا زہ تم کیا آسن  
 نافرمانی کران قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ بیہ قاعدہ تہ اصل کتھہ بیان کرنہ پتہ فرماؤ لکھ کتھہ  
 یارسول اللہ ای لو کو دعوی نبوت و رسالت کرم تھہ جھوس نہ بو تو ہیہہ دپان میہ نشہہ تہ میانس قدرتس  
 منز کیا جھہ خدایہ سندین مقدوراتن ہند خزانہ۔ سہہ ساتہ جھہ نشہہ چیزج فرمائش کریوم تمہ ساتہ کیاہ  
 نتر اوہ بوسو چیز پنہ قدر تہ تہ طاقتہ سیت وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ جھوس بویہ دنان کہہ بو کیا زانہ  
 علم غیب۔ بلکہ جھوس بو پیغمبر یوسہ پیغمبری میان دلیلو سیت ثابت جھہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ  
 نہ جھوس یو توبہہ دپان کہہ بو کیاہ جھوس ملک إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ بو جھوس نہ پیروی کران مگر  
 تھہ بیہ نشہہ بطریق وحی سوزنہ دیوان جھوس۔ تھہ پاتھہ بین پیغمبرن کن وحی سوزنہ دیوان اوس قُلْ هَلْ  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فرماؤ لکھ ای لو کو اُون تہ گاشدار چھا برابر ہیہہ تھہ جھہ مسلم کہہ تم زہ ہر گز  
 برابر جھنہ۔ کیاہ جھہ جھوہ نا پڑھان گاشدار بتھہ تھہ میانس کلامس اندر فکر کرن۔ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ  
 کونہ جھوہ کس تھہ تھہ میانس کلامس اندر فکر کران وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ  
 رَبِّهِمْ جھہ کرم وحض نیم سہہ قرآن مجیدہ سیت تمہن لوکن تم کھو ژان جھہ کہہ تم کیا بین واتوانہ پنہ نس  
 پروردگار س نشہہ کیں لھم من دُونہ و لِي وَلَا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تھہہ حاسل منز کہہ نہ آسہ

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾  
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ  
 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ  
 مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ  
 الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ  
 مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

تمن تس وراى كانه دو ستاه ته نه كانه شفاعت كره وناه تاهه تم بكن احتياط سان ته كهوژ كهوژ وَلَا تَطْرُدِ  
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ به به حض كرى كه دور پانس ربه  
 تم لو ك تم عبادت كران چهو پنه نس پرو دگار ه سنز صبح ته شام ته ته شام هانان چهه تههد رضاء اده  
 استن تم فقيرى مگر تم مه حض آسيو كه كدان پنه جلسه آندره مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
 وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ توبه پيٹھ چهه منه تههد من عملن  
 هنز جوابدهى نه چهو تمن پيٹھ منه تههنز عملن هنز جوابدهى تهه گن نظر كمر تهه نهه تم پنه جلسه آندره  
 نيهر كدو كه هر گاه تهو كوم كرو نهه تله ايو نهه شمار كرنه بے انصافى ته ظلم كره ونيو آندره وَكَذَلِكَ فَتَنَّا  
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بهه پاهه كراسه آزمائش بعضى لو كن بعضى  
 لو كو سیت (شريف سیت لو كو سیت مالدان فقيره ته مسكبو سیت) بهه مكر شريف ته مالدار دپن  
 بايمان فقيرن مند حال وچهه كيا آسه منز كره الله تعالى ان انسى پيٹھ من فضل ته مهربانى بهيچاره اع  
 آسه سانه خو ته زياده تهه سزاوار اليس الله يا اعلم بالشاكرين كياه به تهه چهه تن منه خدا چهو پنه زان  
 وول شمر كذارن ته حق شانن - وَاذْأَجَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ به به يله آسن  
 توبه ربه يون ايار رسول الله تم لو كه سمو پنه كرسامين آياتن بس آسيه نهه ديان سلام لوبن توبه بهه  
 اى بايمانو تههد ه خطره ه چهه بد بشارت كه توبه چهو سلامتى تمو ساروى آقو ته بلايو ربه تمن آفتن ته



وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ  
 رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ إِجْهَالًا ثُمَّ  
 تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ  
 نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ إِنِّي  
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا  
 أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْهُتَدِينَ ﴿٥٩﴾

بلاسن آخرتس اندر کافر تہ مشرک گرفتار سپدن کتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ پاس پیٹھ ہنزو مشر  
 جھہ منہ تھند ہروردگارن مہربانی کرن سو مہربانی گپہ کیے کہ۔ اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا اَوْ إِجْهَالًا ثُمَّ  
 تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سیم شخصن توبہ اندرہ کانہہ گناہ کور، نادانی سبب، توبہ تہ  
 کوزن تہمہ نشہ توبہ بیہ کوزن پاس اصلاح، سہولکن پٹن پان، گنہو نشہ رڈو ہتھہ عنہ وقتہ توبہ پٹھس بیہ  
 کوزن توبہ کس بیشک سو جھو تس تہ سیٹھہ مغفرت کروون سیٹھہ رحم کرہ ون وَكَذَلِكَ نَقُصُّ  
 الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ بیہ ہتھہ پاتھہ یتنس با ایمان تہ کافرن ہند حال تہ انجام واضح  
 کوریتھہ پاتھہ جھہ آس آیاتن اندر تہ کوضاحت کران۔ ہتھہ با ایمان ہنزوتھہ تہ ظاہر سپدہ کافرن  
 ہنزوتھہ تہ وارہ نئہ۔ حق تھانڈونین ہندہ خیطرہ سپدہ معاملہ سہل تہ آسان قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ  
 أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرماویہ کہ تہہ یارسول اللہ کہہ پڑ پاتھہ میہ جھو خدا بیہ سندہ طرفہ منع  
 آمنت کرنہ تمن معبودان باطلن عبادت کرنہ نشہ تمن تہہ خدائس ورا ی عبادت جھوہ کران قُلْ  
 لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْهُتَدِينَ ایتہ فرماویہ کہ توبہ بوکرہ نہ پیروی تہزن  
 خواہش ہنز ہرگز۔ ہر گاہ توبہ کرہ نعوذ باللہ تلہ جھوس نہ یوسیزہ و تہ پیٹھہ پکہ ونیو اندرہ تہ ہدایت لبہ ونیو  
 اندرہ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ پتہ فرماویہ کہ تہہ کہ میہ نشہ جھہ سہمہ دین اسلامس  
 دین حق آتس پیٹھہ کافی دلیل یوسہ میانس پروردگار سندہ طرفہ میہ نشہ واژہ۔ سو دلیل گنیہ قرآن

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾ وَعِنْدَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرُومَا

مجید نُس میوں بوڈ معجزہ چھو۔ سمہ سبت میانس پیغمبر آسئس تصدیق سپدان چھو۔ تہہ چھوہ بے وجہ تہہ اپزگنزران تہہ انکار کران۔ تہہ چھوہ نہ اتھہ صحیح دلیلہ تہہ بڈس معجزس پیٹھہ اکفاء کران۔ بلکہ چھوہ تہہ فوری عذاب نازل سپد تک درخواست کران۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میہ اتھہ تہہ میانس قدرتس منز چھوہ نہ سُو عذاب سمیک تہہ فوری مطالبہ کران چھوہ نُس تہہ جلد ژھانڈان چھوہ اِن الْحُكْمِ اِلَّا لِلّٰہِ اُمیک کُم چھوہ نہ مگر خدایہ سی اتھہ۔ تَس نِشہ بہہ کانسہ ہند کُم چلان چھوہ نہ۔ سُو کُم سپد نہ جارے۔ یُو کتھہ پاٹھہ اَنوہ پائے سُو عذاب۔ چتھہ رُودیہ بوڈ مجرہ قرآن مجید امکہ نزولک سپد کُم جاری۔ یہ چھسوہ بو توہہ پیش کران تہہ ہاوان یَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اللہ تعالیٰ چھوہ بیان کران پڑہ کتھہ بدلیل۔ سُو چھوہ سارنی ہندہ خوتہ بہتر فیصلہ کرہ ون۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وارہ وضاحت کر نہ خیطرہ فرماؤ کہ تہہ ہر گاہ میہ اتھہ تہہ میانس اختیارس منز آسہاتہ تہہ منز تہہ جلدی کران چھوہ یعنی عذاب نازل کران لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تلہ آسہاؤ حکتام توہہ تہہ میہ منز کینہہ کالک فیصلہ آمت کر نہ۔ تہہ چھوہ فقط خدایکی اتھہ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس چھوہ پورہ علم ظالمن ہند۔ سُو رِشہ تمین پنے نُس مؤس پیٹھہ پائے وَعِنْدَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ بیہ چھہ تَس نِشہ یعنی تہندس قدرتس منز غیبہ چہ کوزہ تہہ خزانہ تمام پو شیدہ چیزن ہند اَلَّذِينَ لَا يُعْلِمُونَهَا إِلَّا هُوَ تمہہ زانہ نہ کانسہ تَس وراے۔ تمہو چیز؛ وَاَنْدَرہ سمہ چیزج سمہ وقتہ ایزئسن سُو ظاہر کران چھوہ تہہ دن چھوہ سُو ظاہر کران وَعِنْدَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ تہہ چھوہ سُو زانان تہہ سوزی یہ خشکی پیٹھہ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَظْمٌ وَاحِدٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ  
 وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۵۰ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ  
 يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى  
 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۵۱ وَهُوَ الْقَاهِرُ  
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ  
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ۝۵۲ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

تدرياً و ان منز چھو وَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَظْمٌ وَاحِدٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  
 بیہ چھونہ کانہہ پنہ بر گاہ گلہ پیٹھہ وِس پیوان مگر سو چھوتہ سوروی زانان بیہ چھونہ کانہہ تہ  
 پھولاہ زمینہ چہ تاریکی منز پیوان مگر سو چھوتہ زانان۔ بیہ چھونہ کانہہ اوڈرتہ ہو کھمت چیزاہ ئس نہ  
 روشن کتابہ اندر درج کرنہ آمت چھو یعنی لوح محفوظ اس اندر، تنھہ منز چھو پر تنھہ چیزاہ ئس قیاس تان  
 پیدہ سپدہ ون چھو درج کرنہ آمت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ سُو معبود  
 بر حق گو سُو ئس تو بہ (ای انسانو) رات کی ت ندرہ اندر اکہ قسمہ ماران چھو (پیوان چھو ہتہہ مُردہ ہی  
 فرش پیٹھہ) بیہ چھو سُو زانان دوئس منز کمہ کمہ کمر ہتہہ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ رات کی ت ندرہ اندر پانچوہ  
 چھوہ سُو بیہ ہنشیار کتر تھہ تھو دھخان لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تنھہ پورہ بیہ کرنہ مقرر کرنہ آمت میعاد یعنی  
 تنہزہ زندگی ہند مدت راجکہ بیہ تہ کتر ہنہ سیت ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تُوپتہ چھو تَسُ کن تُوہ رجوع کرن  
 حقیقی مرنہ پتہ زندہ سپدت ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تُوپتہ کرنہ سو تو بہ خبر تنہہ کمہ کمہ کامہ آسُو  
 کران ئس دیوہ مزور پر تنھہ کامہ ہنزر نژہ کامہ ر ژمزور پیچھ کامہ پیچھ مزور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً سُو پروردگار چھو غالب قدرتہ سیت پنہ ئن ہندان پیٹھہ بیہ چھو سُو سوزان  
 تھندسن بدن ہندہ حفاظتہ خیطرہ ملائکن تم ژر ژان چھہ تنہزہ سارے کامہ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ  
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ تانیکہ یلہ واتان چھو تو بہ اندرہ کانہہ کس مر نک وقت۔ قبض

مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿۶۲﴾ قُلْ مَنْ  
يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظِلْمَاتِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِنَا تَعَوْنَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَكُمْ  
أَجْنَابًا مِنْ هَذَا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۳﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ  
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكُرُونَ ﴿۶۴﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى  
أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ  
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ نَظُرْ كَيْفَ نَصْرُفُ

زوج چھہ کران تس سان بدل سوزمت ملک۔ تم چھہ کئے قسمہ سانس کھمس اندر کانسہ کس کی یا زیادتی کران۔ بلکہ ہتھ پاٹھہ سے سمہ وقتہ تمن قبض رو حک کھم سپدان چھو تھہ پاٹھہ چھہ کران تھہ دوا الی اللہ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ تو پتہ بن و اتاوانہ مرنہ پتہ ساری بندہ آخر تس منز معبود بر حقس کمن۔ کس تھمہ حقیقی مالک چھو۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وارہ یوز تھمہ ساتہ آس کھم تھو ہندوی کھم، فیصلہ تھندوی فیصلہ سوی چھو یڑ جلد حساب ہیوہ و ن۔ حساب ہتھہ جزاء سے سزا دودہ و ن قُلْ فرما دیو کہ تھہ یار سؤل اللہ مَنْ يُنَجِّیکُمْ مِنْ ظِلْمَاتِ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ کس چھو کس توہمہ اے مکہ کیو لو کو تھندین سفران اندر، خشکی سے دریا و ان ہنز و تختیو سے مٹھو تھہ ہتھہ حالس منز نجات چھو دوان کہ تھہ عَوْنَهُ تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً تھہ چھوہ تس نجات مگان عاجزی سان کئے وقتہ، لو تہ لو تہ کئے وقتہ و نان چھوہ تھہ ساتہ تھہ پاٹھہ۔ لَنْ اَجْنَابًا مِنْ هَذَا لَنْ كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ای سانہ پروردگار ہر گاہ تھہ اسہ نجات دکہ سمہ سختی نیشہ و بھنئس، تھیلہ سپدواس سیٹھہ شکر گڈ ار حق شناسی پیٹھہ قایم روزہ وینو اندرہ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّیکُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكُرُونَ تھی فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ ای چھوہ توہمہ ہمیشہ نجات دوان امہ سختی نیشہ تہ۔ امہ سختی ہنز کیا تھی چھہ ساروی تختیو تھہ چھوہ سوی نجات دوان تو پتہ تہ چھوہ تھہ تس بد ستور شریک ٹھمر او ان۔ شکر کچہ کامہ کران یوسہ بدنا شکری تہ ناسپاسی گیہ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ تھہ فرما دیو کہ یار سؤل

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۱۵﴾ وَكَذَّابٌ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ  
 لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۶﴾ لِجُلِّ نَبِيًّا مُسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾  
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى  
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ  
 بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ

اللہ یہ کہہ کر سو پروردگار اٹھ پائے نجات دہن چھوڑتے پائے چھو بوڈو قدرت وول تہ کہ تہندہ کفر و  
 شریک سب سوزہ توہم پیٹھ عذاب ہر سہ طرفہ۔ یعنی آسمانہ طرفہ کنہ ہشہ یارود سیمہ سیت سیلاب  
 ایوہ۔ یا تہند یو کھور و تلہ یعنی زینحہ طرفہ، بو نیول ہیو، یا کرہ توہمہ واریاہ جھاڑ۔ تہن پانہ وان سخت  
 اختلاف آسہ، تہج نوبت وائہ جنگ و جد اکس پیٹھ۔ تو پتہ ژھناوہ توہمہ اندرہ اکس بے سزہ لڑاہ ہند  
 مزہ۔ یا کرہ سو توہمہ تہن سارنی تختین گرفتار۔ عرض نجات دین تہ تہس اٹھہ بلاہہ گرفتار کران تہ تہس اٹھہ  
 أَنْظُرْ كَيْفَ نَصْرُكَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ وچھوڑتھ پائے چھہ مختلف طریقو آس بیان کران آیات یعنی  
 توحید چہ دلیلہ تھہ تہن وارہ فخرہ ترہ ۝ وَكَذَّابٌ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۝ باوجود آن زون اپڑتہ غیر واقعی  
 توہمہ تو من یہ عذاب۔ حالانکہ یہ چھو بالکل حق تہ پوز۔ یقیناً واقع سپدہ ون۔ یہ پوز تھہ تہن تم صرف  
 یو ثوی پر ژھتھہ کہ یہ عذاب کر سپدہ واقع قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ تہہ فرما دیو کہ تھہ متعلق کہ  
 پوز چھوسنہ توہمہ عذاب واقع کر نک ذمہ دار۔ میہ کیا آسہ تہج پوز خبر یا سو کیا آسہ میانس اختیار س اندر  
 لِجُلِّ نَبِيًّا مُسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ پر تھہ خبر ہندہ واقع سپدہ خیرہ چھو اکھ وقاہ مقرر کرنہ آمت۔ تو  
 ہہ سپدہ جلدی معلوم ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۝  
 یہ یہ تہہ چھان آسہ کہ تم لو کہ یعنی دشمن تہم سائین آیات تہ احکام نکتہ چینی چھہ کران۔ تہس  
 آسہ تہہ تہن نشہ لوب روزان۔ تہن منزہ آسہ بہان یوتان تم مشغول آس سپدان تمہ وراہ یہ تہہ  
 تھہ منز ۝ وَمَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ہر گاہ تہہ وقتہ شیطان آسہ

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۱﴾ وَذَرِ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ  
 ذَكَّرِيَهُ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدِيلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ

توہمیر یہ ممانعت مشروان، مجہ آسب مشرانس منز بغلطی تہنزہ مجلسہ اندر بہان۔ پس مہ بہو (یلہ توہمیر  
 تہیس پیوان آسہ یہ ممانعت۔ ظالم قومس سیت تہنزہ مجلسہ اندر بلکہ آسب نوواثر تہیس پیوہ ونوی تمہ  
 مجلسہ منزہ نیران وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سم لو کہ  
 ممنوعات شرعیونہ پتھہ روزن۔ تمئن منز تہنہن مجلس اندر بلا ضرورت شمولیت کرن تہ پائے او  
 تمئن مجلس منز احکام اسلامن پیٹھہ طعن و تشنیع کرنہ آسہ یوان۔ تمئن پیٹھہ چھو نہ طعنہ دوہ ونین ہندہ  
 سزاء اندرہ کانہ چیزاہ۔ ہر گاہ نہ سخت ضرورتہ مو کہ تمئن مکنہ وقتہ تہنزن مجلس اندر گزہن پیوان آسہ۔  
 مگر تمئن پزہ توت گزہتھہ تمئن وعظ و نصیحت کرن دیوہ تم تہ طعنہ زنی نیشہ پتھہ روزن وَذَرِ الَّذِينَ  
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بلکہ تراوی کہ تم لو کہ تہ سم پنہ نس دینس (تہتھ مان  
 تہ تسلیم کرن تمئن پیٹھہ فرض اوس یعنی دین اسلامس) ٹھٹھہ تہ تمسنخر چھہ کران۔ تمئن چھو ڈھو کہ  
 ڈیمت دنیاچہ زندگانی۔ تم چھہ دنیا کس کھینس چینس اندر مسنت، آخرت چھٹھہ نہ یادے وَذَكَّرِيَهُ  
 أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ترك تعلقات کتر تھہ تہ کتر و تمئن لو کن وعظ و نصیحت مجہ امہ قرآن مجیدہ  
 سیت یتھنہ تھس عذائس گرفتار گزہتھہ کانہ شخصاہ پنہ نیوہد اعمالیہ سیت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ  
 وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ كُلُّ عَدِيلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا سمہ عذابہ نیشہ مو کتھہ خیطرہ آسہ نس شخصس عذائس  
 وراي کانہ مددگارتہ کانہ شفاعت کرہ و ناہ۔ نہ مو کتھہ سؤتمہ عذابہ نیشہ تیوت مال دت نئس دنیا س  
 برابر آسہ۔ سؤی سوزوی مال تہ سؤدیہ توتہ ایس نہ سؤمال ہرگز قبول کرنہ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا

الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

بِمَا كَسَبُوا چنانچہ ہم دنیس ٹھٹھے سے تمسخرہ کرہ ون آئی گرفتار کرنے پنے نین بد اعمالین ہمدہ سببہ۔ نصیحت نہ مانعکے وجہ۔ لَمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيْمٍ وَعَذَابٌ لِّیْمًا كَانُوا يَكْفُرُونَ تہندی چیدہ خبطرہ آسہ آخرتس اندر پہنچ کر یکہ دودہ ون زبر۔ تمہ علاوہ بیہ کڈر عذاب کیا زہ تم آس گھر کران۔ سمیک آکھ شاخ سے آکھ لندڑ توین احکام اسلام اوس۔ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا فرمایا کھ نبہہ یارسول اللہ ساری مسمائن ہمدہ طرفہ کیاہ آس کر وہ عبادت معبود برحقس وراى تمن باطل معبودن ہمز ہم نہ آسہ کانہہ فاندہ ہیکن واتاوت۔ عبادت کمر تھ سے نہ کانہہ ضرراہ ہیکن واتاوتھ عبادت نہ کمر تھ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ بیہ چھا تہنز خواہش آس کیاہ پھیر و پوت کرس کن اسلام تراوتھ خدایہ سدہ آسہ ہدایت کر نہ پتہ سے و تھ ہاونہ پتہ آتھ دین حقس کن۔ کالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا تھہ صورتس اندر بہ سان مثال کس شخصہ سبز ہش کس بریم بریم چاکیو و تھ راؤراؤمثر آسہ کنہ جنگلس منز سے سو آسہ سپد مت حیران آتھ و تھ آسین نہ یوان کنہ کن۔ لَّهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا کس آس کنہ دوست سے ہم ناداد آسہ کس دوان کہ ڈولہ آسہ کن و تھ پتھ یبار مگر سو آسہ حیرانی سببہ تھند آلوے یوزان۔ نہ آسہ سبزہ و تہ پیٹھ یوان۔ کیاہ تہنز خواہش چھا آس سے گردھو تھقی بن۔ تہ بہ نہ ہرگز قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ فرمایا کھ تہہ بہ راہ۔ راست گئیہ سوی و تھ یاسہ اللہ تعالیٰ ان پانہ ہامثر سے باومثر چھہ سو و تھ گئیہ دین اسلام۔ ہم یہ تراؤسو ڈول سبزہ و تہ نشہ۔ آس ہیگنہ کنہ صورتس اندر تمہ نشہ پھیر تھ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آس

وَاتَّقُوا ۖ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ه  
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ  
الشَّهَادَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۸﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِ

تھ پاٹھ اٹوٹرک بخدا۔ اے حکم کرنے آؤ فرما بردار روزن عالمین ہندس پروردگار س وان اقیسوا  
الصلوة و اتقوا بیہ آؤ حکم کرنے آسہ کہ نماز تھاوو برپا بندی سان۔ بیہ آؤ حکم کر نہ کہ کھوڑو  
خدا ائس۔ تس شریک تھاونہ تہ تسزنا فرمانی کرنے نشہ روز و ہتھ و ہوا الذی الیہ تحشرون سو گو سوی  
پروردگار ائس بردھتھتھ توبہ سارنی حساب و نہ خیطرہ جمع پیو کرنے، مشرک و تھن پائے تمہہ دہنہ  
شرک مزہ و ہوا الذی خلق السموات و الارض بالحق بیہ گو سو پروردگار سوی نیم آسان تہ  
زمین پیدہ سکر پزپاٹ مخلوقن ہندہ فائدہ خیطرہ، بوڈ فائدہ چھو یوے کہ تم دوشوے چھہ تمندی  
مخلوق، دوشوے چھہ دلالت کران تمندی وحدانتیس بیٹھ و یومر یقول کن فیکون بیہ ہمہ دہنہ  
دپہ سو خالق کل حکم کرہ قیاس سپد برپا۔ اتی سپدہ قیامت برپا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
فِي الصُّورِ تمندی و ن چھو باثر۔ تو ہندی چھو ملک۔ تہزی چھہ پادشاہت۔ ہمہ دہنہ پو غس منز  
دو تم چھو کہ پیہ و نہ تمی دہنہ نہ حکومت اللہ تعالیٰ سنز۔ یلہ سو فیصلہ کرہ موحدن تہ مشرکن منز۔  
عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ سوی چھو زانہ و ن تہ سو سوی یہ کھتھتھ چھو مخلوقن نشہ بیہ تہ سو سوی یہ نون  
چھو مخلوقن نشہ۔ تس نشہ چھو نہ کھتھتھ کا نہ چیز۔ و ہوا الحکیم الخبیر سوی چھو سیٹھا حکمتہ و ول  
تہ سیٹھا زان و ول۔ تس چھہ سارچی پورہ خیر۔ مضمون آیات قرآنیہ سیت چھو معلوم سپدان کہہ  
حضرت ابراہیمہ سُد قوم اوس بت پرستی تہ کران۔ بیہ اوس ستارن آفتابس تہ زونہ تہزی پرستش  
کران۔ تھن دوشون خیالن ہند زد کوہ حضرت ابراہیمن۔ تمہہ چہ چھو اللہ تعالیٰ یمن آیات کر تھن اندر  
ذکر فرماوان وَاذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِ بیہ چھو سو وقت تہ تئیس پانس قابل یلہ حضرت ابراہیمن



اتَّخِذُوا صِنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَخَذْتُ آلِهَتِي مِن قَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۲﴾  
 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ  
 مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۴۳﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا  
 رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۴۴﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا  
 قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ  
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۴۵﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي

دو پ ملس پنہ نس، آذر نئس ناو اوس اتَّخِذُوا صِنَامًا آلِهَةً ای آذر کیا ہر وہ جھوٹے پوتل زانان معبود  
 پنہ نس مہ پائے گران جھوٹے کچھہ اِنِّي أَخَذْتُ آلِهَتِي مِن قَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بوجھو سٹھ و چھان ژہ تہ بہہ چون قوم،  
 سم ژہ آٹھ اعتقادس اندر موافق چھی نہ گرا ہی اندر۔ شو بیا انسان اشرف المخلوقات آٹھ بے جان  
 چیز پنہ معبود زان۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ آٹھ  
 پاٹھ حضرت ابراہیمس ہاواسہ بت پرستی ہنز خرابی تہ بطلان۔ تھہ پاٹھ ہاواسہ تس آسمان وزینچ پادشہمت  
 تھہ سوسپدہ کامل یقینہ والیواند ژہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي چنانچہ یلہ رات  
 تمن پیٹھ تاریک سپز۔ وچھہ تمو تارکاہ اکھ۔ پنہ نس قومس لگ ومنہ یوہے چھامیون تہ ٹھند ژب ٹھندہ  
 خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْإِفْلِينَ دوہن بوجھو سٹھ نہ پئند کران لوسون چیز۔ سم میگن نہ کانہہ  
 ہند ژب آٹھہ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا حمہ پتہ یلہ تم وچھہ زون زوتان تہ بہہ نہ کران قَالَ هَذَا رَبِّي  
 تمو پڑ ٹھہ قومس یوہے چھامیون ژب ٹھند خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ  
 الْقَوْمِ الضَّالِّينَ نس یلہ سوتہ لوس دوچھہ ہر گاہ تے میہ پروردگار و تھ ہاوہ ہے تلہ نہ ہا بو تہ ٹھند پاٹھ  
 گمراہ لو کو اندرہ۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً نس یلہ رات گوٹھہ دوہ آو تہ آفتاب وچھہ تمو شولہ ماران  
 کھسان قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ دوکچھہ یوہے آسہ میون ژب ٹھندہ خیالہ کیا زہ یہ جھو بوڈوی مہن  
 بین ستارن ہندہ خوتہ۔ فَلَمَّا أَفَلَ نس یلہ سوتہ لوس قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ دوکچھہ

هَذَا الْكِبْرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۸۰﴾  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا  
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۱﴾ وَحَاجِبَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ  
 وَقَدْ هَدَانِ ۗ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ  
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۲﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا  
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

اے قوم بے شک بوجھوس بیزار تمہو ساروی چیز ونشہ تم نہہ معبود برحقس شریک چھو کہ ٹھہراوان  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہر پاٹ بو پھورس تس  
 معبود برحقس کن تم آسمان تہ زمین گوڈنی پیدہ کور۔ ساروی اپز بو دینو نشہ الگ سپد تھہ بیہ چھوس نہ  
 بو ہر گرو تھہد پاٹھہ خدائس شریک اندہ ونیواندرہ وَحَاجِبَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ تو  
 پتہ آوتھن نشہ بحث کرنہ قوم تھہد۔ تمودو پھہ ای قوم کیاہ تھہ چھوہ بہان بحث لکنہ میہ سیت خدایہ  
 سدس توحیدس اندر۔ حالیکہ تم کور میہ ہدایت تہ تھہ ہونم توہہ بروٹھکنہ صحیح دلیل پیش کرنس کن  
 یوسہ میہ پیش کمر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میہ مہ بہو کھوژنانونہ۔ میہ چھونہ کانہہ پروا تھہدین  
 معبودان باطلن ہند۔ تم نہہ لاشریکس شریک چھو کہ ٹھہراوان۔ تم ییکن نہ میہ کینہ کمر تھہ میہ بہکنہ  
 کانہہ تکلیف واتھہ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگرے کمنہ یژھ میون پروردگار وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ  
 عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ واتھہ چھو میانس پروردگارہ سند علم پریتھہ چیزس۔ تس چھہ قدرت کاملہ تہ  
 علم کامل تھہدین معبودان باطلن نہ قدرت تہ نہ علم۔ میہ تھہ چھوہ کھوژہ ناوان۔ مگر انفسوس لیہ وضاحتہ  
 پتہ تہ چھوہ ناٹھہ نصیحت رنان وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بُوٹھہ پاٹھہ کھوژہ تھہدین معبودان باطلن۔  
 تھن اتھہ چھونہ کنس۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا حالیکہ کھوژن  
 ہرہ ہاتوہہ مگر تھہ چھوہ نہ کھوژان پنہ نس بڈس جہرس۔ کیا زوہہ ٹھہرودہ کنس خدائس شریک نیس

سُلْطَانًا قَائِمًا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ  
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۗ  
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ وَوَهَبْنَا  
 لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

شریک آسنہ نش چھو منزہہ تہ پاک تحے شریک سنبھدس شریک آسئس پیٹھنہ نہ خدائمن کا نہہ دلیلاہ نازل کر مشجھ۔ یہ دلیل بوز تھ و نتو وارہ تامل کتر تھ قَائِمًا الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سمودو یو جماعتو آندرہ یعنی مشرکو تہ مؤتحدو آندرہ کوسہ جماعت چھہ امنس تہ بے خوفی زیادہ مستحق و نتو ہر گاہ توہہ کینہ خیر چھہ یا کینہ زانان چھوہ تہہ کیاہ ہیکو و نتھ۔ اس ونوہہ بوزے وارہ بوزو۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم لو کہ سمو ایمان اون معبود برحقس تو پتہ ملہ نوونہ تمو ایمان پئن شرکس سیت تحے گئے تم یہہدہ خیطرہ چھو قیامت دوہ امن تہ دک قرار۔ یہہ چھہ تحے ذنیاءس اندر سیرہ و تہ پیٹھ۔ صرف مؤتحد، ہتھہ رود مشرک تہہدہ خیطرہ کئہ قسمہ امن و امان چھونہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ تہ گتہ سائہ تہہہ دلیلہ سمہ اسمہ عطا کرہ حضرت ابراہیمس پتہ کس قومس سیت بحث کرنہ خیطرہ۔ چوچھہ سمہہ دلیلہ کرہ اسمہ عطا حضرت ابراہیمس تحی موکھ چھہ سمہہ رتھہ دلیلہ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حضرت ابراہیمہ ستر چھہہ کا نہہ خصوصیت بلکہ چھہ اس بلند کران علی و عملی درجہ، مرتبہ تہوند، پسند اس پرشہان چھہ۔ پز پٹھہ چون پروردگار چھو سیٹھاہ حکمت و ول، سیٹھاہ زائن و ول۔ پریتھہ الحسنہ حال تہ استعداد چھو سو پورہ زانان تحی موجب چھو پریتھہ اکس سو کمال عطا کران کس کس مناسب اسمہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بیہ کور عطا سمہہ حضرت ابراہیمس اکھ فرزندہا، حضرت الخن، بیہ امنس فرزندہ سُنَد فرزند حضرت یعقوب علیہم السلام کُلاہدینَا امن سارنی کور اسمہ ہدایت۔ ہزس گن ہاواسہ و تھہ تمن وَنُوحًا هَدَيْنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٣﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٥﴾ وَمِنُ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٦﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ

مِنْ قَبْلُ بِيه كوراسہ ہدایت نوحس یمن بروئٹھ وِمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ حضرت ابراہیمہ سُندوی اولادو منزہ کزاسہ ہدایت، داؤدس بیہ حضرت سلیمانس بیہ حضرت ایوبس، بیہ حضرت یوسف، بیہ حضرت موسیٰ آس بیہ حضرت ہارونس علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تھے پاتھہ چھی اس مناسب بدلہ تہ جزاء دوان نیکوکار بندن وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ بیہ کور ہدایت اسہ حضرت زکریا آس بیہ حضرت عیسیٰ آس بیہ حضرت الیاس سیم ساری آس رتوبندواندرہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ کوراسہ ہدایت حضرت اسماعیلس۔ بیہ حضرت یوسف بیہ حضرت یونس، بیہ حضرت لوطس۔ یمن سارنی دیت اسہ فضیلت نبوتہ سیت تمہ وقتہ کین عالمکین لوکن پوٹھہ وَمِنُ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ بیہ بہند یومالیو، بُدبُو آندرہ بیہ اولادو آندرہ بیہ بانیو آندرہ تہ کوراسہ وارینکن ہدایت دین حقس گن۔ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ کوراسہ سیم ساری بر گزیدہ تہ مقبول۔ بیہ کوراسہ تمہ ہدایت سیزہ وتہ گن یعنی دین حقس گن ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ یوہے دین تھہ گن تمہ ہدایت کرنہ آو۔ یوہے گوخدا یہ سُند ہدایت۔ اتھہ گن چھو اللہ تعالیٰ وتھہ ہاوان تمہن یرشکان چھوپنہ نیو بندواندرہ اتھہ گن ہاوعے بیہ وتھہ اللہ تعالیٰ ان سارنی لوکن مگر بعضیو کمر نہ بیہ وتھہ اختیار۔ تمہو ٹھہر او خدا ایس شریک۔ شرک چھو اللہ تعالیٰ آس تھہ

أَشْرَكُوا الْحَيْطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ  
 اتَّيَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ  
 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكْفَارِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ  
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدَاهُ قَدْ لَّا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

تاہند۔ عام لوکن ہنز کیاہ جھہ تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَيْطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر گاہ بفرضِ محال  
 تم حضرات انبیاء تہ نعوذ باللہ شرک نہ ہن خدا جس ضرور سپدہ ہن ضالچ تمہ سارے رتہہ کاملہ تمہ تمہ  
 کران آس امہ شریکہ وجہہ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيَّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ تم حضرات انبیاء  
 یمن ہنز ذکر نہ آیہ تی گئے تم تمہن امہ مجموعی طریقہ کتاب شریعت تہ نبوت عطا کر فَاِنْ يَكْفُرْ  
 بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكْفَارِينَ جس اگر نظیر موجود آیتہ تم مکمل لو کہ اتھ  
 تہندس نبوتس انکار کران، کرتن، تمیک مہ بڑ و تہہ کانہہ نم توبہ چھو نہ تہ کی نہہ۔ کیا زہ پڑپاٹ امہ چھو  
 امہ خیطرہ مقرر کر مڑا کہ جماعتھاہہ تم نہ ہرگز اتھہ نبوتس تہندس انکار کران۔ بلکہ زانن امہ تہ پور  
 قدر۔ تم گے مہاجر تہ انصار۔ یہ تمہ ہند پیر و قیامت تام أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ  
 اِقْتَدَاهُ تم حضرات انبیاء گے تم ہندگان خاص تمہن اللہ تعالیٰ اَنْ دُشْمَنِ هَنْزِنِ تھن پیٹھہ صبر  
 کرئس گن ہدایت کور۔ جس تہنزی و تہ پچو تہہ تہ صبر کرئس اندر قَدْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا یہ تہ  
 فرما دیو کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھوس نہ مڑگان توبہ امہ تہلیفہ تہ ہنمائی خیطرہ کانہہ مزوریہ۔ بلکہ  
 چھسوہ بوبے غرض نصیحت کران اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھو نہ مگر عالمین  
 ہندہ خیطرہ بوڈ و عظ تہ نصیحت، سمجھ مانہہ سیت تو ہی بوڈ فائیدہ تہ نفع چھوہ۔ نہ مانہہ سیت تو ہی سخت  
 نقصان چھوہ۔ اکھ یہودیہ اکھ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدقس اندر۔ تمی ہیوت تمہ  
 سیت نہ ہی گفتگو کران تھہ اندر اوس سو تھہ تھہ کران جوش اندر لوگ دینہ اللہ تعالیٰ اَنْ چھو نہ از

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا  
 مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَ  
 هُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَأِطِينَ تُبَدُّونَهَا وَمَنْحُونَهَا كَثِيرًا  
 وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

تمام کا نہ کتابے نازل کر مژ۔ اسی سپریم آیات کریمہ نازل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا  
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ بیہ کرنے سمجھو مکہ و خدایہ سز کا نہ قدر۔ اترہ قدر کرن شو بہ با۔  
 کیا زہ تمہو وون اللہ تعالیٰ ان چھتہ نازلے کمر مژ کا نہ بشرس پیٹھہ ہن کا نہ کتاباہ۔ یہ وُن گو خدایس  
 نسبت بے قدری کرن۔ کیا زہ امہ سیت چھو لازم یوان نبوتس انکار کرن اُس نبوتس انکار کرہ تم زون  
 اللہ تعالیٰ سُنہ فرمان اپر نعوذ باللہ۔ پرس تصدیق تہ تسلیم کرن چھو واجب تھی سیت چھہ یوان خدایہ  
 سز قدر کرن۔ لہذا سمجھو تصدیق و تسلیمہ بدل تکذیب و انکار کور۔ تمہو کر بے قدری یہ گو امیک تھیتی  
 جواب۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماد ان امیک الزامی جواب قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى  
 تہہ پر تھو کہ اسی بہو دو حضرت موسیٰ یوسہ کتاب پتھہ آو یعنی تورات سو کم کمر نازل نُورًا وَ هُدًى  
 لِلنَّاسِ تیج کیفیت یہ چھہ کہ سو بذات خود تُو ر ک پاٹھہ واضح تہ روشن تمن لوگن ہندہ ہدایتہ خیطرہ  
 سو سوزنہ آہہ تمن لوگن ہندہ خیطرہ چھو سو بوڈ ہدایت جَعْلُونَهُ قَرَأِطِينَ یوسہ کتاب تہہ پنہ  
 نیونفسانی اغراضو موکھہ ورقہ ورقہ کرو ان تُبَدُّونَهَا وَمَنْحُونَهَا كَثِيرًا اُس وراقہ پنہ مطلب براری  
 خیطرہ چھوہ خوش کر ان۔ سو چھوہ ہاوان تہ ظاہر کر ان۔ کھٹھہ تہ پوشیدہ چھوہ تھاوان تمہ منزہ واریاہ  
 حصہ۔ تھہ منز تہہدس مطلبس خلاف چھو کینہہ آسان مثل نعت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم  
 وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ بیہ اووہ تہہ کچھ ناونہ تمہ تورا حکمہ ذریعہ سو علم اُس۔ نہ زانہو تہہ  
 نہ تہہد مال تہ بدبب سو تورات نازل سپدنہ برو تھہ قُلِ اللَّهُ یورے فرماو کہ تہہ کہ اللہ تعالیٰ نے  
 کمر سو کتاب نازل لہذا تمہ چھوہ توہہ یہ وان کہ اللہ تعالیٰ ان چھتہ کا نہ کتابے نازل کمر مژ تھہ  
 ذَرْهُمْ فِي حَوْصِهِمْ يَلْعَبُونَ یہ جواب یوز ناونہ پتہ ترا یو کہ تم پنہ نین شعلن منز۔ اپرن تھن تہ

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۱﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۲﴾ وَمَنْ  
أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم يؤمر

بیسوہ کا میں سیت روزن تم مشغول۔ توہہ پیٹھہ یہ فرض اوس تہ اُوہ توہہ بجاون مہ بر و تہہ کا نہہ فہر  
بو بوزہ پائے تہن سیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ تہہ پائہ تورات اسی  
نازل کورمت اوس۔ تہہ پائہ چھویہ قرآن مجید تہہ کتاباہ یوسہ اسی نازل کتر توہہ پیٹھہ یارسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم۔ یوسہ خیر و برک کتاب چھہ۔ کس اکھاہ تہہ پڑہ کرہ۔ تہہ موجب عمل کرہ کسندہ خیطرہ  
چھو فلاح دارین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھو تصدیق کرہ ون تہن کتابان تہہ امہ برو تہہ چھہ نازل  
کرنہ آثرہ۔ لہذا چھویہ قرآن مجید دیو کھو خیطرہ نازل کورمت۔ اکھ مخلوقن ہندہ نفعہ خیطرہ یہ تہن  
کتابان ہندہ تصدیق کرنہ خیطرہ کہ تہہ کتاباہ چھہ بے شک خدایہ سندی طرفہ نازل کرنہ آثرہ  
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا یہ تہہ تہہ خصوصیتہ سان کھوڑہ نا دیو کہ مکہ شریفک لو کہ۔ یہ تہم  
اتھ اندلہ چھو تمام عالمک لو کہ کیا زہ بیس جایہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لِيُنذِرَ لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تہہ  
سوعالمہ کین لو کن کھوڑہ ناوہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ساری لو کہ اگر چہ تہہ ہندہ  
انذارہ تہہ بیم کرنہ سیت ایمان آنن نہ لیکن تہن لو کن آخترق پور پڑہ چھہ تم چھہ اتھ قرآن مجیدس پڑہ  
کران وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ چھہ تم ایمان اتھہ پنہ نین نمازن پیٹھہ ڈاؤ کران۔ پابندی  
سان پانژوے وقت پورہ ادا کران۔ کیا زہ ایمان واعتقادس سیت یلہ عمل تہ مکمل آسہ تلہ چھہ عذابہ  
نہہ نجات لہہ امید وَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذباً یا یہ کس اکھاہ چھو یژ عالم تس شخصہ سندہ  
خوتہ تم اپن نوژو رو معبود بر تھس پیٹھہ نبوتس انکار کرنہ سیت تہہ پائہ تہہ سمویہو دو کور تہو دوپ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَىٰ ان کورنہ کانسہ بشرس پیٹھہ کہنی نازل اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيْ وَلَمْ

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ  
 الظُّلُمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا  
 أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا  
 فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
 وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ

يَوْمَ لِلَّهِ شَيْءٌ نته کوزن پنه حقه دعوی نبوت۔ و ن من مکن جھو و حیوان نازل کرنہ حالانکہ تس  
 کن اوس نہ کانہ و حیاہ نازل سپدان مثل میلسمہ کذاب وغیرہ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تھے  
 پاٹھ کہہ جھو بیو ظالم تس شخصہ سبہ خودہ سم دوپ بوتہ بیسہ نازل کمر تھ تہ لوکن نشہ پیش کمر تھ تھہ  
 پاٹھہ تھہ پاٹ خدا جھو نازل کران۔ کانہ اکھاہ جھو نہ تھن لوکن ہندہ خودہ بیو ظالم وَلَوْ تَرَى إِذِ  
 الظُّلُمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ تھن ظالم ہند حال جھو یہ کہ اگر و تھہ کہہ تہ سو  
 وقت سمہ ساتہ سم ظالم آسن موتہ چہ تختی اندر مبتلا، رُوح کذہ و ن ملا یک آسن پنن اتھ مژہ راوت تھن  
 ظالم کن و تان۔ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ای ظالمو جلد پھن کڈیو کہ پنن زوپنہ نیو پائو اندرہ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ  
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اَزْكَی دُوبہہ کیالیہ توبہہ  
 مرنس سیتی سزا دہنہ۔ خواری ہندہ عذابہ سیت۔ کیا زہ تھہ آسہ ناخدا جس نسبت تھے تھہ لاگان سمہ  
 بالکل آیزہ آسہ آسان۔ بیہ آسہ تھہ تھند آیات مانہ نشہ تہ تسلیم کرنہ نشہ تھہ کران  
 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سمہ دُوبہہ قیامت سپدہ تھہ دُوبہہ فرماو کیہ اللہ تعالیٰ  
 آوہ تھہ آسہ نشہ پتولا کہ۔ لہ لہ تن تھما۔ یارن تہ مدد دگارن ورا ی۔ تھہ پاٹھہ آسہ تھہ گوڈ چہ لہ تھما  
 دُنیا س اندر سپدہ کرمت آسہہ تھی تہ تھنی۔ نیتھہ نی تہ نند واری وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
 بیہ تروہہ تہ سوزوی یہ آسہ توبہہ دیتھت اوس پائس تھہ گن۔ وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ



لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٦﴾  
 إِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبِيبَ وَالتَّوْبَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ  
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَوَجَعَلَ  
 اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي  
 ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾

دَعَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِيهِمْ لَمُتُوا بِهٖ جَهَنَّمَ أَسْ وَجِهَانِ تَوْبَهُ سَيْتِ تَم لُوكِ تَم تَم تَوْبَهُ پَنَدِ گَمَانِ زَانَانِ آسُو كِه پَنَدِ  
 نَمِنِ كَامِنِ اَنَدِرِ خَدَايَهٗ سَنَدِ شَرِيكَ كُنِيَهٗ جَهْوَهٗ تَم - لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ پَرِيَاثِ جَهْلَهٗ كُنِيَهٗ تَمِنِ سَارِنِي تَعْلَقَاتِنِ  
 يَمِ تَوَهٗ پَانَدِ وَاِنِ اَسْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ضَايَعِ سُدِّ تَوْبَهُ نَشَهٗ تَهٗ سُوْرُوِي يَهٗ تَوْبَهُ گَمَانَهٗ  
 اَوْسِ كِه مَعْبُودَانِ بَاطِلِ كَرْنِ اَسَهٗ شَفَاعَتِ اِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبِيبَ وَالتَّوْبَىٰ پَرِيَاثِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ جَهْوَهٗ پَهَاشَهٗ  
 وَاِنِ پَرِيَهْتَهٗ مَحْلُسِ تَهٗ اَنچَهٗ يُوَسَّهٗ زَمِيْنَسِ مَنَزُوْنَهٗ يُوَانِ جَهٗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  
 سُوِي جَهْوَهٗ كُذَّانِ زَنْدَسِ مُرْدَسِ نَشَهٗ مُرْدَسِ زَنْدَسِ نَشَهٗ ذَلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ يُوَسَّهٗ كِيَاَهٗ گُو مَعْبُودِ  
 بَرِحِقِ نَسِ نَهْتَهٗ پَاهَهٗ جَهْوَهٗ نَهْتَهٗ نَسِ پَرَهٗ كَرْنَهٗ نَشَهٗ گَرِيْزِ كَرَانِ تَهٗ زَلَّانِ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ سُوِي جَهْوَهٗ صُحِّ پَهْوَلَهٗ  
 رَاوَهٗ وَاِنِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا بِهٖ كِرَرَاتِ تَمِي اَرَامُكِ وَتَمِ كِه سَارِي جَهٗ  
 تَهْتَحْتِ تَهٗ هَيْتَهٗ شَوْجَهٗ سَيْتِ اَرَامَاهِ حَاصِلِ كَرَانِ - بِهٖ كُوْرُنِ اَفْآبِ تَهٗ زُوْنَهٗ هُنَدِرِ فَنَارِ حَسَابَهٗ مَوْجُبِ  
 سَمِهٖ سَيْتِ وَتَمِنِ هُنَدِسِ ضَبُوْرِ بَطْسِ اَنَدِرِ اَسَانِي جَهٗ سَدَانِ ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ يَهٗ جَهْوَهٗ اَنَدَازَهٗ  
 تَهٗ كَارِ يَغْرِي، نَسِ خَدَايَهٗ سَنَزْنَسِ غَالِبِ تَهٗ سُوْرُوِي زَانِ وَوْلِ جَهْوَهٗ - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ  
 لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ بِهٖ جَهْوَهٗ سُوْرُوِي دُكَاْرِ سُوِي تَم سَتَارَهٗ كَرِ پِيْدَهٗ يَهْتَهٗ نَهْتَهٗ تَهٗ لَبُوْكَهٗ كُنْ  
 اَنَدِرِ خَشِكِي هَنْزَنْ وَتَمِنِ تَهٗ سَمَنْدَرِنِ اَنَدِرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تَهْتَمِيْنِ اَسَهٗ كَرَهٗ پَنَدِ تَوْحِيْدَهٗ  
 چِه - دَلِيْلَهٗ بَيَانِ وِيْشَهٗ نَاوَهْتَهٗ تَمِنِ لُوكِنِ هِنَدِهٗ خِيْطَرَهٗ تَمِ زَانَانِ جَهٗ رُتِ كِيَاَهٗ جَهْوَهٗ تَهٗ پَهْتَهٗ كِيَاَهٗ جَهْوَهٗ وَهُوَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ  
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ  
 وَجَبْطٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِيه گو سو پروردگار سومی سیم تبه ساری پیدا کرد و کسی شخص نسه  
 سو گو حضرت آدم فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ نَس کرن نهنده خيبره کهه قرار بچ جایه۔ سو گو ماجه  
 هند رجم۔ بچه دان۔ تنهه منز بنهه کاله روزت چھو انسان دنياء ک اثر قبول کران بيه کران امانت تھو بچ  
 که جایه سو گنیه قبر تنهه منز کينه کاله روزت چھو آخر تک اثر قبول کران قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
 يَفْقَهُونَ بز پات اسه کتر آیات پن بیان موز او تھه تمن لوکن هنده خيبره سیم سمجھدار چھه۔ وَهُوَ  
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ بيه گو سو پروردگار سومی سیم زود ترود آسمانه  
 طرفه نَس کهار اسه تمه زوده سیت زمينه منزه پر تنهه قسمک کل فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَس کو ذاسه تمه  
 زمينه منزه سبز سبز شاخ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا تمه منزه چھو اَس کڈان لوکت لوکت دانه سیم کهه اَس  
 پٹھه آسان چھه وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ بيه کڈ اسه خضره کلوه اندره تمن هند يو پوشه  
 ثور يو اندره خضرن هند گرن سیم یون گن نمے مت آسان چھه وَجَبْطٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بيه کهار اسه تمی زوده سیت دچھه باغ۔ بيه زيتون باغ۔ بيه دین باغ سیم  
 کهه اَس بی چھه کهه اعتباره کهه اَس بدل چھه بيه اعتباره انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ وارہ وچھو  
 پر تنهه کله کس میوس گن۔ بيله تنهه میوه لگان چھو تمه ساه چھو آسان بدزه تنهه ناقابل استعمال تمه پسته  
 بيله سو میوه پپان چھو تمه ساه چھو آسان مزه دار سیٹھاهه فاسيده مند۔ امه منزه تنهه چھه ننان خدلیه سبز

لَا يَتْلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ<sup>(۹۹)</sup> وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ  
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ<sup>(۱۰۰)</sup>  
 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ  
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>(۱۰۱)</sup>  
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ

کمال قدرت اِنْفِ ذَالِكُمْ لَا يَتْلِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وچھو پڑ پاتھہ سمن چیزن اندر چھہ توحید چہ خبر چھہ  
 ذلیلہ بالیمان ہندہ خیطرہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 ٹھہراوہ لو کو شیطان خدایہ سند شریک حال چھہ تم تہ چھہ کرم ت اللہ تعالیٰ نئی پیدہ۔ یلہ نہ پیدہ کرہ ون  
 تہس وراى کانہہ چھو۔ معبود تھہ پاتھہ ہیچہ تہس وراى کانہہ آتھہ۔ ہیچہ ٹھہراوہ لو کو خدا تہس پتھو تہ کورہ زانہ  
 تہ پچھانہ وراى از ائس جمل و نادانى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ منزہ تہ پاک وچھو سو پروردگار تہس سار  
 وى تھو نچہ۔ نہ چھو س شریک کانہہ نہ چھس پتھو تہ نہ چھس کورہ۔ ہیچہ چھو سیٹھاہ بلند تہ بالاتمہ تھو نچہ  
 سہ تہس گن لوکھ لاگان چھہ بے دلیل بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو موجود تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون  
 آسمان تہ زمین ہند تہس وراى چھونہ آسمان وزینگ موجود کئی۔ لہذا شو بہ سوى معبود برحق اَنَّى يَكُونُ  
 لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ تہس تھہ پاتھہ آسن اولاد۔ حال چھہ تہس چھنہ آسنہ آسنی زانہہ وَخَلَقَ كُلَّ  
 شَيْءٍ تہی کور سو زوی پیدہ۔ تھہ پاتھہ آسمان وزین پیدہ کرن تھہ پاتھہ کرن تم تہ پیدہ تہم تہہ تہہ تہہ  
 اولاد یا شریک چھو کھ ٹھہراوان۔ بنیا کہ خالق آسن مخلوق شریک۔ تھہ کیاہ فرق روزہ خالق تہ  
 مخلوقس منز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہیچہ چھو سوى پر تھہ چیزاہ پورہ پورہ زانہ ون ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یہے معبود برحق کیا چھو تھہ پروردگار۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تہس وراى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
 فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سارہ کوی پیدہ کرہ ون چھو سوى تہس کور و تہزی یا تہ عبادت تہ بندگی۔  
 سوى چھو پر تھہ چیزک کار ساز۔ تہس وراى چھونہ کانہہ تہ کار ساز حقیقی۔ لہذا اگر تسزى یا تہ عبادت کرو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۶﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ  
 الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۷﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
 بِحَفِيفٍ ﴿۱۰۸﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ

سُو و اتا ووه سبښاه نفع ته فائده۔ بين هنر عبادت کر تھه کياہ فاندہ نيو۔ تم کياہ دنوہ۔ تمن ا تھہ کياہ  
 چھو۔ خالق ته چھو سوي۔ عليم ته چھو سوي۔ وکیل ته چھو سوي۔ تم ساری چیز چھہ منگان کہ معبود ته  
 گرهہ سوي آسن۔ تہم دی شان چھو کہہ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ  
 الْخَبِيرُ تس بيکن نہ وچھت۔ وچھنہ پتہ حقيقت دريافت کر تھہ، لوکن ہنرہ اچھہ دنيا س اندر۔  
 آخر تس اندر وچھن تس بايمان جنس اندر۔ مگر حقيقت ته ماہيت سپدہ نہ تمن ته دريافت۔ سو چھو پانہ  
 تمن سارنی اچھن ته اچھہ والين وچھان ته تہنر حقيقت ته ماہيت زانان سمہ اچھہ نہ تسند ادراک کر تھہ  
 ہيکان چھہ ساری چھہ تمی پيدہ کر مت۔ تس بہہ خبری کہ کس چیز تھہ چھو ميہ پيدہ کور مت کہہ چیز ج  
 کياہ حقيقت چھہ۔ بعضی مفسر و فر موو کہ مخلوقن ہنزن اچھن منز چھونہ یہ قوتھے کہ تس کياہ بيکن وچھتھہ۔  
 مگر سو چھو لطيف، ازراہ لطف و مہربانی ہيکہ سو کانسہ ہنزن اچھن اندر سو قوت پيدہ کرت سمہ سیت سو تس  
 وچھتھہ ہيکہ۔ بايمان ته کرہ جنس منز سو قوت عطا سمہ سیت تم ته وچھن پنہ تس خدا تس۔ سو چھو  
 سارنی وچھان۔ کياہہ سو چھو خبير۔ تس چھہ خبرے کس شخص کياہ چھو کمسنر حقيقت کيا چھہ قَدْ  
 جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ پزناٹ واٹہ توہہ نعرہ دليلہ پنہ تس پروردگار سندرہ طرفہ توحيد ورسالتہ  
 کس حق آسنس پٹھہ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ تس تمس شخص تمن  
 دليمن منز غور و فکر کر نہ سیت حق ته پوزدريٹھہ آؤ تمیک فائدہ چھو تس پانس۔ ہيہ تم اون لوگ تمن  
 دليمن کن کورن نہ توجہ ته نظر تمیک ضرر ته نقصان چھو تس پانس۔ يو چھو س نہ توہہ پيٹھہ راجھہ۔ مجبور  
 کياہ کرووہ يوارہ وچھن پٹھہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ تھہ پاتھہ چھہ اس توہہ پھير پھير پنہ دليلہ

وَلِنَبِيِّنَهُ لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۵﴾ اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۷﴾ وَلَا تَسْتَبُؤُا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُؤُوا اللَّهَ عَدُوًّا بَغِيرَ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ

مختلف طریقوں بیان کران۔ ہتھ نہہ ساری لوکن و اتنا وو۔ و لِقَوْلُوا دَرَسْتُ تمن سپدن زہ جمائ۔ تمو اندرہ ضدی تہ مذہ تم وہن تم بینبرن چھو سبق پورمت کتال نشہ۔ ورنہ تم تھد مضامین تھہ کن بیکہ ہایہ بیان کر تھہ و لِنَبِيِّنَهُ لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بیہ ہتھہ وارہ وضاحت گرو اس زان و الین ہمدہ خیطرہ۔ یعنی کچھدارتہ انصاف پسند لوکن پٹھہ سپدہ واضح تہ روشن۔ تمن ژکن ساری شک تہ شہمات اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ نہہ روزوپانہ بیروی کران تھہ بیہ توہہ کن وحی چھو یوان سوزنہ ٹہندس پروردگارہ سندہ طرفہ یارسول اللہ۔ اتھہ منز چھو لوڈ چیزہ بیہ اعتقاد تھاون کہہ کانہہ معبوداہ چھونہ نس ذات پاکس و رای اتھہ پٹھہ قائم روزتھہ۔ مہ کہہ و کانہہ توجہ مشرکن کن کہ تمن کیاہ گو تمو اون نہ ایمان و لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا تمیک وجہ چھو ای کہہ ہر گاہ خدا یڑتھہ ہاتم لوک انہن نہ شرک و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا بیہ نہز کرونہ اسہ نہہ تھند راجھہ نگہبان و مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ بیہ چھو نہ نہہ تمن ہند ذمہ دارتہ جواب دہی کرہ ون۔ توہہ چھوہ مطہ فقط تمن تبلیغ کرن سان پیغام و اتنا و و لَا تَسْتَبُؤُا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ای مسلمانو نہہ مہ آبولیکہ ژاران، بدوان۔ تمن معبودان باطن تمن تم مشرک معبود برحق تراوتھہ عبادت چھہ کران۔ کیاہہ تمیک نتیجہ نیرہ فَيَسْبُؤُوا اللَّهَ عَدُوًّا بَغِيرَ عِلْمِ تم تہ ژاران لیکہ معبود برحقس حدہ نشہ تجا و ز کر تھہ جملہ تہ بے علی سبہ۔ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ اسہ چھوتھہ پاتھہ پریتھہ کُنہ جمائس پنہہ پنہہ کامہ زینت دُیو تھمت ہتھہ پاتھہ نہہ و چھان چھوہ ہتھہ دنیاس منز کوم تھہ پاتھہ جاری۔ بیہ دُنیا چھونہ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَأَقْسَمُوا  
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ  
 لَنَنصُرَنَّكَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا  
 بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۲۰﴾  
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْبَشَرَىٰ وَ  
 حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ

دارالکافات۔ بدلہ سے سزاؤ تک گره ثم إلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو پتہ چھو  
 چانس پروردگار س نشہ تم ساری رجوع کزن۔ سوونہ تم پائے تمہ سار کوی یہ تم کران آس تو پتہ  
 دیکھہ سزا۔ نہہ مہ بر دکانہہ نم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ستمو معرہ و ہا سخت قسم خدایہ سند نہایت  
 زورہ سان کہہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ ہر گاہ تم نشہ ولتہ کانہہ فرمائشی مجزہ۔ تہ نشانہ تم اَن  
 ضرور تہہ ایمان۔ قُلْ إِنَّمَا الْأَيُّتُ عِنْدَ اللَّهِ نہہ فرماو یوکھہ جواب کہ ساری آیات چھہ خدائس  
 اتھہ۔ میہ اتھہ چھو نہ کہنی۔ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ تو پتہ کبہہ چیز زار اوہ تو بہہ  
 یہ کہہہ کہ ہر گاسو نشانہ تہ سو مجزہ ہہ تم نشہ ولتہ۔ تو پتہ تہ اَن نہ تم ایمان۔ اسہ چھہ الخ خبر۔ وَنُقَلِّبُ  
 أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تہدہ ایمان نہ  
 انہہ موکھہ بھڑ واس تہ تہند دل تہ تہنہزہ اچھہ تو پتہ سو مجزہ و ہجھت تہ ان نہ تم ایمان تھہ پائہ نہ ایمان  
 اوکھہ تہ پڑہہ کہکھہ اتھہ قرآن مجیدس گوڈنچہ لہ۔ بیہ تراو کھہ اس تم پتہ سر کشی تہ گمرانی اندر حیران  
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْبَشَرَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا یہندہ عبادو  
 سر کشی ہنز کیفیت چھہ یڑھی کہہ ہر گاہ آس یہندہ فرمائشہ مطابق تم گن سوزو کھہ ملائیکھہ، بیہ ہر گاہ یمن

اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ  
 عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  
 زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَأَلُو شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ  
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ أَفَغَيَّرَ

سیت مُردہ زندہ سیدت کتھہ کرن، بیہ ہر گاہ آس ساری پوشیدہ مخلوقات جہنم ان آجھن بروٹھہ کتھہ جمع کروکھہ۔ **فَاكَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا الْآنَ يَشَاءُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ** توتہ تم ایمان اُن نہ پڑھہ کرن نہ مگرے کانسہ ہمدہ حقہ یشہہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تمو منزہ چھہ اکثریت جاہلن تہ بے خبرن ہنزہ ستمن نہ حقیقت معلوم چھہ ایمان انہ نک ہتھو نہ تمین قصدی تہ ارادے۔ **خَوَاتِمُهَا** چھہ فرمایشی مجرہ طلب کران **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ** چھہ پاٹھہ ستم لوکھہ ٹھہند ڈشمن چھہ چھہ پاٹھہ کر اسہ پر ستمہ پیغمبرس ڈشمن انسان شیطان تہ تہ جن شیطان تہ لہذا چھہ نہ ہو کتھہا کہ نہہ **يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا** سموا اندرہ بعضی شیطان بعضی کافر ان انسان شیطان چھہ تہ مزہ دار کتھہ بطور وسوسہ ڈھوکہ ونہ خیطرہ وکن منز تراوان آس۔ امہ اندرہ چھو مُراد کفر چہ تہ مخالفتہ چہ کتھہ **وَأَلُو شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ** ہر گاہ یشہہ ہاتھند پروردگار تم کرہ ہن نہ یہ کوم یعنی ڈشمنی مگر تم چھو یو ڈشمت دوستن سیت ڈشمن گاش سیت گتھہ۔ پزس سیت اپز آسن۔ تہندس یشھن منز چھہ جہ جہ حمو۔ لہذا امہ سیدن ٹھہند دل مبارک آزرده بہنزہ ڈشمنی سیت۔ کس تراویوکھہ تم لوکھہ بیہ یہ کیندہاہ تم کران چھہ دینس منز افترا پردازی اندرہ تمیک غم مہ بروٹھہہ **وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ** چھہ ستم شیطان یکن کافر ن ہندین وکن اندر سمہہ موکھہ وسوسہ تراوان چھہ تمین لوکن ہمد دل تمین ٹھن کُن پھرن۔ مایل سیدن تیکن نہ پور پڑھہ چھہ آخرچ۔ یعنی اہل کتاب یسودونصاری۔ کیاہہ تے پور پڑھہ آسہ ہا آخرچ تلہ کرہ ہن نہ نبی آخر الزماَس

اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ  
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ  
صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۵﴾  
وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

انکار وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ بے یتھ تم بہن تن پٹھہ راضی گوہن۔ بے یتھ  
تم تے لگن تے چھہ کامہ کرنہ تم تم پانہ کران آس اَقْعَدَ اللَّهُ أَتَّبِعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ  
إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا تہہ فرماو یو کہہ یار رسول اللہ کہہ ای لو کو توہمے منزتہ میہ منزتہ چھو اختلاف میانہ  
رسالتک۔ یو چھوس حکم خدا بیخبر آسک دعویٰ کران۔ تہہ چھوہ آتھہ انکار کران مگر احکم الحاکمین چھو  
فیصلہ میانہ تھہ دستخت۔ کیا زہ میانس آتھہ دعویٰ آس پٹھہ چھہ بدلیل یہ قرآن مجید نئس یوڈ مجزہ چھو۔  
ہر گاہ تہہ توتہ ماونہ تہہ کیا زہ تہہ چھوہ یڑھان یہ خدائی فیصلہ کافی تہہ زانتھہ کیا تھہاٹن یو بیا کہہ فیصلہ کرہ  
وانہ۔ حالانکہ تم فرمودہ پئں کامل فیصلہ۔ تم کر نازل توبہ کن یہ بد کتاب۔ تمک مضامین بالکل صاف  
صاف بیان کرنہ آمت چھہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بے سکن  
لوکن آسہ یہ کتاب یعنی تورات وانجیل عطا کر تم گے یہود و نصاریٰ تم تہہ چھہ یقینہ سان زانان کہ یہ  
قرآن مجید چھو واقعی تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ نازل آمت کرنہ کیا زہ برو ٹھہن کتابین اندر چھہ ایج  
خبر نہ امر فَلَآتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نئس مہ آسہ تہہ شک و تردد کرہ و نیو آندرہ آتھہ آندر وَتَمَّتْ  
كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پور تہہ کامل چھو تھندس پروردگارہ سندہ یہ کلام پوز آسنہ کن۔ امیک  
اعتقادات برابر تہہ معتدل آسنہ کن امیک اعمال لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کانہ اکھا چھو نہ آتھہ کلامس بدل  
کرہ ون تہہ تغیر و تبدیل کرہ ون وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے چھو اللہ تعالیٰ دشمن ہنزہ سارے کتھہ یوزہ ون  
ساری اعتقادات پوز زانہ ون وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ باوجود دلا



اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ  
 هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾  
 وَمَا لَكُمْ اِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

یکن ہندہ واضح یہ صاف آسمان چھہ ذنیاس اندر زیادہ مخری۔ ہر گاہ جہہ یارسول اللہ بالفرض جنزہ تھہ  
 ماوتلہ ڈالن تم توہہ پروردگارہ سزہ سیزہ وتہ نشہ کیا زہ تم چھہ پانہ وتہ نشہ ڈلت۔ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا  
 الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ تم چھہ اعتقادن منز بیروی کران مگر بے اصل خیالاتن ہنز۔ یہ چھہ  
 تم مگر اپز ٹھہراون قیاسی کتھہ کران۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِيْنَ تمین مقابلہ چھہ بعضی خدایہ سند بندہ راہ راستس پیٹھ پکان۔ پز پاپ تھہد پروردگار سوی چھو  
 یژانہ ون تس تس تہنز ہ وتہ نشہ چھو ڈلان۔ سوی چھو یژانہ ون تمین تم سیزہ وتہ پیٹھ پکان چھہ۔ سو  
 پیٹھہ پاٹھہ مگر ہن سزاویہ تھہ پاٹھہ کرہ سیزہ وتہ پیٹھہ پکھ وئین انعام واکرام عطا۔ کافر و تروو مسلمائن اندر  
 یہ شبہہ تہ شک کہہ ای مسلمائو عجیب کتھاہ چھہ تہنز کہہ پانہ مورمت جانور چھون کھیوان مگر خدائین تس مور  
 مت آسہ یعنی خود مردہ جانور سو چھون نہ کھیوان۔ مسلمان آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نشہ۔ یہ شبہ  
 کرکھہ پیش۔ آتی سپد نازل تم آیت کریمہ۔ ای مسلمائو توہہ بلہ ممانعت آیہ کر نہ کہہ تہہ مہ آرو کافر  
 ہنز کھن گن تھاون فَكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ لہذا کھو تمین جانورن  
 ہند ماژ تسن ذبح کر چھہ وقتہ خدایہ سند ناوکاسہ ہندہ شرکتہ ورا ای ہینہ امت آسہ۔ ہر گاہ تھندین آیاتن پڑھہ  
 کرہ ون تہ احکائن پیٹھ ایمان آنہ ون چھوہ جانورہ سند حلال سپدن تہ حرام سپدن چھو موقف خدایہ سند  
 ناوہیس پیٹھہ تہ نہہیس پیٹھہ ذبحہ وقتہ۔ یہ ٹھونہ والس جانورہ سند ٹھون تھہدہ بدنہ منزہ نیر نس تہ نہ  
 نیر نس پیٹھہ۔ وَمَا لَكُمْ اِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ توه کیاہ وجہ چھو کہہ چھوہ نہ کھیوان تس  
 جانورہ سند ماژ تس ذبح آسہ کر نہ امت خدایہ سند ناوہتھہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ تم

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
 لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِهِمَا كَمَا نُوَاقِفُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَأْكُلُوا  
 مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
 لِيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

فرمود توہمہ بتفصیل ہمیں آئیہ کر تمس منز تم ساری چیز سم توہمہ پیٹھہ تم إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ  
 مگرے جہہ سخت مجبور سپد و گنہ وقتہ۔ تمہہ وراى، بنوہ نہ توہمہ کا نہہ چیز۔ تلہ جھہ تم حرام چیز تہ بقدر  
 ضرورت توہمہ حلال۔ تمن حرام چیزن منز جھونہ گنہ جلیہ تذکرہ کس جانورہ سُنْدُسُ نِسْمُ اللّٰهِ جھہ آسہ  
 باقاعدہ ذبح کرنہ آمت وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ پڑتھہ جھہ یہ کہ واریاہ لوکھہ  
 جھہ لوکن ذالان تہ مگرہہ کران پنہ نیوغلط خیالوسیت بلا وجہ تہ بلاد لیل۔ لیکن کیتس کالس کرن تم لوکن  
 گمراہہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ پڑپاٹ جھہ پروردگار جھویار سؤل اللہ زیادہ زانہ دن حدہ ذغیہ  
 ڈلہ و نین۔ سو دیہ تمن پانے سخت سزا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ای مُسْلِمًاو جھہ تراو و نین گناہ تہ  
 پو شیدہ گناہ یعنی جھہ نہ وکن اندر اعتقاد آسوتھوان حلال چیز سمہ حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک  
 إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِهِمَا كَمَا نُوَاقِفُونَ پڑپاٹھہ سم لوکھہ گناہ کرن ادہ یمہ قسمگ  
 گناہ آسہ تہ تمہہ قسمگ۔ لوگٹ آستن بابوڈ، پوشیدہ آستن یانوں ضروریہ تمن سزا نہہ تمہہ سار کوی یہ  
 تم کرن آس جھہ کامیو اندرہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بیہ مہ آسوتھویوان ای مُسْلِمًاو  
 تمس جانورہ سُنْدُسُ مازیس پیٹھہ نہ ذحکہ وقتہ خدلیہ سُنْدُسًا و ہینہ آسہ آمت وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ پڑپاٹھہ سوکھیون  
 جھو سخت گناہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ پڑپاٹھہ جن شیطان جھہ پنہ نین  
 دوستن تہ پیرون ہندسکن دلن منز تمہہ عجیب کتھہ تراوان توہمہ سیت بحث کرنہ خیطرہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ

لَكُفْرًا كَثِيرًا ۚ أَوْ مَن كَانَ مَبْتَغَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا  
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ  
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ وَكَذَلِكَ  
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرِمِينَ لِيَسْأَلُوا فِيهَا وَمَا  
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

انگو کثیر کون ہر گاہ تو بہ تہزہ تھہ مانوہ۔ عقایدن یا عملن متعلق تہہ تہ گوہ تلہ ضرور مثر کے اومن  
کان مینا فاحینہ وجعلنا لہ نوراً یشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمت لیس بخارج منها  
ایس شخصہ گوڈہ اوس مردہ گمراہ تہ وتہ ڈولمت۔ توپتہ کوراسہ سوزندہ یعنی مسلمان بنوہیہ کورس عطا  
اسہ نورہ لیس نوریتھہ کان چھوسو کوکن اندر گمراہی ہندیوساری غایلویشہ چھوسو محفوظ۔ سوچھا برابر  
تس شخصہ سیت لیس گمراہی ہنزہ اندر ولتہ آمت چھو۔ تمہ منزہ چھونہ ہیکان سونیرتھے ہرگز  
چھونہ برابر کذالک زین لکفرین ما کائوا یعملون تھہ پاٹھہ بایمان چھو ایمان تہ اعمال صالحہ رتہ  
معلوم سپدان تھہ پاٹھہ آوزینت ونہ کافرن ہنزن تہن کائین سمہ تم کران چھہ یہ نوٹھاہ چھہ  
جعلنا فی کل قریۃ اکبر مجرمینہا لیسکروا فیہا بلجہ تھہ پاٹھہ از مسہ شریفک زٹھ زٹھ لوکھہ چھہ  
ہزس دعوتس مخالفت کران لوگن سیزہ وتہ نیرہ ڈالان تھہ پاٹھہ کمراسہ بروٹھین امتن ہند پر تھہ شہرس  
اندر زٹھ زٹھ لوکھہ تم گوڈہ ارتکاب جرم کران آس۔ تہندہ اثرہ سیت آس عام لوکھہ تہ سوجرم کرن  
ہیوان تائیکہ تم لوکھہ آس حضرات انبیان ضرور اتناونہ خیطرہ تہ تہندس تبلیغس ناکام ہوانہ خیطرہ  
شورش پھیلوادان سمہ موکھہ تم ساری عذابس گرفتار آس یوان کرنہ وما یمکرون الا بانفسہم  
وما یشعرون تم لوکھہ آس پنہ خیالہ پیمبرن تکلیف واتناونہ خیطرہ شہرت کران مگر تمیک ضرر اوس  
تہن پنہ نینہ پان واتان مگر جہلم و بے علمی سببہ اوسکھہ نہ فخری تران۔ تمکن مکہ کین کافرن ہند جرم چھو  
یوت زیادہ کہہ واذاء تھہ ایۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ یلہ تم نیش

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا  
 صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا  
 يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

واتان چھو پر یک کا نہ نشانہ، بوڈ مجزہ بس پیغمبر برحقہ سندس نبوتس پیٹھہ بد دلیل چھو آسان تمہ  
 ساتہ چھہ تم وناں کہ اس گزونہ توتان پڑھہ یوتان نہ آسہ پاس تہ من عطا کرنہ تم تم چیز تم پیغمبرن عطا  
 کرنہ آئے یعنی وحی بہتاب وغیرہ۔ اتھہ چھو کران اللہ تعالیٰ رد۔ فرماوان چھو اللہ اعلیٰ حیت یجعل  
 رسالۃ اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت زانان زہ کوسہ جای چھہ مناسب تہ لایق پیغمبری خیطرہ۔ تمہ شخص  
 چھو قابل تہ سزاوار امہ عمدہ جلیلہ خیطرہ سبیب الذین اجرمو صغار عند اللہ عنقریب واتہ  
 تمن لوکن سمو پڑھہ تمہ وان تہ تمہ جزم عظیم کو زخا بس نش واتھہ بذلت تہ خواری آخرتس اندر  
 وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بیہ واتھہ کڈر عذاب مکر تہ فریب تہ شوروشر پھیلاونہ خیطرہ  
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ سہہ بروٹھہ آویمان کرنہ حال بالیمان تہ کافرن ہند تمہ اندرہ سہہ معلوم  
 کہ ہسہہ حقہ اللہ تعالیٰ پڑھہ ہدایتہ چہ وتہ پیٹھہ آون تہ نجاتہ وتہ پیٹھہ پکناون یشرح صدرہ للإسلام  
 تسد سینہ یعنی دل چھو مڈراوان تہ تمناہہ کران اسلام قبول کرنہ خیطرہ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ  
 صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا بیہ ہسہہ حقہ اللہ تعالیٰ پڑھان چھو گراہی تسد سینہ یعنی دل چھو کران تنگ  
 سؤی سیٹھہ تنگ اسلام قبول کرنہ خیطرہ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ زَن سُو شخص زورہ آسان چھو  
 کھسن ہیوان۔ مگر چھو نہ کھست بیکان دل چھوس تنگ سہہ ان كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ تہہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ شیطانہ سوسہ تراوان تمن لوکن پیٹھہ یم نہ ایمان اتان تہ پڑھہ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۵﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا  
 الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ﴿۱۶۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ  
 جَمِيعًا لِيُعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ  
 أَوْلِيَاءُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ وَبَلَّغْنَا  
 أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ

کران چھ تھی و سوچ ناپاکی چھ روز بروز زیادہ سپدان و ہذا صراط ربک مستقیماً یہ دین اسلام صحیح  
 ذکر برد و نگہ سز شیبہ تہندس پروردگارہ سز سیز و تھہ۔ امہ و رای و تھنہ بیہ کانہہ و تھاہ نیز سمہ و تہ پٹھہ  
 پختہ سیت شخص نجات لبہ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ بیشک امی صراط مستقیمہ کہ  
 وضاحتہ خیطرہ کہ اسہ پن آیت بتفصیل بیان نصیحت رتہ و نین لوکن ہندہ خیطرہ لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ  
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم نصیحت رتہ و نین تہ دین اسلام قبول کرہ و نین ہندہ خیطرہ  
 چھو سلامتی تہ امن و امانک پو شون گرہ یعنی جنت تہندس پروردگار س نشہ۔ سوی چھو یہند دوست تہ  
 مددگار تھہ بدل تہ سم کران آس رتہ عملہ و وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سودوہ قابل ذکریمہ  
 ڈوہہ آس ساری مخلوقات جمع کر و کھہ تھہ منز جن تہ انسان ساری جمع آسن۔ تمو منزہ بیہ جن شیطان  
 رکھہ ہوت و نینہ لِيُعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ای جن شیطانو واریاہ لوکھہ بناو و و کھہ ٹوہہ  
 پن تابع انسانو آندرہ سم گراہ کر و و کھہ پانس سیت وَقَالَ أَوْلِيَاءُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ تو پتہ و نین تم شیطان  
 ہند دوست انسانو آندرہ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ ای سانہ پروردگارہ بیشک چھو چون فرماون پوز۔  
 واقعی تل نفسانی فاسیدہ اسہ آندرہ بعضیو بعضین ہندہ سیت۔ واقعی حقیقتس اندر آس شیطان ہندہ ڈالہ  
 سیت قیامس انکار کران وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا و ن وات اس تھہ معین و قس بس ثریہ سانہ  
 خیطرہ مقرر او تھہ کورمت یعنی وون چھو از فیصلہ تری اتھہ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا

فِيهَا أَلَمْ آتَىٰ اللَّهُ إِيَّانَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۹﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۰﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۱﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۲﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۳﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۴﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۵﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۶﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۷﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۸﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۲۹﴾  
 وَمَا تَسْتَعْجِلُ الْأَعْيُنُ بِرَأْسِ الْيَوْمِ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتَوْنَ بِهِ وَلَٰكِن يَسْتَغْفِرُ الْغَافِلِينَ ﴿۳۰﴾

مَا تَسْتَعْجِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَاوِجِھِ اِی جَن تہ اِنسَان کافر و تہنہدہ خَیْرہ چھو میون فیصلہ نار جہنم منز ٹہنز جای۔ ہمیشہ چھو توبہ رُوژن تھہ منز مگرے اللہ تعالیٰ اِی یرھہ توبہ تمہ منزہ کڈن مگر سُو یرھہ نہ زانہ۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہر پات تہند رب چھو سٹھاہ حکمتہ وول تہ سٹھاہ علمہ وول۔ علمہ سیت چھہ تہ سارنی ہند جزم معلوم حکمتہ سیت چھو پر تھہ خُرمس مناسبت سزا ووان وکندلک نُورِیُّ بَعْضُ الظَّالِمِیْنَ بَعْضًا لِّمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ سیتھہ پاتھہ تھو وکھہ اَسْ اُو کنگار تین کُتھکارن نزدیک سیتھہ پاتھہ تم دُنیا س اندرا کہ وٹہ رُوژتھہ چھہ کامہ کران اَسْ یَمْعَشَرَ الْجِیْنَ وَالْاِنْسِ اَلْمُ یَا تِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اِیْتِی وَیُنْذِرُوْکُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا اِی جلن تہ انسان ہنز و جماتر توہے چھوہ پنہ نین گرائن تہ چھہ عملن ہند اقرار کران۔ کیاہ توبہ نش واثر اِی ناسان پیغمبر سم توہی منزہ اَسْ تم توبہ پران آسہن پُوژوان آسہن اِعتقادن تہ اَعْمَالن متعلق سان آیات یہ آسہن توبہہ نیم کران از کہ دُبھہ پیش انک۔ ادہ کیاہ وجہ اوس تہبہ آسہوہ نہ کُھر ونا فرمانی نشہ باز یوان۔ قَالُوْا سَھِّدْ نَا عَلٰی اَنْفُسِنَا تم ساری دین اَسْ چھہ پنہ نین پان پٹھہ پائے جرج گوانی دوان کہ واقعی حضرات انبیاء واثر اِی اَسہ نش تم اَسْ چان آیات اَسہ بوزہ ناوان۔ یہ اَسْ از کہ دُھک نیم تہ کران۔ مگر اَسْ نہ تہند مانان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان۔ وَغَرَّتْھُمْ الْحَیْوَةُ الدُّنْیَا تم اوس دیتمت دُنیاچہ زندگانی دُھو کہ۔ تم اوس دُنوی عیش رُوژمت مقصد اعظم آخر چ آسکھ نہ فخری تمیک نتیجہ

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلٰهَا  
 غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَّلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَّرَبُّكَ الْغَنِىُّ ذُو الرَّحْمٰةِ ط  
 اِنْ يَّشَآءْ يَدْهَبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا  
 اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۵﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ

دراؤ کہ و شہدوا علیٰ انفسہم اذہم کائنوا کفرین تمودر پانے پنہ نس کافر آسئس بیٹھ گواہی  
 مگر نتیہ اقرار کر نس کیاہ فاندہ نیرہ ذلک ان لہم یکن ربک مہلک القری بظلم و اہلہا غفلون یہ  
 پیغمبرن ہندہ دعوت حق بیٹھ سوز تک سلسلہ آوجاری کرنہ۔ کیا زہ تہند پروردگار (یارسول اللہ) چھونہ  
 کنہ شہرہ کین لوگن ظلم کر تھہ تہنزہ بے خبری اندر گالان۔ بلکہ چھو کھ گوڈہ پیغام و اتنا وان حضرات انبیاء  
 ن ہندہ ذریعہ و لیکل درجت مہمما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون یلہ پیغمبر آئے  
 سوزنہ تمودیت لوکن نادسارنی لوگن سپدا اطلاع۔ تمہ پتہ چھہ جنن تہ انسان نیوکارن تہ بدکارن سارنی  
 عملہ کرہ وینن ہندہ خیطرہ درجات مقرر کرنہ امت۔ تہنزہ عملہ مطابق تہنہ درجاتن مطابق واتہ تمن پنہ  
 نین عملن ہند نتیجہ تہ بیہ چھونہ تہند پروردگار لوکن ہنز و عملونشہ بے خبر و ربک الغنی ذو الرحمة بیہ  
 چھو تہند پروردگار بے نیاز نس چھنہ لوگن ہنزہ عبادت ضرورتہ۔ سو چھو رحمتہ وول۔ محض پنہ رحمتہ  
 سیت سوز تم حضرات انبیاء بیٹھہ تہندہ ذریعہ معلوم سپدن نفع و ضرر ک چیز۔ اتھ اندر چھو بندن ہند  
 وی فاسیدہ۔ ان یشا یند ہبکم و یستخلف من بعدکم ما یشا یرہر گاہ سو یرھہ توبہ سارنی نیہ یکدم  
 سیمہ حالہ منزہ ہلاک کر تھہ۔ توبہ بدل اندہ توبہ پتہ تمکن۔ یرھہ تہ تمکن کما انشا کم من ذریة قوم  
 الاخرین بیٹھہ پاٹھہ تہہ کر توبہ بیہ اکہ قومہ نسلہ اندرہ تہند چھونہ وجود کنہ تہہ چھوہ تہنزہ جلیہ  
 موجود بیٹھہ پاٹھہ چھو بیہ سلسلہ جاری مگر وارہ وارہ۔ ہر گاہ آس یرھو تہہ کرووہ ختم یکدم کیا زہ سانہ کامہ  
 چھنہ کانہ ہندہ آسنہ سیت یانہ آسنہ سیت کانہہ رکاوٹ۔ حضرات انبیاء سوزے بیہ آسنہ تہندہ مفادہ

آيَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشَّرْكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

خیطرہ۔ آسہ اوس نہ تھہ اندر پٹن کانہہ غرض۔ لہذا پڑہ ہا توہمہ تم ن پیغمبرن تصدیق کرن۔ تہنز پیروی کرن۔ تمہہ سیت سپدہ ہا توہمہ سعادت حاصل۔ اِن مَّا تُوْعَدُونَ آيَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یمن چیزن ہند توہمہ پیغمبرن ہندہ واسطہ وعدہ یوان چھو کرنہ قیامت یا عذاب تمہہ تھہ یقیناً ضرور اودہنہ۔ تہہہ ہیکون نہ خدا عاجز کرت۔ عذابہ نشہ پٹن پان، بجاوت ژ پھہ ونہ سیت۔ روپوش روزنہ سیت یا بیس شہرس تہ ملکس ژانہ سیت قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ بِالآخر فرماو کھہ تہہہ یا رسول اللہ ای لو کو تہہہ گدھو پن کام کران پنہہ جایہ بو تہہہ چھوس پن کام کران پنہہ جایہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب سپدہ توہمہ معلوم مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہہ کندہ حصہ آسہ رت انجام آخر تہس لدر۔ بیشک ہمہ چھہ یقینی تھہ کہہ ظالم گدھن نہ زانہہ کامیاب وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا بیہ لگ تم کافر خدایہ سدہ خیطرہ (تمی منزہ یہہ تمی پیدہ کورمت چھو زراعت تہہ چارواپو منزہ) کھہ حصہ مقرر کرنہ۔ بیاکھہ حصہ پو تلین ہندہ خیطرہ حال کھہ پیدہ کر تہس منز چھونہ تہس کانہہ تہہ شریک فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشَّرْكَائِنَا تہس دینہ لگ تم پنہہ خیالہ یہہ حصہ گوروا تہس یہہ حصہ گوسائین تھہر او متین شریگن فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ تہس تہس حصہ آسہ تہمدین شریگن ہندہ خیطرہ تھاونہ آمت سوی آسہ جان تہہ رت۔ تمہہ منزہ ولتہ نہ کہنی خدائہس وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ شُرَكَائِهِمْ بیہ تہس حصہ آسہ



يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ  
 زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ  
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۷﴾  
 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لِّيَطْعَمَ الْإِمَانُ  
 نَشَاءُ بِزَعِيمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ

خدايہ سندہ خیطرہ تھاونہ آمت سؤی جان پن اوس سؤ بیجہ وانتھ تھندین شریکن گن۔ ساء  
 مَا يَحْكُمُونَ کوتاہ چھ چھو بیجہ فیصلہ تہ تجویز۔ کیا زہ کس چیز خداین پیڈہ کور۔ سو کیا زہ بیجہ  
 تھاونہ تس ورا ای بیجہ کانسہ ہندہ خیطرہ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تیتھ پابھہ ڈیت زینت وارینن مشرکن پن  
 اولاد مارنس تھند یو شیطانو۔ چنانچہ تمین آس بیجہ وحشیانہ کوم رثتہ جان یوان یوزنہ۔ تیتھ تم مشرک تباہ  
 برباد سیدن آخر تس منز۔ بیجہ تیتھ تم مشرکن پیٹھ دین تھند خلط ملط سپدہ۔ تم روزن ہمیشہ غلطی منزی  
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ تہبہ مہ سپد و تہز و تیتھ کامیوسبہ غمگین۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یزہہ ہاتھندہ حقہ  
 جانیر تلہ آسن نہ تم بیجہ کوم کران فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کس ترا یوکھہ تم تہ تھند ایز نوور اوان  
 تہ غلط تیتھ ٹھراونہ تم تلن پانے تمیک خراب نتیجہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا بیجہ تیتھ تم  
 پنہ باطل خیالہ موجب بیہ تہ ونان کہ تم چاروای تہ بیہ زراعت کس تم حاصل کران آس چھو حرام  
 لَا يَطْعَمُ إِلَّا مِمَّنْ نَشَاءُ بِزَعِيمِهِمْ تین بیجہ نہ کانہ شخص استعمال کرت تس شخص ورا ای کس  
 اس پنہ خیالہ موجب کھیاون بڑھون (یعنی تم چھہ معبودان باطلن ہندہ خیطرہ ہند تھاون۔ تو پتہ بیجہ  
 کھیاون تھندین مجاورنی یوت تین ورا ای تین ہندہ خیطرہ بیجہ زانان حرام وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا  
 بیجہ آس ونان تم جانور (بہنہ جانور مخصوص کرت) تین پیٹھہ چھو سوار سیدن یا نور کھازن حرام کیا زہ

لَا يَدْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ  
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ  
خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ  
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ  
عَلِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ

تم جہہ منسوب معبودان باطلن کن کر نہ آمت و آنعام لاید کورون اسم الله علیہا افتراء علیہ  
بہ کیہنہ چارواہی تم پٹھہ آسنہ ذبحہ وقتہ خدایہ سند ناوہیوان خداکس پٹھہ اپنوراوتھہ کیازہ بہ اس  
زاناں نہ امہ سیت گھہہ اللہ تعالیٰ خوش سبجزیہم بما کانوایفترون عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمکن  
امہ اپنوراوتہ موکھہ سزا وقالوا ما فی بطون ہذہ الانعام خالصہ لذونرنا و محرم علی ازواجنا  
بہ اس وان تم مفرک، ہم چہ تمکن چارواہن ہندسکن تمکن منزجہہ تم جہہ فقط اسہ اندرہ مردن ہندہ  
خاطرہ حلال، زنانہ پٹھہ جہہ تم حرام وان یکن مینتہ فہم فیہ شرکاء ہر گاہ سوچہ مردہ زیوہ  
تلہ جہہ ساری مردتہ زنانہ تمہہ کس نہیںس منز برابر شریک سبجزیہم و صفہم انہ حکیم علیہ  
عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمکن پائے حرامہ تہ حلالہ سیت جانورن صفت کر نس پٹھہ ضرور سزا بیشک سو  
چھو سٹھہ حکمتہ وول تہ سٹھہ زانن وول۔ تمسند گر فاری اندر تاخیر کران پھونہ بے خبری موکھہ بلکہ تس  
جہہ پور خبر مگر تاخیر عذابس منز جہہ حکمت آسان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ یَقْتِنِ تَاوَأَسْ مَنْزِیَ تَم لُوکھہ تمواولاد پتن بے وقوفی تہ جہالتہ سبہ بلاد لیل مار و حرموا  
ما رزقہم اللہ بہہ کرکھہ حرام پانس پٹھہ سوزق بس اللہ تعالیٰ ان عطا کر یوکھہ افتراء علی اللہ ہم  
ساری چیز جہہ کران تم اپنوراوتھہ خداکس پٹھہ قَدْ ضَلُّوا و ما کانو امھتدین بیشک سپد تم لوکھہ  
گمراہ بہہ اس نہ تم زاننہ تہ سیزہ و تہ پٹھہ یکہ ون و ہوا الذی انشا جئت معروشت و غیر

قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۳۰ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ  
 جَدَّتْ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ طَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ ۝ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۳۱ وَ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِنْ مَآرِسِ قَوْمِ اللَّهِ وَ  
 لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۳۲

مَعْرُوشَتٍ سُوپروردگار گو سومی تم پیدہ کرتے باغ تمکن اندر تم کل چھہ بیم ڈھکن پیٹھہ کھسان چھہ  
 (دھہہ کل ہی) بیہ تم کل تم ڈکھوورائے کھسان چھہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ بیہ تم خضر  
 کل بیہ زراعت پیدہ کور تمہہ کین میون تہ دان مختلف صورت تہ مختلف مزہ آسان چھو وَالزَّيْتُونَ  
 وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بیہ کورن پیدہ زیتون بیہ دان تم کھہ اکس ہی تہ چھہ آسان۔ کھہ  
 اکس بدل تہ چھہ آسان کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تمی فرمووا ای لو کو کھیو تمکن سارنی کلین ہند میوہ  
 یلہ سونیران آسہ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بیہ آسو تمکن فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکوٰۃ دوان  
 تمہہ دوہہ بیہ فصل ثمان آسو وَلَا تُسْرِفُوا تمہہ دس منز تہ مہ آسو اسراف کران إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ اسراف کرہ وین پسند کران وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ  
 بیہ کمر پیدہ اللہ تعالیٰ ان چارپا او آندرہ بعضی چارپا تم تھہ چھہ بورتلہ ون چھہ بیہ تم ڈھوٹ تہ پست چھہ  
 بورتلس قابل چھہ کُلُوا مِنْ مَآرِسِ قَوْمِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ای لو کو کھیو بے فکر تم  
 جانورن ہند ماہ تم اللہ تعالیٰ ان تھہہ خیرہ حلال کمر پائے پنہ خیالہ کا نہہ چیز حرام کر تھہ مہ پجو شیطانس  
 پتہ پتہ۔ سوزانیون ناسو کھہ چھو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ پڑپاٹ سو چھو تھہ نون ڈ تمکن باوجود آینکہ

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ  
 قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾  
 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ  
 حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ  
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّكُمْ مِمَّنِ

پزیرد دلیلہ سبزہ توبہ نشہ واضح تر روشن مگر سوچو توبہ توبہ راہ راستہ نشہ ڈال کر یثان ثنئیة ازواج  
 مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ہم چارواں تک منر نہ پائے اذ حلال ہے اذ حرام کران و محو  
 کہہ ہم ساری کر خدا بنی پیدہ۔ یعنی جھہ آٹھ قسم۔ کتو اندر زہ نہ تہ مادہ یہ ژھا دیو اندر زہ نہ تہ مادہ  
 قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ نہہ پر ژھو کہہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مشر کو تر زہ  
 چھا خدا لکن حرام کرمت کہہ مادہ زہ ۗ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ کہہ تم کہہ چھریا ژھا دل چہ  
 یمن دوشون قسم ہنزہ مادہ پنہ یمن رحمن منر تلت چھہ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ دنومہ  
 امیک جواب کتہ دلیلہ سیت ہر گے نہہ پوز نہ دن چھہہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ یہ  
 چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کمر مت و نٹو منر ہہ نہ تہ مادہ یہ گاؤ منر ہہ نہ تہ مادہ قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ  
 أَمِ الْأُنثَيَيْنِ پر ژھو کہہ نہہ ای مشر کو نو زہ ۗ چھا حرام کرمت خدا لکن کہہ مادہ ۗ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ کہہ زہ چھہ ہم بہندین مادن ہندین رحمن اندر چھہ۔ توبہ دعویٰ چھہہ کران کہہ اللہ  
 تعالیٰ ان چھہ ہم حرام کرمت تھہ پٹھہ کمر و کانہہ دلایلاہ پیش۔ اچ دل لیل بیکن زی چیز آتھہ۔ یا آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان کانہہ بیغبر یا ملکہ سندہ ذریعہ توبہ فر موومت یا آسہ ہم توبہ بلا واسطہ پانے فر موومت۔ گوڈ بکس  
 صور تس یعنی نبوتس چھہہ انکار کران دو قسم صور تس متعلق پر ژھو کہہ ۗ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ  
 وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَطْنِ أُمِّكُمْ مِمَّنِ کیاہ نہہ آسہہ تمہہ ساتہ حاضر ہمہہ ساتہ اللہ تعالیٰ ان توبہ امہہ حلال کر نک تہ

اَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا وُحِيَ اِلَيَّ  
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّتَعَمَّهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ  
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا  
اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ  
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۸﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا كُلَّ

حرام کر ٹک حکم فرموا۔ یہ بیوقوف تھے تاجے کمر تھے۔ معلوم سپد تو بہر نشہ چھنہ اتھ پیٹھ کنہی دلیل سم  
چھہ محض اللہ تعالیٰ اس پیٹھ بلادلیل اپڑتہ بہتان نور وادوان فَمِنْ اَظْلَمُوْا مِمَّنْ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا  
لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ کس کس کماہ چھو پڑ ظالم کس شخصہ سدہ خوتہ ایم اپڑ نور و معبود بر حقس پیٹھ لو  
کن گمراہ کرنے خیطرہ بلادلیل اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ پڑ پٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ نجات نہ چچ  
وتھ ہوا ان ظالم لو کن بلکہ تہمز جای چھہ نار چھنم قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا وُحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ  
يَّتَعَمَّهُ تہہ فرمایو کہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھو سنہ لبان تمن احکامن منز سم مہ کن سوزنہ آی خدایہ  
سدہ طرفہ کانہہ چیزہ حرام کس کانہہ کھیوہ و کس پیٹھ حرام آسما اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا  
مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ مگرے آسہ خود مرده یا آسہ خون کس بدنہ منزہ نیران چھو، یا  
آسہ سورہ ماز کس بے شک چھو بالکل ناپاک۔ تمسد ساری اجزای بدن چھہ ناپاک تہ حرام۔  
سُو چھو جنس العین کس نہ کسہ طریقہ پاک سپدہ اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ یا کس جانور وغیرہ  
شر ٹک زریعہ بنہ یعنی کس جانور وغیرہ بقصد تقرب الی غیر اللہ خدا کس ورا ییہ کانہہ ہند قرب تہ رضا  
حاصل کرنے خیطرہ ذبح کرنے آمت آسہ ادہ آستن سُو خدایہ سندا ناؤ پتھی ذبح کرنے آمت فَمِنْ اضْطَرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کس کس شخصہ سخت مجبور سپدہ کانہہ چیز نہیں نہ کھینہ  
خیطرہ سمو حرام چیز، و وورائے سُو شخصے کھیہ سمو حرام چیز و اندرہ کینہہ تہ چھو کس جائیزہ بشر طیکہ تروی

ذِي طَفِيرٍ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شَحُومَهَا  
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ  
 بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْغِيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۷﴾  
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ  
 بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

هن کھبہ سمہ سیت زندہ ہیجہ روزت سوڈلہ نہ کھنیں اندر حدہ نشہ بیہ آسہ نہ خدایہ سندس حکمس نافرمانی  
 کرہ ون تہ طالب لذت تہ مزہ ژھانڈہ ون۔ تس چھہ امید بختایشہ ہنز۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظَفِيرٍ بیہ کر آسہ  
 یہودن پیٹھہ حرام پریتھہ نمہ وول جانور نیس نہ انجہ الگ الگ آسن بلجہ آسن ملہ وٹھہ سوگوونٹھہ، گر،  
 شتر مرغ، انز، بطخ وغیرہ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شَحُومَهَا گاووتہ کٹواندرہ شمر آسہ حرام  
 تمن پیٹھہ تهنز چربی إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مگر نہ سو  
 چرب نیس تهنذین پٹھن پیٹھہ آسہ یا اندر من سیت آسہ یا نڈہ اڈجہ سیت ملیتھہ آسہ۔ امہ ورا ی آسہ  
 ساری چربی حرام تم چیز آس نہ فی نفسہ حرام کینہہ تہ۔ مگر ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْغِيهِمْ وَإِنَّا  
 لَصَادِقُونَ بیہ سزا دیت آسہ تمن تهنزہ سر کشی موکھہ۔ آس چھہ یقینا پوزونان فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ  
 رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نیس ہر گاہ توتہ تم دشمن توبہ انکاری کرن، نعوذ باللہ اہرس کن نسبت  
 کرن سمہ کٹھہ موکھہ کہ تمن کونہ چھو اوہ عذاب نازل سپدان، توہ فرماو یوکھہ تهنذ پروردگار چھو وسیع  
 رحمتہ وول۔ بعضہ جھتو موکھہ چھونہ سونا نافرمان جلد گر قار عذاب کران۔ مگر تہہ مہ زانو ہمیشہ روزہ  
 یوسہ حال۔ نہ بلکہ سمہ وقتہ عذابک وقت (نیس مقرر کرنہ آمت چھو) ولتہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ  
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تمہ ساتہ ہیجہ نہ تهنذ سو عذاب کا نہہ آھہ دور کتر تھہ تہ چھہ رٹھہ نافرمان تہ کھٹکار  
 لوگن نشہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مُّشْرِكٍ

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ  
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا  
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ  
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  
 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ هَلْ شَهِدْنَاكُمْ

ہیں وُن زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ پر شہدہ ہاتھ نہ کرہ ہو اُس شرک نہ کرہ ہن سان مال ہڈب شرک نہ کرہ  
 ہو اُس کانہہ چیز حرام نہ آسہن کران سان مال ہڈب۔ ہڈب۔ ہڈ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس چھو نہ یہ ناہند  
 کینہہ تہ۔ کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تھے پاتھ چھو انکار کورمت تموسم تمکن بروٹھ کافر آس  
 یمہ تھہ تہ یہ جواب دین چھ محض غلط تہ باطل۔ امہ سیت چھو لازم یوان پیغمبران ہند ہزو وُن ثعو ذباللہ  
 لہذا سمو سمو لو کو پیغمبران سمو یب کور۔ تم آی عذابس گرفتار کرنہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان حَتَّىٰ  
 ذَاقُوا بَأْسَنَا تمی موکھ ڈھ تموسانہ عذابک مزہ۔ تھے پاتھ ڈھن تم کافر تہ ضرور عذابک مزہ  
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا نہہہ فرماو یوکھ یارسول اللہ ای کافر و سیمہ توہہ نش چھا  
 کانہہ ذلیلہ اٹھ تھہ پیٹھ کہ اللہ تعالیٰ ان و ڈھ توہہ قدرت شرک کرنچ یا حلال چیز حرام کرنچ سمہ  
 اندرہ معلوم سپد یوسو چھو اٹھ پیٹھ راضی چھے توہہ نشہ اٹھ پیٹھ کانہہ ذلیلہ سوکتر و پیش۔ دلیل وغیرہ  
 چھنہ توہہ نشہ کینہہ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ نہہہ چھو نہ پیروی کران مگر خیالی  
 تھن۔ بیہ چھو نہ نہہہ مگر غلط اندازہ کران۔ اٹھکلہ سیت تھہ کران قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فرماو یوکھ  
 نہہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمو دو شوی جوابو سیت سپد معلوم کہ خدا یہ سزوی دلیل چھہ کامل تہ  
 پور۔ تہمز دلیل چھہ باطل غلط۔ اٹھ اوس لازم نہہہ ساری گڑھو یں راہ راستس پیٹھ مگر تمیک توفیق تہ  
 چھو خدا ایسی اٹھہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ نہس ہر گاہ سویشہہ ہاتوہ سارنی ہاوہ ہاوتھہ۔ مگر اللہ  
 تعالیٰ اس چھہ ہنہ نین سارنی کاین اندر جہہ حمزہ۔ سو نہس پر شاہان چھو نہس چھو ہدایت کران۔ نہس نہ

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا  
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ۝۱۵۰ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا  
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مَخْنُوعَةٍ تَرْزُقَكُمْ وَأَبْيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

یڑھان چھوٹس چھوٹو نہ کینہہ تہ بنان قُلْ هَلْهَلَّ شَهِدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ  
هَذَا فرما یوکھ تہہ کہ برو تھ کن اینوکھ تہہ تم گواہ یہ یہ گواہی دن کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کیاہ کریم چیز  
حرام تہن ہنز ذکر کرنہ آیہ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُم تہس ہر گاہ تم بالفرض گواہی دن  
کہ توتہ گھہ نہ تہند یار رسول اللہ تہندس ونہ نس اعتبار کرن تہ تہنز گواہی قبول کرن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ مہ کمر و پیروی تہن لوکن ہنز ن خواہش سمو اہز ان سان آیات۔  
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بیہ تہن نہ پڑھہ چھہ آخرت بیہ چھہ تم پنے  
نس پروردگار سیت معبود آسند اندر مخلوقو اندرہ بین برابر تھوان، شریک زانان قُلْ تَعَالَوْا  
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرما یوکھ تہہ یار رسول اللہ ﷺ ولو لو پروہہ کیاہ کیاہ چھو  
حرام کورمت تہندہ پروردگارن توبہہ پیٹھہ۔ تم چیز چھہ تہم۔ اکھ چیز گواہی زہ شریک مہ تھر اوٹس  
مخلوقو اندرہ کانہہ چیزاہ۔ خدا نس تہہ قسمہ شریک تھر اون چھو حرام و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ مہ  
کمر و مالس ماجہ نسبت نافرمانی۔ بلکہ کمر و تہن سیت احسان۔ تہنز نافرمانی کرن، تہن سیت بد سلوکی کرن  
چھہ حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مَخْنُوعَةٍ تَرْزُقَكُمْ وَأَبْيَاهُمْ بیہ مہ ماریوکھ اولاد ہن فقرہ،  
تہنگہ ستی تہ افلاسحہ سببہ۔ تہہہ پاٹھہ زمانہ جاہلیتس منز لوکھ کمر ان آس۔ اس و مووہ توبہہ تہ رزق بیہ تہن  
تہ اولاد مارن تہ قتل کرن چھو حرام وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ بیہ مہ آسوز دیک



الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِيفُ  
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾

یوان بے حیائی سے تا فرمانی ہنزن کا میں نہ نین پاٹھہ نہ نہ پوشیدہ پاٹھہ۔ پریتھہ طریقہ بدکاری سے زنا چھو  
 حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ یہیہ مہ مار یون کانہہ شخصہہ سمند مارن اللہ تعالیٰ  
 ان حرام کور مگرے کانہہ پز پاٹھہ فکس سزوار آسہ سپدمت بیاکھہ شخص ناسق مارنہ سیت ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک چھوہ اللہ تعالیٰ تاکیدہ سان کُھم فرماوان یتھہ تہہ وارہ زانوہ فخرہ تار و تویہ  
 کمر و تمی موجب عمل وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یہیہ مہ  
 آسویہ تہمہ سندس ماس کُھہ یوان مگر تمی و تہ یوسہ رثتہ مفید آسہ۔ تہمہ سیت تھہ ماس حفاظت واتہ،  
 نقصانہ نشہ روزہ محفوظ یوتان سو یتیم پانہ بالغ تہ گائل سپدہ۔ مال یتیم کھیون چھو حرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ یہیہ چھو اللہ تعالیٰ کُھم کران زہ مینان تہ تولان آسوپور پور، انصافہ تہ عدلہ  
 سان۔ اتھہ منز و عاتہ دھوکہ دیون چھو حرام۔ تم احکام مشکل تہ دشوار چھہہ کیا زہ لَكَيْفُ نَفْسًا إِلَّا  
 وُسْعَهَا اس چھہہ کانہہ اس تکلیف دووان مگر تنوی یوت سو ہیچہ تھہہ کیا زہ چھہہ یکن احکامن ہندس  
 تعیل کرئس منزستی کرنہ یوان وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ آستن توہہ  
 کانہہ آشناسند یا کانہہ دوستہ سند بہیہ تہمہ ساتہ تہہ کُھہ فیصلس یا شہادتس منز کانہہ کتھہ آسوکران سنو  
 آسوپوز و نان تہمہ ساتہ عدل و انصافس خلاف تھہہ کرن چھہ حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یہیہ آسوخدلیہ  
 سندس عہدس وفا کران۔ بد عہدی تہ وفانہ کرن چھو حرام ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہیہ سار

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ  
 فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكَم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۲﴾  
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا  
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۳﴾  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ﴿۱۸۴﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

کوی کر وه اللہ تعالیٰ ان تاکیددی حکم بیٹھہ تہہ یاد تھا ووتہ عمل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  
 فَاتَّبِعُوهُ بین حکمن ہنزہجھن زیادہ خصوصیت۔ بیہ کر وه اللہ تعالیٰ ان حکم کہ یہ دین اسلام بیہ تمک  
 ساری احکام بیہ چھوہ میان سبز و تھہ امی و تہہ بیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ بیو و تومہ بیو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ  
 سَبِيلِهِ تمہہ ووتہ کر نوہ جداتہ دور خدیہ سزہ سزہ ووتہ نشہ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكَم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امہ  
 کوی کور وه توہہ اللہ تعالیٰ ان تاکیددی حکم بیٹھہ تہہ باقی و تونشہ ہتھہ روزو۔ راہ راستہ نشہ بیہ کا نہہ و تھہ  
 اختیار کرن چھوہ حرام ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ شرکس رد  
 کرنہ پتہ چھہ اس مسئلہ نبوتس متعلق مضمون بیان کر ان کہ امہ حض سوزو نہ تھی بات پیئمبر بناوتھہ  
 بیٹھہ پیٹھہ لوکن تردتہ تہہ سپد ان چھوہ بلکہ سوزاسہ توہہ بروٹھہ حضرت موسیٰ پیئمبر بناوتھہ۔ توپتہ کمر  
 امہ عطا حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات۔ پن نعمت پورہ کرنہ خیطرہ تہن لوکن پیٹھہ سموتھہ  
 موجب رتھہ عملہ کرہ بیہ ضروری احکام ہند بیان تہ تفصیل کرنہ خیطرہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ  
 رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بیہ بیٹھہ تمکھہ واسطہ سارنی لوکن زہنمائی سپدہ بیہ بذر حمت تعمیل احکام کر وه دین ہندہ  
 خیطرہ۔ یہ امہ کج کتاب سوزاسہ بیٹھہ تم لوکھہ یعنی بنی اسرائیل پنہ نس خدائس سیت ملاقات کرہ نس  
 پڑھہ کرن۔ تھہ اعتقادس ماتحت کرن سارنی حکمن پیٹھہ عمل بلکہ تمہہ کتابہ ہند تہ انجیلک دور ختم سپد  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ تُرْحَمُونَ سمود یو کتابو پتہ چھوہ قرآن مجید

مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿۱۵۶﴾ أَوْ تَقُولُوا  
 لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ  
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجِرَى الَّذِينَ  
 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۱۵۷﴾  
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ

تہ کتابا یوسہ اسی نازل کر۔ بابرکت کتاباہ۔ جس کز وون اچی پیروی۔ کھو ژو خدا جس۔ ہتھہ روز و تسنز  
 تا فرمانی کزنہ نشہ ہتھہ توہہ پیٹھہ رحم بیہ کرنہ۔ اَن تَقُولُوا لَئِنَّا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا  
 وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلَيْنِ بیہ کوراسہ بیہ قرآن مجید نازل ہتھہ نہ تہہہ و ہتھہ بیکو قیامتک دوه کہ  
 آسمانی کتاب آس نازل کرنہ امر آسہ برو تھہ دون فرق ہتھہ بہودن تہ نصاری ان پیٹھہ آس آس تمہہ  
 پر نہ نشہ بے خبر اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ بیہ ہتھہہ و ہتھہ بیکو برو تھہہ  
 با ایمان ثواب حاصل سپد نہ کہہ وقتہ کہ ہر گاہ آسہ پیٹھہ تہ کتاباہ نازل بیہ ہا کرنہ۔ آس تہ آسہو تھہہ خوتہ  
 زیادہ ہدایت لبہ ون۔ لہذا روز نہ کانہہ گنجائش توہہ کتھہ کرجی ہتھہہ کرجی ہتھہہ کرجی ہتھہہ کرجی ہتھہہ کرجی ہتھہہ  
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ جس تھہہہ واژ توہہہ نشہ بیہ کتاب یوسہ ہتھہہ دلیل ہتھہہ تھہہہ س ہر دو گارہ سہہہ  
 طرفہ بیہ بوڈ ہدایت تہ ہڈ رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا وَاِنْ كُنَّ  
 اکھاہ چھو یژ ظالم تس شخصہ سہہ خوتہ سم ایزان خدا یہ سہہہ سم آیات۔ بیہ پھر ان ہتھہہ تمہو آیا تو نشہہ  
 سَجِرَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عنقریب دمو آس سزا تھہہ  
 لو کن سم ہتھہہ پھر ان چھہ سانہو آیا تو نشہہ۔ ہتھہہ عذابو سہہہ تھہہہہ اعراض کرنہ تہ ہتھہہ پھر ہتھہہ سہہہ  
 يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ معلوم چھو سپد ان  
 سم چھہہ انتظار کران مگر اتھہ کتھہ کہ تھہہ نشہہ واتن ملائک تہ پانہ تھہہہ پرور دگار۔ تہہہ

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا  
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ  
 انظُرُوا إِلَانَا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا  
 لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَفْعَلُونَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنِّي

واتے تمہیں نشہ نہیں دے پروردگار ہر گاہ کہ نہ ہو نشانہ قیامت کیونشانہ اسدردہ یعنی مغربہ کہ طرفہ آفتاب  
 کھٹن۔ وارہ ہوزن تمہ۔ یوم یأتی بعض آیت ربک لاینفع نفسا ایمانہا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ  
 کَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا تمہ دوہہ نہیں دے پروردگار ہر گاہ کہ نہ ہو نشانہ ظاہر سپدہ تمہ دوہہ دینہ نہ کانہہ  
 شخصس کانہہ فائیدہ نہ نفع ایمان اُن نہ پڑشہ کرن یم نہ تمہہ بروئہ ایمان آسہ اوئمت یا آسین نہ ایمان  
 اتھہ کانہہ رثکا ماہ کر مژ بلجہ آسہ سچھہ کاسے کرہ مژہ تمہہ دوہہ ہتھونہ ایمان اُنہ کس اعتبار نہ توبہ کرنس  
 نہ گنہن مغفرت مچھہ کس اعتبار قُلْ انظُرُوا إِلَانَا مُنْتَظِرُونَ فرماؤ کہ تمہہ کہ ہر گاہ تمہہ اتھہ انتظار یشھان  
 چھوہہ کرن کرو تلہ انتظار۔ اس نہ چھہ آپس نہ ہزس منز فیصلہ سپدس انتظار کران إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ  
 وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پڑپاٹ سموا کو دیئس پنہ  
 کس چھلہ کرہ نہ بیون بیون کو رکھہ یعنی دین حق کو رکھہ نہ پور پور قبول یا کو رکھہ او قبول نہ اوڈ تروکھہ۔  
 دیئس اُندر نوور اوچھہ شرک و بد عتجہ تھہ۔ بیہ بنیای الگ الگ جماڑ نہ فرقہ۔ توبہ ہتھونہ تمہن سیت کانہہ  
 تعلق۔ تمہہ معاملہ چھو سپر د اللہ تعالیٰ اس۔ سوونہ پانے تمہن سارے تھہ یہ تم کران آس مَنْ  
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا کس اکھاہ اکھہ نیکی ہتھہ ایہ تہندہ خیطرہ چھہ ترشے دہ نیکی۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ کر کس کس نیکی دہن نیکن ہند ثواب عطا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ  
 لَا يُظْلَمُونَ بیہ کس کس اکھاہ اکھہ بدی ہتھہ بیہ کس بیہ نہ کس سزا دہہ مگر اکی بدی ہند۔ گھٹکارن، بدکارن

هَذَا بِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي  
 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ  
 رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظلم بیہ نہ کرنے قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرماؤ یو کھ تہہ یار رسول اللہ پڑپاٹ مہ ہاوتھہ پروردگارن پنن راہ راستن، مضبوط  
 دینس گن بیٹھہ منز نہ منہ قسمہ کجر چھو۔ حضرت ابراہیمہ سدس ملتس گن بس اپن یو دینو نشہ ہنر س  
 دینس گن پھر ہون اوس۔ بیہ اوس نہ سومثر کواندرہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فرماؤ یو کھ تہہ پڑپاٹ میان نماز بیہ میان  
 ساری عبادت بیہ میون زندہ روزن بیہ میون مرن، بیہ سوڑوی چھو خاص خدایہ ہندی خیطرہ تہندس  
 اختیار س اندر بس کل جمانگ پروردگار چھو۔ تس چھونہ شریک کانہہ مہ آواکوی حکم کرنہ۔ یو چھوس  
 خدایہ سند یو فرمانبردار بندواندرہ گوڈکوی فرمانبردار قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فرماؤ یو کھ  
 تہہ ای کافر وکیا ہوتھانڈنہ معبود برحقس ورا بیہ کانہہ پروردگارہ حالیکہ سوی چھو پریتھہ منہ چیزک  
 پروردگار وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا کانہہ شخصہہ کرہنہ کانہہ کامہ مگر تمیگ یو چھو تس پانس پیٹھہ  
 تَلَن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کانہہ اکھاہ تلمہ نہ بیہ کانسہ ہند یور پانس پیٹھہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ  
 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ توپتہ چھوہ تہہ پنن نس پروردگار س گن رجوع کرن بس گرہ سوی توہہ  
 خبر تمہہ ساری بیٹھہ منز تہہ اختلاف کران آسوہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ع (۱۶۵)

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ بِیہ چھو سُو پروردگار سُوئی سم تہہ زمینس اندر پنن نایب بناوہہ بیہ کرون  
 توبہ اندرہ بعضن ہند مرتبہ بلند بعضن پٹھہ بیٹھہ توبہ سُو آزمائش کرہ تم ن نعمون اندر سمہ توبہ عطا  
 کر توبہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹ پروردگار چھو جلد سز ادوہ ون بیہ چھو سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ وون سیٹھاہ ر حم کرہ ون



## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَاصِّ ۱ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ  
مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ  
إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا  
تَذَكَّرُونَ ۳ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا

الْمَاصِّ \* كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَاصِّ  
-- امجد معنی چھ خدایہ سی خبر۔ یہ قرآن مجید چھ کتابہ خدایہ سہہ طرفہ توبہ کن نازل کرنہ امر۔ چھ  
تہہ لوکھہ نافرمانی ہند سزا بیان کرنہ سیت کھوڑہ ناویکھہ۔ ہر گاہ کانہہ شخصاہ آتھہ کتابہ ایمان لہ نہ، تسلیم  
گرہ نہ تھہ دل مہارک مہ سپدن تمہہ سیت تنگ۔ کیا زہ کانہہ ہمدہ نہ مانہہ سیت تو ہنزہ ہم کرچہ کامہ اندر  
کانہہ نقصان واتہ نہ۔ قرآن مجید چھو خصوصیتہ سان وعظہ نہ نصیحتہ با ایمان ہندہ خیلرہ اتَّبِعُوا  
مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُونَهُ أَوْلِيَاءَ ای لو کو تہہ یلہ معلوم سپد کہ یہ قرآن  
مجید چھو خدایہ سدی طرفہ نازل کرنہ امت۔ تہہ کتر واتباعہ تہ پیروی تجیہ توبہ کن بواسطہ پیغمبر برحق  
نازل او کرنہ تھہدس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ اتباع کزن گو تصدیق تہ کزن تہ عمل تہ کرن۔ (خدا اسم  
تھہدہ و تھہ ہاونہ خیلرہ یہ عظیم الشان کتاب نازل کتر) تراوتھہ مہ کتر و بین رفیقن تہ دوستن ہنز پیروی۔  
سم توبہ گمراہ گرہ دن تہ سیزہ وتہ نیشہ ڈالہ دن چھہ انسان شیطانو تہ جن شیطانو اندرہ قَلِيلًا مَّا  
تَذَكَّرُونَ مگر باوجود اسمہ مشتقانہ ہما نیش کرچہ چھہ توبہ اندرہ کی لوکھہ نصیحتہ رٹان۔ حتی چھہ گمراہ  
تہ گمراہی زیادہ۔ مگر گمراہن چھونہ روزن سوکھہ۔ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا  
أَوْهُمْ قَالُونَ واریاہ شہرن تہ بستن منز روزہ دن کتر اسہ ہلاک تہ تباہ گھر وانکار تہ نافرمانی تہ گمراہی

أَوْهُمْ قَائِلُونَ ۳ فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءِ الْآنُ  
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۵ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ  
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۶ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا  
 غَائِبِينَ ۷ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۸ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۸ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ  
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۹ وَقَدْ

مؤکھ۔ کس ووت تم نر شہ سون عذاب رات منزی۔ یاتمہ ساتہ سمہ ساتہ تم دیہر س شوجت آس  
 قیلولہ کران فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءِ الْآنُ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کس اوس نہ تمہ ساتہ سمہ  
 ساتہ تم نر شہ سون عذاب ہجہ تہ مگہ واتھہ پیو کانہ کتھاہ تہندہ چایٹہ منزہ نیران۔ مگر یہیہ تہہ کھ واقعی  
 ہجہ آس ظلم و خطا کرہ ون۔ یہ گو دنیوی عذاب فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ  
 الْمُرْسَلِينَ امہ پتہ گو انخروی عذاب۔ قیامتک دوہ پر تھو آس ضرور لوکن تم کن نینجیر سوزنہ آئی۔  
 کیاہ توہہ نر شہ آئیہ نینجیر۔ توہہ کیاہ معاملہ کوروہ تم سیت۔ یہہ پر تھو ضرور آس نینجیرن تہ کھ توہہ  
 کیاہ جواب ون تہز و امتو فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کس بیان کر و اس تم ساری بروٹھ  
 کتہ ساری حالات پتہ علمہ موجب کیاہ اس تہند یو کارو کر تو تونر شہ بے خبر آسہ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ  
 الْحَقُّ تہی دوہہ یکن لوکن ہنزہ عملہ تہ اعتقادات تولنہ ہر پاتھہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ کس تمکن ہند پو نر ایمانہ سیت تہ نیکیو سیت گوب لگہ تہ لوکھ آس رستگار تہ کامیاب  
 نجات لبہ ون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہہ سیمن لوکن ہند پو نر لوت لگہ ایمان نہ انہ سیت تہ اعمال  
 صالحہ نہ آسہ مؤکھ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ کس تہی لوکھ گئے سیمو  
 پتہ نین پانن نقصان تہ تاوان واتھو کیاہہ تم آس سائین آیاتن ہنز حق تلفی کران۔ انکار تہ نافرمانی  
 کرنہ سیت وَقَدْ مَكَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پزپاٹ اسہ دژ



مَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱  
 قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي

توہ بے خیرہ جای زمینس بیٹھ۔ بیہ کوراسہ مہیا تہندہ خیرہ اتھہ زمینس اندر زندہ روز تک سامان مگر شکر گزار جھہ توہہ اندرہ کمی لوکھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بے شک بیہ کردہ اسہ تہہ پیدہ یعنی تہندہ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پتہ دژ واسہ توہہ شکل و صورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو پتہ کور حکم اسہ ملائکین کہ سجدہ دیوون حضرت آدم سن۔ بس دیت تمبو سجدہ ابلیس وای کہ یکن من الساجدین سو اوس نہ سجدہ ونہ والیواندرہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللہ تعالیٰ ان ہر ژہس ای ابلیس ژہ کم چیزن روکھہ پتھہ سجدہ ونہ نشہ۔ یلہ میہ پانہ ژہیہ حکم کریوی سجدہ کرنگ۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ دہنہ لگ بو چھوس ہمتر حضرت آدمہ سندرہ خوتہ کیاہہ بو کور تھس پیدہ نارس سنو کور تھس پیدہ میڑہ نہ آبس یعنی ربہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ژہیہ اویہ پن پان بو ڈبوژنہ تھی کر تھہ میانس خمس نافرمانی۔ لہذا اوس بون آسانہ نشہ۔ ژہیہ پزی نہ کبر نہ نافرمانی کرن اتھہ آسانس منزبوسہ جای ہتھہ فرمانبردارن ہنز لہذا نیر جلد بیٹک ژہ چھوکھہ ذلیل و خوار گھہہ ویواندرہ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس لگ ونہ پروردگار امیہ دنہ مہلت مر نہ نشہ قیاس تان سمہہ دوہہ ساری ین قبر و منزہ نبیر کڈنہ۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس بیٹک چھوکھہ ژہ مر نہ نشہ مہلت دنہ آتیہ اندر وقت معلوس

إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي  
لَأَقُودَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَأَنْتَهُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ  
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  
شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَيَأْتِمُّرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ  
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا  
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

تَانِ قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي لَأَقُودَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ایلیس لوگ ورنہ تیرے کور تھس یو گمراہ۔ اتھہ  
بدل کر کھہ یوتہ بنی آدم گمراہ۔ قسم بیتھہ چھوس یونان کہ ضرور بہمہ یوتم گمراہ گرنہ خیطرہ چانہ سیزہ ویتہ  
پیٹھہ بروٹھہ ویکھہ نہ پچنہ نڈر لایتہنم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمایلیہم ولا تجد  
اکثرہم شاکرین تویتہ تمکھہ یوحملہ کرنہ خیطرہ پریتھہ طرفہ تمن بروٹھہ کن تہ، تہنزہ تھر کن تہ  
تمن دچھن تہ، تمن کھو فرتہ۔ اتھہ پاٹھہ ممکن سپد تہ تھہ پاٹھہ ڈالکھہ یوتم سیزہ ویتہ نیشہ۔ چنانچہ تہ بلہ  
بکھہ نہ تمواندرہ زیادہ شکر گزار چائین نعموان پیٹھہ قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ ان  
فر مووس خوار و ذلیل سپد تھہ نیر جلد نیر آسمانواندرہ۔ تہ یہ و نان چھو کھہ کہ یو ڈالکھہ تم، گمراہہ ڈالکھہ۔  
یو چھوس نہ پرو ابران کانسہ ہندہ عبادت کرہ تک لکن تبعکم منهم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ البتہ  
نیس چان پیروی کرہ تمواندرہ توہہ، اکہ وٹہ برن یونانر جہنم وَيَأْتِمُّرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ  
حَيْثُ شِئْتُمَا اسہ فر موو حضرت آدمس، ای آدم، بسو تہہ پن باڑیتھہ جتس منز۔ کس کھیو جتو  
نعمواندرہ سمہ نعمہ خوش کرنوہ، بیتھہ جلیہ خوش کرنوہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر نزد یک سپد زہ نہ  
تہہ دو شروے بیتھہ کلس یعنی امہ کٹیک میوہ تہ پھل کھیو۔ نہ ہر گز فَكُلُوا مِنَ الظَّالِمِينَ نیس سپدوہ توہہ

عَمَّا مِنْ سَوَاتِحِهَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَهُمَا إِيَّيَّ  
 لِكَمَا لَبَسَ النَّصِيحِينَ ﴿۲۱﴾ فَذَلَّهُمَا بَغْرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا  
 سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا اللَّهُ  
 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِكَمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۲﴾  
 قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

نقصان تلمہ و نیو آندرہ فوسوس لہما الشیطان لیبیدی لہما ماوری عنہما من سواتحہما جس تر و شیطان  
 تہندین دکن آندر و سوسہ ہتھہ شراوہ سو تمن بدنگ سو حصہ بس تمن اکھہ اس نفعہ پو شیدہ اوس۔ یہ  
 آساتمہ کلیک خاصیت، یا حکم عدولی کرنہ موکھہ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا  
 مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ دینہ لوکھہ پروردگارن تہند کمر نہ توہہ ممانعت امہ کلہ نفعہ مگر می موکھہ  
 کہ تہہ گدھونہ بن ملک زہ یا گدھونہ تہہ بن ہمیشہ زندہ روزہ و نیو آندرہ وَقَاسَهُمَا قسما باؤ ہاؤ لگ و نینہ تمن  
 إِيَّيَّ لِكَمَا لَبَسَ النَّصِيحِينَ بیشک پو پھسوسہ تہند پو ذخیر خواہ فَذَلَّهُمَا بَغْرُورٍ جس تہدہ مرتبہ نفعہ یا تھڑہ  
 رایہ نفعہ پست رایہ گن و ابن بون۔ مایل کمرن ڈھوکہ سیت امہ کلیک پھل کھینس پیٹھہ فلَمَّا  
 ذَاقَا الشَّجَرَةَ بس یا تھہ مزہ ژھہ تموا امہ کلہ کہ پھلگ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا تان گئے تم بھگ۔ تہندہ  
 بدنہ پیٹھہ و تھہ لباس تہند خود بخود ظاہر سپد تہند سوزوی بدن و طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اُتَى  
 لگ دوشوے جب تک پینہ و تھر اکھہ اس سیت ملہ و تھہ پانس پیٹھہ تھاونہ بدنس ستر کرنہ خیطرہ وَنَادَاهُمَا  
 رَبُّهُمَا اللَّهُ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِكَمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ تمہہ وقتہ کور آلو تمن دوشون پن  
 پروردگارن۔ ای آدم حوا، امہ کمر و ناتھہ منع امہ کلہ نفعہ۔ یہ و نونامہ تہہ بزیاٹ شیطان چھو تہند نون  
 دشمن۔ تھہہہ اسمنزن کھن گن تھاوو قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ  
 دوشوے لنگ و نینہ ای سانہ پروردگارہ امہ کور ظلم پان پانس۔ وون لے ژہ امہ مغفرت کرکھہ یہ رحم

الْخَيْرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا  
تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا  
يُؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ  
آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ يٰبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

کرکھ اس سبب و ضرور نقصان تکہ و نیو آندرہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ  
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللہ تعالیٰ اَن فرموکھ جنتہ منزہ و سَوَابِغُ زَمِينِس پٹھہ بیتھہ حاس منزہ توبہ  
یعنی ٹھہر اولاد آسن پانہ وان اڈاڈن ہند ڈشمن۔ بیہ آونہندہ خیطرہ تجویز کرنہ ز مینس پٹھہ قرار کرن۔  
بیہ تمخ ٹکن معیشہ کیواساہو سیت۔ اس خاص و قس تان۔ یعنی مرجس و قس تام قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ  
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللہ تعالیٰ اَن فرموکھ آتھہ ز مینس منز چھہ توبہ ز زندگی گزارن۔  
آتھہ ز مینس منز چھوہ توبہ منز ت روزن۔ امی زمینہ منزہ۔ اوکڈنہ قیامتک دوہ۔ تمہ پتہ نیس بیہہ عمل  
آسہ تہی بیہ نیس جای دنہ۔ رثہ عملہ ولس رثہ جای چھہ عملہ ولس چھہ جای یٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا  
عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا اکی حضرت آدمہ سُنْد یونچو یو، تھتھق پیدہ کوراسہ ٹھہندہ  
خیطرہ پو شاک، نیس ٹھہندس عیب ناک بدنس ولہ تہ ستر کرہ۔ بیہ نیس ٹھہندہ بدنک زینت چھو ولباس  
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ بیہ چھو امہ ظاہری لباسہ علاوہ باطنی لباسہ بیہ آسہ ٹھہندہ خیطرہ تجویز کورمت۔  
سُوگو پر ہیز گاری تہ دینداری ہند لباس۔ سُوچھو امہ ظاہری لباسہ خو تہ سیٹھاہ ضروری تہ بہتر۔ ذَٰلِكَ مِنْ  
آيَةِ اللَّهِ بیہ لباس ظاہری چھو خدایہ سندہ فضل و کرمہ کیونشاوتہ دلیلو آندرہ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ بیتھہ  
لوکھہ بیہ نعمت و ارہ یاد تھاوتھہ معمم حقیقی سُنْد حق ادا کرن۔ اسلامن چھو کورمت مردن ہند لباس الگ  
زنانش ہند لباس الگ۔ نیس پڑہ نہ مردن زنانشہ لباس لاگن۔ زنانش پڑہ نہ مردہ لباس لاگن۔ مردن پٹھہ  
آوریشی لباس حرام کرنہ۔ تم مرد دنیاوس آندر ریشی لباس استعمال کرن تم آسن جتھہ ریشی لباسہ

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُومٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُهُمْ مِنَ الْبَاسِ مَا لِي بِهِمْ مَسْأُوتُهُمْ  
 إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ  
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۵﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنِ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

نَشْرُ حُرُومِ - زنان پیٹھ آؤتون تہ بار یک لباس حرام کرنہ یمہ منز بدن یاس ، کلک موی بوزنہ ایہ۔  
 لہی پابندی کرن۔ یہ گولباس تقویٰ یَدِیْ آدَمَ لَا یَفْتِنُکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبُو یَکْمُوْمٍ مِنَ الْجَنَّةِ اِی  
 حضرت آدمہ سہد یو پٹو یلہ ہتھ تقویٰ تہ پر ہیز گاری ہند واجب آسن معلوم سڈ، بیہ سڈ توبہ معلوم کہ  
 شیطان کوتاہ دشمن چھو تہند وون یتھنا توبہ تہ شیطان ڈالتھ تقویٰ پر ہیز گاری تہ دینس خلاف کتھ  
 مبتلا کتر تھ خرابی اندر تراوہ۔ یتھ مول مون تہند حضرت آدم تہ حضرت حوا جتہ منزہ ڈالتھ کڈن۔  
 یَنْزِعُهُمْ مِنَ الْبَاسِ مَا لِي بِهِمْ مَسْأُوتُهُمْ توبہ کڈن تم یتھ حاکس منز کہ کڈان اوس لباس تہند تہندہ بد نہ  
 پیٹھ۔ یتھ پاٹھ نسر اوہ تہ ہتھ کرہ تہوند مستور تہ پو شیدہ بدن۔ یتھ پاٹھ اسہ بیان کور کہ سو چھو تہند سخت  
 دشمن تمس نشہ کتر و پورا احتیاط۔ زیادہ تاکید چھوہ اس توبہ سمہ موکھہ کران إِنَّهُ یَرِیْکُمْ هُوَ وَقَبِیْلُهُ مِنْ  
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بیشک اکھ سو تہ بیہ تہنز لشکر چھہ توبہ و چھان یتھ پاٹھ یتھ پاٹھ نہ تہہ چھوون سو  
 و چھتھہ ہیکان۔ یتھس دشمن نشہ پزہ سخت، پچاوچ صورت اختیار کران۔ سو پچاوچ صورت تھ چھتہ کنہی  
 ایمانہ تہ تقویٰ و رای إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنِ اَوْلِیَاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بیشک اسہ کتر شیطان دوست تہ  
 رفیق تہن لوکن ہند سم نہ ایمان آنان تہ ہڑہہ کران چھہ کنس خدا بس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهَا اَبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرَنَا بِهَا سمو لو کونہ ایمان اون تہن پیٹھ چھو شیطانہ سہد تسلط تمہ قسمہ کہ  
 یلہ تم لو کہ کا نہہ چھہ کاماہ کران چھہ۔ دنان چھہ اسہ و چھہ مال بڈب پنن ای کران۔ بیہ چھو نعوڈ باللہ  
 خدایہی اسہ یہ کرنگ حکم کورمت۔ چنانچہ تم آس سٹک خانہ کعبن طواف کران کانہہ منع اوسٹھہ کران  
 جواب آس دپان اسہ چھو خدایہ فی امیک حکم کورمت قُلْ فرماو یو کہہ تہ یار رسول اللہ (صلی اللہ علیہ

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ  
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۳۳﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ  
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۴﴾

و سلم) إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بیشک اللہ تعالیٰ چھوٹے ہر گز تجھ کا میں ہند حکم کران۔ یہ کیا ہے چھوٹے  
بکواس کران اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا ہے چھوٹے خدا کے سن کر لاگان تک نہ تو ہے نہ کہ نہ  
خبر ہے چھوٹے۔ کا نہ دلیا ہے چھوٹے۔ قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ فرمایا کہ میان خدا کے چھوٹے حکم کو رمت عدل و  
انصاف۔ پر چھوٹے کامہ منز افرط و تفریط نہ چھوٹے نیک و اَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ یہ  
چھوٹے حکم کو رمت چھوٹے تھا و وسیوڈ پر چھوٹے عبادتس اندر۔ متوجہ رُوز و دلہ سیت خدا کے سن یعنی پو تل یا  
یہ کا نہ چیز مہ آسیون برو چھوٹے زمان وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ آسو تہنزی یا اثر عبادت  
کران۔ تس سیت پین حاجت منگان۔ با خلاص آسو تہنزی فرمانبرداری کران۔ تم چھوٹے پروردگارہ سید  
حکم تم مانو کیا ہے تم فرمانہ تو ہے تم حکمی یات نہ بس۔ بلکہ یہ سوتو ہے کہ دو ہے تم چھوٹے حساب تہ  
کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ چنانچہ چھوٹے پانچہ گوڈہ پنہ قدر تہ سیت تم چھوٹے پیدہ کتر نوہ تھہ پانچہ سپد پوہ تہ  
دوبارہ پیدہ کرنہ ایو۔ تمی وقتہ یہ تو ہے حساب ہینہ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ دنیا س  
اندر ہا و اس جماعتس اللہ تعالیٰ ان و چھوٹے۔ تم دینہ رٹ زور۔ میں جماعتس پیٹھ کرن مقرر گمراہی۔  
تمن ایہ سزا دہہ کیا ہے إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمو کیا رٹ شیطان پن  
دوست تہ رفیق خدا کے تراو چھوٹے۔ یعنی خدا یہ سزا طاعت تہ فرمانبرداری تراو تھہ کر کھہ شیطان ہنزی  
فرمانبرداری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ یہ آس تم خیال تھاوان کہ اس چھوٹے ہدایتس تہ راہ  
راستس پیٹھ بس خیال محض باطل تہ غلط اوس يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ اٰی نبی آدمو

يَبْنِي أَدْمَخَذُوا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي  
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي

یلہ توہمہ معلوم سپد کہ ننگے طواف کرنس چھو خدا بیز ار لہذا آسو تہہ پو شاک لاگان پر تہہ وقتہ۔ یلیہ یلیہ  
کا نہہ عبادت کرنہ خیطرہ مسجدہ منز حاضر سپدان آسو نماز پر نہ خیطرہ یا طواف کرنہ خیطرہ طواف تہ نماز  
مہ آسو پر ان ننگے۔ تہہ پاٹھہ ننگے روزن چھو شیطانہ سزگر ای۔ تہہ پاٹھہ چھو حلال چیز حرام کزن تہ  
شیطانہ سزگر ای **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** لہذا آسو تہہ حلال چیز کھیوان تہ  
چوان مگر مہ آسو اسراف تہ فضول خرچی کران۔ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھونہ راضی اسراف تہ فضول خرچی  
کرہ وینن تہن آیات کرین منز چھو اللہ تعالیٰ رد کران تمن لو کن سم خانہ کعبس ننگے طواف آس  
کران۔ تہہ آس زانان بڈ عبادت بعض لو کہ آس جمعہ کین دوہن کھیون چون تراوان۔ کم کنیوہاہ آس  
کھیوان سمہ سیت شہ کھسُن و سُن باقی روزہ ہا۔ مازیانگیو کھیون آس کلیتاً تراوان۔ تمن سارنی چھو اللہ تعالیٰ  
فرماوان کہ یہ کزن کا نہہ رث کا ماہ چھنہ تقویٰ پر ہیز گاری ہنز کو ماہ چھنہ۔ یہ چھو محض شیطانی وسوسہ۔  
خدا یہ سُنڈ عطا کورمت لباس تہ پو شاک سمہ سیت تہند بدن و لتہہ روزن کس تہندہ بدن شوب و ہہہ یہ  
آسو پر تہہ وقتہ لاگان عبادت کر ہجہ وقتہ چھو زیادے مناسب رت پو شاک لاگن۔ خدا این یہ توہمہ لاگنہ  
خیطرہ یا کھینہ چینہ خیطرہ عطا کورمت چھو تمیک آسو تمتع تہ فائدہ ملان۔ مگر شرط چھو یو کہ اسراف نہ  
آسو ہتہہ روزان۔ اسراف گو حدہ نشہ ڈلن تہ مہ آسو کران۔ تہہ اسرافس چھہ واریاہ صورتہ۔ حلال  
چیز مہ آسو حرام کران۔ ایتہ گو اسرافے یا ہمز خوری تہ پے خوری کرن تہ گو اسرافے۔ یا میل، خواہش  
آسنہ درای کھیون تہ گو اسرافے۔ یا ثبوت، کم کھیون یمہ سیت بدنس تو تھی حاصل سپدہ نہ، یا تم چیز  
کھین، چین تہ استعمال کرن سم مضر صحت آسن شراب ہیو، آفین ہش، ٹمو کہہ ہیو تہ گو اسرافے۔  
بعضی سلف صالحیو فرمویو کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ جمع کر مش ساری طب اوس آہیہ کر تمس آندر۔ سو گو  
” **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** “ پر تہہ قسمہ کین اسراف کرہ وینن چھو اللہ تعالیٰ بیزار۔ امہ پتہ چھو اللہ  
تعالیٰ فرماوان سم لو کہہ لباس و لن، طعام کھیون تہ چون حرام چھہ زانان تمن ہر تہو ہز تہہ۔ **قُلْ مَنْ حَرَّمَ**

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا  
 وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

زَيِّنَةَ اللَّهِ الْبَيِّنَاتِ أَمْ حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 تہ شوب حرام۔ بس اللہ تعالیٰ ان پیدہ کور پنے نین بندن ہندہ خیطرہ۔ بیہ کم شخصن کمر رت رت میٹھ میٹھ  
 تہ پاکیزہ کھیک چیز حرام۔ حرام کرمگ اختیار چھونہ خدا بس وراں کانہہ تہ۔ تم ملیہ حلال کردون تہہ  
 کر زین سولس تہن چیزن حرام بیہ کر تہہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تہہ فرماو یوکھہ یہ  
 زینت، لباس تہ قدرت کھیک تہ چینک چیز چھہ فی الحقیقت بالیمان ہندہ خیطرہ دنیاس اندر خَالِصَةً  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ آسن سمہ نعمہ قیامتک دودہ تہ خالص بالیمان ہندہ خیطرہ۔ اگرچہ کافر تہ چھہ تمونعمتو  
 سیت فائیدہ تھان مگر یہ گو دنیاس اندر۔ آخرتس اندر نیرہ تہن سوڑی کھیومت چیومت نستہ کن  
 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تہہ پاٹھ آس ویشہ ناوتھ بیان کران ساری آیات زانن والین تہ  
 سمجھدار لوگن ہندہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَاللَّهُ وَ الْبَعِيَّ يَغْيِرُ  
 الْحَقِّ تہہ فرماو کھہ یارسول اللہ ای لو کو تہہ ہم چیز پانے بلادلیل حرام زانتھ تراوان چھو کہ۔ بعضی  
 وقتہ چھوہ و نان یم چیز حرام آسن چھو خداینی فرموومت یہ سوڑی چھو اہڑ تہ بہتان۔ تہہ فرماو یوکھ  
 میان پروردگارن کورنہ حرام کانہہ چیز مگر سارے چھہ کامہ نین پاٹھ تہ۔ مثلاً ننگے طواف کرن پوشیدہ  
 پاٹھ تہ مثلاً بدکاری کرن بیہ پر تھہ گنہاہ بیہ کانہہ پیٹھ ناحق ظلم کرن زیادتی کرن وَأَنَّ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ  
 نَزَّلَ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنَّ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حرام کانہہ چیزاہ تہمیدس عبادتس  
 اندر شریک تھاون۔ سمندس شریک آس پیٹھ تم کانہہ دلیلہ نازل کر مر چھنہ۔ بیہ کر تم حرام تہہ  
 کیاہ ٹھہراو تس پیٹھ تھے کتھہ یکن ہنز نہ کانہہ خبراہ چھہ۔ کانہہ علماہ چھو۔ ہر گاہ کانہہ بیہ شہر گدھہ کہہ  
 ہر گے ہم چیز ممنوع تہ ناجائز چھہ تلہ کونہ چھو اللہ تعالیٰ یکن جرمین سزاو ان۔ تمیک جواب چھو کہہ



اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستفتون<sup>(۳۲)</sup> . يبتئ آدم اماً  
 يا تبتئكم رسل منكم يقضون عليكم ايتي فمن اتقى واصلم  
 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون<sup>(۳۳)</sup> . والذين كذبوا بآياتنا  
 واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون<sup>(۳۴)</sup> . فمن  
 اظلم ممن افترى على الله كذباً او كذب بايته<sup>ط</sup> اولئك

ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستفتون<sup>(۳۲)</sup> بيه چھو پر بتھہ اُمتھہ پر بتھہ فردہ  
 سدہ نیر نہ خیر ہ اکھہ وقاہ معین کر نہ اُمت۔ کس یلہ سو معین وقت وات۔ تمہ ساتہ نہ بیکن تم پتھ نیر تھہ  
 نہ بیکن تم برو تھہ گو تھہ تمہ معین وقتہ نشہ یبتئ آدم اماً یا تبتئکم رسل منکم یقضون علیکم ایتی ای  
 نبی آدمو امہ اوس عالم ارواحہ سی اندر توہمہ وومت کہ یلہ توہمہ نشہ واتن پیغمبر تم توہی منزہ اسن تے  
 ہزن تہ بوڑہ ناوان توہمہ میان آیات<sup>ط</sup> فَمِنْ اَتَقٰی وَاَصْلَمَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُونَ کس کس  
 اکھاہ توہمہ اندرہ تم ایاتن انکار کر نہ نشہ پتھ روزہ بیه سنبالہ پن پان ر ژو عملو سیت یعنی پورہ اتباع تہ  
 پیروی کرہ کس چھو نہ آخر تس منز تم لوکن کا نہہ خوفاہ نہ سپدن تم غمگین<sup>ط</sup> وَالَّذِیْنَ کَذَبُوا بِآیَاتِنَا  
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْہَا اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ہُمْ فِیْہَا خٰلِدُونَ تم لو کہ تہہ اندرہ اہز زان تم آیات تہ احکام  
 سان۔ بیه کرن عجز تم آیات قبول تہ تسلیم کر نہ نشہ تے لو کہ اسن نارس اندر واتن وال۔ تھہ  
 نارس منز روزن ہمیشہ فَمِنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِآیَاتِہِ اُولٰٓئِکَ یَتَلٰہُمُ  
 نَصِیْبُہُمْ مِنَ الْکِتٰبِ یلہ توہمہ مجمل پاٹھ معلوم سپد کہ مکرن چھو اہز اس گر فمار سپدن کس بوڑو تفصیل  
 کہ گہہ اکھاہ چھو یو ظالم تم لوکن ہندہ خوتہ سمبو نوو روو معبود بر حقس پیٹھ اپن ایا کھہ اپن تہند آیات، بیه  
 نہ تم فر موومت چھو تہ تس گن۔ بیه تم واقعی طور فر موومت چھو تھہ کوڑ کھہ انکار۔ تم کُن واتہ دنیا س  
 اندر پن حصہ کس تم ہندہ خیرہ لیکھنہ اُمت چھو لوح محفوظس اندر رزقہ منزہ یا عمرہ منزہ دنیا س  
 اندر۔ مگر آخر تس اندر چھو تہندہ خیرہ نصیبتھی مضیبت۔ حَتّٰی اِذَا جَاءَتْہُمْ رُسُلُنَا یَتَوَفَّوْنٰہُمْ

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٥﴾  
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ  
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا  
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَيْرِمَهُمْ

تا اینکه یلہ واآن تمن نشہ ملک سان ہستی قبض روح کرنے خیرہ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم ملائکہ دیکھو و نہیں کت گئے تم تم نوبہ معبود برحق تراوت عبادت آسو کران۔ سہ مصیبت کہ وقتہ کونہ چھہ تم توبہ کامہ یوان قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تم کافر دین تم ساری راوتہ ضائع گئے آسہ نشہ یعنی کہ آئی نہ تم آسہ بکار و شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ آسہ وقتہ دن گواہی پنہ نین پانہ پیٹھ یعنی اقرار کرن زہ تم آس واقعی کافر۔ مگر آسہ وقتہ اقرار کرئس تہ نادم و پیشیمان سپدئس چھونہ کانہ اعتبار قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ فرماویچھہ اترتہن کافر جماژن سیت تم توبہ بروٹھ کڈرے مزہ چھہ جوتہ انسانو آندرہ نار جہنمئس آندر کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا یلہ اتران آسہ جہنمئس منزاکہ اکہ جماعتہا۔ سو آسہ لعنت کران پانسی ہشہ بیس جماژ۔ یعنی تمن آسہ نہ پانہ وان کانہ ہمدردی بلکہ آسن اکہ کس پیچھہ نظرہ و چچان حتیٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تا اینکه یلہ ساری سن جہنمئس آندر قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَيْرِمَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ونہ پتہم جماعت تم تابع روزت گھر کران آس بروٹھہ جماژ ہندہ خیرہ ای سانہ پروردگارہ یسوی کیا ڈال آس کیا زہ تم آس سان زٹھہ۔ پس کر تمن سانہ خوتہ دوگن عذاب نار جہنمئک قَالَ لِجُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویچھہ پر پیچھہ آس چھو دوگن عذاب۔ مگر توبہ چھونہ معلوم۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ فذوقوا

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمُ لِأَخْرَجَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ  
 فذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذَٰلِكَ  
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ  
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ یہ وہ گوڑی جماعت تھو آند رہ پتمس جمائس ہس کیاہ زیادتی بنے یہ تھوہ  
 آسہ پیٹھ۔ کس تہو عذاب تمن تجھہ کاین بدل سمہ تھو کران آسہہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا  
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ پزپاٹ سمولو کو اہوزان سان آیات یہہ کوزکہ تجتر تم  
 آیات قبول کرنہ لغہ ہرگز بن نہ مژاونہ تہندین رُوحن ہندہ خیطرہ آسانن ہند دروازہ بلجمہ کن تم دار تھہ  
 دنہ تہ واتناونہ کل پاتا کس منز۔ بالیمان ہندین رُوحن ہندہ خیطرہ ہن آسانن ہند دروازہ مژورنہ۔ تہند  
 رُوح بن واتناونہ اعلیٰ علیئیس منز۔ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہہ اژن نہ مکر تہ کافر جنئس حَتَّىٰ یَلِجَ  
 الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ یوتان نہ وونٹہ اثرہ سزورہ پہہ کن۔ وونٹہ سُد شرنہ پہہ کن اژن تھہہ پاٹھہ  
 نامکن تہ محال تھو تھہہ پاٹھہ تھو کافر تہ مژر کن ہند جنئس واژن نامکن تہ محال۔ جمل ہجہہ عربی پاٹھہ  
 ونان وٹھہ رزہ تہ تھہہ دراب ونان ہجہہ۔ وٹھہہ رزہ ہند سزورہ پہہ کن اژن تہ تھو محال تہ نامکن تھہہ  
 پاٹھہ تھو کافر تہ مژر کن ہند جنئس منز واژن تہ محال۔ سزورہ ہجہہ زیادہ مناسبت وٹھہہ رزہ سیت پنس  
 سیت مناسبت آسہہ اعتبارہ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ تھہہ پاٹھہ کیاہ موائس سزانا فرمان لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ  
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تہندہ خیطرہ آسہہ جہنمہ کوی وٹھرن۔ یہہ پیٹھکن

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا  
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

تمہ کوئی وزن۔ یعنی پریتھ طرفہ آسہ تم ناری نار۔ آس چھہ تمہن ظالمن یٹھوی سزاوان۔ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ سمو  
 لو کو ایمان اون خدایہ سیدین آیاتن بیہ کریجھہ رثہ عملہ۔ رثہ عملہ کرنہ چھونہ تیوت مشکل کینہہ یہ۔  
 کیا زہ آس چھنہ کانسہ شخص زور کران عمل کرنگ مگر تروی ہن ایشہن سوہیجہ۔ تے لوک چھہ جنس  
 منزواتن وال سم توت واتھہ ہمیشہ روزن تھہ منز۔ بیہ آسن نہ جھنہن ہند پاٹھہ اٹھہ آس سیت بد کلامی  
 کران کیا زہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ اس کڈوتھہند یو دلواندرہ ساری رنجش۔ بیہ آسہ نہ کانسہ  
 بن ہند تھو درجہ تہ تھو درجہ وچھت ناخوش یوان بلکہ آسہ پریتھہ اکھاہ پنے پنے جلیہ خوش تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا یکان آسن تھند یو باغوتہ مکانو منز واریاہ جوہ۔ خوشی۔  
 فرحت تہ سرورہ سیت آسن تم دنان حمد و شایون اس معبود برحقس سم وتھہ ہاؤ آسہ تم کائین کن یمن  
 کائین ہنز مزوریہ جنت چھو۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ آس ہیجہ ہونہ واتھہ تہ وتھہ لیتھہ۔  
 ہر گاہ لے آسہ اللہ تعالیٰ وتھہ ہاؤہہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی سانس پروردگارہ سند پیغمبر  
 آئے آسہ نشہ پڑہ تھہ ہتھہ۔ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ لیکھہ بڈہ  
 آلودنہ۔ ای جنیتو سم جنت آی توہہ وراشتہ پاٹھہ عطا کرنہ۔ تھہ بدل یہ تہہ کران آسوہ و نیاس اندر  
 رثو عملو اندرہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا بیہ یلہ جنتی جنس

رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ تَاوَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ  
 مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ  
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا لِسِيْمَتِهِمْ

منزواتن بین خوشی سے فرحت ظاہر کرنے خیر ہے جہنمیں ہند حسرت سے افسوس زیادہ کرنے خیر ہون تم  
 تمہ سائے جہنمہ کین لوکن کن آلو۔ ای جہنمیہ پڑ پڑ آسہ سیت لیس وعدہ سان پروردگارن کورمت اوس سے  
 ایمانس سے رٹن عملن بدل کرودہ توبہ عطا جنت سے لوب آسہ حق سے پوز **فَهَلْ وَجَدْتُمْ تَاوَعَدَ رَبِّكُمْ**  
**حَقًّا** ای جہنمیہ تمہ ونو کیاہ توبہ سے لبوہ سو عذاب سمیک وعدہ اوسوہ کورمت پروردگارن بین پوز سے  
 واقعی۔ کہ ٹھر سببہ واتنا وودہ نار جہنم آندر۔ کیاہ ون آہوہ بوزنہ بین گمراہی سے خادور سولہ سند فرمان  
 حق سے پوز آسن **قَالُوا نَعَمْ** تم دین جواب واقعی اللہ تعالیٰ سند سے تہندس پیغمبر برحقہ سند فرمان دراؤ  
 بالکل پوز **فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** لیس دہیہ آلو وودہ وناہ آلو۔ سمہ سیت جہنم  
 ہنز خوشی سے مسرت زیادہ سپدہ جہنم ہند حسرت سے افسوس ہر کہ لعنت خدائوسن ظالمین۔ **الَّذِينَ**  
**يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ** تم ظالم تھہ پھر ان آس خدایہ سزہ و تہ  
 نشہ تھند دین قبول کرنے نشہ بلکہ آس ژھانڈان دین حقس منز پنہ خیالہ نیرہ ناگانہ، حج کتھہ۔ گانہ  
 عیابہ۔ تھہ تین اعتراضک موقعہ بیہ ہا۔ بیہ آس تم آخرتس سے انکار کران۔ سمیک نتیجہ تم ازٹانان چھہ  
**وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ** تین دوشون فریقن منز۔ جہنم سے جہنم منز آسہ اکھ ٹھوراہ سے اکھ دیواراہ۔ سمہ  
 ٹھرہ سے دیوارہ سیت جنگل اثر جہنم آس نہ سے جہنمک اثر جہنم کن واتان آسہ نہ۔ امی  
 ٹھریگ سے دیوارک ہیر سم حصہ تھہ چھو ناوا اعراف۔ تمہ پیٹھہ آسہ نظر جہنم پیٹھہ سے جہنم پیٹھہ سے۔  
 بوزنہ آسن یوان تمہ پیٹھہ جنتی سے جہنمی سے **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا لِسِيْمَتِهِمْ** اعرافس پیٹھہ  
 آسن واریاہ لوکھہ سم تین دوشونی جمان جہنم سے جہنم سے ہرزہ ناؤن پنہ پنہ علامتہ سیت۔ سو گوائی  
 کہ جہنم ہند تھہ آسن سفید سے روشن۔ تین آسہ تھہ پیٹھہ نور وسان۔ جہنم ہند تھہ آسن سیاہ سے

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْعُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لِمَا  
 جَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا  
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعْلَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ  
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ أَهْلُوا الَّذِينَ أَدْبَأْتُمْ لَابِنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَةٍ

گفت۔ تم آن آسمے بٹھے بیٹھے تاریکی پشیمان۔ اعراف چھواکھ کو ہااکھ جنتس سے جہنمس منز باگ۔ تیرے سین  
 تھاوند تم لوکھ تمکن ہنزہ نیکی سے بدی برابر آسن تولنس منز لجموہ۔ پولاک واتن تم سے جنتس خدایہ سیدہ  
 فضلہ سیت **وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْعُونَ** سم اعرافس منز روزہ دن  
 لوکھ ون آلودت جنتہ کین لوکن ای جننیو سلام یوینوہ۔ سم آسن نہ ونہ جنتس منز ترامت مگر سخت  
 خواہش سے امید آیکھ تھہ منز واتج۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ تهنز امید پیہ پورہ کرنہ۔ تهنہ  
 خیطرہ سپدہ حکم جنتس منز اژنک **وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لِمَا جَعَلْنَا مَعَ**  
**الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** توپتہ یلہ تهنزہ اچھہ نارہ کین لوکن کن پھر نہ یں یعنی یلہ تمکن اعرافہ کین لوکن  
 جہنمین پیٹھ نظر پیہ۔ خوف کھیتھہ لکن دینہ ای سانہ پروردگارہ آسمہ تھاوتمکن ظالمین سیت عذائس منز  
 شامل **وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعْلَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ**  
**تَسْتَكْبِرُونَ** تھہہ پاٹھہ اعرافہ کیو لوکوچین سیت سلام وکلام گورتھہہ پاٹھہ دن تم آلو جہنمیو منزہ وارہین  
 لوکن تمکن تم پرزہ ناؤن تهنز یو علامتو سیت کہ تم جھہ کافر جہنمی کیا زہ تمکن آسمہ تھہہ پیٹھہ تاریکی پشیمان۔ تمکن  
 دہن ای جہنمیو کنہ تہہ آیو نابکار توہہ ہن جماعت۔ بیہ دیت نہ توہہ کانہہ فاسیدہ عجب و غرورن۔ ہن پان  
 آسوہ تھہہ بوڈوزنہ یوان۔ مسلمان با ایمان آسوہ و چھان چہہ نظرہ۔ پیہنہرن ہنز فرمانبرداری آسن نہ توہہ  
 گوارا گواہان **أَهْلُوا الَّذِينَ أَدْبَأْتُمْ لَابِنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَةٍ** کیا یم جنتس منز واتج عیش کران جھہ تہہ  
 چھا تم تمکن متعلق قسم ہا ہو آسوہ تھہہ ونان کہ تمکن زچورن کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہن رحمت عطا۔ وچھان

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵۱﴾ وَنَادَى  
 أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۵۲﴾ الَّذِينَ  
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ  
 نَسُوا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۳﴾  
 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

چھوہ کمنی بندہ حقہ سید کھم خدایہ سدہ طرف اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ای  
 غریب با ایمانو اژد جنتس یتیرنہ توہم زانہہ کانہہ خوف نہ کانہہ غم آسہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ  
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ یتھہ پاٹھہ جنتیوگرہ کتھہ جہنمین سیت یتھہ پاٹھہ وان ناد  
 جہنمک لو کتھہ جنتہ کین لو کون کتھہ ای جنتیو۔ بوچھہ سیت تہ تریشہ سیت پھہ کو ٹھن زیو پھٹھو۔ تراووناسہ کن  
 کتھہ تریشہ دامہ۔ یادو آسہ کبیرہ ہاہ تمہہ منزہ یہ توہم اللہ تعالیٰ ان کھینہ خیطرہ عطا کورمت پھو۔ قَالُوا إِنَّ  
 اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ جنتی دپھہ اللہ تعالیٰ ان پھہ سم دوٹھوے چیز یعنی جنتک کھین تہ جین حرام  
 کورمت کافرن پیٹھہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تمن کافرن پیٹھہ سمبو  
 دنیاس منزوین ہن ہس قبول کرہن تمن پیٹھہ واجب اوس۔ زومت اوس تماٹھہ تہ گنہاہ۔ بیہ اوس تمن  
 ڈھوکہ دیتمت دنیاچہ زندگی۔ تمن اوس خیال زہ مرئوی پھو نہ زانہہ تمی سببہ اوسکھہ سوزوی  
 مشروومت۔ دینک آس نہ بران کانہہ پرول سواوسکھہ سردست ہس پشت تراومت قَالْيَوْمَ نَسُوا كَمَا كَانُوا  
 نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس تہ مشرووکھہ تم ازکہ ڈوہہ نارس منزوات ناوتھہ  
 ہیمونہ اس تھہد ناوتہ ادہ پھنہ کتھہ کھیاونج تہ چاونج۔ یتھہ پاٹھہ تمو مشروومت اوس ازکہ دہگ ملاقات  
 سمہ دہگ سامانہ تیار نہ کرنہ سیت بہ یتھہ پاٹھہ آس تم سائین آیسن انکار کران وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ  
 فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پزپاٹھہ آسہ واتہ ناوے یہ تمن ہس کتابہ یعنی قرآن

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي  
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ  
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ

مجید۔ ہتھ منز پورہ علمہ سان آسہ تمام چیزن ہنز وضاحت کرے یہ۔ تی کریو واسہ بیان سارنی لوکن  
بوزنانہ خپترہ۔ مگر سنبو پنجاب سپر ذریعہ ہدایت و رحمت تہمی لوکن ہندہ خپترہ سموسنبو زتھہ پڑھہ کرتہ  
ایمان اون۔ سموسنبو باوجود اتمام حجت پڑھہ کمر نہ تہ ایمان اون نہ تہندہ حالہ اندرہ چھو پریڈان کہ ہل  
یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ کہ تم چھنہ ہر اران مگر قرآن مجیدس منز بیان کرنہ آس  
تہ وعدہ تھاونہ آس وعیدس یعنی سزاس یقول الذين نسوه من قبل قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
سمہ دوہہ سوعذاب واقع سپر تک موقعہ واتہ تمہ دوہہ دہن تم لوکھہ سمویہ قیامتک دوہ مشروومت اوس  
مجبور و مضطر ہدیت کہ واقعی سانس پروردگارہ سند پنجہبر آئے ہزہ تھہ ہتھہ مگر آسہ لوگ نہ بوزن  
لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا وون چھانسانا کانہ سفارش کرہ وناہ۔ آسہ کرہ ہا سفارشہ سمہ سیت اس  
نجات کہ ہو اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ سمہ ہواس واپس دنیاس گن سوزنہ تہ کرہ ہواس  
تہ رتھہ عملہ سمہ تمہن چھہ کاین بدل آسہن سمہ اس بروٹھہ کران آس دنیاس اندر۔ اللہ تعالیٰ  
چھو فرماوان کہ سمہ تھہ گیدہ وون چھنہ تمہن کانہہ صور تھہہ نجات قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بیشک تموتراؤ  
پن پان گھر کرنہ سیت تاواؤس تہ نقصاؤس اندر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ گنیہ ضایع تمہہ سارہ  
اپزہ تھہ سمہ تم نورواوان آس کہ آسہ کرن معبودان باطل شفاعت إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پز پاتھہ چھند پروردگار چھو اللہ تعالیٰ تم آسمان تہ زمین پیدہ



النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ  
 بِأَمْرِهِ الْآلَاءُ الْخَلْقِ وَالْأَمْزُتُ تَبْرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾ اَدْعُوا  
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَا تَقْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

کرشین ۶ دوہن برابر مدلس منز نُحْمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سپد مستوی عرش مجیدس پیٹھ تمہ  
 طریقہ ئس تہندس ذات پگس شایان شان ہتھو يُعْشَى الْبَيْتَ النَّهَارِ سَوِي پروردگار جھو راز ہنزہہ تاریکی سیت  
 ولان دُوپہر روشنی يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا تھانڈان جھو دودہ راس تہ رات دوس ول ول، دوشوے ہتھہ اکھہ  
 اکس پتہ یوان تہ گزہان وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان پیدہ  
 آفتاب تہ زون بیہ باقی تارک سمہ طریقہ کہ ساری ہتھہ پنہ ئس رفارس تہ انوار آثارن اندر تابع  
 تہندس کھس۔ تھہ پاتھہ سو پکہ ناویجھہ تھہ پاتھہ ہتھہ پکان۔ ئس تصرف تمن پیٹھ تراون یثہان ہتھو  
 تھہ پیٹھ ہتھہ تم روزان الْآلَاءُ الْخَلْقِ وَالْأَمْزُتُ تَبْرُكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وارہ بوزو کہ پیدہ کرن ہتھہ  
 خاص تہنزی کوہ۔ حکم کرن تہ ہتھہ تہنزی کوہ۔ سیٹھاہ جہ خوبہ ذول ہتھو اللہ تعالیٰ ئس سارنی عالمین  
 ہند پروردگار ہتھو۔ یلہ سو سیٹھاہ خوبی ذول ہتھو توہہ پزہ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ای لوگو کہ تہہہ مگو بہن ساری حاجت پریتھہ وقتہ پنہ ئس پروردگار س عاجزی سان تہ، پو شیدہ  
 پاست تہ۔ ہز پاتھہ سو جھونہ ہند کران تمن تم دُعاءن ہند یو ادو ایو نغہہ حدہ ڈلان ہتھہ یعنی تی مگن یہ نہ  
 شوہہ بیہ تھہ پاتھہ مگن تھہ پاتھہ نہ شوہہ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ تلوتباہی  
 دُنیاہ س اندر شر کہ سیت تہ نافرمانیو سیت تھہ اندر توحید و اطاعتہ سیت تہ پیغبرن ہندہ تبلیغ  
 وارشاہہ سیت امن و امان قائم سپنہ پتہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا خدائس کھو تھو کھو تہ تہندہ  
 رچھ امیدتھاوت تہ آسو کران ئس دعاء نہ عبادت کرت نہ گزہہ مغرور گزہن نہ

اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۱﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ  
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ طَحَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا  
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ  
كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۲﴾  
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ

گوشه نا امید سِدُن کیازه **إِن رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** ہر پاٹھ خدایہ سز رحمت ہتھ  
نزدیک نیکو کارن **وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ** سو پروردگار گو سوی لیس  
باران رحمت تراونہ بروٹھ چھو ہو سوزان ہتھ سو بارشہ ہنز امیدوتھ لوکن ہمدول خوش کرہ **طَحَّىٰ إِذَا  
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ** تا اینکه یلہ تم ہو اٹلان چھ گوین ابرن، پکانوان چھن اس  
سو ابرتھ شہر س کن لیس آہ داوہ ہو کھمت آسان چھو۔ توپتہ چھو سو ابرتھ شہر س پیٹھ رود تراوان۔  
سو شہر چھو سر سبز سدان۔ تمہ شہر کہ مومتہ زمینہ منزہ چھہ کل تہ گاسہ کھسان۔ امی سیت چھو سدان  
ثابت سون کن اسن تہ قدر تہ وول اسن۔ یہ تہ سید ثابت کہ آہ چھہ قدرت مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس  
پیٹھ **فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ہتھ پاٹھ  
چھہ اس کدان تمہ رودہ سیت پر ہتھ قسمک میوہ **كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ہتھ پاٹھ  
کیاہ کڈو کھہ اس مردہ قبر واندزہ زندہ کترتھ۔ اس چھہ پننہ قدر تک آثار بیان کران۔ تاکہ جہہ کمر و تمکن  
تھن اندر غور۔ توپتہ کمر و پڑھہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سدان تہ قیاس۔ سون کلام پاک اوس پننہ جلیہ پر ہتھ  
کانہہ ہندہ خیطرہ کافی۔ یہ اوس مکان کہ پر ہتھ اھ گوشہ توحید ورسالت تہ معادس پڑھہ کرن۔ مگر داہ  
کیا زہ چھنہ ساری پڑھہ کران۔ تمیک وجہ چھو کہ کانہہ چھو قابل آسان تہ کانہہ ناقابل آسان۔ ہتھہ  
پاٹھہ رود چھو ساری زمینس پیٹھ بیوان مگر ساری زمینہ منزہ چھو نہ کنوی نتیجہ نیران **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ  
يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا**

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمٍ عَبْدُ اللَّهِ مَا  
 لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾  
 قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ  
 يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾  
 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

جھو خدا یہ سہرہ فضلہ سیت واریاہ تہ زئوی نیران۔ نئس زمین جھہ تہ خراب جھو آسان تمہہ منزہ جھونہ  
 نیران کینہہ تہ مگر خراب تہ ردی سیتھاہ کم کذالک نصرف الایات لبقوم یشکرون تہ تہ باہہ جہہ اس  
 پنہ دلیلہ پھیر واریہو طریقو بیان کران قدردان لوکن ہندہ خیطرہ لقد ارسنا نوحا الی قومہ  
 فقال لبقوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیرہ اتنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم  
 فرمودتہو پنہ نس قومس۔ اکی میانہ قومہ۔ جہہ کمر و عبادت صرف معبود برحقہ سنز۔ تس ورا ی جھونہ  
 کانہہ تہ تہندہ خیطرہ معبود آس قائل۔ سخن کنہ وین شکل جہہ پرستش کران جھوہ۔ تمہہ نشہ روزو  
 جہہ۔ اتنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ہر گاہ تہ جہزی یاثر عبادت کمر و میہ جھو اندیشہ  
 تہندہ خیطرہ کہ جہہ مانہو شرکہ تہ بت پرستی سبہ بڈہ و بکس یعنی قیامتہ کس عذابس یا طوفانس گر فثار  
 قال الملأمن قومہ اتنا لَنَرْبِكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ وندہ لکس قومک زٹھہ اکی نوح اسہ جھو کہہ ژہ بوزنہ  
 یوان تہہ گمراہی تہ غلطی اندر بتلا۔ کیا زہ تہہ جھوہ توحیدج تعلیم کران۔ بیہ جھوہ تہہ عذابس کھوژہ  
 نادان قال یقوم لیس بی ضلالہ و لکینی رسول مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت نوحن دوہ جھہ جواب  
 اکی میانہ قومہ مہ جھہ کانہہ گمراہی تہ غلطی۔ لیکن چونکہ بوچھس پیغمبر۔ رب العالمین سہہ طرفہ تمی  
 جھومہ حکم فرمودتہ ابلغکم رسالت ربی و انصح لکم و اعلم من اللہ ما لا تعلمون بوچھوس توبہہ نشہ  
 پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات و اتادان۔ بیہ جھوس بوپن فرض منصبی ادا کران۔ میہ جھونہ تھہ اندر

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنِبْنَاهُ  
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ  
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۹﴾

کانه ذاتی غرضاه۔ بیہ چھوس تہندہ خطرہ رت یژھان۔ کیا زہ توحید پائلس منز چھو تہندوی فایدہ تہ  
نفع۔ بیہ ئیس توبہ بدہ ذہبکہ عذابک تعجب چھو سپدان یہ ہتھ تہنز سخت غلطی کیا زہ بوہ چھوس زانان تم  
چیز اللہ تعالیٰ اس نشہ تم نہ تہہ زانان چھوہ۔ مہ چھو خدا این فر موومت کہ ئیس خدا ئیس شریک ٹھرا وہ  
تسدرس ٹیوی آسس پڑھہ کرہ نہ تس کرہ بو عذاب اَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ  
مِّنكُمْ کیاہ تہہ چھوہ یہ تھہ عجایب زانان کہ توبہ نشہ واژ تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ توبہ اندرہ  
اکس شخصہ سندہ ذریعہ وعظ و نصیحت تھہ۔ سو نصیحت تھہ گینہ تہہ کہ عبادت کمر و معبود برحقہ سنزی یا ژ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تھہ سو شخص توبہ خدایہ سندہ حئمہ ، تہندہ عذابہ نشہ نیم  
گرہ۔ بیہ تھہ تہندہ نیم کرنہ سیت تہہ کھوژو۔ شرک و کفرہ نشہ پتھ روز ویمہ سیت توبہ پیٹھ رحم ایہ کرنہ  
فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ مگر ایژ فمائش کمر تھہ زون تمو حضرت نوح (نحوذ باللہ)  
اپزبور، بدستور رُود تم انکار کران۔ ئیس دیت اسہ حضرت نوحس بیہ تم تمکن سیت ناوہ اندر کھت نجات  
طوفانجہ عذابہ نشہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بیہ پھاؤ اسہ طوفانہ کس  
عذابس اندر تم لوکھہ سمو لہز زان سان آیات۔ بیشک آس تم انین ہنز جماعت تمکن نہ خدایہ سندہ  
وحدایتنگ نشانہ بوزے اسہ یوان وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا بیہ سوز اسہ قوم عادس حضرت ہود علیہ  
السلام پیغمبر۔ ئیس تہندہ برادری یا وطنی یوی اوس قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا  
تَتَّقُونَ تمو فر موو تمکن ای میاہ قومہ عبادت کرو صرف معبود برحق چھوہ نہ توبہ کا نہ معبود تس

قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾ اٰبَلِغْتُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَاِنَّا لَكُم نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّزَادَكُمْ

ورای۔ بت پرستی تراوو۔ کیا تھے جزم عظیم شرک آنتھہ چھوہ ناتھہ کھوژان خدایہ سندس عذابس قال  
 الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ قومہ  
 کیوز ٹھیو دو پھکھ جواب اسہ چھوہ بوزنہ یوان تھہ کم عقل۔ تھہ چھوہ اسہ توحید چ تعلیم کران۔ توحید  
 پھکھ ناوان تہ عذابس کھوژہ ناوان۔ بیہ چھہ اس زانان تھہ چھوہ اپز تہ خلاف واضح تھہ ونہ ونیواندرہ۔  
 یعنی (نعوذ باللہ) نہ چھو توحیدک مسئلہ صحیح نہ چھو خدایہ سندہ طرفہ عذاب نازل سدن صحیح قَالَ يَقُومُ  
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ تمو فرموو بھکھ اکی قوم میانہ عقلہ منزئئہ قسمہ کی چھنہ وَ لٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ لیکن بو چھوس بیغیر توبہ کن پروردگار عالیئہ سندہ طرفہ۔ تمی چھوس بو سوزمت توبہ  
 توحید چ تعلیم کرنہ خیطرہ بیہ عذابک نیم کرنہ خیطرہ بو چھوس پئن فرض منصبی ادا کران اٰبَلِغْتُمْ  
 رِسٰلَتِ رَبِّيْ بو چھوس توبہ نشہ واتناوان پروردگار سند پیغامات تہ احکام وَاِنَّا لَكُم نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ  
 تھہ تھہ اندر چھوس بو تھند خیر خواہ، بے غرض تہ قابل اطمینان کپازہ توحید و ایمانس اندر چھو بوڈ  
 فائدہ تھندی خیطرہ اَوْ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کیا تھہ چھوہ  
 بیہ عجیب تھہہ زانان تھہ توبہ نشہ کیا واژو عظ و نصیح تھہ تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ توبہ اندرہ۔ تھندی  
 جلسہ اس شخصہ سندہ ذریعہ۔ لیس توبہ ہی ہبو بشر تہ انسان چھو۔ تھہ سو شخص توبہ وارہ پاٹھہ خدایہ سندہ  
 عذابہ نشہ نیم کرہ۔ یہ چھنہ کئی صحیح تھہ نبوتس تہ بشریتس چھاپانہ وان کہنہ اختلافہ وَاذْكُرُوْا

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۸﴾  
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ  
 آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۶۹﴾  
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ  
 أَتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا  
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّن

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۗ اکی میانہ قومہ بیہ پاوتو تہہ ژیتس کہ اللہ تعالیٰ ان کس احسان کور  
 تومہ نسبت تہہ کر نوہ زتھہ زمیس اندر قوم نوحہ پتہ ۖ وَادْكُرُوا فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ بیہ گور نوہ تہہ  
 جسمہ کس ڈول ڈاکس اندر بر ژر۔ قوت تہ طانت گور نوہ عطا ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ  
 ژیتس پاو و خدایہ سنزہ نعمو تمسنزہ نعمو ژیتس پاوتھہ کرو تہنز فرمانبر داری۔ دیوہ تہہ رستگار تہ کامیاب  
 سپو ۖ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ تہہ لگ تم واہ کیاہ تہہ  
 آوہ اسہ نشہ سمہ تھہ خیطر کہ اس کیا گرو کتسی خدایس عبادت۔ باقی یمن پوتیلین ہنز عبادت سان مال  
 بڈبب کران اس تم کیا تراوڈھ اس۔ اس تہ گرونہ کینہہ ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ  
 ۖ تہ سانس نہ مانس پوٹھہ سمہ عذاب تہہ اسہ نیم کران چھوہ سو عذاب و اتا و اسہ نشہ۔ ہر گاہ تہہ پوزونہ  
 ون چھوہ ۖ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ حضرت ہودن فرموڈ کہ تہزہ  
 سرکشی ہنز بلکہ بیہ حالت چھہ۔ تھقین وون سپد تومہ پوٹھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ عذاب نازل بیہ  
 بیزاری ۖ أَتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ کیاہ  
 تہہ چھوہ مہ سیت ہر تہ قصیہ لاگان۔ کیزون پوتیلین ہندین ناوان پوٹھہ سم ناوبے حقیقت چھہ پانے تومہ  
 یا تہند یو مال پوڈ بھو ٹھہراومت چھہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چھہ نہ کانہہ دلیلہا تہندہ معبود آج نازل کر مژ۔  
 تومہ نشہ نہ چھہ پنہ دعویٰ اچ دلیل۔ نہ تھو تومہ نشہ میانہ دلیلہ ہند جواب۔ کس ہر تہ قصیہ الاکتب کیاہ

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۴۱﴾ فَأَجْبِدْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ  
 قَطَعْنَادَ إِبرَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾  
 وَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا  
 لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ  
 هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي

فائدہ مٹھو۔ لہذا کروہر تہ قضیہ ختم فَاَنْتَظِرُوا اِلَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَان یبیار و ہجہ عذابس۔  
 نوبہ مٹھوس توبی سیت پیارہ ونیو آندرہ۔ کس سوز اللہ تعالیٰ ان تمن پیٹھ تیز داؤسم تم ساری گال  
 فَأَجْبِدْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا کس دیت آسہ نجات حضرت ہودس علیہ السلام بیہ تمن  
 سم کس سیت آس با ایمانو آندرہ پنہ رحمتہ سیت وَقَطَعْنَادَ اِبْرَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا  
 مُؤْمِنِينَ بیہ ٹرٹ آسہ مول تمن لوگن ہمد سمو اہر زان سان آیات بیہ آسہ تم بوجہ سخت قسوات قلبی  
 اسمان انہ ونیو آندرہ۔ ہلاک تہ نے گروہہ من توتہ انہ من نہ ایمان۔ لہذا کر آسہ تم ممتقنائے حکمت تباہ و  
 برباد وَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ بیہ سوز آسہ قوم  
 شمودس کن جہند یوی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، تمو فر موو تمن اے قوم عبادتہ کرو فقط اللہ تعالیٰ  
 سنز کس ورا ی مٹھوہ نہ توبہ کا نہ اکھاہ معبود آسلس قابل تہ سزاوار۔ تمو کور حضرت صالحس اکہ خاص  
 مبرک در خواست۔ ڈوکھ بیمہ خاص پلہ منزہ گروہہ اکھ وال ون ووشین نیرن۔ چنانچہ حضرت صالحہ  
 سندہ دُعا سیت سُد ہونہ در خواست منظور۔ سو پل پھوٹ۔ تمہ منزہ در لیر اکھ چر دار و ووشیاہ  
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ یہ کیاہ مٹھہ بیہ ووشن خدایہ سنز۔  
 یوسہ آسہ پلہ منزہ در لیر ہمزہ خواہشہ موجب۔ یہ آیہ جہندہ خیطرہ اکھ بڈ کیلاہ بناو تھ ظاہر کرنہ۔ امی  
 آس ناو تھاونہ نَاقَةُ اللَّهِ خدایہ سنز ووشن کیا زہ بیہ مٹھہ ہمزہ قدر تچ بڈ لیل میانہ پیغمبر آج تہ مٹھہ بیہ  
 بڈ لیل لہذا چھہ توبہ پیٹھہ آسندہ حقوق مٹھہ قَدْ رُوها تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ

أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوًى ۖ فَيَاخُذْكُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ۝۴۱  
 وَادْكُرُوا الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  
 فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُسُونَ  
 الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ۝۴۲ قَالَ الْمَلَائِكَةُ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُنَّ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صُلْحًا

نہس تراویون یہ، ہفتہ یہ اڑہ یور پھیر تھیکھیہ گھاسہ تہ پھل خدایہ سندس زمینس پوٹھ۔ تھپھ پٹھہ چہیہ پنہ  
 وارہ ہندہ دہہہ تریش، خبردار ہتھہ اس آتھہ لاگو کانہہ تکلیف واتانہہ خیلرہ فَيَاخُذْكُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ  
 تلہ رٹہ توہہ خدایہ سُنڈر عذاب ہر گاہ جہہ اس کھینس چہینس منز مزاحمت کروا تکلیف واتا نو وَاذْكُرُوا  
 اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بیہ پاووجہہ ژینس سو وقت سمہہ وقتہ اللہ تعالیٰ ان توہہ زمینس پوٹھ  
 بسہ تک خلیفہ بناو نوہ قوم عا دس ہتہ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا بیہ  
 کر نوہ جہہ آباد زمین پٹھہ سمہہ طریقہ کہ جہہ جھوہ بناوان پاتھلس، میدانی زمینس پٹھہ جہہ جہہ کرہ تہ مند  
 ورہ۔ تمن منز جھوہ بسان ریتہ کالس وَتَنْجُسُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا بیہ جھوہ کوہن پٹھہ تہ گور گور کرہ تہ  
 کھہ بناوان تمن منز جھوہ روزان وندس فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ نہس ژینس پاووجہہ سزہ نچو وَا  
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شر کہ تہ گھرہ سیت مہ آسور بادی کرہ ون زمینس اندر قَالَ الْمَلَائِكَةُ  
 اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ دپنہ لگ زہہ زہہہ لکھ تہندہ قومہ اندرہ سمو حکمر گور ایمان آنہہ نچہ  
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُنَّ مِنْهُمْ اَمَنْ مِنْهُمْ تمن لوکن سمو تمنو منزہ غریب تہ کمزور آتھہ ایمان اوس  
 اودمت اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صُلْحًا مُرْسَلًا کیا جہہ جھوہ یقین کران تہ زانان کہ حضرت صالح جھوہ پیغمبر مین  
 ژینہ پنہ نہس خدایہ سندہ طرفہ قَالَ الْاِنَّا بِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ جمودو پچھ وقتی اس جھہ تھہ ساری  
 یہ ہتھ تم سوزنہ آی پورہ پڑھ کرہ ون قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالذِّمَى اَمْنًا



مُرْسَلٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾  
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ  
 كَافِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَعَقَرُوا وَالتَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ  
 قَالُوا يُصْلِحُ آئِنًا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۷﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جُثَيِّنَ ﴿۵۸﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

یہ کفر و کفر و دوسرے کفر اس جہم انکار کران تھے تھے توہم پڑھ کر وہ۔ غرض تمہونہ کر پڑھ  
 حضرت صالحؑ نے کہ وہ دوتنہ ہند حقوق پورہ فَعَقَرُوا وَالتَّاقَةَ چنانچہ سووون مار تموز نگہ تھے  
 وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یہ کہہ سر کشی پنہ نس پروردگارہ سُنُّكُمْ مانہ نشہ و قَالُوا يُصْلِحُ آئِنًا  
 بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ لگ بکمال بے باکی تہ بے پروائی نہنہ کی صلح و  
 اتنا و اسے نس سوعذاب سمیک جہہ اسہ نیم کران آسوہ، تھے اسہ کھوڑہ نادان آسوہ چھوے جہہ پزپاٹ  
 پیغمبر و آندہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّنَ نس رٹ تم سخت بٹل۔  
 بیس آہ کر تمس منز چھو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تم رٹ سخت کریجہ۔ لہذا سپد تمن دوشوے۔  
 آملجہ طرفہ گیکھ سخت کریجہ زبردست کریجہ پتہ آکھ بوئیل۔ نس پے تم تھہ کن و تھہ پنہ نین گران  
 اندر زمینس پیٹھ (پھر ٹھہ گڑھتہ مود) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي  
 وَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ یلہ قوم نمود عذابہ سیت تباہ گو۔ حضرت صالحؑ دراو تمن  
 نشہ توپتہ فرمودیکھ ای میاہ قومہ تھین مہ و اتنا و وہ توہم نشہ پنہ نس پروردگارہ سند پیغام تھہ پیٹھ عمل  
 کرنہ سیت توہم بڈا میابی سپدہ ہا۔ یہہ کرے یہہ میہ توہم نصیحت تہ خیر خواہی گمہ گمہ طریقہ تاریوموہ  
 توہم فخرہ، لیکن افسوس کہ جہہ آسوہ نہ پنہ نین خیر خواہن تہ نصیحت کرہ و نین پسنہی کران۔ و غلط تہ  
 نصیحت بوڑن اوس توہم کھران۔ لہذا یلہ توہم میون بوڑوہ نہ، میانین نصیحتن پیٹھ عمل کر وہ نہ توے گوہ

رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾  
 وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ  
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ  
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾  
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ  
 مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

عذاب اس گرقار۔ یہ فرمود تم نے حضرت صالحؑ کو ہلاک کر دینا پتہ۔ تم زندہ تصور کر رہے ہو بطور تاسف  
 یہ تہہ پاتھ سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود بد رہ کین کافر ن ہلاک کر دیتے تھے۔ امہ اندرہ اوس  
 عرض یکن لوکن یعنی پتہ اودہ وئین یہ تہہ واتاؤن کہ لوکن پزہ مخلص خیر خواہن ہنز تہہ ضرور مانن۔ تم  
 لوکہ پنے نس معتبر خیر خواہہ سنز نصیحت مانان آسن نہ تم سیت تہ سپدہ سؤی معاملہ یس قوم شمودس  
 سیت سڈ۔ (العیاذ باللہ الی نجات) وَ لَوْ طَإِذْ بے سوز اسہ حضرت لوطؑ کیسوں بسین کن پیغیر اذ قال  
 لِقَوْمِهِ یلہ تمو فرمود پنے نس قومس یعنی انس اتاتون الفاحشہ کیا تہہ چھوہ سو تہہ کوم کران  
 مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ یوسہ نہ توہہ برو تہہ کر مہ چھہ کانہہ اک شخص عالیو اندرہ  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ہزیات تہہ چھوہ پن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ  
 خیطرہ زنانہ تراوت مردن نشہ یوان ییہ چھہ سو تہہ کوم یوسہ نہ توہہ برو تہہ کانہہ کر مڑ چھہ۔ یہ پیچہ  
 کوم کر نس اندر چھوہ نہ توہہ کسک دھوکہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ چھوہ تہہ اتہ اندر انسانیت کہ  
 حده نشہ سیٹھاہ ڈلہ ون وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ  
 إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ تہند قومس وون نہ تم اتہ تہہ کانہہ معقول جواباہ۔ مگر پانہ وان لگ ونبہ  
 تم (یعنی حضرت لوطؑ تہ بہ تہنز جماعت) کڈ یو کہ پنے شہرہ منزہ تم لو کہ چھہ سیٹھاہ شونت تم چھہ پاک  
 و صاف روزن یشان۔ اسہ چھہ تم زانان گندہ لو کہ۔ لہذا صاف و پاک لوکن کتہ ہزہ گندہ تہ تا صاف

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ وَأَمْطَرْنَا  
 عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُكَيْفَ ۚ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۗ  
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
 مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ  
 رَبِّكُمْ ۚ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ

لوکن سیت روزن۔ یہ آس و نان تم ٹھٹھہ پاٹھ تہ ٹسنہ پاٹھ اوت پیٹھ یلہ واژ ٹوبت آسہ کور نازل آتھ  
 قوس پیٹھ عذاب فآجیندہ و اہلہ الا امراتہ کانت من الغابرین کس دیت آسہ نجات تمہ  
 عذابہ نشہ حضرت لوطس بیہ تہندین متعلقن، اہل و عیالس بیہ بایمان مگر نہ تہنزہ آسہ سوروز ایمان نہ  
 آنہ موکھ تھہ قوس سیت تھن پیٹھ عذاب نازل سپد و امطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان  
 عاقبۃ المجرمین آسہ ترو تھن پیٹھ بدلے قسمک روداہ۔ یعنی کنہ تراویجھ رو دک پاٹھ کس وچھ تہ  
 اکی وچھہ ونہ کہ کیاہ سپد انجام تھن نافرمان تہند۔ گر غورہ سان وچھکھہ تعجب کرکھ بیہ تری فخرہ وارہ کہ  
 خدایہ سزہ نافرمانی ہند انجام کیاہ چھو آسان و ایل مڈین آخاھم شعیبًا قال یقوم اعبدوا اللہ  
 ما لکم من الہ غیرہ بیہ سوز آسہ شہر مدین کین لوکن کن تھو ند بوی حضرت شعیب پیغمبر۔ تمہو  
 فر موو پتہ نس قوس اکی میانہ قومہ عبادت کرو تھہ فقط معبود برحقہ سز، کیاہہ چھونہ توہہ کانہ معبود  
 اہ نس و رای قڈ جآء تکم بیدنہ من ربکم تحقیق واژ توہہ نشہ ن دلیل میانس پیغمبر آسہس پیٹھ  
 تہندس پروردگارہ سہدہ طرفہ۔ لہذا مانو اکام شرعین منز میان تھہ تہ میون ون فأوفوا الکیل  
 و المیزان نو چھسوہ و نان کہ تھہ آسہو پور پور بینان تہ پور پور تھلان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
 بیہ مہ آسہو لوکن ہندین چیزن اندر نقصان تہ کمی کران، چھونہ راوان۔ تھہہ پاٹھ توہہ عادت چھوہ  
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ کرو ز مینس اندر شر کہ تہ گھرہ سیت، بیہ لوکن

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَإِذْ كُنْتُمْ  
قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا  
بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

چھوں نے ناقص کنندہ سیت تباہی سے بربادی۔ آتھ ز میس اندر حضرات انبیاء ہندہ واسطہ توحیدہ سیت،  
حقوق العباد اندر۔ تولس سے میس منز۔ عدل و انصاف کرنے سیت اصلاح درستی سپدہ پتہ ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بودنان چھوہ یہ چھو تہندہ خیرہ سیٹھاہ جان سے بہتر دنیاس  
اندرتہ سے آخرتس اندرتہ۔ ہرگاہ تہہ میانس ونہ نس پڑھہ کروتہ تمہہ موجب عمل کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا بیہ مہ  
آسہ ونہ سے سرگن پیٹھہ بہان لوکن خوف وہی کرہہ خیرہ۔ بیہ تم خداس پڑھہ کرہ ون چھہ تم تہزہ ونہ  
نہہ چھہ رٹھہ خیرہ۔ بیہ خدایہ سزہ ونہ اندر کتہ نتہ کتہہ طریقہ، پڑ، خرابی سے شک و شبہ پیدہ کرہ نہ خیرہ  
وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ بیہ پاوونہہ ز میس پن حال یلہ تہہ تعدادس یامال و  
دولتس منز کم آسہ۔ نس کرہہ خداسن مہربانی تہندس تعدادس اندر یامال و دولتس اندر کر کوہ زیادتی  
وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ بیہ وچھو مفیدن سمو کھر و نافرمانی سیت تباہی کر  
تہند انجام کیاہ سپدہ تولا کہ سمو خداس سے تہندین بیہن انکار کور تہہ بروٹھ۔ قوم نوح قوم عاد و ثمود  
و غیرہ تم تھہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان گالت سے تباہ کرمت۔ تھہ پاٹھ چھو اندیشہ کہ تہہ پیٹھہ سے ماسپدہ خدایہ  
سندہ طرفہ عذاب نازل وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ  
لَّمْ يُؤْمِنُوا وون ہرگاہ تہہ زہ جماژگڑھن۔ اکھ جماعت انہ ایمان تھہ یہ بویتھہ آس بیا کہ جماعت

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۷﴾  
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ  
 يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 قَالَ أَوْلَوْكُنَّا كَرِهِينَ ﴿۸۸﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا  
 فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا  
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

کہہ رہے تھے پڑھ۔ یعنی منفقہ طور پر کہہ رہے تھے ساری تھ پڑھ یہ بویہ آس قاصیروا حتیٰ یحکم  
 اللہ بیننا وهو خیر الحاکمین جس ٹھہر دیوتاں پانہ اللہ تعالیٰ اسے منز فیصلہ کرے۔ پزیراں دین  
 نجات پزیراں کہ ہلاک تہ تباہ عذابہ سیت۔ سوی چھوڑت حکم کرہوں۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ  
 اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 کیوز ٹھیو، سمو یجبر کور ایمان آنہ نشہ، تمو یلیہ تھند کلام بوز، تم لگ فہنہ اکی شعیب یاد تھوزہ آس  
 کڈو تھ ژہ بیہ سمو ژہ پڑھ کری پنہ شہرہ آندرہ۔ تے تہہ وانس بیہ سانس دینس گن پھیرو۔ قَالَ أَوْلَوْكُنَّا  
 كَرِهِينَ حضرت شعیب فر موو کہ گیاہ ہر گاہ آس تھندہ دینہ نشہ، ناخوش متفر، تہ بیزاریہ آسو توتہ  
 چھوہ تہہ یرھان سون تھہ دینس گن پھیرو۔ تہ بیجہ نہ بتھہ زانہہ کیا زہ آسہ نشہ پھہ پونختہ دلیل تھند دین  
 باطل آس پھیہ تہ سون دین حق تہ پوز آس پھیہ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا فِي مِلَّتِكُمْ  
 بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا ہر گاہ بالفرض آس تھندس دینس گن پھیرو تھہ صور تھہ منز نور آس خدائس  
 پھیہ بوزڈا ہزاہ، کیا زہ باطل دینس پوزونہ سیتی چھو لازم یوان خدائس پھیہ افتراء تہ لہز نوراون و سن چھنہ  
 تھی تھہ منزبہ داخل سڈن۔ خصوصاً یلیہ اللہ تعالیٰ ان آسہ تمہ باطل دینہ نشہ نجات دیت و ما یكون  
 لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سان تھہ بیجہ نہ تھہ تہ زانہہ کہ آس کیا پھیرو تھندس دینس  
 گن مگرے اللہ تعالیٰ اکی یرھہ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا واتھہ چھو سون پروردگار پر تھہ چیزس

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ ﴿۹۸﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ  
شُعَيْبًا أَنْتُمْ إِذِ الْخُسُوفِ ﴿۹۹﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا  
فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۱۰۰﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا  
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسُوفِيِّنَ ﴿۱۰۱﴾ فَتَوَلَّى  
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

علمہ سیت۔ تس ہجھ پر تھ چیز چ پور خبر علی اللہ تو کَلْنَا خدایہ سی پیٹھ کور اسہ تو کَل۔ تس ہجھ  
مَنکَان اَس رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اکی سانہ پروردگارہ نیای انزراؤ  
اسہ تہ سانس قومس منز۔ ژئی وھوک رت فیصلہ کرہ ون۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بیہ  
دو پ تہند یوز ھئیہ سَمَوَانکار گور تہندہ قومہ آندرہ بَنَن کافر ن اُن۔ بِنھنہ تمن حضرت شعیبہ سُنَدہ موثر  
تقریرہ سیت کینہہ اثر سپدہ لَیَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا أَنْتُمْ إِذِ الْخُسُوفِ ہر گاہ تہہ حضرت شعیبین پیروی  
کرو پز پائ تلہ سپد و تہہ نقصان تلہ و نیو آندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ہس  
رٹ تم سخت بطل سمہ سیت سپد تم گرن آندر پھر ہ سیت بھ کُن و س پیٹھ مُردہ۔ ہس بیٹس اوس سُوگو  
تتھی روز تھ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا سَمَو ا پوز اتھ انکار کور حضرت شعیبس، زن نہ  
تم روزانی آس تھ شہرس آندر۔ تم آس دپان با ایمان آس کدوہہ سمہ شہرہ آندرہ۔ تم سپد پانہ ناؤد  
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخُسُوفِيِّنَ سَمَو ا پوز اتھ انکار کور حضرت شعیبس۔ تھے آس تاوان  
ز دُو آندرہ۔ تم آس و نان با ایمان تو بہ سپدہ نقصان پر تھ ر نگہ تمنی سپد پائس سخت نقصان تہ تاوان  
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ہس  
دراؤ تمن نشہ حضرت شعیب علیہ السلام تو پتہ فر موون تمن گن افسوس کر تھ زن تم زندے آس،  
اکی قوم تھیق مہ و اتنا تو بہر پنے ہس پروردگارہ سند پیغامات، بیہ کر مہ تو بہر نصحت، وون تھہ پاٹھ کھیمہ

فَكَيْفَ اتَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ  
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۴﴾  
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ  
آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾  
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا

بوغم کافر لوکن ہمدس ہلاک گوئس پیٹھ۔ یٹھ وڈو کہ تیتھ لوٹھہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا  
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ یہ سوزنہ آسہ تمئن شہرن کن تم ذکر کرنہ آئے،  
بیہ بنو شہر و اندرہ عنہ شہر س کن، کانہہ پیغمبرہ، سوزنہ او مگر متہ کیوںسن والیو یلہ تس پیغمبر سنزنا فرمانی  
کر، آسہ کر بتلا تم تنگی تہ بیماری سیت، یٹھ تم نافرمانی نیشہ باز یٹھ، عاجزی سان آسہ کن رجو ع تہ توبہ  
کرن، نافرمانی کرنہ نیشہ رُوژن ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا یلہ تم نافرمانی نیشہ  
میتوت کر تھ تہ باز آئی نہ تو پتہ بد لو و آسہ تمئن سختی ہنزہ جلیہ آسانی، یوتان تمئن دولت تہ صحت بیہ  
اولادن منز خوف ترقی سہز۔ سہمز ذریاتھہ واریا نہوے یہ۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ غلط فہمی  
سببہ لگ تہمہ ساتہ و منہ کہ سختی تہ آسانی یٹھنہ کنہ نافرمانی یا فرمانبرداری ہند نتیجہ۔ تم چیز چھہ بروٹھ پیٹھ  
آمت یٹھ پاتھ سائین مالین بد بین تہ آس مجہ وقتہ سختی آسان مجہ وقتہ آسانی ورنہ اس چھہ نافرمانی بدستور  
کران خوش حالی کیازہ آسہ ہاتلہ آسہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کس رٹ آسہ تم چھہ تہ  
مچھہ۔ تمئن آسی نہ خچر عذابچہ پنچ آسہ رٹ تم محض تہندہ مگرہ تہ نافرمانی سببہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا  
وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہر گاہ تمئن شہرن تہ بسٹین ہند لو کہ خدا کس  
ایمان آنتھ تہ پڑھ کر تھ پیغمبرن ہنزہ محالفتہ نیشہ یٹھ روزہ کن تہ پر ہیز گاری ہنزہ و تھ اختیار کرہ کن تلہ  
موراوہ ہو آس تمئن پیٹھ آسمان وزینہ کن برکتن ہند دروازہ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ  
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ  
يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ  
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ  
لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ  
أَصْبَنَهُمُ بِدُونِهِمْ وَأَنْطَبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

يَكْسِبُونَ لیکن تمہو رُوزن سُون پیغمبر اہل، تسز کر کہ مخالفت ہل رٹ اسہ تم تہمز و تموتھہ عملوسبہ  
 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا تم شرن ہند لو کہ یم توہہ انکار  
 کران تہ نغوذ باللہ اپزور زمان چھہ تم چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نغہ کہ تمین کیا ولتہ سُون عذاب ہجھہ  
 تہ مچھہ رات منزی سمہ ساتہ تم شوکھہ آسن آو امین اهل القرای ان یاتیتھہم باسنا ضحی  
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا تم شرن ہند لو کہ چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نغہ کہ سُون عذاب کیا پیہہ واتھہ  
 تمین نغہہ کاجہہ وقتہ سمہ ساتہ تم گندس سیت آسن مشغول أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ  
 إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ خدیہ سزہ آزمایشہ نغہہ روزن نہ سوکھس منز مگر تھے لو کہ تم دون عالمن ہند  
 تاوان زد آسن۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا کیا سموند کورہ واقعاتو  
 ہاوناتھہ تمین لوکن تم سمہ زینک و ارث بنیت چھہ امہ کن بروٹھین لوکن ہندہ گگنہ پتہ یعنی یم  
 موجودہ و قس منز اتھ ز مینس پیٹھہ بسان چھہ توپتہ چھہ خداوندی احکامن ہنزنا فرمانی کران کہ ان  
 لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمُ بِدُونِهِمْ وَأَنْطَبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَسْمَعُونَ کہ ہر گاہ آس یضو آس کرو کہ تم تہ  
 گرفتار عذابس نا فرمانی کرنہ سبہہ بروٹھین نا فرمان امتن ہند پاٹھہ۔ واقعی آس تم تھہ واقعات سموسیت  
 ہزہ ہا تمین عبرت رن تہ سبق حاصل کرن۔ مگر اسہ چھہ مبر کر مژ تھندین دلن پیٹھہ ہس چھہہ ہیکان تم  
 بوڑتھے پڑتھہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا تمین مذکورہ کیون شرن ہند کیونہ مختصر قصہ



تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ  
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا  
لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١١١﴾  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٢﴾

چھہ اُس بیان کران توبہ یارسول اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھیں آئی تین سارنی  
نہ تہندہ پیغمبر مُجْرِبَات تہ نہہ دلیلہ ہیبت مگر تہندہ شرارت تہ ہنہ دھرمی ہنہ کیفیت آس کہہ  
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ نہس اون نہ تموا ایمان تھہ تھہ تھہ تموا انکار کورمت اوس گوڈہ  
امہ برو تھہ۔ بلکہ روڈ تھہ انکار س پیٹھ بدستور کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ تھہ پانھ کیا  
چھو اللہ تعالیٰ کافرن ہندین دکن پیٹھ مہر کران۔ تہند دل خیرہ نشہ بند کران۔ تموا منزہ بعضی لکھہ آس  
مضیبتہ کہہ وقتہ عمد کران ہر گاہ یہ مضیبت اسہ نشہ دور گزہہ اس انوا ایمان وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ  
عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مگر اسہ لب نہ تموا اندرہ اکثرن منزہ عہدک کانہ پاس۔  
یعنی مضیبت دور گزہہ آس تم یہ بدستور نافرمانی کران۔ تموا اندرہ اکثر آس نافرمان تہ فاسق تھہ  
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَظَلَمُوا بِهَا تویہ سوز اسہ ہن پیغمبرن پتہ۔  
یہنہن ذکر سہمہ برو تھہ سہن، حضرت موسیٰ علیہ السلام پن آیات ہتھہ فرعونس تہ یہہ تہندین وزیران  
امیرن کن تہندہ ہدایت وتہلیغہ خیرہ۔ نہس کور تموا کفر تہ انکار تہن آیاتن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ نہس وچھو کیاہ تھہ انجام سپد تہن مفسدین ہند وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولِ  
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فرمود خدایہ سندہ حکمہ فرعونس نشہ گزہہت۔ اکی فرعون پینک  
نوبہ کھوس رب العالمینہ سندہ طرفہ توبہ لوکن کن پیغمبر مقرر کرنہ امت تہندہ ہدایتہ خیرہ حَقِيقٌ عَلَىٰ

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۶﴾  
 حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ  
 مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ  
 بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۰۸﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ  
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰۹﴾ وَنَزَعْنَا مِنَّا آيَةَ الْكُفْرَانِ  
 لِلظَّالِمِينَ ﴿۱۱۰﴾ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا سَاحِرٌ

آن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ میدانِ شانِ نبوتِ مَحوایِ که بولاگه نہ خدائیس کنِ کانہہ کتھاہ پڑہ تھہ  
 وراي۔ بُو مَحوَس نہ خالی پیغمبر آسک دعوایِ بُوت کران۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ بلکہ مَحوَس بُو توہمہ کنِ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ نہہ دلیلہ نہ بد مَجزہ ہیتہ آمتہ تم  
 مَجزہ توہمہ بوقتِ طلبِ ہاوتھہ تہہیکہ۔ وونِ یلہ بوقیناً پیغمبر مَحوَس یہ کینوہاہ بُو توہمہ نوودہ تہ ماون۔ تھہ پیٹھ  
 کرو عمل۔ تمو چیز واندردہ مَحوکھ چیز کہ آزاد کرن تہ میون قومِ بنی اسرائیل غلامی نشہ۔ تم تراکھہ تم  
 نمکھ بُو پانس سیتِ مُلکِ شامس کنِ ئیس تہوند اصلی وطنِ مَحو قَالِ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن  
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون دُوکھ ہر گاہ توہمہ نشہ مَحو کانہہ نشانہ خدایہ سندہ طرفہ تہندس پیغمبر  
 آسکس پیٹھ، سُور و پیش، ہر گاہ تہمہ بُو زونہ و نیواندردہ مَحوہ قَالِقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اَتَى  
 ترو و تمون پن عصازِ میلس پیٹھ تھہ بنیوہیکہ تہ مگھ اکھ بُو ڈاژدھا اکھ وارہ کارہ وَنَزَعْنَا مِنَّا آيَةَ الْكُفْرَانِ  
 بِيضَاءُ لِلظَّالِمِينَ دو تم مَجزہ ہوڈو کہ یہ کہہ اتھہ پن ئیس نالہ کنِ کُوہس تل تھو تھہ اوسکھ سُوی کوڈو کہ  
 نہر۔ اَتَى آوسو سارنی لوکن تم و چھان آس، چہ نہ کہہ و ن بوزنہ قَالِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ إِنَّ  
 هَذَا سَاحِرٌ عَلَيْكُمْ فرعونہ سندہ قومہ منزہ تم تہند ہنشین تہ دربارِ آس تم لگ پانہ وان ونہہ کہ ہنر پانٹھ  
 یہ (یعنی حضرت موسیٰ) مَحو بُوڈ زان وول جاڈو گراہ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ قَمَادًا تَأْمُرُونَ  
 یہ مَحو واقفی بیٹھان پنہہ جاڈو کہ زورہ سیت، توہمہ سمہ شہرہ منزہ کڈن۔ لہذا کیاہ

عَلَيْهِ<sup>(۱۰۹)</sup> يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ<sup>(۱۱۰)</sup>  
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِيرِينَ<sup>(۱۱۱)</sup> يَا ثُوَكُ  
 بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِ<sup>(۱۱۲)</sup> وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا  
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ<sup>(۱۱۳)</sup> قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ<sup>(۱۱۴)</sup>  
 قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ<sup>(۱۱۵)</sup>  
 قَالَ الْقَوَا فَلَمَّا الْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

پھو تہند مشورہ قَالُوا دینہ لگ تم فرعونہ سید زھہ زھہ تہشین فرعونس آرجہ وَاخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي  
 الْمَدَائِنِ خَشِيرِينَ اکی فرعون ژہ وہ کینہہ کالاه مہلت حضرت موسیٰ اس بیہ تہندس بابس حضرت  
 ہاروس، تیتس کالس سوزکھ ژہ مختلف شہرن کن ملازم پن، پریتھ طرفہ کین بڈین بڈین جادوگرن سو  
 نبراونہ تہ جمع کرنہ خیطر یَاتُوکُ بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِ تہ ملازم دے ایتھہ ساری مملکتک ساری زانن  
 وال جادوگر۔ چنانچہ اتھ مشورس بیٹھ سہ اتفاق توپتہ آے سونبر او تھ اتھ جادوگر۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ  
 فِرْعَوْنَ توپتہ یلہ ہم جادوگرو ات فرعونس نشہ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ دین لگ  
 فرعونس ہر گاہ اس غالب سہ تہلہ آسہ سائہ خیطرہ ہوڈ انعامہ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون  
 دوپنکھ انعام گو آتھی تمہہ علاوہ بیو تہہ میناویو مقربو بمنزہ مقرر کرنہ۔ توپتہ یلہ دو ستھہ ساہرا کہ طرفہ ،  
 حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون بیہ طرفہ میدانس اندر مقابلہ کرنہ خیطرہ سمیای، لوک تماشہ گیرتہ  
 آی بے شمار قَالُوا يَمُوسَى سحر و دوپ حضرت موسیٰ اس اکی موسیٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ  
 نَحْنُ الْمُلْقِينَ یاتراو گوڈہ پن عصایا تراو اس گوڈہ پتہ لورہ تہ زہہ قَالَ الْقَوَا حضرت موسیٰ ان  
 دوپنکھ تھی تراو گوڈہ کیاہ ہٹھوہ تراون فَلَمَّا الْقَوَا پس یلہ تموی گوڈہ تراوہ لورہ تہ زہہ پتہ سَحَرُوا  
 أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سحر کور تموی لوکن ہنزن اچھن تمن آبیہ تمہہ لورہ تہ زہہ بوزنہ پریتھ  
 طرفہ سرف سرف تہ کر تموی نظر بندی تھی سیت کھوژہ ناوکھ لوکھ وَجَاءَ وَيُسْعِرُ عَظِيمًا بیہ آی

وَجَاءُ وَيَسْحَرُ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾ فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١٢٠﴾ وَ  
أَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ ﴿١٢١﴾ قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾  
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ  
أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّ هَذِهِ الْكُفْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْبَيْتِ لِنُخْرِجُوا مِنْهَا  
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٤﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

تم پندہ گمانہ بود جوداہ تہ سحرہ ہتھہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اَسْمَیۃ سوزوی حضرت موسیٰ  
اس کن کہ ہتھہ تہ تراود حض پین عصا ز میس پٹھہ چنانچہ بیان تموسو پین عصا پھر ترودو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ  
مَا يَأْفِكُونَ تان بیو تھہ بود اثر دہا۔ سم سم کن ہیوت ساجرن ہند سوزوی سحر تہ جود۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ  
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس سہ ظاہر پوز۔ بیہ سہ باطل سو سوزوی جود پس تمو کورمت اوس  
فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ پس مغلوب سہت ہیوت فرعون تہ تہند قومن تمہ وقتہ واپس  
ژکن ذیل ورسو اگہتہ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِجْدِينَ تراونہ آی جادوگر سجدس قَالُوا تمو ہتھہ بدہ  
وَأَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْمَ کر پڑھ سارنی جان ہندس پان واپس رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ پس  
حضرت موسیٰ تہ حضرت ہارونہ سہتہ رُب محو قَالَ فِرْعَوْنُ فرعون گھوڑ خبر چھاساری رعایا  
ما کرن حضرت موسیٰ سندی دین قبول۔ سولوگ ساجرن دپنہ اَمْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ اکی  
ساجر وکیاہ میانہ اجازتہ وراوی اُونوہ توبہ ایمان حضرت موسیٰ اس اِنَّ هَذِهِ الْكُفْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْبَيْتِ  
لِنُخْرِجُوا مِنْهَا اہلہا فسوف تَعْلَمُونَ پڑپاٹ بیہ ہتھہ اکھ چالاہ یوسہ تہ پانہ وان میلجھہ چلاوہ

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا  
 مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا  
 جَاءَنَا رَبَّنَا فَفِرْعَوْنُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَقَالَ  
 الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّكَ ط قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ  
 وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۳۶﴾ قَالَ مُوسَىٰ

بچھ شہرس اندر بیٹھ امہ شہرہ منزہ اتک لوکھ کڈ تھ بیکیو کھ۔ وون سپدہ توبہ معلوم توبہ کیاہ بنر اووہ یڈ  
 لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بوز بچھ ضرور توبہ کہہ طرک  
 اتھ، بیہ طرک کھور۔ تویہ و مووہ پچھہ نہہ ساری قَالُوا جاؤ گرو تم با ایمان آس سپد مت پورہ  
 پاٹھ دُو بھس کا نہہ پروا چھونہ۔ آس گھوونہ مر تھ گنہ خراب جایہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بلکہ واتو  
 آس پنہ نس پروردگار س نشہ۔ بیہ آسہ امن و راحت واتہ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا  
 لَمَّا جَاءَنَا تہہ چھو کھنہ آسہ اندر کا نہہ قصور تہہ عیباہ لبان مگر یو ہے کہہ آسہ کیاہ کر پڑھ پنہ نس خدایہ  
 سندین احکامن یلہ آسہ نشہ تم نشانہ واتہ۔ یہ چھونہ کا نہہ عیباہ نہ کا نہہ جرماہ رَبَّنَا فَفِرْعَوْنُ عَلَيْنَا صَبْرًا  
 وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ اکی سانہ پروردگار آسہ منز تراوڑہ سیٹھاہ صبر بیٹھ آس فرعونہ سند تکلیف برداشت  
 کر تھہ بیگو۔ بیہ مارڑہ آسہ مسلمان۔ فرعونے آسہ پیٹھ تختی گرہ بیٹھ نہ آس پریشان سپدو۔ بیٹھ نہ سانس  
 ایمانس منز کیبہہ خلل واقع سپدہ وَقَالَ الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّكَ بیہ یلہ حضرت موسیٰ سندیہ یوڈ مچرہ لو کو وچھ کہہ ساحر و تہہ اولن ایمان  
 بعضی لوک تہہ سپد تمین سیت متفق۔ تمہ وقتہ و ن فرعونس پنہ قومہ کیوز ٹھیو اکی فرعون کیاہ تہہ تراوڑہ  
 یلہ حضرت موسیٰ تہہ تھند قوم بیٹھ تم تباہی تہہ بربادی تکلن بیٹھ ملکس اندر بیہ تراون چان پر سٹش تہہ  
 چائمن مجبوون ہنز پر سٹش کران۔ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ  
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۸﴾  
قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا  
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

قَهْرُونَ فرعون و دوحہ باہر و مہ تہہ اس مارو کہ بیہ تہہ پتو تہہ تہہ زور زیادہ ہیہ سید تہہ زندہ تھا  
و کہ زناتہ تہہ زہ۔ کیا زہ زنانہ ہند چھونہ کانہہ خطرہ۔ بیہ لگن تہہ خدس تہہ کامہ کوچہ اسہ چھو تہہ پیٹھ  
پورہ غلبہ حاصل۔ امیک اطلاع یلہ بنی اسرائیل ووت تم گے سخت پریشان۔ تمو ہنہ اچ چارہ جوئی ژھا  
نڈن حضرت موسیٰ اس نشہ۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا حضرت موسیٰ ان  
فر مو پتہ نس قومس مدد منگو خدائس بیہ کرو صبر بانہر و مہ کیہنہ۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ یُورِثُهَا مَنْ یَّشَاءُ  
مِنْ عِبَادِہ۔ ہر پاپ یہ زمین چھو سو روی خدایہ سدوی امیک وارث کرہ سوئس بس برتھ پتہ نیو  
ہند و اندرہ۔ کنہہ کالاہ وٹن فرعونس مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخر چھہ کامیابی تہہ تم خدائس کھوژہ  
وَنَآسِن تہہ روزہ و مستقیم ایمان و تقویٰ اس پیٹھ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یٹھ یہ سلطنت کرہ تو ہی عطا  
قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا حضرت موسیٰ اسہ و ہجہ  
ہیشہ مصیبتھی مصیبت۔ اسہ آو سخت تکلیف دنہ تہہ ہینہ برو تھہ تہہ تہہ توہہ پتہ تہہ۔ توہہ برو تھہ آئی سان  
بے شمار لوکت مارنہ۔ وون چھو سوئی تجویزیہ کرنہ یوان۔ آخر ہنہ کیاہ وون۔ قَالَ حضرت موسیٰ ان  
دیکھ تسلی فرمو تھہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ  
تَعْمَلُونَ مہ ہجہ امید کہ عنقریب کرہ تہہد پروردگار تہہدس دشمنس ہلاک۔ بیہ کرہ تو ہی سہہ ملج  
پادشاہت عطا۔ تو پتہ و ہجہ سو تہہ کرہہ گوم کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقَضْنَا  
مِنَ الْعَهْدِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یلہ فرعون تہہ تہہد قومس انکار و مخالفس پیٹھ کر

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾  
 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  
 يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَرَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ  
 مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خُنَّكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا  
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ

گوئند آسم کور بتلا فرعونہ سند خاندان قحط سالی سیت۔ یہی میون ہندہ نقضانہ سیت۔ تمہ تم تمی سیت  
 نصیحت رٹن۔ پائس پین تہ پرتھ قبول کرن۔ مگر تمن سہند نہ تمہ سیت کانہ اصلاحاہ۔ بلکہ سہند جو  
 ند حال کہہ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ اُدھیلہ تمن خوبیاہ واتان آس دپان آس یہ آیہ سانی  
 خیطرہ۔ اتھ سزوار آس آسی آس جھناؤیکہ بڈتہ خوش قسمت۔ یہ آس نہ تم کران کہہ خدایہ سز نعمت  
 زاتھ دپہ ہنس شکر تو پتہ کرہ ہن اطاعت تہ فرمانبرداری قبول وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ  
 وَمَنْ مَعَهُ تو پتہ ہر گاہ کانہ بد حالیہ، قحط سالیہ ولتہ ہجھ۔ تمہ آس دپان یہ واژ حضرت موسیٰ یہ  
 جھندین بیرون ہندہ شامتہ تہ نحوست۔ أَلَا إِنَّمَا طَرَّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وارہ بوزو ہندہ نحوستک اسباب جھ  
 خدایہ سندس علمس منز موجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تموا اندرہ جھند اکثر لوکن گج خبری۔ تم  
 اسباب گئے تہزہ ہر چہ کامہ سرکشی تہ ظلم۔ یہی بغاوت تہ شرارت۔ سو نحوست آسکہ تمہ گوی سز۔  
 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خُنَّكَ بِمُؤْمِنِينَ تمہ علاوہ آس تم دنان کہہ  
 اکی موسیٰ ڈیٹھ کیتھ اتھو گہہ ائمہ لٹھہ کانہ عجیب مہجراہ، یہی سیت جہہ ائمہ پیٹھ سحر تہ جود کردہ پتہ خیالہ۔ مگر  
 ائمہ پیٹھ تمیک اثر یہ نہ کینہہ۔ تو تہ انونہ آس توہہ پیٹھ ایمان ہر گز۔ بس یلہ جہن سرکشی اوت پیٹھ واژ  
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ بس سوزہ ائمہ تمن  
 پیٹھ قحط سالی تہ میون اندر نقضانہ علاوہ سمہ سمہ بلایہ، اکھ کثرت بارشہ ہند طوفان تہ سیلاب بس تمن

مُفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا  
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ  
 عِنْدَكَ ؕ لَئِن كُنْتُمْ عَمَّا الرِّجْزَ لَأَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ  
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۳۹﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿۱۴۰﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ

گھر ن اندر ٹھہرین منرووت۔ یہ سوزِ آسہ تم ن کن ہالو۔ سمو جھند سوزوی زراعت تباہ و برباد کور۔ یہ سوز  
 آسہ تم ن کن کریل تہ یکم سمو جھند سوزوی غلہ نئس تموز خیرہ کور مت اوس تباہ کور۔ یہ سوزہ آسہ تم ن کن  
 نبرہ مونڈجہ۔ سمہ کھینہ کین تہ چنہ کین چیز ن منز آسکھ و سان تہ پھیران بہ خون نئس تریشہ بدل  
 چوان آس۔ آس اوسکھ خون بنان۔ تہ واریاہ نشانہ تہ واضح مچرہ۔ سم ستوے مچرہ تہ یہ عصاء تہ بد  
 بیضاء گئے نو مچرہ ساری۔ سم مچرہ و مچرہ ہڑہ ہا تم ن ایمان اُن تہ پڑہ کرن مگر فاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا  
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ کور تمو مچرہ۔ در حقیقت آس تم جرائم پیشہ۔ ایش سختی و انتہ تہ آئی نہ سم سرکشی نشہ باز  
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ یلہ تم ن سمو عذابو اندرہ  
 کانہ عذابہ و اتان اوس تمہ ساتہ آس و نان اکی موسیٰ سانہ خیرہ معو پنے نس خدا نئس سمیوک تم توہمہ  
 سیت وعدہ کور مت مچو کہ ہر گاہ تم نافرمانی نشہ بازین تلہ گرو آس تم ن نشہ سختی تہ عذاب دور۔ لَئِن  
 كُنْتُمْ عَمَّا الرِّجْزَ لَأَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آس جھہ قسم ہا تھ و نان کہ  
 ہر گاہ یہ عذاب آسہ نشہ دور کرو، ضرور گرو آس توہمہ ہلاہ۔ یہ سوزو کہ آس آزاد کر تھ بنی اسرائیل توہمہ  
 سیت فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ تم ن نشہ عذاب تھ و قس تان۔ تھ و قس تان تم ن و اتان اوس۔  
 اُتٰی آس تم سو عہدیہ بھڑ وان۔ تمہ پتہ یلہ آسہ و جھہ تم جھنہ پنے شرارہ نشہ باز یوان فَانْتَقَمْنَا  
 مِنْهُمُ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ نئس ہیوت آسہ تم ن انتقام سمہ طریقہ کہ پھاٹو آسہ تم دریای قلزمس اندر



فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۰﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۗ قَالُوا يُمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ

يَا نَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اُمیٰ موكهه كه تمبو كيا زان سان آيات اہز۔ بيه آس سانيو آياتونشہ تغافل تہ بے توجہی کران اصرار و عنادہ سیت۔ اطاعت و فرمانبرداری ہند وعدہ کر تھہ آس سو وعدہ پھڑے راوان وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا فرعون تہ تہند قوم ہلاک کر تھہ بنا و اسہ وارث تم لوکھ تم کمزوریوان آس زانہ تمہہ مملکہ کہ مشرقی حصک تہ تہ مغربی حصک تہ۔ بیٹھہ مملکت اندر اسہ ظاہری و باطنی برکت تھا و مثر آس۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا بيه سپڑ پورہ نیکی ہند رت وعدہ بنی اسرائیل سیت تہندہ صبر کریمہ برکتہ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ بيه کور اسہ تباہ تہ سوری بيه تیار کران اوس فرعون تہ تہند قوم۔ یعنی تہند کارخانہ بيه بيه تم تمن کارخانہ اندر تیار کران آس۔ بيه تم تہند تہند مکانہ تم بنا کران آس۔ وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۗ بيه تاردریای قلمس اپور اسہ بنی اسرائیل بیٹھہ منز فرعون ساری لشکر ہیتھ پھاو۔ پس پک تم اس قومس کن تم پنے پن پوتلین بروٹھہ کنہ پر سٹخہ خپیرہ بہتھہ آس قَالُوا يُمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ ۗ تہنہ لگ (تم بنی اسرائیل) اکی موسیٰ سانہ خپیرہ تہ

إِلَهَةٌ ط قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَعْبُرِ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۱﴾

کرو مقرر ا کہ پوتاہ۔ ہتھ پاٹھ تم کو لکن چھ واریا ہ پوتل برو تھہ کنہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ پڑپاٹھ چھوہ تہہ سخت جاہل قوم۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پڑپاٹھ تم لو کہ ہتھ کامہ سیت لگمت چھہ، یہ سو زوی چھو تباہ گدھ و ن۔ یہ چھو باطل تہ لغوتہ سو زوی یہ تم کران چھہ شرکچو کامیواندرہ۔ قَالَ أَعْبُرِ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیا ہو ژھانڈنہ معبود برحقس و رای تہندہ خیطرہ یا کہ معبوداہ۔ حالانچہ توحید چود لیلو علاوہ چھو تہندہ محسن تہ معمم سوی، تمی معبود برحقن دتوہ توبہ فضیلت سارنی عالمین پیٹھ وَاذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کی بنی اسرا نیلو بیہ پاووتہہ ژتیس یلہ اسمہ نجات دیت توبہ فرعونہ سز یولو کونشہ یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ تم توبہ و اتاوان آس سخت تکلیف تہ عذاب یُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ تم کھش کران آس بے در لچچوین تہندین وَیَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ آس تھاوان زنانہ تہنزن بیگاہ تہ خدمتہ خیطرہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھ منز آس تہند خیطرہ بڈ آزمایش تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ امہ و رای تہ آس توبہ پیٹھ خدلیہ سندگم گم احسان مگر توبہ تھو و ہ نہ کانہ احسانہ ژتیس۔ تہہ سپدوہ آمادہ شرکس پیٹھ۔ بہر حال یلہ بنی اسرا نیل ساروی پریشانیو نشہ آزاد سپد، تمکو کوزدر خواست حضرت موسیٰ اس کہہ وون کرو ہز مقرر سانہ خیطرہ اکھ شریعتھاہ اسمہ موجب آس بفر اغت عکمل کرو حضرت موسیٰ ان کور تمیک درخواست اللہ تعالیٰ آس تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ أَنْ نُكَفِّرَ بَلَاءَهُمْ وَلِنَنْصُرَهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بَعَثَهُ فَتَمَّ  
 مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ  
 هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ  
 رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَىٰ

موسىٰ اس ترهن شمن روزو کوه طورس پيٺه اعتکافس۔ بيه روزو تمن دوئن روزه دار۔ اده کروده اس عطا  
 تو به تورات۔ تو پته کره نوو سواسه پوره تم تره (۳۲) دوه بيه دوه (۱۰) دوه سیت فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ  
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً کس پورته مکمل سپد سمبدرس پروردگار سپد مقرر کر نه اُمت وقت تز تجره (۳۲) راژ۔ یعنی  
 تز تجهن راژن عبادت تز تجهن دوئن روزه دار روز ته کور تمو ملاقات خد ائس سیت کوه طورس پيٺه، تبته  
 ملاقاتس منز کور که الله تعالیٰ ان بن کتاب تورات عطا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي  
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ بيه سمه سانه حضرت موسیٰ کوه طورس پيٺه ینه  
 خيبره دراه سمه وقت فرموو تمو برادرس پنه نس حضرت هارونس ته سپد خليفه ميان ميان قومہ  
 خيبره۔ بيه يوش پلي تبوت کرزه قومس اصلاح۔ بيه بٺنه چککه مضيدان همزه وقت بد نظمی کره وئتن همزه  
 رایه موجب کرزه نه عمل وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اتھ واقص اندر يله حضرت موسیٰ آو سانه  
 ملاقاته خيبره وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تمن سیت کره واریاه لطف و مهربانی همزه کته همده پروردگارن۔ شدت  
 انبساطه سببه سپد که شوق ویدار لذت گفتار حاصل سپدت کور که تمی لذت ویدارک در خواست  
 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ ان کور عرض اکی میانه پروردگار همه هاوته بن ذات پاک،  
 یووچه هت ته قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ اللهُ تعالیٰ ان فرمووس ته بیککه نه مه وٺت دُنْیَا س اندر کیا زه  
 سمه اوجهه اُن نه تاب میانه ویدارک دُنْیَا س اندر وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ مگر همده تسلی خيبره  
 هٺو سون تجویر همه ديو نظر یتھ کوهس اُن۔ اس تراووتھ پيٺه پن اکھ پرتواه فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلَّى  
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ  
قَالَ سُبْحٰنَكَ بُدِّئْتُ بِإِيكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ  
بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَكَتَبْنَا  
لَهُ فِي الْأَوَّارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

فَسَوْفَ تَرِينِي جس ہر گاہ یہ کوہ پختہ جلیہ برقرار نہ ڈنجر رود۔ تیلہ شاید ہی کو ہتھ مہ و ہتھتھ چنانچہ حضرت  
موسیٰ زوداتھ کو بس گن و چھان فلکما تجلی ربہ للجبیل جعلہ دکا وخر موسی صوعقا جس یلہ  
جلوہ ترود حضرت موسی سدر پروردگارن کوہ طورس پیٹھ تم جلون کورتھ کو بس ٹس توپتہ گیس چھلہ  
حضرت موسیٰ پیو بیوش سپد تھ پھر دستھ فلکما آفاق قال سبحنک بدت ایلک ادہ یلہ ہوشہ آی  
حضرت موسیٰ، عرض کوزکھ، واقعی چھو چون ذات پاک سہوا چھو سیت و ہچھن نشہ منزہ تہ پاک۔ اکی  
میانبہ پروردگارہ یو چھوس چانس خدس اندر امہ مشتاقانہ درخواست کرنہ نشہ معذرت منگان  
وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ یو چھوس چانس ارشاد کن ترانی جس پیٹھ گوڈہ بھوی پڑھ کرہ ون  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ  
فر موسیٰ اللہ تعالیٰ ان اکی موسیٰ۔ یہ چھو سیٹھاہ تہندہ خیطرہ کہہ ہز پاتھ مہ کوزکھ ژہ برگزیدہ لو کو اندر  
پختہ پیٹھری سیت بیہ پختہ کلامہ سیت۔ جس رٹ ژہ بیہ مہ ژہ عطا کوروی۔ بیہ آس ژہ شکر گزار بندو  
اندرہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَوَّارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بیہ دت اسہ لیکت کیون چن پیٹھ پریتھ چیزاہ تیج  
دیس منز ضرورت آس مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یوسہ بد نصیحت ہتھ بیہ ہتھ منز پریتھ  
چیزک بیان ویشہ ناوتھ چھو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ جس کرو پانہ تہ امہ موجب عمل کوششہ سان وَ أَمْرُ  
قَوْمِكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنَهَا بیہ کرو ہم پنہ نس قومس کہہ تم تہ رن اچہ رتھ رتھ کتھ تہ رت رت

شئٍ فخذها بقوةٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها  
 سأوريكم دار الفسقين ﴿۱۳۵﴾ سأصرف عن اليتيم  
 يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية  
 لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا  
 وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم  
 كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غفلين ﴿۱۳۶﴾ والذين كذبوا

ہدایات تھے منزجھو سوروی رتوی سآوریکم دار الفسقين عنقریب ہا وہ یو توہرہ نافرمان ہند گره۔  
 اتھ منزجھ بشارت تہ وعدہ کہ یو واتناو وہ جہہ مصرس یا شامس اندر تیج سلطنت کرووہ عطا۔ خدایہ سزہ  
 فرمانبرداری ہند جھہ سچے فائدہ نافرمانی تم کرن تہندہ خیطرہ جھو سآصرف عن الیتیم  
 يتكبرون في الأرض بغير الحق عنقریب پھر کہ یو پنے نیو آیا تو نشہ قدرتہ کیونشا نو نشہ تم لو کہ تم  
 محکمہ کران جھہ زمیں منز ناحق۔ یعنی تم سپدہ نہ آیا تو تہ مجر و سیت کا نہ اثرہ۔ دلن ہنزہ قساوت و  
 شقاوتہ سببہ ولان یروا کل آیہ لا یؤمنوا بها ہر گاہ تم وچھن ساری آیات تہ مجزات تو تہ کرن  
 نہ تم پڑھ۔ تہنز ذہنتھی جھہ عجیب وإن یروا سبیل الرشدا لا یخذوہ سبیلہا ہر گاہ تم بدانتی و تھ  
 جھہ و جھان تمہ و تہ جھنہ تم یکن ہیوان وإن یروا سبیل الغی یخذوہ سبیلہا ہر گاہ گمراہی ہنزہ  
 کانہ و تھاو و چھان جھہ تمی و تہ جھہ یکن ہیوان یہ جھو علامت دلن ہندہ مسخ سپد نگ ذلك یأثم  
 کذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غفلين یہ حالت بنیہ یہ تم ای سبہ کہ تم آس مجھہ سببہ اہر زمانان  
 سائین آیاتن یہ آس تم تم آیاتن اندر غور و فکر کرنہ نغیر بالکل غافل۔ والذین کذبوا بآیاتنا  
 ولقاء الأخرۃ حطمت أعمالہم یہ سمولو کوسان آیات تہ اسہ سیت ملاقات کرن آخرتس اندر  
 اپز زون، تھہ کورکھ انکار، تہنزہ سارے عملہ تمکن ہندہ نفع تہ فایدہ تیج تمکن امید آس گیہ ضائع  
 هل یجزون إلا ما كانوا یعملون تم ایہ نہ سزاو نہ مگر تمکو یہ تم کران آس، مقرر و انکار تہ

بَايْتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْرُونَ  
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّهُمْ  
 وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَهًّا وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا  
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن  
 لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾

نافرمانی ہند سزا خجوا ای وَاَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا یلہ حضرت  
 موسیٰ کو ہطورس پیٹھ تورات اُنہ خیطرہ گئے۔ تہند قومن بنو تم ن پتہ پنہ نس تہہ گہنس نِس تمبو قبطین نشہ  
 خاند کہہ ہمانہ معجت اوس او نمٹ اکھ ووژھاہ۔ نس لگ کر نہ پر ستش۔ تمسنز حقیقت آس صرف یہی ہم  
 سو اوس بدناہ اکھ ہمہ منز گا وہ ہنز آواز نیران آس، بیہ اوس نہ تہہ منز کانہہ کملاہ ہمہ سیت تہندہ  
 معبود آسنگ کانہہ عاقلس خیال گڑھہ ہا۔ اَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تمبو کو نہ  
 سناؤ چھ ہتھ تھہ گن کہہ سو اوس نہ انسان سندیوت نہ کمال پانس منز تھاوان۔ یعنی سو ووژھہ اوس نہ تم  
 سیت کانہہ تھہ ہیکان کرتھ نہ اوسکھ دینچ یا زنیاء ہج کانہہ و تھہ ہیکان ہاوتھہ اَتَّخَذُوا وَهًّا وَكَانُوا ظَالِمِينَ  
 یوہے ووژھہ زون تمبو معبود ہنن، آس تم یہ کر نہ سیت پنہ نس پانس ظلم کر وہ نیو آندرہ و لَمَّا سَقَطَ  
 فِي أَيْدِيهِمْ حضرت موسیٰ سہدہ کو ہطورہ پیٹھہ واپس بنہ پتہ یلہ تمبو اتھ پیٹھہ تہنیہ کور تم گے سیٹھاہ شرمندہ  
 نادوم تہ ہیشمان اتھ پیٹھہ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا زون تمبو کہہ واقعی تم چھہ بالکل ڈلت، گمراہی اندر ہی مت  
 قَالُوا آتَىٰ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ نَدَامَتَهُمْ كُنْ وَن لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر گاہ  
 نے رحم کرہ آسہ پیٹھہ پروردگار سون۔ بیہ نے سو آسہ ہتھہ گہنس مغفرت کرہ تلہ سپد و اس بڈیو تاوان زدو  
 آندرہ و لَمَّا رَجِعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو پتہ یلہ واپس آی حضرت موسیٰ پنہ نس  
 قومس گن سیٹھاہ ژکھ ہت، سخت غمگین قال فرمو کہہ قومس پنہ نس گن گوڈہ ہسسا خَلَفْتُ مُوسَىٰ مِنْ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا رِّبِيًّا وَقَلْتُمُ الْوَاخِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۗ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

بَعْدِي سِيخَاهُ پتھہ حرکتھاہ کروہیہ توبہہ مہ پتہ اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رِبِيًّا کیاہ بانہز کروہ تہہ پنہ نس پروردگارہ سُنْد حکم واتنہ برو نٹھی بوی تہنہہہ خپترہ احکام انہ نے کوہ طورس پیٹھہ گومت اوس وَالْقَى الْاَلْوَاخِ وَاخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ توپتہ پھیر حضرت ہارونس کن گوڈہ تھاوکیہ تمہ ہجہ سمن پیٹھہ تورات لیجھت اوس پتھر زورہ سان۔ اتھ زہ خالی کر تھ روٹھ توپتہ پنہ نس باہی سُنْد حضرت ہارونہ سُنْد کلہ نس لگ مستہ رٹھہ پانس کن لمنہ دوپھس توبہہ کیاہہ کوہ وہ نہ قومک پوزا نظام قَالَ ابْنُ أُمَّر حضرت ہارون دوپٹھہ اکی میانہ ماجہ ہند پوتھرہ، یعنی اکی میانہ باہیہ مہ کرے یہ پنہ طرفہ سیخاہ کوشش سم پتھہ زفہ خپترہ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي لیکن سمولو کو زونس بو کمزور میان نصیحت کرن آس نہ تمن شریان ہتھ منز تموہ ہیووس بومازن فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ نس مہ کرکھ مہ پیٹھہ ہاتھ پھراونہ سیت دشمن خوش وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بیہ مہ سیت اُمہ قسمک برتاو کرنہ سیت مہ گزرومہ ظالمنہ تہ مجر من سیت نہ گیوہر گاہ مہ تم پتھر نس اندر کوتاہی تہ سستی کر مثر آسہ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي حضرت موسیٰ ان مونگ خدایس اکی میانہ پروردگار مغفرت کر مہ بیہ میانس بایس سون خطا کر معاف وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اَسہ دوشون واتاوپنہ نس خاص رحمتس منز۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ژہ پتھو کھ ساروی اندرہ یژرم کرہ ون۔ اَسہ پتھہ سیخاہ امید ژہ کرکھ سون دُعَا قبول۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود تمن لوکن متعلق سموو ژرھس ہر سٹش کر إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ هَٰزِ

الْعِجْلَ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۶﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا  
 مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵۷﴾  
 وَلَبَّاسًا كَتَبَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ﴿۱۵۸﴾ وَفِي نُحُوتِهَا  
 هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَبُونَ ﴿۱۵۹﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى

پاڻھ سمولو ڪو بنو ساسماری سُنڊ وڌو ڏهه ۾ن مڃوڊ۔ اگر نه ورنه ته تم توبه ڪرن سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تله وسمه عنقريب تمن پيڻه غضب ته بيزاری۔ جهندس پروردگار ه سنڊه  
 طرفه۔ بيه تمهه علاوه خورای ته رسوائی دُنیاچه زندگانی آندری۔ بيه جهنه تهنزی کينبهه خصوصيتاه  
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ بلڪه جهه آس اڻھوی سزاووان الهز ڻھمراهه ودين كه دُنیاسی منز جهه آس تم  
 ذليل و خوار ڪران۔ ڪانهه فوراً ڪانهه پنه ۾ن وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا بيه  
 تم لوڪه سمو جهه ڪامه ڪره مثلاً وڌه سمنز پر ستنش، تويته ڪور ڪه توبه بيه اوجھه ايمان ڳھ ترا وڻه رانق  
 رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۾ن پاڻھ جهند پروردگار جهو بدن هنده توبه ڪرنه پنه جهندين ڳنهن ضرور  
 مغفرت ڪره ون۔ بيه جهندس حالس پيڻه رحم ڪره ون وَلَبَّاسًا كَتَبَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ يله اده  
 حضرت موسیٰ ان حضرت هارونه سمنزه معذرت بوز ڏهه ۾ن ۾ن ۾ن أَخَذَ الْأَلْوَابَ جهه تمهه ۾ن پيڻه  
 تورات ليڪهته اوس وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَبُونَ درحاليجهه تمهه ڪس تحريس  
 منز اوس بوڏ هدايت ته بذر حمت تمن لوڪن هنده خيطره تم پنه نس پروردگار س جهه ڪوڙان۔ مراد جهو  
 تمهه آندره تنيڪ تم احڪام ۾ن پيڻه عمل ڪرنه سیت شخص جهو هدايت ياب سپدان۔ رحمت اُميدوار  
 سپدان۔ يله وڌه سُنڊ قصه ختم سپنه حضرت موسیٰ ان هيت تورا تڪ احڪام اطمینانه سان لوڪن واتا دن۔  
 مگر تمن لوڪن يعني بنی اسرائيل اوس عادت سمه تم آس پر ۾ن تهه پيڻه شبهات پيش ڪران۔ چنانچه  
 آتهه موقفس پيڻه ته ڪور تمويه شبه پيش ڪه سمه تهه پاڻھ سپده يقين ڪه سم احڪام ڪيا جهه واقعي الله تعالیٰ



قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ  
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ أَتَهْلِكُنَا بِفَعْلِ السُّفَهَاءِ  
مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ  
تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٨﴾

سیدی احکام۔ اسے تیرے واپس اللہ تعالیٰ تجھ سے پورے یقین سپدہ چنانچہ حضرت موسیٰ ان کرہ اللہ تعالیٰ اس نشیہ یہ کتھ پیش توڑہ سپدہ کہ ہم سموی بنی اسرائیلو آندره کر یو کہ منتخب کینہہ لو کہ تمے ائیو کہ پائس سیت کوہ طورس پیٹھ۔ یوونہ تمن پانہ کہ واقعی چھہ تم میان احکام تو پتہ آوتہمہ خیطرہ اکھ وقت مقرر کرنہ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبِقَاتِنَا چنانچہ ژارہ منتخب کر حضرت موسیٰ ان ستھہ (م) زن پنہ قومہ منزہ سانس مقرر کر قس و قس پیٹھ اسہ نشیہ انہ خیطرہ چنانچہ توت و اتھہ یوز تمو خدایہ سندن کلام۔ خدایہ سندن کلام یوز تھہ لگ ونہ اسہ کتھہ پاٹھ بہنہ کہ یہ چھو خدایہ سندی کلام لہذا ایو تان نہ اس وارہ کارہ پنہ نیوا چھو اللہ تعالیٰ و چھن تو تان گرونہ اس پڑھ امہ گستاخی سببہ آو تم ن بئیل۔ ہر کن چکھہ ترٹھ۔ ساری گئے تھی روز تھہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ آدہ یلہ تم بنی اسرائیل رب بطل قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ ان کور عرض کی میانہ پروردگارہ مہ چھو معلومی کہ تم ن لو کن چھو سزا دین منظور، ہلاک کرن مقصود، چھونہ کیا زہ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ ہر گاہ ژ یہ تہ منظور آسبھی تلہ کرہ بچھہ ژہ برو نٹھی تم ساری ہلاک۔ مہ تہ کرہ ہک ہلاک تمنی سیت أَتَهْلِكُنَا بِفَعْلِ السُّفَهَاءِ مِنَّا سچاژہ کر کہ کیونہ احمقن ہند کہ حرکتہ سیت اسہ ساری ہلاک إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ یہ واقعہ چھونہ مگر چان اکھ آزما بچاہ تہ امتحانہ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ تنہیہ اجتوا سیت ہم ژ یہ خوش کرہ تہ تم کرہ بچھہ گمراہ ہم ژ یہ خوش کرہ تہ تم تھاو بچھہ ہدائیس پیٹھ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ژ یہ چھو کہ سون مالک پس کر ژہ اسہ مغفرت۔ اسہ دہ معافی۔ بیہ گر اسہ پیٹھ رحم۔ ژ یہ چھو کہ رت مغفرت کرہ ون تہ گنہن مغفرت کرہ و نیوا آندره سیٹھاہ بہتر۔ بنی اسرائیلو آندره سمویہ گستاخی کر تمن تہ دہ معافی۔ چنانچہ تم ساری گے بیہ زندہ اتھہ دعاءس سیت گمراہ حضرت موسیٰ ان یہ بیا کہ دعائہ بنی

وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَلَيْكُ ط قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ آ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفُ

اسرا ایکن ہمدہ حقہ وَاكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ یہ لیکھ ساتھ خیرہ دُنیا س اندرتہ رت حال یہ آخرتس اندرتہ رت حال اِنَّا هُنَا اَلَيْكُ کیا زہ پزپاٹ اَسہ کور خلوصہ سان ژے کُن رَجُوع۔ دُنیاو آخر تک خیر ژھونڈ حضرت موسیٰ ان پتہ اُمّہ خیرہ۔ اُمّہ اُندرہ اوس تہنڈ مقصد کہ میانی اُمّت کرتن سارنی اُمّتن ہنز سردار تہ مافوق قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ فَرَمُوْكَ عَذَابِيَّ اُصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ مینوں عذاب تہ غضب لیس چھو سواتا وہ بوتس لیس یو پڑھ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میان رحمت چھ تہ عام۔ واتھ چھ سو پرتھ چیزس فَسَاكُنْتُمُ اللَّذِينَ ساروی اُندرہ کرن بوتھہ رحمتہ سیت خاص سوی اُمّت یہ لیکھ یو سور رحمت تمنی لوکن ہمدہ خیرہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ سم خدا بس کھو ژن۔ یہ آسن مانج زکوة دووان۔ یہ سم آسن سائین آیاتن پڑھ کران یعنی تمکن ہمدہ اعمال وافعال واعتقادات دُرست آسن۔ اتھ منز اوس احتمال کہ یہودن اُندرہ مانیرہ ہن بعض اشخاص تمکن پیٹھ یہ تعریف صادق یہ ہا۔ اللّٰهُ تَعَالٰی ان فرمؤ مزید توضیح خیرہ کہ اُمّت چھ حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزوی اُمّت۔ یمن خیریت دُنیاو آخرت اللّٰهُ تَعَالٰی ان عطا کور آگ ذینین یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تمن لوکن یم پتہ پتہ آسن پکان، متابعت آسن کران تس پیغمبرس، لیس رسول تہ چھو، نبی تہ چھو یم نہ کانسہ لغیر نہ پرمٹ چھو کینہ نہ ہیو چھمت چھو کینہہ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تس پیغمبرس لیس تم لو کہ لہان چھہ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
 الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
 عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُواهُ وَ  
 اتَّبَعُوا التُّورَ الَّتِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾  
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا  
 إِلَازِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

پاس نشہ پنہ نین کتابن تور اس تہ انجیلس اندر لیکنہ آمت یعنی نعت تہ صفت تہند کرنہ آمت۔ تمہ  
 علاوہ چھو تہند صفت یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر سو پیغمبر برحق چھو تمن نیکن ہند  
 حکم کران۔ بیہ چھوک بدیونشہ منع کران ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث بیہ چھو  
 رت رت تہ پاک چیز حلال کران سم تمن پیٹھ حرام آس۔ بیہ چھو تمن پیٹھ ناپاک تہ گندہ چیز حرام  
 کران ویضع عنہم اصرہم والان تمن پیٹھ تہند گوب بار یعنی تم سخت احکام سم تمن پیٹھ نافذ  
 کرنہ آمت آس وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بیہ احکامن ہنزہ تمہ تختیہ سمہ تمن پیٹھ آسہ بروظھمن  
 شریعتن اندر فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُواهُ لیس تم لو کہ سمو پڑھ کر اس پیغمبر  
 بیہ کر بھک حمایت تہ مدد وَاتَّبَعُوا التُّورَ الَّتِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بیہ کر کہ متابعت  
 تھہ نورس لیس نور تمن سمیت نازل آو کرنہ یعنی کتاب وسنت، قرآن مجید تہ حدیث شریف تہ لو کہ  
 چھہ رنگار تہ کامیاب سم عذاب ابدی نشہ چھو ظر ووزن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  
 جَمِيعًا فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ کی تمام دنیا کیو لو کو پڑ پاٹھ بو چھوس پیغمبر خدا تو ہہ سارنی گن۔  
 إِلَازِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس خدا یہ سدہ طرفہ سینز حکومت تہ بادشاہی سارنی  
 آسمان تہ زمین منز چھہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تس ورا ی چھو نہ عباد تس سزاوار کانہہ اکھ نجی ویدیک  
 سوی چھو زندگی عطا کران تہ سوی چھو ماران فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْيَقِينِ الرَّابِّي لیس کر پڑھ آسی

وَيُبَيِّنُ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكَ الَّذِي  
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِۦ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَ  
مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَّعْدِلُوْنَ ﴿۵۹﴾  
وَقَطَّعْنَهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ اَسْبَاطًا اِمَّا وَاَوْحَيْنَا اِلَى  
مُوْسٰى اِذَا اسْتَسْقَمَتْ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  
فَاتَّبَعْتَ مِنْهُ اِثْنًا عَشَرَ عِيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ

کُنسِ خدائسِ بيه تَسُدسِ اَسْمٰى پيغمبرسِ نَسْ اَنْ يَدْرَه پيغمبر چُو الَّذِي يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ سَم پانَه  
کُنسِ خدائسِ بيه تهنديمنِ حَمَن پَرَه كَر مَرَه جَه۔ يعنى باوجودِ يَتَه تهودِ مَر تَبِه آتَه چُوَنه تَمَن خدائسِ ،  
خدائِه سَندينِ پيغمبرنِ تَه كَتَايَن اِيْمَان اَنَه نَسْ مَنزَا كَانَه عَارَه۔ اَكِي لُو كُو تَه كِيَا زَه جُوَه خُد اَسْ تَه تهنديسِ  
پيغمبرسِ پَرَه كَر نَسْ تَه اِيْمَان اَنَه نَسْ مَنزَا نَكَار كَر اَن وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ بيه كَر اَسْ پيغمبره  
سَنز مَتَابَعَت دِيُوَه تَه تَه لُجُو رَاه رَا اَسْتَسْ پِيْطِه اِيُو۔ بعضي لُو كُو كَر اَسْ پيغمبره حَقَقَه سَنز مَخَالَفَت مَكْر وَ مَن  
قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَّعْدِلُوْنَ بيه چَه حَضْرَتِ مُوْسٰى سَنَدَه قَوْمَه مَنزَه اَكِه جَمَاعَتَهَا  
بَزَج۔ دِيَلِنِ حَقِّ يعنى اِسْلَامِج وَ تَه هَاوَان۔ بيه چَه تَمِي يَزَه سِيْتِي پَنَه نِيْنِ مَعَامَلَاتِنِ تَه بِيْنِ لُو كَن هِنْدِيْنِ  
مَعَامَلَاتِنِ اَنْدَرِ عَدَلِ وَ اِنصَافِ تَه كَر اَن وَ قَطَّعْنَهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ اَسْبَاطًا اِمَّا بيه كُو رَا كِه اِنْعَامِ بَنِي  
اِسْرَائِيْلِنِ پِيْطِه بيه تَه تَه تَمَن مَنزَا اِصْلَاحِ وَ اِنْتِظَامِ قَا سَم كَر نَه خِيْطَرَه كَرَه اَسْبَه تَمَن اَلِكِ اَلِكِ بَنِيْنِ بَدِيْنِ هِنْدِ اَوْلَادِ  
اَسْبَه مَنَاسِبَتِه بَاهِ جَه تَه بَاهِ قَبِيْلَه پَرِيْطِه اَسْ قَبِيْلِسِ كُو رَا اَسْبَه اَكِه اَكِه سَر دَرَاه مَقْرَر تَه تَه تَه مَكْرَانِي خِيْطَرَه  
وَ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوْسٰى اِذَا اسْتَسْقَمَتْ قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بِيَا كِه اِنْعَامِ كُو رَا اَسْبَه تَمَن كَه  
سُو زَا اَسْبَه وَ حِي حَضْرَتِ مُوْسٰى اَسْ اُنْ يَلِه تَمَن نَشِيْ پَن قَوْمِنِ اَب تَه وَ نَد۔ تَمُو مَوْنَك دُعَا خدائسِ آبه  
خِيْطَرَه۔ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ فَر مَو وَ كِه كِه تَه دِيُو پَنَه اَمَه لُو رَه سِيْتِ فِلَانِ كَنَه اَدَه يَلِه تَمُو تَه كَنَه تَه تَه دِيُو  
فَاتَّبَعْتَ مِنْهُ اِثْنًا عَشَرَ عِيْنًا اَتِي پَهْتِ تَم كَنَه مَنزَه بَاهِ نَا كِ رَا د۔ تَمَنِي بَنِي اِسْرَائِيْلِنِ هَمَزَه مَكْنِ

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ  
 الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى طُكُلًا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ  
 مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَاذْقِلْ  
 لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ  
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۗ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ  
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلْ

قبیل ہنزہ گرنز قد علمہ کل اٹا پس مشربہم چنانچہ پریتھ قبیلن پر زہ نووین ہن گھاٹ تہ یارہ  
 بل یعنی آب حاصل کرے جائے و ظللنا علیہم الغمام و انزلنا علیہم المنان و السلوی  
 بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ یہ کہ تر وواسہ تمن پیٹھ ابرک سایہ۔ بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ کہ آسانہ  
 وول اسہ تہندہ کھینہ خیطرہ خزانہ غیبہ منزہ آسانی خوانچہ پیٹھ منز تیار کر تھ اوس آسان باثرماز تہ ترنجبین۔  
 وندہ اوسکھ یوان کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھیو تمہو نفیس چیز و منزہ تم اسہ توبہ عطا کردہ  
 مگر اتھ منز تہ کر تمہو سانس کُحْمَسٌ بَرِخْلَانِي۔ و مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
 تمہہ نافرمانی سیت تمہو اسہ کانہ نقصان و اتنوںہ، بلکہ آس تم پان پانس ظلم تہ نقصان و اتاوان و اذقيل  
 لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ بیہ کرو یاد سو وقت یلہ اسہ بنی اسرا نیلن کُحْمٌ کور بسو پیٹھ شہرس منز  
 پیٹھ ناوچھواریجا و کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بیہ کھیو اتھ شہرس منز سمہ جاہیہ توبہ خوش کرہ  
 وَقُولُوا حِطَّةٌ بیہ اکھ کُحْمٌ گرنہ اتھ شہرس منز اژان اژان و نزہ حطہ، یعنی اُس چھہ توبہ کران  
 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ اژزہ شہر کہ دروازہ منز کلہ نو مراوت عاجزی سان نَغْفِرْ لَكُمْ  
 خَطِيئَتِكُمْ تمہہ سیت گرو اُس بخشایش تہندین برو ٹھمن گنہن سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بیہ گرو  
 اُس بیجو کارن زیادہ مہربانی عطا فَبَدَّلْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
 پس بدلُو تمہو لو کو تمہو آندرہ ظلم کوراکھ لفظا ہس خلاف اوس پیٹھ لفظس ہس تمن تجویز کرنہ آیدو۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا  
يَظْلِمُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ  
حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا  
تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۲۷﴾  
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَإِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

تَمْنِ آيُوهُ وَنَنْدَ كَهَ حِطَّةٍ وَنَبِيٍّ، تَمَكَّ مَعْنَى أَوْسَ سَانِينَ كَتَبْتُمْ سِدْرًا بَحْشَالِيشَ، تَهَّ بِدَلِ وَوَلَن تَمُوجِبَةً فِي  
شَعْرَةً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ كَيْسُ سُوْرَ أَسْمَةٍ تَمْنِ بِبَيْتِهِ  
عَذَابُهُ آسَمَلَجِهِ طَرْفُهُ أَمَى وَجْهَهُ كَهَ تَمَّ آسَ ظَلَمَ كَرَانَ عَيْنِي تَقِيلُ أَحْكَامَ آسَ نَهَ كَرَانَ وَسَأَلَهُمْ بِي  
پَرْتَهْوَجْتَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْتَهُ زَمَانَهُ كَيْنَ يُبْهَوْدَنَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَمَّ  
شَهْرَهُ كَيْنَ لَوْ كُنَ بِنْدَ حَالِ يَمِّ شَهْرِكَ نَاوَأَيْلَهُ پَهْوُ - كَيْسُ شَهْرٍ بِحَرْزِ قَلْزَمَةِ كَيْسُ نَهْطَسُ بِبَيْتِهِ وَاقِعَ أَوْسَ - شَهْرُ  
مَدْيَنَسِ يَهَ كَوَهَ طُورَسَ مَنْزِلَاكُ تَمَّ شَهْرِكَ لَوَكَّهُ آسَ دَرِيَاءُ كَيْسُ نَهْطَسُ بِبَيْتِهِ بَسْمَهُ مَوْكُهُ كَاذِبُهُ كَرَانَ زِيَادَهُ -  
تَمْنِي أَوْسَ يَهَ وَارِهِ دَوَهَ كَاذِبُهُ مَنَعَ أَمْتَهُ كَرَنَهُ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَلِيَهُ تَمَّ يَهَ وَارِهِ دَوَهَ كَاذِبُهُ  
رَفَعَهُ كَيْسُ لَحْمَسُ أُنْدَرَحَدَهُ وَذَلَانَ آسَ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا يَلِيَهُ يَهَ وَارِهِ دَوَهَ  
تَمْنِ نَشِيرَهُ كَاذِبُهُ تَهْزَهُ يَوَانَ آسَهُ آبَسُ بِبَيْتِهِ وَوَلْتَهَّ كَلَهُ آبَهُ نَشِيرَهُ هِيَوَرُ كَهَارَتَهَّ وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا  
تَأْتِيهِمْ يَهَ وَارَهُ وَرَايَ بَيْنَ دَوْنَهُ آسَهُ نَهَ كَاذِبُهُ تَمْنِ بِحَرْزِ يَوَانَ كَيْنَبَهُ - تَمْنِ وَوَدْنَهُ آسَهُ بَيْسَ طَرْفَسُ كُنَ  
كَوَهْمَانَ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ يَهَّ پَاهُ آسَ آسُ تَمْنِ آزْمَالِيشَ كَرَانَ بِحَيَازَهُ تَمَّ  
آسَ نَاْفَرْمَانَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَإِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا بِي

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ  
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا  
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسُوِّمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ

پر ژھو کہ حض تمہہ ونگ حال تہ یلہ تمہو بنی اسرا نیلو آندہ اک جماعتن وون تہتہ جماعتس سم نافرمانن  
نصیحت کران آس کیا زہ چھوہ نہہ تمن لو کن نصیحت کرنہ سیت پئن وقت ضائع کران تمن عنقریب اللہ  
تعالیٰ نافرمانی ہندہ سبہ ہلاک کرہ وون چھوہ نہ کڈر عذابہ کرہ وون چھوہ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ تمہو نصیحت کرہ و نیو دو پکھ، آس چھہ تمن نصیحت کران تہتہ آس تہندس پروردگار س نشہ عذر  
پیش کر تہہ بری الذمہ سپد و بیہ دیوہ تمن سانہ نصیحت کرنہ سیت کینہہ اثر سپدہ تہ تم روزن ہد وارہ دوہہ  
شکار کرنہ نشہ پتہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہس یلہ تمن موٹھ تہ سو زوی سمہ سیت تمن وعظ تہ نصیحت  
کرنہ یوان اوس یعنی تم زوونہ پتہ نافرمانی نشہ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ اسمہ دیت نجات تمن  
سم امہ بیچہ کامہ نشہ تمن منع کران آس وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ تمن نجات و تہہ  
کر اسمہ گرفتار تم لو کہ سمو ظلم کور سخت بیچہ عذابہ سیت بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تہ کیا زہ تم آس نافرمانی  
تہ عدول کھی کران قَلَمًا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ کہس یلہ تمہو زیادہ سر کشی کر باز آئی نہ تمہو بیچہ کامیو نشہ  
سمو نشہ تمن منع کرنہ اوس یوان قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اسمہ کور تمن محضورت۔ حکم کور تمن بہ  
سپد و اندر ذلیل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يُسُوِّمُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
بیہ کرسو وقت یاد یلہ اعلان کور تہندس پروردگارن کہ ضرور کرہ مسلط سو تمن بہودن بیٹہ سمو گستاخی تہ  
نافرمانی کر قیامتس دوس تان تھین حاکمن سم تمن سخت سخت عذابو سیت تکلیف و اتاوان آس

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا  
 مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ  
 وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۷۰﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا  
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا  
 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ  
 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّهُ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ پزیاہ جہنم پروردگار چھوہلہ سوہتہ سخت عذاب کرہون  
 تہ بیہ چھوہ سیٹھاہ مغفرت کرہون تس تسس نافرمانی نشہ بازاہیہ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا بیہ کرہ اسہ  
 تمن دنیاس اندرواریہ جمائہ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ چنانچہ آؤ اس تمواندرہ نیکوکار  
 تہ بیہ آس اؤتھہ بدل یعنی بدکار وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کر تمن بدکارن  
 تہ آزمائش رتیو چیز وسیت۔ صحت تہ دولتہ سیت بیہ بیچھ چیز وسیت یعنی بیماری و فقرہ سیت بیٹھ تہ سیت  
 بیچھ کامیونہ پتھ روز تھ اسہ سُن پھیرن تہ رجوع کرن۔ کیا زہ کنہہ چھہ خوشحالی، صحت و غنا باعث  
 ہدایت بنان، تہ کنہہ چھہ بدحالی تہ فقر و بیماری باعث عبرت بنان۔ یہ اوس حال تہندین اسلافن ہند مگر  
 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ پس سپد تمن پتہ تہند خلف تہ  
 جانشین تھئی لو کہ سمو تورات تمن نغیر حاصل کر تو پتہ آس امی تورا تک آیات کن کن سمہ اونی زندگی  
 ہند سامان حاصل کران۔ تو پتہ ترہہ بدیاتی کر تھہ اتھہ کنہس حقیر زانان وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا بیہ آس  
 بے پروائی سان دپان اسہ چھونہ کانہہ پروا۔ اسہ سپدہ سارنی گنہن بخشائش کیا زہ اسہ چھوہ خدایہ سُن پتھو  
 خدایہ سُن یارتہ دوست وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ تم چھہ پتہ بے باکی تہ گناہ حقیر زانہ تس پیٹھ  
 تیوت ڈاؤ کرہون۔ کہ ہر گاہ آیدہ دوبارہ وین کنہہ تس پیٹھ تمن کینہہ مال حاصل سپدہ سو کرن حاصل پتھ  
 روزن نہ تمہہ نغیرہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کیاہ تمن



الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ  
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۴۰﴾  
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ  
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۴۱﴾ وَ  
إِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ

نشر چھناتمہ کتابہ ہندہ سمہ مضمونک عمدا امت ہینہ کہ خدائس کن لاکن نہ کانہ کتھاہ واقی تہ پڑہ کتھہ  
ورای۔ تھہ بدل کم کم اہیز چیز نور اور اوتمو، تمے لاگھہ خدائس کن۔ حالانکہ تمہو پور سو عمد نامہ ئس تورائس  
منزل لیکھتھ اوس مگر تمہو کورنہ دنیاک متاع فانی حاصل کرنہ خیطرہ تمیک کانہہ پروا **وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ**  
**لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** حالانکہ آخر تک گھرہ چھو بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ ہم خدائس کھوژن۔  
تھہ کامیہ تہ بیچھ عقاید و نشرہ روزن ہتھ۔ ای بہوود کیاہ توہم چھنایہ کتھ فکرہ تران **وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ**  
**بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ** بیہ تم لوک بنی اسرائیل اوندہ زورہ تھہہ کر تھہ  
چھہ تھہ کتابہ یعنی تورائس بیہ چھہ نمازہ ہنز تہ پابندی کران اس کرونہ ہرگز تمن نیکو کارن ہنز مزور تہ  
ثواب ضایع۔ تم پائس امہ طریقہ اصلاح کرن تہ سنبھان **وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا**  
**أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ** بیہ پائیو کہ ژئیس تمن بہوودن یلہ اسہ کوہ تھو دتل تمن پیٹھ تراوندہ خیطرہ۔ ہمندین  
کلن نزدیک تھاؤ سائبا تک پاٹھ تمن سپد یقین کہہ بیہ پیو اسہ پیٹھ **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ**  
**لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تھہہ حاس اندر فر موؤ کہ اسہ کہہ جلد کرو قبول یہ کتاب یوسہ اسہ توہم عطا کر۔ مضبوطی  
سان۔ بیہ کرو تم احکام یاد تم اتھہ کتابہ منزل چھہ ہتھہ ہتھہ منقی تہ پر ہیز گارہ ہوتہ لے کر وتلہ تراوودہ بیہ کوہ  
توہم پیٹھ۔ بیہ گو خاص عہد ئس بنی اسرائیل کرناونہ آس امت جبراً۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیان کران  
عام عمد ئس ساری بنی آدم انسان آس کرناونہ امت **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ**  
**ذُرِّيَّتَهُمْ** بیہ پائیو کہ ژئیس سو وقت یلہ ہمند پروردگارن عالم ارواحس منزل حضرت آدم علیہ السلام

أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ إِنَّ  
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا  
أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا  
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ  
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَلَوْ شِئْنَا

سندہ پیشہ منزہ تہند اولاد، تہند ین اولاد ہند یو ہشتو منزہ تہند اولاد نمبر کڈہ  
بیہ تھاون گئے پان پانس پیٹھ گواہ۔ سارنی پر تھن آسٹ بریکم کبیاہ یو پھوس نا تہند پروردگار قالوا  
بل ساروی دوپ بیشک تری پھوک واقعی رب سون۔ امہ وقتہ آس حاضر کرنہ آمت ساری ملایک  
بیہ مخلوقات۔ ساروی دوپ شہدنا آس ساری چھہ امک گواہ۔ یہ سو زوی اقرار نہ گواہی آیہ رفہ  
اَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ یتھنہ تھہ وتھہ بیجو قیامتگ دوہ پزپاٹ آس آس امہ  
توحیدہ نشہ بالکل بے خبر اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ بیہ یتھنہ تھہ وتھہ  
بیجو کھ شرک کورنہ مگر سانیو مایو بڈ بیو۔ آس آس تہند اولاد تمن پتہ۔ آسہ یلیہ وجھہ تم لی کران آس تہ  
پک تہنزی وتہ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیاہ آسہ کرکھ ژہ ہلاک تمن غلط کارن ہندہ پیچھ  
کامہ سبہ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آس چھہ تھہ پاٹھہ ویشہ ناوتھہ ہن آیات بیان  
کران۔ یتھہ تم حقیقت معلوم سپدنہ پتہ شرک وکھرہ نشہ پتھہ روزن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ  
ایتینا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغايبين بیہ ہر وہز تمن بیہ وڈن پیٹھ کس شخصہ سند  
قیصہ کس آسہ پنہ نین آیاتن ہند علم عطا کورمت اوس۔ یعنی پلعم ہا عورا۔ کس دراؤ سوتمو آیا تو منزہ یعنی  
تمن آیاتن ہند یو ہدایا تو موجب پچنہ۔ مال دنیا ک طمعن کڈس کل او پتہ لگس پتہ شیطان۔ کس سپد سؤ  
ڈلیو اندرہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا ہر گاہ آس یشہ ہو تھود کرہ ہو کس شخصہ سند مرتبہ۔ ہر گاہ سوتمو

لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ  
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ  
 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۶﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ  
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۷۷﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
 فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۷۸﴾

آیاتو تہ ہدایاتو موجب پھر ہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر سوسید مایل تہ خام طمع ذنیاء س کن وَاتَّبَعَ  
 هَوَاهُ بیہ پوک سو پتہ پتہ نفسہ جن خواہش۔ زنانہ ہندس ونہ نس پیٹھ کرن عمل تہ آیاتو موجب کرن  
 عمل تراون فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آیاتو موجب عمل کرن تراونہ موکہ یوسہ پریشانی تہ ذلت تس وکنہ  
 آیہ تمہ اعتبارہ چہہ تسنز۔ مثال ہون سنز ہش مثال إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ہر گاہ تہ  
 تس چہ کر کہ، تس پیٹھ حملہ کر کہ، زیو کڈہ نمبر۔ ہر گاہ چہ کر ہس نہ توتہ کڈہ زیونمیر۔ یعنی بس چیز ہونس  
 آڈرنہ منز لازم آمت آسہ تھاونہ سو چیز تراونہ سوئمنہ حالتس منز۔ تھے پٹھ بس آڈرنہ منز خست تہ  
 ذلت تھاونہ آسہ آمز سو تھہ تراونہ نہ کمنہ صور تس منز ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 بیہ چھہ مثال تمن لوکن ہنز سمو لہز زان سان آیات یمن منز توحید ورسالتچہ دلیلہ چھہ فَاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بس بیان کرو تم قصہ تم بہبودن دیوہ تم فخرہ بین سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ حقیقتس منز چھہ سیٹھا چھہ مثال تمن لوکن ہنز سمو  
 سان آیات اہز زان۔ تمہ سیت واتنو کہ نقصان تہ ظلم پان پانس مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ بس  
 اللہ تعالیٰ ہدایت کرہ سوی چھو ہدایت لہون وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تم سو و تہ  
 نعرہ ڈالہ بس چھہ تمہ ابدی تاوانس منز پنہ وال تمن نعرہ ہدایتک توقع تھاون یا تہندس بے ہدایت روزہ  
 بس پیٹھ غمگین سڈن چھو بے کار۔ تم لوک یلہ نہ پنہ عقلہ ہندین قوتن کامی چھہ ہیوان تمن بچار بنہ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۹۸﴾  
 وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا اللّٰذِينَ يُلْحِدُونَ

ہدایت۔ لہذا چھ تہیدہ واتح جانی جنم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ اسے چھ پیہہ کرمت چھٹس منز روزنہ خیطرہ واریاہ شخص جنوا آندرہ تہ انسانا آندرہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تمن ناوہ، خیطرہ دل چھو۔ مگر زان چھو کہ نہ تگان کینہہ۔ تم چھنہ تمیک ارادے کران کہ اسہ گوژہ فخرہ بزوان کینہہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ آچھ تمن مگر درنیٹھ چھ نہ یوان کینہہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ گن تمن مگر بوڑن چھ نہ تگان کینہہ۔ پڑتھ یام کنن گرہہان چھ تام چھ گوش دوان اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ غرض تم لو کہ چھ آخرتہ نعرہ بے توجہ آسٹس آندر گمان تہ چارپانی بلکہ تہیدہ خوتہ یژڈلت اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ تمے لو کہ گئے غافل کیاڑہ تم چھ باوجود حس دت تہ بے حس لاگان۔ غفلت چھ مرضوا آندرہ اکھ بوڑ مرضاہ۔ امیک علاج چھو خدایہ سُدیاد وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا خدایہ سی چھ رت رت ناوٹس آسو چھہ ای مسلمانو تموی ناووسیت تس آلودوان، سُدیاد کران۔ تم چھ حدیث شریفس منز نمہ نمت (۹۹) ناویان کرنہ آمت۔ بیہ چھو آمت حدیث شریفس منز ٹس تم اسماء یاد کرہ سوژاؤ جنٹس تموناووسیت آسوس پتھ پاٹھ آلودوان : يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ يَا مَلِکُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامٌ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِیْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا فَهَّارُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِیْمُ يَا بَاضُ يَا بَاسِطُ يَا حَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا سَمِیْعُ يَا بَصِیْرُ يَا حَکْمُ يَا عَدْلُ يَا طَیْفُ يَا خَبِیْرُ يَا حَلِیْمُ يَا عَظِیْمُ يَا غَفُوْرُ يَا شَکُوْرُ يَا عَلِیُّ يَا کَبِیْرُ يَا حَفِیْظُ يَا مُقِیْمُ يَا حَسِیْبُ يَا جَلِیْلُ يَا کَرِیْمُ يَا رَقِیْبُ يَا مُجِیْبُ يَا وَاسِعُ يَا حَکِیْمُ يَا دُوْدُ يَا مُجِیْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِیْدُ يَا حَقُّ يَا وِکِیْلُ يَا قَوِیُّ يَا مُتِیْنُ يَا وِلیُّ يَا حَمِیْدُ يَا مُحْصِیُّ يَا مُبْدِیُّ يَا مُعِیْدُ يَا مُحِیُّ يَا مُمِیْتُ يَا حِیُّ يَا قِیُوْمُ يَا وَاجِدُ

فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۰﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً  
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي  
مَتِينٌ ﴿۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُؤَخِّرُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِي  
يَا مُتَعَالِي يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ يَا مُتَقِمُ يَا عَفُوُّ يَا رُؤُوفُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا غَنِيُّ يَا مَانِعُ يَا نَاصِرُ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي يَا وَارِثُ  
يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ وَذُرِّ الَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ تَرَاوَعُ كَه تَم لَوْ كَه تَم ذُلَان تَهْجَرُ وَتَهْ پَكَا  
هَجْه هَمْدِين نَاوَن اُنْدَر یعنی اللہ تعالیٰ اُس ہجھ پائے پنہ طرفہ نَاوُ شُر او ان یا تہمند ناوہجھ تَس ورا ی بین  
پٹھ استعمال کران یا ہجھ ہجھ صفحہ ہند ناوُ تَس پٹھ استعمال کران۔ تم سیت مہ تھاو و تعلق سَيُجْزَوْنَ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بروئحہ یکن تلن تم نتیجہ تمیک یہ تم کران چھہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ  
وَبِهِ يَعْدِلُونَ جن تہ انسان اُنْدَر ہجھہ ساری ذلمتی بلحہ ہجھہ سانیو مخلوقا ندرہ اکھ جماعتہاہ تم دین حق  
یعنی اسلامہ موجب ہجھہ لوکن و تھہ ہاوان بیہ ہجھہ پنہ نین لوکن ہندین مُعاملاتن اُنْدَر عدل و انصاف  
کران وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بیہ سمولو کو اہن زان سان آیات تم  
کھا رو کہ اُس آہستہ آہستہ نافرمانین اُنْدَر سیٹھاہ تھو دتھہ پاتھہ ہجھہ پاتھہ نہ تمن زانہ نومی ہجھہ یو تان تم  
نار ہجھہ تَس نزدیک سِدَن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ بیہ دمہ یو تمن مہلت، جلدی کر کہ نہ گرفتار  
عذاب دنیاس اُنْدَر۔ پزپاٹ میون تدیر ہجھو سیٹھاہ مضبوط أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ  
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کیا سمولو کو کرنا غور تہ فحکمہ آخر آیات اللہن انکار کران۔ تمہ کہہ خراب نتیجہ نشہ  
غافل رُو ز نگ کیاہ سبب ہجھو۔ تم آیات پیش کرہ و ن صاحب نعوذ باللہ بے عقل ہجھو نہ تمن کُنہ قسمہ  
مژر ہجھو نہ، عمر گیہ وہ توہمہ تمن سیت رُو ز تھہ تہمند حالات، تہمز عقل تہ گاٹہ جار، امانت تہ دیانت  
و چھان۔ تمن ہجھو اللہ تعالیٰ ان عقل کُل عطا کورمت۔ تم ہجھہ مگر نافرمانی ہندہ سز او عذابہ نشہ لوکن نین

مُبِينٌ ﴿۱۸۶﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ  
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ  
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۷﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَ  
 يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  
 مُرْسِمُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِأَهْلِ الْإِثْمِ تَوَلَّىٰ

پاٹھ بيم کرهون۔ یہ گوئس صاحبہ سند حال نيس صاحب آيات ہيتھ آو۔ وون نيس نعرہ ہيتھ آو سوزات  
 پاک گو سوي نيس ساری جمانک مالک تہ شهنشاہ مطلق چھو اؤ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کيا سمو وچھنا آسمان وزمينہ کس انتظامس تہ سلطنتس کن۔ بيمہ تہو چیز و آندرہ ٹنہ چیزس  
 کن تم چیز اللہ تعالیٰ ان پیدہ کرمت چھہ۔ کتھہ پاٹھ چھو تہند انتظام مضبوط تہ محکم۔ کتھہ پاٹھ چھو پرہتھ  
 چیزہ پرہتھ ذراہ تہندس کمال قدرتس پیٹھ گوانی دو ان۔ تہتھس شهنشاہ مطلقہ سند ارشادات یم تہتھس  
 پیغمبر برحقہ سند واسطہ تمن واتمت کن۔ تہ شوبہ نہ نظر انداز کرن ۗ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ  
 أَجَلُهُمْ بيمہ کرنا تمو غورہتھ کتھ کن کہہ تہندہ مرنگ وقت ما آسہ نزدیک ووتمت۔ تم کہہ تہتھ یں خدا نيس  
 بروٹھ کن۔ لہذا ہزہ ہاتمن مر نہ پتہ عذابہ نعرہ بچہ نچ صورت کرن۔ یلہ نہ قرآن مجیدہ سیت، یوسہ  
 سیٹھہا ہذ مقدس کتاب چھہ تمکن کینہہ اثر کتھہ، یلہ نہ تم قرآن مجیدس ایمان ائن تہ پڑھ کرن فَبِأَيِّ  
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن مجیدہ پتہ کتھہ تہ کتھہ کلامس ائن تم ایمان مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا  
 هَادِيَ لَهُ حقیقت چھہ یے کہ نيس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ تہس چھونہ و تھہ ہا وون کانہہ وَيَذَرُهُمْ فِي  
 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تعالیٰ چھو تمن کافر ن تراوان یلہ تہتھ تم سریشی آندر سرگردان سپدن۔ تو پتہ  
 دیکھ سزاکھ و تہ۔ لہذا مہ سپدن تہند دل مبارک نمگین یار رسول اللہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  
 مُرْسِمُهَا پر ژھان چھہ تم توہمہ یار رسول اللہ قیاس متعلق کہہ کر چھو تمحہ برپاسدنگ تہ واقعہ سپدننگ  
 وقت قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي تہہ فرما یو کہ تمیک علم چھونہ میانس پروردگارس وراي کانہہ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْإِبْرَغَةَ يُسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ  
عَمَّا قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾  
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ  
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ  
السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي

لَا يَجْعَلُهَا لِقَوْمٍ إِلَّا هُوَ ظاهر کرہ نہ تھے قیاس سے پنہ نس و قس بیٹھ کا نہہ سے تس و رای۔ تمہیہ ظہور ک  
وقت چھو نہ بیانے کر نہ آمت کا نہہ نغیر کیا زہ قُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُوْهُو سِيْطَاهُ يُوْلَانَاك  
واقعا سے حادثا ہا کہ آسمان وز مینس منز یعنی تمن دون ہندین بسہ و نین بیٹھ لَا تَأْتِيكُمُ الْإِبْرَغَةَ أمہ موکہ  
ایوہ نہ سو قیامت توہمہ مگر ہجہ سے منجہ تہزہ بے خبری منز یَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَمَّا پر ژھان سے  
چھہ تم لو کہ توہمہ أمہ قیامت۔ زن توہمہ تج پور خبر چھہ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ لہذا فرما یو کہ تہہ  
بصراحت کہ تمیک علم چھو نہ کا نہہ خدا نس و رای وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہ چھہ یہ تھہ  
زانی کہ بعضی علوم چھہ اللہ تعالیٰ ان تھاومت پنہ نس خزانہ علمس اندر محفوظ۔ حضرات انبیاء ان سے چھو نہ  
تمن ہند تفصیل باونہ آمت۔ قیامتہ و لہ سپد تک خاص وقت سے چھو تموی چیز و اندرہ کہ چیز قُلْ لَا أَمْلِكُ  
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرما یو کہ تہہ یا رسول اللہ قیامتہ معالج چھہ نس، سو چھو  
مخصوص خدایہ سدسی ذاتس سیت۔ مہ چھہ پانس متعلق پیش ایوہ و نین حالاتن ہنز سے کینہہ خبر۔ یو  
چھو نہ مالک سے اختیارہ و ول پنہ ذاتہ خظیرہ نہ کئہ نفیس سے نہ کئہ ضررس مگر تروی بہ ایشہن اللہ تعالیٰ  
بہرہ۔ یعنی یو ہجہ نہ پنہ نس ذاتس کا نہہ نفع و اتناو تھہ۔ نہ یمن پن ذات کئہ نقصانہ نغیر محفوظ تھاو تھہ  
تہ بچاو تھہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہر گاہ یوزانان آسما نچ پر تھہ کتھاہ تلہ  
واتاوہ ہا پانس تم تم خیر سے فائدہ یم نہ یو سو روی علم غیب نہ آسنہ موکھہ و اتناو تھہ چھو نہ ہکان۔  
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تلہ آسہ ہانہ مہ و اتان کئہ قسمک تکلفاہ، نہ آسہ ہامہ پیش یوان کا نہہ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهُ رَبَّهَا لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَئِنْ كُنْتُ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾  
فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا أَثْمَهَا فَتَعَلَى اللَّهُ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشُرُّوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ ج

ناخوشگوار حالتهاہا اِن اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ يُومِنُوْنَ يُوجھوس محض شریعتک حکم و اتنا و تھہ بيم  
کرہ و ن۔ تہ بشارت دہہ و ن تمن لو کن تم پڑھ کرن تہ ایمان انن نبوتک اصل مقصد چھو تشریحی  
امورن ہند علم آسن تہ کورمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کمال پتھہ رود امور تکوینین ہند علم سو چھونہ نبوتہ کیولو ازمو  
اندہہ۔ تمہہ اندرہہ ایشہن اللہ تعالیٰ ان یو تھہ تہو ہن کرن عطا زورہ تہ زبردستی سیت بیہونہ سوکانہ  
اکھ خدائس نشہ حاصل کر تھہ ہُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُو پروردگار گو سوی تم تہ پیدہ  
کر وہ اکی ذاتہ نشہ، سو گو حضرت آدم علیہ السلام وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا تمی اسمہ ذاتہ منزہ کوزن  
پیدہ جوہرہ تہد یعنی حضرت حواء لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تہہہ سوالفت تہ قرار رتہ تہس سیت فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ اودہ یلہہ در کمال لطف و انبساط حضرت آدمن پان پئن و ول حضرت  
حواء س یعنی ہمستری کرن تہس سیت سو سپز باردار، تہس حمل ابتداء س اندر لو توی اوس، چنانچہ سو  
ہتھہ آس سوارہہ یور ہتھہہ ہیکان فَلَمَّا أَثْقَلَتْ تمہہ پتہ یلہہ چہ سہدہ دہہہ خودہ دہہہ بڈنہ سیت سو گو بے  
یہ تم لگ دوشو بے نابرنہ۔ دہنہ لگ بے کیاہہ ناقصہ چھو۔ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا دوشوی باژومونگ اللہ  
تعالیٰ اس یعنی پنہ نس پروردگار س یہ مشکل گو تھہ آسان سپدن لَئِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ  
الشَّاكِرِيْنَ دہنہ لگ سانسہ پروردگارہ ہر گاہ تھہ آسہ عطا کرہ ہن رتہ فرزندہ اس سپد و ضرور شکر گزارو  
اندہہ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا تہس یلہہ اللہ تعالیٰ ان رتہ صحیح و سالم فرزند عطا کر تہک جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ  
فِيهَا أَثْمَهَا ائی لگ بنی آدم خدائس شریک ٹھہراونہ اتھہ مہربانی اندر یوسہ مہربانی سُو عطا اوسٹھہ



وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ  
 تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
 أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 صَادِقِينَ ﴿١٩٩﴾ أَلَمْ أَرْجُلُ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ  
 وَيَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ وَيَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ

کران مَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ ہندتہ بالا منزہ تہ پاک تمہو ساروی شرکچو کھتھو  
 نیشہ یمہ نس کن بنی آدم لاگان چھہ۔ ایشُرُون مَالِ الْخَلْقِ سَيِّئًا وَهُمْ يُخْلِفُونَ کیاہ تم بنی آدم  
 چھٹا نس تے چیز شریک تمہر او ان سمنہ کینہہ تہ ہمکن پیدہ کر تھہ۔ تم چھہ پانہ مخلوق پیدہ کرنہ آمت۔  
 معبود ہیچہ آتھہ سوئی نس نہ پانہ مخلوق آسہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ بیہ  
 ہمکن نہ تم معبودان باطل تمہو اندرہ کانہہ اک سنزیاری کر تھہ۔ نہ ہمکن تم پنہ نس پانس کانہہ یاری کر  
 تھہ بین یاری کر نچ کیاہ چھہ تھی وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ کم ہر گاہ ہبہ تمہن معبودان  
 باطلن سمنہ کامہ خیطرہ نادو بو تم تہندس آلوس تہ ناس اجابت ہمکن نہ کر تھہ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
 أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ تہندہ خیطرہ چھہ دوشوے امر برابر۔ ہبہ تمہن نادیتو توتہ تم تہند آلو  
 بوزن نہ یا تھو پے کر تھہ روز توتلمہ چھہ تھی إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ  
 اسی مٹھر کو ہز پانچ سمن تمہن ہنز ہبہ عبادت تہ پرستش کران چھوہ خدائیس ورا ای تم چھہ تہندی پانچ  
 خدایہ سند مملوک تہ بندہ، پانہ خدایہ سی کن محتاج پریتھ چیزس اندر تہندی پانچہ فَادْعُوهُمْ  
 فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پس دیتو ہبہ تمہن ناد تمہن ہزہ تہندس تھہ ناس اجابت کرن  
 چھوے ہبہ تہندس معبود آسکس اعتقادس اندر پزیر تہندس آلوس کیاہ کرن تم اجابت تمہن چھہ تم  
 تان پور تمہو سیت کام چھہ یوان کرنہ وچھو اَلَمْ أَرْجُلُ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ وَيَبْشُرُونَ بِهَا  
 أُمَّهَاتِهِمْ وَيَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ ہبہ وچھو توارہ کیاہ کھور چھاتن تمہو سیت پکہ ہن

بِهَاءِ أَمْرٍ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ  
 بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ ﴿۱۹۵﴾  
 إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۶﴾  
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا

تم کیا ہے تمہیں سموسیت رکھتی ہے کہ ہن کینہہ کیا ہے آچھہ چھا تم سموسیت و چھتھہ بیچہ ہن۔ کیا ہن چھا  
 تم سموسیت یوزتھہ بیچہ ہن کینہہ۔ بلہ نہ تم قوت تم اندر موجود چھہ لہذا کوسہ کوم بیچن تم ہنز  
 کر تھہ قیل فرماو یو کہ ہتہ یہ تھہ یہ یار سول اللہ کہ تھہ پاٹھہ تم معبودان باطل پنہ نین پرستش کرہ و نین  
 کانہہ نفع و اتاؤس منز عاجز تھہ تھہ پاٹھہ چھہ پرستش نہ کرہ و نین کانہہ ضرر و اتاؤس اندر تہ سخت عاجز  
 یو چھوس تم پرستش کرہ نس سخت مگر۔ ہر گاہ تم اتھہ کینہہ چھو ہتہ کڈ تو پنہ دلگ ارمان ادعوا  
 شُرکاءکم ہتہ دیونا تم پنہ نین ساری شریکن تم ہتہ معبود برحق چھو کہ شریک ٹھہراوان تھہ  
 کیدون تو پنہ کر تھہ ساری تم سمیت رکھتھہ یہ تکلیف مہ ضرر و اتاؤنہ کین تدابیرن اندر  
 کوشش تو پنہ بلہ تو ہہ کینہہ چھہ فلا تنظرون تمہ ساتہ متہ دیعومہ اکھ ذرہ تہ مہلت۔ بلکہ گدھہ میہ پیٹھ  
 تہ سوروی فور اچلاؤن یہ تو ہہ مشورہ کر تھہ مقرر آہوہ کورمت۔ یوتہ وہ چھہ کیا بیجو ہتہ تہ ٹھہر معبودان  
 باطل کر تھہ۔ تھہ نین معبودان باطلن ہنز چھنہ تھی تم چھہ بالکل مہمل بے کار۔ پتھہ رو دودہ ہتہ تو ہہ  
 اورہ یورمہ تکلیف و اتاؤنہ خیطہ اتھہ کھور زبٹھہ راویو۔ مہ چھونہ تمیک تہ کانہہ پروا کیا زہہ إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ  
 الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ پڑ پاٹھہ میون دوست، مددگار تہ مالک چھو اللہ تعالیٰ سمسہ  
 مددگار آسک یو ڈیوٹ چھو کہ تم کر مہ پیٹھہ نازل سو کتاب یوسہ خیر دارین کین ساری چیزن جامع  
 چھہ۔ سو چھو عموماً نیک بندن پانہ مدد کران۔ حضرات انبیاء گئے نیک بندن ہند سردار۔ یوتہ چھوس  
 نبیؤ اندرہ اکھ فرد کامل۔ لہذا چھو میون تہ سو یقیناً مددگار وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ  
 نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَبْصُرُونَ پتھہ رو دودہ تم معبودان باطل تم ہنز ہتہ پرستش کران چھوہ معبود

أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٥﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا  
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خذ العفو وأمر  
بالعرفِ وأعرض عن الجاهلین ﴿١٩٩﴾ وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ  
الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ

برحقس وراي تم بيکن نہ توہمہ کا نہ مدد کر تھ نہ بیکن پنہ نین پان مدد کر تھ۔ مدد کرن گیہ بدتھ وآن  
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ہر گاہ جہہ تمن کا نہ کتھ وندہ خیطرہ آلودیو سو آلو تہندتہ بیکن نہ تم  
بوز تھ کیا زہ ہتھ پاٹھ نہ تمن نشہ بوز نک تان موجود ہتھ پاٹھ جہنہ تمن نشہ وچھک تان تہ موجود،  
تہزن سکل تہ صورتن اندر سمہ آہتھ بناوند آثرہ ہتھ تمہ ہتھ بالکل بے کار ہتھوک ژہ کتھو تھو ژہ  
انیہ پنہ نومی و تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ چنانچہ جہہ ہتھوک تم معبودان باطل و چھان۔  
زن تم توہمہ کن وچھان جہہ۔ حالانچہ تمن جھونہ فی الواقع وچھک تو تھی کا نہ۔ کیا زہ تحقیق منہ جہہ  
تم وچھتھی ہیکان کینہہ۔ آتھ کن نظر کر تھ گدھہ تہندین بین قوتن ہند قیاس کرن۔ کس تھین عاجزون  
نشہ کیاہ جھوہ جہہ مہ کھوژہ ناوان۔ اژہ صرتح پزہ دلیلہ بوز تھتہ آس نہ تمن کافرن ہندس کفرو  
عنادس منزگنہ قسمہ کی سپدان۔ سمہ سببہ ذات مقدس منزگنہ گھہ نگ احتمال اوس۔ سو غصہ تہ  
ژک دور کرنس منز جھو اللہ تعالیٰ فرماوان خذ العفو وأمر بالعرفِ وأعرض عن الجاهلین اکی پیغیر  
برحق جہہ کرو اختیار ژکھ وزہ درگدر کرنس۔ بیہ کرو جہہ رژن کاین ہند حکم حسب معمول۔ بیہ منہ کرو  
النفات جاہلن کن جہہ روزو بدستور بین کوم کران وَاَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ بیہ ہر گاہ نہ وقتہ  
شیطانہ سدہ طرفہ کا نہ وسوسہ پیدہ پیدہ توہمہ ہتھ منز احتمال آسہ خلاف مصلحت کا نہ کوم کرنگ  
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تمہ ساتہ مچو پناہ پنہ نس خدا کس شیطانہ سدہ شرہ تہ وسوسہ نشہ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
ہز پات سو جھو سو زوی بوژہ ون، سو زوی زانہ ون، تہند پناہ مکن جھو بوژان۔ تہند مقاصد تہ مطالب  
جھو بوژان۔ ہتھ پاٹھ خدا کس کن توجہ کر تھ شیطانہ سدہ شرہ نشہ پناہ مکن تہندہ خیطرہ مفید جھو ہتھ پاٹھ

اتَّقُوا إِذَ امْسَهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٦١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يِقْصُرُونَ ﴿٦٢﴾  
وَإِذَ الْم تَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا الْوَلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى


ہو ساری خدائیں کھوڑہ وین بدن ہندہ خیطر ہتہ سیٹھاہ مفیدہ ان الذین اتقوا اذ امسہم طیف من الشیطان تذکروا پڑ پڑ پڑ ہم خدائیں کھوڑہ وین بندہ چھہ بلہ تمہن ہتہ شیطانہ سہدہ وسوگ خیال گذاران ہو تم ہتہ چھہ فوراً تمہہ ساتہ خدایہ سندس یادس سیت مشغول سپدان، اعوذ باللہ پران۔ خدایہ سہد عظمت و جلال، ثواب و عذابک یاد کران۔ **فَاذَاهُمْ مُبْصِرُونَ** کس چھہ فوراً تہنہزہ اچھہ مؤرنہ یوان۔ تو پتہ چھہ حقیقت تمہن پیٹھ ظاہر سپدان۔ سمہ سیت نہ تمہن پیٹھ خطرک کانہ اثر چھو واتان **وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يِقْصُرُونَ** شیطان ہندبای ہم چھہ تمہن نہ خدایادے پیوان چھو تمہن چھہ ہم شیطان گرائی کن کھکھہرہ یکہ ناوان۔ لہذا چھہ ہم گرا ہی اندر مہنہ قسمہ کمی کران۔ **وَإِذَ الْم تَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا الْوَلَا اجْتَبَيْتَهَا** بلہ نہ ہتہ تمہن نشہ تہنہزہ خواہشہ مطابق کانہ فرماہی مجزہ پیش کران چھوہ۔ کیا زہ مجزہ پیش کر نک اختیار چھو خدایہ سی اتھہ تمہہ ساتہ چھہ ونان تم ہر گاہ توہہ پیغمبر برحق چھوہ تلہ کونہ ابوہ توہہ ژار تھہ پتہ خیطر ہرت مجزہ سمہ سیت چھہ پیغمبر آسن ثابت سپدہ ہا قُلْ **إِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي** ہتہ فرما یو کہ میان کوم چھہ پتہ اختیارہ توہہ نعہ مجزہ پیش کرن۔ میان اصلی کوم چھہ کہ بوکرہ نہ پیروی مگر تھہ یہ مہ کن وحی سوزنہ یوان چھو میانس پروردگار سہدہ طرفہ۔ نبوتہ خیطرہ چھو مجزہ آسن ضروری تمہہ خیطرہ چھو ساروی مجزہ و اندرہ یوڈ مجزہ یہ قرآن مجید۔ یوہے چھو بے شمار دلیلہ تہندس پروردگار سہدہ طرفہ۔ امیک پر ہتھ سورہ شریفہ چھو اکھ اکھ دلیل، پر ہتھ آہہ کریمہ چھو اکھ اکھ دلیل۔ پر ہتھ آہس چھہ امی موکھ آہہ ونان کہ سو چھو بجای خود اکھ دلیل۔ تہی چھہ ساری انسان ہتہ جن قرآن مجیدہ کس آگس آگس آہہ کر تمس سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ عاجز تہی

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

پھو پریتھ آہ کریماء اکھ اکھ مجزاء ہذا ابصا کر من ربکم وھدی ورحمۃ لِّقَوْمٍ یؤمنون تمیک یوفاندہ تہ نفع چھو بالفعل تمن لوکن ہندہ خیطرہ تم تھ مانان تہ پڑھ کر ان جھہ۔ تہندہ خیطرہ چھو بوڈ ہدایت تہ رحمت۔ مگر سو فاندہ تہ نفع حاصل کرنہ خیطرہ چھہ کینہہ شرانظ۔ تم گئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بلہ یہ قرآن مجید پر نہ آسہ یوان تلہ آسز و جہہ سوکن دار تھ وارہ یوزان۔ بیہ آسز پانہ ژھوپہ کر تھ روزان تھ تہمہ تمیک مجزہ آس تہ تجہ تعلیمات و ہدایات فجرہ ترن۔ تھ تہمہ مزید رحم ایہ کرنہ بیہ فرماو تہہ پریتھ شخصس کہ اکی شخصہ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ پنہ نس پروردگارہ سندیاد آس کران قرآن مجید پر نہ سیت، تسبیح و تہلیل پر نہ سیت پندہ جایہ، آہستہ آہستہ، لوتہ لوتہ، عاجزی سان تہ خوفہ سان۔ بیہ آس بڈہ بڈہ پر نہ خوتہ کم کم آوازہ سیت پران عاجزی تہ خوفہ سان بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْصَالِ صبحس تہ شامس تہ یعنی ہمیشہ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ بیہ مہ آس غافلوا اندرہ تم تمہہ ذکرہ تہ تراوان جھہ بمن ہند حکم چھو تہ بیہ سیٹھاہ ضروری جھہ۔ حاصل چھو کہ یاد خدا کر جھہ وقتہ گڑھہہ عاجزی تہ خوف حاصل سپدن آوازہ ہندہ اعتبارہ گڑھہہ نہ سیٹھاہ بڈہ یاد خدا کران، بس لوکن باعث تشویش سپدہ۔ نہ گڑھہہ بالکل سستی سان ہرن سمہ سیت غفلت تہ نندر طاری سپدن نہ گڑھہہ زیادہ لوتہ ہرن یوسہ نہ پآس تہ فجرہ ترکس نہ زیادہ بڈہ ہرن سمہ سیت حضورس اندر فتور ایس إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ بيشک تم ملایک تہندس خدایہ سند مقرب بندہ جھہ لَا يَمْتَلِكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَعِينُكَ وَلَكَ يَسْجُدُونَ تم تہ جھہ تہمزہ عبادتہ نغہ تکبر کران۔ بلکہ جھہ تہمزہ عبادتہ کران بیہ جھہس پریتھ وقتہ پاک گزران، زیوہ سیت یاد کران، بیہ جھہس سجدہ ووان یعنی تالوسیت تہ تہونید یاد کران۔ بیہ آہ کریمہ پر نہ سیت تہ بلوزتہ سیت چھو پرہ و بس تہ یوزہ نوین پیٹھ سجدہ منہ کھسان۔ مچ دلیل جھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

# وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ وَلَهُ يُسْجَدُونَ ﴿۱۰۶﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ساری قرآن مجیدس منز چھہ ژوداہ (۱۰۵) آیہ کریمہ تمن ہندہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت سجدہ تلاوت چھو مٹہ کھسان۔ امام شافعی صائس چھہ سم پنداہ آیہ کریمہ، سجدہ تلاوت چھو پر تھہ مسلمان مردس تہ زنانہ پیٹھہ لیس عاقل تہ بالغ آسہ مٹہ کھسان۔ دیوانس تہ نابالغس، یا عذرہ واجنہ زنانہ پیٹھہ چھونہ یہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت مٹہ کھسان۔ سجدک آیہ کریمہ ہر گاہ روان پیہ پر نہ تلہ چھو سجدہ مٹہ کھسان ہر گاہ چہ کڈت الگ الگ حروف پر نہ یں تلہ چھونہ مٹہ کھسان۔ سجدک کانہہ آیہ کریمہ ہر گاہ بے وضو پر نہ لیہ تھہ چھونہ کانہہ خرچ۔ مگر سجدہ گوشہ نہ بے وضو دیں۔ بلکہ گوشہ میہ کتہ وقتہ سمہ ساتہ وضو آسیس سجدہ دیں۔ ہر گاہ نماز اندر آیہ سجدہ پر نہ لیہ سو سجدہ گوشہ تمی ساتہ امامہ سندنہ مقتدین ہند تہ ادا کرن۔ سجدہ تلاوت ادا کرنک شرط چھہ شہ ۶ چیز۔ طہارت بدن آسن، طہارت لباس آسن۔ طہارت جای آسن، استقبال قبلہ آسن، ستر عورت آسن بیہ سجدہ تلاوت نیت کرن، سم گے شہ چیز سم نمازہ ہندہ خیطرہ ضروری چھہ۔ اتھہ پاٹھ کانہہ نماز تمو شیہ چیز وورای دُرست چھنہ اتھہ پاٹھ چھونہ سجدہ تلاوت تہ تمو شیہ چیز وورای دُرست۔



## سُورَةُ الْأَنْفَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا  
 اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ  
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ جهادس آندرس مال دُشمس نشہ حاصل کرے لیے تھے چھ مال غنیمت و نان۔  
 بیاکہ ناؤ چھو تمیک نفل تمووی جمع گوانفال۔ چونکہ یتھ سورہ شریض منز چھہ جهادک تہ مال غنیمتک  
 احکام امی مناسبہ آؤ یتھ ساری سورہ شریض سورہ انفال ناؤ تھاوند۔ یہ حکم آویان کرنے شمہ وقتہ سمہ  
 وقتہ جنگ بدرس منز صحابہ صیین آندرجوان مجاہدن تہ ہڈین آندراختلاف سپد۔ جوانو دوپ کہ مال  
 غنیمتک حقدار چھہ آسی بوڈیو صاحبو دوپ چو چھہ آسہ تہ آس تہند مددگار، لہذا آڑھہ آسہ تہ آسہ منزہ حصہ  
 تزن، یو ہے اختلاف کور تمو پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تی ساتہ سپد یہ آسہ کریمہ  
 نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان پر ثھان چھہ توبہ صحابہ صیب یارسول اللہ مال  
 غنیمتہ تقسیمک حکم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تہہ فرماؤ یو کہ کہ مال غنیمت چھو خدایہ سند کپازہ فتح و  
 نصرت عطا کرہ ون چھو سوی۔ بیہ تہندس پیغمبرہ سند یہندہ واسطہ اللہ تعالیٰ احکام جاری کران چھو  
 فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کس کھو ٹرو خدا کس بیہ کرو باہمی تعلقاتن اصلاح۔ پانہ وان مہ تھاوو  
 بُغْضٍ وَحَسَدٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حکم ملاؤ خدایہ سند تہ تہندس پیغمبرہ سند ہر گاہ تہہ  
 یا ایمان چھوہ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالإِيمَانِ كُنْتُمْ نَشْرًا بِلَهُ  
 ذکر کرنے آسہ خدایہ سنز، تہنز عظمک زیر نظر آتھ چھہ شان تہند دل وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۳) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ  
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۴) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۵) كَمَا  
 أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 لَكِرْهُونَ ۶) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ  
 إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۷) وَإِذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى

ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سے پہلے پر نہ یوان چھہ تمن پیٹھ خدایہ سند آیات۔ ہران تہ مضبوط  
 چھہ سپدان تہوند ایمان، بیہ چھہ تم پنہ نسبی پروردگارس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران الَّذِينَ يُقِيمُونَ  
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تم بایمان گئے تم سے تم قاسم تہ برپاچھہ تھوان نماز۔ بیہ نس مال آسی  
 تمن عطا کور تمہہ منزہ چھہ خرچ کران خدایہ سزہ وہ تہ اندر اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تمے کیا گئے ہز پانٹھ  
 بایمان لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۴) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ جہندی خیلرہ چھہ جہندس پروردگارس نشہ  
 تھہ درجہ بیہ یوڈ مغفرت تہ عزتک رزق کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ یہ ہند مال غنیمتس  
 منز اختلاف کران بیہ نہ تہزہ ہ مرضی مطابق یہ تقسیم سپدان چھو لہہ مصلحتہ موجب۔ ہتھ پانٹھ توبہ کڈوہ  
 پن پروردگارن پنہ گھر ہستی تہ شہرہ منزہ اکس خاص مصلحتس پیٹھ یعنی مال غنیمتس اندر اتہزہ ہ مرضی  
 موافق تقسیم نہ سپد نس منز تہ چھہ مصلحت۔ ہتھ پانٹھ تہندہ مدینہ شریفہ منزہ میدان بدرس کن کڈ نس  
 اندر مصلحت آس وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ درحالیہہ اکھ جماعتہہ آس بایمانواندرہ جہندس  
 تمہہ وقتہ کس مدینہ شریفہ اندرہ نیر نس ناپسند کران يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ بحث و قضیہ آس  
 کران تم توبہ سیت مشورہ پانٹھ پزہ کتھہ منز تمہہ ظاہر سپد نہ پتہ۔ بے سلاح و سامان جنگس نیزن  
 قریش سیت جنگ کران تم باسلاح و سامان آس اوس تمن ثبوت مشکل لبہ یوان كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى  
 الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ زن تم پکناونہ آس یوان مارنہ خیلرہ اچھن ڈیشمان۔ یعنی تم آس مر نکب



الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ  
الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝<sup>۸</sup>  
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ  
سَنِ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ  
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اسباب بے سرو سامانی بنیں و چھان۔ وَاذْذِعُوا لَكُمْ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنْهَمَا لَكُمْ نَجْمہ کرم و سُوْوت  
یادیلہ اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمود کہ دشمن ہمز و ذُوْیو جماعتو  
اندرہ چھ آکھ جماعت ضرور تہندہ خیطرہ تمن بیٹھ سپد و نجبہ غالب و تَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ نَجْمہ آسبہ ہند کران کہ غیر مسلح جماعتی گدھہ سانس اتھس منزین تمن سیت نہ مقابلہ تہ  
جنگ پیہ ہاکرن مگر وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ اوس یشھان کہہ  
سُوْیو راوہ ہاؤ پونہ حکمہ سیت پیہ گالہ ہا مول کافر ہند لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  
کافر ہند مول گلنہ سیت تہ بیٹھ پز یک پوز آسن تہ اپز یک اپز آسن اللہ تعالیٰ وارہ ثابت کرہ اگر چہ  
نافرمان ای تن سونا پندی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ یہ گوسوی وقت سمہ ساتھ فریاد  
آسبہ کران نجبہ پنہ نس پروردگار سن، مکان آسبہ نس فتح و نصرت نس کر تم اجابت تہندس معہ  
نَسَ اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِيسَنِ الْمَلَكَةِ مُرْدِفِينَ یہ فرمانہ سیت کہ بو کرہ توبہ مدد، اکھ ساس ملک  
سوزنہ سیت تم اکھ کس سیت آسن روز تھ لیجئ تھ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوبُكُمْ  
یہ ملائکن ہندہ ذریعہ مدد کران کورنہ اللہ تعالیٰ بن مگر تہندہ خوش کرنہ خیطرہ۔ بیٹھ تہند دل اسباب فتح و  
نصرت و بھتہ خوش گوش۔ بیہ بیٹھ تہند دل قرار رثن وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ھیتس منز چھنہ  
نصرت تہ یاری مگر خدایہ سدی طرفہ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پز پانھ اللہ تعالیٰ چھو زبردست تہ حکمتہ

حَكِيمٌ ۱۰ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ  
 مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَّهَّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ  
 الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۱۱ اِذْ  
 يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا  
 سَالِقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ  
 الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۱۲ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

دول اِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ یہ پاورٹیس سو وقت میں وقتہ اللہ تعالیٰ ہن تو بہ بندہ ہن زما ی  
 وجوہ پینہ طرفہ۔ تو بہ پورہ سکون تہ قرار نہ خیرہ و يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَّهَّرَكُمْ بِهِ  
 یہ پاورٹیس تمہہ بروئہ سمہ ساتہ او سُن تو بہہ پیٹھ آسکھہ طرفہ رُود تروومت۔ بیٹھ تہہ تمہہ رُودہ سیت  
 پاک کرہ بے غُسل کرن غُسل تہ بے طہارت کرن طہارت و يُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ یہ  
 بیٹھ سو دُور کرہ تو بہہ نغہہ شیطانہ سبہہ و سوچ ناپاکی و لِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ یہ بیٹھ تہی سیت تہہ نہ دل  
 مضبوط کرہ و يُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ یہ بیٹھ تمہہ رُود پینہ سیت تہہ نہ کھوروارہ درراوہ۔ کیا زہ سیکھ چھہ  
 رُود پینہ سیت دران۔ میہہ چھہ رُود پینہ سیت رَب دو تھان اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلِكَةِ اِنِّي مَعَكُمْ یہ  
 پاور سو وقت تہ تیس سمہ ساتہ تہہ نہ پروردگار حکم سوزان اُوس تہن ملائکین اُن تم تہہ نہ مددہ خیرہ  
 سوزنہ آمت آس۔ اے ملائکو و سو میان بالیمان بندن بہہ مددہ خیرہ۔ بو تہ چھوس تو بہہ سیت  
 مددگار فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اے ملائکو مددگار زانتھ تھاو تہہ مضبوط بالیمان ہندول سَالِقِيْ فِيْ  
 قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بو تراوہ کافر ہندین دلن اندر خوف تہ وحشت فَاضْرِبُوا فَوْقَ  
 الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ہس شمشیرہ ژنڈو کھہ گردن پیٹھ یہ ژبو کھہ تانہ تانہ ذٰلِكَ  
 بِاَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ یہ سزا چھو تہن اسی سببہ کہ تم بو کر مخالفت خدایہ سزہ یہ تہہ نہ س پیغمبرہ سزہ  
 وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ یہ ہس اکھاہ خدایہ سزہ تہہ نہ تہہ نہ س پیغمبرہ سزہ

شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ  
 عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَقْتُمُوا الَّذِينَ  
 كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآدْبَارَ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ  
 دُبرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ  
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶﴾  
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

مخالفت کرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس گرفتار۔ ذلکم فذوقوه وان للکفرین عذاب النار  
 اسم عذابک مزہ ژہو تہہ بہہ زاویہ تہہ کہ کافران ہندہ خیطرہ چھونار جہنمک عذاب آخرتس اندرامہ  
 دنیاء کہ عذابہ علاوہ یایہا الذین امنوا الذین کفروا زحفا ای باایمانو یلیہ تہہ کافران  
 سیت مقابلہ کر نہ لکو پتھر زمیس پیٹھ وستھ پیادہ فوجی ہتھ فلا تولوہم الادبار نس مہ پھر و تہن کن  
 پشت پن پان بچانہ خیطرہ ومن یولہم یومئذ دبرک نس اکھاہ امہ دہہ کافران کن تھر پھر تھ  
 ژکن ہہہ الامتحرفا لقتال او متحیزا الی فتنة مگرے پشت پھران تہن کن جھکے عنہ مصلحتہ خیطرہ یا  
 امدادی فوجس سیت شامل سپد نہ خیطرہ تلہ چھونہ کانہ حرج۔ نتہ نس ژلنہ خیطرہ تہن کن پشت پھرہ  
 فقد بآء بغضب من اللہ نس تھیق سو آو خدایہ سز بڈ بیزاری ہتھ۔ وما وہ جھنم تہنر جای  
 جھہ نار جھنم وبئس المصیر سبھاہ جھہ جاری جھہ سو جھنم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم ای  
 مسلمانو توہہ مارو کھہ نہ تم کافر جنگ بدرس منز۔ بلکہ مار تم اللہ تعالیٰ ان پانہ وما رمیت اذ رمیت و  
 لکن اللہ رمی اے پیغمبر برحق تہہ ہمز چھونہ میڑہ موٹھ یلیہ بظاہر نمی چھوہ بلکہ چھ سو پانہ اللہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ ﴿۱۹﴾ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ﴿۲۱﴾ وَلَا

تعالیٰ ان۔ یہ کور اللہ تعالیٰ ان اٹھ یتھہ کافرن مغلوب کرہ۔ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا یہ یتھہ اللہ تعالیٰ بالایمان پینہ طرفہ رت انعام واحسان عطا کرہ۔ یعنی کوم کر حقیقتاً تم پانہ مگر سوی کوم کرن مسلمان ہند یوا تھویا نبی کریم سیدہ دست مبارکہ یتھہ تم امیک ثواب تہ اجر یہ یو ذ انعام حاصل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پز پانھہ اللہ تعالیٰ چھو سمن بالایمان ہنزہ سارے تھہ یوزہ ون یہ یہ ہند اعمال و افعال پور و چھہ دن ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكٰفِرِينَ اٹھ گئیہ تھہ۔ دویم تھہ چھہ یہ اللہ تعالیٰ اس آس کافرن ہند ساری تدبیر سست تہ بیکار کرن اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ ای کافر و ہر گاہ تہہ فیصلہ ژھانڈان چھہ بیشک سو فیصلہ سپد ظاہر۔ مسلمان سپز فتح حاصل۔ سیمہ سیت معلوم سپد کہ تھند دین چھو پوز دین۔ نمی دینچ شوبہ پیردی کرن اِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وون ہر گاہ تہہ شرکہ نشہ پتھ روز تھہ مسلمان سپد وتہ چھو تھندہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر اِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ہر گاہ تہہ دوبارہ یہہ شرارت کرو تلبہ چھہ اس تہ دوبارہ اسلامس تہ مسلمان مدد کرنہ خیطرہ تہ کافرن شکت و نہ خیطرہ تیار۔ توبہ مہ روزن خیال کہ آئندہ کرو اس امہ خوتہ بد لشکر جمع یہ تھاوزہ یقین کہ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر گز دینہ نہ توبہ کانہہ فایدہ بد جماعت تھنز اگر چہ آستن سو سیٹھاہ زیادہ تعدادہ کن۔ یہہ چھہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ چھو بالایمان سیت پر یتھہ وقتہ مددگار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ای بالایمانو فرما ہر داری



وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۳﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۴﴾  
 وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ  
 أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ

شخص سے تہمتیں دے کر منز دُوبو طریقوں سے کہ گواہی مانے سندس دے کہ چھوڑنا اطاعت کہہ کر نہ کفر و مہینے  
 کن نوان۔ بیا کہ گواہ فرہ سندس دے کہ چھوڑنا مخالف شامتہ سے نحوستہ ایمان و اطاعت کن کا نہ اتھ و تھ  
 دوان۔ امی اندرہ سپد معلوم طاعت و فرمانبرداری پیٹھ مداومت سے ڈاڈ کرن ہتھ سیٹھ مفید۔ مخالف سے  
 نافرمانی پیٹھ ڈاڈ کرن ہتھ سیٹھ مضر وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بے زانوہ کہ تھ کہ تھہ ساری ایوٹس معبود  
 برحق نشہ سو نہ۔ سوی دہ فرمانبرداری رت جزا نافرمان سخت سزا۔ ہتھ پاٹھ تو بہ پیٹھ پینہ  
 اصلاحہ خیرہ فرمانبرداری واجب ہتھ پاٹھ چھو واجب تو بہ پیٹھ بین لوکن ہند اصلاح کرن۔ تمن  
 منز فرمانبرداری ہند شوق پیدہ کرن۔ اتھ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس زیوہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس  
 تعلقات ژفہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس یا صرف دے اندر نفرت کرنہ سیت۔ یہ گوئی شم درجہ ایمانگ  
 ۔ ورنہ نئس مہانت کرہ یعنی گناہ و چھ تو بہ کرہ نہ تھہ تردید تلہ چھو تمہ گنہگ وبال سے سزا نئس شخص  
 تہ۔ یلہ حقیقت یہ ہتھ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لہذا کھو ژو تھہ  
 بلا یہ یوہ نہ خاص تمنی یا ژولہ ایہ۔ تمہ تو بہ اندر ظلم و نافرمانی کر بلکہ سپد تھہ منز ساری گرفتار  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے زانوہ کہ اللہ تعالیٰ سب عذاب چھو سیٹھ سخت وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ  
 قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ بے پاوژ تمیں یلہ تھہ ہجر تہ برو تھہ کم تہ کمزور آسوہ متہ شریفس اندر  
 تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تھہ آسوہ کہ تھہ مانوہ لو کہہ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ تھہ حاس اندر وژ  
 وہ چھن جای خدا کن مدینہ شریفس اندر۔ بے کر نوہ تا سید پینہ مدہ سیت وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
 تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۷﴾  
 وَعَلِمُوا أَنَّ مَوَالِكَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ  
 عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۴۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ  
 يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴿۴۹﴾

تَشْكُرُونَ بیه کر نوه رُت رزق عطا یُتھ تہہ شکر گزار ی کمر و یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَخُونُوا اللَّهَ  
 وَالرَّسُولَ ای با ایمانواس ہجھہ توبہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشہ سہہ موکھہ ممانعت کران کہہ توبہہ پیٹھ ہجھہ  
 خدایہ سہہ تہہ پیغمبر خدایہ سہہ کہنہ حق مہہ۔ تم بجائہ سیت واتہ توبہہ نفع تہہ فائیدہ۔ نافرمانی سیت جھو تمین  
 حقوقن اندر خلل تہہ نقصان واقع سپدان۔ سہہ سیت تہہ سہہ سئ نقص تہہ فایدس منز خلل تہہ نقصان واقع  
 سپدان جھو۔ بلہ یہ تھہ توبہہ فہرہ ترہ۔ لہذا مہہ تراوو خلل بیه مہہ کرو خیانت خداور سولہ سہہ سہہ حقن اندر  
 وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ گوہ حقس اندر تہہ پنے نین قابل حفاظت چیزن اندر خلل تہہ نقصان  
 واتانوں۔ دیدہ ودانستہ۔ زانتہ کر تھہ۔ اکثر اوقات جھو مالک تہہ اولادن ہند محبت خُل سپدان خداو  
 رسولہ سزہ ہ فرمانبرداری۔ لہذا دیدہ تہہ خداور سولہ سہہ سہہ محبت و اطاعتس ترجیح مال و اولادن ہندس  
 محبتس پیٹھ۔ یُتھہ اس و جھو کہہہ اکھاہ جھو مال و اولادن ہندس محبت ترجیح دو ان سانس محبتس پیٹھ  
 وَعَلِمُوا أَنَّ مَوَالِكَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وارہ زانو کہہ تہہ مال تہہ اولاد  
 ہجھہ لہہ آزمائش تہہ امتحانگ چیز یہ زانو کہہ اللہ تعالیٰ اس نشی جھہ بدمزدو تمین لوکن ہندہ خیرہ سہہ تہہ ہندو ی  
 محبت زیادہ تھاوان جھہ بین ساری ہندہ خو تہہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ای  
 با ایمانو ہر گاہ تہہ کھو تر و خدا سس، تہہ سز و پور اطاعت سز کرہ توبہہ امتیازی نشانہ عطا و یُكَفِّرْ عَنْكُمْ  
 سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بیه کرہ دور تہہ زہہ بدیہ بیه کرہ مغفرت توبہہ ساری  
 گنہن۔ اللہ تعالیٰ جھو بوڈ فضلہ وول۔ پنے فضلہ سیت کرہ سوامہ علاوہ خبر کم کم چیز عطا۔ سہہ نہ وہم و

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيَتَّبِعُواكَ أَوْ يُقَاتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ اٰیْتُنَا قَالُوا  
قَدْ سَبَعْنَا لَوْنُسًا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا  
اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۴۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا  
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

گمناں اندر ہمیں کچھ واڈی مکر بیک اللذین کفروا ایٹتو ک او یقتلو ک او یخرجو ک بیہ پاوڈر تیس یلہ  
کافر توہیہ متعلق تدبیر یت مشورہ کران آس دار الندوس اندر سوچان آس تہمدہ خیطرہ قید کرنہ خیطرہ یا  
قتل کرنہ خیطرہ۔ یا جلاوطن کرنہ خیطرہ مختلف تدابیر ویکروون ویمکرو اللہ تم آس ہنہ خیالہ تدبیر  
سوچان اللہ تعالیٰ یت اوس ہن تدابیر کران تہمدہ تدابیر باطل و بیکار کرنہ خیطرہ واللہ خیر المنکرین  
اللہ تعالیٰ جھو بہتر یت رت مضبوط تدبیر کرہ ون۔ چنانچہ تہمدہ ساری تدبیر سپد ناکام۔ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم واتنا اللہ تعالیٰ ان تمنی کافر ن برون تھ کن پکنا و تھ وارہ کارہ بصحت و سلامتی مدینہ منورس منز  
وإذ اتتلی علیہم ایتنا قالوا قد سبعا لونسًا لقلنا مثل هذا ان یوان تمن  
کافر ن برون تھ کنہ سان آیات۔ ونان آس تم بیشک اسہ بوزیہ کلام بیہ جھونہ کانہہ مخرجہ۔ ہر گاہ اس ارادہ  
کر و اس یت بیکو تھ کلام پیش کر تھ ان ہذا الا اساطیر الاولین بیہ جھونہ کنہ یت مگر بیہ دلیل  
تھ پونہ۔ سمہ تھ برون تھن نشہ نقل کرنہ آمزہ جھہ وإذ قالوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ اَتِنَا بَعْدَابِ اٰیہ امہ خوتہ جھہ قابل ذکر بیہ تھ کہ سم  
آس ونان کہ خدایا ہر گاہ بیہ قرآن مجید پڑپا تھ جھو چانی طرفہ تلہ تراو تھ نہ مانہ خیطرہ اسہ پیٹہ آسما جھہ  
طرفہ کنہ رود۔ یتہ واتنا اسہ نشہ کڈر عذاب۔ بیہ آس نہ تمن خبر کہ خدایہ سز ن کا میں اندر جھہ خاص  
مصلحوہ آسان عذاب نہ کرہ کس منز چھہ کہہ نہ وجوہ آسان تمن وجوہن یت مؤانحن ہند بیان جھو امہ پتہ۔



وَأُثِّبَتْ بَعْدَ آيِ الْيَمِّ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ  
 فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝  
 وَمَا لَهُمُ الْأَيْدِيَّ بِهَمُّ اللَّهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۝ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ  
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيقَةً ۝ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى كَرِهَ نَهْ بِرْ كَزْ تَمِنَ عَذَابُ نُهْ تَمِنَ مَنَزْ مَوْجُودِ آسْخَسْ  
 حَاسْ أَنْدَرِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِهْ تَهْهْ پَاهْهْ كَرِهَ بِاللَّهِ تَعَالَى تَمِنَ عَذَابُ بِهْ  
 حَاسْ أَنْدَرِ تَمِ آسْهِنَ عَمْنَهْ مَنَهْ وَقْتَهْ هُفْرَهْ رَسْمَهْ مَطَابِقْ مَغْفِرَتِ مَكَانَ - طَوَافِ كِرَانَ كِرَانَ "غَفَرَ انْكَ"  
 پَرَانَ وَمَا لَهُمُ الْأَيْدِيَّ بِهَمُّ اللَّهِ تَمِنَ كِبَاهِ خُصُوصِيَّتِ آسْ تَمِنَ كَرِهَ بِاللَّهِ تَعَالَى عَذَابُ وَهُمْ يَصُدُّونَ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالَاهِ تَمِ آسْ بَدْ گَنَاهِ كِرَانَ لَوْ كُنْ تَهْ بِتَغْيِيرِ بِرْ حَقْسِ آسْ پَتَهْ رَنَانَ مَسْجِدِ حَرَامِ  
 نَهْهْ اِنَهْ نَهْ - وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ حَالَاهِ آسْ نَهْ تَمِ لَوْ كَهْ مَسْجِدَهْ هِنْدِ مَتَوَلَّى تَهْ اخْتِيَارَهْ وَآلِ - بِحَقِّ قَابِلِيَّتِي  
 آسْ نَهْ تَمِنَ - مَنَظَرِ يَقِهْ أَوْسْ نَهْ تَمِنَ تَهْ كَرْنُكْ حَقِّ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ تَمَكْ اخْتِيَارَهْ وَآلِ تَهْ مَتَوَلَّى  
 آسْجْ قَابِلِيَّتِ هَجْهْ مَكْرِ بِرْ هِيْزْ گَارِ بِنْدَنِ تَمِ گَنَے بِاِيْمَانِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيْكِنَ تَمَوْ أَنْدَرَهْ چَهْ  
 دُشْهْ كَيْتِ تَمِنَ نَهْ آسْجْ لَيْعِنِ پَنَهْ نَا قَابِلِيَّتِ خَبْرِيْ چَهْ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً  
 وَتَصَدِيقَةً بِهْ آسْ نَهْ نَمَازِ تَهْمَزْ خَانَهْ كَعْبَسِ نَهْ مَكْرِ آسُوسِيَّتِ شَرِيْنِ وَآيْنِ - بِهْ اَتْهَوسِيَّتِ ثَرَهْ پُوپِ  
 كِرَانَ اَتْهَ نَا مَعْقُولِ حَرْتَسِ آسْ نَمَازِ وَنَانَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لَهَذَا تَهْ هُوْدُونَ عَذَابِ  
 تَمَهْ هُفْرَهْ هَدَلِ نُهْ كِرَانَ آيَهْ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۲۷﴾ لِيَبْزِلَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا

ہر پاپا تم کافر چھتم تم چھتم مال میں خرچ کر ان لوگوں میں خدایہ سزا دینے سے بچنے کے لئے خیر ہ۔ ہو گیا تہنہ بدنی عبادت یہ کبیر تہنہ مالی عبادت فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ آئندہ سے روزن تم امہ خیر ہ مال خرچ کر ان۔ چولا کہ سپدہ سوماں تہندہ خیر ہ حسرتک سبب۔ چولا کہ سپدن مغلوب تہ ذلیل۔ یہ گوکھہ ذنیاعک عذاب۔ آخر تک عذاب گوکھ الگ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ سمو لو کو کفر کو تم ساری میں سونیر اونہ قیامتک دوہ جہنمیں منز سوزنہ خیر ہ لِيَبْزِلَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ بٹھ اللہ تعالیٰ الگ کرہ ناپاک لوگوں پاک لوگوں سے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ دیر بر تھ ناپاک لوگوں اکس پیٹھ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ یعنی اکھ اکس سبت بٹھ بٹھ تھاوتھ کھارہ تم ساری اکھ ڈیرا۔ توپتہ دیکھ یکہ وڈ بر تھ جہنمیں منز أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ سے لوکھہ کیا گئے تاوان زدیتھ تاوان زدگی نہاتھی چھونہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ فرماویکھ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرین میں برو ٹھم مضمون بوڑ تھ یکہ نہ اثر سپد مت آسہ کہ ہر گاہ تم کفر ہ تہ شر کہ نشہ پتھ روز تھ مسلمان سپدن تم نایہ برو ٹھس ساری بخشاش کرنہ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ہر گاہ دوبارہ یہ کفرے کرن بدستور روزن کفر سی پیٹھ۔ جس چھہ برو ٹھمیں کافرین ہنز روش گذرے مڑی۔ تمبو کیاہ کور تہ تم کیاہ بیو د وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ يُهْتَبُ بِهَا وَيَأْسُرُ الْكٰفِرِينَ وَبَارِئُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ فَاعْتَدِ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا  
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا  
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا  
أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿۴۰﴾  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ  
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

پیٹھ روزن یوتان یہ شرک و کفر کے سیدہ ختم۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ پرستہ طرفہ پھیلے  
دین خدایہ سندوی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو پتہ ہر گاہ تم پتہ روزن کفرہ نعرہ  
اللہ تعالیٰ چھو تہزہ سارے کامے و چھان وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ  
وَ نِعَمَ النَّصِيرِ ہر گاہ تم روگردانی کرن۔ تہہ روزو مضبوط۔ خدایہ سند ناو پتہ کفر و تہہ مقابلہ۔ تہہ  
زانو ہر پاتھ کہ اللہ تعالیٰ چھو تہہ رفیق۔ سوی چھو رت رفیق تہ رت مددگار تہہ و اعلموا أَنَّمَا  
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ بیہ زانو بیہ تہہ وارہ کہہ تہہ حق بیہ کیہ ہاہ توبہ کافر ان نعرہ مال غنیمت حاصل کرو جس و تہہ تہہ  
حکم۔ تہہ سارسی گزہن پانزہ حصہ کرنہ بن۔ تو پتہ گزہن تہہ پانزہ مس حصہ بیہ پانزہ حصہ کرنہ بن۔  
تمہہ منزہ پانزہ حصہ خدایس تہہ تہہ س پیٹہرہ سندہ خیرہ تھون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن  
نیابتہ خدایہ سند حصہ وصول تو پتہ کرن تم خرچ تمہہ منزہ پنہ نین ذاتی اخراجاتن پیٹہ۔ بیہ پنہ نین اہل  
قرابتن پیٹہ سموا ابتداء پیٹہ تمن نصرت و مدد کور۔ بنی ہاشم، بنی مطلبو اندرہ سخن زکوٰۃ رٹن چھہ حرام،  
بیہ تہہن تہ حاجت مند مسلمانن پیٹہ۔ بیہ مسافر ن پیٹہ۔ تمہہ پتہ تم ژور حصہ مال غنیمتک باقی چھہ تم بن

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾  
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى وَ  
 السَّرَكِبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي  
 الْمُبْعَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ  
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَإِنَّ

الشکرہ پیٹھ تقسیم کرنے۔ سوارس زہ حصہ، پتھر یکہ ونس اکھ حصہ۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى  
 عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ہر گاہ توہمہ پڑھ کر وہ خدائیس۔ بیہ کور وہ تس پیٹھ یقین۔ بیہ  
 تھ پیٹھ یہ آسہ نازل کور پنے نس بندہ خاص، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دوہہ۔ یعنی  
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ نہ ازہ جہاڑ با ایمان نہ کافر، اورہ یور مقابل سپدہ۔ یوم الفرقانہ اندر چھو مراد  
 جنگ بدر ک دوہ۔ سمہ دوہہ ہزس نہ اہزس فرق آہ کر نہ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ تعالیٰ چھو  
 پر تھہ چیز، س پیٹھ پور قدرت وول إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى سمہ دوہہ  
 تہہ آسوہ اے با ایمان میدان جھہ کس کنار س پیٹھ نیس مدینہ شریفس نزدیک اوس۔ کافر آس میدانہ  
 کس تھہ کنار س پیٹھ نیس مدینہ شریفہ نشہ دور اوس۔ وَالسَّرَكِبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أَبُو سَفِيَانَةَ سُدَّ قَافِلَهُ  
 اوس توہمہ یونمہ طرفہ سمندرہ کس کنار س قریب پکان وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمُبْعَدِ ہر گاہ  
 تہہ فریقین پانہ وان جنگ کرنے خیطرہ کانہ وقماہ مقرر کرہ ہو۔ تھہ وقس منز گوہہ ہوہ توہمہ اختلاف نہ  
 نیس و پیش ممکن اوس کہ پنے کم سامان آسہ موکھہ ملیہ ہو نہ تہہ وقس پیٹھ وَلَكِنْ مگر اللہ تعالیٰ ہن سو  
 نبر اوہ تہہ اورہ یور وقت مقرر نہ وراى لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا بیٹھ اللہ تعالیٰ جاری کرہ  
 سو حکم نیس تہس کردن اوس یعنی عزت اسلام شکست کفر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ  
 عَنْ بَيِّنَةٍ یہ تدبیر کتر اللہ تعالیٰ ان بیٹھ یہ نین قدرت وچھت ہلاک گڑھہ وان نہ ہلاک گڑھہ دلیل  
 وچھت۔ زندہ روزہ نیس زندہ روزہ دلیل وچھت۔ یعنی پر تھہ اکس سپدہ معلوم قدرت خدا۔ تھہ پاٹھ

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ اذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ قَلِيلًا  
 وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَاشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ  
 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾ وَ  
 اذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيِّبَاتُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ  
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ط وَإِلَى اللَّهِ  
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذِ الْقِيَامَةُ فَمَنْ

کفر تم تن یاری مسلمان۔ سازو سامانہ و رای کفر کھ فتح عطا و ان الله لسمیع علیہ بیہ جھو بیٹک اللہ  
 تعالیٰ سوری یوزہ ون، سوروی زانہ ون اذ یریکم اللہ فی متابکم قلیلاً سو وقت بیہ جھو یاد کرس  
 قابل یلہ اللہ تعالیٰ ان ہا وہ تو بہ کافر ن ہنز لشکر خو اس منز کم ولو اراکم کثیرا فاشلتم ہر گاہ  
 تو بہ ہا وہ ہو ہ سو لشکر زیادہ تعدادہ کن تلہ سپدہ ہو نہ کہ ہمت و لتنازعتم فی الامر بیہ کرہ ہو نہ  
 ضرور اختلاف جہاد کرس اندر و لکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ ان تھا وہ ہمو و شوی چیز دو  
 نہرہ بسلامت۔ نہ کفر وہ تو بہ اختلاف نہ سپدہ نہ کہ ہمت انہ علیہ ایدات الصدور ہر پانہ سو  
 جھو پور زانہ ون و کن ہنزہ تہہ۔ و اذ یریکم وہم اذ التیبات فی اعینکم قلیلاً و یقللکم فی اعینہم  
 بیہ پا و و تیس یلہ اللہ تعالیٰ ان ہنز ن نظر ن اندر ان تم کی سمہ ساتہ تو بہ مقابلہ ہیو توہ کرن۔ ہنز ن  
 نظر ن منز نہ ایوہ نہہ گمی بیٹھ جانین مقابلک جذبہ مضبوط سپدہ۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا بیہ  
 نہ کور اللہ تعالیٰ ان بیٹھ سو پورہ کرہ تہہ خمس یس خمس بہر حال کرن اوس۔ عزت اسلام۔ شکست کفر  
 و ایل اللہ ترجع الامور خدایہ سی کن چہہ سارے کامہ رجوع کر ان یا ایہا الذین امنوا اذا  
 لقیتم فناء فاشبوا و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ای ایمانوی یلہ نہہ جمادس  
 منز سمکھان آسو کافر ن ہندس نہہ جماعتس سیت۔ تمہ ساتہ گڑھہ تبین چیز ن ہند پورہ خیال تھا ون اکھ  
 گڑھہ ثابت قدم روزن، تر کن گڑھہ نہ۔ بیہ گڑھہ سیٹھایا و خد کرن بیٹھ نہہ کامیاب سپد۔ یاد خدا سیت

فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا وَاللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۵۵﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَا تَكُونُوا  
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ  
 يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿۵۷﴾  
 وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ  
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴿۵۸﴾ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَيْنِ

وَجُودِ قَوِي سِدَانِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیه گزیده خدایه سزیمه تهنیدس پیغمبره سز فرمانبرداری  
 کرن کانه کاهه گزیده نه خلاف شرع سیدن وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بیه گزیده نه پانه  
 دان هره هرته قضیه کرن تمه سیت گوهو پست همت ته سست - بیه دوته تهنید رعب وداب لوکنی همنان  
 نظرن اندر وَأَصْبِرُوا بیه کتر و صبر إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پز پاطه الله تعالی جهو صبر کره و نین  
 سیت سیت - تمسند سیت آسوی جهو نصر تک باعث وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
 بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ بیه مه آسوتبه تمن کافر لوکن ہی یم درای اته جنگس منز پنه نیوشهر و منزه  
 تکبر و غروره سان - بیه لوکن تهنیکان تهنیکان وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بیه درای لوکه پتھر رنه خیطره  
 خدایه سزیه و تهنه - وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ الله تعالی جهو تهنن ساری کائین احاطه کره ون  
 إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ بیه کتر و سودوه یاد ستمه دوهه شیطان تمن کافرن آندروسوسجه ذریعه  
 زینت ذیت وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ دو پتھر از پو شه نه توبه کانه ته لوکو اندره وَإِنِّي  
 جَارٌ لَكُمْ یو جهوس پانه تهنید مدگار فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَيْنِ نکلص علی عقیبیه اده ستمه ساته

نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ  
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾ إِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُؤَلَّا دِينُهُمْ  
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾  
 لَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ  
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ

دو شوے جہاڑ (با ایمان سے کافر نہن) اکھ اس مقابلہ لہ شیطاں آؤ بوزنہ ملائک ہند نازل سپن۔ تیکھ  
 ژول سو پوت پوتے وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ فندو، فریبو تہ آپز یو وعدو سیت ناو والتھ  
 لوکھ دپنہ مہ چھونہ توہہ سیت کانہ واسطہ۔ بوچھوس وچھان تی یہ نہ توہہ بوزنہ یوان چھو ائی  
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ بوچھوس کھوژان خدائیس۔ اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ  
 ون۔ خطرہ چھومہ کہ تیکھ جگس اندر مایہہ کوٹھس کانہ ژنڈاہ۔ عمرہ خیطرہ گھوہہ کوٹھہ برہم، إِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُؤَلَّا دِينُهُمْ سیمہ دوہہ منافق یہ تم لوکھ یہ ہندین  
 و لن اندر شیک بیماری آس و نان آس مغزور چھہ کرت سیم لوکھ یعنی مسلمان دین پن۔ ہلاکتس منز چھہ  
 زورہ ہن پان تراوان۔ تعدادہ کن کم آتھ۔ سامانہ کن کم آتھ چھہ یم مسلح فوجس سیت مقابلہ کرہ  
 خیطرہ آمادہ سپدان وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یمن  
 چھو پور توکل تہ اعتماد پنہ نس خدائیس پیٹھ۔ لہذا ئیس اکھاہ معبود برحقس پیٹھ توکل کرہ تمسند دل سپدہ  
 ضرور مضبوط تہ محکم۔ کیا زہ تہند مددگار چھو اللہ تعالیٰ بیشک سوچھوز بردست حمتہ وول۔ و لَوْ تَرَى  
 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ہر گاہ تہہ وچھو تمہہ سائک حال  
 سیمہ ساتہ تہن کافر ن قبض رُوح کران آس ملائک، توہہ پیہہ ہالوزنہ عجیب واقعہ۔ تم ملک آس تمہہ  
 ساتہ تازہ ویو ڈیسو سیت کافر ن ہندین تھین تہ تھرن پیٹھ چوب دووان۔ گویا لائھی چارج کران

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۵۱﴾  
 كَذَابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ  
 فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۵۲﴾  
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ  
 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾ كَذَابٍ إِلَىٰ  
 فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

وَذُو قُوَّةٍ أَعْدَابُ الْحَرِيقِ ۖ بیه آسجھ و نان و نہ کیاہ و چھوہ توہہ۔ ژ ہونا رہنمک عذاب۔ یہ عذاب  
 چھونہ آخرت کس عذابس نسبت کنسی ذلک بمآقدمات ایدیکم و ان اللہ لیس بظلام للعبد یہ  
 چھو توہہ تمن چھہ عملن ہند بدلہ سمہ توہہ پنہ نیواٹھو برونہ کن سوزوہ۔ یہ زانوہہ وارہ کہ اللہ تعالیٰ  
 چھنہ ہرگز بدن ظلم کرون۔ ناحق کرہ چھہ عذابس گرفتار کذاب ال فرعون والذین من قبلہم  
 سمکن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کہ کفر و نافرمانی پیٹھ او تمن سزا دہ۔ یڑھی یڑھ فرعونہ سدہ قوی  
 یہ تمن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کفر و آیات اللہ تمبوتہ کیا کور کفر تہ انکار خدا یہ سندین  
 آیاتن فآخذہم اللہ بذنوبہم ہس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان تہزن نافرمانین ہندہ وجہہ ان اللہ قوی  
 شدید العقاب پز پانچہ اللہ تعالیٰ چھو سینٹھاہ طاقتہ وول سخت عذاب کرہ ان ذلک یان اللہ لم یکن  
 مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم یہ تھہ کہ اس کیا چھنہ بجرمہ و رای سزا دوان  
 چھہ امی وجہہ کہ اسہ نغمہ چھو کہہ قانون تہ قاعدہ مقرر۔ سؤ گوزہ اللہ تعالیٰ چھونہ کنہ تھہ نفس بدلاوان  
 یوسہ سنہ قوس تم عطا کر مژ آہ۔ توتان یوتان نہ تے تمن کاین بدلاوان سمہ تمن سپر دتہ مطہ آہ  
 کرنہ آمرہ یعنی عبادت تہ اطاعت و ان اللہ سمیع علیم یہ تھہ چھہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی  
 بوزہ و ن، سوزوی زانہ و ن۔ تھہ حالت بدلاو جس معاملس اندر تہ چھہ تہنز حالت کذاب ال فرعون  
 والذین من قبلہم توہی یڑھ قوم فرعون تہ بین کافرن ہنز حالت آس۔ سم تمن برونٹھ



يَذُوبُهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۖ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾  
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾  
 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ  
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا تَشَفَّعْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرِّدْ بِهِمْ  
 مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ  
 خِيَانَةٌ فَأَبْذُلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٧﴾

آس کذبوا بآیات ربهم تم بکر پنہ نس پروردگارہ سیدین آیات انکار تہ تم زانجھہ اپز فاملکدکم  
 یذوبہم نلس گال تم اسہ سمی نمن تہ نافرمانین ہندہ وجہہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بیہ پھاؤ اسہ  
 فرعونہ سند قوم دریاؤس اندر وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ سم ساری آس سیٹھاہ سرکش تہ ظالم ان  
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بزپاٹھہ مخلوقواندرہ ہجھہ بدتر اللہ تعالیٰ آس نشہ  
 تم لو کہ بیوٹھہ کور۔ نلس ان نہ تم عنہ طریقہ ایمان الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ  
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ یمن سیت توہہ صلحک عہد و پیمان کردہ۔ تو پتہ ہجھہ تم پریتھہ لہ  
 پھراوان سو پٹن معاہدہ۔ بیہ ہجھہ عہد شکنی کر نلس کھو ژان تہ فَأَمَّا تَشَفَّعْتَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرِّدْ بِهِمْ مَن  
 خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ نلس ہر گاہ تہہ لہو کہ تم عہد شکنی کردہ ان جگس اندر مقابلہ کران۔ تم ن پیٹھہ  
 گروہہ تیتھہ حملہ کران۔ تہندہ سیت گروہن ژلراون تم تم تم ن پتہ آس مدد گاریا تم پتہ اوہ وان آس۔  
 تیتھہ تم عبرت زٹن وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ بیہ ہر گاہ تہہ کھو ژوتہ اندیشہ کردنہ تو پتہ عہد  
 شکنی فَأَبْذُلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ نلس واپس کور و تہدہ سو عہد تمنی کن۔ یعنی سو عہد پھڑ اوو۔ مگر تمہہ عہد  
 کہ پھڑ اوچ خبر گروہہ سپدن دوشون فریقن برابر برابر یعنی تم ن کردہ خبر جنگ واقع کردہ بروٹھہ کہ چونکہ  
 تہہ ہجھہ ہجھہ سمہ سمہ قسچی حر کش کران لہذا نلس عہد اوہہ سیت کردہ امت چھو سو گو ختم۔ تیتھہ تم توہہ  
 پیٹھہ بور کھارن۔ تیتھہ صاف اطلاعہ و رای تم ن سیت جنگ کران گیدہ خیانت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَهُمْ لِأَيُّعُزُّونَ ﴿۵۹﴾  
 أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ  
 لَاتَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ  
 فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

الْعَالَمِينَ ہر پانچہ اللہ تعالیٰ چھونہ خیانت کردہ و نین ہند کران وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا عُمانہ  
 مہ کرن کافر کہ تم کیا اثرل اسہ نشہ۔ وون ہیکو کہ نہ اس تم قابو کرتہ لَاتَهُمْ لِأَيُّعُزُّونَ پزپاٹ تم  
 ہیکن نہ اسہ عنہ چیزہ سیت عاجز نہ تنگ کتر تہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  
 الْخَيْلِ ای مسلمانو تیار کمر و کافرن سیت جمدار کرنہ خطیرہ یہ ممکن سپدوہ تہ سامانہ اندرہ، گور گدنت  
 تھانہ اندرہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تمہ سیت کھوڑہ ناویو کہہ تہہ خدایہ ہند دشمن تہ ہن  
 دشمن تہ یعنی مکہ کافر و آخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ بیہ مکہ کین کافرن و رای تہ باقی دشمن لَاتَعْلَمُونَهُمْ  
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تم نہ تہہ زانیکہ بلکہ زانیکہ اللہ تعالیٰ پور وَآتَيْنَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى  
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ بیہ لیس چیزہ خرچ کتر و تہہ خدایہ سزہ و تہ اندر سیتہ منز جماد تہ شامل ہتھو  
 تمیک بدلہ بیہ توبہ پور عطا کرنہ۔ توبہ نسبت بیہ نہ کانہہ کیاہ تہہ اندر کرنہ۔ حدیث شریفن اندر ہتھہ  
 تیر اندازی پچھ نچ مشق کر نچ، گرز پچھ نچ، گرس پیٹھ کھن پیچہ نچ سیٹھاہ فضیلت آمر۔ آرمہ وقتہ گو  
 بندوق، توپ تہ باقی آلات جدیدہ چلاون پچھن تمیک قائم مقام۔ عام طور و رزش کرن تہ تہہ منز  
 داخل وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا بیہ ہر گاہ کافر صلحس کن مایل سپدن توبہ تہ ہتھو اجازت کہہ  
 ہر گاہ تہہ تہ سپد و مایل تہہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بیہ کتر و تہہ اعتماد اللہ تعالیٰ اس پیٹھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ ہر پانچہ سوہ ہتھو سوزوی بوزہ ون۔ سوری زانہ ون وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي  
 آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ  
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
 آفَتَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَ  
 مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ  
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا  
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ

اللَّهُ بھہ ہر گاہ تم تو بہہ ڈھوکہ یڑھن دین، بس جھو بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہہ مدد کرنہ خیطرہ، حفاظت کرنہ  
 خیطرہ کانی۔ چنانچہ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ سُوگو سُوئی تم تو بہہ غیبی مدد کور  
 ملائکوسیت۔ ظاہری مدد کور بالایمانوسیت وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تم پروردگارن آفت تروو بالایمان  
 ہندسَن دِلن اندر لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَتَ بَيْنَهُمْ  
 ہر گاہ تمہہ خرچ کرہ ہو تہ سوزوی مال بس زمیس پیٹھ جھو توتہ ہیجہونہ آفت پیدہ کمر تھہ تھندسَن دِلن  
 اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فی تروو آفت ترم منز۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پزپاٹ سُو جھو زور آور حکمتہ وول  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای پیغمبر بس جھو تو بہہ اللہ تعالیٰ بھہ تم تو بہہ  
 سیت جھہ بالایمان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ای پیغمبر شوق تہ ترغیب دیو بالایمان  
 جہادک۔ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ہر گاہ تو بہہ منزہہ (۲۰) زن صبر  
 کرہون آسن تم پو شن کافر و اندرہ دون تہن (۲۰۰)۔ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ  
 کَفَرُوا يَا لَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بھہ ہر گاہ تو بہہ منزہہ اتھہ تھہ مجاہد صبر کرہون آسن تم پو شن اکس  
 ساس کافر س بیاہہ تم جھہ قومہہ تاسجھہ الشَّن حَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۴۵﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۴۶﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۷﴾ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ گوئوه نیک حکم علیہ صحابہ صیمن پیٹھ دشوار سپد، اللہ تعالیٰ ان کورسو حکم منوئخ۔ فرموان دون کر اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھ تخفیف۔ تم زون کہ توبہ اندر چھ سستی۔ لهذا چھوون یہ حکم کہ اگر توبہ منز آسن کہ ہتھ مجاہد ثابت قدم تم سپدن غالب دون جن کافرن پیٹھ۔ ولان یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ واللہ مع الصبرین بتھے پاٹھ ہر گاہ توبہ منزہ آسن کہ ساس مجاہد تم سپدن غالب دون ساس کافرن پیٹھ خدایہ سدہ حکمہ سیت۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو صبر کر وہ نین سیت سیت تم مدد کر ان ماکان لنبی ان یگون له اسری حتی یثخن فی الارض ای مسلمانو توبہ دیوتوہ مشورہ نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم قیدین نشہ یکہنہ مال ہتھ تم تراوانو ٹک۔ یہ گونہ جان۔ کیا زہ نبی کریمہ سدس شانس شو بہ نہ کہہ تہند قیدی کیامن جھڈ نہ قتلہ ورا ای بلکہ گزہن تم قتل کرنہ سن۔ تاہنکہ زمیںس منز سپدہ کافرن ہنز خونریزی، شرتہ فساد دفع تریدون عرض الدنیا ای مسلمانو توبہ چھوہ ژھانڈان دنیاک سامان تمی موکھ دژوہ رائے نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم تم قیدی فد یہ رتھ تراؤس پیٹھ واللہ یرید الاخرۃ اللہ تعالیٰ چھو تہندہ خیطرہ راضی آخر جس سامانس واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ چھو زبردست حکمتہ وول۔ سو کرہ ہا توبہ کافرن پیٹھ غلبہ و تھہ سیٹھہ مالدار لولا کتب من اللہ سبق لستکم فيما آخذتم عذاب عظیم ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ ان در روز آزل لیوکھمت آسا کہ تم قیدیو منزہ انن بعضی ایمان اسمہ سیت نہ کانہ فساد واقع سپدہ، سمیوک احتمال اوس نتہ

لَسْتُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷۸﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ  
 حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۹﴾  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي  
 قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَبْوَابِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ ﴿۸۰﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ  
 فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۸۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هَاجَرُوا

سپده ہا تو بہ پیٹھ یمن نشہ یہ فدیہ رینہ موكھہ بو ذعذاب نازل۔ چونکہ کانہ فسادہ واقع سپدنہ۔ تہند مشورہ  
 دراوا اتفاقا قارنوی سمدہ موكھہ تہہ سزاء نشہ محفوظ رودہ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وون كھيو تہہ  
 منزہ یہ توبہ حاصل كورہ تہن نشہ فدیہ پاٹ۔ حلال طيب زاتہ واتقوا الله ان الله غفور  
 رحيم یہ كھو ثواللہ تعالیٰ اس۔ آیندہ مہ سكر و بوشہ كام زانہ۔ بزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت كره  
 ون۔ رحم كره ون۔ گنہس سكر نوہ بخشائیس۔ یہ گو مغفرت۔ مال فدیہ كرنہ حلال یہ گنہہ رحمت۔  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ای پیغمبر فرما وون قیدین تم تہندس قبضس منز چھہ ان  
 يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَبْوَابِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تہندس دن اندر نیکی تہ رثر  
 وچھہ اسلام قبول كرس اندر تلہ كروہ سو توبہ عطا بہتر مال تمہ مالہ حوتہ نس توبہ نشہ وصول كرنہ آو  
 فدیس اندر وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ كره توبہ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت كره ون،  
 رحم كره ون وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ہر گاہ تہنز خواہش آسہ توبہ ڈھوكہ دین اسلام انہ سیت، یا  
 رسول اللہ، سوكہنہ نو تھہ چھنہ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ نہس تھیق تمو چھو ازمہ برو تھہ تہ خدا نس  
 پنہ خیالہ ڈھوكہ و تھت۔ مگر خدا نس ہی سہ نہ کانہ ڈھوكہ دتھ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ كس موقعہ دیت اللہ تعالیٰ  
 ان توبہ تہن نشہ انتقام پینك برو تھہ لہہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو زان وول۔ تمس چھہ خبر  
 خیانتہ وول تھہ چھو۔ حمتہ وول پنہ حمتہ سیت كره سوبہہ کانہ صورت سپدہ۔ سمدہ سیت تم بہہ گرفتار

وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا  
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا  
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِهِ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَقَعُّوهَا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

سہن۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَتْ اَوْ اٰمَنُوْا اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِزِيَادٍ سَمُوْا كُوْا اِيْمَانِ  
اُوْن بِيْه سَمُوْا هَجْرَتِ تِيْ كَمْر، بَنُوْن وَطْنِ مَمْتَهْ شَرِيْفِ تَمْرُوْ كَهْ دِيْعَجْمِهْ مُجَبَّتِهْ۔ بِيْه سَمُوْ جِهَادِ كُوْر مَالِ وَجَانِهْ سِيْتِ  
خَدِيْهْ سَبْزَهْ وَتِهْ اَنْدَرِ تَمْنِ صَحَابِهْ صَمِيْنِ چَهْمِهْ دِنَانِ مُهَاجِرِ وَالَّذِيْنَ اُوْوَا وَنَصَرُوْا بِيْه سَمُوْ لُوْ كُوْ تَمْنِ  
مِهَاجِرِنِ پَنِهْ نَسْ شَهْرَسِ اَنْدَرِ جَايِ دِثْر، بِيْه مَدِ كُوْر، تَمْنِ چَهْمِهْ دِنَانِ اَنْصَارِ۔ مَدِيْنَهْ مَقْرَبِ صَحَابِهْ صَيِّبِ  
اُوْلِيْكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ تَمْ چَهْمِهْ پَانِهْ وَاِنْ اَكْهْ اَسْمَدُوْ سَتِ بِيْه وَاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا  
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْا بِيْه سَمُوْ لُوْ كُوْ اِيْمَانِ اَتَهْ هَجْرَتِ كَمْرِنِهْ تَمْنِ چَهْمُوْنِهْ تُوْبِهْ  
سِيْتِنِهْ دُوْسْتِيْ بُوْدِ كَانِهْ تَعْلُقِنِهْ وَاِشْتِكِ۔ يٰ اَتَانِ نِهْ تَمْتِيْ هَجْرَتِ كَرِنِ۔ تَلِيْهْ چَهْمِهْ تَمْتِيْ تَهْ كَمْسِ اَنْدَرِ  
دَاخِلِ وَاِنْ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ هَرِ گَاهِ تَمْ تُوْبِهْ نَشْهْ دِيْخِيْ كَمْنِهْ كَامِهْ اَنْدَرِ مَدْرُ هَانْدَانِ۔  
يٰ مَنِيْ كَاْفِرِنِ سِيْتِ جِهَادِ كَرِنَسِ اَنْدَرِ تُوْبِهْ پَزِهْ تَمْنِ تَهْ اَنْدَرِ مَدْرُ كَرِنِ اِلَّا عَلٰى قَوْمِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيْثَاقٌ مَگْرُ كَمْنِهْ سِيْ كَمْنِهْ مَدْرُ كَرِنِ۔ يٰ لِيْهْ تَمْنِ مُقَابِلِهْ اَسِهْ كَرِنِ تَمْنِ لُوْ كَمْنِ سِيْتِ تَمْنِ تِهْ تُوْبِهْ پَانِهْ وَاِنْ كَنْبِهْ  
مِعَاوَدِهْ اَسِهْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰى چَهْمُوْ نَهْمَزَهْ سَارِهْ كَامِهْ وِجْهَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ كَاْفِرِ تَمْ چَهْمِهْ تَمْتِيْ چَهْمِهْ اُوْ اِذِيْنِ مَدْرُ وُوسْتِ وَاِرْثِ اِلَّا تَقَعُّوهَا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي  
الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ هَرِ گَاهِ نَهْمِهْ تَهْ كَمْسِ پِيْئِهْ عَمَلِ كَمْرِ وَنِهْ يٰ عِنِيْ مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ پَانِهْ وَاِنْ اَكْهْ اَسْمَدِ مُمْدِ تِهْ  
مَدِ گَارِ بُوْعُوْنِهْ تَلِيْهْ وَوَهْمِهْ مَلِكْسِ اَنْدَرِ فَنْتِهْ۔ بِيْه وُوْتَهْ بُوْ فُسَادِ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجِهَتْ اَوْ اِيْمَانِ

وَفَسَادٌ كَثِيرٌ ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدْ وَأَفِئ  
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَأَوْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
 حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ  
 وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدْ وَآمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۴۵﴾

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَأَوْ وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا بیه سہو لو کو ایمان آتھ ہجرت کمر بیه  
 خدایہ سزہ و تہ اندر جہاد کور۔ بیه سہو مہاجرین جای دہیہ امداد گور تم ساری مہاجرینہ انصار جہہ پز پانھ  
 مسلمان کہہ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تہندی خیطرہ جھو بود مغفرت آخرتس منز بیه باعزت روزی جنتس  
 منز وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدْ وَآمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ بیه تم لو کہ سہو ہجرت نبویہ پتہ  
 ایمان اون۔ تو پتہ ہجرت کمر، بیه تو بہ سیت شامل روز تھہ کافرین سیت جہاد کر، تم لو کہ سہو ہجرت نبویہ  
 اندرہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تم رشتہ دار جہہ مہاجرین سابقین ہند تم  
 جہہ زیادہ حقدار کہ اکس غیر رشتہ دارن نسبت، خدایہ سندہ حکمہ موجب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پز پانھ  
 اللہ تعالیٰ جھو پر ہتھ چیز از انہ دن تمی جھو پر ہتھ وقتہ مہ مصلحتہ موجب احکام مقرر کران۔



## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①  
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ  
 وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

یہ سورہ شریفہ ہے۔ بسم اللہ پر نہ یوں کہیںہے نہ کیاہے۔ بسم اللہ چھو نہ نازل سہمت آتھہ سیت۔  
 یوسہ عبارتہا قرآن مجیدہ کس حائیس پیٹھ لیکنہ آمز چھ سو چھ فرضی تمیک ہرن چھو نہ  
 ضروری۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ چھو خدا کس تہ تہندس پیغمبرہ  
 سندہ طرفہ تمہ معاہدہچ دست برداری کس توہہ مشرکین سیت کورمت اوسوہ۔ یہ صلح حدیبیہ وان  
 چھہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ۱۰ ہجری کس اندر عمرہ کرنہ خیطرہ۔ یلہ تم بمقام  
 حدیبیہ وات۔ کافرود یو تہکھ نہ متہ شریفہ منز اژنہ۔ چنانچہ اتھہ مقاس پیٹھ سپد کافرن سیت صلح۔ امہ  
 معاہدہ صلح مدت آڈتھانہ دہ وری۔ متہ شریفہ منز ہم یہ قبیلہ روزان آس تمن متعلق سپد یہ  
 فیصلہ کہہ ہم قبیلو اندرہ کس خوش کرہ سوروزہ نبی کریم سیت۔ کس خوش کرہ سوروزہ مکہ کین قریش  
 سیت۔ چنانچہ بنی خزاعہ رود نبی کریم سیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی بکر رود قریش سیت۔ کس  
 وری کس تان رود یہ صلح قائم مگر دو سہمہ ورہہ ۱۷، ۱۸ یہ تھہ آسٹن گمت صلح پیٹھ کہ بنی بکر کس  
 قریش سیت رلتھہ اوس کور اتھہ عیت اکھ حملہ بنی خزاعہ پیٹھ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سیت رلتھہ اوس۔ تمہ ویت امیک اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ تمہ ہمزہ تیاری کرن  
 قریش سیت جنگ کرنچ ۸ ہجری کس اندر کور کھ قمتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور اعلان کہ حدیبیس اندر کس  
 صلح کرنہ امت اوس تمہ نشہ چھو خدا یہ تہند پیغمبر دست بردار سپدان۔ سو صلح پھڑ و قریشو۔ لہذا  
 چھہ دن کٹہ جلیہ کافرن ہمدہ خیطرہ امن وامان صورتھہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کس پھیر یو  
 یہ ملکس اندر ژون ریتن خوف تہ خطرہ وراہی۔ تم ژور ریتھ گئے ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب  
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ یہ زانو کہ تہہ میسون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کتر تھہ۔ تہہ کیاہ نیر و تہندہ قبضہ



النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ  
رَسُولُهُ فَاِنْ بُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
غَيْرُ مُجْرِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا  
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ  
يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَمْ دَأَبْتُمْ إِلَىٰ عَهْدِهِمْ إِلَىٰ مَدَائِمِهِمْ

منزہ نمبر۔ - وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرَجُ الْكُفْرَيْنِ بِيَهُ زَانِيَةً تَهْتِكُهُ كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَهْوَا كَافِرِينَ سَوَا كَرِهُونَ دُنْيَا وَأَخْرَجْتَ  
اندر عذابس گر فگار کرند سیتِ - وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ بِيَهُ جَهْوَا  
اعلان عام یوان کرند خدائیس نہ تہندس پیغمبرہ ہندہ طرفہ بدہ جہکمہ دویہ۔ - إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
وَرَسُولُهُ سیمہ گوی زہ اللہ تعالیٰ نہ تہند پیغمبر جہو بالکل الگ تمن مشرکن نشہ سیمو پانہ سو عمد  
پھڑو ویس حد تیس منز کر نہ اوس آمت۔ مگر باوجود آن جہو ونہ یوان تمن کہہ - فَإِنْ بُبْتُمْ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دُونِ هِرْكَاهِ تَهْتِكُهُ كَرِهُونَ تَوْبَةً كَرِهُونَ تَوْبَةً جَهْوَا بہتر تہندہ خطیرہ دوشون جمان اندر۔  
دُنْيَا ہس اندر بچو قلدہ نشہ آخرتس اندر عذابہ نشہ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْرِي اللَّهِ ہر گاہ تہ  
اسلامہ نشہ اعراض کمر ولس زانو تہ کہ ہرگز بچیون نہ توہ پھرہ انتہہ عا جز کمر تہ اللہ تعالیٰ عنہ طرفس  
گن ثلثہ سیت نہ کھتہ روزنہ سیت یابہ کتہ چیزہ سیتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بوزہ ناویو کہ  
تہہ کافر دردناک عذاب خبر سیمہ نشہ نہ سم پتھی میں کتہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ  
يَنْقُصُوا شَيْئًا مگر پھتہ تہندیہ عمد تمن کافرن ہندہ حقہ سیمو توبہ سیت معاہدہ کورمت جہو۔ تو پتہ  
آسکہ نہ کتہ چیزس منز توبہ نسبت عمد پورہ کرس منز کی کر مثر - وَلَمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَمْ دَأَبْتُمْ  
آسکہ کانہ اکس تہندس دشمنو اندرہ توبہ مقابلہ مدد کورمت - فَأَتَيْتُمُوهُمْ إِلَىٰ مَدَائِمِهِمْ  
تمن سیت کمر و تہند معاہدہ پورہ تہتہ مدتس تان تمن سیت مقرر کرند آمت آسہ یعنی تم جہہ بدستور  
آمنس اندر۔ تہندہ حقہ چھتہ ایچ دست برداری کینہہ نہ۔ تم گے بنی خمرہ بنی مدن۔ تم زہ قبیلہ آس بنی

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷﴾ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ  
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾ وَإِنْ  
 أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ  
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

کناس اندر، سمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت معاہدہ کو رمت اوس جہنمیس معاہدس آس باقی ونبہ نوریتھ۔ سمو آس نہ عمد شکنی کر مشکینبہ تہ۔ لہذا رودیہہ معاہدہ باقی بدستور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بد عمدی نشہ پر ہیز کرہ ونبین دوست تھاوان فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ کس یلہ گڈرن تعظیمہ وال ریت کَافَتُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کس مار یوکھ مشرک یتہ پینوہ تہ تہ وَاَحْصُرُوهُمْ گر فتر کتر تھ تھا یوکھ قید وَاَحْصُرُوهُمْ پتھ ریوکھ تم خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ۔ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ زاگنہ رُووزو تہن پریتھ موقس تہ زاگن جلیہ پیٹھ قَان تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توپتہ ہر گاہ تم توبہ کرن گھر ہ نشہ بہ ہن کرنہ اسلامچہ کامہ، مثلاً نماز پر بن بیہ دن زکوٰۃ، پتھ تراویلیہ اہنزوتھ۔ دیوکھ پچنہ اورہ یور إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھاہر تم کرہون وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ بیہ ہر گاہ مشرکواندرہ کانہہ توہمہ پناہ معکھ توہمہ سیت ملاقات یٹھہ کرن۔ ٹہہ دیوکھس پناہ تہ اجازت حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تا ییجھہ توہمہ نش پتھہ بوزہ سوکلام خدا۔ ممکن چھو تمیک پیہ تس پیٹھ کانہہ اثر تھہ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ توپتہ واتاویون سو پناہ تہ اچٹہ جلیہ۔ تمس دیون سیت حفاظتہ خیطرہ پین کانہہ شحصاہ۔ یوتان سو پینہ نس جمائس نشہ ولتہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ بیہ گڑھہ امی خیطرہ کرن کہ تم چھہ بے خبر اسلامہ کیوا حکامو نشہ ممکن چھو ہر گاہ ٹہہ تس دیوکھ پائس نشہ پینہ، سو یوزہ توہمہ نشہ اسلامچہ کتھ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا  
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ  
 تَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلايَةَ تَرْضَوْكُمْ  
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝  
 اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۝

سمہ سیت متاثر سہت بنن نشہ تہ واتا نوہ تمہہ دلیلہ۔ تم تہ سپدن متاثر کئیف کیونک للمشرکین عہد عند  
 اللہ وعند رسوله کتھہ پاٹھہ ہیجہ آتھہ مشرک خدائس نشہ کانہہ عمدہہ یا تھندس پیغمبرس نشہ۔  
 ئیس عمدہ قابل رعایت ہیہ زاند۔ کیا زہ رعایت ہیہ تھہ عمدس کرنہ تھہ نہ دو تم فریق پانہ پھراوہ  
 إلا الذین عہدتم عند المسجد الحرام مگر تم لوکھ سہمو معاہدہ کور توہم سیت مسجد حرامس تکھ تل  
 فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ایٹس کالس تم سیود روزن توہم سیت تہہ تہ روزو تہن سیت  
 سیود ان اللہ تعالیٰ جھو دوست تھاوان بد عہدی نشہ پتھ روزہ دنن  
 کئیف وان تظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا وایۃ ترضوکم کتھہ پاٹھہ روزہ تھند عہد قابل رعایت تھندین  
 وکن اندر جھو کھو پتھ۔ چنانچہ ہر گاہ تم توہم پیٹھہ غلبہ کرنگ موقعہ لیکن تم کرنہ کانہہ وایہہ لحاظ نہ رشتہ  
 داری ہند نہ عنہ عہدک یرضوونکم یا فواہیہم و تآبی قلوبہم تہن پیٹھہ جھونہ کانہہ اعتبار تم جھہ  
 توہ راضی تھاوان کتھو سیت دل جھک تہن تھن انکار کران دل جھکنہ تہن تھن سیت واکثرہم  
 فسقون تمہو اندر جھہ زیادہ سرکش تہ نشیر۔ تم جھنہ یژھان عمد پورہ کرن اشتروا بآیات اللہ  
 ثمنًا قلیلًا فصددوا عن سبیلہ حاصل کرتہو خدایہ سندین احکامن بدل دنیاک متاع ناپائیدار۔  
 توپتہ رتھہ پتھہ لوک تہزہ وتہ نشہ۔ لوکن دیو کتھہ نہ تہزہ وتہ پیٹھہ پتھہ یعنی اسلامس منز داخل سپدنہ  
 انہم ساء ما کانوا یعملون ہر پات تم سمہ کامہ کران جھہ تمہہ جھہ سیٹھا جھہ کامہ لا یرقبون فی

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا  
وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِنْ نَكَثُوا آيَانَ هُمْ  
مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا  
أَيُّهَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا آيَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ  
يَنْتَهُونَ ﴿۱۲﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيَانَ هُمْ

مؤمنین الا ولا ذمّة تم جھنہ لحاظ سے رعایت کران کا نسخہ با ایمانہ سندہ حقہ۔ نہ کثیر رشتہ داری ہند، نہ  
کثیر عہدک و اولئک ہم المعتدون سے لاکھ جھہ حدہ ذلہ دن فإن تابوا واقاموا الصلوة واتوا  
الزکوٰۃ فآخوانکم فی الدین باوجود آل ہر گاہ تم توبہ کرن شکر کہ بشر یہ تھا وہن قاسم نمازیہ کرن  
اداز کوا تلبہ جھہ تم سے تہند بای دینس اندر و نفضل الایات لقوم یعلمون اس جھہ ویرتھ ناوت  
احکام و نان زان والین لوکن ہندہ خیرہ و ان نکتوا ایمانہم من بعد عہدہم تو پتہ ہر گاہ  
تم بھڑاؤن قسم بنن عمد کرنہ پتہ۔ و طعنوا فی دینکم یہ دن تہندس دینس طعنہ۔ تھہ بیٹھ  
کرن اعتراضات فقَاتِلُوا أَيُّهَا الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا آيَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ  
آتھہ حاکس منزکر وجہہ جنگ گھرہ کین پیشوا عن تہ زھن سیت، ہنز پاٹھ تمن جھونہ کثہ عمد و پیا تک  
خیال۔ دیوہ تم پتھ روزن گھرہ بشرہ الاتقاتلون قومًا نکتوا آیمانہم کبیاہ نہہ کمر و نا جنگ  
تمن لوکن سیت۔ سمو پھڑ او عمد بنن و ہتوا یا خرابج الرسول یہ سمو قصد کور پیغبر خدا پنہ شہرہ  
منزہ پیہر کڈ تک و ہم بداءو کم اول مرۃ تمبوی کور ابتدا التوبہ سیت جنگ کرنک۔ کیا زہ تمبو کور



مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ  
 شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
 فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ  
 فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْبَاهِتِينَ ﴿۱۸﴾ أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ

و لعل ہلہ ڈلہ کرمن جہادس اندر۔ بیہ گڑھنس نہ پو شیدہ تعلقات دوستی ہند آسن کافرنا سیت۔ واللہ  
 خبیرؑ بما تَعْمَلُونَ خدائس جھہ تمہہ سارچی پور خبریہ تمہہ کران چھوہ۔ مگر سو چھوڑ شہان یہ تہس بانس  
 خبر جھہ تہ گڑھہ نزن تہ آشکارا سپدن ما کان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ مُشْرِكِينَ جھہ نہ قابلیتہس  
 کہہ تم کیا کران آباد خدلیہ سزہہ مسجدہ شہیدینؑ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ بیتھہ حاکس منزکہ تم آسن اقرار  
 کران کھر چن کھن تہ کاین ہند۔ بیہ آسن معبود بر حقس ورا ی پو تیلن ہنز پرستش کران اُولَیْکَ  
 حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ تم کوکن ہنزہہ سارے رزہہ عملہ عمارت مسجد وغیرہ ہمیشہ  
 جھہ ضائع شرکہ سببہ۔ تہجہ روزہہ ہمیشہ نارس اندر کیا زہہ ذریعہ و سبب نجات چھو تم ضائع  
 سہدنت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آباد کران نہ خدلیہ سزمن مسجدن مگر تہجہ  
 سمو ایمان اون معبود بر حقس بیہ پکتہس دوہس ولہ سیت توپتہ کران تاؤ سیت تمیگ اظہار تہ گو۔  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ بیہ تھاوکھہ برپا نمازیہ کھر کہ اداؤ کولہ۔ بیہ کھوڑ نہ کانہہ  
 خدائس ورا ی فَعَسَىٰ اُولَیْکَ اَنْ یَّکُونُوا مِنَ الْبَاهِتِیْنَ کھس جھہ امید تہ توقع یعنی وعدہ کہہ تہ کولہ  
 آسن ہدایت کہہ و نیواندرہ۔ منزل مقصودس وانہ و نیواندرہ أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ کیاہ توہمہ کوروہ حاجین آب زمزم چاون، بیہ مسجد حرامک آباد تھاون برابر کہنن آمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمس شخصہ سندین عملن سیت تم ایمان اون معبود بر حقس

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ  
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾  
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا  
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

بیش دوئس یعنی قیاس۔ بیه کرن جهاد خدایه سزوه وته اندر۔ خدایه سنده کلمه تهره خیطره لا  
یستون عند الله خدائس نسه جهنه سم لکوه برابر واللہ لایهدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ جهنونه  
وته ہاوان ظالم لوکن تمن جهننه یہ تھہ فکرہ تران۔ تمن چھو خیال حاجین آب زمزم چاون، مسجد حراچ  
آبادی کرن یہ چھہ بڈیکلی مگر یہ چھو کنہ فکرہ تران کہ یمن نیکن چھو تل اعتباریلہ شکر کہ نسه دور آسہ،  
قیانچ پور پڑھہ آسہ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ تم لوک سمو ایمان اون بیه ہجرت کمر خدایه سنده خیطره، بیه کوزکہ جهاد  
خدایه سزوه وته اندر پنہ نیومالوتہ جانوسیت، تم چھہ سینٹاہ تھہ، درجہ کن، خدائس نسه آب زمزم چاوه  
ونیوتہ تعمیر مسجد کرہ ونیو خوتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تھے لوکھ چھہ پورہ کامیاب سپدہ ون  
يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خوش خبری چھو دوان تمن  
پن پروردگار پنہ ہجرت، بیه پنہ ہجہ رضامندی ہنز۔ بیه تمن جنن ہنز تمن منز تھہندہ خیطره پو شہ ونہ  
نعیم چھہ خلدین فیما ابدًا اِنَّ اللہ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تمنی جنن اندر آسن روزہ ون ہمیشہ۔ بیشک

عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ  
 إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ  
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِنْ كَانَ  
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ  
 أَمْوَالٌ بَاقَتْكُمْ مِنْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ  
 مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ

اللہ تعالیٰ اسی نے مجھ بڑمزدور۔ تمی منزہ بیہ یمن تہ عطا کر نہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ  
 وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اے ایمانوںمہ تھو یو کہ مال پین، بائی پین دوست تہ رفیق اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ  
 عَلَى الْإِيمَانِ ہر گاہ تم گھری ٹوٹھ تھاؤن تہ پسند کرن ایمانہ خوتہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ کس تھمیں کافر مالین تہ باسن سیت تم دوستانہ تعلق تھاؤن توہمہ اندرہ کس تھے کیا چھہ  
 خداکس نشہ نافرمان۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ  
 بَاقَتْكُمْ مِنْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اے پیغمبر تھہ فرماؤ کہ اے مسلمانو ہر گاہ توہمہ آسنوہ مال پین بیہ پتو پین، بیہ بائی پین،  
 بیہ جورہ پین، یعنی مردس زنانہ پین، زنانہ مرد پین، بیہ قبیلہ کروں پین، بیہ زیومت مال پین بیہ تجارت  
 پین سمہ کس نقصا س تھہ کھو ژان چھوہ، بیہ مرغوب کرہ جلیہ پینہ زیادہ ناٹھہ خدایہ سندہ خوتہ بیہ تہمزہ دوتہ  
 اندر جہاد کرنہ خوتہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تلہ بیارو  
 ٹوتان یوتان سوزہ اللہ تعالیٰ پین حکم یعنی عذاب، یعنی ہجرت نہ کرنک سزا۔ اللہ تعالیٰ چھو نہ تھہ



لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۳۳﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي  
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ  
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا  
 رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا  
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

ہاوان نافرمان لوکن منزل مقصود حاصل کرنس کن۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  
 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تھیں اللہ تعالیٰ ان کمر توہمہ مدد تہ یاری وارینکن جابن خصوصاً جنگ حنینس منزراڈ  
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یلہ توہمہ عجیب آو بوزنہ پنہ لشکر ہند زیادہ اسن تمہ ساتہ  
 اوس تہنرہ لشکر ہند تعداد باہ ساس ۱۲۰۰۰۰ کافر ن ہنزہ لشکر ہند تعداد اوس ژور ساس۔ کس ڈیت نہ  
 توہمہ تمہ لشکر ہند زیادہ اسن کا نہ فاسدہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ بیہ سپڈ توہمہ پیٹھ  
 زمین کھول آتھہ تنگ سخت خوف زدہ سپد نہ موکھ۔ کافر ن ہندہ توہمہ پیٹھ بکثرت تیر لاینہ سیت تھ  
 وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ چنانچہ جہہ ژلوہ پپاسپد تھ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 توپتہ ترو اللہ تعالیٰ ان دلک قرار پنہ نس پیغمبرس بیہ بالیمان پیٹھ۔ چنانچہ ساری یلہ ژل حضرت نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژود ثابت قدم سفید کاترس پیٹھ سوار۔ سیت آسکھ حضرت عباس، بیہ  
 ایوسفیان رکائس تھپ کمر تھ حضرت عباس اس آتھہ دوکھ لوکن آکو سم ژلت آس بیہ پورکھ پانہ باواز بلند  
 أَنَا النَّبِيُّ لَكَ كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سمہ آوازہ سیت کافر ن دہشت پوتہ اہرہ بیٹھ وَأَنْزَلَ جُنُودًا  
 لَمْ تَرَوْهَا بیہ سوز اللہ تعالیٰ ان آساکھ طرفہ لشکر اہ یوسہ نہ جہہ وچھان آسورہ یعنی ملائک سمہ سیت  
 بیہ اثر سپڈ کہ مسلمان سپد بیہ جمع۔ توپتہ ہنتر تمو دو بارہ لڑای کرن وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرن  
 پتولا کہ کافر عذابس گرفتار۔ فحج کرن عطا پنہ نس پیغمبرس وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یوسہ جھو

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ  
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ  
 وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنْ شَاءَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ  
 رَسُولُهُ ۗ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

کافرین ہند سزاؤنیاءس منز **ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ** توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ نصیب ہمواندرہ بس خوش کرئس۔ چنانچہ واریاہ سپد سمومنزہ مسلمان **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اللہ تعالیٰ ہجو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** ای مسلمانو مشرک ہجھ ناپاک ہر کچہ ناپاکی سیت بہ ہجھ اعتقاد و سیت **فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** بس مہ سپدن تم نزدیک مسجد حرامس سمہ ورہہ پتہ **وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنْ شَاءَ** ہر گاہ تمہہ تہندہ نہ ایحہ سبہ فقرس یا تہار ہجس نقصانس کھوژو، تمہہ روزو خوش، اللہ تعالیٰ کرہ توبہہ مالدار پتہ فضلہ سیت ہر گاہ سویشہہ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** پزناہ اللہ تعالیٰ ہجو سوڑوی زانہ ون سیٹھاہ حکمتہ وول **قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ** ای مسلمانو جنگ کمر و تمین لوکن سیت تم نہ پور پڑہہ کران ہجھ معبود برحق بہہ ہجھنہ پور پڑہہ کران قیامکس دوہس **وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** بہہ ہجھنہ حرام زانان تم چیز تم خدا سن نہ تہندہ پیغمبرن حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حرام کمر۔ **وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ** بہہ تم نہ پوزدین،

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَغِيرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ  
النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا يَأْتِئُهُمْ  
وَرُهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

دین اسلام قبول سے تسلیم کران چھہ من الدینین اوتوا الکتاب تمبولو کو اندرہ ممن کتاب  
عطا کر نہ آہ یعنی یہود و نصاریٰ ان سبت، سوی جنگ کمر و توتانان حتی یعطوا الجزیة عن ید  
وہم صغیرون یوتان نہ تم باج تازن بس پیش کران پنہ نیو اتھو ماتحت روزتھ۔ ذلیل سے  
خوار سپد تھ۔ ان ماتھہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یہ  
چھہ دنان یہود و اندرہ بعضی لو کہ زہ عزیر علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو، یہ چھہ نصاریٰ او اندرہ اکثر دنان  
کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ سمہ چھہ تہنزہ کتھہ، تہنز و چانیو۔  
حقیقتس سبت چھونہ یمن اتھن کانہہ تعقاہہ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
سمہ سے چھہ تمنی کافرن ہنزہ کتھہ ہخہ کران سم تمن برونٹھ آس قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا اللَّهُ  
تعالیٰ گالن تمن کوئن چھہ گوہان سم پڑہ نشہ ذلھہ اِتَّخَذُواْ وَاَحْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ تمبول چھہ بناومت عالم سے عابد ہن مطاع۔ حلال و حرامس  
منز چھہ تہنز اطاعت تہھی کران یشہ خدایہ سبز شو بہ کرن۔ صریح حکم نصس پیٹھ چھہ تہندین اتوالن  
ترجیح دو ان یشہ اطاعت کرن گنیہ عبادت کرن۔ یہ شوبہ باخاص مغبود برحقہ سزئی یا اثر کرن۔ امہ  
اعتبارہ چھہ سم سے مشرک یہ چھہ عیسیٰ بن مرتمس علیہ السلام رُب زانان۔ تمن چھہ خدایہ سُنْدُجُو  
زانان۔ یہ سے گوشرکی وَمَا أَسْرُواْ اِلَّا لِيَعْبُدُواْ لِلَّهِ وَاَحَدًا حال چھہ ممن آہونہ حکم کرنہ خدایہ

ابن مريمؑ وما أمرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾  
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى  
اللَّهُ إِلَّا أَن يَشْتَعِبَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ  
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

سبزن کتابین اندر۔ مگر معنی معبود بر حقس عبادت کر تک لآلہ الہو کس وراى چھو نہ  
معبودى کانہ عبادتس لایقى کانہ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو منزہ تہ پاک تہندہ عترکہ  
نشدہ یُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یڑھان چھہ تم کہ تھیتہ کرہ ہن خدایہ سُنْد نوریعن  
دین اسلامى پنہ نیو چھو کوسیت یعنی آسوسیت چھہ اسلامس پیٹھ اعتراض کران ویا بى اللہ لآ  
أَن يَشْتَعِبَ نُورَهُ خدا چھو نہ پسند کران مگر فقط ہن نور پور کرزن۔ سو نور کما کس واتناون وَلَوْ كَرِهَ  
الْكَافِرُونَ اگرچہ ناخوشى ایتن کافرن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ سو  
معبود بر حق گو سوى سم سوز ہن بیغبر بر حق یو ڈھایت ہیتھ ہیہ دین حق ہیتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
ہیتھ تھہ غلبہ دیہ سارنى دین پیٹھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناخوش ایتن مخر کن یا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ آمَوالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اى با ایمانو پڑپاٹھ  
واریاہ عالم یہودن ہند، یہیہ عابد نصارى ان ہند چھہ لوکن ہند مال کھیوان ناحق۔ یعنی پڑ حکم چھہ کھٹان۔  
عوامس ہنزہ مرضى موافق چھہ فتوى لیکھان تین نذرانہ وصول کران وَيُضَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا  
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۸﴾  
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

امی وچہرہ چہمہ تم لوکن پتھ رٹان خدایہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ۔ کیا زہ جہند یواپز یو فتویٰ  
اوسیت چہمہ لوکھ ڈھوگن منزیتھ، گمراہی منز بوڈتھ روزان۔ پوزہ جہند قبولی کران۔ بلکہ پوز شہاندنگ  
چھوکنہ خیالی گڑھان۔ غایت حرص و ہوسہ موکھ چہمہ مال جمع کران تھ متعلق یہ سخت و عید چھوکنہ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ تم لوکھ جمع کران تہ  
سونبر اوان چہمہ سون تہ رو پھ تو پتہ چہمہ تھ خرچ کران خدایہ سزہ و تہ آندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ  
الْأَلِيمِ کس ونو تہن کڈرہ عذاب بشارت یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سمہ دوہنہ نار چہمہس پیٹھ  
گرم ایہ کرنہ سوسون تہ رو پھ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ کس پیہ داغ کرنہ تمہ سیت ڈیکن جہندین  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ یہ لرہ کانین جہنن، پیہ تھرن تہ ٹھن جہندین۔ ونہ ایٹھ ہذا مَا كَنْزْتُمْ  
لِأَنْفُسِكُمْ یہ چھو سونہند مال کس توہمہ سونبرواتھ اوسوہ پنہ خپرہ۔ فَذُوقُوا مَا كَنْتُمْ تَكْنِزُونَ کس  
ژہو مزہ تمیک یہ جہمہ سونبر اوان آسوہ۔ چوہمہ امہ برونٹھ آہ جگ ذکر کرنہ۔ مشر کو اوس خلط وملط  
کورمت ریتین ہندس حساس آندر۔ مخرمس آس صفر بناوان۔ ذی القعدس آس ذی الحج بناوان پنہ نیو  
مصطحو موجب۔ تمی موکھ فر موواللہ تعالیٰ ان إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  
پزپاٹھ اللہ تعالیٰ آس نش چہمہ ریتین ہنز گریندہ باہ ریتھ فِي كَتَبِ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ خدایہ سزہ ہتایہ یعنی لورج محفوظ آندر۔ سمہ دوہنہ پیٹھ آسمان تہ زمین پیدہ کوزن ومنہا

كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا  
 أَرْبَعَةَ حُرُمٍ ۖ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا  
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۖ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا  
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

أَرْبَعَةَ حُرُمٍ تموزیو اندرہ چھہ ژور ریتھہ تعظیمک۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب  
 ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یوہے امر مذکور چھو حساب، دین مستقیم۔ یعنی ریتن ہند باہ آسن۔ تعظیم و  
 حرمتک ریتھہ ژور آسن۔ اتھ بدل یوسہ جالبط طریق آس۔ تم آس بہوریتو علاوہ کہہنہ ریتھہ ہرہ راوان  
 تہ زیادہ کران۔ ہیہ آس تعظیمہ کین ریتن اندر تہ رد و بدل کران۔ ہیہ گنیہ بددینی۔ دین گوئی یہ اللہ تعالیٰ  
 ان مقرر کور فلا تظلموا فیہن أنفسکم پس مہ آسویمن ژور دن ریتن اندر پانہ وان لڑای  
 کمر تھہ تمکن ژون ریتن ہنز بے حرمتی کمر تھہ پانس پیٹھ ظلم کران وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً  
 کَمَا یُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ہیہ آسوسارنی مؤخر کن سیت جنگ کرنہ خیطرہ تیار روزان ہتھہ پاٹھہ تم توہیہ  
 سارنی مسلمان سیت جنگ کرنہ خیطرہ آمادہ چھہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ہیہ زانوہ اللہ تعالیٰ  
 چھو پرہیز گارن سیت سیت۔ فہہ تھاو و ایمان و تقویٰ پئن شعار کھو ژومہ کانہہ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي  
 الْكُفْرِ ریتن ہند اورہ یور کرن، تعظیمہ کین ریتن رد و بدل کرن چھونہ مگر کھرس اندر زیادتی کرن  
 يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عام کافر چھہ امہ سیت گمراہ یوان کرنہ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا  
 کافر چھہ اتھہ تعظیمہ کس ریتس اکہ ورہ پنے پننو اغراض نفسانیو منوکھہ حلال زانان۔ ہتھہ پاٹھہ پئس ریتس  
 پئس نہ تعظیمک ریتھہ اوس تعظیمک ریتھہ زانان لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ہتھہ برابر تھاوان تعداد

اللَّهُ فَيَجِلُّ مَا حَوَّرَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٥﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَ الْيَمَاءِ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ

رتین ہند سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ بناومت آس فَيَجِلُّ مَا حَوَّرَ اللَّهُ بھتھ حلال بناوہ ہن تمن رتین سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ معظم مقرر کرمت آس زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ زینت آوونہ تھنزن تھتھ کاین۔ تھن تھتھ تھتھ کامہ جان تہ رتہ بوزنہ یوان وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ تھتھ ہوان تہ توفیق دوان کافر قوس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آئی بالیمانو توہمہ کیاہ سہوہ۔ توہمہ یلہ وننہ یوان تھونیر و خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرنہ خیلرہ اِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ مایل سہو تھتھ زمیں کن یعنی کسل و کالت نراو تھتھ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیاہ توہمہ آیہ بوزنہ جان دنیاہج زندگی آخرتہ خوتہ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ حقیقت تھتھ تھتھکہ دنیاچہ زندگی ہند مال و متاع چھونہ آخرتس نسبت مگر سبھاہ کم إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَ الْيَمَاءِ ہر گاہے تھتھ جہاد کرنہیر واللہ تعالیٰ کرہ وہہ کڈر عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بیہ انہ توہمہ بدل میں قوس تھتھ ختم تھتھ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا تھتھ بیہونہ خدایہ سندس دیس عنہ قسمہ ضرور اتاوتھتھ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پر تھتھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ہر گاہے تھتھ امس پیغیر بر حقس مدد کمر و کانہہ پروا چھونہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هَبَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ  
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۰﴾  
إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

بیشک اللہ تعالیٰ ان کمر تین تین یاری تہ مدد تمہ وقتہ سمہ وقتہ زیادہ پریشانی ہند وقت اوس اذ اخرجہ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ یلہ تم کافر و تنگ کمر تھ پن شہر تہ وطن تراؤس پیٹھ مجبور کمر ثانی اثْنَيْن ۗ یلہ تم  
آس دو یہ منزہ دو تم صاحب بیاکھ صاحب اوس ابو بکر صدیق تین سیت اذْ هَبَا فِي الْغَار ۗ یلہ تم  
دشوے آس گو پھہ اندر بیٹھ غار ثور آس ونان اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ۗ یلہ بیٹھ برحق پنہ نس یار  
غارس ابو بکر صدیق فرماوان اوس لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کھو تمہ، غم مہ بر۔ بیشک اللہ تعالیٰ  
سند مدد چھو اسہ سیت فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ۗ بس ترود اللہ تعالیٰ ان دلگ قرار تہ تسلی تین پیٹھ  
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۗ بیہ کور تین مدد اللہ تعالیٰ ان ملائک ہنزہ تمہ لشکرہ سیت یوس نہ تو بہ  
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان کافرن ہنز تھ یعنی شرک و کفر کہ  
اشرا عتج تھ سیٹھاہ بون تہ پست تم کمرن خوار و ذلیل وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ اللہ تعالیٰ سند کلے چھو  
سیٹھاہ ہند وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ ول۔ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا اى  
مسلمانو نیر ان آسو جہادہ خیطرہ سمہ ساتہ تہہ نیر نہ خیطرہ اعلان آسہ یوان کرنہ۔ سلاح و رای تہ سلاح  
پور تھ تہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ بیہ آسو جہاد کران خدایہ سزہ و تہ اندر  
مال و جانہ سیت۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اى چھو تہندہ خیطرہ بہتر ہر گاہ تہہ زمانہ چھوہ  
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۗ ہر گاہ آسہ ہا مالہ جلد حاصل سپدہ و ان بیہ آسہ ہا سفر اہ تہ ثحوت



لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ  
وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
لِأَنَّهُمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرْجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۱﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ  
أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿۳۲﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

لَاتَّبَعُوكَ تلمذ نیرہ من منافق توبہ سیت و لکن بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ لیکن تموزون کہ سفر ج  
مسافت چھہ سیٹھاہ زبٹھہ تھی لگ تم ارہ سرہ کرنہ و سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لِأَنَّهُمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرْجَنَا  
مَعَكُمْ بیہ دن تم خدلیہ سُنڈ قسم ہاوتھہ زہ ہر گاہ اسہ وسعت آسا اس تہ نیرہ ہو توبہ سیت۔  
يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ لہز قسم ہاؤ ہاؤ چھہ تم پن پان ہلاک کران مستحق عذاب کران وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ چھوزانان زہ بیٹک چھہ تم اپزیر عفا اللہ عنک لِمَ أذْنَتَ لَهُمُ اللہ  
تعالیٰ ان کور توبہ عفو۔ توبہ کیاہز دیوتوہ تم اجازت جھہ نشہ پتھ روز تک۔ تہہ پیار زہہ حَتَّى  
يَتَّبِعِنَا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ یوتان توبہ نہہ ہا کووون پوز، بیہ زانہ ہو کہ تہہ اپز  
زیر۔ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
توبہ نہ حض مگن نہ اجازت تم لو کہ تم پتھہ کران آس معبود بر حقس بیہ پتھس دوہس یعنی قیامتس  
دوہس تم کیا روزن چھہ مال و جاوسیت جہاد کرنہ نشہ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ الْيَمِينُ اللہ تعالیٰ چھو پوزانان  
پر ہیز گارن اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اجازت مگن تہہ لو کہ

وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۗ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

تم نہ پڑھ کر ان چھہ معبود برحقس نہ ہتمس دوسس وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون بیہ تم شک وچھو دل اندر ہس چھہ تم تمنی شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عداۃ ہر گاہ تم جن جمادس نیرہ نک ارادہ آسما تلہ کرہ ہن تیار ی تمہ خیطرہ سلاح سامانہ سیت بیہ کرہ ہن و تہ خرچک بندوست و لکن کرہ اللہ انبعائتم فثبٹہم لیکن اللہ تعالیٰ ان کرنا پسند نہونند نیرہ خیطرہ آمادہ سپدن ہس کمرن تم کانگلہ۔ اوکن دژ تکہ نہ اتھ و تھ۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین ونہ آوتمن بیو بیوا کن سیت یعنی زمانن نابالغن تہ معذوران سیت لوخرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ہر گاہ تم نیرہ ہن توبہ سیت توبہ منزہ اوہ ہن نہ کیہنہ تہ خرابی تہ نقصانہ ورا ی و لا اوضعو خلافکم یبغونکم الفتنۃ بیہ کرہ ہن سیٹھاہ جلدی توبہ منز تفرقہ تراونہ خیطرہ یبغونکم الفتنۃ تم چھہ تلاش کران توبہ منزقنہ تہ فساد واقع سپدن و فیکم سبغون لہم توبہ منز تہ چھہ کاتیاہ ہمز ن تھن کن تھوہون واللہ علیہم بالظلمین اللہ تعالیٰ اس چھہ پور معلوم مفید تہ ظالم لقتدا ببتغوا الفتنۃ من قبل وقلبوا

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾  
 لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ  
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ أَلَا فِي  
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾  
 إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ  
 يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ

لَكَ الْأُمُورَ بتھین تمبوکر بروٹھ تہ کوشش فساد بیج بیہ آس ووان ور تھنزن کائین حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ  
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یو تان بڑوعدہ آو غالب سڈ خدلیہ سڈ کھم۔ وَهُمْ كَرِهُونَ تم آس نہ تھ  
 ہندی کران۔ تھے پاٹھ سپدہ آیندہ تہ تہ مہ بز و کانہ فکر وَنَهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْذَنْ لِي  
 وَلَا تَفْتِنِّي سمومنا قومنزہ چھو سوسو شخص تہ سم دون مہ دیو حض اجات میہ مہ تراو و خرابی اندر مہ مہ  
 حض کمر و رومہ جن حسین زنان ہندہ سببہ گر فاربلا آلا فی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وارہ بوزو تم چھہ بیس  
 بلا یہ منزہ پیمتی۔ سو گئیہ نافرمانی ہنزلای کیازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزا نافرمانی تہ کھرہ خوتہ  
 چھنہ بیہ کانہ خرابی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ بزپاٹھ جھنم چھو کافرن تہ نافرمانن احاطہ کرہ  
 وَ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ ہر گاہ توہرہ کانہ رت چیزاہ واتان چھو، رثا تاتا ہپیہ سپدان  
 چھہ تمن چھو تہ ناخوش یوان وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ بیہ ہر گاہ توہرہ واتان چھو کانہ غماہ یَقُولُوا  
 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وناں چھہ تم تہ اسہ چھہ پن گوم بروٹھی پونختاومرث۔ پان پن  
 بچوومت وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فِرْحُونَ بیہ چھہ توہرہ نشہ نیران تہ گوٹھان، خوشیہ ماران تہ شادیانہ کران۔

فِرْحُونَ ﴿۵۰﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ  
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ  
 هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ  
 نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكِ  
 أَوْ بَأْيَدِنَا فَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ  
 أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا  
 فَسِيقِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

اللہ تعالیٰ چھو فرماوان سمن و بوحض نبیہ جواب زی تھے۔ آگہ۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا  
 نبیہ فرمائیو کہ یارسول اللہ ہرگز واپس نہ آسہ کا نہ چیز مگر سومی بس سائہ خیرہ مقرر کورمت آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان هُوَ مَوْلَانَا سومی چھو سون مالک تہ آگہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ  
 تعالیٰ سی پیٹھ گویہ با ایمان ہند اعتماد کردن۔ بس گویہن پنے سارے کامہ سپرد کرنہ۔ بیا کہ تھے یہ کہہ  
 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ نبیہ فرمائیو کہ نبیہ چھو نہ پیران سائہ خیرہ مگر  
 دویہ خوبو اندرہ اکس خوبی۔ سونگیہ نصرت یا شہادت وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ  
 مِنْ عِنْدِكِ اس چھہ پیران نبیہہ خیرہ تھے کہ خداوند تعالیٰ و اتا وہ توہمہ پنے طرفہ کا نہ عذابا  
 أَوْ بَأْيَدِنَا یا سونوی اٹھو دویہ توہمہ کا نہ سزا فَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ کس پیارو نبیہ اس تہ  
 چھہ تو ہی سیت پیران قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا نبیہ فرمائیو کہ یارسول اللہ کہ ای منافقو نبیہ کرتو  
 خرچ، خوشی سان یا ناخوشی سان لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ نبیہ خیرات و صدقات ہرگز قبول لیہ نہ کرنہ۔  
 إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ کیا زہ نبیہ چھو ہا فرمان لو کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ  
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرهُونَ ﴿۵۲﴾  
 فَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ  
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۳﴾  
 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ  
 يَفْرُقُونَ ﴿۵۴﴾ لَوْ يَشَاءُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدًا خَلًّا  
 لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿۵۵﴾ وَمِنْهُمْ مَن يُلِيْزُكَ

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ کانہ چیز چھو نہ منع کران تہند خیرات و صدقات قبول کرنہ نشہ۔  
 مگر یہ ہے بوڈ چیز کہ تمہو کور انکار مغبوبر نفس بیہ تہندس پیئبرس وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا  
 وَهُمْ كُسَالَىٰ بیہ چھند تم نماز پران مگر کمالت سان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَهُونَ بیہ چھند  
 تم مال خرچ کران مگر نا خوشی سیت فَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ توبہ منہ این جان تہ نجایب  
 بوزنہ تہند مال یا تہند اولاد۔ یہ تہندہ خیطرہ نعمت چھند بلکہ چھو عذاب إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چھوندہ یرھان مگر بی زہ تمن تمہ مالہ سیت تہ اولادان ہندہ سیت عذابس  
 گرفتار کرن دنیاجہ زندگی اندری وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ بیہ ئیرن تہند زوڈھر سی اندر یعنی  
 تم مرن در حالت کفر وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ بیہ چھند تم قسم ہوان خدایہ سیدنتھ  
 پیٹھ کہ تم چھند توبہ حقیقت چھند کہ تم توبہ منزہ چھند وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ مگر تم چھند  
 جماعتھہ بزول۔ کھوژان توبہ۔ لَوْ يَشَاءُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدًا خَلًّا ہر گاہ تم لین کانہ  
 چھین جایاہ یا کانہ سر تابا تہ گوچاہ یا کانہ اترج جایاہ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ضرور دورہ ہن تمن  
 جاسن کن دوشہ جھان وَمِنْهُمْ مَن يُلِيْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ بیہ چھو تمہو منافقو اندرہ تم توبہ طعنہ

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا  
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ  
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

دوان چھ صدقہ کا جس مالس تقسیم کرئس اندرونان چھ نعوذ باللہ امہ بحس تقسیمس اندر آؤنہ عدل کرنہ  
 فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کس ہر گاہ تمہنہ خواہشہ مطابق  
 کہنہ عطایہ ہا کرنہ تلہ گزہ ہن تم خوش یلہ نہ تمہنہ خواہشہ مطابق آؤ عطا کرنہ۔ لہذا چھ تم بے  
 زار نہ تا خوش وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہر گے تم راضی سپدہ ہن تمہ سیت یہ  
 تمہنہ خداین نہ تمہد پیغمبرن دژو و قَالَوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ بیہ ہر گاہ  
 تم ونہ ہن کس چھو امہ تہ یہ اللہ تعالیٰ ان امہ عطا کور پئن فضل بیہ تمہد پیغمبرن إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ  
 اس چھ گوہہ پیٹھے اللہ تعالیٰ اس گن راغب سپدہ ون۔ کس نش چھ اس امیدوار إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ صدقات و خیراتن ہند مال چھونہ مگر محتاجن ہندہ خیرہ بیہ مسکینن ہندہ خیرہ بیہ  
 صدقاتن ہند مال وصول کرہ و نین ہندہ خیرہ۔ بیہ ہند دل اسلامس گن مال کرن آسن۔ بیہ غلامن  
 ہنزہ گردنہ آزاد کرنہ خیرہ۔ بیہ قرضدان ہندہ خیرہ۔ بیہ خدلیہ سزہ و تہ اندر جماد کرہ و نین ہندہ  
 خیرہ بیہ مسافرن ہندہ خیرہ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیوی چھو فرض تہ مقرر کرنہ

الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ قُلُّ أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَئِذٍ  
 بِاللهِ وَيَوْمَئِذٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا  
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۱﴾  
 يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ  
 أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۷۲﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا  
 أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

آمت خدایہ سیدہ طرفہ۔ اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ و ن حکمتہ و ول و مینہم الذین یؤذون النبئ تم  
 مناقشوا اندرہ چھہ بعضی تم تکلیف چھہ و اتاوان نبی کریم کس کھوسیت۔ و یقولون هو اذن دبان  
 چھہ نفوذ باللہ کنہ نیز سارنی ہنزن کھن گن تھوان۔ لہذا چھو تھن اپوزتھ دھوکہ دین آسان قُلُّ تھہ  
 فرماؤ لکھ کہہ اذن خیر لکم تم چھہ تہمدہ خیطرہ بہتری سارنی گن تھوان تھن چھو فخرہ تران تھہ  
 شخص کمہ کھ تھہ چھو وان۔ مگر تم چھہ تہمدہ فریب کاری پیٹھ چشم پوشی کران۔ تم ہنزن تھن ایمان  
 انہ وان چھنہ یومئذ باللہ بلکہ تم چھہ خدایہ یا کہہ سندس کلام پاکس ایمان انان تہ یقین کران  
 و یومئذ للمؤمنین بیہ چھہ تم با ایمان ہنزن تھن سمہ ایماندارانہ تہ مخلصانہ آسان چھہ ایمان  
 انان تہ یقین کران وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ بیہ چھہ تم مہربان تھن ہندہ خیطرہ سموا ایمان  
 اُون توہہ اندرہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ تم لو کہہ ایذا تہ تکلیف و اتاوان  
 کھوسیت پیغمبر خدائس تہمدہ خیطرہ چھو کڈر عذاب یحلفون باللہ لکم لیرضوکم قسم چھہ  
 ہاوان خدایہ سند توہہ برو تھہ کنہ تھہ راضی کرنہ خیطرہ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ اللهُ  
 تعالیٰ تہ تھمدہ پیغمبر چھو زیادہ حق تھوان تم کیاہن راضی کرنہ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ہر گاہ تم پز  
 پاٹھہ با ایمان آسن أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُولَهُ آیت تھن چھنا خیرہ ہس اکھاہ مخالفت  
 تہ مقابلہ کرہ خدائس تہ تھمدس پیغمبرس سیت فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا بیشک جہندی

خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۳۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ  
 أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ  
 قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَئِنْ  
 سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا اللَّهُ  
 وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ كَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ  
 كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ  
 نُعَذِّبُ طَآئِفَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا مَجْرِمِينَ ﴿۳۶﴾ الْمُنْفِقُونَ

خیطر ہجھونار جھنم تھہ منز تھن ہمیشہ روزت عذائس گرفتار سپدن آسہ ذلک الخزی العظیم سیکے کنیہ  
 بد خواری یحذر المنفقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کھوژان جھہ  
 منافق مسلمان پیٹھ گھوہنہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہ سورہ شریفہ یا آئیہ کریمہ نازل سپدن  
 ئس تھن خبر کرہ منافقن ہندین دلن ہزنن کھوڈہ کھچن ہنز قیل استہزءوا ان اللہ مخرب  
 ما تحذرون تہہ فرماوے کہ تہہ گھوہو ٹھٹھہ کران۔ پز پانٹھ اللہ تعالیٰ نرا وہ تھہ ساری تھہ تہہ  
 کھوژان جھہ ولین سالتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب ہر گاہ تہہ پڑھیہ کہ کھہ سمہ تھہ  
 کیازہ آسوہ تہہ کران ضرور ون تھہ جواب کہ اس آس نہ مگر تھہا ہاتھہ ٹھٹھہ خولہ کران۔ امہ اندرہ  
 اوسنہ آسہ حقیقی معنی مراد قُلْ يَا اللَّهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ كَسْتَهْزِءُونَ تہہ فرماوے کہ کیاہ خدائس  
 بیہ تھندین آیاتن بیہ تھندس پیغبرس نسبت آسوہ تہہ ٹھٹھہ کران لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
 وون مہ کمر وسم بے ہودہ تہ لغو عذر تہ ہمانہ۔ تھتق توبہ کوروہ ٹھرا ایمان ظاہر کرنہ پتہ۔ ان نَعْفُ عَنْ  
 طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا مَجْرِمِينَ ہر گاہ اس معاف گرو توبہ اندرہ  
 اکس جمائس سم جرمس پیٹھ ناوم تہ پشیمان سپدن مگر بیس جمائس گرو ضرور عذاب۔ کیازہ تم رود



وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ طَسُوا  
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَّ اللَّهُ  
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۶۸﴾  
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ  
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَبَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

بدستور مجرم کران۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مناقب مرد و زن منافق زنا و زنا و زنا که  
اکس ہی نفاس اندر۔ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ پیچھے کا مین ہند چھ لوکن  
صلاح دو ان۔ کفر و مخالفت اسلایچ چھ لوکن تعلیم دو ان۔ رثو کا میو ایمان سے متابعت نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم، نشہ چھکھ پھر ان سے پیچھ رٹان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ موچھ پنے چھ و پٹھ تھوان۔ خدایہ  
سزہ و تہ اندر چھنے کینہہ سے خرچ کران طَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ تمو مشرو و خد۔ فرمانبر داری نہ کرنہ  
سیت۔ بس مشرو تم سے خداین پنے نیو لطف و مہربانی نشہ۔ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پز پٹھ تم  
مناقب چھ سیٹھاہ سرکش سے تا فرمان وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  
فِيهَا وعدہ کو ر اللہ تعالیٰ ان مناقب مردن بے مناقب زنان بے نند و انہ کافر ن نار جہنمک، پیچھ منز تم  
ہمیشہ روزن ہی حَسْبُهُمْ سوی نار جہنم چھو تن بس وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ تم کر  
اللہ تعالیٰ ان دور پنے رحمتہ نشہ۔ بے چھو تہندی خیطرہ ہمیشہ روزہ و ن عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
کَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ای مناقب چھہ چھہ لوکن ہی سم توبہ بروٹھ

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ  
 وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ  
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ  
 إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

گذرے۔ تم آس طاقت و توانائی کن تمہدہ خود زیادہ بہ آس تمہدہ خود زیادہ مالہ کن بہ اولادوں کن  
 فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ کس نل تموتمتتہ فایدہ پنہ نصیبہ موجب فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ تمہ  
 نہ تلوتمتتہ پنہ نصیبہ موجب۔ کَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الذّٰیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ بہتہ پاٹھ تموتمتتہ نل پنہ  
 نصیبہ موجب تم توہہ بروٹھ آس وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا تمہہ نہ ژاؤہ پچھ کاین اندر تھے پاٹھ  
 تمہہ پاٹ تم ژاومت آس اُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تھے لوکھ گے تم سمن ہنرہ  
 رثہ عملہ ضائع تھیہ دنیا س اندرتہ آخرتس اندرتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تھے پچھ بہ تاوان زد  
 دنیا و آخرتکھ راحت و آرامہ نشہ محروم اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الذّٰیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  
 وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ کیاہ سمن چھنا واژ مژ تھن لوکن ہدہ گنج خبر  
 سمن یکن بروٹھ آس، قوم نوح، قوم عادچتہ قوم ثمودچ۔ بہ قوم ابراہیم۔ بہ شہر مدینہ کین لوکن،  
 بہ قوم لوط سمن ہنرہ سمن تلک پیٹھ سپد اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھن نشہ تہ آئیے پیغمبر تھدہ  
 نہہ دلیلہ ہتھ۔ مگر تمبو کرنا فرمائی تھی نافرمانی سیت گئے برباد تہ ہلاک فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ  
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ ائمہ بربادی سیت کورنہ اللہ تعالیٰ ان تھن پیٹھ کھنہ ظلم تم آس پنہ نین پان  
 پیٹھ پائے ظلم کران، خدایہ سزنا فرمائی کرنہ سیت۔ سمن منافقن ہند تہ گدھہ کھوژن اٹھ عدالتس  
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ باایمان مرد بہ باایمان زنانہ سمن پچھہ اوڈین ہدہ

يُظَاهِرُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝  
وَعَدَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَدَّتِ عَدْنٌ  
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

دینی رفیق سے دوست یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سمجھو رشان کابین ہند  
امر کران، سمجھو کامیونہ پتھ رنان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بیہ سمجھو تم نماز  
برپا تھاوان بیہ زکوٰۃ ادا کران وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ سمجھو حکم مانان خدایہ سند بیہ تہندس بیخبرہ  
سند۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سے لو کہ گئے تم میں پیٹھ ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ بیٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ غالب سیٹھا حمتہ ذول وَعَدَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان با ایمان مردان سے با ایمان زنان تمں جنتن ہند سمو  
مزر جو یہ پکان آسن خَلِيدِينَ فِيهَا تمیں جنتن منر روزان ہیٹھ وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ بیہ نفیس نفیس مکان  
ہند فی جَدَّتِ عَدْنٌ ہیٹھ روزہ نہ گن جنتن منر وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ بیہ رضامنندی اللہ تعالیٰ  
سنر۔ سمو سمجھو ساروی نعمتو اندرہ بڈ نعمت ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سے کہیہ بڈر سنگاری سے کامیابی  
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَطَ عَلَيْهِمْ ای بیخبرہ برحق جہاد کر و کافرن سے منافقن  
سیت۔ بیہ کمر و درشتی سے سختی تمں پیٹھ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسَ الْمَصِيدُ تہنز جای سمجھو جہنم کا زاہ سمجھو

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُولَاهُمْ جَهَنَّمَ وَايِسُّ الْمَصِيدُ ﴿۲۹﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُوا بِهَا لَمًّا يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا

جاہد چھ سوتھندہ واتنہ خیلرہ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا سم منافع چھہ قسم ہاوان خدایہ سُنَدِکُمَ اَسْمَہ وون نہ تمہہ قسمک کہنہ سمیوک توبہ پیغام دوت۔ مثلاً یہ تھہ کہ تم آس دیان اس کرون شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بیشک وینہ تموگھر چہ تھہ چھہ لفظ نسبت بذات مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہندہ تملک ارادہ کرن۔ یہ تہ گوگھری وَكُفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام ظاہر کرتھہ کوزکھ گھر وَهَبُوا بِهَا لَمًّا یہہ کریوکھ قصد تمہہ گوی یہ نہ حاصل سُنَدِکُم۔ جنگ تبوکہ نغمہ واپسی اندر کریوکھ قصد بے خبری اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کمر تھہ تہندہ شہادتک۔ مگر تھہ منزسید ناکام۔ تمہہ ساتہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان یہہ عمار بن یاسر۔ لشکرہ نغمہ الگ سُنَدِکُم یہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ پٹھہ آس تَرْنِ یَشْهَان۔ باہ شخص منافع اندرہ تم نقاب پوش آس، بھنہ نہ کانہہ تھن پر زہ ناوہ ہا۔ تم دورے تھن ترین صاحبن پتہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر کور تموگیر۔ حذیفہ بن یمان رود تہندین وون تھن ہند چانٹ دگان۔ یوتان تم ساری ٹل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود تھن تھن ۱۲ شخص ہند ناوہ پتہ نین دون رفیقن۔ مگر فرمود بھہ وون گھہ نہ کانہہ۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ یہہ ہیوت نہ سموگھہ چیزک انتقام مگر سمہ گوی کہ اللہ تعالیٰ ان تہ تہندہ پیغمبرن کیا کتر سم منافع مالدار تہ دولت مند پتہ فضلہ سیت۔ تمہہ گوی بدلہ چھہ سم ہوران۔ خدا نِس تہ رسولس سیت دعا بازی کران فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِيَمُنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نِس ہر گاہ تم منافع توبہ

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمْ  
 فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٦﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن  
 اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٥﴾  
 فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٦﴾  
 فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗا بِمَا اَخْلَفُوْا  
 اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا

کرن، سمو حرکاتو نبعہ بازين، بصدق دل سپدن مسلمان تہ گروہہ جہنمہہ خپترہ بہتر۔ ہر گاہ تمہہ نبعہہ  
 زوگردانی کرن بدستور روزن دعا بازی کران اللہ تعالیٰ گرهہ تلمہہ ممکن سخت عذاب دنیاس اندرتہ  
 آخرتس اندرتہ **وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** بیہہ چھونہ تمن تمام روی زمینس اندر کانہہ  
 دوستاہ نہ کانہہ مدگارہہ۔ **وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ  
 الصّٰلِحِيْنَ** سمومنا بقوا اندرہہ چھہ تم سمومو خدا نئس سیت عہد کورمت اوس زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ اسہ عطا کرہہ  
 پئن فضل یعنی مال و دولت اس کرو ضرور خیرات و صدقات بیہہ بنواس نیلو کارواندرہہ **فَلَمَّا اٰتٰهُمْ  
 مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ** اودہیلہ اللہ تعالیٰ ان عطا کورتمن پئن فضل یعنی مال تھہ  
 منز کورکھ مغل۔ بیہہ پھرکھ نجھہ۔ تم آس ہمیشہ تھہ پھرہہ ونی **فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ  
 يَلْقَوْنَهٗا** نئس دنجھہ اللہ تعالیٰ ان سزاتمیگ۔ ہفاق تروون جہنمیں ولن اندرتھہ دوئس تان سمہہ دوہہہ  
 تم آس کن گروہن یعنی مرعجس و قئس تان **بِمَا اَخْلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ** امی سببہ کہ تمہو کورخلاف تھہ  
 وعدس نئس تمومو خدا نئس سیت کورمت اوس۔ اگرچہ سووعدہ اوس کورمت تمونہہ کر تمس سیت صلی اللہ  
 علیہ وسلم۔ مگر تمن سیت عہد کرن گو خدا نئس سیت عہد کرن **وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ** بیہہ امہہ سببہ کہ  
 تم آس ہمیشہ اپزونان **اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ** کیا تمن چھنا تہج خبر کہ اللہ  
 تعالیٰ چھوزانان جہنمیں سر، راز۔ بیہہ تہزہہ کن تھہ، بیہہ یہ تھہ کہ **وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ** اللہ

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ ﴿۵۳﴾ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۴﴾  
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً  
 فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۵﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

تعالیٰ چھو سارے غیبہ چہ سہ زانہ ون۔ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ  
 تم منافق چھہ تھیں کہ تم چھہ طعنہ دو ان تم با ایمان تم شک صدقات دو ان چھہ وَالَّذِينَ  
 لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ یہ تم با ایمان تم نہ زیادہ بنان  
 چھو کہ بہنہ۔ تم چھہ یو ان تنوی بیتھ یوت تم ممکن نہ تیر سپد کہ محنت مزد کر تھ۔ تم منافق چھہ تم  
 ٹھٹھہ کر ان۔ اللہ تعالیٰ نہ چھو تم منافق ٹھٹھہ کر تک سزا دو ان وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تہندی  
 خیرہ چھو کڈر عذاب اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تہہ معفو مغفرت تہہ خیرہ یا متہ معفو مغفرت  
 تہہ خیرہ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ہر گاہ تہہ تہہ خیرہ ستہ پھر ہہ مغفرت معفو اسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
 لہم توتہ کہ نہ اللہ تعالیٰ تم مغفرت ہرگز ذلک یَا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ چھو امی مو کہ  
 زہ پڑیا تھہ تم کو کور کور و انکار کنس خدا جس یہ تہہ جس جینبرس وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ  
 چھو نہ و تھہ باوان تھہن نافرمان نہ سر کش لو کن فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ  
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد نشہ پتھ روزن و آل چھہ خوش کہ تم کیا ہر دو رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم بر خلاف پتھ بہت یہ ناگوار گو تم جہاد کرن پنہ نیو جانو نہ مالو سیت خدا یہ سزہ

خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  
 حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا  
 جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ  
 مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

و تہ اندر امیک باعث سپہ تہن زہ (۲) چیز۔ اکہ کفر بیہ آرام طلی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ بین لوکن تہ لگ و نینہ مہ نیر و یشہ تیز گرمی اندر جہاد کرنہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا تہی فرماؤ کہ جہنمگ نار چھو زیادہ گرم یتہ چہ گرمی خوتہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کیاہ جان اوس ہر گاہ تہن زائن حگہ ہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا نہس آستن تم دنیاس اندر کہ کہنہ کالاہ۔ دنیاعک مدت چھو کی۔ و دتن وار نہس کاس آخترس اندر۔ تہ چھو تہن ہمیشہ و دئوی۔ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہن تہجہ کابین بدل یمہ کامہ تم کران آس دنیاس اندر، کفر، نفاق مخالفت۔ یتہ تہند حال توہہ معلوم سپہ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ نہس ہر گاہ اللہ تعالیٰ واپس نیہ توہہ مدینہ شریفس کن، توپتہ و اتاواہ توہہ سمو منافقو اندرہ تہہ جہانس کن فَاَسْتَأْذِنُوكَ لِلخُرُوجِ توپتہ مگن تم اجازت جہادس اندر توہہ سیت نیرنہ خیطرہ۔ برو ٹھمس الزامس رفع کرنہ خیطرہ۔ سوتہ آس نہ بہ نیک نیتی بلکہ آسہ جہندس و کس اندر یوہے خیال زدو قتہ وزہ کانہہ بہانہ کرتہ روزن تہہ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا تہہ فرماؤ کہ تہہ چھوہ زمانہ سازی موجب کتہہ کران مگر اللہ تعالیٰ ان کتر تہند مکن و کن ہند خیالات ظاہر۔ چنانچہ پورہ اعتمادہ سان چھو سو و نان کہ تہہ مہ نیر و تہہ وقتہ جہادس اندر مدد کرنہ خیطرہ۔ بیہ مہ کتر و تہہ لڑای میانین دشمن سیت۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ توہہ کورہہ ناگوہہ بیٹھے گرہ بہنوی پھند۔ و نکنن تہ چھو سو ارادہ۔ یہ چھوہ سوروی زیوہ سیت و نان فَاَعْتَدُوا مَعَهُ

فَاتَّعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ<sup>(۸۳)</sup> وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ  
 أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَاتُوا  
 وَهُمْ فَسِقُونَ<sup>(۸۴)</sup> وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

الْخَالِفِينَ اِس ہو بروٹھم پاتھ آہن نشہ یعنی تمہن نشہ سہم پتھ روز نس سزاوار چھہ۔ زنانہ، شرمتہ بڈہ  
 وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا یارسول اللہ تمہو متاقتوا اندرہ ہر گاہ کا نہ مرہ تہندس جنازس پیٹھ نہ  
 ہز آہو نماز جنازہ پران وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ بیہ مہ آہو تہزہ قبرہ پیٹھ سوڈفن کرنہ خیطرہ ہو ودن روزان  
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا زہ تمہو کور کھرتہ انکار اللہ تعالیٰ اس بیہ تہندس پیٹھ برس وَأَمَاتُوا وَهُمْ  
 فَسِقُونَ بیہ مود تم کھرس پیٹھ۔ اِس کھرہ کس حاکس پیٹھ مرہ، تسدہ خیطرہ دُعاوا استغفار مکن۔  
 تمہندس کھنس دفس شامل سڈن چھو نا جائیز۔ سمہ آئیہ کر سمگ شان نزول چھو کہ یلہ عبد اللہ بن  
 ابی منافقن ہند سردار مود، تمہند پچو اِس ناؤ اوس عبد اللہ بن عبد اللہ آؤدر خدمت رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم سو اوس مخلص مسلمان۔ تم کور عرض پٹن قمیض مبارک دیوحض سوتراؤو تمس کھنس سیت۔  
 چنانچہ تمہو دیت پٹن قمیض مبارک اِس تمہہ ساتہ تمن نال اوس بیہ نیو کہ تشریف تہند گھرہ۔ تمس  
 تروو کہ پٹن لعاب دہان مبارک آس منز۔ تو پتہ پور ہس نماز جنازہ۔ بیہ کور ہس دُعا ی مغفرت۔ تمی  
 ساتہ سپدیہ آئیہ کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِس معاہدہ کور عبد اللہ بن اِیس سیت تہند اندر  
 آسہ واریاہ کھمہ۔ چنانچہ امیگ نتیجہ دراؤزہ واریاہ لو کہ سپد مسلمان بیہ وچھت۔ تمہو دوپ کہ بیہ پیٹھ  
 برحق چھو دشمن سیت امہ قسمگ مہر و مجتگ سلوک کران۔ دوستن تہ بالیمان سیت آسن زیادے  
 لطف و مہربانی کران۔ بیہ نسر و تمہو بیہ کرنہ سیت شریعت اسلامیک اکھ بوڈ مسئلہ۔ سو گوئی زہ ایمان و  
 عمل صالحہ و رای دیہ نہ کانسہ اِس کا نہہ چیزاہ فائیدہ نہ تو سل نہ شرک۔ تمہو فر موو گویا کہ بو امام آسن،  
 صحابہ صیب مقتدی آسن تو پتہ پور اسہ نماز جنازہ عبد اللہ بن اِیس پیٹھ۔ بیہ مونگ امہ تہندہ خیطرہ  
 مغفرت۔ بیہ آؤ تراونہ میون قمیض تہندس کھنس سیت۔ بیہ آپرمہ اِس پٹن لعاب شریف اِس تہندس  
 بد اِس منزوت۔ باوجود آل چھہ جای تہزہ فی الدرک الاسفل۔ جہنمہ کس ڈکس تل۔ ام میان نماز



اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾  
 وَإِذْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ  
 اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸۶﴾

جنازہ پر ن۔ دُعاء مغفرت کرہ نُن تمیض مبارک کھنس سیت تراون۔ لعاب شریف بدنس منز و اتاودہ نُن کورس نہ کانہ سہوچہ۔ سمو چیز و دیوتس نہ کانہ فاسیدہ۔ ای گڑھہ تھاون یاد تہن لوکن ہند یم ژہر وی دعویٰ ہجہہ دو ان نبی کریم سہہ مچنگ مگر ایمان و عمل ہتھ شوبہ ہاتھہ نغہہ چہہ خالی۔ یہ تم ہتھہ آی، توحید و سنت تہم نغہہ چہہ بے بہرہ عاری۔ اُس شخص عمرہ روزہ کران تہنز مخالفت اُس روزہ خیال کہہ مہ کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطانہ سُد ڈھوکہ۔ آتھہ ہنہ تی یہ عبد اللہ بن ابی سہو و جہد شفاعت کرہ نُن دیت نہ اُس کانہ نفع تہ فاسیدہ۔ لہذا ہتھہ سخت ضرورت نجات حاصل کرنہ خیطرہ ایمان و عملہ ہنز۔ ہتھہ پانچ گڑھہ زان تہن لوکن ہند تم بزرگن اولیاء اللہن کن ایمانہ و عملہ و رای پائس نسبت کران چہہ تہن خدایہ سندن ناٹھن تہ محبوب ہندن کن سمو پندرہ عمرہ چہہ صرف کرہ مژہ کتاب و سٹش پیٹھ عمل کرنس اندر۔ جاہل لو کہ کرن مخالفت کتاب و سنت تہم پتہ روزیکھ خیال اسہ کرن تم خدا اُس نغہہ سفارش یا شفاعت۔ ایس خیال است محال است و جنون **وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ** جہد مال و دولت یہ گہر مہ ہز تراون تو بہہ تجیس اندر کہ ہتھن نافرمان ہتھہ پانچہ چھو اللہ تعالیٰ ذنیاس اندر سمہ نغہہ عطا کران سمہ نہ حض ہتھہ بہندہ خیطرہ نغہہ بلکہ چہہ تم چیز بہندہ خیطرہ عذاب سامان **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا** اللہ تعالیٰ چھونہ یرٹھان مگر تہن سمو چیز و سیت گرفتار عذاب کرن **وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ** یہ گڑھہ تہن ڈوئیرن گھرہ کس حالتس اندر۔ سمہ سیت آخر اُس اندر تہ سزوار عذاب روزن **وَإِذْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ** یلہ کنہ وقتہ قرآن مجید ک کانہ حصہ نازل ہوان چھو کرنہ ہتھہ منز یہ مضمون چھو آسان کہ پڑھ سکر و کنس معبود برحق خلوص دل۔ یہ نیر و جہادس تہندس پیغمبرس سیت سیت **اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ** اجازت چہہ منگان تو بہہ تہم اندرہ مال دار لو کہ۔ دپان چہہ اسہ ترا و حض ہتھہ۔ اس

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۴﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ  
وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۵﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۶﴾ وَ  
جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ  
كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

روز و پختہ روزہ و نین سیت رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ  
کا تاہ شرمہ ہنزکھہ چھ کہ تم لو کہ سپر رضا مند گھرن اندر زمان سیت روز نس پیٹھ۔ تہمدین دن پیٹھ  
بھہ مہر آشر کرنہ۔ تمی چھونہ تمن فکری تران لکن الرسول والذین امنوا معہ جہدوا باموالہم  
وأنفسہم لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ تم با ایمان تمن سیت بھہ تمو مون حکم خدا  
تمو کور جہاد مال و جانہ سیت وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی لو کن ہمدہ خیطرہ  
بھہ سارے خوبہ سے لوک بھہ کامیاب سے رستگار۔ سہ خوبی سے کامیابی کنیہ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ان بھہ تہمدہ خیطرہ تہ باغ تیار تھامت سمو  
منز جو بیہ پان آسن۔ تمنی جتن منز روزن ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کنیہ کنیہ بد کامیابی و جَاءَ  
الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ بیہ آئی کہہنہ بہانہ باز لو کہ گامو پیٹھ۔ بیٹھ تمن گھرن اندر بہنہ  
خیطرہ اجازت لیہ دنہ۔ جہاد س سپدن نہ تم شامل وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ بیٹھ گھرن  
منز تم لو کہ سمو ایمانہ کس دعویٰ اس اندر خدا نس سے بیٹھرس سیت بالکل اپر و نمت اوس۔ تم آئی نہ  
عذر پیش کرنہ سے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمو اندرہ ہم آخر س تان گھرس

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۰ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا  
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انصَحُوا لِلَّهِ وَ  
 رَسُولِهِ ۱۱ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۲  
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِيَتَحِمَلَهُمْ قُلْتُمْ لَا آجِدُ  
 مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْبُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ  
 حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۱۳ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ  
 يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

پیٹھے روزن۔ تمن واتی آخرتس اندر دگ تہ دود نکلے ون عذاب۔ سم تمواندرہ توبہ کرن باخلاص دل  
 مسلمان سپدن تم لین تمہ عذابہ نشہ نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا  
 یجدون ما ینفقون حرج اذا انصحو للہ ورسولہ کم طاقت لو کن تہ بیمارن تہ بیہ نہ تمن لو کن  
 یمن نہ خرچہ خیطرہ کینہ موجود چھو چھونہ کانہ گناہ یلہ تمن خیر خواہی تہ خلوص آسہ خدا بس تہ جہدس  
 پیغمبرس نسبت ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم تمن نیکو کارن پیٹھ چھنہ کانہ  
 دتھاہ اعتراض کرخ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ مغفر تہ وول بوڈ رحمتہ وول۔ ولا علی الذین اذا ما اتوکلت  
 لیتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ بیہ چھونہ تمن لو کن پیٹھ تہ کانہ گناہ تہ الزام۔ یلہ تم توبہ  
 نش آئے توبہ کیاہ کمر یو جہدہ سوار ی ہند انتظام۔ توبہ فرمودو کہ میہ نشہ چھونہ کانہ چیز پٹھ بو جہہ  
 سوار کروہ تولو او اعینہم تفیض من الدمع حزنا الایجدوا ما ینفقون تم درای وانس توبہ  
 نشہ پٹھ حاس اندر کہ اچھہ تمزہ آسہ اوش ہاران یی غمہ موکھ کہ یمن سپدہ نہ میانہ پنہر جاہ نہ بیہ کنہ  
 جاہ خرچہ خیطرہ کہ نہ مال بس سم پٹھ جہدس منز صرف کرہ من۔ تمن تہ چھونہ کانہ گناہ انما السبیل  
 علی الذین یستأذنونک وھم اغنیاء بس الزام تہ گناہ چھو تمنی لو کن پیٹھ سم مالدار آتھ توبہ

مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾  
 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذْ أَرْجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا  
 تَعْتَذِرُونَ لِي مِنْ تَوْمِنٍ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى  
 اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

جہادس نہ نیر نہ خیطرہ اجازت مکان جہدہ رضوایان یگوونوا مع الخوایف شرم مہہ تہمدہ  
 خیطرہ تم سپدر اضی زمان سیت روزنس پیٹھ و طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ ان  
 جہدہ موہر کمر مژ تہمدین دلن پیٹھ سمہ موکھ تم ن زان جھونہ تنگان ثواب کتھ منز جھوتہ گناہ کتھ منز  
 جھوتہ۔ **يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذْ أَرْجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ** سم لوکھ کرن عذرتہ بمانہ توبہ نش، یلہ و اہلس  
 گروہو تم ن نش۔ **قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لِي مِنْ تَوْمِنٍ لَكُمْ** لہذا فرماؤو کہ جہدہ بمانہ نہ عذر منہ و لو۔ اس ہرگز  
 تہمدس ونہ نس پڑھہ گرونہ **قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** بیشک اسہ کمر خبر اللہ تعالیٰ ان تہمدین اصلی  
 حالاتن ہنز کہ تہمد کا نہ عذراوس نہ پوزتہ صحیح۔ **وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ** بیہ نہ وہجہ آیندہ  
 اللہ تعالیٰ بیہ تہمد پیٹھیر تہمدہ کاملہ۔ سمہ سیت معلوم سپدہ توبہ اندر کوتاہ اخلاص نہ فرمانبرداری جہدہ  
**ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** توپتہ ایو جہدہ و اہلس نہ تس  
 پروردگار نس نشہ نس سوزی پوشیدہ نہ نون زانہ ون جھوتہ۔ نس گروہ سو توبہ خبر تم ن سارنی چیزن ہنز سم  
 تہمدہ کران آسودہ توپتہ دیوہ تجمزور **سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ** وون یلن  
 تم توبہ نشہ توپتہ ہاون تم قسم خدایہ سد یلہ تہمدہ و اہلس ایو تم ن کن۔ جتھ تہمدہ درگذر کمر و تم ن نشہ  
**فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ** بس کمر و جہدہ تم ن نشہ درگذر۔ تم تراؤو کہ پنہ نس حالس پیٹھ۔ ہز پاٹھ  
 تم جہدہ مکر نہ گندہ۔ **وَمَا أُوْنَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** تہمدہ انجام جھوتہ سیٹھاہ خراب۔ چولا کہ

إِنَّهُمْ رَجِسٌ ۖ وَمَا وَهُمْ بِجَزَاءٍ لِّبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾  
يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ  
نِفَاقًا ۗ وَاجْدُرَ الْأَيْعُلُكُمْ وَاحِدٌ ۖ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ  
رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿۹۷﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ  
مَآئِنِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ ۖ عَلَيْهِمُ

بھو واثن تین جہنمیں اندر۔ یہ جھوتمیں سزا تین کا میں ہند سیمہ تم کران آس۔ نفاق سے خلاف وغیرہ  
يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تم قسم چھہ تم ہاوان توہمہ بروئھہ کنہ بیٹھہ تہہ راضی گوہو تمہن نشہ۔ اول  
گوہنہ خدایہ سندن دشمن نشہ راضی سپدن۔ بالفرض ہر گاہ تہہ تمہن نشہ راضی سپدو۔ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہر گاہ تہہ تہند یواپز یو قسمو سیت متاخر سپد تھہ راضی گوہوتہ۔  
مگر اللہ تعالیٰ سپدہ نہ ہر گز راضی تمہن شریعتہ تا فرمان لوکن نشہ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا تمہن  
مناقن منزتم گامک لوکھ چھہ تم چھہ زیادہ سخت کفرہ کنہ سے نفاقہ کنہ محیازہ تم چھہ علمان  
تہ عاقلن نشہ دور روزان وَاجْدُرَ الْأَيْعُلُكُمْ وَاحِدٌ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ یہ چھہ تم  
اتھہ قابل کہ تم زانن نہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ ان چھہ پنہ نس پیغمبرس پیٹھہ نازل کرت مت وَاللَّهُ  
عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ جھو سوری زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ دول وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَآئِنِقُ  
مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ یہ جھو سمو گامہ کیو مناقو اندرہ بعض لوکن کفر و نفاق و جہلہ  
علاوہ بجل وعداوتک صفات بدتہ۔ تمہہ چھہ زانان خدایہ سزہ وتہ اندر خرچ کر نس چھیٹتہ جرمانہ یہ  
چھہ پاران تم توہمہ پیٹھہ پوت کھورینس کانہہ حادثہ واقع سپدنس، بچھہ وقاہہ نیس علیہم دَابِرَةٌ  
السُّوءِ پوت کھور یہ تمہن پانس۔ بچھہ وقت بین تمہن پانس۔ زماگ حادثہ سپدہ واقع تمہن پیٹھہ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جھو سوزوی بوزہ ون سوزوی زانہ ون وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُوْمِنُ بِاللَّهِ

دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا  
عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ  
سِوَىٰ خَلْعِهِمْ ۗ وَاللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۹﴾  
وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ  
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
جَدَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿۱۰۰﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیه ہجھہ گامکیو اندرہ تم تم پور پڑھہ ہجھہ کران کنس خدا نس۔ بیه ہتمس دوہس یعنی قیاس  
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ بیه ہجھہ تم گمز ران خدایہ سندہ و تہ اندر  
مال خرچ کر نس سندہ قربک تہ بیخبر خدایہ سندہ دعای خیرک اکھ رت ذریعہ اَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ  
لَّهُمْ وارہ یوزو واقعی ہجھہ سو خرچ کرن جہند تہندہ خیرہ قربک ذریعہ سِوَىٰ خَلْعِهِمْ وَاللَّهُ فِي  
رَحْمَتِهِ ضرور و اتا و تہن اللہ تعالیٰ پنہ نس رحمت منزکیازہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بیشک اللہ  
تعالیٰ ہجھہ سیشہ مغفرت تہ سیشہ رحم کرہ ون وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ بیه تم برو تھہ گو شہ ون۔ گو ذیٰ مغرف  
باسلام سندہ ون مہاجر و تہ انصار و اندرہ۔ بیه تم لو کہ سمو تہن پیروی کمر تہ طریقہ۔ تمکن سارنی نغمہ  
ہجھہ اللہ تعالیٰ راضی۔ تم تہ ہجھہ نس نشہ راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَدَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا بیه تھا و اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ تیار تم جنت سمو منز جو یہ پکان ہجھہ تمنی جنتن منز روزن تم

أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوْا عَلَى الْبِنْفَاقِ تَلَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ  
 نَعْلَمُهُمْ سُنْعِدْ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾  
 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا  
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنْ صَلَوَتُكَ سَكُنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

ہمیشہ ذلک الغور العظیم یعنی کبھی بڈ کامیابی و مین حوکم من الاعراب منفعون و من اهل  
 المدینة بیه یم توبه اند پک گائن ہند یولو کو اندرہ بیه شہرہ کیولو کو اندرہ تہ تم مناقجہ مَرَدُّوْا  
 عَلَى الْبِنْفَاقِ ڈاڈمتر تھ جھہ نفاس بیٹھ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُنْعِدْ بِهِمْ مَّرَّتَيْنِ تہہ  
 زانیو کہ نہ تم۔ اس زانوہ تم جلدی دمو اس تمن ذنیاس اندر سزادو گن ثُمَّ يَرُدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ  
 عَظِيمٍ تو پتہ بین تم سوزنہ آخر جس بڈس عذابس گن وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا  
 عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا بیه جھہ تمن ورا ی کہہنہ لوک تمو اقرار کور پنہ نین گو نمن۔ تمو ملہ ناوہ رثہ عملہ  
 جھہ عملہ سیت۔ یعنی سُوگو اعتراف گناہ کرن پنہ نس گہس اقرار گرن عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ  
 إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ شاید اللہ تعالیٰ کرہ جہنہہ توبہ قبول۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ جھو پیشک مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہر حم کرہ ون۔ تمو صحابہ صیو آس ہن بان گنڈ تھ تھاومت مسجد شریفہ کین تھمن سیت۔ بہند  
 توبہ قبول سپد تمو مژاؤ پنہ نین پان ہند گنڈ۔ تو پتہ اتیکہ ہارہ در خدمت حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم۔ اتی سپدیہ آہ کریمہ نازل خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا رُوْحُض  
 تمن توبہ کرہ و نین نشہ جہنہہ مالہ اندرہ بس تم پیش کر ان جھہ بطور صدقہ۔ کریو کہہ تم پاک پاکیزہ تمنہ  
 صدقہ سیت وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَوَتُكَ سَكُنَ لَهُمْ بیه کمر یو کہ دعای خیر۔ ہز پاتھ جہنہہ دعای خیرہ  
 سیت جھو تمن تسلی تہ الطمینان حاصل سپان۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جھو جہنہہ اعتراف

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ  
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۴۳﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ  
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۴﴾ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ  
 لِرَأْمِ اللَّهِ إِمَّا يَعِدُّ بِهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۴۵﴾

اور اقرارگناہ، تہمت، ندامت وارہ پوزہ ون پوزہ زانہ ون اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کیا تم نے جتنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای چھو توبہ قبول کران پنے نین بندن ہند۔  
 بیہ چھو سؤی صدقات قبول کران وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بیہ جتنا تم نے معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای  
 چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون۔ سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ فرماؤ کہ چھہ کہ ای لو کو کران گرہ ہو چھہ عمل، اللہ تعالیٰ چھو پانہ و چھان تہمت عمل۔  
 بیہ پیغمبر حمد، بیہ بالیمان۔ چھہ کا میں ہند نتیجہ نیرہ توبہ دنیاعسی اندر، ذلت بیہ خواری وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ای چھہ و اتنا ونہ نس ذات پاکس نعرہ نس سو زوی پو شیدہ تہ نون زانہ ون  
 چھو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کس گرہ سو توبہ خیر تم سارنی کا میں ہنز سمہ چھہ کران آبیوہ  
 وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِرَأْمِ اللَّهِ بیہ چھہ کہنہہ لو کہ چھہ روز و نینو اندرہ تم پیاران چھہ خدا بیہ سندس کس۔  
 تم نے متعلق چھو إِمَّا يَعِدُّ بِهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یا کر کیہ عذاب، ہر گاہ توبہ کر نس  
 اندر خلوص آسکھ نہ۔ یا کرہ چھہ توبہ قبول۔ ہر گاہ توبہ باخلاص و عدم آسکھ۔ اللہ تعالیٰ چھو پر چھہ  
 اکسند حال پوزہ زانہ ون۔ نس چھہ خبر اخلاص و عدم اخلاص۔ سو چھو سیٹھاہ حمد و دل۔ مدینہ شریف  
 قریب چھو اکھ محلہ تھہ چھو ناو ”قبا“۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یلہ مکتہ شریفہ پیٹھ  
 ہجرت کمر۔ گوڈنی ٹھہرے تم اتھہ مجلس اندر۔ تمہ پتہ پتہ کہنہہ کالاہ گرہ تھہ اُو کہ تشریف مدینہ شریفہ کس  
 شہر س اندر۔ ایس کالس اتھہ محلہ قبا س اندر قرار کو رکھ تھہ کالس کالس بیٹھہ جاءی تمہو نماز پر تھہ جاہیہ



وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ  
 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكٰذِبُونَ ﴿۱۴﴾ لَا تَقْرَفِ فِيهِ أَبَدًا مَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

بناو امہ محلہ کیو مخلص باایمانو اکہ مسجدہ۔ تھ مسجدہ چھہ دنان مسجد قباء تھ مجلس منزسم مناقب بسان  
 آس تمن اوس میل جول تہ من گدھن اکس شخص سیت بس ناو اوس ابو عامر راہب۔ سو اوس  
 اسلامک سخت دشمن۔ تمومناقو کورس سیت مشورہ کمر تھ اکہ کتھاہ مقرر کہ اس تہ بناو ہتھ مسجدہ  
 سیت بیاکہ مسجد۔ تھ منزج مسجد تھ آسو اسلامس خلاف مشورہ کران۔ ام ابو عامر ن دون یمن مناقب  
 کہ یو سمکھ ہر قلس وغیرہ بادشمن۔ تمن سیت فوج ولشکر حاصل کمر تھ تھاؤوا کے ساتھ مسلمان ہند  
 یول گاتھ۔ تمہ پتہ یلہ مسجدہ ہنزہ ٹکھہ سمومناقویہ مکان بنوؤ تو پتہ آی در خدمت حضرت رسول  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمن کوزکھ عرض چہہ انوحض تشریف آتھ سانہ مسجدہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ان  
 کمر نازل اتھ موعس پیٹھ تم آیات کریمہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ بعضی لوکھ سموم مسجدہ بناؤ اسلامس ضرورتاؤنہ خیطرہ۔ بیہ پیٹھ تھ منز کمر چہ یعنی  
 عدوت رسول چہ تھ کرن۔ بیہ پیٹھ مسلمان منز تفرقہ تراؤن زہ حصہ کرن وَلَا صَادًا لِمَنْ حَارَبَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ بیہ پیٹھ زانچ جانی بیہ تمن کس شخصہ سدہ خیطرہ سم برو نھسی مخالفت کمر  
 خدائس تہ جہدس پیغمبرس یعنی ابو عامر مذکور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ تو پتہ چھہ قسم ہاوان  
 کہ اسہ اوس نہ اتھ اندر یعنی مسجد بناؤس اندر بہتر وراوی حنیہ چیزک ارادہ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكٰذِبُونَ خدا چھو گواہ کہ بیشک چھہ تم اپز زبیر۔ یلہ امہ مسجدہ ہنزہ حالت چھہ لَا تَقْرَفِ فِيهِ  
 أَبَدًا چہہ مہ حض گدھو تھ منز نماز پر نہ ہرگز لِمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ  
 تَقْرَفَ فِيهِ البتہ سو مسجد پیٹھ کن آمت چھو دنہ گوڈ چھہ دوہہ پیٹھ پر ہیز گاری پیٹھ، یعنی مسجد قبا سو

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَخَذَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ  
 يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۸۸﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا  
 رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۰﴾

چھ سزاوار سمہ خیرہ کہ جہہ پتر و تھہ منز نماز فیو رجال یحیون ان یتطہروا تھہ مسجد قباء س  
 منز چھہ تم کو کہ تم پاک چھہ سیٹھا تاٹھہ واللہ یحب المطہرین اللہ تعالیٰ تہ چھو زیادہ پاک روزو  
 نین لوٹھ تھوان آفمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان خیر کیاہ سو شخص تم کنن دیت  
 پنہ نس گرس یعنی مسجدہ خدا نس کھو ژ کھو ژ تہ ہنمز رضامندی ژھا نڈان سو شخص چھا بہتر آفمن اسس  
 بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہاریہ فی نار جہنم کنہ سو شخص ہم پنہ گرج بنیاد تہ کن دیوت  
 کھو کھرہ چھہ کس اندس پیٹھہ۔ تھہ پھراٹ تہ گامز آس، نس و س پنیس تیار۔ نس پیو سو و ستھ نار  
 جہنم اندر، نس تھہ منز اوس سو تہ پیو جہنم اندر۔ کیا زہ یہ مکان بناونہ اندرہ اوس غرض مخالفت  
 اسلام و پیغمبر اسلام۔ نس سراسر کھر اوس۔ کھر تہ کافر ن ہنز جای چھہ نار جہنم۔ واللہ لا یھدی  
 القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ و تھہ ہوان تھن ظالم دینہ جن کاین کن لایزال بنیانہم الذی  
 بنو ریبہ فی قلوبہم ہمیشہ روزہ یہ گرہ نس تمو بنو تھمدین و کن اندر شک سبب۔ توپتہ یلہ سو گرہ  
 مہمد کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوزو دلکہ و ن تھمدین و کن اندر۔ الا ان تقطع  
 قلوبہم واللہ علیہم حکیم سوز لیچھہ مگر اینکہ ریزہ ریزہ گوٹھہ تھمدین و کن منز تھہ قبرن اندر اللہ  
 تعالیٰ چھو سوزوی زانہ و ن، حمتہ و ول إنا اللہ استخری من المؤمنین انفسہم و اموالہم یا ان  
 لہم الجنة پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ ان ہمت مثل بالیمان نعرہ تھمدیان تہ تھمد مال، جنس بدلہ۔ خدا نس

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ  
يُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ  
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا  
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾  
الْمُتَابِعُونَ الْعِيدُونَ الْإِخْوَانُ السَّابِقُونَ الرُّكْعُونَ  
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

کنند اندر و همچو مطلب که تم همه مال بین تہ جان بین خدایہ سبہ خیرہ صرف کران  
سبیل اللہ فیکتولون و یقتولون تم خدایہ سزہ و تہ اند جہاد کران ہجہ ہجہ منزئہ وقتہ دشمن ماران  
ہجہ کتہ وقتہ پانہ شہید سپدان ہجہ وعدا علیہ حقا اتہ جہاد و قائل پیٹہ بس وعدہ تمن سبت کرنہ  
آمت ہجہ سو ہجہ پوز وعدہ امیک وعدہ ہجہ کورمت اللہ تعالیٰ ان پوز وعدہ فی التَّوْبَةِ  
وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ توراتس منزئہ، انجیلس منزئہ، قرآنس منزئہ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
یہ تمہ ہجہ مسلم کہ خدایہ سبہ خوتہ بس اکہا ہجہ ز یادہ وفا کرہ دن پنہ نس عہدس فاستبشروا ببیعکم  
الذی بایعتمہ بس گروہو خوش پنہ نس ہجہ سودا س پیٹہ بس توبہ کورہ خدائس سبت۔ وَذَلِكَ  
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیئہ کنیہ بد کامیالی یعنی جنت حاصل سپدان الْمُتَابِعُونَ الْعِيدُونَ  
الْمُتَابِعُونَ السَّابِقُونَ الرُّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ  
لِحُدُودِ اللَّهِ تمن مجاہد بایمان ہند صفت ہجہ تم ہجہ توبہ کرہ دن شر کہ نشہ، نافرمانیو نشہ، تم چہ  
عبادت کرہ دن، تم ہجہ حمد پون، تم ہجہ روزہ دار روزہ دن، تم ہجہ رگوع کرہ دن تہ سجدہ و وہ دن

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ مَا كَانَ  
 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ  
 لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ  
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ  
 إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ  
 لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

یعنی نماز پڑھو۔ بیہ چھ تم رٹن کھن ہنز تعلیم دودون تہ بیچہ کھو نغمہ پتھ رٹوون۔ بیہ چھ تم خدایہ  
 سندین حکمن راجھہ کرہون عملہ سیت و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری فرماو تمین با ایمان سکن  
 اندر جہادک جذبہ تہ تم صفت آسن مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ  
 جائز چھونہ بنی کر تمس بیہ با ایمان تہ تم کیا مگن مغفرت مشرکین ہندہ خیطرہ و لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ  
 اودہ آستھہ تم آشناوی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تمین وارہہ بیہ کھہ نندہ پتہ کہہ  
 تم کیا چھ ناریک لوکھ، تہندہ کفرس پیٹھہ مر نکہ سببہ ہر گاہ حضرت ابراہیم سہدہ قصہ سیت خبہ سپد کہہ  
 تمبو کیا زہ مونگ مغفرت پنہ نس مال سہدہ خیطرہ، تمیک جواب چھو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ  
 لِأَبِيهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَّهَا أَيَّاهُ بیہ اوس نہ مغفرت مگن حضرت ابراہیم سہدہ پنہ نس مال سہدہ  
 خیطرہ مگر اکھ وعدہ پور کرنہ خیطرہ نس تمبو نس سیت کورمت اوس۔ تیج ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو  
 ساستغفر لک ربی آسں اندر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ اودہ یلہ تمین نیوند کہہ سو چھو  
 دشمن خدایہ سہدہ تم سپد نس نغمہ بیزار۔ استغفار مگن تروو تمبو کیا زہ اتھہ صور نس اندر دُعَايِ مغفرت  
 کرن چھو بیکار۔ وون روزیہ کھہ کہہ تمبو کیا زہ اوس تمس وعدہ کورمت تمیک وجہ چھو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ  
 حَلِيمٌ ہز پاتھ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالہ ون، ژید کرہ ون۔ باوجودیچہ تمین  
 ونہ مال سخت ناگوار تھہ مگر تمبو ہنہو جلس کوم۔ از نس شفقت و مہربانی کور، نس وعدہ استغفار۔ سو تہ تو تھسی

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا  
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى  
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي  
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِكَ  
مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

تانبے کی دو تان تان امکان مغفرت امید آس و ماکان اللہ لیضل قومًا بعد اذ ہدیتہم اللہ تعالیٰ  
چھوٹے ڈالان کے تومس تان ہدایت کرنے پتہ۔ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ یوتان تان وارہ  
بیان کران چھو تم چیز سمونہ تان چن تہ پتہ روزن آسان چھو إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہنز  
پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو پرتھ چیزا ہ پورہ زانان إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ  
پزپاٹھ اللہ تعالیٰ سزئی ہتھ پادشاہت آسمان تہ زمین ہنز۔ سؤی چھو زندہ کران تہ ماران وَمَا لَكُم  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیہ چھو تہ تہدہ خیطرہ خدائس ورا می کانہہ دوستاہ تہ مددگارہ  
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللہ  
تعالیٰ سپر متوجہ رحمتہ سیت بنی کر تسم۔ تان کوزن عطا نبوت تہ امامت جماد۔ بیہ سارے خوبہ بیہ  
کران تان مہاجر تہ انصار کن توجہ برحمت سمونہ ہنز پیروی کمر سختی ہندہ وقتہ کہ تان دین تونین  
استقامتک مشقت و تکلیف برداشت کر ٹک مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِكَ مِنْهُمْ تسمہ  
پتہ کہ قریب اوس کہ کہ جماعتک دل ڈلہ بن تسمہ نشہ، ہنز پیروی کرنے نشہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ  
بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ تو پتہ پھور سؤ تان کن ثالث قدمی عطا کرنے سیت کیا زہ سؤ چھو تان پیٹھ

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن  
 لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ  
 اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ  
 حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَ  
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

سیٹھا مہربان سے سیٹھاہ رحم کرہون وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا بے کور توبہ قبول اللہ تعالیٰ ان  
 تمن ترین شخص ہند ہند معاملہ ملتوی اوس تھاوند آمت۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ  
 بِمَا رَحُبَتْ یو تان تمن پیٹھ زمین وسیع سے کھول آستھ تنگ سپد وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ بے آئی  
 تمن پانہ سیٹھاہ تنگ سے عاجز وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بے زون تمبو کہ کانہ چھن جای  
 چھنہ خدایہ سدہ عذابہ نشہ چنہ خیطرہ تس وراى ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا توبہ سپد سو تمن کن متوجہ  
 رحمتہ سیت۔ یٹھ تم توبہ کرن اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پزباٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ قبول کرہون  
 رحم کرہون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای بایمانو کھو ژو خدائس بے روزو  
 عملہ اندر پنز زیارین سیت۔ یمن ہنز نیت سے کھہ دُرست سے پزہ چھہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ  
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ شوبہ ہانہ، پزہ ہانہ مدینہ منورہ کین لوکن  
 بے تمن لوکن تم لہد پک گائن اندر روزان چھہ پتھ روزن سے شمولیت نہ کرن پیغمبر خدائس ہمراہ  
 جمادس اندر نیر نہ نشہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ بے شوبہ ہانہ تمن پن پان زیادہ ناٹھ زان تہدہ  
 خوتہ۔ تم یلہ پانہ بہ نفس نفیس درای اتھ جنگ تبوگس اندر پتھ روزہون سے پنہ نین پان آرام واتہ ناوہ

ظَبًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ  
 مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْتَبَ  
 لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾  
 وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ  
 وَادِيًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ  
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

ون۔ تم کیا وہ تہندہ خوتہ ذلک بانہم لایضیبہم ظبا ولا نصاب ولا مخصصة فی سبیل اللہ  
 ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوئنا نیلا الا کیتب لہم بہ عمل صالح  
 ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ۱۰  
 و لا ینفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة ولا یقطعون وادیًا الا کیتب لہم لیکریہم اللہ احسن ما کانوا  
 یعملون ۱۱  
 وما کان المؤمنون لینفروا کافة ۛ فلولا نفر  
 من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین  
 ون۔ تم کیا وہ تہندہ خوتہ ذلک بانہم لایضیبہم ظبا ولا نصاب ولا مخصصة فی سبیل اللہ  
 ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوئنا نیلا ۱۰  
 یہ تم سیت شمولیت کرن اس ضرور  
 سمہ موکہ کہ اتھ اندر اوس اکہ محبت پیغمبر خدایک حق ادا کرن تمہ علاوہ سمہ سمہ مہربانیہ تہ ثواب  
 مجاہدن حاصل سپزہ تم تہ سپدہ کن تمہ مہربانیہ حاصل۔ چنانچہ تم دوت نہ کانہ تکلیف خدایہ سپزہ  
 وتہ اندر۔ تم لجنہ تریش۔ بوجہ۔ تم یک نہ تہ وتہ مگر بشان وشوکت سمہ سیت کافرن تہ کہ کھوتہ وانج  
 دز تمین یہ کورنہ تمہو حاصل دشمن نشہ کانہ چیزہ الا کیتب لہم بہ عمل صالح مگر سمہ  
 ساروی چیز بدل آہ تم نامہ اعمال اندر رتہ بیکہ لیکہنہ ان اللہ لایضیع اجر المحسنین ۱۰  
 پاہ اللہ تعالیٰ چھونہ ضایع کرن نیو کارن ہنز مزدور ولا ینفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة  
 ولا یقطعون وادیًا الا کیتب لہم ۱۱  
 یہ کرن نہ تم کانہ خرچ لوٹ یا بوڑ۔ یہ تہ ہنڈن نہ کانہ  
 میدانہ۔ مگر تمہ بدل تہ بیکہ بیکہ لیکہنہ۔ لیکریہم اللہ احسن ما کانوا یعملون ۱۱  
 اللہ تعالیٰ تم رتہ مزدور عطا کرہ تمی کائین ہنز سمہ تم کرن اس۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافة ۛ  
 یہ ہزہ ہاند بایمان نیرن اکہ وٹ سارنی ہند فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ۛ  
 یہہ پاہ کیا زہ آہ

وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۳۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ  
الْكَفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ  
إِنَّا كُذِّبْنَا وَذَاتُهُ هِدْيَةٌ إِيْمَانًا ۖ فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا  
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَآمَنَ  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ

نہ عمل کرنے کہ آبادی ہندہ پر ہتھ جتہ منزیرہ ہن کینہہ لوکہ لیتفقہوا فی الدین بیٹھ تم  
شہرہ کین عاکن نشہ دینک احکام حاصل کرن وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  
تاکہ پنہ نین لوکن کن واپس گڑھتھ کرہ ہن تمن نیم بیٹھ تم نافرمانیو نشہ احتیاط کرن۔ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ای باایمانو جہاد کمر و تمن کافرن سیت یم توہم  
کھ تلہ جھہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً تمن تہ لمن بوزنہ کہ توہم اندر جھہ سختی تمن نشہ منہ روزو  
کھو ژتھ تہ دیتھ۔ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بیہ زانوہ کتھ کہ اللہ تعالیٰ سہ مدد جھو پیشک  
پر ہیز گارن تہ مقین سیت وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ إِنَّا كُذِّبْنَا وَذَاتُهُ هِدْيَةٌ إِيْمَانًا  
بیہ یلہ نوو سورہ شریفانہ نازل کرنہ یوان جھو کس جھہ بعضی منافقو اندرہ ہم ونان جھہ ٹھٹھہ پاٹھ۔ تلہ سا  
وستو توہم اندرہ کسند ایمان ہر یوہ سورہ نازل سپنہ سیت فَآمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا  
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کس سمو لو کو برو نطھی ایمان اونمت جھو تمن ہرہ روو ضرور قران مجیدک  
تم سورن سیٹھا ایمان چنانچہ تم جھہ ترقی ایمان سیت سیٹھا خوش وَآمَنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَّرَضٌ وَذُنُوبُهُمْ كَثِيرَةٌ وَلَهُمْ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ لَس



رَجِبِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ لَا يَرُونَ  
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا  
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ  
 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ  
 انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

بہرہ رو توین قرآن مجید ک تم سوزن ناپاکی پیٹھ ناپاکی۔ کیا زہ لمرہ برو تھ اوس تمہو قرآن مجیدہ کس اہکس  
 حصص انکار کورمت۔ وون کوزکھ پيس حصص وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ بہہ مود تم کفر کسی حالس  
 پیٹھ۔ قرآن مجیدک خاصیت ہتھو پیشک ایمانس اندر ترقی پیدہ کرن۔ مگر جای گڑھہ تھہ قابل آسن۔  
 دل گڑھہ نفاقتہ بشر پاک آسن اَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آیا  
 وچھان چھنا تم زہ تم چھہ ضرور آزمائش یوان کرنہ پر تھہ و رہہ لکھ بھہرہ یا دویہ بھہرہ، تھہ تھہ تھہ آتھس  
 تہ بلا یہ منز بتلا کرنہ سیت۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ تو پتہ تہ چھہ تم باز یوان تہ  
 چھہ تم نصیحت رنان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بہہ یلہہ کانہ نو سورہ نازل کرنہ  
 یوان چھہ تھہ سائہ چھہ تم اھ اھ اھس کن و چھہ لگان۔ اشار و سیت چھہ اھ اھس پر تھان هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ  
 أَحَدٍ وچھان ما چھو تو بہ کن کانہ مسلمانو اندرہ ثُمَّ انصَرَفُوا آتی چھہ تھن یوان نبی کریم سزہ  
 مجلسہ منزہ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان پھر تھہ دل دین حقہ بشرہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ کیا زہ تم چھو نہ پوز فخری تران لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ای لو کو تھہن آو  
 تو بہ کن پیٹھرا تو ہی منزہ یعنی از جلس بشر۔ تھہ تو بہ تم چھہ فیض حاصل کردن آسان سپدہ عَزِيزٌ  
 عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ تم سیتھاہ ناگوار تہ دشوار چھو تو بہ کانہ تکلیف و اتھن حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ سیتھاہ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

خواہش مجھ تمہارے ہمدردی سے ہے۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ تمہیں سب سے زیادہ مہربان اور  
 سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾  
 اگر تم لوگوں سے الگ ہو جاؤ تو کہو کہ میری مدد تو خدا ہی کی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے پاس ہے  
 وہ عظیم العرش کا۔ تُوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾ میں نے اس پر ہی توکل کیا ہے۔ وہی  
 ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا  
 چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر  
 توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔ وہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرَّحْمَتِكَ أَيُّهَا الْكَلْبُ الْحَكِيمُ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا  
 إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ  
 قَدْ مَصَدَّقَ وَعْدَ رَبِّهِمْ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ②  
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَنْ شَفِعَ إِلَّا مِنْ

الَّذِي أَمَرَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ أَيُّهَا الْكَلْبُ الْحَكِيمُ ہم آیت برونھ بیان کر نہ ہم ہمہ آیت ہر جہت سے مضبوط کتابہ ہر۔ یعنی قرآن مجید ک ہم آیت پز آسنہ مکھ قابل قبولیت ہمہ۔ یمن بیٹھ ہم آیت نازل سپدان ہمہ کافر ہمہ تہندس نبوس انکار کران۔ تمنی وهو اللہ تعالیٰ جواب فرماوان أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ کیاہ یمن مکہ کین لوکن چھا عجایب بوزنہ یوان یہ تھہ کہ اسہ سوزوجی تموی اندر اکس شخص بیٹھ بس تمنی ہیو بشرتہ انسان وهو۔ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ سُوجی وهو ای کہ ہم کمر و تمن لوکن ہم خدلیہ سندین حکم خلاف کران ہمہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصَدَّقَ وَعْدَ رَبِّهِمْ ہمہ ایمان اون تمن فرماوویہ خوش خبر کہ تہندہ خیطرہ وهو تہندس خدائس نشہ تھود مرتبہ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ کافر یلہ جیران گئے یہ کلام پاک بوزنہ۔ دہنہ لگ بہنہ پاٹھ وهو شخص نعوذ باللہ ساجر تہ جادو گر إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پز پاٹھ وهو تہندس ہر و روگار اللہ تعالیٰ۔ ہم پیدہ کمر آسمان تہ زمین شین دوہن برابر مدتس منز۔ بس وهو سُوجی اعلیٰ درجک قادر ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ توپتہ سپد سو مستوی عرش بیٹھ تھہ پاٹھ تھہ پاٹھ تھہ شائس شوبہ۔ چنانچہ فرماوان وهو يُدَبِّرُ الْأُمْرَ سُوجی وهو پر تھہ کامہ ہند مناسب تدبیر کران بس وهو سُوجی

بَعْدَ إِذْ نَبَّأَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۳۰  
 مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۳۱  
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ  
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

حکیم مآین شفیق الامن بعد اذ نبه ذلک الله ربکم فاعبدوه تس برونگه کنه بیه نہ کانه اکھ  
 شفاعت کمر تھ تہنہ اجازتہ وراى۔ کس چھو سو عظیم تہ۔ یوسے معبود برحق چھو تہنہ پروردگار، حقیقی  
 رب۔ کس کمر و تہنزی پرستش۔ شرکہ نہ روزوتھہ افلا تذاکرون کیاہ سہہ دلیلہ یوزتھہ تہ چھوہ  
 ناتوہہ فخرہ تران کینہہ سہہ سیت تہہ نصیحت رنو ایلہ مرجعکم جمیعاً وعدا لله حقاً تس کن چھوہ  
 توہہ سارنی واثن۔ یہ چھو اللہ تعالیٰ سند پوزوعدہ ائہ یبدؤ الخلق ثم یعیڈہ پڑپاٹ سوسی چھو گوڈہ  
 پیدہ کران مخلوقن۔ توپتہ کرہ سوسی یہہ ڈوبارہ تہن پیدہ قیامتک دوه لیجزی الذین امنوا و عملوا  
 الصالحت بالقسط۔ چھہ بدلہ دیہ سوتہن لوکن پوزہ پوزہ سمو ایمان اون بیہ کرکھ رتہ عملہ، عدل و  
 انصافہ موجب۔ تھہ منزکرہ نہ ٹھہ قسمہ کی بلکہ کرہ زیادے عطا والذین کفروا لهم شراب من حمیم و  
 عذاب الیم بما کانوا یفکرون بیہ سمو لوگو کفر کور۔ تہنہ چنہ خیطہ۔ چھہ آخر تس منز سبج ز سر بیہ  
 تمہ علاہ عذاب کڈر۔ کیا زہ تم کیا اس کفر کران هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً سو قادر  
 مطلق گو سوسی تم آفتاب کورنہ نہ کرہون۔ زون کمرن پر یزلہ ون وقد رکا منازل مقر ز کمرن سمو  
 اندرہ پر تھہ اسدہ سیرہ خیطہ برج نہ منزل۔ آفتابہ سیت چھہ یوان دوه پر زاونہ نہ ڈونہ سیت چھہ یوان  
 رستھہ نہ ورہہہہ پر زاونہ لتعلموا عدد السنین والحساب۔ چھہ تہہ زانو ورہن ہنز گریندہ رتین نہ  
 دوہن ہند حساب ما خلق الله ذلک الا بالحق اللہ تعالیٰ ان کمر نہ تم چیز پیدہ مگر ہنر پانھ کن جموں

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾  
إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ  
مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ يَهْدِيُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

پیٹھ مشتمل يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ویشہ ناوان چھو اللہ تعالیٰ پنہ قدر تہہ دلیلہ زانن والین  
ہندہ خیطرہ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ پزپاٹھ  
راتہ کس نہ دوہہ کس اختلافس آکھ آکس پتہ پنس اندر، ہیہ سیم چیز اللہ تعالیٰ ان آسمان وزمین اندر پیدہ  
کر، تمن اندر ہجھہ ہڈ ہڈ نشانہ تہ دلیلہ خدایہ سندس آسٹس پیٹھ تمن لوکن ہندہ خیطرہ سیم خدائس کھوڑہ  
دون چھہ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا پزپاٹھ سیم لوکھ امید چھہ تھاوان سائہ ملاقاتج تھہ چھہ انکار  
کران چھہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہیہ سیم راضی سپد دنیا چہ زندگانی پیٹھی آخر تک طلب چھونہ تمن  
کہنی وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ہیہ سیم تھہ دنیا کی پیٹھ مطمئن سپد۔ دل لگھہ چھہ توکن متوجہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
آيَاتِنَا غُفْلُونَ ہیہ سیم سانیو آیا تو شہہ چھہ بیگری تمن منزمرنہ پتہ ہیہ زندہ گھوٹھ فکر چھہنہ أُولَٰئِكَ  
مَأْوَاهُمُ النَّارُ تمنس لوکن ہنز جای چھہ نار جہنم ہما کائوا یكسبون تمن چھہ کاین ہند سزا سیمہ  
تم کران آس إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ پزپاٹھ سیمو لوگو ایمان  
اولن ہیہ کر کیکہ رڑہ عملہ تمن ہاودہ و تھہ پن پروردگار تہندہ ایمانکہ برکتہ جنٹس کن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ  
الْأَنْهَارُ فِي جَبَّتِ النَّعِيمِ سیمو جتو منزر نگارنگ جوہہ پکان آسن نعمون ہندین جنٹن اندر دَعْوَاهُمْ فِيهَا  
درخواست چھہند آسہ جنٹس اندر۔ یعنی کانہہ چیزے طلب کران آسکھہ تمہہ ساتہ پرن تم سبحانک اللہم،  
یکدم آسہ سو چیز پیش سپدان سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ منزہہ تہ پاک چھوک ژہ یا اللہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ چھہند

الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ④ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ  
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑤ وَأُخْرَدُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ⑥ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ  
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي  
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑦ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا  
لِجَنِّيهِ أَوْ أَقَابَهُ أَوْ قَابِئًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ  
كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ

تعظیم و تکریم آسہ جنتس اندر سلام، ملائک آسن تمن نشہ یوان۔ تم آسن تمن سلام کران۔ جنتی آسن  
اکھ آس سبت ملاقات کران تم نہ آسن تمہہ ساتہ سلام کران وَالْخُرْدُ دَعْوَاهُمْ آخری دعا آسہ تمہد  
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریف چہہ سزاوار آس معبود بر حق نیس عالمین ہند رُت چھو  
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لو کن پیٹہ تہندہ  
جلدی شر ژھانڈ نیس موافق جلدی عذاب واقع کرہ ہاتھہ پاتھہ تم خیر ژھانڈ نیس اندر بے تابی کران  
چہہ نہ اللہ تعالیٰ چھو خیر تمن جلد واتاوان۔ ہر گاہ پیٹہ پاتھہ شر بہ جلدی واتاواہ میٹھہ۔ تیلہ آسہا تہندہ  
عذابک وعدہ ڈیٹھ کنہ پورہ سپد مت فَنذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ نیس  
چھٹھہ آس تم لو کہ تمن نہ آسہ نشہ واتج نہ آسہ سبت ملاقات کرنچ امید چہہ یلہ تراوان، پیٹھ تم سر کشی  
اندر اورہ یور پھیرن بالآخر کرو کہ اس تم عذاب نیس گرفتار وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّيهِ  
أَوْ أَقَابَهُ أَوْ قَابِئًا پیہ یلہ کانسہ انسانس کانہہ سختیاہ واتان چہہ آتی چہہ ہیوان آسہ سو مگن پر پیٹھ  
حالیس اندر۔ شوگلت بہ بہت نہ دو تھ ون نہ۔ تمہہ ساتہ چھوس نہ معبودان باطلو اندرہ کانہہ نہ ژ تیس  
ہیوان فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَتْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا  
لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  
خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾  
وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي

يَعْمَلُونَ تو پتہ یلہ اس نہ سختی چھس دور کران تہنہ مدہ منجھہ تہ اسہ کن التجا کرنہ پتہ۔ تو پتہ چھوسو  
واتان پنہ نس اصلی حاس کن بیہ چھو شرکچہ کامہ تہ تھہ کران۔ پکان چھو اسہ سمیت تمہ طریقہ زن نہ اسہ  
کن ٹنہ سختی وزہ حاجتھی بیومت چھو نس۔ اسہ سمیت چھو بے تعلقی ظاہر کران۔ تھہ پاٹھ چھو زینت دنہ  
آمت حدہ نشہ تجاوز کرہ و نین ہنزن تمن چھہ عملن سمہ تم کران آس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا تحقیق گاجہ تہ ہلاک کرہ اسہ مختلف عدلہ سمیت واریاہ جماتہ توہہ بروٹھ یلہ تمو ظلم  
کور یعنی کھر و شرک کورکھ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تمن نشہ تہ آس واتمت پیغمبر تہندہ تہ  
دلیلہ ہتھ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا آس نہ تم تمہ قسمک کہ پڑھہ کرہ کن تہ ایمان انہ کن کَذَلِكَ  
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تھہ پاٹھ بیاہ چھہ آس جرم کرہ و نین سزا دوان ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي  
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تو پتہ کمر وہ اسہ ٹہہ تمن پتہ دنیا نس اندر تہنہ جایہ  
آباد۔ تھہ آس و چھو ٹہہ تھہ پاٹھ کمر و کوم (لہذا ہر گاہ توہہ تہ تی کور وہیہ برو ٹھمید کور تلہ ہتہ توہہ تہ تی یہ  
تمن بنیو وَلَا إِتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ بیہ یلہ پر نہ چھہ یوان تمن پیٹھ سان واضح تہ روشن آیات  
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا ونان چھہ تم لوکھ کن نہ امید ی چھہ اسہ سمیت  
ملاقات کرچ۔ ای پیغمبر سمہ قرآن مجیدہ بدل انویا کھ قرآن تھہ منز نہ تمہ قسمک مضمون آسن سم  
سانس مسلکس خلاف آسن أَوْ بَدِّلْهُ یاکھر واتھ اندر کتہ قسمہ ترمیم۔ تم آیات کڈو امہ منزہ سم اسہ

أَنْ أَبَدِلَ لَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُهُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ  
 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ  
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ  
 فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن  
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۷﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

خلاف چھ قُلْ تمہہ فرمادو کہ مایکون لی ان ابدا لہ من تلقائی نفسی مہ چھونہ اختیاری بوکیاہ  
 بدلاوہ اتھہ کیہنہ پنہہ طرفہ کیازہ یہ چھامہ پن کلام ان اتیہ الامایوحی الی بوچھوس نہ پکان مگر  
 تمی حکمہ موجب نیس مہ گن سوزنہ دیوان چھو ای اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ہنز پاتھ  
 بوچھوس کھو ژان ہر گاہ بو تا فرمانی کرہ پنہ نیس مالکہ سنز بدہ دوہنہ کس عذائس سو گوروز قیامت قُلْ تمہہ  
 فرمادو کہ ہز لوشاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم یہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہہ ہابو پدہ ہانہ توہہ پیٹھ  
 قرآن مجید۔ یہ کہ ہانہ توہہ ای خبر فققد لبثت فیکم عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ نوروؤس توہہ منز عمرہ ہندس  
 آس ہڈس حصس، ژ تبخیں ۴۰ ورہن سمہ بروٹھ (ہر گاہ مہ پنہہ طرفہ کیہنہ پیش کردن آسہاملہ کرہ ہابو تھہ  
 وقس اندرتہ پیش۔ مگر توہہ چھو معلوم میون سوزوی حال لوکیارہ پیٹھ) افلا تعقلون کونہ چھوہ تمہہ  
 عقل کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته نیس تمہہ اکھاہ چھو یڑ ظالم نیس  
 شخصہ سندہ خوتہ نیس اپز نور اوہ معبود بر حقس پیٹھ یازلہ انہ تمہہ آیات انہ لا یفلح المجرمون  
 ہنز پات کامیاب گہو سن نہ نافرمان۔ خدا نیس شریک ٹھراوہ ون ویعبدون من دون اللہ ما  
 لا یضرهم ولا ینفعهم بیہ چھہ سیم پرستش کران معبود بر حقس ورا ی تمہن چیزن ہنز سیم نہ تمہن کانہہ  
 ضرر ہیکن واتاو تھہ۔ نہ کانہہ فایدہ۔ ویقولون لولا ان شفعنا ونا عند اللہ بیہ چھہ ونان تم مُضَرک سیم  
 چیز کران اسہ سفارش خدا نیس لغہ (تمی چھہ اس بہ ہنز پرستش کران) قُلْ انتم تتنون اللہ بما لا یعلکم



وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلهٌ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ  
 أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ  
 إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ  
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُولُونَ  
 لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تَنْهَى فَرَاوِيكَ كَمَا تَنْهَى جَهْوَهُ خَدَائِكَ وَنَانَ تَمَهْ خَبْرَهُ سَمَهْ نَه سُوْزَانِي نَه  
 آسَمَاسْ اَنْدَرِي نَه نَه زَمِيْنِ اَنْدَرِ (يعني يله تس كانه شريك آسمه هائنه چيز اس اندر تله ونه هاسوپانه تته  
 متعلق) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزّه ته پاك هه سوتموساروي چيز ونشيم سيم چيز لو كه تس  
 شريك چهه تهر اوان۔ معلوم سپد شريك جهو عقلاً ته شرعاً باطل آسجه علاوه منزله تهر اونه آمت۔  
 چنانچه الله تعالى جهو فرماوان وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا بيه آس نه لو كه  
 ابتداء اس اندر مگر اكي امتهاه مؤحدن هنز كيازه حضرت آدم عليه السلام تم آس مؤحد۔ تمن پته تهندي  
 اولاد تم ته آس مؤحد اكسي عقيدس پيئه۔ پس كرتمو اندره بعضيه اختلاف۔ تم سپد مشرك  
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ هرگاه كئ فيصله ازلي آسها  
 بروننه سپد مت تهنديس پروردگار ه سده طرفه، سوگو دنيا جهوداز العمل آخرت وهودازالجزاء۔ نته بيه  
 باضرد تمن درميان فيصله كرنه تته متسلسل منزله تته منزيم اختلاف كران چهه۔ يعني تم مشرك مين  
 دنياي اس اندر عذائس گرفتار كرنه وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بيه چهه ونان سيم  
 ملك مشرك محض عباده كن باوجود ظهور معجزات ثيرا هه اس پيغمبرس پيئه كونه سپد نازل برو تهنين هدي  
 پاٹھ فرمايشي معجزاه۔ چويجه معجزه اندره جهو مقصود ثبوت نبوت۔ بيه سپده حاصل پرسته معجزه سبت۔ لهذا  
 چهه ضرورت فرمايشي معجزن هده واقع سپدج۔ مگر ممكن هه تهمو معجزو اندره سپدن واقع كنهه معجزه يا

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَشَتْهُمْ إِذِ الْأُمَمُ نَكَرُوا  
 فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ نَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿۱۱﴾  
 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ  
 جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ  
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا

سپدن نہ۔ یہ چھو غیبی امور و آندره اکھ چیزہ۔ بو علم غیب زاننہ کینہہ تہ۔ فَعَلْنَا آيَاتِنَا لِلَّهِ  
 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ نَس فرما یو کھ تہہ کہ غنچ خبر چھنہ مگر خدایہ سی یاثر نَس  
 پیار و تہہ نوتہ چھوس تومی سیت پیارہ و نیواندرہ۔ اتھ چھونہ مصب رسالتس سیت کامہہ تعلق وَإِذْ أَذَقْنَا  
 النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَشَتْهُمْ یلہ اس مزہ چھکھ تہہ تاوان سم لوکھ کھ نعتک۔ تھی سختی پتہ  
 یوسہ تمکن واثر مژ آسان چھہ إِذِ الْأُمَمُ نَكَرُوا فِي آيَاتِنَا تان چھہ ہیوان تم شرارت گرن سانین آیتن  
 نسبت۔ یعنی تمو آیاتونہ چھہ اعراض کران۔ تمکن پیٹھ چھہ اعتراض کران تمکن نسبت چھہ ٹھٹہ تہ  
 استہزاء کران قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ نَكْرًا تہہ فرما یو کھ اللہ تعالیٰ چھو تہہہ خوتہ تیز کار سازی اندر۔ امہ  
 شرارتک سزا دیہ سوتہہ سیتھہ جلد إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ پز پاتھ سان سوزمت لیکن وال  
 چھہ لیکن سکو کار سازی تہ شرارت یوسہ تہہ کران چھوہ۔ پروردگار معلوم آسکھ علاوہ چھہ تہہزہ  
 شرارتچہ کامہہ سانس دفترس اندر تہ محفوظ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سگو سگوی پروردگار نَس  
 تہہہ سیر کرہ تاوان چھو خشکی پیٹھ تہ دریاؤن منز تہ۔ یعنی سمو آلاتو تہ ساماوسیت برمی و بحر ی تہہ طے  
 کران چھوہ تم ساری آلات و اسباب چھہ اللہ تعالیٰ ای عطا کرمت حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ  
 بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ تالیچہ یلہ تہہ کھ ساتہ دریاؤس منز چھوہ آسان ناؤن تہ جہازن منز سوار۔ ناوہ تہ  
 جہاز چھہ آسان موافق ہواوہ سیت پکان وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ساری سوار چھہ آسان

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ  
 مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
 الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا مِثْلُ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  
 الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

خوش آتی چھوہکے تہ معہ نیران مخالف تیز ہوا وَاَمَّا هُمُ الْمُتَوَجُّعُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ تو پتہ چھہ یوان سمن  
 ناؤن ہندین سوارن دریاک موج پر پتھ طرفہ وَقَطُّوا الْأَكْمَامَ لِحِطَّ إِلَيْهِمْ زانان چھہ تم لو کہہ آس آی  
 ولہ مصیبتہ سبتِ دَعَا اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تمہ ساتہ چھہ ہیوان تم معہ منگ گرن خدا نسیہ  
 زاننہ کہ منگ شوبہ نسیہ یوت۔ بجازی چھہ لکن دینہ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  
 یا اللہ ہر گاہ ژہ آسہ سمہ بلا یہ نسیہ نجات دکھ ضرور یو آس شکر گزارو وحق وینا سو آندرہ یعنی موحدہ واندہ  
 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اودہ یلہ اللہ تعالیٰ سمن امہ بلا یہ نسیہ نجات چھو دو ان ،  
 اتی چھہ تم زمینس منزبہ سر کشی ہیوان کرن ناحق یعنی بیہ چھہ تہے شرک و مصیبتہ چہ کامہ ہیوان  
 کرنہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اے لو کووارہ یوزو کہ نهنزہ سر کشی تہ تا فرمانی ہند ضرور چھہ مگر  
 توہہ پنہ نین پانن پوتھہ۔ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بس دنیا چہ زندگی ہند تمعہا چھو تھان کھیون دوہن۔  
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ چھو اسی کن توہہ واٹن۔ بس خبر کر وہ اس توہہ  
 سمن سارنی چھہ عملن ہنزیم تہہ کران آوہہ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ بس  
 دنیا چہ زندگی ہنزیمثال چھہ مگر تمہ آج مثال بس اس تراوان چھہ آسماہہ طرفہ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  
 الْأَرْضِ میلانہ چھہ یوان تھہ سبت تم چیز سیم زمینہ منزہ کھسان چھہ، غلات وغیرہ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ  
 وَالْأَنْعَامُ تمو چیز واندہ سمن انسان کھیان چھو بہہ سمن چیز چار پکھیان چھہ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

زُحْرَفَهَا وَازْتَيْتَ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ  
 أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ  
 بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۸﴾  
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا  
 ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

زُحْرَفَهَا تا یحییٰ بلکہ زمین پورہ راتان چھو بہن رونق وَاذْتَيْتَ بیہ سڈ زمین سر سبزی سیت مزمین  
 وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا خیال کوریزند ازو کہ پتر پاٹھ آسہ چھو وون بیہ زراعت امیر زینگ  
 پیداوار پنہ بس آٹھس منز انہما أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا اتی چھو واتان تھسوں لحم رات گیت یادولہ  
 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ کس تھن تراوان اس سولو تھ۔ زن نہ اوستوی  
 اوس کینہہ یوہ۔ تھتھ پاٹھ عالم بالاکہ طرفہ روح یوان بدن انسانس سیت رلھہ، قوت حاصل کمر تھ، پور  
 طاقتور تہ ہنر مند انسان بنان، اس انسانہ سہ تعلق دار چھہ امیدوار روزان اس رلھہ فاسیدہ تلکس پیٹھ۔  
 اتی چھو ناگمانی موت یوان تہ سوا انسان چھو ہنک تہ مگھ مران۔ امسندین متعلق ہند ساری خیالات چھہ  
 وڈان۔ زن نہ یہ انسان پیدے سڈمت چھو آسان كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تھتھ پاٹھ  
 چھہ اس پن آیات ویرھہ ناو تھ بیان کران تھن لوکن ہندہ خیطرہ سیم فجر کرن۔ کس سڈ ثابت کہ دنیا  
 چھو دائر الزوال وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ چھو نادودان کوکن دار السلامس کن۔ سلامتی  
 ہندس گرس کن (سوگو جنت) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ چھو وتھ ہوان تھن رٹھان  
 چھو راہ راستس کن لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ تھن لوکن ہندہ خیطرہ چھہ رٹھور، یعنی جنت۔  
 سیم رٹھ عمل کرن بیہ تھہ خوتہ زیادہ (رٹھور گو جنت، تھہ خوتہ زیادہ گو دیدار خدا) وَلَا يَرْهَقُ  
 وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ولہہ بیہ نہ تھندین تھن سیاہی بیہ نہ رسوائی۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا  
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ  
 جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ  
 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۷﴾  
 فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ  
 لَغْفِيلِينَ ﴿۱۸﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو أُمَّلَ نَفْسٍ مَّا سَأَلْتِ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

خَالِدُونَ سے کیا گئے جنگ لڑکھ تھے آس جتن منزمیہ **وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا** یہ سمولو کو چھ کامہ کرہ یعنی کفر سے شرک۔ چھ کامہ ہنرمز درتہ چھ توہمی سے توئی ایڑہ  
 یہ وہ سوہدی آس۔ **وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ** تمہ علاوہ یہ تہندین تھیں ولہ خواری ورسوائی **مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ**  
**مِنْ عَاصِمٍ** آس نہ تم خدا بس نعرہ کانہہ بجاؤن دولاہ **كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا**  
 زن تہند تھہ آس ولہ آمت تاریک راژ ہنز وچھلو سیت **أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا**  
**خَالِدُونَ** سے کیا گئے نار ک لوکھ۔ تمہی چھوروزن تھہ نارس اندر ہمیشہ **وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا**  
 سو دودہ تہ چھو قابل ذکر سمہ دودہ اس ساری مخلوقات سونبر وکھ میدان محشر س منز۔ قیامتگ دودہ اکہ  
 و**ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ** توپتہ توواس مشرکن۔ ای مشر کو تھہر و  
 تھہ یہ تھہند شریک۔ پنہ نی جلیہ روزو **فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ** توپتہ تراو اس تمہ منز تفرقتہ سے دور۔ تم  
 کرن پانہ وان اکہ اس سیت مقابلہ **وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَا نَا تَعْبُدُونَ** ون تھہند باطل معبود  
 تھہ آسہ نہ سان عبادت کران **فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ**  
 ہس چھو بس اللہ تعالیٰ گواہ آسہ کن آسہ منز تہ توہہ منز تھہ کتھہ پیٹھہ کہ اس آس تھہزہ عبادتہ نعرہ بالکل

مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ  
 يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ  
 مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ  
 الْأُمُورَ فَيَقُولُ لَنْ يَرَى اللَّهُ قَوْلَ أَفْلَاكِيَّةٍ ﴿۳۲﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ  
 فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنْتُمْ تَصْرَفُونَ ﴿۳۳﴾ كَذَلِكَ  
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

بے خبر کیا زہ اس آس بے جان ہُنَالِكَ تَبْلُغُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا سَأَلَتْ اِی وقتہ گمرہ امتحان پر بیٹھ اکھاہ  
 تھے ساری یہ تم کورمت آسہ بروٹھ وِرْدُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَا تَادُونَ مَنْ تَمَّ خَدَايَہ سِدْرَس  
 عِزَّائِسْ كُنْ لَيْسْ تَنْهَدُ حَقِيقِي مَعْبُودِ جَهْوِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم ساری باطل معبود سہم تمہو  
 ٹھہراومت آس، مکن ہنز تم پر سنش کران آس گڑھن تمہن نشہ غائب تہ ختم۔ تمہواندرہ بیہ نہ تمہن  
 کانہہ تہ بکار قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہر ژھو تہہ یارسول اللہ مکن مُشْرِكِنَ كَمَ سُوْجُہ جَهْوِ لَيْسْ  
 توہہ رزق عطا کران جھو آسمان وزیچہ طرفہ یعنی آسمانہ طرفہ بارش تراوان زمینہ منزہ غلہ کھاران  
 لیس تہند رزق بناان جھو اَمَّنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ہہ ونو تہہ جھو مالک تہندہ بوزجہ تہ وچھنہ  
 تُوْسَكِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ہہ کبہ جھو زندس کڈان مُرْدَسِ نَشِہ،  
 مُرْدَسِ کڈان زندس نشہ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ ہہ کبہ جھو سارنی کابین ہند تدبیر کران۔ فَيَقُولُونَ  
 اللَّهُ مَكْنِ سَارِنِي تَهْنِ وَنِ تَمَّ جَوَابِ كَمَ سَمِہ سَارِے کامہ کرہ ون جھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفْلَاكِيَّةٍ تَہہ  
 فرماؤو کھ اوہ کونہ جھوہ تہہ تس شریک اندہ نشہ پتھ روزان فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ سَمْسِدِ يَمِ اوصاف و  
 افعال جھہ لیس یسوی جھو معبود برحق تہند حقیقی پروردگار فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ ہرہ آتھ پتہ کیاہ  
 جھو باقی روزان گراہی ورائی فَأَنْتُمْ تَصْرَفُونَ لیس پوز تراوتھ کیا زہ جھوہ تہہ لہزس كُنْ گڑھان  
 كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تہہ پاٹھ سہز ثابت تہندس

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ  
 يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ  
 مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِي  
 إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ  
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي  
 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ هَذَا

پروردگارہ سزا زلی تھہ تمَن نافرمانن پیٹھہ کہہ تم آن نہ زانہہ تہ ایمان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو  
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یہ تہ پرڑھو کہ نہہ یار سول اللہ کہ ای مُشْرُکُو کیاہ تہند یو سمو اپز یو معبود و اندرہ  
 چھا کا نہہ نیس گوڈہ مخلوقات پیدہ ہیکہ کتر تھہ تو پتہ دوبارہ یہ پیدہ ہیکہ کتر تھہ۔ اتھ پھور نہ تمَن جو ابی  
 کہہ نہ۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ نہہ فرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو گوڈہ پیدہ کران، سؤی کرہ یہ  
 سارنی مخلوقاتن پیدہ۔ یہ چھہ تہزی کام فَاَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ اودہ کو گن چھوہ پتر معبود ترا و تھہ اپزین  
 معبودن گن گوسھان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اترہ پرڑھو کہ نہہ زہ ای مُشْرُکُو کیاہ تہند یو  
 اپز یو معبود و اندرہ چھا کا نہہ نیس پتر سُن و تھہ ہا و تھہ ہیکہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ تھی فرما یو کہ کہ اللہ  
 تعالیٰ ای چھو پتر سُن و تھہ ہا و ان افَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ  
 کیاہ نیس معبود و تھہ ہا و پتر سُن سو چھا زیادہ سزاوار پیروی کر نیس کہ نہ نیس نہ پانہ بے سندہ و تھہ ہا و نہ  
 و رای و تھہ لبان چھو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ نیس کیاہ گوڈہ تو بہہ یہ کتھ لغو فیصلہ چھوہ کران تو حید ترا و تھہ  
 چھوہ مُشْرُک اختیار کران نیس نہ ابعاس قابل ہیکہ آتھہ سو ہیکہ عبادتس قابل آتھہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ  
 الظَّنَّ یہ چھہ اکثر سمو لو کو اندرہ پیروی کران مگر فاسد خیالاتن ہنز إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
 شَيْئًا پڑا پھ فاسد خیال چھو نہ کا نہہ فائیدہ و وان پتر س بر و نھہ کہہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ پڑا پھ  
 اللہ تعالیٰ چھو پور زمانن یہ تم کران چھہ۔ و قس پیٹھہ زہہ سو تمَن پائے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ

الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي  
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾  
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ  
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾ بَلْ كَذَّبُوا  
 بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَا تَهُم تَأْوِيلَهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ  
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾

مَنْ دُونَ اللَّهِ فِيهِ قرآن مجید جھونہ تھوہ کتابا یوسہ ٹھہراونہ آیہ پنہہ طرفہ خدائیس ورا ی ولکن  
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بلکہ جھونہ نازل کرنہ آمت تصدیق کرہ ون تہن کتابن سمہ امہ بروٹھ جھہ  
 نازل کرنہ آمزہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ بیہ جھونہ تمنی کتابن ہند تفصیل تہ توضیح بیان کران لَأَرَيْبَ فِيهِ  
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کانہہ شک جھونہ امہ کس کتاب آسانی آسہ اندر یوہے جھو نازل آمت کرنہ  
 عالمن ہندس پروردگار ہندہ طرفہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بلکہ باوجود آل جھہ سم لوکھ ونان یہ قرآن  
 مجید جھونہ نی طرفہ ٹھہرومت حضرت محمدن (نعوذ باللہ) قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تہہ فرما یو کہ  
 کہ تلوہ آتو تہہ اتھہ یو کہ سورہہ تہہ تے عربی زبانہ ہند ماہر فصیح وبلغ جھوہ وادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ دیو ناد سکن تہہ تیکو تہ تمن پنہہ مددہ خیرہ معبود برحق ورا ی  
 ہر گاتہہ پوزونہ ون جھوہ یعنی ہر گاہ یہ قرآن مجید میون تصنیف جھو تہہ تہ ایتو اتھہ ہوا کوی سورہہ  
 تصنیف کر تھہ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ جھہ تم انکار کران اہرزانان تھہ چیزس تہہ  
 تمن پورہ و ایتھی جھہ وَكَمَا يَا تَهُم تَأْوِيلَهُ ونہ کتہ تے یہ تمن اہ حقیقت كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ بیہدی پاٹھہ کور تکذیب تمو لو کو تہہ تم تمن بروٹھ آس پنہہ نین پیٹھرن فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ کس وچھہ کیاہ اوس انجام تمن ظالمن ہند تھوی انجام آسہ تمن ظالمن ہند تہہ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهِ بیہ جھہ سموا ندرہ بعضی تم آئندہ پڑھہ کرن اتھہ قرآن مجیدس،



وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ لَكُمْ  
 أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا  
 لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَ  
 لَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿۴۴﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ  
 النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۵﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

بہ چھ بعضی تم نہ پڑھ کرنا آتھ و رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ تمہند پروردگار چھو پوزرانا مفسدن  
 وقت مقرر ریلہ ولتہ تمہ ساتہ کرہ اللہ تعالیٰ ضرورتہن عذابس گرفتار وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمِلْتُ لَكُمْ  
 عَمَلَكُمْ وكن ہر گاہ تمہن دلچن ہندہ باوجود یم لوک توہمہ انکار کرن، تمہند فرماؤ یو کہ مہہ چھ مزرور پندہ  
 کامہ ہنز توہمہ چھوہ مزرور پندہ کامہ ہنز۔ اَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تمہند  
 چھوہ بری میانہ کامہ نشہ، یو چھوہ س بری تمہندہ کامہ نشہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ تمہند مہ تھاوہ  
 توقع تمہ کیا ان ایمان اگر چہ تمہو منزہ چھہ بعضی یم کن تھاوان چھہ سمہ ساتہ تمہند قرآن مجید پران چھوہ۔  
 مگر تمہند بوڑن نہ بوڑن چھوہ برابرہ۔ کیا زہ تمہن چھوہ نہ ایمانک ارادہ لہذا چھہ تمہند حالت زرین ہنز ہمیشہ  
 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ کیا توہمہ ہیو کھنہ زربوزہ نا و تھہ بہہ یلہ نہ تمہن عقل تہ آسہ کینہہ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بہہ چھہ تمہو اندرہ بعضی تمہ توہمہ مجزات و کمالا توسان و چھان چھہ۔ مگر طلب  
 حق نہ آسہ موکھ چھوہ تمہند و چھن بے کار أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ کیا تمہند چھوہ  
 یڑھان انین و تھہ ہون یلہ نہ تمہند در نیٹھی یوان آسہ کینہہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ  
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پندہ پانھ اللہ تعالیٰ چھوہ نہ کانہہ ظلم کران قابلیت عطا نہ کمر تھہ مواخذہ نہ گرفت

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّا نَرِيكَ بِعَظْمِ الَّذِي  
نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا  
يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن

کران۔ لیکن لو کہ چھ ظلم کران پان پاس عطا کرنے آئیں قابلیت ضائع کرنے سیت **وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَنَّهُمْ**  
**يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ** تمن پاپو سو دودہ ژ تیں سمہ دویہ اللہ تعالیٰ تمن ساری تہ پھ پانھ سو نبر اوہ  
کہ تم کرن خیال زن تم زودیت آسن دنیاس منزیا قبرن منز ساروی دویہ منزہ آس گرہ۔ **يَتَعَارَفُونَ**  
**بَيْنَهُمْ** لو کہ آسن کہ آس پر زہ تاوان لیکن کہ آس ہمکن نہ کانہ مد مکتر تھ۔ ساری آسن پتہ پتہ  
پریشانی گرفتار **قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ** تحقیق تاوان تہ نقصان آسہ تمہ  
دویہ تمن لو کن سمو اپز زون خدا آس سیت ملاقات کرن بیہ آس نہ تم دنیاس منز ہدایت کیہ ون۔  
**وَإِنَّا نَرِيكَ بِعَظْمِ الَّذِي نَعِدُهُمْ** بیہ ہر گاہ توہی ضرور ہادوہ آس تمو عذاب آندرہ بعضی عذاب تمن ہند  
وعدہ آس تمن کران چھ **أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكَ** یا ہر گاہ اس سو عذاب نازل کرنے بروٹھی جہہ سمہ عالمہ  
نمووہ، تو تہ کیاہ گو **فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ** آخر کار چھو تمن واٹن اسی لغتہ **ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ** تو پتہ  
چھو اللہ تعالیٰ ای شاہد تہ ساری پیٹھ بیہ تم کران چھ۔ سو دویہ تمن پائے سزا۔ دنیاس منز تمن سزا  
ایتن دنہ یا متہ ایتن دنہ مگر آخر آس منزیا چھ ضرور پتہ نس موقس پیٹھ سزا دنہ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ** بیہ  
چھو پر پتہ امتہ خیطرہ احکام و اتاوند خیطرہ کہ پیغمبرہ **فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ** ادہیلہ تمہ پیغمبر تمن نشہ آد  
تہ پیغام و اتاوند تمن **قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ** فیصلہ چھو تمن منز کرنے ایوان عدل و انصاف موجب **وَهُمْ**  
**لَا يُظْلَمُونَ** بیہ پیہ نہ تمن لو کن نہ قسمہ ظلم کرنے۔ کیا زہ اتمام جتہ پتہ سزا دیون ظلم گو نہ **وَيَقُولُونَ**  
**مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ** بیہ چھہ زبان لو کہ عذاب و عید بو زت تہ انکار کرنے خیطرہ کہ ای

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً  
 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا  
 مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِذَا مَا وَقَعَ مِنْكُمْ بِهِ  
 آثَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا  
 ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

پیغمبر کر سیدہ واقع یہ وعدہ عذاب۔ ہر گاہ تمہے پوزوان چھوہ تلمہ کونہ چھوہ عذاب واقع سپدان قُلْ لَا أَمْلِكُ  
 لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تمہے فرماؤ کہ جواب یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوحسوس نہ خود  
 پنے پانہ خیرہ تہ اختیار تھاوان، نہ کئے نفعک نہ کئے ضرر ک مگر تنوی اختیار یوت اللہ تعالیٰ اس منظور  
 آسہ۔ کس کتھہ پاٹھ ہیچہ یوتہہ عذاب اتھہ یاد عدہ عذاب تھاوتھ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ پریتھہ اتمتھ عذابہ  
 خیرہ تہ تباہی خیرہ چھو اللہ تعالیٰ اس نشہ اکھ وقاہ مقرر دنیاس اندریا آخرتس اندر إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یلہ سومقرر کرنہ اتمت وقت تمہد ولتہ کس ممکن نہ تم نہ تھہ  
 گوتھہ کس سائس نہ بروتھہ تھہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ  
 تمہے فرماؤ کہ تلامہ وینو ہر گاہ توہہ خدلیہ سند عذاب ولتہ رات کیت یاد ولتہ تمہ منزہ تمہ چیز چھو سوتھہ  
 جلد چھہ ژھانڈان نافرمان از چھوہ انکار کران تھہ۔ حالانچہ یہ اوس اقرار ک تہ تصدیق وقت اَلَمْ تَرَ إِذَا  
 مَا وَقَعَ مِنْكُمْ بِهِ کیاہ یلہ سو عذاب واقع سپدہ ادہ انوہ تمہ تمہ ساتہ ایمان۔ تھہ ایمان انہ کس فائیدہ چھو  
 نہ کینہہ آثَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (ونہ ایہ توہہ تمہ ساتہ) ای مضکر وودان کمر ونا پڑھ تمہ مگر بے  
 سو۔ حالانکہ یہ گوسوی عذاب کس تمہ جلد ژھانڈان آسوہ ٹھٹھہ پاٹھہ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا توپتہ  
 ایہ ونہ تمین لوکن سمو ظلم کور یعنی مشر کن ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ژبوہ مزہ بیٹگی ہندہ عذابک ہل  
 تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ توہہ چھنہ سزاونہ یوان، مگر تمنی کایین ہندہ تمہ تمہ کران آسوہ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٦﴾  
 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ  
 لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِلَّا  
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِرَانَّ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ بِهٖ جِهہ سم توہمہ بشرہ دریافت کران تہ پر ژھان کسہ پانہ تہ ٹھہ پانہ کیاہ عذاب  
 چھا پوزوی قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ جہہ فرماؤو کہ اوہمہ جھو پنہ نس پروردگارہ سندا قسم یہ لے پوزہ جھو وَمَا  
 أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ جہہ بیکیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کمر ت کمنہ صور کس اندر۔ سو جھو قادر مطلق۔ کس ہیجہ نہ  
 کانہہ اکھاہ عاجز کمر تھ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ سو عذاب آسہ ثبوت سخت کہ  
 ہر گاہ آسہ پر جھہ ٹھہگار شخص توت مال سمہ سیت سو زوی روی زمین ہر سپدہ ہے، سو توت مال تہ  
 دیہ ہے پن پان پچاوندہ خیطرہ تمہہ ڈہجہ عذابہ بشرہ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ بیہ تھاؤن تم ٹھہگار  
 ندامت تہ نجات پو شیدہ، یلہ وچھن سو عذاب ٹیٹھ تھاؤنہ خیطرہ عذابہ بشرہ۔ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ لیہ فیصلہ جہد عدل والصافہ موجب کرنہ۔ تمن لیہ نہ ظلم کرنہ۔ یہ دو مت آسکھ  
 تی لوئن الْإِرَانَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وارہ پوزوی لوکو، یہ آسمان تہ زمین منز جھو تہ سو زوی جھو  
 ملک معبود ہر حقہ سندا جھہ منز آی سم مجرم الْإِرَانَّ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وارہ پوزہ خدایہ سندا وعدہ جھو حق تہ  
 پوز۔ کس قیامت ایہ ضرور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوک جھہ زمانہ یقین کران ہو  
 یحییٰ ویمیتُ وإلیہ تُرْجَعُونَ سو جھو زندہ کران سو جھو ماران کس کیاہ مشکل جھو کس بشرہ دوبارہ  
 پیدا کرن۔ بیہ ایو جہہ ساری کس کن واتاوندہ تو پتہ بیہ سوسارنی حساب يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ای لوکو تھمیں آو توہمہ کن جھہ س پروردگارہ سندا طرفہ سو چیز کس

وَهُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۸﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ  
فَبَدَّلَ لِكُلِّ قَوْمٍ خَيْرًا مِّمَّا يَجْعَلُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ  
لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۶۰﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ  
أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

پتھر کا میونشہ پتھر رتہ خیطر ہو ڈو وعظہ نہ نصیحت چھو، بس شخص تمہہ وعظہ سیت چھہ کامیونشہ پتھر روز  
تہمدہ خیطر ہو چھو بود شفا۔ تم ساری مرض ہمدہ خیطر ہسم دن منز چھہ گنہوسیت پیدہ سپدان وھدی  
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ چھو سو یو ڈ ہدایت رتہ کامہ کرنہ خیطر ہ۔ یہ ہڈ رحمت با ایمان ہمدہ خیطر ہ  
(سوگو قرآن مجید) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبَدَّلَ لِكُلِّ قَوْمٍ خَيْرًا فرما یو کہ چھہ قرآن مجید بلہ پتھر  
بابرکت چیز چھو ہذا شو بہ لوکن خدایہ سہہ فضل ورحمتہ سیت خوش سپدان۔ یہ قرآن مجید گنہہ زان  
ہڈ دولت هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعَلُونَ یہ قرآن مجید چھو ہڈر جہا بہتر تمہہ خوتہ یہ سم سو نیران چھہ مال دنیا  
اندہہ۔ کیا زہ دنیا عک نفع چھو کم نہ فانی۔ قرآن مجید ک نفع نہ فائدہ چھو سیشاہہ نہ پوشہ ون قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فرما یو کہ چھہ تلاوتہو، خداین بس رزق نازل  
کو تہمدہ نفعہ خیطر ہ چھہ کمر وہ پائے بے دلیل تمہہ منزہ اڈ چیز حرام نہ اڈ چیز حلال قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ  
أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ تمہہ پر ژھتو کہ کیا خداین دیتہ توہہ امیک اجازت۔ کنہہ بل چھوہ خدایس پیٹہ اپز  
نووراوان وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ کیاہ خیال چھو تم لوکن سم خدایس  
پیٹہ اپز نووراوان چھہ قیامتک دوہ (تم چھازانان کہ تمن یہہ نہ تمیک پر ژھنے کینہہ تمہہ دوہہ) إِنَّ اللَّهَ  
لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ہڈر پانہ اللہ تعالیٰ چھو لوکن پیٹہ فضل کران۔ گنہہ نہ  
نافرمانی کرتھے چھو کہ نہ گرفتار عذاب کران۔ بلکہ چھو کہ مہلت دوان دیوہ تو بہ کرن، معافی مگن۔ مگر

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾  
 الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

اکثر لو کہ چھینہ شکر گزارا کران۔ امہ مہلتک نفع سے فائیدہ تکان و ما تکتون فی شان و ما تکتون آمنہ من قرآن یہ آستونہ حالو اندرہ کئے حاس اندر، تمو حالو اندرہ گو تہند قرآن مجید ہر دن و لا تاملون من عمل یہ تہ ساری لو کہ چھوہ نہ کانہ کا ماہ کران اَلَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر اس چھوہ آسان تو ہر نشہ حاضر۔ امہ چھ خبر سپدان تہندن سارنی حالاتن ہنز اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ یہ ساساتہ پیٹھ تہ سہو کام کرن ہیوان چھوہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ کھٹیت چھوہ روزان تہندس پروردگار س نشہ اِس ذرس برابر کانہ چیزا نہ آسانان اندر نہ زمین اندر وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ یہ چھونہ لہم ذرہ خوتہ لو عمت نہ تمہ خوتہ بوڈ اَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر کس نہ درج چھوہ روشن تہ واضح کتابہ اندر (سُو گولوح محفوظ) امہ قسمہ چھو خدایہ سندا احاطہ علمی موجود اتن ہندہ حقہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وارہ بو زو خدایہ سند دوست تم چھہ، تمن نہ چھو کانہ خوف نہ سپدان تم غمہ قسمہ غمکین الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تم گئے تہ تمہو ایمان اُون خد اِس یہ رو دس کھوژان لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ تہندی خیطرہ چھہ دنیاجہ زندگی منزہ آخرتس منز بد بشارت تہ خوشبری کامیابی ہنز لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تغیر و تبدیل چھونہ

جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٥﴾ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ  
 وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ  
 دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا  
 يَخْرُصُوْنَ ﴿١٦﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا  
 فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
 يَّسْمَعُوْنَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

خدايہ سزنا کہ جس یعنی وعدان۔ تمہند وعدہ چھو محنت تہ پوز وعدہ ذلک ہوا الفوز العظیم سے کنیہ  
 بڈر سنگاری تہ کامیابی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ بیہ مہ کمران توہمہ غمگین تہ آزرده دشمن ہنزہ بیہودہ کہتہ  
 اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا پز پاپ عزت، بیہ قدرت تہ غلبہ چھو سو زوی خدائیس۔ سو کرہ توہمہ پنے  
 وعدہ موجب پور حفاظت تہ راجہ۔ دشمن ممکن نہ توہمہ بیٹھ غلبہ لبتہ ہوا السميع العليم سو چھو  
 سو زوی بوزون ساری خبر تھادہ اِنَّ اِلٰهَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وارہ بوزو تم مخلوق  
 آسمان تہ زمین منز چھہ۔ ملا یک جن تہ انسان تم ساری چھہ خدایہ سدی ملک تمن اتھہ کینہہ چھو نہ  
 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ کج سنا پیروی کران چھہ تم لو کہ یم لو کہ اللہ  
 تعالیٰ اس وراثی بین معبودن ہنز عبادت چھہ کران۔ خدائیس چھہ خبر کج پیروی چھہ تم کران۔ تمن نشہ کیاہ  
 سنا دلیل چھہ لمہ اعتقاد چ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ تم چھہ پیروی کران مگر  
 بے سند خیال تہ اوہا من ہنز بیہ چھہ تم مگر اندازہ تہ قیاسہ لگاوان۔ حقیقتہا چھہ کج کہنہ ہوا الَّذِي  
 جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا سو پروردگار گو سوی تم رات کمر پیدہ چھہ  
 تہہ تھہ منز آرام کمر وہیہ تم دوہ کمر پیدہ تھہ تھہ منز وچھت کمر تھہ پن ضروریات پورہ کمر۔ اِنَّ فِيْ  
 ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ پز پاتھ شب روز پیدہ کرس اندر چھہ قدر تک بڈر نشانہ تو حید چہ چہ  
 چہ دلیلہ تمن لو کن ہندہ خیرہ تم دلایل قدرت وارہ بوزان آسن۔ مخرک چھہ تمن دلیمان اندر غور

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ  
 سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اٰتَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا  
 يُفْلِحُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ  
 نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۴۰﴾  
 وَاٰتٰى عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقُوْمِرٰنْ كَاْنَ كَبُرَ عَلَيْنٰكُمْ  
 مَّقَامِىْ وَتَذٰكِرِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْبِعُوْا

کران تم چھہ شر کہ پئے تھہ کران قالوا اتخذ الله وكذا سبحناه چنانچہ مشرک چھہ ونان اللہ تعالیٰ  
 اس چھہ اولاد۔ حالانکہ مغزہ تہ پاک چھہ سو اولاد و نثره هو الغنى سو چھو بے نیاز کانسہ کن چھو نہ محتاج  
 ساری چھہ تس کن محتاج له ما في السموات وما في الارض یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تہ سو زوی  
 چھو تو ہندوی اِن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا چھہ تہہ نثرہ کانسہ دلایلاہ اتھہ پیٹھہ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰى  
 اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کیاہ تہہ چھوہ خدا ئیس نسبت تی ونان تی نہ تہہ کانسہ خبر اہ چھہ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ تہہ فرما دیو کہ تہہ تھیق سم لو کہ خدا ئیس پیٹھہ اپز نور و ان  
 چھہ تم سپدن نہ زابنہ کامیاب متاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ دنیا س اندر چھو تہہ کن کہہ نہ  
 کالہہ تمخ تہہ فایدہ تہہ کن تو پتہ چھو مثر تھہ اسی کن تہہ و ائن ثُمَّ نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ تو پتہ  
 ژہنا و کہ اس تم سخت عذاب مزہ بہا کا نوا ی کفر و ن تہہ ہندہ ٹھر کرنہ سببہ وَاٰتٰى عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ  
 بیہ پتر و تہہ یارسول اللہ تہہ پیٹھہ قصہ حضرت نوح اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقُوْمِرٰنْ یلہہ تم و پ پتہ تس قومس  
 ای میانہ قومہ لَنْ كَاْنَ كَبُرَ عَلَيْنٰكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذٰكِرِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ہر گاہ گو بیوہ تہہ ناگوار سپدوہ تو بہہ پیٹھہ  
 میون تو بہہ منز روزن بیہ میون و عظ ہرن خدا بیہ سند یو آیا تو سیتہ ، سپدن ناگوار تو بہہ۔ یو چھو س نہ



أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا  
 لَأَنْتَظِرُونَ<sup>(۴۱)</sup> فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ  
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>(۴۲)</sup> فَكَذَّبُواهُ  
 فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَقْنَا  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدْرِبِينَ<sup>(۴۳)</sup>

تمیک پروا کران کیازه فعلی اللہ توکلتُ مہ چھو خدایہ سی پیٹھ اعتمادتہ ڈو کہ کورمت فاجب معوا امرکم  
 وشرکاءکم میہ ضرر و اتناوندہ خیطرہ کمر و تہمہ پونختہ ہن کوم۔ معبودان باطل (یم تہمہ خدایہ سید شریک  
 چھوک زانان) تم رہیو کہ پاس سیت ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ تو پتہ مد آسن سنو کام یوسہ توہمہ مہ  
 نسبت کرن چھہ توہمہ اندرہ کانسہ پیٹھ پو شیدہ۔ یعنی تن پاتھ کمر یوسہ توہمہ کزن چھو ثم اقضوا الی و  
 لا انتظرون تو پتہ یہ توہمہ مہ نسبت کزن چھوتہ کمر و تار کزنہ و رای یو چھوسنہ توہمہ کتہ قسمہ کھو شان۔ نہ  
 تراوہ یو تہمہ بہرہ وعظ ہرن تہ تبلیغ کزن فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ہر گاہ تہمہ توہمہ روزو یو ٹھوی پھر ان تمیک وجہ  
 کیا چھو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ مہ منج نہ توہمہ اتھ وعظ و نصیحت کرس پیٹھ کانسہ مژوریاہ تہ عوضاہ۔ یو  
 کیازه منگہ ہا توہمہ مژور رَإِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میان مژور چھنہ کانسہ مہ خدائس و رای۔ غرض نہ  
 چھوس یو تہمہ کھو شان نہ چھسوہ کینہہ منگان وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مہ آو حکم کرنہ کہ  
 بوروزہ فرمانبردار و اندرہ۔ لہذا چھوس یو تعیل حکم کمرت توہمہ وعظ و نصیحت کران۔ ہر گاہ تہمہ مانو نہ۔  
 میہ کیاہ نقصان چھو چھہ اندر فَكَذَّبُوا چھہ تبلیغ وعظ تہ یشہ فمائش کرنہ پتہ تہ کور تموس انکار ی۔  
 اتھ انکار کرس پیٹھ سوزاسہ تن پیٹھ عذاب طوفان۔ سمہ سیت تم ساری ہلاک سپد فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ  
 مَعَهُ فِي الْفُلْكِ کس دیت نجات اسہ حضرت نوحس، بیہ سم تمین سیت آس ناوہ منر، ثرتہ مردتہ  
 ثرتہ زنہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً بیہ کراسہ تم زمینس پیٹھ آباد وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا باقی پھاٹو  
 اسہ تم لو کہ تموا انکار کورسائین آیاتن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدْرِبِينَ کس و چھوہ تہہ یار سول اللہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى  
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى  
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿۴۶﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿۴۷﴾  
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَوْ لَا يُفْعَلُ

کیتھ سپر پیچھ انجام تمن لوکن ہند تمن نیم کرنہ یوان اوس یعنی پیڑی منزد توکھ نہ سز الجحہ وارہ فخرہ  
تار تھ کچھ واتھ مگریلہ نہ تمومون ادہ آکھ سز ادنہ یوہے حال بنہ تمن تہ تم توہہ انکار کران چھہ  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ توپتہ سوز اسہ حضرت نوحس پتہ بے پیغمبر پنہ نین پنہ نین  
قَوْمُنْ كُنْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کس آی تم پیغمبر تمن لئش نہ دلیلہ ہتھ فَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا بِمَا كَذَّبُوا  
بِهِ مِنْ قَبْلُ کس آس نہ تم تمہ قسمک لوکھ، تم کیا کرہ ہن پڑھ تھتھ تھتھ تمواتمہ برو تھ انکار کورمت  
اوس كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ تھتھ پاتھ کیا چھہ اس مہر کران حدہ ڈلہ و نین ہندین و کن  
پیٹھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا توپتہ سوز تمن پیغمبر ن پتہ اسہ  
حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون فرعونس تہ تہندین ہتھنن کن ہن مجزات عصاتہ یو بیضا ہتھتھ  
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ کس کور تمواتھ تصدیق کرنہ نشہ مجتہر۔ بیہ آس تم لوکھ جرائمن ہند  
خوگر۔ تمہ موکھ کرنہ تمواتھ اطاعت فلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا کس یلہ واثرہ تمن نشہ نبوت موسیٰ  
پیٹھ سانہ طرفہ صحیح دلیلہ یعنی مجزات قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ دہنہ لگ تم بیشک یہ چھونون  
بحر تہ جود قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ حضرت موسیٰ ان دوپچھ اکی کافر و کیاہ چھہ و چھوہ  
یرشہ کتھ دنان اتھ صحیح دلیلہ یلہ سوز توہہ نشہ واثر السِّحْرُ هَذَا أَوْ لَا يُفْعَلُ السِّحْرُونَ کیاہ یہ چھا جود تہ بحر۔  
حالاحہ جاوگر چھنہ کامیاب سپدان نبوتک دعویٰ کرنس اندر قَالُوا أَجَعَلْنَا لَكُمُ الْفِتْنَةَ

السَّحَرُونَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ أَعْمَاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  
وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خُنُّ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾  
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرٍ عَلَيْهِمُ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ  
قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ  
مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۸﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۹﴾  
فَمَا أَمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ای موسیٰ کیامہ ذہ آتھہ آسہ تمہہ کامہ نشہ پھر نہ خیطرہ عتہا وجدنا علیہ آبائنا یسہ کام کران دہجہہ آسہ  
پانہ ہن مال تہ بدب۔ وتكون لکم الکبریاء فی الارض یہہ ہجھوہ نمہ یشھان کہہ توہمہ گھوہہ آسہ بیٹھ  
سرداری تہ زھل حاصل سدن ذنیاس آندر وماخن لکم بمؤمنین آس ہرگز توہمہ پڑھہ گرونہ  
وقال فرعون ائتونی بکل سحر علیہم یہہ دون فرعون پنہ نین ہمشین نمہ دیو کہ اتھہ مہ ساری زان  
وال جادوگر فلما جاء السحرة اذہلہ آی تم جادوگر قال لھم موسی القواما انتم ملکون تمن  
دوپ حضرت موسیٰ ان تراوہ ہشہر مید اس منزیہ توہمہ تراون ہجھو جاوہ آندرہ فلما القوا قال موسی ما  
جئتم بہ السحر کس یلہ ترود تموہہ تراون اوسکھ، حضرت موسیٰ ان دوکھہ اکی ساجر دہجہہ یہہ ہتھ  
آمت ہجھوہ، یہہ گوہود، تہ ہجھونہ جوہتھہ فرعونہ سید لو کہ جوہدونان ہجھہ۔ تم گئے مہجرات لان اللہ  
سیبطلہ اللہ تعالیٰ گرہ اتھہ تھنہدس جادوس ضرور باطل تہ بے کار لان اللہ لا یصلح عمل المفسدین  
پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ ہجھونہ شیران تہ سنبھالان مضد ان ہنزہہ کامہ۔ ہم مہجراں سیت مقابلہ گران ویحی اللہ  
الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون یہہ ہجھو اللہ تعالیٰ پرس مضبوط تہ محکم کران حسب وعدہ ہنہہ حکمہ سیت۔  
اگرچہ ناگواری گورھن کافران تہ نافرمان فما امن لموسی الا ذریۃ من قومه علی خوف من فرعون

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَقْتَنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ  
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمِرَانِ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ  
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا  
رَبَّنَا اجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا  
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيوتًا وَأَجْعَلُوا لِوَيْوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَقْتَنَهُمْ کہیں پڑھ کر نہ حضرت موسیٰ اس گودھ گودھ مگر پینہ قومہ کیونکہ وہ شخصو سم تہم ہند  
رشتہ دار آس۔ سوئے فرعونس تہ تہمدین ہشتین نشہ کھوڑ کھوڑ۔ بیٹھہ سوتین سختی کمر تہہ پاس سن  
بھر۔ واقعی تہمد کھوڑن بے معنی اوس نہ کیا زہ فلان فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فرعون اوس نا  
زبردست بادشاہ زمین مصرس منز وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیہ اوسنا سو سیٹھاہ زیادتی تہ ظلم کرہ  
ون۔ حضرت موسیٰ ان بیلہ وچھہ سم چھہ فرعونس نشہ سخت تہا سمست وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَانِ كُنْتُمْ  
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ہر گاہ توبہ پڑھہ کر وہ کس خدا کس بس کمر و تہہ بیٹھ  
اعتماد، چھوے جہہ فرمانبردار فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا کہیں وون تہموا سہ کمر تس معبود برحقس بیٹھ  
واقعی توکل تہ اعتماد (توپتہ کرو کہ دعا) رَبَّنَا اجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ای سائہ پروردگارہ آسہ  
مہ بناؤ تختہ مشق سخن ظالم لوکن ہنز وَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بیہ وہ نجات آسہ محض پینہ  
رحمتہ سیت سخن کافران نشہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيوتًا بیہ سوز  
آسہ وحی حضرت موسیٰ بیہ تہمدس برادر حضرت ہارونس کن کہ تہہ تہا وود بسور پینہ قومہ خیلرہ ہائیشی  
انتظام مصرس اندر نو تہنہ فرعونین ہند یوگر و منزہ نیر تہہ ٹلو۔ آس گرو تہمز حفاظت وَأَجْعَلُوا لِوَيْوتِكُمْ  
قِبْلَةً بیہ آسومہان ہند ووقتہ تے ہن گرہ ہنلوان مسجد۔ نماز آسوگرہ نی منز پران وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
یہ چھو سیٹھا ضروری کہ نماز تہا وود برپا۔ بیٹھہ نمازہ ہندہ برکتہ اللہ تعالیٰ جلد مصیبت دور گرہ وہ

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ  
 آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ  
 عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵۸﴾  
 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ  
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْجُرْفَاتِ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ای موسی بشارت دیو با ایمان نجات دہ کا مابانی ہنز وَقَالَ مُوسَى یہ کمر مناجات  
 حضرت موسیٰ اَن رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای سانہ  
 پروردگارہ بیشک ژی دیو تھے فرعونس یہ تھندین لہکارن دنیاہس اندر بوڈوشان وشوکت یہ واریاہ مال و  
 دولت رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ای سانہ ہرودگارہ یہ کرتھہہ ہتھہہ تم ڈان لوکن چاہنہ وتہہ ہتھہہ ہس ہلہ  
 نہ ہدایت تھندہ نصیبہ ہتھو، یوسہ ہمت اتھ منز آس سوسہہ حاصل۔ وڈن کیا زہ منہہ تم تھند مال باقی  
 تھاونہ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ای سانہ ہرودگارہ ہتھش ہتھندین مانہ تہ جائیدادن وَاَشْدُدْ عَلَى  
 قُلُوبِهِمْ سخت کمر کہ دل تھندہ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ہتھنہ تم ایمان آنن توتان  
 یوتان نہ کڈر۔ عذاب پنہ نیو ہتھو ہتھن۔ حضرت موسیٰ آس یہ دُعا کران تہ حضرت ہارون آس  
 آمین آمین کران قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَقِيمَا اللہ تعالیٰ اَن فرموو کہ ای موسیٰ، ای ہارون  
 ہتھن قبول آڈر نہ دُعا تھندہ (آمین کران تہ گودعاءس منز شامل ہڈن) ہس روزو تھہہ پنہ ہس فرض  
 مصیبتس پیٹھہ استقامت کمر تھہ وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہتھنہ پیروی کمر و تھہہہن لوکن  
 ہنز ہم بے علم ہتھہ۔ تمکن نہ معلوم ہتھو سانہ وعدہ کہ یوز آسک۔ ہلہ فرعونہ سندہ ہلاکت وقت قریب۔  
 ووت آسہ کوز حکم حضرت موسیٰ آس کہ بنی اسرائیل کڈ یو کہ مصرہ منزہ ہتھہہ۔ چنانچہ درای تم بنی  
 اسرائیل ہتھہہ مصرہ منزہ وتہ آکھ ہرونٹھہ درای قلزم۔ حضرت موسیٰ سندہ دعاءہ سیت بنی اتھہ

فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَ  
 اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۶﴾ اَلنَّٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ  
 الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۷﴾ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً وَّاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغٰفِلُوْنَ ﴿۹۸﴾ وَاَلْقَدْ  
 بَوَّآ اَبْنِيۡ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوَّآ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيْبٰتِ

دریاؤسی باہ کوچہ وچوڑنا بنی اسرائیل البغر بہیہ یلیہ اہور تار اسہ بنی اسرائیل دریای قلزمس  
 فَاَتَّبَعْنٰهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا پس دور یو تمن پتہ فرعون پن لشکر ہتھ ظلمہ کن بہیہ حدہ نشہ  
 تجاوز کرنہ کن۔ خیال اوس کہ دریاء نشہ اہور ستر تھہ کرکھ یوساری بنی اسرائیل قتل۔ لیکن تم گئے اہور  
 ترے بروٹھی ہتھہ دریاؤس اندر غرق حَتَّىٰ اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ تا لیجہ یلیہ فرعون پھنن ہیونن قَالَ  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تمہہ ساتہ لگ ہنہ ایمان  
 اولن مہ۔ کانہہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس ورا ی بس ایمان اون بنی اسرائیلو۔ بہیہ جھوس یوتہ  
 فرمانبر دار و اندرہ اَلنَّٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ملائکن  
 ہمدہ ذریعہ اکی فرعون و عکس جھو کہ فرمانبر داری ہند اقرار کران۔ سمہ ساتہ نہ اقرار کرئس کنہی فائیدہ  
 جھوی۔ کیا زہ عالم آخر تک معاینہ کرنہ پتہ جھونہ اقرار کرئس کانہہ اعتبار۔ تھین ائمہ بروٹھ کاژاہ  
 نا فرمانی نہ سرکش کمر تھہ۔ بہیہ اوسکھ تباہی کرہ وینو اندرہ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً پس جھنن از اس چون بدن بچاوان نیست و نا بود گوہنہ نشہ۔ ہتھہ ژبیہ پتہ ہنہ و الین ہندہ خطیرہ  
 عبرتک اکھ نشانہ روزن۔ چان بد حالی نہ تباہی و جھتھہ روزن احکام الہین ہمدہ مخالفتہ نشہ ہتھہ وَاِنَّ كَثِيْرًا  
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغٰفِلُوْنَ بیشک لو کو اندرہ جھہ واریاہ سانیو قدرتہ کیونشاؤ نشہ بے خبر۔ مخالفت  
 احکام کرنہ نشہ جھنہ کھوژان تہ پتھہ روزان وَاَلْقَدْ بَوَّآ اَبْنِيۡ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوَّآ صِدْقٍ ہنر پاتھ فرعونہ

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ  
مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۴﴾  
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا

سندہ ہلاک کرنے پر تہ بساواسہ بنی اسرائیل رزہ جاہیہ۔ تم سپہ مصر ک مالک و رزقہ فہم من الطیبت یہ  
کوراسہ تمین عطاریق، رت رت چیز آتھ مصرس اندر۔ اتھ کن نظر کمر تھ پزہ ہا تمین سان اطاعت تہ  
فرمانبر داری کرن۔ مگر تمہو کور تمہ بدل۔ تمہو کور دینس اندر اختلاف۔ افسوس کہ یہ اختلاف تروونہ  
تمہو نادانی تہ جملہ کن فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نہس کور تہ تمہو اختلاف مگر احکامن ہند علم واتنہ پتہ  
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پز پانھ تھند پروردگار کرہ فیصلہ  
تمن اختلاف کرہ ونین منز قیامتہ دوہ۔ تمن سارنی چیزن ہند تمن منز اختلاف کران آس فَإِنْ  
كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ یا رسول اللہ ہر گاہ بالفرض توہہ عنہ قسمہ ترو تہ شک آسہ قرآن  
مجیدس منز نہس آسہ کن نازل کور۔ یہ شبہ رفع کرنہ خیطرہ جھواکھ سہمل طریقہ فسئل الذين یقرءون  
الکتاب من قبلك تہہ کمر دوریافت تمن لو کن نہس ہم لو کہ بروظنہ کتابہ پران جہہ۔ تم ون توہہ  
بے شک قرآن مجید جھو خدایہ سندہ طرفہ نازل سیدان لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تھنن شک وجہہ  
ورای آیہ توہہ کن پز کتاب تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نہس مہ حض آسہ  
تہہ شک تہ ترو کرو نیو آندرہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ  
مہ آسہ ہر گز تہہ تمہو لو کواندرہ تمہو اہوز تھہ انکار کور خدایہ سندین آیاتن۔ نہس سپد و تہہ تہ نقصان تلہ و  
نیو آندرہ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پز پانھ تمن لو کن ہندہ خیطرہ یہ

يَوْمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٦٢﴾  
 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَّا فَنَفَعَهَا آيَاتِنَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا  
 آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ  
 إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا  
 أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُ الْبَشَرَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ  
 أَنْ تُوَظَّفَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

ازلی حکم چانس پروردگار سببہ طرفہ ثابت سپد مت چھو تم زانہ ایمان ان نہ و لو جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ہر گے تم نیش ساری آیات نہ و ان توتہ ان نہ تم ایمان یوتان نہ و چھن کڈر عذاب۔ مگر تمہ وقتہ ایمان ان چھو بے کار نہ بے اعتبار فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَّا فَنَفَعَهَا آيَاتِنَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ نیش آس نہ گنہ شرک لو کہ سبب عذاب و جھت ایمان اون۔ تو پتہ دیتھ تم ایمان فائیدہ حضرت یونس سببہ قومہ وراکی۔ تم پیٹھ بلہ عذاب ہیون نازل سپن اتی اون تمہو ایمان لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ بلہ تمہو ایمان اون اتی تل اسہ تم خوار ی ہند عذاب دنیا چہ زندگی اندر۔ یہ تلتاؤ تم زندگی ہند متع مز بکس و قس تان وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا یہ ہر گاہ تمہند پروردگار یڑھہ ہاتلہ انہن ایمان تم ساری لو کہ سیم زمیں پیٹھ چھہ یچہ وٹہ۔ مگر تم یوڑھہ نہ تہ بعض جتن کن نظر کتر تھہ أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُ الْبَشَرَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیاہ تمہہ کریو کہ لو کہ مجبور ایمان انہن پیٹھ تا اینکه ساری بن با ایمان وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَظَّفَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ ممسکی چھو نہ کانسہ شخص ایمان ان خدایہ سببہ حکمہ ورا کی سببہہ ہر شہنہ ورا کی۔ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ یہ چھو اللہ تعالیٰ کھر چہ نافرمانی اندر تراوان بے عقلن، سم نہ عقلہ کوم ہیوان چھہ۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فرما و دتھہ یار رسول اللہ لوکن، ای لوگو و چھو کہ کیاہ چھو آسمان تہ زمین اندر اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت تھی سیت سپدہ ہا تو بہ معلوم خدایہ سببہ



يَعْقُلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ  
 الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنِ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا  
 مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِنِّي مُعَكِّمُ  
 مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ نُحْيِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ  
 حَقًّا عَلَيْنَا نَجْمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي  
 شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ

آسکب بیه کنوی آسکب وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنِ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بیه کیاہ فاسیدہ وَاذ آیات بیه نیم  
 گزن وال یعنی پیغمبر، تم لوکن ہم ازلی بے ایمان آسن فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  
 قَبْلِهِمْ ہنس چھنہ ہم لوکہ انتظار کران مگر تھیں مشکل دوہن ہند ہم گذرے تھن بروٹھ قُلْ فَانظُرُوا  
 إِنِّي مُعَكِّمُ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ تہہ فرماؤ کہ کتر و انتظار تہہ بوتہ چھوس توہی سیت انتظار کرہ و نیو اندرہ تھہ  
 نُحْيِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا توپتہ آس اس نجات دووان پتہ نین پیغمبرن بیه تھن لوکن سموا ایمان اون  
 كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجْمَ الْمُؤْمِنِينَ بیٹھ پاتھ چھوسہ آسہ پیٹھ نجات دسُن سارنی باایمان۔ ہنس ہر گاہ یمن  
 کافرن پیٹھ کانہہ عذابہ نازل سپدہ باایمان لہن تھہ عذابہ نعتہ نجات۔ خواہ دنیاس اندر خواہ آخرتس  
 اندر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فرماؤ کہ تہہ بیارسول اللہ، ای لوکو ہر گاہ توہہ  
 شک چھو میانس دیس متعلق ہنس وارہ صاف صاف چھوسوہ یو فرماوان فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ ہنس بوچھوسنہ عبادت کران تھن معبودان باطلن ہنز تھن تہہ عبادت کران چھوہ معبود  
 برھس وراکی وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ بلکہ چھوس یو عبادت کران تھس خدایہ سنز ہنس توہہ  
 قبض روح کران چھو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بیه آومہ حکم کرنہ خدایہ سدہ طرفہ باایمانو

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ  
 لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾  
 وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ  
 بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ  
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

آندره آسک وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بیه آومہ حکم کرنه متوجه روزنک دین توحیدس کن  
 ساری باقی دین تراوتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیه آم وندہ بیٹھنه هرگز تھه آسکھ مشرکونو آندره وَلَا  
 تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ بیه بیٹھنه خدائس وراى بیه کانسہ منگان آسکھ۔ یوسنہ تھه  
 تهنز عبادت کمرت کانہه نفع یسکی واندناوتھه۔ عبادت نہ کمرتھه کانہه ضرر یسکی واناوتھه فَإِنْ فَعَلْتَ  
 فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس هرگاه تھه یڑھه کام کرکھ یعنی معبود برحقس وراى بیه کانسہ عبادت  
 کرکھ بس جھوکه تھه تلمہ ظالمو آندره۔ سمو خدایہ سندن حق ضالح کور وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا  
 كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بیه آومہ وندہ کمر هرگاه اللہ تعالیٰ کانہه سختیا واناوتوی تھیه۔ بس جھونہ کانہه سو سختی  
 دور کرون تس وراى وَلَنْ يُرِدَّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بیه هرگاه سو یڑھه کانہه خیر اھ چانہه خیرہ بس بیٹھنه  
 پتھه رتھه کانہه اکھاه تهنرس فاضلس یصیبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بلکه جھو سو فضل یکن واناوان پنہ  
 نیوند واندره بس یڑھان جھویت تس وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بیه جھو سو سیٹھاہ مغفرت کرهون سیٹھاہ رحم  
 کرهون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فرماو تھه لوکن ای لوگو تھیقن آوتھه کن دسکن  
 حق پنہ بس پروردگاسنہ طرفہ۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۸﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ  
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۹﴾

نہیں نسیں سیرہ و تہ پیٹھ ایہ سویا پیہ فائیدہ خیطرہ ہیہ نسیں شخص تمہہ نعرہ ڈلہ، سو ڈلہ پیہ پانچہ ضررہ خیطرہ  
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ مہہ ہتھہ خہنر کام نعرہ نہ آشر۔ یو کرووہ توہہ ہدایت قبول کرنس پیٹھ مجبور  
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ہیہ کتر و تہہ پیروی  
تھہ یہ توہہ کن وحی سوزنہ یوان و جھو۔ ہیہ کتر و کافرن ہیرس کھر س تہ تکلیفس پیٹھ جہہ صبر۔ یو تان اللہ  
تعالیٰ پن فیصلہ تہ حکم جای کرہ۔ سوی جھوزت حکم تہ فیصلہ کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرِّكْبَةُ أَحْكَمَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝<sup>۱</sup>  
 أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝<sup>۲</sup> وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا  
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَابُوا إِلَيْهِ يُدْعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ  
 يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
 عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝<sup>۳</sup> إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝<sup>۴</sup>

الرِّكْبَةُ أَحْكَمَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ امیک معنی چھو معلوم خدا یہ سئی یہ قرآن مجید چھو کتابہ اسمک آیات تہ احکام چھہ مضبوط تہ محکم کرنہ آمت د لیلو سیت۔ تو پتہ چھہ تم احکام ویشہنا ونہ آمت حکمتہ والس تہ باخبر خدا یہ سدہ طرفہ۔ سمیک مقصد چھو ای زہ ألا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تمھو حکمو منزہ چھو گوڈھوئی حکمہ کہ عبادت تہ پرستش مہ کتر وکانسہ ہنز کنس خدا نس وراکی۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بو چھوس تھندہ خیطرہ تھندی طرفہ نیم کرہ ون تھندہ عذابک۔ خوشخبر ونہ ون تھندین انعامن ہند وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَابُوا إِلَيْهِ بیہ مکتوبہ پنہ نین گتھن ہندہ خیطرہ مغفرت پنہ نس پروردگار س۔ تو پتہ کتر ورجوع تھس کن یُدْعِكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ فائدہ تھناوہ توہمہ رت فائدہ آس مقرر کرنہ آتھس و قس تان یعنی مر بھس و قس تان وَ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ بیہ کرہ عطا پر بھتہ زیادہ عمل کرہ ونس زیادہ مزور وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اگر تھمہ ایمان آنہ نشہ بھتہ بھر وتلہ چھوس بو کھوژان تھندہ تھہ بڈہ و بھس عذاب نس (سو گو قیامتک دوہ) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ سی کن چھو تھہ پوئس وائس سو چھو پر تھہ چیز س پیٹھ قدر تہ

إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْأَعْيُنَ يَنْتَعِشُونَ  
 ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الصُّدُورِ ۝  
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ  
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عِبَادًا وَلَئِنْ قُلْتِ

دُول إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وارہ بوزوسمن کافران ہمد حرکات۔ سم جہہ سینہ  
 نور او تھ آکھ آس سبت تھہ کران۔ یتھ بوشیدہ تھاؤن تمہ تھہ خدائس نشہ الْأَعْيُنَ يَنْتَعِشُونَ ثِيَابَهُمْ  
 يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وارہ بوزوسمہ ساتہ سم کلہ پیٹھ ژادر تراوتھ جہہ پانہ وان تھہ کران۔ اللہ  
 تعالیٰ جھوہہ سوروی زانان۔ یہ سم بوشیدہ کران چھہ۔ یان پاٹھ کران جہہ إِنَّكَ عَلَيْهِم بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الصُّدُورِ ہز  
 پاٹھ سو جھو پورہ زانان وکن ہنزہ اندر مہ تھہ۔ وکن گوژ ہنازان بیہنز، زبون ہنزہ تھہ۔ وَمَا مِنْ  
 دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  
 روئے زمینس منز جھنہ کانہہ تہ پکون جاندارہ مگر اللہ تعالیٰ اسی چھہ تمنسز روزی مہ، سو چھو تمسند جائے  
 قرار تہ جائے پناہ زانان تمس تمیک پور علم آسجہ علاوہ جھو، تہ سوروی لیجھت روش بتاہہ اندر یعنی لوح  
 محفوظ اندر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سو پور دگار گو سوی سم آسمان  
 تہ زمین پیدہ کمر شینل دوہن برابر و قس اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بیہ اوس عرش تھند آس پیٹھ۔  
 عرش تہ آب اوس امہ بروٹھی پیدہ آمت کرنہ یہ سوروی کوزن پیدہ۔ اتھ منز کمرن تھند ساری  
 ضروریات پیدہ۔ یتھ تھہ یہ وہجت توحیدس پیٹھ استدلال کمرہ ہو تھزہ نعمہ کھیتھ تھزہ شکر گذاری کرہ  
 ہو عبادت تہ رز عمل کمرہ ہو۔ توہہ اندرہ بھضیو کوریہ۔ بھضیو کوراتھ بدل ناسپاسی تہ شرک لِيَبْلُوَكُمْ  
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عِبَادًا یتھ توہہ آزمائش کرہ۔ توہہ اندر تھہ آسہ رت عمل کرنہ کن وَلَئِنْ قُلْتِ

إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ④ وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ  
 مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا  
 عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤ وَلَئِنْ أَذَقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتْرَ حِمَّةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ⑥  
 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَةٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ بیه ہر گاہ تہہ و دان چھوہ لو کن ای لو کو تہہ ایو مر نہ پتہ بیه زندہ کرنہ قیامتک  
 دوه لَیَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تمواندرہ سم کافر چھہ تم دن ضرور قرآن مجید س  
 متعلق کہ چھونہ بیه قرآن مجید تھہ منز قیامتہ مر نہ پتہ بیه زندہ کو سنج خبر چھہ، مگر نون سحر اہ۔ کیا زہ چھہ  
 و دان قرآن مجید چھونون سحر نہ جوہ۔ یمن اوس خیال کہ تھہ پاتھ جوہ باطل چھو گو ابتداء س اندر چھو  
 آسان مؤثر۔ تھہ پاتھ چھو ٹھو ز باللہ قرآن مجید نہ باطل۔ اگر چہ اتہ چھو ابتداء س اندر مؤثر سپدان  
 وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ بیه ہر گاہ اس پتہ نموتن نشہ سو  
 عذاب سمیک تمن وعدہ یوان چھو کرنہ گزرنہ آمتین کیون دوہن تام۔ تم چھہ بطور استہراء و دان تہہ  
 سناچیز چھو تھہ عذائس پتہ رٹان واقع سپدنہ نشہ یعنی ہر گاہ عذاب کانہہ چیز اہ آسماتلہ آسہ بانازل آمت  
 کرنہ الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وارہ یوزو سمہ دوهہ سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تمن  
 نازل سپدہ چھونہ سو عذاب کہ پتہ کیا ایہ رٹنہ تمن نشہ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ولنہ بیه تمن  
 سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تھہ تم ٹھہہ کران آس وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتْرَ حِمَّةٍ بیه ہر گاہ  
 آس انسانس پنہہ مہربانی ہند نہ ٹمتک مزہ چھہ ہاوان۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ توپتہ چھس سو نعمت اتھہ ہیوان  
 لِأَنَّهُ لَيَكْفُرُ ⑥ ضرور چھو سو نا امید نہ ناشکر گذار سپدان وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ  
 مَسْتَةٍ بیه ہر گاہ آس تس انسانس سختی پتہ یوسہ تمن واژ مٹر آس نمون ہند مزہ چھہ ہاوان لَیَقُولَنَّ

السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝  
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ  
مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝  
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

ذہبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ضرور چھو تمہہ ساتہ ونان حتی گنیہ مہ نشہ دور۔ وکن آسہ نہ حتی کینہہ لائقہ  
لَفَرِحٌ فَخُورٌ پڑپاٹ سو چھو بچہ کران۔ لوکن پیٹھ فخر بہان کرنہ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر نہ تم لو کہ تمہو ہمیشہ پر پیٹھ حاس پیٹھ صبر  
کور نعمون ہمدہ زوالحہ وقتہ کوزکھ صبر۔ عطاہ نعمتہ وقتہ دو پیٹھ شکر۔ بہہ کرکھ رتہ عملہ تھے گے تم  
یہندہ خیطرہ نوڈ مغفرت تہ بڈ مزور ہجہ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ پس شاید چھوہ ہتہ تراون یرھان کانہہ حصہ تموا حکامو منزہ تم توہہ کن نازل کرنہ یوان  
ہجہ۔ بہہ چھوہ ہتہ تمہہ موکھہ پن دل تنگ کرہ ون۔ کیاہ یہ چھا نمکن کہ ہتہ کیاہ تراوو تبلیغ کرن۔ یہ کتھ  
ہجہ ظاہر کہ ہتہ بیكونہ تہ ہرگز کرت پس کیاہ فاسدہ چھو دل تنگ سپد تک۔ کیاہ ہند دل مبارک چھا  
سپدان تنگ دشمن ہمدہ بہ ونہہ سیت۔ أَنْ يَقُولُوا أَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ تم  
دشمن کیاہ چھہ ونان۔ ہر گاہ تم پیٹہر آسن تلہ کونہ چھو والہ یوان تمن پیٹھ خزانہ۔ یا کونہ چھو وسان  
تمن سیت ملک تصدیق کرنہ خیطرہ۔ تمہو کتھو سیت مہ ہز سپد و ہتہ دل تنگ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہتہ چھوہ نہ مگر ہم کرہ ون لوکن اللہ تعالیٰ ای چھو پر ہتھ چیزس پیٹھ اختیارہ  
وول۔ توہہ تمیک اختیار چھونہ۔ لہذا کیاہ زہ چھوہ امہ سبہ نمگین اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ تم دشمن  
چھاوانان کہ یہ قرآن مجید چھو تمہو یعنی حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نی طرفہ ٹھہر وومت قُلْ

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۳﴾  
 فَإِلَهُمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَنْزَلُوا بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لِلَّهِ  
 الْإِلَهَ الْوَحِيدَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ  
 زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۱۵﴾  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا  
 صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى

فَأَنزَلْنَا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلَهُ مُقَرَّنَاتٍ تَبَهُ فَمَا يُؤْكَلُ بِهَا نَبَهُ هَرَاغَه تِي مَهْوُ تَلَمَّ ائْتُوْ تَبَهُ تِي دَه سُوْرَه مَقْشِي پَنَه طَرَفَه  
 بِنَاوِ تَه وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِهِي دِيْتُو نَادِمَدَه خَيْطَرَه نَسِ نَسِ تَبَهُ بِمَكُو نَادِي تَه خَد ائْسِ  
 وِرَاكِي۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَهْوُ تَبَهُ پُو زَوَانِ فَإِلَهُمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَنْزَلُوا بِعِلْمِ اللَّهِ بِهِي  
 ہر گاہ تم کہینہ جواب دین نہ توہمہ ہس زانو تہ کہ یہ قرآن مجید مہو نازل کرنہ آمت حدلیہ سمدہ علمہ بہہ  
 تہمدہ قدرت کاملہ سیت۔ وَأَنَّ لِلَّهِ الْإِلَهَ الْوَحِيدَ بِہی کُرُو سَمِیْکَ تہ یقین کہ کانہ معبوداہ مہو تہ تہ معبود  
 برحق وراکی کیا زہ معبود گوجہ اَسْنِ الوہیتہ کین صفاتن اندر کامل۔ ہر گاہ تہ وراہی بہہ کانہ آسماتس  
 آسماتلہ پور قدرت تہ تمہ پورہ قدرتہ سیت کہ ہاسو تہمہ قرآن مجید کہ مثل پیش کرنس اندر مدد۔ اکی  
 کافر و تہمہ سپدہ وون مثل انہ نس منز عاجز (لند اسپد مسئلہ توحید و رسالت ثابت فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  
 کیاہ امرہ پتہ تہ کہ وہ تہمہ پڑہ کہنہ نہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا بِهس اکھاہ پتہ نیور ژو عملو آندہ  
 محض دنیاچہ زندگی ہند فایدہ ٹکن یڑہ بہہ تمہ جی آرائش حاصل کرن یڑہ، شہرت ہش، بیخامی ہش  
 عزت و جاہ ہس۔ آخرت حاصل کرنج آس نہ تہس نیتس نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  
 ادہ آس دمو پورہ تم عملن ہنز مزور دنیا س اندر۔ تمن بہہ نہ تہ اندر کتہ قسمہ کی کرنہ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ سبے لو کہ گئے تم تمن نہ آخرتس اندر کہینہ تہ آسہ نارہ وراہی  
 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا بِہی گشہ ضایع تہ سو روی بہہ تم کران آس رژو کا میو آندہ دنیا س اندر



بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ  
 إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ  
 الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ  
 مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ

وَبَطُلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ <sup>۱۴</sup> بے گڑھے تہ سوزی خراب تہ تباہ، یہ تم کران آس رثو عملو آندرہ۔ کیا زہ  
 بیت ہمز آس خراب اَقَمْنَ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کیاہ مَعْرِ قرآن کریا  
 برابری تس شخصس سیت یس قرآن مجیدس پیٹھہ قائم روزت آسہ یس قرآن مجید تہمدس پروردگارہ  
 سدہ طرفہ دو تہمت ہتھو۔ بے چھو ہتھہ قرآن مجیدس سیت امہ کس حق تہ پوز آسہس پیٹھہ گواہ تہ۔ سوگو  
 سمیک فصیح و بلیغ آسُن تمہہ درجہ کہ لو کہ چھہ تمجہ مقابلہ کرنہ نشہ عاجز۔ یہ گبہ دلیل عقلی وَمِن قَبْلِهِ  
 كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً <sup>۱۵</sup> بے چھہ امہ بروٹھہ اکھ کتاباہ یوسہ حضرت موسیٰ اس پیٹھہ نازل سپڑ مڑ چھہ اچہ  
 گواہی ہندہ خیطرہ موجود۔ یوسہ کتاب احکام بیان کر چھہ اعتبارہ امام چھہ۔ تمہن احکامن پیٹھہ یس اجر و  
 ثواب حاصل سپدہ تمہہ اعتبارہ چھہ رحمت۔ یہ گبہ دلیل نقلی۔ یومی دوشوی دیلو سیت سپد ثابت  
 قرآن مجیدک پوزتہ صحیح آسُن اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ <sup>۱۶</sup> یم لو کہ تمہن ہنز ذکر کرنہ آہ چھہ اتھہ قرآن  
 مجیدس پڑھ کران وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ <sup>۱۷</sup> بیہم لو کہ قرآن مجیدس انکار چھہ کران بیہ فرقو یعنی  
 کافر و آندرہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ <sup>۱۸</sup> پس نار جہنم چھو تہندہ و اراج جای۔ پس کتھہ پاٹھہ بیہمہ قرآن مجیدس پڑھ کرہ  
 ون برابر آتھہ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ <sup>۱۹</sup> پس مہ آس ژہ ای مخاطب امہ کس شکس اندر واقع سپدہ ون  
 إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ <sup>۲۰</sup> بیشک یہ چھہ پڑ کتاب یوسہ چانس پروردگارہ سدہ طرفہ واژ مڑ چھہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ <sup>۲۱</sup> مگر باوجود آس چھہ واریاہ لو کہ یم نہ اتھہ پڑھ کران چھہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ  
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا <sup>۲۲</sup> بے کہہ اکھ چھو پڑ ظالم تس شخصہ سدہ خوتہ تم لہز نور و و کُفْسِ خدائس پیٹھہ، توحیدس،

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝<sup>۱۸</sup> الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝<sup>۱۹</sup>  
أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا  
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝<sup>۲۰</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ

قرن مجیدس، رسول کر سمس صلی اللہ علیہ وسلمس انکار کرنے سیت اُولَئِكَ یَعْرَضُونَ عَلَی رَبِّهِمْ حے  
کیاہ سن پنہ نس پروردگارس بروئھ کن انہ مفتری آسجہ حیثیتہ و یَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  
كَذَبُوا عَلَی رَبِّهِمْ حے ساسہ کیا ون گواہ یعنی تم ملا یک سم لو کن ہندین اعمالن پیٹھ گواہ چھہ سئے  
لو کھ کیا گئے سمو اپز نوروو، اپزہ تھہ لاجھہ پنہ نس ہروردگارس پیٹھ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِينَ  
ساری بوزو وارہ کہ ستنھنی ظالمن پیٹھ چھہ خدایہ سزہ زیادہ لعنت اَلَّذِينَ یَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
و یَبْغُونَهَا عِوَجًا سم پانہ کافر تہ ظالم آتھہ نین لو کن آس خدایہ سزہ و تہ نشہ پتھ رٹان۔ بیہ آس  
تلاش کران تھہ و تہ منز گوٹھہ ظاہر سیدن کانہہ ہجرہ و هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ بیہ آس تم  
آخرتس تہ انکار کران اُولَئِكَ لَمْ یَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ سم لو کھ سمکن نہ تنگ آتھہ اورہ یوز  
ژلٹھہ تمام روی زمینس اندر۔ سمہ ساسہ سمکن گرفتاری ہند وقت و اتہ و مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلِيَاءٍ بیہ آسہ نہ تمن خدایس و رای کانہہ دوستاہ یس موکلا و تھہ بیجہ ہجھہ یَضَعِفُ لَهُمْ  
الْعَذَابُ سمین بیہ کرنے بین ہندہ خوتہ دو گن عذاب۔ اکھ پنہہ گمراہی ہند بیہ بین لو کن گمراہ کرہ نک۔  
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ آسہہ سم سخت نفرتہ کن ہون تھن گن تھوان تہ  
بوزت ہیکان۔ بیہ آسہہ تمن سخت عنادہ کہ سببہ سبیز و تھہ یوان درنیٹھہ اُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا  
أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سئے لو کھ کیا گئے تم سمو نقصان کور پنہ نین پانسن بیہ راوہ تمن

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۱﴾ لَاجِرَمَ  
 أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ  
 وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا  
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلْيُومٍ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

تمہ سارے کتھے، سمہ ٹھہراوان آس بیہ تم ساری معبودان باطل تمن پرستش کران آس۔ وکین  
 آکھنہ کانہہ تہ بکار لاجرم أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ لازمی چھہ یہ کتھہ کہہ ساروی اندرہ چھہ تہ  
 یقیناً بیٹھاہ تاوان زد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بیشک سموکو کو ایمان  
 اُون بیہ کریچھہ رتھ عملہ، بیہ کوزکھ رجوع عاجزی سان، دلہ کن پنہ نس پروردگار س کن اُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تہ چھہ جنک لوکھہہ تہ روزن تمن جنن اندر ہمیشہ مَثَلُ  
 الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ مثال دو شون جمائن بالیمان تہ کافر ن ہنز چھہ۔ آکھ  
 شخصہہ چھو اون تہ زور تہ (یہ کنیہ کافر ہ سنز مثال) بیاکھ شخصہہ چھو چھو وچھو و ن تہ بوزہ و ن تہ (یہ کنیہ بالیمانہ  
 سنز مثال) هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا کیاہ سم دو شوعے چھا برابر ی مثالیہ اندر أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ چھہ چھوہ  
 تمن دون جمائن اندر بیہ فرق زانان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بیہ سوزاسہ بیشک حضرت نوح پنہ  
 نس قوم س کن إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ای قوم بیشک بو چھوس خہدہہ خیطرہ بیم کرہ و ن ن پانٹہ۔ یاسے  
 پیغام واتا و ن کہ کہ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہہ مہ کرو کانہہ ہنز عبادت معبود برحق و راکی إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلْيُومٍ بو چھوس کھوژان خہدہہ خیطرہ (ہر گاہ توہہ تس و رای کانہہ ہنز پرستش

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَى  
 اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَى  
 لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَأَشْنِى رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ  
 فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْتُ مُكُوبَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرُهُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآنُ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا

کروہ (کڈرہو) و ہکس عذابس سو گو قیامتک دوہ۔ فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس دُوب جواب  
 تمہن پنہ قومہ کیو کافر ن ہند یوز شہیو مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا اَسہ چھو کھنہ ژہ بوز نہ یوان مگر اسی ہیو  
 انساناہ۔ سانہ خونہ چھا ژیہ اندر کانہ فضیلتاہ وَمَا نَرِكَ اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِہ چھنہ  
 اَس و چھان چان پیرو کار مگر تجہ تم بونمہ در جگہ لو کہ چھہ۔ بَادِى الرَّأْيِ سمواتا مل کرنہ ورا کی جلد  
 جلد چان پیروی قبول کر وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بیہ چھنہ لبان اَس توبہ نہ تھنہ دین پیرو کار ن  
 کانہ فضیلتاہ پانس پیٹھہ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ بلکہ چھہ اَس توبہ زانان اُپزبیرِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  
 كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَأَشْنِى رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ حضرت نوحن دو چھہ ای میانہ قومہ مہ و نتو چھہ  
 ہر گاہ بو اَسہ پنہ نس پروردگارہ سزہ ہنہ دلیلہ پیٹھہ قائم سمہ سمیت میان نبوت اَسہ ثابت سپدان بیہ  
 اَسہ تم مہ پن بذرحمت نہ مہربانی عطا کر مژ فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ سؤ نبوت نہ تجہ دلیل بیہ نہ توبہ بوز نہ  
 تھہ کیاہ علاج چھو، اَس چھہ جُبُورِ أَنْزَلْتُ مُكُوبَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاِرُهُونَ کیاہ اَس ہیو کوہ توبہ سؤ رحمت و  
 مہربانی دعویٰ و دلیل زورہ پُشُر اوتھہ در حالتیکہ تھہ آسوتھہ ناپسند کران وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ  
 ای میانہ قومہ یہ سو چو توبہ ذرا کہ اگر بو نبوتک غلط دعویٰ کرہ ہاتھہ منز آسامہ کانہ مطالبہ۔ تہ گو  
 ہٹھوی ہیو کہ تمہہ ذریعہ کرہ ہا بوال و دولت جمع یہ تھہ چھہ توبہ معلوم کہہ بو چھوس نہ منگان توبہ ہیٹھ  
 تبلیغ کر نس پیٹھہ، صحیح و تھہ ہا نس پیٹھہ، کانہ مالہ، کُنہ قسمہ مزیوریاہ کیاہہ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ

بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ فِيهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا  
 تَجْهَلُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ  
 لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِنِّي إِذَا  
 لِبَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ قَالَ الْوَيْسِيُّ قَدْ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جِدَالِنَا

میان مزور چھنہ کا نہ منہ مگر خدایسی و ما آنا بطارد الذین امنوا بیہ میکھ نہ بو با ایمان پانس نشیہ  
 الگ تراوتھ کھ صورتس منز۔ انہم ملقواؤہم ہز پانچ تم ہتھ ملاقات کرہ ون پنہ نس پروردگار س  
 سیت باعزت صورتس اندر۔ لہذا چھ مقرران در بار الہی۔ بو تھ پانچ ہیکھ تم پانس نشیہ الگ کر تھ  
 و لکنی اراکم قوماً تجھلون مگر بو تھ سوہ ہنہ و چھان جما تھہ نادالی ہنزہ تھہ کران و یقوم من  
 یتصرنی من اللہ ان طردتھم ای میانہ قومہ اگر بالفرض والتقد یو تم بو نمہ درجک لو کہ تمو میانس  
 نبوتس پشہ کر پانس نشیہ دور کر کہ تھ صورتس اندر گوہ اکھاہ بجاوہ مہ نہ مدکرہ مہ خدایہ سہہ گرفتہ نشیہ  
 افلا تذکرون کیا زہ چھوہ نہ ہنہ غور کران و لا اقول لکم عندی خزائن اللہ بیہ چھوس نہ بو توہیہ  
 ونان زہ مہ نشیہ چھہ خدایہ سد ساری خزانہ موجود و لا اعلم الغیب بیہ چھوس نہ بو دعوی کران غیب  
 زانہ نک و لا اقول انی ملک بیہ چھوس نہ بو ونان بو چھوس ملک و لا اقول للذین تزدری اعینکم  
 لکن یوتیہم اللہ خیرا۔ بیہ چھوس نہ بو تھن لو کن ہندہ تھہ تھن تھہ نظرہ و چھان چھوہ تھن کیا کرہ  
 نہ اللہ تعالیٰ بن خیر عطا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ تعالیٰ سی چھہ خبر تھندین و کن ہنزہ رقی اذا  
 بین الظالمین ہر گاہ بو تھہ تھہ کرہ تلہ چھوس بو ظالمو آندرہ کیا زہ بے دلیل یس کا نہہ کتھہ کرہ  
 سو چھو ظالم۔ یلہ تم سارنی تھن اندر لاجواب گئے قالو ایسوی قد جادلنا فاکتوت جدالنا فالتنا بما  
 وعدنا دینہ لگ تم ای نوح ژہ کوڑ تھہ اسہ سیت بحث۔ سوی کوڑ تھہ واریاہ بحث۔ و کن تراوو بحث۔

فَاتَّبَابَا تَعْدَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۴﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا

دوان ان ژه سو عذاب سمیگ خوف ژه آسہ دوان چھو کہ ان کنت من الصديقين ہر گاہ ژه پوزوان چھو کہ۔ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ حضرت نوح دوجھ سو عذاب بیجہ نہ آتھہ کانہہ تہ خدا نس درای۔ ہر گاہ سو پڑھہ تیلہ بیکیون نہ تہہ سو عاجز آتھہ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ بیہ دیہ نہ توہہ کانہہ نفع میان نصیحت ہر گاہ بو توہہ نصیحت کرہ نگ ارادہ تہ کرہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ سندا ارادہ تہہ گمراہ کرئوی آسہ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سو چھو تہن مالک نس ان ایو تہہ واتانہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ سم مگ لوکتہ چھو تان حضرت محمد ٹھرو وپنہ طرفہ یہ قرآن مجید قُلْ تہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ ہر گاہ بالفرض یہ مے ٹھرو دمت آسہ تو تہ چھو سو جرم مے پیٹھ۔ تہہ چھوہ تمہہ جرمہ نشہ بری۔ تو تہ چھوس تمو جرمو نشہ بری سم تہہ کران چھوہ وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بیہ آدوچی سوزنہ حضرت نوحس کن کہ پڑھہ کرن نہ توہہ ہر گز پنہ قومہ آندرہ مگر تتی لو کہ سمو وکلام پڑھہ کرئیس مہ کھو تہہ غم تمن چیزن ہند سم چیز تکلیف، ٹھٹھہ مسخرہ گی) سم کران آس توہہ نسبت۔ چوچھہ سون ارادہ چھو وون

وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿۶۷﴾  
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوِّهِ سَخِرُوا مِنْهُ  
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۶۸﴾ فَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
مُقِيمٌ ﴿۶۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

تم غرق کرن تہ تہ لون آس اندر۔ وون چھو طوفان بنہ وول لہذا تمہ طوفانہ نغہہ چنہ خیطرہ  
وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا بِنا وونہہ ناوسانہ نگرانی اندر بیہ ساینو تجویز و مطابقت ہی ناوہ ہندہ  
ذریعہ لبونجات۔ نہہ تہ باقی باایمان تہ وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ بوزو  
دارہ کہ مہ سیت گزہہ نہ کا نہ تھہ کرن تمن لوکن ہندہ حقہ سمو ظلم کور گفرہ تہ شر کہ سیت۔ کیا زہ تمن  
چھو ضرورتہہ طوفانس اندر غرق گزہن تہ پھن۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ لہہ پتہ ہیوت حضرت نوحس ناوہ  
ہند سامانہ جمع کرن۔ تو پتہ ہنڈ کہ سو ناوگر نر و کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوِّهِ سَخِرُوا مِنْهُ سمہ سمہ سائہ  
پکان آس رسین ہنز کا نہہ جماتہا ہندہ قومہ منزہ لہہ جلیہ کن تھہ جلیہ یہ ناو تم گران آس تم آس  
اتھہ ہندس ناوگر نس پیٹھ ٹھٹھہ کران۔ دپان آسکھ پیغبر آتھہ بنہ و وول نہہ جھان قَالَ إِن تَسْخَرُوا  
مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تم آسکھ دپان ہر گاہ نہہ آسہ ٹھٹھہ کران چھوہ موقعہ ولتہ آس تہ کرو  
وہ توہہ ٹھٹھہ پیٹھ پاٹھ نہہ ٹھٹھہ کران چھوہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ بروٹھہ پکن زانو نہہ پانے کس ایہ سو عذاب یس تس خوار کرہ دنیاس اندر بیہ کس پیٹھ  
سپدہ ہمیشہ روزہ و ن عذاب نازل حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا تا اینکہ سمہ سائہ جاری سپدسون حتم عذابس  
متعلق وَفَارَ التَّنُورُ آب در او زہ و نہہ تنورہ منزہ یہ اوس نشانہ تہ علامت طوفانچہ شروع سپد تک  
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا آسہ فرمود حضرت نوحس کھاریو کھ اتھ ناوہ منز مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ  
 اللّٰهِ فَجَرَّهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَهِيَ تَجْرِي  
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَتَنَادَى تُوْحُرِ ابْنَةُ وَكَانَ فِي  
 مَعْرَلٍ يُبْنَى اذْكُبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝۱۲ قَالَ سَأُوْتِي  
 اِلَى جَبَلٍ يُعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لِمَا عَصَا الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ

ساروی جاندار و اندرہ زیز ۲ زیز ۲ از تہ مادہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِیہ کھارو پٹن عیالہ  
 مگر نہ سوبس پیٹھ غرق سپد تک حکم جاری سپد مت چھو۔ تم گئے اکھ تہز گروا جن بیہ کسکان پٹو تہند۔  
 وَمَنْ آمَنَ بِیہ کھارو یکھ اتھ ناوہ تم ساری سمو ایمان او مت چھو وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مگر پٹھ  
 آس نہ کر مژمین مگر کموی لو کو (تم آس شہ زن۔ ونہ چھو اُمت کُل آس ناوہ منز شیتھ زن۔ تجربہ مرد،  
 تجربہ زنانہ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ فَجَرَّهَا وَمُرْسُهَا بِیہ ڈپکھ حضرت نوح و لو کھسو بیٹھ ناوہ پروا نہ بروکتہ طو فانک بِسْمِ  
 اللّٰهِ فَجَرَّهَا وَمُرْسُهَا خدلیہ سندی ناوہ سیت چھو امہ ناوہ ہند کن بیہ امیک ٹھم رن۔ اِنَّ رَبِّي  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑ پٹھ میون پروردگار چھو ضرور سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ سو چھو بند رحمتہ سیت گناہ تہ  
 بخشہ ون، بیہ راہبہ کرہ ون۔ غرق سپد نہ نشہ نجات دہہ ون۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ  
 بیہ آس سوناوپکان تم ہتھ تم موجودہ ملرو منز سم کو بن برابر آس وَتَنَادَى تُوْحُرِ ابْنَةُ وَكَانَ  
 فِي مَعْرَلٍ اَلو دیت حضرت نوح پٹوس پنہ نس (کسکانس) سو اوس ناوہ نشہ نیر الگ آس جلیہ پیٹھ کافر  
 آسنہ موکھہ اوس نہ ناوہ پیٹھ سوار اُمت کر نہ يُبْنَى اذْكُبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ اکی سانہ ناٹھہ  
 گورہ۔ دولہ سوار سپد امہ سیت ناوہ منز۔ مہ روز کافر ن سیت ایمان اَن تہ ناوہ منز کھس قَالَ سَأُوْتِي  
 اِلَى جَبَلٍ يُعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ سولوگ نہ نہ بوکھسہ کُتھ کو ہس پیٹھ، سوبی رچھہ مہ سمہ آہ نشہ کیا زہ  
 آب اوس نہ ونہ زیادہ ٹھد یومت قَالَ حضرت نوح و ہس لِمَا عَصَا الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَلَمَّا نَسِيَ مِنْ اَمْرِ  
 بیچہ نہ کانہہ چیز چھتھ خدلیہ سندہ عذابہ نشہ مگر روزہ محفوظ سوبی شخص بس پیٹھ سوبی پروردگار کرہ



اللَّهِ الْإِلَٰهَ الْأَمَنُ رَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿۱۳﴾  
 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ  
 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ  
 الظَّالِمِينَ ﴿۱۴﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن  
 أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ﴿۱۵﴾  
 قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا

ایمانگہ برکتہ۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ سم آس کتھہ ہاتھی کران کہہ سمن منز او  
 آبگ ملراہ اکہ۔ نھس سہد سوکتعان پھوہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ کافرن سیتِ بھوٹ وَقِيلَ حکم او کر نہ  
 زمینس تہ آسمانس یَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ای زمینہ نیگل پٹن آب و سَمَاءُ اَقْلِعِي ای آسمانہ بند  
 کر پٹن رُود تہ بارش وَغِيضَ الْمَاءُ اُتی ہوٹن آب و سُن تہ کم گڑھن وَقُضِيَ الْأَمْرُ کوم سہر پورہ۔ قصہ  
 سہد ختم یعنی نافرمان ہنز تباہی وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ بیہ لجاؤ کوہ جو دیس سیت۔ وَقِيلَ بُعْدًا  
 لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بیہ آؤونہ کافر چھہ خدلیہ سندہ رحمتہ نشیہ دُور وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ بیہ مونگ  
 حضرت نُوحن ہر دور دگا رس پندہ نس کنعانہ سندہ غرق سہندہ بروٹھہ فَقَالَ رَبِّ نھس مونس ای  
 میانیہ ہر دور دگا رہہ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي پڑپاٹھ میون پٹووتہ چھو میانیہ اہل و عیالہ منزہ۔ تہ چھٹھم وعدہ  
 کورمت عیالگہ بچلوک۔ سم ہایمان آسن۔ اگرچہ کنعان نجاس مستحق چھونہ مومن نہ آسنہ موكھہ وَإِنَّ  
 وَعْدَكَ الْحَقُّ چون وعدہ چھو پوزتہ حق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ بیہ چھوک تہ ساروی آندرہ  
 بوڈو حکم کامل اختیارہ وول۔ ہر گاہ تہ یشھک تہس کر کہہ ایمان عطا۔ تا کہہ سوتہ کہہ نجات طوفانہ نشیہ  
 قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ای نوح میانس علم از لیس اندر چھونہ  
 کنعان ہرگز چانیہ اہل و عیالہ منزہ سم ایمان آنتھہ مستحق نجات سہدن إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ بلکہ چھوسو  
 آخرتس تان تباہ کار حالت کھر س پیٹھ روزہ ون فَلَا تَسْأَلُنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ نھس مہ کردو

تَسْأَلُن مَالِيَسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّیْ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ  
 الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۱﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ  
 بِهٖ عِلْمٌ وَّالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحِمْنِيْ اَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۷۲﴾  
 قَبِلَ يٰنُوْحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلٰیكَ وَعَلٰی اٰمِرٍ  
 مِّنْ مَّعَكَ وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنْ اَعْدَابِ الْيَوْمِ ﴿۷۳﴾  
 تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا لِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ  
 وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۴﴾

درخواست مہ نغمہ جیزک تہ نہ ثیہ کینہہ خمر ہجھ اِنِّیْ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ الْجٰهِلِيْنَ بو  
 ہجھوے ثیہ نصیحت کران، ژہمہ آس نہ زلہ ونبو اندرہ ہجھ دعا کرہ نادانی بو ت قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ  
 اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ حضرت نوحن دوپ میانہ ہر وردگارہ بیشک بو ہجھوے پناہ منگان  
 تہجھ جیز معنہ لغہ تہ نہ مہ کینہہ خمر ہجھ واقعی کر مہ ہجھ جیز معنہ سیت بد غلطی۔ اتھ غلطی کرم  
 بخشایش وَاَلَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحِمْنِيْ اَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ہر گاہ نہ ژہ مغفرت تہ بخشایش تہ رحم کر کہ  
 مہ تلہ سپدہ بو نقصان تلہ ونبو اندرہ۔ بلہ ادہ آب۔ ہنہ ہنہ بون ووتھ قَبِلَ يٰنُوْحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا  
 وَبَرَكَاتٍ عَلٰیكَ حکم او کر نہ اکی نوح و سوا مہ ناوہ منزہ زمینس پیٹھ سانہ طرفہ سلامتی سان تہ برکتو  
 سان سمہ نازل سپدن توہہ پیٹھ وَعَلٰی اٰمِرٍ مِّنْ مَّعَكَ بیہ تمن جماعتن پیٹھ ہم ژہ سیت ہجھ۔ تم  
 گئے بایمان وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنْ اَعْدَابِ الْيَوْمِ بیہ تہ آسن آئیدہ کینہہ جہاژ سمہ نافرمانی تہ  
 کفر وشرک کرن۔ سم تہناو کہ دنیا س اندر کینہہ کالاہ تمنخ۔ توپتہ ولتہ تمن سون کڈر عذاب آخرتس  
 اندر تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا لِيْكَ یہ قصہ ہجھو غیبیہ جو خبر اندر وہ یہ اس دجیحہ ذریعہ توہہ نش  
 واتناوان ہجھہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا توہہ تہ تہمیس قومس (یارسول اللہ) اوسنہ

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ  
 إِلٰهٍ غَیْرُهُۥ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ لَآلِ مُفْتَرُونَ ۝۱۰ یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ  
 أَجْرًا ۚ إِنَّ أَجْرَیَ إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِیٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۱  
 وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ  
 عَلَیْکُمْ مَدْرَارًا ۚ وَیَبْزِدْکُمْ قُوَّةً ۚ إِلَى قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

یہ قصہ سابقہ بیان کرنے پر دوغہ معلومی۔ اسی سیت پر معلوم ہے جوہوی برحق۔ مگر تم لوگ جوہوی نہیں ہوئے تھے۔ یہ قصہ بوڑھے صبر (یہ قصہ بوڑھے) لَانَ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِیْنَ - یقیناً زانوگرت  
 انجام بخیر۔ جو خدا پس کھوڑوین، ہندہ خیرہ۔ ہندہ پانچ تہہ تہہ قصہ آندرہ معلوم ہے کہ کافر ہند انجام بخیر، مسلمان  
 ہند انجام بخیر۔ ہند دہشتہ ہند بالآخر تباہ و برباد۔ وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا - یہ سوزاسہ قوم عادس کن جنہوی  
 برادری منزہ آکھ صاحب ہود علیہ السلام پیغمبر قَالَ تَبَوُّوْنَ پنے نس قومس یَقَوْمِ ای میانہ قومہ  
 اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُۥ - ہنہ کرو پرستش فقط معبود برحقہ سنزی یاثر۔ نس ورا ای جوہونہ جنہ  
 کانہ معبودا ہس عبادتس لایق آسہا اِنَّ أَنْتُمْ لَآلِ مُفْتَرُونَ - ہنہ جوہونہ بت پرستی سیت۔ خدا پس ورا  
 بیہ کانہ قابل پرستش زانہ سیت۔ مگر لہز ٹھہراوہ ون لہہ کس باطل آسہ پٹھہ جوہہ دلیل۔ یَقَوْمِ لَا  
 أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ای میانہ قومہ بو جوہوس نہ توہہ منگان اتھ تہلیغس پیٹھ کانہہ مزوریہ اِنَّ أَجْرَی  
 إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِیٓ میان مزور جوہ نس مہ تم بو عدم محضہ نعہ پیدہ گورس أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیاہ توہہ  
 جوہوہ نایہ گتہ فخرہ تران۔ وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَیْهِ ای میانہ قومہ ہنہ معبود پنے نس  
 پروردگارس گہو نعہ، کفر و شر کہ نعہ بخشایش، مغفرت یعنی تہہ انوایمان۔ توبتہ کرو ایمان اتھ تس کن رجوع  
 عبادتہ سیت یہہ ہنہ فرمانبرداری کرنے سیت ایمان و عمل صالحہ کر تہ۔ یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مَدْرَارًا  
 تراوہ سو توہہ پیٹھ، ہندس زمینس زراعتس پیٹھ گدل رود۔ وَیَبْزِدْکُمْ قُوَّةً ۚ إِلَى قُوَّتِکُمْ بیہ ہرہ

مُجْرِمِينَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ  
 بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾  
 إِنَّ تَقْوَى الْإِعْتِرَافِ بِبَعْضِ الْهَيْئَاتِ بِسُوءٍ قَالَتْ إِنِّي أُنشِئُ اللَّهَ  
 وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيٌّ مُّبَاشِّرٌ كُونَ ﴿۵۸﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَنِي جَمِيعًا  
 ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ﴿۵۹﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ  
 إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۰﴾ فَإِنْ

راوه توبه بیه هن قوت پس ابا ایمان ته کروئس پشه وَلَا تَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ بیه مه سپد و زو گردانی  
 کرت گنهگار قَالُوا يَهُودُ تم لگ دهنه ای هود مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ هته آوه نه آسه نغیه پنه نس بینمبر  
 آسس پیته کانمه دلیلاه هیته وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ بیه  
 میوکوه نه آس تراو ته هن معبود محض هته هود و نه سیت بیه میگونه آس توبه هته صور تس منز پشه کرت ه  
 إِنَّ تَقْوَى الْإِعْتِرَافِ بِبَعْضِ الْهَيْئَاتِ بِسُوءٍ آس جهنه کینه ته و نان توبه متعلق مگر ای زه توبه هته و هته سانیو  
 بعضی معبود و جذب ه کورمت، دماغس تکلیف و اتنوومت کیا زه هته هته هته بر خلانی کران۔ تمی هته هته  
 او زک یور ته کران سمه نه آسه نغیه قابل تسلیم هته قَالَتْ إِنِّي أُنشِئُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيٌّ مُّبَاشِّرٌ كُونَ \*  
 مِنْ دُونِهِ هود علیه السلامن دو هته پز پاهه بو هته هوس خدا گواه هته او ان بیه روز هته ته گواه هته هته هته  
 بیشک بو هته هوس بیزار تموساروی چیز و نغیه تم هته عبادتس اندر خدا بیه سید شریک هته هته هته او ان تس  
 و رای فُكَيْدُ وَنِي جَمِيعًا پس هته ساری سمته کرو سنز میانه تکلیف و اتاده نک ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ توبه ته مه  
 پیار و مه کنمی۔ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا (موی  
 میونه هته پروردگار هته ما من دآبۃ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا کانمه جانداره هته هته سمسنز مگ (موی  
 پیشانی) نه تمسندس آهس منز هته إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پز پاهه میون پروردگار هته هته هته  
 پیته پنه سیت حاصل سپدان۔ تمه پیته هته و الین راهه ته حفاظت کران فَإِنْ تَوَكَّلُوا فَقَدْ وَكَّلْنَا

تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا  
 غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَہٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۵۷﴾  
 لَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا بِنَجِيْنَا هُوْدًا وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاُوۡ  
 بِحَيْنُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۵۸﴾ وَتِلْكَ اَعَادُ جَدُّ وَاٰيَاتِ رَبِّهِمْ  
 وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاَتَّبَعُوْا اَمْرًا كُلًّا جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۵۹﴾ وَاَتَّبِعُوْا قِيَمَ  
 هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ

اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ پس ہر گاہ ہنہ میانہ ایتر تہلیغہ تہ بلخ بیان کرنہ پتہ تہ ہتھ بھرہ۔ اعراض کردہ  
 ہتھونہ تھہ اندر کانہہ نقصان کیا زہ مہ واتوہ توہہ سو پیغام پس ہتھہ بوسوزنہ آمتہ اوس۔ امہ میانہ  
 پیغام نہ مانہ نچ شامت بھرہ توہہ پانی توہہ کرہ اللہ تعالی تہ تہ برباد وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ توہہ  
 بدل نہہ میون پروردگار پس قومس اس تمنی گرہ ہتھہ زمینس اندر آباد وَلَا تَضُرُّوْنَہٗ شَيْئًا ہنہ ہتھہ  
 نہ تس کینہہ نقصان واتاوان بلکہ ہتھہ پنہ نین پانن نقصان واتاوان اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ پز  
 پاٹھ میون پروردگار ہتھہ پز ہتھہ چیزس راہتھہ کرہ ون۔ پز ہتھہ اکسند حال ہتھہ تس معلوم وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا  
 بِنَجِيْنَا هُوْدًا وَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اودہ یلہ سون حکم تہنہہ عذابہ خیترہ جاری سپد (تم گال  
 اسہ ساری) نجات دیتہ اسہ حضرت ہودس بیہ تمن لوکن ہمو ایمان اوس اوئمت تس سیت پنہہ رحمتہ  
 سیت وَيَحْيٰنُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ نجات دیتہ اسہ تمن مشکل عذابہ نعیہ وَتِلْكَ اَعَادُ جَدُّ وَاٰيَاتِ  
 رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ بیہ اوس قوم عادیمو انکار کور پنہ نس خدایہ سندین آیاتن بیہ کمر کہ تہندین پیغمبران  
 ہنز نافرمانی وَاَتَّبَعُوْا اَمْرًا كُلًّا جَبَّارٍ عَنِيدٍ بیہ کر کہ پیروی سرکش تہ ضدی مخالفن ہندین حکمن ہنز  
 تمیک نتیجہ درا کہ وَاَتَّبِعُوْا قِيَمَ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تمن کیہ پتہ تھاونہ لعنت ہتھہ دنیا  
 س لہر بیہ آیکھ پتہ لعنت قیامت دوہ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ وارہ یوزو قوم عادن کور انکار پنہ نس

الْأَبْعَدُ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدِيٌّ ۖ وَالِى شُؤْدَ أَخَاهُمْ صِلِحًا قَالَ يَقُومُ  
 عِبْدُ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ  
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ  
 مُّجِيبٌ ۖ (۶۱) قَالَ الْوَالِى صِلِحٌ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَيْتُمُنَا  
 نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ رَبِّي ۗ (۶۲)  
 قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ

پروردگار الّأَبْعَدُ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدِيٌّ وارہ بوزو قوم عاد آؤور گرنہ خدلیہ سیدہ رحمتہ لبشہ۔

وَالِى شُؤْدَ أَخَاهُمْ صِلِحًا بیہ سوز اسہ قوم شمودس کن تھند بوی صالح علیہ السلام قَالَ يَقُومُ عِبْدُوا  
 اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ صالح علیہ السلام دوپچھ ای میانہ قومہ عبادت تہ پرستش کمر و معبود برحقہ سنز  
 کانہ معبودا ہ جھونہ توہہ تس وراى هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تمسنز چھہ بڈ  
 مہربانی توہہ پیٹھ تم کمر وہ تمہہ بیدہ زمینہ کس مادس میوہ لبشہ۔ بیہ کمر نوہ آتھ ز مینس پیٹھ آبادر نگارنگ  
 نعوہ کر نوہ عطا۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ بس معوہ مغفرت تس پنہ نین گنہن مہدہ خیطرہ شر کو کھرہ  
 خیطرہ توپتہ کمر و رجوع تس کن ایمان انتھہ تہ پڑھہ کمر تھہ توپتہ کمر و رزہ عملہ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ  
 بیشک میون پروردگار جھو کھہ ہندن پنہ نین۔ اجابت کرہ ون۔ ہندن مہندس مگنس قَالَ الْوَالِى صِلِحٌ قَدْ  
 كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا دہنہ لگ تم ای صالح لہ تحقیق اسہ آس سمہہ برونتھہ ژہ متعلق خبر کیاہ امید تھہ  
 ساری کوز تھہ ژیہ اولہ بدل آتھنَا نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کیاہ ژہ جھو کھہ اسہ منع کران تمن  
 معبودن پرستش کر نس تمن پرستش کران آی سان مال بڈب۔ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ  
 رَبِّي ۗ اسہ جھو ضرور شک تہ خبہ تمیک بیٹھ کن ژہ اسہ نادوان جھو کھہ بس شک پریشان کرہ ون جھو  
 قَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي صالح علیہ السلام دوپچھ ای میانہ قومہ مہہ و نتو تہہ  
 ہر گاہ بوی پنہ نس پروردگارہ سنزہ ہنہ دلیمہ پیٹھ قائم اسہ وَإِنِّي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يُنصِرْنِي مِنَ اللّٰهِ إِنْ

رَحْمَةً فَمَنْ يَتَصَرَّنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّ عَصِيئَتُهُ قَبَاتٍ زَيْدٍ وَوَنِي غَيْرِ  
 تَحْسِيرٍ ﴿۶۳﴾ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي  
 أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۶۴﴾  
 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  
 مَكْدُوبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُومِئذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾

عَصِيئَتُهُ بیہ آسہ تم میری رحمت سے عطا کر مش۔ یعنی نبوت۔ تہ آسٹھ ہر گاہ بو تہنزا نافرمانی کرہ تبلیغ نہ  
 کرنہ سیت ادہ گنہہ بیحہ مہ مدکر تھ خدا پس نیشہ قَبَاتٍ زَيْدٍ وَوَنِي غَيْرِ تَحْسِيرٍ گنہہ چھوہ نہ میانہ خیطرہ  
 نقصانہ ورائی کانہہ چیز ہرہ راوان تہ زیادہ کران وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ای میانہ قومہ گنہہ پس  
 مجزہ ہا شانڈان چھوہ، سو چھو یکبار۔ بیہ چھہ خدایہ سنز وونن گنہہہ خیطرہ میانہ صدا قس پیٹھ اکھ بوڈ  
 نشانہ تہ دلیلاہ۔ آسبتہ چھہ توہرہ پیٹھ کبہنہ حق فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ پس  
 تراوون سو۔ کھیوان روزہ خدایہ سندس زمینس اندر گاسہ وغیرہ اس مہ لاو گنہہ تکلیفہ کہ قصدہ ہر گاہ  
 توہرہ کینہہ تکلیف واتووہ تس فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تلبہ رتہ توہرہ بوڈ عذاب، سیتی فَعَقَرُوهَا  
 پس باوجود اک ایڈ فہمائش کر تھ مدر سنو وونن تمہو فَقَالَ پس دو چھہ صالح علیہ السلامن تَمَتَّعُوا فِي  
 دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تلو متع زندگی ہند گرن پنہ نین منز روز تھ۔ ترین دوہن۔ تمہ پتہ چھو توہرہ تباہ  
 گوئشن ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ بیہ چھو وعدہ پس نہ اپز آسہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تریہ دوہ گنہہ  
 پتہ بلہ سون حکم عذابس متعلق جاری سپد نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُومِئذٍ  
 نجات دیت آسہ صالح علیہ السلامس بیہ تمہن لوکن سموا ایمان اون تس سیت پنہ رحمتہ سیت تمہ عذابہ  
 نیشہ بیہ تمہ وچہ رسوائی نیشہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پز پائٹ چوٹوی پروردگار چھو قوتہ وول غلبہ  
 وول وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثثًا

وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمًا ﴿٦٤﴾  
 كَانَ لَمْ يَغْتَوُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تَشُودُ أَكْفَرُوا وَارْتَبَهُمُ الْآبَعْدُ  
 لِشُودِ ٦٥) وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا اسْلَمَا  
 قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ  
 لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا  
 أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ٦٧) وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

ایمنہ سز کر لکھ آس۔ پس بٹھ کن دستھ پتھ گئے تم روزت۔ تیت صاف سپد شوشر کَانَ لَمْ يَغْتَوُوا  
 فِيهَا زان نہ تم تھ شرس منز بستی آس زانہ الْآرَانَ شُودُ أَكْفَرُوا وَارْتَبَهُمُ الْآبَعْدُ وَارہ  
 بوڑو قوم شوڈن کور انکار پنہ نس پروردگار س وارہ بوزہ خدلیہ سندہ رحمتہ نیشہ سپد سیٹھاہ دور قوم شوڈ۔  
 بوزت رفو عبرت ای بوزن والیو خدلیہ سزہ نافرمانی ہند نتیجہ کیاہ چھو آسان وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا  
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا اسْلَمَا قَالَ سَلْمٌ بیہ آی پزپاٹھ سان سوزنہ آمت ملایک انسان صورتس اندر  
 ابراہیم علیہ السلامس نیشہ فرزند اسماعیل علیہ السلامہ سز خوشخبر ہیتھ۔ تمبو کمر ابراہیم علیہ السلامس  
 سلام۔ تمبو نہ کمر کہ تورہ سلام۔ تمن گو خیال پنوہ آئے فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِيدٍ توپتہ  
 ژیرتہ تار کرنہ درای آی تمن نیشہ وژہ سند بومت ماز ہیتھ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَارہ  
 تمبو ٹھہر اتھ نہ دھانی تھ کن (تم نہ مازانی مازس کن) نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً دوپرتہ غیر زان  
 لگ تمن زانہ بیہ لگ دلہ سی اندر ٹھہر خطرہ محسوس کرنہ۔ خبر کمرہ غرضہ چھہ تم آمت۔ کیا زہ تمہ  
 وقتہ بیس شخص کانسہ ہندہ تکلیفہ کہ قصدہ یوان اوس سو اوس نہ تھہدہ گرہ کینہہ کھوان چوان۔ تمبو ملایکو  
 ژئون نہہد کھوژن قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ڈہاس آس ہز چھہ ملک آس چھہ آمت  
 سوزنہ قوم لوٹس کن تمن سزای کفر و نافرمانی دنہ خیطرہ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ ہنز آشین حضرت سارہ آس  
 وودن پڑھین ہنز پڑھہ لازمی کرنہ خیطرہ۔ تمبو ملیہ پڑھین ہندہ نہ کینک حال وچھہ بیہ قوم لوٹسکہ گنج خبر



يَا سُوْحَقَّ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوْبٌ ﴿٤١﴾ قَالَتْ يُوَيْلَيُّ اءَا اِلْدُ  
 وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهَذَا اَبْعَلِيْ شَيْخًا اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيْبٌ ﴿٤٢﴾  
 قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ  
 الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ  
 وَجَاءَتْهُ الْبَشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ  
 لَحَلِيْمٌ وَّاُوَاةٌ مُّنِيْبٌ ﴿٤٥﴾ يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ

بوز سنو کئیہ خوش فضحکت خوش گروہت لُحِ اسنہ فبشر نھا یاسحق ومن وراہ اسحق یعقوب بس  
 ورن اسہ تس بشارت سمعی ملکن ہمدہ ذریعہ فرزندہ سنز۔ نس الخن ناو آوتھاونہ۔ بیہ اسحاق پتہ  
 تسدس فرزندہ سنز بشارت نس یعقوب ناو آوتھاونہ قالت یویلیتی ایلد وانا عجووز وھذا بعلی  
 شیخا سنو لُحِ وندہ کیاہ گدر یوم۔ بوی چھس وون بدھمو۔ وون پر سابو یچھ مجر س منز۔ بیہ چھویہ  
 میون خاوندتہ بدھ۔ انا ہذا الشئی عجیب و واقعی اسہ ڈون بدن نعرہ اولاد سپیدہ پُدن چھو عجیب  
 کتھاہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت تمو ملکو ذوب کیاہ تمہ  
 چھوہ خدایہ سدس کھس نسبت تعجب کران خاندان ہوتس منز روز تھ۔ بیہ چھا تہمدہ قدرتہ نعرہ  
 دور کینہہ۔ خصوصاً چھ تہمدس خاندانس بیٹھ خدایہ سنز رحمت تہ برکت نازل۔ ای ابراہیمہ سند یواہل  
 بیو انا حمید و مجید پز پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو حمد دینہ آمت، سیٹھاہ بزرگ۔ لہذا بجائے تعجب کمر و تہمز  
 تعریف تہ حمد و ثابیان فلما ذہب عن ابراہیم الروع اده یلہ حضرت ابراہیمس نعرہ خوف دور  
 پُدن سن ہمدہ وندہ سیت و جاءتہ البشری بیہ بوز تمو خوشخبر فرزندہ سنز مجادلنا فی قوم لوط  
 تم لگ بحث کرہ لہ سیت قوم لوطس متعلق۔ تم سن پُدن قوم لوطک ہلاک پُدن ناگوار انا ابراہیم  
 حلیم و اواہ منیب پز پانٹھ ابراہیم علیہ السلام چھو حلیم الطبع، نرم دل، رجوع کرہ وون خدا نس گن  
 یا ابراہیم اعرض عن هذا اسہ فرموتس ای ابراہیم لہ خیالہ نعرہ پھیر و انا قد جاء امر ربک

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۶۱﴾ وَلَمَّا  
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِمًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا  
 يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۶۲﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ  
 لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  
 رَشِيدٌ ﴿۶۳﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ

بہن پانچ تھندس بدوردگارہ مند حکم دوت قریب وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ بیشک تم ن پٹی  
 و جھواریہ و ن سوعذاب پس نہ دور کر نہ ایہ و لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِمًا بِهِمْ تو پتہ یلہ سان فرستادہ  
 ملائک وات حضرت لوطس نفعہ نہایت خوبصورت لو کئین ہنزہ شکلہ۔ آزرده سپد تم تہمدہ ہینہ سیت کیا زہ  
 تم آس حسین نوجوان ہندس صورتس اندر حضرت لوطس گو خیال ہم ماچھ انسان پنہ قوی خراب  
 ذہنیت نامعقول حرکت خیال کر تھ سپد مغموم منھکر وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا تمی سبہ سپد دل تنگ تہمدہ  
 ہینہ سیت وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ تم لگ ونہ از جھو سختی ہند دودہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ تمہ پتہ آی  
 تہمدہ قومک بد معاش لو کہ یمن خوبصورت لو کئین ہند لوز تھ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ دوران دوران تم نفعہ  
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ تم آسن برو تھ پٹیہ بچھ کامہ کرن قَالَ يَتَقَوْمِ لوط علیہ  
 السلامن دو کچھ اکی قوم هَؤُلَاءِ بَنَاتِي بچھ ہنھوہ سمہ میانہ کورہ (یعنی میانہ اچھ کورہ) ہیمہ تہمدین گھرن  
 اندر جھہ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ سمہ ہنھوہ پشپاک تہمدہ خیطرہ تم ن ممان لو کئین ہندہ خوتہ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
 پس کھو ژو خدا پس وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي مہ مہ مندہ چھا و پڑھین منز اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  
 افسوس تہ تجب جھو کیاہ توہمہ منزہ ہنھنا کہ زون تہ گائل تہ سبحداریس یہ کتھ فجرہ ترہ ہا پس بین تہ  
 فجرہ تارہ ہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ تمودو یکھ توہمہ جھہ خبری امہ ہنھنہ ہنزن  
 تم ن قومی کورین ہنز کتھی ضرورت کیا زہ امہ ہنھونہ زنان ن ر غبتی وَلَئِنَّكَ لَتَلْعَلُو مَا تُرِيدُ یہ ہنھو

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿۵۹﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ  
 أَوْىٌّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿۶۰﴾ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّهُ سَأَلُ رَبَّكَ  
 لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَلَا  
 يَلْقَىٰ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ  
 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿۶۱﴾

توہم معلومی کہ سون مقصد کیا ہے چھو اس کمہ خیرہ ہجہ یور آمت قال لو ان لی بکم قوۃ لوط علیہ  
 السلامن دو پکھ مجبور سپد تھ ای کاش ہر گاہ مہ تہ توہم سیت مقابلہ کرنک طاقت آسہا تہند شر کر ہا پوائے  
 دفع مگر ٹوٹوئی زون کیا ہجہ کر تھ آو اویٰ الی رکن شدیڈ تہ سمہ ہا بو کھنہ محکم دیوارہ کس  
 ہنہس تل۔ مراد چھو امہ اندرہ کانہ قبیلہ آسامہ سم مہ مد کرہ بن۔ اوتان ہجہ سم ملک لوتہ پاٹھ  
 بہتھ ہنہد حال و چھان سمویلیہ و چھ لوط علیہ السلام سخت پریشان سپدان قالو ایلو ط انارسل ربک لکن  
 یصلوا الیک تمو ملک دو پکھ ای لوط غم مہ برو کینہہ۔ اس ہجہ انسان اس ہجہ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ سوزنہ آمت ملک آسہ ہیکن نہ سم کینہہ تہ کر تھ بلکہ ہیکن نہ سم توہم تہ چھہ کانہ تکلیف واتا  
 و تھ۔ اس ہجہ سم پٹھ عذاب نازل کرنہ آمت فاسر ب اہلک بقطع من البیل ولا یلقیت منکم  
 احد الا امراتک ہس نیرو رات گیت رات ہندس کھنہ حصص اندر پن عیال ہتھ۔ ہتھنہ توہم اندرہ  
 کانہ پتھ گن نظر دیہ۔ مگر نہ تہمز آشن سو گدھہ نہ پانس سیت تلن کینہہ کیا زہ سو چھنہ مسلمان۔ بلکہ اس  
 سوا ہندس گرس منز رو ز تھ جاسوسی کران انہ مصیبتہا ما اصابہم پز پائتس چھو وائے ون سو  
 عذاب ہس بین لوکن وائے ون چھو ان موعدهم الصبح بیہ چھو تم عذاب واتک وقت صبحس تمی  
 ہجہ اس دنان توہم کالہ کالہ نیر وسمہ شہرہ منزہ لوط علیہ السلام آس تیوت پریشان سپد مت تمود و پیک  
 صبحس تان پیارنج کیاہ ضرورت چھہ کالہ کالہ گایو کہ الیس الصبح یقرب صبح ملا کیو دو پیک صبح  
 چھنانزدیک۔ لوط علیہ السلام درای رات کیو توئی امہ شہرہ نغہ دور آس جایہ فلما جاء امرنا جعلنا

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا  
 حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْضُودٍ ﴿۸۶﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَ  
 مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۸۷﴾ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا  
 قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ وَلَا  
 تَنْقُصُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْبِيزَانَ إِنِّي أَرٰكُمْ مُّخَيَّرَاتِي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۸﴾ وَيَقُومِ أَوْفُوا  
 الْبَيْكِيَالَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

عَلَيْهَا سَافِلَهَا پس یلہ سون حٹم جاری سید تہندس عذابس متعلق آسہ کورتھ شہرس تلک پیٹھ  
 تمیک ہیرم طرف کور بون کن۔ بونیوم طرف کور ہور کن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ  
 مِّنْضُودٍ \* مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ بیہ کور آسہ تمن پیٹھ کنہ زود سمہ کنہ کھنگر آسہ پوتس ہتھ۔ تھے کنہ آسہ  
 چانس خدائس نشہ علامت تہ نشانہ تھاونہ آسہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ تم شہر چھہہ کن ظالمین  
 مکہ کین کافرین ہندیوشہر وغیرہ کینہہ دور وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا بیہ سوزاسہ شہر مدین کین کوکن  
 کن بوی تہند شعیب علیہ السلام قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ تمودو کچھ ای  
 میانہ قومہ بندگی کرو کنس خدائس توہہ چھونہ تس وراکی کانہہ معبود وَلَا تَنْقُصُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْبِيزَانَ  
 بیہ مہ چھہنہ راوومین بانہ بیہ تر کر۔ میان آسو پور، تولان آسو پور إِنِّي أَرٰكُمْ مُّخَيَّرَاتِي مہ چھوہ تہہ  
 بوزنہ یوان رتس حاکس منز مالکہ اعتبارہ لہذا اس چیز چھو تہہ آمادہ کران کوکن چھون دس پیٹھ وَ إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ مہ چھو تہہہ حقہ خطرہ باسان تمہ دہہہ عذابک بس دوہ بے شمار  
 عذابن احاطہ کر تھ یاس دوہ اولینن تہ آخر نین احاطہ کر تھ آسہ وَيَقُومِ أَوْفُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْبِيزَانَ  
 بِالْقِسْطِ ای میانہ قومہ بیہ آسو میان پور تولان تہ پور عدل وانصافہ سان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ قَالَ أَوْ أَيْشَعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝ قَالَ يَقَوْمِ آرَاءَ يَتَّبِعُونَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنهَكُمُ

بہ مہ آسول کو کن ہندین چیزن اندر کی تہ نقصان کران وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بہ مہ تلو ز میمنس منز شرکہ سیت تہ بد دینا تہ سیت فساد بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پور میتھ، پور توتھ پس خدایہ سندر زق توبہ پتھ کن روزہ سو پتھو تہ ہدہ خیطرہ سمہ کماہہ خونہ سیٹھاہ بہتر۔ کیا زہ حرامس منز اگر چہ زیادہ آستن، برکت پتھنہ بہ پتھو انجام نمیک نار جنم۔ حلال اگر کی آسہ تتھ منز پتھہ برکت انجام تمیک پتھو رضای الہی تہ جنت۔ ہر گاہ توبہ سمہ تھ ہند یقین پتھو تلہ مانو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ پو پتھوس نہ تہند شکر در بور و زودہ راہجہ پر تھہ وقتہ۔ پو پتھوس پیغمبر توبہ نیم کرہون قَالَ أَوْ أَيْشَعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تہود پ یہ سو روی و عظ و نصیحت پوز تھ ای شعیب کیاہ توبہ چھاپان یہ وہمی تقدس پنن نماز آس کیا تراؤ تہن چیزن ہنز پر ستش کرن تہن چیزن سان مال ہڈب پر ستش کران آی اَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ بہ کیا تراؤ و آس پنہ نس مأس اندر پنہ خواہشہ موجب تصرف کرن إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ بیشک توبہ پتھو ہڈ معتبر پتھہ گاہ جار چہ تھہ کران (یہ دو پتھہ تھنہ پاتھہ) قَالَ يَقَوْمِ فر موو کہ ای میانہ تومہ آرہ یقون ان کنت علی بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا تہہ ونومہ ہر گاہ پو پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ تہہ دلیلہ پیٹھہ قائم آسہ سمہ سیت توحید و عدل ثابت پتھو۔ بہ آسہ مہ تم پنہ طرفہ اکہ بہترین دولتاہ عطا کر مثر یعنی نبوت۔ سمہ سیت مہ تبلیغ کرن واجب پتھو۔ لہذا تھہ پتھہ تراوہہ بو تبلیغ کرن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى



بِعَزِيْزٍ ۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اَرَهِيْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ  
 اتَّخَذْتُمْوُهٗ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۹۲  
 وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا  
 مَن يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاذْتَقِبُوْا اِنِّيْ  
 مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۹۳) وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ  
 اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ

چھو کہ ژہ اسمہ بوزنہ یوان اسمہ اندر سیٹھا پست کمزور وَاَوْلَادَهُظُّكَ لَرَجَعْنَاكَ ہر گاہ لے چاہے  
 خاندانک سے قبیلک پاس آسے تم سان ہم مذہب چھہ اس کرہ ہوت ژہ عنہ کنہ (یعنی سنگار) وَاَتَتْ  
 عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ بیہ چھو کہ نہ ژہ اسمہ نشہ عنہ قسمہ قابلِ عزت سے قَالَ يَقَوْمِ اَرَهِيْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ  
 اللّٰهِ شعیب علیہ السلامن دو یکھہ ای میانیہ قومہ افسوس کیاہ میون قبیلہ چھا توہمہ نش خدلیہ سندہ خوتہ  
 زیادے قابلِ عزت۔ مہ چھہ پنہ نس پانس نسبت کر مژ خد ائس کن وَاَتَّخَذْتُمْوُهٗ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا کیاہ  
 اللہ تعالیٰ چھو ونہ توہمہ تروومت تھر چھہ کئی تمسند چھنا توہمہ کانہہ خیالاہ سے لاناہہ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  
 مُحِيْطٌ ہوش کرو میون پروردگار چھو یقیناً ٹھنزن سارنی کھن احاطہ کرتھہ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ  
 اِنِّيْ عَامِلٌ ای میانیہ قومہ ٹھہ سے روزوپنہ جایہ کوم کران۔ بوتہ چھوس پنہہ جایہ کوم کران  
 سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَن يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ بروٹھہ پن زانوٹھہ کہ کہہہ شخص آسہ سو  
 ئس خوار سے ذلیل کرہ ون عذاب ولتہ۔ بیہ کہہہ شخص آسہ لہزون ون وَاذْتَقِبُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ پیارو  
 ٹھہ بوتہ چھوس توہی سیت پیاران وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اہ  
 یلہ سون حکم تھندس عذابس متعلق جاری سپد نجات دیوت حضرت شعیبس بیہ تمنی سیت ایمان انہ  
 ونین پنہہ رحمتہ سیت وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ ظالم سے نافرمان رٹ جبریل اینہ سزہ کئی  
 کر یکہ فَاصْبِرْ اِنِّيْ دِيَارِهِمْ حَشِيْمٌ پس بے تم پنہ نین گرن اندر ٹھہ کن دستھہ توہ پتہ مود کان

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۹۷﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا  
بُعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿۹۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى  
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿۹۹﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۱۰۰﴾  
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ  
الْمُورُودُ ﴿۱۰۱﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ  
الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا زَن نہ تم من جانن اندر بسانی زانہ آسِ الْا بُعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ وارہ  
بُودو تہ عبرت رثو شہر مدینک لُوکھ تہ گئے خدایہ سزہ رحمتہ نشہ دور تھے پانھ پانھ پانھ قوم ثمود گئے۔  
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم ۖ بِہ سُو اِسہ پز پانھ  
حضرت موسیٰ پنن آیات تہ روشن دلیلہ ہیتھ فرعونس تہ جہدہ قومہ کین ز ثمن کن نئس نہ مون فرعون  
تہ تمسندہ قومہ کیوز ٹھیو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ نئس پک تم تہ فرعونہ سزای رلیہ مَوَجِب موسیٰ علیہ  
السلامہ سندہ حقہ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حالانکہ آس نہ فرعونہ سزای صحیح کینہہ تہ یَقْدُمُ  
قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بروئھ بروئھ آسہ پکان فرعون پنہ نئس قَوْمَس قِيَامَتک دودہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ نئس  
والیکھ نار جہنم اندر وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُرُودُ سبٹھاہ بچھ وئخ جلیاہ جھ نار جہنم۔ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً  
قِيَوْمَ الْقِيَامَةِ دُنِیَاس منزہ روز تم لعنت پئے ہیہ روز کھ پئے قیامتک دودہ تہ۔ پتہ سپد غرق آہس تہ  
پین نار جہنم اندر بِئْسَ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ بچھ اعلاہ ہتھو نئس انعام تم آو دنہ یعنی لعنت فی  
الدارین ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ تمہہ بچھ بعضی خبرہ تباہ کیمتین شہرن  
ہنزہ۔ سمہ آس توہ و نان جھ۔ تموشہرہ و آندرہ جھہ کینہہ شہر و نہ تہ موجود۔ بعضی جھہ مولہ مؤخر ختم گھت



قَائِمٌ وَحَصِيدٌ<sup>۱۰۰</sup> وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا  
 آغَذْتِ عَنْهُمْ إِلَهُتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
 شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ<sup>۱۰۱</sup> وَكَذَلِكَ  
 أَخَذْنَا مِنَ الْقُرَآئِ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذْنَا أَلِيمٌ  
 شَدِيدٌ<sup>۱۰۲</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ط  
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ<sup>۱۰۳</sup> وَمَا  
 نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُودٍ<sup>۱۰۴</sup> يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا

وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اسے کور نہ تین کا نہ ظلم بلکہ کور تمویان پانس ظلم سان نافرمانی  
 کرنہ سیتِ فَمَا آغَذْتِ عَنْهُمْ إِلَهُتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہس ہیوک نہ کانہ  
 فاندہ واتاوتھ تم تہم یو تم مو عبودو تم تہم پر ستش کران آس عبود بر حقس وراى۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ  
 رَبِّكَ یلہ چانس پروردگارہ سند حکم جاری سپد تہندہ عذابہ خیطرہ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ بیہ ہیوک نہ  
 تموی تہم کینہ تہ ہرہ راوتھ تہ زیادہ کرتھ تہ تاولنہ تہ نقصانہ وراى وَكَذَلِكَ أَخَذْنَا مِنَ الْقُرَآئِ  
 وَهِيَ ظَالِمَةٌ بیٹھ پانٹھ کیا چھو آسان چانس پروردگارہ سند رشن تہ گرفتار کرن۔ یلہ سوعنہ شہرہ کین  
 لوکن تہندہ ظلمہ تہ کفرہ سببہ رتان چھو۔ إِنَّ أَخَذْنَا أَلِيمٌ شَدِيدٌ پزپانٹھ تہند رشن چھو سیٹھاہ  
 کڈرتہ سخت آسان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ پزپانٹھ تہہ منز چھہ عبرت تہم  
 لوکن ہندہ خیطرہ ہم کھوژان چھہ آخرتہ کس عذابس ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ سو آخر تک دوہ گو  
 سوئ سیمہ دوہنہ سو نبر نہ بین ساری لوکھ۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ سو دوہ گو سوئ سیمہ دوہنہ ساری  
 مخلوقات سن حاضر کرنہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُودٍ آس چھنہ تہہ منز تاخیر کران مگر اکہ گزرنہ  
 آمتہ مدتہ خیطرہ (یعنی تمکھہ انک تھوقت مقرر کرنہ آمت سو یوتان نہ واتہ توتان قیامت ایہ نہ

يَاذِينِهِ فَبِنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي  
 النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿٥٦﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا  
 يُرِيدُ ﴿٥٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ تُطَاعُ عِبَادٌ يُجِدُونَ ﴿٥٨﴾  
 فَلَاتُكْفِي فِي مَرِيئَةٍ مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا  
 يَعْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنُوفِّقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ

يَوْمِيَّاتٍ لَّا تَكْفُرُ نَفْسٌ إِلَّا بِذَنبِهِ سَمِعَهُ دَوْبَهُ سَوْ قِيَامَتِ لِيهِ تَبِيْهُ هُوَ لَنَا كَ آسَهُ حَالَتِ كَمَهُ كَانَهُ  
 اَكْهَاهُ بِيَسْمَهُ نَهَ كَتَمَهُ كَرْتَهُ خَلَدِيَهُ سِنْدَهُ حَمَمٌ وَرَأَى فَبِنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَوْ كُنَّ آسَنَ زَهَ قَسَمٌ أَوْ آسَنَ اِبْلِ  
 شَقَاوَتِ كَافِرٍ نَهَ نَافِرَانَ - أَوْ آسَنَ سَعَادَاتِ مَنَدِ بِاِيْمَانٍ نَهَ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ نَهَسَ نَهَسَ  
 لَوْ كَهَ شَقِيٌّ آسَنَ تَمَّ وَأَسَنَ نَارِ سَ اَنْدَرِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تَمَّ آسَنَ تَتَهُ جَهَنَّمُ اَنْدَرِ كَرِيكِهِ دَوَانَ  
 كُوْذُهُ كُوْذُهُ قَهْرُهُ كَرِيكِهِ - يَتَهُ يَلِيهِ تَهَكَانَ آسَنَ اَدُهُ آسَنَ دَوَانَ لَوْتِهِ لَوْتِهِ - خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
 السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِيَسْمَهُ رُوْزَانَ تَتَهُ نَارِ جَهَنَّمُ اَنْدَرِيُوْتَانَ آسَمَانَ نَهَ زَمِيْنَ قَاسِمٌ يَهْتَهُ اِلَّا مَا شَاءَ  
 رَبُّكَ مَكْرِيَهُ چُونِ پُرُوْرْدِ گَارِيْشِهِ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ يَهِيْطُ چُونِ پُرُوْرْدِ گَارِ چَهْوَتِي كَرَنِ يَهِيْ  
 يَرْهَانَ چَهْوَهُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ يَهِيْ سَمَّ سَعَادَاتِ مَنَدِ  
 لَوْ كَهَ آسَنَ تَمَّ وَاتَنَ جَنَّتَسَ مَنَزَمَنَ تَتَهُ رُوْزَانَ چَهْوَهُ بِيَسْمَهُ - يُوْتَانَ آسَمَانَ نَهَ زَمِيْنَ قَاسِمٌ چَهْوَهُ اِلَّا مَا شَاءَ  
 رَبُّكَ مَكْرِيَهُ چُونِ پُرُوْرْدِ گَارِيْشِهِ عَطَاءٌ غَيْرَ مُجْدُوْذٍ يَهِيْ چَهْوَهُ شَهْشَاهُ نَهَ مَهْرَبَانِيَاهُ يُوْسَهُ نَهَ ذَهِيْبَهُ وَنَهَ نَهَ  
 خَمَمٌ هُوَهُ وَنَهَ آسَهُ فَلَاتُكْفِي فِي مَرِيئَةٍ مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ نَهَسَ اَنْدَرِ تَمَنَ بَاطِلِ  
 مَعْبُوْدَانَ مَتَعَلِقِ يَمِيْنَ هَنْزِيْمِ گَرَاهُ لَوْ كَ پَرَسْتَشَ كَرَانَ چَهْوَهُ - مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ



أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا  
 مِنَ الْبَيْتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي  
 لِلذَّكِرِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ فَلَوْلَا  
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنْ  
 الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرُوا فَأِيَهُ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَمَا

رَبِّهِ تَوْبَهُ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ بے آسہ نہ توبہ خدا پس وراى کانہہ رفاقت  
 کرہ وناہ دوستاہ **ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ** تو پتہ ابوہ نہ توبہ مدکر نہ **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا** مین  
**الْبَيْتِ** بے تھا ووبرپا نماز شہ یارسول اللہ دوہہ کین دون طرفن اندر۔ یعنی صبح پیشن تہ دگر۔ بے راٹھ ہندس  
 اہس حصص اندر۔ سوگو شام تہ **حَسَن**۔ سمہ بے پانزہ نمازہ پورہ **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ** ہز پانٹھ  
 نیک کامہ ہجھہ گالان بدین تہ ہجھہ کاین **ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ** بے تھہ کہ نیکوسیت ہجھہ گناہ معاف  
 سپدان ہجھہ بذ نصیحت، نصیحت ربہ و نین، مانہ و نین ہندہ خیطرہ **وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ**  
**الْمُحْسِنِينَ** مخرن ہندہ طرفہ اہس معاملہ پیش یوان ہجو تھہ پوٹھ کمر و صبر۔ لوکن ہندس تکلیفیس پوٹھ  
 یا نمازہ ہندس قائم تھا ولس پوٹھ۔ پس اللہ تعالیٰ ہجھونہ ہرگز ضائع کران نیکو کارن ہنز مزور **فَلَوْلَا**  
**كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ** پس کونہ آس تمہہ لوکو آندہ ہم توبہ بروٹھ آس **أُولُوا بَقِيَّةَ** صاحب  
 شعور جماعتہاہ **يَتَهُونَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ** ہم منع آسن کران زمینس منز شرک و گھرہ سیت  
 فساد تہ تباہی کرنہ نعہہ **إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ** مگر ہم کینہہ لوک آسن ہم آسہ نمو عذاب کرنہ  
 آیتو آندہ بچاومت آس۔ تمو ہجھہ پانٹھ پانہ کفر و شرک کہ نشہ توبہ گورتھہ پانٹھ آس مین تہ کفر و شرک کہ نشہ  
 منع کران **وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرُوا فَأِيَهُ** ظالم تہ نا فرمان لوکھ رود عیش و آرام کس حالس پئے۔  
**وَكَانُوا مُجْرِمِينَ** بے آس ہم گنہگار نا فرمان جرایمن ہند خوگر **وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ**

كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ  
 مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۶﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ  
 رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَكَلَّا  
 لَنَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُمْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكُمْ  
 فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ یہ جھوٹے تہند پروردگار سوا کی گالہ یعنی شہرہ کین لو کن ظلم کرتے ہیں تمہ شہر کہ لو کہ آسن اصلاح کرہ دن۔ بین لو کن تبلیغ و دعوت و دعوت و دعوت و لو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ہر گئے بڑھے ہاتھ پروردگار سوا کرہ ہاضر و ساری لو کن سنی (جماعت بعض جتن سُن نظر کر تھے یہ وہ نہ تم تہ بلکہ بناوین واریاہ جماژ سمو اختلاف کور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ روزن تم ہمیشہ اختلاف کرہ دن إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر کرن نہ اختلاف دین جس اندر تم تم یٹھے تہند پروردگار فضل تہ رحم کرہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ای خیرہ چھن کر مت پیدہ۔ یعنی اختلاف کرن وال اختلاف خیرہ۔ رحمتہ وال رحمتہ خیرہ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یہ چھو پور سپد مت چانس پروردگارہ سند یہ لحم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ضرور کرن لو پور نار جنم، جو تہ انسانو سیت امہ و نہ وَكَلَّا لَنَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ یہ چھہ اس تم ساری قصہ، حضرات انبیاءن ہندیو قصو اندرہ توہہ بیان کران مَا نَشِئْتُمْ بِهِ فُؤَادَكَ تمہ قصہ سموسیت اس تہند دل مضبوط کران چھہ وَجَاءَكُمْ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ واژ توہہ نعرہ اتھ منز پر تھ۔ یہ چھو اتھ منز بوڈ و عظ بد نصیحت تہ یاد دہانی با ایمان ہندہ خیرہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَاظِمُونَ یہ و نو تم لو کن تم نہ باوجود قطعی دلیلہ تم نعرہ و اسنہ ایمان اتان چھہ۔ ای لو کو کران گڑھو تہہ کوم پنہ جاہ۔ اس تہ چھہ کوم کران پنہ جاہہ وَأَنْتُمْظُرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ یہ بیار و تہہ پنہ نین اعمالن ہندس

يَوْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَا كَانَتْكُمْ اٰنَا عٰمِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاَنْتَظِرُوا اِنَّا  
 مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَبِاللّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ  
 كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاٰرْبِكْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

نیجس اَس تہ چھہ بیار ان پنہ نین اعمان ہندس نیجس عنقریب نہ پوز کیاہ چھو تہ لہز کیاہ چھو وَبِاللّٰهِ غَيْبُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ بیہ چھو خدایہ سی معلوم تہ سوروی بیہ  
 آسمان تہ زمین اندر پو شیدہ چھو۔ تِسْ كُنْ يٰن وَاِتَاوَنہ ساری معاملات پس کرو تهنزی یا تہ عبادت تہ  
 بندگی۔ بیہ کرو تِس پيٹھ توکل تہ اعتماد وَاٰرْبِكْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ چون پروردگار بے خبر  
 تموکا میونشیہ تہمہ تہہ کران چھوہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرَّحْمٰنِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ۝۱ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۲ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا  
 اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ ۝۳ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ  
 الْغٰفِلِيْنَ ۝۴ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ  
 عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝۵  
 قَالَ يَبْنِيْ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا اِلَيْكَ

الرّ امیک معنی چھو خدایہ سی معلوم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ بپہ چھہ سم آیت اسمہ واضح تہ  
 صاف کتابہ ہند اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا پڑ پانچھ اسمہ کرنازل سو کتاب قرآن مجید عربی پانچھ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تہ تہہ گوڈہ ای مکہ کیو لو کو فخرہ ترہ۔ تہدہ واسطہ ترہ فخرہ بین لو کن تہ۔  
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ اس گرو بیان توہمہ یار رسول اللہ  
 قصو اندرہ بہتر قصاہ۔ سمہ ذریعہ اسمہ سوز توہمہ گن یہ قرآن مجید یعنی بذریعہ وحی وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ  
 لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ آسودہ تہہ سانہ بیان کرنہ برو تہہ اسمہ بشرہ بالکل بے خبر کیا زہ نہ اوسوہ پورمت کینہ نہ اوسوہ  
 کانہہ بشرہ بوزمت کینہ نہ۔ نہ اوس لو کن بشرہ سمہ طریقہ صحتہ سان یہ قصہ مشہور اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيْهِ  
 يَا اَبَتِ سُو وقت چھو قابل ذکر یلہ حضرت یوسفن ہائس پنہ ہائس دون بابہ صیباہہ حض وچھہ خواب  
 اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ مہ حض وچھہ خوابس اندر  
 کاہ تازک یہ آفتاب تہ زون۔ سم ساری و مہم مہ سجدہ دو ان قَالَ يَبْنِيْ تمو فر مووس جواب ای

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ  
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُنَا  
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ  
وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

میانِ گوبرہ لَانْقَضُ ذِيَالِكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ یہ خواب باوزہ نہ بائیں نشہ۔ تم آس کاہ (۱۱) بای حضرت  
یوسف ورا۔ (۱۰) واہ آس اکس ماجہ اٹھ۔ زہ ۲ آس حضرت یوسف تہ بنیامین بیس ماجہ اٹھ  
فَیُکَيِّدُوكِمْ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یہ خواب  
خاص تدبیر شیطانہ سدہ وسوسہ سیت۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ہز پاش شیطان جھو  
انسانہ سندن دشمن وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یہ خواب  
وچھتھ تہ ایہ بعمل۔ یہ کری ژہ ہن پروردگار منتخب نبوتہ خیرہ ہرگزیدہ پنہ نیو مہر بانوسیت۔ یہ پچھ  
ناوی ژہ خوانن ہمدہ تعبیر ک علم وَیُمَتِّعُنَا عَلَیْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ یہ کرہ سو پور ہن نعمت ژہ پیٹھ۔  
یہ حضرت یعقوبہ سندس خاندانس پیٹھ۔ کَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ  
پاٹھ تم پورہ کر ہن نعمت چانس ہڈ بیس تہ ہڈہ ہڈ بیس پیٹھ۔ یعنی حضرت ابراہیمس تہ حضرت اسحس پیٹھ  
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہز پاٹھ چون پروردگار جھو سیٹھاہ علمہ وول تہ حمتہ وول۔ پر ہتھ اکس جھو  
مناسب فیض عطا کران لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ تھنن حضرت یوسف بہ جہندن  
باہن ہمدس قصص منز جھہ ہڈ ہڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک۔ یہ جھہہ ہڈ تک۔ یارسول اللہ تم لوکن  
ہمدہ خیرہ تم توہہ ہمدہ قصص پر ژھان جھہ۔ کیا زہ حضرت یوسف اٹھ بیکی اندر سلطنت تہ  
تھو دمر تہ عطا سپدن جھہ خدایہ سنزی کوم۔ امہ سیت سپدہ مسلمان ہڈ عبرت حاصل۔ یہ قوت  
ایمان إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ



إِلَىٰ آيِنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَ لَأَبَىٰ ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝۷  
 اِقْتُلُوا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلِ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ وَ  
 تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝۸ قَالَ قٰبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا  
 يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِي الْغُوْبَةِ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيٰرَةِ  
 اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ۝۹ قَالُوْا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنْ عَلٰى يُوْسُفَ  
 وَاِنَّا لَنَنْصُوْنُ ۝۱۰ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزِيْرُتَّعْ وَيَلْعَبُ وَاِنَّا

دوره با یوا کھ دوہہ پانہ وان دوپ۔ البتہ یوسف تہ تھند حقیقی بوی بنیامین چھو زیادہ ٹوٹھ سانس بابہ  
 صئیس سانہ خونہ حالکھ اس چھہ واریاہ بای۔ اکھ جماعت تم چھہ زہ بای۔ حالاکھ تم زہ چھہ کم کن تہ  
 لوکت۔ کم سنی مؤکھ یں نہ تھندہ اتھہ تمہہ کامہ سوخذ مت یوسہ سان کن ایہ۔ اس چھہ اکھ بڈ جماعت۔  
 سون گوڑھہ تم ن زیادہ محبت اس ن ایا نا لعی ضلی تبین بیشک سون بابہ صیب چھونہ غلطی  
 پیٹھہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخّل لکم وجهہ ابیکم صلاح چھو یوسف ماریون یاتراویون  
 ڈورنہ جلیہ۔ ادہ روزہ بابہ صئین رخ توہی کن موکل۔ تھند توجہ سپدہ پور توہی کن و تگنو امن بعدہ  
 قومًا صالحین تمی پتہ سپدہ تھنز کوم ڈرست قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوْسُفَ تمونزہ دوتھہ اکھ  
 ونن وولاہ۔ تم دوچھہ یوسف مہ ماریون۔ قتل تہ مازن چھوننا مناسب۔ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ  
 يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيْرِ اِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ بلکہ تراویون سوئنے کیر چہ پو شیدہ جلیہ منز۔ تھہ تمس  
 کانہہ قافلہ تمہہ منزہ کھارت پانس سیت بیہ کنہ شہرس منز و اتاواہ۔ ہر گاہ توہہ یہ کوم کرن چھوہ  
 میانہ مشورہ تلہ کمر ویتھہ پاتھ۔ ساری سپد اتھہ تھہ پیٹھہ مضق۔ چنانچہ اکھ وٹہ گئے حضرت یعقوب  
 یشہ قَالُوا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنْ عَلٰى يُوْسُفَ فہنہ لگ ای سانہ بابہ صیبہ اسہ پیٹھہ کونہ ہز چھوہ تھہ  
 اعتبار کران حضرت یوسف سندس ہنس منز۔ تم کونہ حض چھو کہ اسہ سیت پھیرنہ تہ سیر کرنہ  
 سوزان۔ وَاِنَّا لَنَنْصُوْنُ حالکھ اس چھہ تمسند بڈ خیر خواہ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزِيْرُتَّعْ وَيَلْعَبُ

لَهُ لِحْفُظُونَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غِفلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَئِنْ آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخٰسِرُونَ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾ وَجَاءَ وَوَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا يَا بَانَ نَوَا إِنَّا ذَهَبْنَا

سوسز یون پگاہ اہہ سیت چنگن اندر کھیہ میوہ۔ بہہ پھیرہ تھورہ اورہ یور۔ ذرا کڈہ و اشاہ۔ تہہ مہ بر و کانہہ اندیشہ و انا لہ لِحْفُظُونَ اس ساری جھہ تہس را جھہ تہ حفاظت کرہ و ان قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غِفلُونَ حضرت یعقوبن دیکھ مہ جھو تھندیہ پانس سیت نیون پریشان کران (کیازہ آسنز دوری جھس نہ نو ذرہ وان) بہہ جھوم خطرہ گھوہان اس ماکھیہ رامہ ہون (اتھ شہرس منز آس سیٹھاہ رامہ ہون) تہہ آسوپنہ کلمہ سیت مشغول اسن روزہ وہ نہ خیالی۔ ائمہہ حالہ رُوزو بے خبر قَالُوا لَئِنْ آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخٰسِرُونَ تمو دوپ اس ایڑ بڈ جماعت سیت آتھ ہر گاہ امس رامہ ہون کھیہ تلہ جھہ اس بڈہ تاوان زوتلہ جھونہ اہہ اعتباراہ کیہنہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ تہس یلہ بہ حضرت یوسف تمو پانس سیت نیو و اجمعوا ان يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ بہہ کور تمو ساروی اتفاق سابقہ فیصلہ موجب کہ بہ تر او یون کیر چہ پوشیدہ جلیہ منز (چنانچہ اکھ کیورہ اوس امہ طرفہ۔ تھ منز تر و ڈکھ) وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ امہ سوزو جی حضرت یوسفن کن (غم مہ بر کیہنہ۔ اکھ وقاہ و اتہ) تہہ پاوکہ تمن بہ سوزوی کر توت ت تیس تم آسنہ نہ تہہ پرزہ ناوانی وَجَاءَ وَوَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ تو پتہ آئی تم بابہ صھیس پنہ نس ریشہ کلہن ودان ودان قَالُوا يَا بَانَ نَوَا إِنَّا ذَهَبْنَا سَتَمِينُ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ و ہنہ لگب اے سانہ بابہ صیہ جھوہ نا یوزان اس لگیای پانہ وان دورہ اندر مان مان

نَسْتَيْقُ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبَابُ وَمَا  
 أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ  
 يَدَمٌ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَدُّوا  
 جَبِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ  
 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يُسُورِي هَذَا عِلْمٌ  
 وَأَسْرُوكُمْ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرَوْكُمُ

کرنہ یوسف تھا یو اسہ سامانس رنہہ راجہہ اتی آڈرامہ ہون تمی کھیو سو ۱۷ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا  
 صَادِقِينَ مگر نہہ کتہ کمر داسہ پڑہہ ہر گاہ اس پوزتہ ونان آسو ۱۸ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ يَدَمٌ كَذِبٌ بیہ  
 اچھ تمہن بر ونٹھ کن تہنہ کرن اپڑر تھہ تھتھہ قَالَ حضرت یعقوبن دو پچھ یہ تھہ پچھہ یوسہ نہہ ونان  
 چھوہ۔ ہر گاہ بیہ رامہ ہون سنز کوم آساملہ آسہنی اتھہ کرنہہ رامہ ہون سندین ٹو پین ہنہ زخم۔  
 حقیقت بیہ پچھہ نہہ نہہ بیان کران چھوہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً بلکہ چھوہ نہہ نفس پنہ نین  
 بیہ کویستان مشکل کوم کرنہ خیطرہ تہلاومتِ فَصَدُّوا جَبِيلٌ ۗ وولن پچھو میانہ خیطرہ صبر کرنوی جان  
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بیہ چھوس بواللہ تعالیٰ سی یاری منگان تھہ دردناک واقفس پیٹھ نیس  
 نہہ ونان چھوہ ۱۹ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ۗ بیار پیو پو اچھہ اکھ قافلہ اکھ تھہ کیرس ککھ تل پچھہ منز حضرت یوسف  
 اوس فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً پس سوز تمو پین آب سازن وول تم ترو بوجہ پین کیرس منز  
 تورہ کھوت بچس اندر نندہ ہون محبوباہ حضرت یوسف قَالَ يُسُورِي هَذَا عِلْمٌ تہس یان تہس کن نظر  
 پیہ سولوگ کر کیکہ تلٹھہ دہنہ ہالو کو خوشخبر بوینوہ۔ بیہ چھو اکھ خوبصورت فرزندہہ وَأَسْرُوكُمْ بِضَاعَةٌ  
 تو پتہ ٹھو کھ کھنٹھہ مال تجارت بناوتھہ۔ خیال کوز کھ کہہ بیہ ہتھہ گھوہو مصرس منز کانہہ بڈس امیرس  
 کون ہتھہ۔ خوب نفع تہہ فاسیدہ سپدہ حاصل وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ای اوس تہہ سوزوی پوز

بِشَيْنِ بَيْتِنِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٥٠﴾  
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ  
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

زنان یہ تم کران آس۔ دورہ باہی آس عنہ کنہ وقتہ تھہ گیرس بھتھل یوان کھین چین و اتناوان تم آس نہ  
 یڑھان حضرت یوسف گروہہ کیرس منز ہلاک سہدن۔ بلکہ گروہہ کا نہہ شخصہ تمس کیرہ منزہ کڈ تھہ بیہ کنہ  
 شہرس و اتناوان۔ بیہ گروہہ نہ کنہ طریقہ حضرت یعقوبس اطلاع سہدن۔ غرض تمہ دوہہ نہ آی تم کیرس  
 بھتھل۔ تیرہ و چھ کنہ حضرت یوسف کینہ نہ۔ توپتہ آی تم اتھہ قافلہ نعرہ۔ تمن دوچھہ بیہ چھوسون  
 ژولمت غلام اس چھن نہ یڑھان بیہ پانس نعرہ رُن و شَرَوْكًا بِشَيْنِ بَيْتِنِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ توپتہ کن  
 تمہوورہ بانہ حضرت یوسف کم مولس کنیون درہمن لمہ قافلہ کین کنیون شخصن یاکن اہل قافلہ و کانُوا فِيهِ مِنَ  
 الزَّاهِدِينَ تم ہینہ وال آس تہمدس مول ہمیں اندر بے میل نہ بے رغبت لاگان (توپتہ نیو تمویہ  
 حضرت یوسف پانس سیت تہ و اتناو کھ مصر مصرس منز آؤ یمن نیلام کرنہ۔ آخری بول سپز عزیز  
 مصرس پیٹھ ختم۔ بالاخر ہیوت تمی حضرت یوسف مل وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ  
 أَكْرِمِي مَثْوَاهُ توپتہ وون مصرک تم شخصن یم حضرت یوسف بتولا کہ منول ہیوت (یعنی عزیز  
 مصرن) زنانہ پتہ نیس زیلجانا و اوس سمنس کوکت سنز جای تھاوڑہ سیٹھاہ بلند یعنی اہس کرڑہ سیٹھاہ قدرتہ  
 تعظیم عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا شاید بیہ ماوانتاوہ اسہ فایدہ۔ تھہ پاٹھ روچھمت لوکٹ بکار یوان چھو  
 اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا بلکہ رچھون اس بیہ گو برہ گرنز (کیاڑہ اسہ چھونہ پانس اولاد کینہہ) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا  
 لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ای طریقہ ڈیت اسہ حضرت یوسفس تھو دمقام مصرہ کس سرز مینس اندر۔ بیٹھ  
 سو مصرس اندر تھدس مقاس پیٹھ روز تھہ امور سلطنت مہارت حاصل بیہ کمر تھہ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ  
 تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ بیہ بیٹھ اس سو بچھناوون کھن ہند معنی تہ مطلب (تمی منزہ گو خواہن ہند تعبیر۔

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ  
 أَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۲﴾  
 وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  
 إِنَّهُ لَا يُفْلِكُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ  
 رَبَّهُانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ

غرض اوس تمن نجات وندہ اندرہ دولت ظاہری و باطنی سیت نوازش کزن واللہ غالب علی امرہ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو غالب پنہ نس یڑھتس امرس پیٹھ۔ یہ سو یڑھان  
 چھوتی چھو بنان مگر واریاہ لوکھ چھہ زانان و کتابلغہ اشدہ آتیناہ حکمًا وعلما تو پتہ یلہ حضرت  
 یوسف ووت تو چھس کما س یعنی کامل جوانی عطا کوراسہ تس گانہ جارتہ علم و کذالک بنجری  
 الْمُحْسِنِينَ سبھے پاٹھ چھہ اس رتھہ کامہ کرہ وینن رت جزاودان و رَاوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ  
 نَفْسِهِ بیہ لچ پتہ حضرت یوسف سو زمانہ سمسندس گرس منز سو اوس چھمد حسن و جمال و چھت  
 چھہ کامہ خیطرہ۔ اکہ دوہہ لوہن موقعہ رٹن تم خلوت و غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ چھن ہند دروازہ کمر بند  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ تو پتہ لچ نہنہ جلد پین ولہ۔ میون تمناکر پورہ تمودوہل بیہ گس چھہ ونان۔ دوہن  
 تھہ چھسی ونان بوکمر تھس تارہ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ حضرت یوسف دوہل پناہ بنجا رتھہ تھسی مہ مگر اِنَّهُ  
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ پز پاٹھ ام چان خاندازن عزیز مصرن رو چھس بو، پولس یور تھہ جلیہ تھو و نس  
 بوکیاہ بوکر اتھہ احساس بدل تمند عزت داغدار یہ گو سر اسر ظلم اِنَّهُ لَا يُفْلِكُ الظَّالِمُونَ پز پاٹھ  
 تھن ظالمن تہ حق فراموش ہندہ خیطرہ چھہ کانہ کامیابی۔ اکثر چھہ امہ قسمک لوکھ زیادہ دنیاسی منز  
 ذلیل تہ رسوا سپدان آخر تک وبال گو آتھس وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَبَّهُانَ رَبِّهِ  
 پز پاٹھ زینجا یہ کر یوقصد تمن نشہ پیچھ کامہ ہند۔ تموتہ ہر گاہ نے تم وچھ بن پنہ نس ہر دو گارہ سنزن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۴﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۶﴾

دلیل مگر تمہند ارادہ عزیمت در جس دوت نہ۔ بلکہ تمہند ارادہ اوس روزہ دارہ سند آب سرد و چھت آئس کن رغبت سپدان ہی۔ تمہ رغبتہ سیت و تمہند روزہ پختان۔ بلکہ چھور رغبت سپد تھ پٹن پان ہتھ رٹن تہ صبر کردن باعث اجر و ثواب بنان گنڈاک لیتصرف عنہ السوء و الفحشاء۔ تھتھ پاتھ ڈیت آسہ تمن توفیق عصمتک تھتھ دور کرو اس تمن نشہ بدی تہ بیچھ کوم إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے شک سو حضرت یوسف چھو سانیو برگزیدہ بند و اندرہ، پیغمبر و اندرہ تمن عصمت و پاکی لازم چھ۔ امہ زلیخا تہ کوریہ پٹن خیال پیش۔ حضرت یوسف ٹل پٹن پان بچاوندہ خیطرہ سو دور بیچھ پتہ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ دو ٹوے دورے یہ دروازس کن حضرت یوسف ٹل خیطرہ، زلیخا تمن رفتہ خیطرہ۔ تمہ لای تمن تھپ سو آہہ ہنزہ کہ متہ تھر کن کرتن آہہ ژھینتہ وَ أَلْفَيَْا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ دو شون سمٹھ خاوند زلیخا تہ ہند دروازس تل زلیخا ویرسیہ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زلیخا تہ دوپ کانہ سزا چھونہ تس شخصس چانین باژن سیت تھتھ کامہ ہند ارادہ گرہ مگر ای زہ سو بیہ جیلنس منز بند کرنہ یا ایس سخت دردناک عذاب کرنہ قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي حضرت یوسف تہ دوپ تہ چھ مہ کن اشارہ کران حال اکہمہ کیے چھ پتہ لچھ مہ مہ نشہ پٹن مطلب کڈنہ خیطرہ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا اتھ موقعس پیٹھ و ژگوای تمس دوی رشتہ دار و منزہ اک شیر خوار بچن حضرت یوسف سندس بری تہ پاک آس پیٹھ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تمہ دوپ ہر گاہ حضرت یوسف سز کرتن برو تھمہ طرفہ ژھینتہ

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ  
 الصَّادِقِينَ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
 كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾ يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا  
 وَاسْتَغْفِرَ لِي لِذُنُوبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن  
 نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۲۰﴾  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا

آسہ، تلہ، جھہ زلیخا پوزوان۔ حضرت یوسف جھو تھہ بدل وان۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ  
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ہر گاہ تہنہ کرتن تہنہ کرن ژ ہیمو آسہ تیلہ جھہ زلیخا پوزوان حضرت  
 یوسف جھو پوز زور۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ  
 تہنہ خاوندن وجھہ تہنہ کرتن تہنہ کرن ژ ہیمو دہن زلیخا یہ کن یہ جھہ تہنہ شیطنت تہ چالاکی۔ پوز پاٹھ  
 تہنہ مکرو فریب تہ شیطنت جھہ سہٹا ہنڈ۔ يَوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا اے یوسف امہ نغمہ پھیرو، یہ  
 تھہ ژو۔ وَاسْتَغْفِرَ لِي لِذُنُوبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ای زلیخا ژہ منگ معافی پنہ نہ  
 قصورہ خیرہ۔ بیشک ژہ جھہ خطا کار تہ مجرم۔ تو پتہ سہڈیہ معاملہ مشہور شہرس اندر چنانچہ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ مصرس اندر لجرہ واریاہ زنانہ ونہ عزیز  
 مصرہ سزہ آہنہ جھو دل لوگت پنہ نس غلامس پتہ۔ سوہ جھہ لجمو پتہ نس غلامس ہن ناجاز مطلب کڈنہ  
 خیرہ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تہنہ دل جھو پھٹمت تہنہ محبتہ سیت۔ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس  
 چھن سوزانان ڈجمو۔ کیاہ گوس وارہ کارہ زون آتھہ نو کرس پتہ پھس۔ یہ کاژارہ سوائی تہ خجالت جھہ۔  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ہس یلہ زلیخا یہ نوز زنانن ہنزیہ بدگوئی تہ ملامت کرن۔ تہہ

وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهَا فَلَمَّا  
رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا  
إِنْ هَذَا إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنِّي فِيهِمْ  
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ  
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

سوز تین نادر دُور پتھ ای زانو توہم ہتھ میانہ گرہ دعوت وَاَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَنَازِحًا سجاو تھ تھاون تہمہ  
خاطر ہ مندر، تکیہ وار تو پتہ بلکہ تمہ زانہ آہ تہن برو تھ کنہ آئی تھاونہ کھینہ چینگ چیز بیہ واریاہ میوہ سمو  
منزہ واریاہ میوہ شر اکہ پھوسیت ژنس قابل آس۔ وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا لہذا دین پرستہ  
اکس سمو زانو اندرہ اکہ شر اکہ ہچاہ میوہ ژنہ خیطرہ (بلکہ تمہ زانہ مشغول سپزہ میوہ ٹھینس سیت  
وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهَا زینجاہیہ ڈوپ حضرت یوسف سم بیہ کتھ منز آسہن تہہ نیر ونا نیر تہن  
زانن برو تھ کن۔ چنانچہ درای تم قَالَتْ رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ کس بلکہ سمو زانو حضرت یوسف وچھہ سیتھاہ  
بوڈگز روو کھ حسن وجمال اندر۔ سو وچھتھ ویر بیہ ہوش روو کھ نہ کینہہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تو پتہ  
سپزہ بے اختیار میوہ بدل ژنہ تھہ ہن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ بیہ دو پھہ منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ ماہذا  
بَشَرًا بیہ حضرت یوسف چھونہ بشر (بشرن اندر چھونہ تھہ حسن وجمال آسہ وچھتھوی) إِنْ هَذَا  
إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ بیہ چھونہ مگر عزت وول ملاک۔ انسان اندر کتھ چھو تھہ حسن وجمال آسان البتہ ملکہی چھہ  
آسان تھہ نندہ بان قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنِّي فِيهِمْ زینجاہیہ دو پھہ یوہے کیا گو سو صاحب سمندرہ مجبتہ  
چہ پامہ ڈوہہ توہمہ مہ کہ زینجاہیہ چھو غلاما پتھ دل لوگت۔ آوہ دوولن بوزنہ بوما چھس بل قیمہ۔ خیر نیس  
بیہ ونہ تہ تہ مہ چھونہ کانہہ ہزن پان ہند ہروا۔ بو چھس نن پاتھ وناں و لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ہنز  
پاتھ مہ کمر نیس اتہ تھہ۔ تہند دل پانس کن پھرنہ خیطرہ کہ سو کرہ نامیان خواہش پورہ فَاسْتَعْصَمَ مگر تم  
کمر کوشش مھنوم تہ پاک روزن۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ ونہ تہ چھس بودان نیس ہر گاہ نے سو میان



إِلَى مَتَابِدُ عُونِي إِلَيْهِ وَالْأَتَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  
 إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ الْجُهْلِينَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  
 كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ قَالَ

خوہاں پورہ کرہ لیسجنتن و لیکناتین الضعیرین تلبہ لہ سو ضرور قید تھاونہ۔ بیہ سپدہ سو بے قدر تہ  
 بے اعتبار۔ یمہ زنانہ اتھ مجلسہ منز آسہ تمو دوپ زلیخایہ کہ اس مانراون یہ۔ آسہ دکھنا اس سیت تھ  
 بات کرنک اجازت۔ تمہ دوپھج اوہ کیا۔ کنیوہا ہے کترہ ہو۔ چنانچہ تمہ درلیہ کلمہ اس سیت اس پت  
 فریفتہ سپر مزہ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَتَابِدُ عُونِي إِلَيْهِ حضرت یوسفن یمہ وچھ زنانن ہندیہ  
 حال کہ کوپاٹھ کنیہ سمہ اگادہ تمکن کیاہ بنہ۔ چنانچہ تمو کور دوعا۔ موگھھ خدائس ای میانیہ پروردگارہ قید  
 خائے چھومہ زیادہ پسند تمہ پیچھ کامہ خوتہ تھ گن مہ سمہ زنانہ نادووان چھہ وَالْأَتَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ  
 أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِنَ الْجُهْلِينَ ای میانیہ خداہیہ ژہ لے دور کر کہ تہ پھیر کہ مہ نشہ تہند مکرو فریب  
 خبر چھا بوماسدہ مابل تمکن زنانن گن۔ بیہ بنہ بوناد انواندرہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ  
 پس کور اللہ تعالیٰ ان اجابت تہندس مگنکس تمکن زنانن ہند مکرو فریب پھرن تمکن نشہ  
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پزپاٹ سو چھو دوعا بوزہ ون سیٹھاہ زانن دول۔ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ تمہ پتہ آو بوزنہ تمکن قرین مصلحت کینہہ کالاہ حضرت یوسف  
 قید تھاون۔ باوجود اینکہ تمو آس واریاہ نشانہ تہ علامت تہندہ براء تک تہ پاکی ہند وچھمت۔ مگر عوامن  
 اندر تمیک چرچہ منقطع کرنہ خیطرہ ہیہ دوپر شہرک اکھ بے کس انسان غلامی ہندس حالس اندر تمکن تہہ  
 کرہ باحمایت چنانچہ تھاوک تم بے جزم کینہہ کالاہ جیل خاس اندر وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ بیہ وات  
 تمکن نشہ قید خالس منز نوجوان جوراہ پادشاہ سند یو خد متگا رواندرہ۔ اکھ اوس ساتی۔ بیاکھ اوس ژوچہ  
 تھران۔ تمکن دون متعلق اوس یہ جزم تمکن پیٹھ اوس شہ کہ سم آس پادشاہس زہر و تھ مارن یرٹھان

أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرَانِي أَرَانِي أُجْلُ فَوْقَ  
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ لَا يَا بَيْتِكُمْ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۸﴾  
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانَ

تموی دیووزینوون پین خواب حضرت یوسف قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَعْصِرُ خَمْرًا ایک زن دُوپ مہ  
حض وچھ خواہس اندر زن بُو دَھہ رَس چیران۔ وَقَالَ الْآخَرَانِي أَرَانِي أُجْلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ  
الطَّيْرُ مِنْهُ بے زن دُوپ مہ حض وچھ زن بو کلس پیٹھ ژوچہ تلان تموی ژوچو منزہ جانوار کھیوان  
بِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اَسْمَ وَنَتَهْ اَسْمَ ہر اَسْمَ ہر جھو کہ ژہ بیوان بوزنہ  
نیو کارواندرہ قَالَ لَا يَا بَيْتِكُمْ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حضرت  
یوسف دوچھ توہہ نشہ کھن واسنہ بروٹھ کرہ بویان توہہ تمہ خوانج تعبیر ذَلِكُمْ مَاعَلَمْنِي رَيْ  
خوابک تعبیر بیان کران جھو تموی علمو اندرہ تم علوم بو پین پروردگارن پچھہ ناس (گوڈہ بوزومیون  
عقیدہ کیاہ جھو) اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ پزیا پچھہ مہ جھو  
ترومت تمن لوکن ہند دین تہ مذہب تم نہ پڑھہ کران جھہ معبود برحقس۔ بیہ جھہ تم آخرتس تہ انکار  
کران وَاَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بو پچھس پتہ پتہ پکان متابعت تہ پیروی کران  
پنہ نین مالین بڈین ہدس دینس۔ تم گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جد بزرگوار میون۔ حضرت  
اسحق علیہ السلام بڈ بابہ صیب میون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بابہ صیب میون۔ سمہ مذہبک رکن  
اعظم جھو مَا كَانَ لَنَا نَاسٌ شَرِكٌ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہر گز پڑہ نہ اَسْمَ اس کیا بناوون خدایہ سُنْد شریک کانہہ

لَنَأَنَّ شُرَكَاءَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا  
 وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ يُصَاحِبِي  
 السَّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾  
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ  
 آبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَِا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  
 أَمَرَ الْأَتْعَابُ وَالْآيَاةُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ

چیزا ہنڈہ چیزس اندر ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون سبہ  
 قسمگ صحیح اعتقاد آن ہتھو خدایہ سبز بڈ مہربانی تہ بوڈ فضل اسہ پیٹھ تہ بیہ سارنی لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ  
 لوکھ چھنہ اتھ نفیس قدر کران۔ اسمہ حاصل کرنج کوشش کران یصاحبی السجین ءأرباب  
 متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ای میانو قید خانہ کیو دور یوقو تھی دتھو کیاہ واریاہ معبود آن  
 الگ الگ چھارت بکنہ سئوی معبود آن۔ ائس قوتہ وول ہتھو۔ امیک جواب ہتھو ظاہر کہ سئوی معبود  
 چھورت ما تعبدون من دونه الا اسماء سببتوہا انتم و اباؤکم تہہ چھوہ نہ عبادت کران  
 خدائس ورا ای مگر کیون ناون ہنز تم توہرہ بیہ تہند یو مال یو بڈ بیو تھامت چھہ کیون پو تیلن مقرر کر تھ  
 ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ ان چھنہ سوز مژ تہرہ معبود آسنہ خیطرہ کانہہ دلیلاہ۔ نہ عقلی  
 نہ نقلی۔ ان الحکمہ الا للہ عنہ کامہ ہندہ حکم دنگ اختیار چھونہ کانہہ خدائس ورا ای امر الاتعبدوا  
 الا ایاتہ تم چھو حکم کورمت ای زہ کانہہ ہنز عبادت مہ کمر و مگر تہنزی یا تھ۔ اتھ کھس پیٹھ گھوہہ عمل  
 کرن ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یوہے ہتھو یعنی اللہ تعالیٰ ای مخصوص  
 کوزن توحید و عبادتہ سبت راہ راست تہ سبزی و تھ۔ مگر واریاہ لوکھ چھنہ زانان۔ بیہ کتھہ چھنہ اختیار

فَيَسْتَقِي رَبَّهُ خَيْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ  
 مِنْ رَأْسِهِ طَفِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٣١﴾ وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ  
 الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٣٢﴾  
 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ سِتِّ يَأْيَهَا

کران یصاحبی السجین امّا آحد کما فیستی رَبَّهُ خَيْرًا ای میانو قید خانہ کیور فیتو توہہ اندرہ  
 ئیس اکھ شخص پادشہس شراب اوس چاوان۔ سو سپدہ جزمہ نغمہ بری۔ تو پتہ سپدہ پتہ کامہ پیٹھہ ہیر  
 بحال۔ تو پتہ ہیر سو بیہ پتہ نس مالکس شراب چاویج کام کرن وَاَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ  
 رَأْسِهِ وون ئیس بیاکھ زون پھو ئیس پادشہہ سُد باورچی تہ توچہ ٹھرہ وون اوس تمس پیٹھہ سپدہ جزم  
 ثاہت۔ تو پتہ بیہ سو پھہہ ونہ۔ تو پتہ گھین جانور تمسہہ کلک کوڈ قَضَى الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ  
 یہ فیصلہ پھو آمت کرنہ خدایہ سندہ طرفہ۔ سمیک ٹہہ پر ژھان جھوہ۔ اتھ سپدہ نہ ادلہ بدل وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا تو پتہ وون حضرت یوسفن سموودو اندرہ تس شخص ئیس نجات لہن  
 اوس تہمہہ گمانہ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ میون تذکرہ کوڑتھ ژہ پتہ نس آغس تہ مالکس نغمہ یلہ ژہ تس  
 نغمہ واک۔ کہ قید خانس منز پھو اکھ شخصاہ بے تصور فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ئیس مشروو تس  
 شیطان آغس نغمہ حضرت یوسفن حال بیان کرن فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تمہہ موکھ زود  
 حضرت یوسف قید خانسی اندر کیون ورنہن وَقَالَ الْمَلِكُ مصرک پادشہن دوپ مہہ وچھ خواب۔  
 ساری ار اکین سلطنت کرن جمع رَئِي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ مہہ وجھہ  
 خواہس اندرست (ک) گاوہ وچھہ وچھہ۔ تمنی کھیوان ست (ک) گاوہ ہو چھمہہ تہ لاغر وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
 وَأُخْرَىٰ سِتِّ بیہ وچھم ست (ک) ہیل غلک سبز تازہ ہیر (ک) ہیل ہو کھمت۔ تہہ ونہ یوان سر سبز ستن

الْمَلَأْتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالَ الَّذِي نَجَمْنَاهَا مَا دَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ  
 فَأَرْسِلُونِ ﴿۳۵﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ  
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
 يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

ہیلین توپتہ تم پر ہو کھت گروہان یَا أَيُّهَا الْمَلَأْتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ای  
 دربار یو بیان کمر و تعبیر میانہ خواہگ جھوے جہہ خوانن ہند تعبیر زانان قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ  
 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ تمودوئس تم جھہ پریشان خیالات۔ اس جھہ نامہ قسمہ کین خواہن  
 ہند تعبیر کینہہ زانان۔ کیا زہ اسمہ جھہ ملکی انتظام کرچ مہارت۔ تعبیر خواب بیان کرچ مہارت جھہ  
 اسمہ وَقَالَ الَّذِي نَجَمْنَاهَا توپتہ دوپ تم شخصن ئس قید خانہ منزہ موکلیومت اوس، مقدس منزبری  
 سپد مت اوس پادشہس نشہ بیہ ووت مت اوس تمودو یوزنیواندرہ یم قید خالس اندر حضرت یوسفس سیت  
 آس وَاذْكَرْ بَعْدَ أُمَّةٍ تِس بپہر تریس واریاہہ کال حضرت یوسف سزوصیت یوسفہ تمود قید خانہ منزہ  
 نیرجہہ وقتہ کر مرث آسہس۔ تم دوپ أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ بوونوہ توہہ تعبیر مہ دیو تہہ  
 اجازت قید خالس تان گروہگ۔ تمودیت ہس اجازت تہ سو آو حضرت یوسفس نشہ۔ عرض کوژن  
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ای حضرت یوسف جہہ ہر جھوہ سیٹھاہ پوزتہ صحیح تعبیر کرہون اَفْتِنَا فِي سَبْعِ  
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ اسمہ کمر تو بیان اسمہ خواہگ  
 تعبیر کہ ستن و پچھن گاؤن جھہ (سٹ) ہو جھوہ گاہہ کھیوان۔ بیہ جھہ ست ہیل سبز تہ ست ہیل  
 ہو کھت۔ تم ست ہیل تہ جھہ ستن ہیلن ولنہ سیت ہو کھر اوان۔ ای جھوہ اکھ شخصہہ خواہس  
 منز وچھان۔ جہہ فرماو یو امیک تعبیر لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ تھہ بو واپس گروہہ ہاتمن

سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا  
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي  
 بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ  
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

لوکن کن سمو بوسوزمت چھوس۔ تمن بو تھیجھ آمت چھوس تھ تمن امیک تعبیر معلوم سپدہ۔ تمی  
 ذریعہ سپدہ تمن تہنر حقیقت کمال معلوم قال رزعون سبعمینین دابا حضرت یوسف دوئس تہہ  
 وودوار ہا پتھ غلہ سن ور بن پوئس پتھ فمأحصدتم فذروہ فی سنبلہ الاقلیلہ مماتاکلون ہس  
 یہ کئیہ ہاتھہ لوئوتہ سوزوی تھا ووتہہ ہیلنی منز جمع کر تھ۔ مگر نہ کم کئیہ ہا ہس توہہ کھینس پوشہ ٹو یاتی  
 من بعد ذلک سبع شداد تو پتہ من یہہ (کت) وری سیٹھاہ سختی ہندتہ قحطک یاکلن ما قدامہن  
 الاقلیلہ مما تحصنون تم (کت) وری کھین تھ غلہس ہس توہہ جمع کر تھ تھوومت آسودہ ذخیرہ کر تھ یکن  
 سختی ہندین ستن ور بن ہندہ خیطرہ مگر نہ سوجھہ ہس تہہ ٹھوس تھا وویالہ خیطرہ۔ ستو گا ووتہ ستو بیلو  
 اندرہ چھو اشارہ یعنی سن ور بن کن۔ ٹو یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس و فیہ یعرشون

تہہ پتہ بیہ اکھ دریاہ۔ تھہ منزایہ لوکن پیٹھ رود تراونہ کافی۔ تھہ ور ہس منز چیران لوکھ میون ہند رس  
 تھہ شراب تیار کرن۔ یہ تعبیر یلہ یوز یاد شہن سو گو خوش چنانچہ وقال الملک انتونی بہ یاد شہن کور حکم  
 یہ تعبیر بیان کر ہون شخص دیون مہ انتھ۔ بوو چھن یہ تہہ صاحب چھو فلما جاءہ الرسول قال ارجم  
 الی ربک ہس یلہ تمن نشہ پادشہہ سد قاصد او پیغام ہیٹھ تمودوئس ژہ گدھہ والہس پتہ ہس مالکس نش۔  
 فسئلہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن تہس پر ژہ گوڈہ کیاہ تہس چھا معلوم تمن زنانن ہند حال  
 سمو بو دھت پن اتھ ژچای۔ ان ربی بکیدیہن علیہم پتہ پانٹھ میانس خدایس چھو تہہ مکر تہ

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِ يُّوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ  
 لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ  
 الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۵۱ ذَلِكُمْ لِيَعْلَمَ  
 أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۵۲  
 وَمَا أBRئى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

فریب پورہ معلوم۔ تمن زانن ان نادو تھ تمن پر ژهن میون حال۔ بو جھوسہ بے تصور کنہ مہ جھو  
 کانہ تصورہ چنانچہ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِ يُّوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ پادشہن اُنہ ناوہ تمہ سارے زنانہ  
 نادو تھ۔ تو پتہ ہر ژھکھ کیاہ کیفیت جھہ تمہز یلہ جہہ تہلاوان آسوں حضرت یوسف پند پانہ خیطرہ کیاہ  
 توہہ وچھوہ تمہ ساتھ حضرت یوسف توہہ گن مایل سپان قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ سار  
 وی زنانو ڈوپ خدا جھو منڑہ تہ پاک۔ اُسہ وچھ نہ حضرت یوسف منز کانہ خرابیاہ کانہ عیباہ۔ سو جھو  
 بالکل پاک قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ عزیز مصرہ سزہ زنانہ (زیلیخا) یوسہ تمہ ساتھ  
 حاضر آس تہ وون۔ پز کتھ سہز وون سارنی پیٹھ روشن اَنَّا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ واقعی بوی آس تمن  
 اُنہ گتھ کران پن خواہش تہ مطلب تمن نیشہ پوزہ کرنہ خیطرہ بیہ جہند دل پانس گن پھر نہ خیطرہ کوشش  
 کران وَانَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تم جھہ بے شک پوز ونہ وینو اندرہ۔ تمو فر موو گوڈنی ہی راود تنی عن  
 نفسی تی جھو پوز۔ بوی آس کوشش کران ہم پانس گن مایل کرنج۔ مگر بوسہزس تھہ منز ناکام۔ یہ  
 ساری کاروائی تفتیش یلہ قاصدن حضرت یوسف نیشہ بیان کمر تمو ڈوپ ذَلِكُمْ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ  
 بِالْغَيْبِ تفتیش کروومہ امی موکھ بیٹھ عزیز مصرس وارہ معلوم سپد کہہ مہ آسنہ ہرگز تس خیانت کمر  
 تسزہ عدم موجودگی منز تسدس عزتس و آبرواس پیٹھ دست درازی کمر مژ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
 الْخَائِنِينَ بیہ بیٹھ ساری زانن کہ اللہ تعالیٰ جھو نہ سیزر کران خیانت کرہ وینن ہندس عنہ تدبیرس۔  
 وَمَا أBRئى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بو جھوس نہ پن پان بری زنان کیا زہ پریتھ اکس

مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۴﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ﴿۵۵﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ أَهْلَ مِثْرَ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾  
وَلَا جُرْأُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾ وَجَاءَ

چھو نفس پیچھ کائین ہند امر کران إلا مارحمر ربی مگر نیس میون پروردگار رحم کرہ إن ربی غفور رحیم پڑ پٹھا میون پروردگار چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي بیہ کور حکم پادشہن ائیون جلد حضرت یوسف مہ نش۔ بو ناؤن سو ہون مشیر خاص فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ اودہ یلہ حضرت یوسف آو پاد شہس سیت کر کیہ واریاہ تھہ۔ کتھواند رے سپدس معلوم تھہد فضل و کمال۔ دہن تمن بیتک تھہ چھوہ ازاسہ نغہہ سیٹھاہ تھہرہ جایہ۔ معزز، معتبر تہ امانت دار خولیکہ تعبیر ک آونھن اندر ذکر۔ پادشہن دو پٹھہ۔ ایترہ پڈہ قحطک انتظام کران چھہ بڈ کوم بیہ کس گرو سپر د قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضرت یوسف فر مووس مہ بناوڑہ حاکم سہمہ ملکہ کین خزان ہند (یعنی مشیر مال، وزیر خزانہ) اِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا پتر پاٹھہ بو چھوس ماکس پور حفاظت کرہ ون۔ مالک پورہ حساب و کتاب زانہ ون۔ چنانچہ بجای اینکہ تمن کیادیہ ہاکانہ خاص عمدہ تہ مصہاہ، ہن ساری اختیارات کترن سپر د تمنی۔ تحقیق اندر آس پادشاہ تھہ۔ بادشاہ زود پانہ برای نام۔ ہم سپد مشہور عزیز مصر کہ لقبہ سیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بیہ دیت اسہ پور قبضہ تہ اختیار حضرت یوسف اتھہ سر زمین مصر س اندر يَتَّبِعُونَ أَهْلَ مِثْرَ يَشَاءُ ڈیرہ اوس دوان، عیش و آرام اوس کران یتس خوش کرہ، ہس تمہہ زینہ اندرہ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ اس چھہ و اتناوان ہن رحمت نیس یڑھو تہ نس۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس چھہ ضایع



اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَ  
لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالِ اِنَّوْنِيْ بِاَخِيْ لَكُمْ مِّنْ اَيْكُمْ اِلَّا  
تَرُوْنَ اِنِّيْ اَوْ فِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ  
بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ وَاُدْعٰنَهٗ

کران نیکو کارن ہنرمزور واکبر الاحوة خیر اللذین امنوا واکنوا یقنون بیہ چھہ آخر حج مزور تہ آخر  
سیٹھاہ بہتر تہن لوکن ہندہ خیطرہ تمو ایمان اون بیہ آس کھوژان خدائس۔ بعضی تفسیرن اندر چھو کہ  
تمنی دوہن اندر گو مئر تھہ بروٹھیوم عزیز مصر۔ زلیٹاہ ہند نکاح سپد حضرت یوسف سیت۔ الغرض  
حضرت یوسف سپد با اختیار پادشاہ۔ تمو ودہ نوز میئس اندر سیٹھاہ غلہ تو پتہ تھو کہ سو جمع کمر تھہ  
مھوٹ۔ قحطک سکت (یک) ذرہ یلہ شروع سپد تمو ہیوت سو غلہ لوکن اندر تقسیم کرن۔ ذورہ ذورہ پیٹھ بہتن  
لو کہ غلہ حاصل کرنہ خیطرہ ہین۔ کنعائس منزہ سپد قحط و جآء اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ  
وَھُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ تو پتہ آی حضرت یوسف سندہ بای تہ کنعانہ پیٹھ۔ تو پتہ ژای تہندس دربارس اندر۔  
تمو پرزہ تاو تم۔ مگر تمو پرزہ نوونہ کینہہ حضرت یوسف کیا زہ واریاہ کال اوس منزہ گو مت۔ بیہ اوس نہ  
تہندس وہم وگمائس منزہ تم کیا آسن اتھ تھدس مصعبس پیٹھ واتمت۔ تم کیا آسن بادشاہ شیمت۔ تمو  
پر ڈھکھ نہہ کیا زہ آوہ ہتھ شہرس منزہ دوپہک غلہ خیطرہ۔ تمو دوپہک غالباً آبو نہہ جاوس۔ تمو  
دوپ پناہ بخدا آس چھہ کنعاکہ تمہ تھدہ خاندایک افراد۔ سون بابہ صیب چھو حضرت یعقوب خدایہ  
سند پیغبر۔ تمو پر ڈھکھ نہہ کمرہ بای چھوہ۔ تمو دوپ اس آس باہ بای۔ اکھ لوی چھو لاپتہ۔ سو اوس  
زیادہ لوٹھہ بابہ صعیس سانس۔ تمند سٹھہ بوی روٹ بابہ صعین پتہ تسلی خیطرہ ہانس نشہ۔ باقی دہ (۱۰)  
بای آی اس توہہ نشہ غلہ معنہ۔ تمو کور حکم سم تھادیو کہ شاہی مہمان خائس اندر۔ تمن کمر و جان پاٹھ  
خاطر و تواضع و لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ تو پتہ یلہ تیار کوزن تہند سامان غلہ وغیرہ قَالِ اِنَّوْنِيْ بِاَخِيْ  
لَكُمْ مِّنْ اَيْكُمْ دوپنکہ یلہ نہہ بیہ بیو مال بوی ہین انزن مہ نشہ بوچھہ تہندون چھا واقعی پوز۔ اِلَّا

آيَاهُ وَاِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبُوا اِلَىٰ اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَىٰ اٰبِيهِمْ قَالُوْا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانًا نَّكْتُلُ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُونَ ﴿۶۳﴾  
 قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اٰمَنُتُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ

تَرَوْنَ اِنِّيْ اَتٰوْنِي الْكَيْلَ وَاِنَّا خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ تہمہ چھوہ ناؤ چھان یو چھوس ضرور پور مینان۔ بیہ چھوس  
 بورژ مہمان نوازی کران **فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ** ہر گاہ سو یوی تہمہ  
 اینون نہ مہ نش۔ تلہ چھونہ تہمہ مہ نشہ غلہ نیون کینہ تہ۔ بیہ گوہہ نہ تلہ مہ نشہ یوی تہمہ **قَالُوْا اَسْأَلُوْا  
 عَنْهٗ اٰبَاہُ وَاِنَّا لَفَاعِلُونَ** تمہو دوپ اس گرو ضرور کوشش سو یوی پاس سیت انہ تج تہ متعلق ونواس بابہ  
 صیس۔ بیہ چھہ اس ونان اس کرو ضروریہ کوم **وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ**  
 حضرت یوسف دوپ پنہ نین غلامن تمکن تھا و غلگ قیمت اہدس ساماس منز **لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا**  
**اِذَا انْقَلَبُوا اِلَىٰ اٰهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** شاید تم پرزہ ناؤن تہہ یلہ تم واتن پنہ نس عیالس منز تہ  
 وچھت دیوہ بیہ آسہ نشہ واپس من **فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَىٰ اٰبِيهِمْ قَالُوْا يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ** کس یلہ تم  
 واپس وات پنہ نس بابہ صیس نشہ عرض کوزکھ ای سانہ بابہ صیہ آسہ حض دوچھ ہر گاہ تہہ بیاکھ یوی  
 سیت اینون نہ تلہ و مودوہ نہ آئیدہ توہہ کینہہ تہ غلہ **فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانًا نَّكْتُلُ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُونَ**  
 کس سوزیون ہز اسہ سیت یوی سون۔ تہہ آسہ ساری بیہ غلہ دن تولتہ۔ آسہ پیٹھ کمر و اعتبار اس چھہ کس  
 راچھہ کرہ ون **قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اٰمَنُتُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ** حضرت یعقوب دوچھ کیاہ  
 یو کر اعتبار توہہ پیٹھ تسدہ خیطرہ مگر تھوی اعتبار تہہ مہ کریو توہہ پیٹھ امندس ہای سدہ خیطرہ ازہہ  
 بروتہ۔ دل چھوم نہ کران کہ یہ بنیامین کیاہ و من بو توہہ سیت۔ مگر تہہ چھوہ ونان کہ سوتے سیت آسہ  
 تلہ دن نہ غلہ کینہہ۔ ایتہ چھہ مجبوری غلہ حاصل کرن چھو فرض۔ کیاہہ حیات جسمانی تہہ موقوف تہہ

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا  
 مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَ مَا  
 نَبَغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا  
 وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۶۸﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ  
 مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ  
 يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبَّأَتْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۶۹﴾

پیٹھ۔ لہذا اگر بنیامین نیون پانس سیتِ خدا اُس حوالہ فاللہ خیر حفظاً و ہوا رحمہ الرحیمین جس اللہ  
 تعالیٰ ای چھوڑت رہا چھ کرہون۔ بیہ چھو سوسی یژر حم کرہون ساروی اندرہ۔ میانہ محبتہ تہ شفقتہ سیت  
 کیاہ اترہہ و لَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ امہ گفتگو پتہ یلہ تمہو سامانہ مین  
 مہرود تہہ منزو چھٹھہ غلگ قیمت اُس سمودہ ہیتمت اوس سیتہ تمین واپس کرنہ اُمت قَالُوا يَا بَانَ مَا  
 نَبَغِي دہنہ لگ تم ای سانہ بابہ صیہ امہ خوتہ کیاہ ژہانڈ و اس ہذہ ہضاعتنارڈت الینا کیاہ امہ  
 چھو کہ غلگ قیمت تہ واپس دیتمت۔ امہ قسمگ چھو پادشاہ مبصر فیاض تہ محسن۔ لہذا چھونہ مناسب  
 تہمدس لحمس ہدل کزن۔ دیون اسہ سیت لوی سون بنیامین وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلًا  
 بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ تہمدہ سیتہ اواس کافی غلہ عیالہ خیطرہ۔ بیہ گزو واپس رہچہ۔ بیہ انواس علاوہ  
 اُس وونس لد تہہ غلہ ٹہمد حصہ۔ موجودہ غلہ چھو سانہ خیطرہ کمی۔ پوشہ نہ زیادہ کاس قَال لَنْ  
 أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ حضرت یعقوبن دوپکھ  
 خیر تہتھس صور تس اندر چھونہ چارہ کینہ سو تہہ سیتہ دس اندر۔ مگر بوتہ و من یہ تہہ سیتہ یوتان نہ  
 ٹہہ خدایہ سُنْد قسم ہاو تہہ مہ سیت عہد کمر و کہ ٹہہ کیا و اتہ تا دیون سو ضرور واپس مہ نشہ مگرے ٹہہ ساری  
 و لہہ بیہ ٹہہ بلا یہ سیت تلمہ چھہ مجبوری۔ چنانچہ ساروی کورا تہہ پیٹھ قسم فَلَبَّأَتْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى  
 مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ادہ یلہ تمہو حضرت یعقوبس عہد و قرار دیت تمہو دپ اللہ تعالیٰ ای چھو سانس ونہ نس

وَقَالَ يَبْنَى لَاتَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِن  
 أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
 الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا  
 كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ  
 يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

پیٹھ گواہ سے شاہد امیر پتہ دیو مجھ بنیامین سکن بائیں سیت۔ رخصتہ وقتہ دو پیٹھہ وَقَالَ يَبْنَى لَاتَدْخُلُوا  
 مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ اى ميانيو فرزندو پتھنہ مصرس منز اژوئہ ساری اکی دروازه کن خبر چھاتمہ سیت  
 مالگوہ چشم زخم وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ مصرس منز اژہ الگ الگ دروازو کن ترہ ترہ ژور  
 ژور زن۔ مصرس آس تمہہ وقتہ ژور دروازه وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ بویکھ نہ ژور  
 کمر تھ توہہ نغہ سمہ تجویزہ سیت خدلیہ سدہ تقدیرہ نغہ کانہ چیزہ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
 حُكْمٌ مَّحْضُونَ مگر خدلیہ سدوی حُكْمٌ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ تیس پیٹھ چھوس بو اعتماد سے ڈو کھ کران  
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ تیس پیٹھ گومہہ توکل کرہ و نین ہند توکل کرن بیہ نہ کانہ پیٹھ۔ تیس  
 تیس پیٹھ توکل کرہ تیس چھوسو تیس وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ پس یلہ ژای تم مصرس  
 منز پپار کن تجویز او سکھہ کورمت بابہ صین ہن مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ امہ تجویزہ  
 سیت ہیچہ بانہ تم ن چاوتھ خدلیہ سدہ حکمہ نغہ کانہ چیزہ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا  
 مگر امہ تجویزہ اندرہ اوس مقصد حضرت یعقوبس ہن اکھ ارمانا پورہ کرن۔ تیس تمہہ وقتہ تمو ظاہر کور  
 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ بیشک سو چھوزان وول تم چیزن تم اسہ سو چھونوو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ جھنہ کینہہ زانان تم چیز وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ توپتہ یلہ ژای تم  
 حضرت یوسف نغہ اوی ایلہ آخاہ تم روٹ بوی ہن (بنیامین) پاس نغہ قَالَ إِنِّي أَنَا خَوْكُ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ  
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۹﴾  
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ  
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا  
 وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ  
 الْمَلِكِ وَلَيْسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۸۲﴾  
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دوپس یوی چھوس چون بوی (یوسف) ژہ مہ بر غم تمیک کینہہ یہ ہای  
 آسہ نسبت کران آس فلما جهزهم بجهازهم توپتہ یلہ تیار کرنون ٹہند سامانہ جعل  
 السقاية في رحل اخيه حضرت یوسفن تھاوہ نووینہ آب چینگ بانہ ہای سندس سامانس منز۔  
 توپتہ یلہ تم روانہ سہت شہرہ نیر وات ثم اذن مؤذن ايته العير انكم لسرقون تمہ پتہ دیت  
 آلوک آلودوہ ون ای قافلہ والیوٹہہ چھوہ پزپاٹ ژور قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون تم لگ  
 ونہ تم کُن پھیر تھ ٹہہ کیاہ چھوہ رومت قالوا حضرت یوسفہ سند یو ملازمو دوپچھ نفقد  
 صواع الملك آسہ چھہ رومت بادشاہ سندہ چینگ بانہ سمہ سیت سوتوہہ غلہ دیوان اوس مین مین  
 ولین جاء به حمل بعير وانا به زعيم کس سوبانہ توہہ اندرہ آٹھ دیہ تہ پیش کرہ کس ومواکھ ووٹہ  
 بارغلک انعام۔ بو آلودوہ ون چھوس تمہ خیطرہ ذمہ دار قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في  
 الأرض وما كنا لسارقين تمو دوپ قسم خداٹہہ چھوہ وارہ زانان تہہ اس چھنہ آمت تہای کرہ  
 خیطرہ یو ربیہ چھنہ سان کوم ژور کرن قالوا فما جزاؤنا ان كنتم كذابين تمو ملازمو دپکھ ہر گاہ ٹہند

كُنَّا سُرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا  
 جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي  
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ أَبَاوَعَيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ  
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا  
 كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُهُ  
 دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۴۶﴾ قَالُوا إِنْ

وَأَنْ اِزْدَرَاوِ تَلَه كِيَاه هَجْهُو تَهْمَد سزا قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تَمُو دُو جْهُ تَمِيك  
 سزا اِجْهُو نَسْ شَخْصَه سِنْدَه سَامَانَه مَنزَه سُو جِزِيْرَه۔ سُوِي شَخْص هَجْهُو تَمِيك سزاه یعنی سُو گرهه گر فَنَار كَرَان تَه  
 غلام بِلَاوَن كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ سَيَّه پَاهْ جَهه اَس ظَالَمَن یعنی تُورَن سزادوان پَنِه دِينَه  
 مَوْجِب۔ تُو پَنِه اِجْه تَم وَا نَس حضرت يُو سَفْس نَشَه فَبَدَأَ أَبَاوَعَيْتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ تُو پَنِه كَرَنَاد  
 تَم تَلَا شِي بَيْن بِلَا نَ هِنْدِيَن خُوْر جِنْدَن پَنِه نَس بَاي سِدَس خُوْر جِنْدَس تَلَا شِي كَرَنِه بَرُو نْجَه شَه  
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ پَتُو لَا كَه كُذُه نُوون سُو جِزِيْرَه پَنِه نَس بَاي سِنْدَه خُوْر جِنْدَه مَنزَه۔ پَه كُوْر تَمُو  
 اَكه هَانَه بِنْيَا مِينَه سِنْدَه پَانَس نَشَه رَفَه خِيْطَرَه تَمَن سِيْت مَشُوْرَه كُر تَه كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ سَيَّه پَاهْ  
 پَهْجَه نَاوَا سَه تَدْبِيْر حضرت يُو سَف بَذْرِيْعَه هَام مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ نَتَه اُو سَنَه  
 مُمْكِن سُو كِيَارَه هَا بَالِيَس پَنِه نَس پَانَس نَشَه بَادِ شَاهِ مِصْرَه سِنْدَه قَانُوْنَه مَوْجِب كِيَاْرَه تَمَسْنَدَس قَانُوْنَس  
 مَنز اُو سَنَه تُور گر فَنَار كَرَان بِلَكَه اُو س تُورَس كِيْنَه تَنبِيْهَه كُر تَه يِلَه تَرَاوَن إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَكْر  
 خَدَا يِه سِنْدِي يَرْهَنَه سِيْت تَمْنِي يُوْ رَه تَه يِه اُو بَعْل۔ تَم تَرُوو هَام حضرت يُو سَف سِنْدَس وِلَس اِنْدَر  
 يِقْبُوْلِي شَرِيْعَه مَوْجِب تُورَس سزادِيُون۔ تِي وَنَه نُوون تَمْنِي بِلَا نَ هِنزَه زِيْدَه نَرْفَعُهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ  
 تَه رَاوَان جَهه اَس دَر جِه عِلْم اِنْدَر تَس شَخْصَه سِنْد يَسْنَد اَس يَرْهَو۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  
 پَر يَه عِلْمَه وَا لَس پَهْجَه كَن هَجْهُو تَهْمَدَه خُوْتَه زِيَادَه عَالِم۔ اَللّٰهُ تَعَالَى هَجْهُو سَارِنِي نَاوَق۔ تَمَسْنَد عِلْم هَجْهُو سَارِنِي

يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلِ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي  
 نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِمَا تَصِفُونَ ﴿۴۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا  
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَشْرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾

احاطہ کمرت علم مخلوق چھو ناقص۔ علم خالق چھو کامل۔ لہذا چھو مخلوق محتاج پنہ نس علم و تدبیر س  
 اندر خالقتہ سندس الہام والقائن س گن۔ حضرت یوسفن دوپچھ توہے دیوہ اس چھہ پیغمبر زادہ یہ کیاہ  
 کورہ۔ ای پڑہ ہاتوہہ کرن۔ تم گے سیٹھاہ شرمندہ۔ بنیامین آؤ تدبیرہ سیت تھاوہہ حضرت یوسفن رشہ  
 قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلِ تَمُودُوپ اگر بنیامین ژور کر تجب چھو نہ کینہہ کیاہ  
 امسد سکہ بای یوسفن تہ چھہ بروئھ ژور کمر مژ۔ سو قصہ چھو پتھ پاتھ کہ حضرت یوسفن یلہ والدہ بن  
 سیمہ عالمہ چھہ تین ہنہ پرورش کرن تہزہ پوپھ یلہ حضرت یوسفن بوڈ پن گو ہوشیار ہیوسد حضرت  
 یعقوبن دوپ وون رشن بوپانس رشہ۔ یہ گو تہزہ پوپھ ناگوار۔ تمو کوراکھ حیلہ دوپچھ مہ روو کمر بند۔  
 سیٹھاہ ژوہنڈ ک گنہ آونہ آتھہ۔ پتولا کہ وچھکھ اکہ دوہہ حضرت یوسفن کمرس گنڈ تھ۔ دوپچھ یہ اوس  
 حضرت یوسفن ژورہ نیومت۔ لہذا ژورہ ہندمال بس رشہ نیرہ سو چھو تھ ماس بدل رنہ یوان۔ بورشن  
 حضرت یوسفن پانس رشہ۔ یہ اوس اکھ حیلہ اکھ تہمدہ پانس رشہ رنہ خیطہ تہزہ پوپھ پائے کورمت۔  
 آتھ گن کور اشارہ سمودورہ بایہ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ بس تھاویہ تھ پو شیدہ  
 حضرت یوسفن پانس رشہ۔ ظاہر کورن نہ تہن رشہ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ  
 پان پانس سیت دوہن تہہ چھو زیادہ بدتر ژور کر نس اندر نوی کیوون بابہ صیس ژورہ کتھ کیوون  
 پونس۔ ژور چھو مال غائب کران۔ توہہ کورون انسان غائب۔ یہ تھ چھہ ظاہر کہ انسان ژورہ تھاون  
 انگو اکرن چھو زیادہ بدتر مال ژورہ بنہ خوہ۔ اللہ تعالیٰ ای چھو بہتر زمان تہ یہ تہہ مہ نسبت وتان چھوہ۔  
 ژورہ ہنہ ہاتھہ لاگان چھوہ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنٌ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ  
 إِنَّا إِذًا الظَّالِمُونَ ﴿۹﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  
 قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ  
 أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ

گلب ای عزیز مصر پرنیاطھ تمس بنیا مینس چھو بڈہ عمر رسیدہ بابہ صیب تس چھویہ سیٹھاہ ٹوٹھ تس بڈرہ  
 سیٹھاہ مشکل امس بدل ریشون اسہ منزہ اکھاہ سوی بناوتون پین غلام اِنَّا تَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ اَس  
 چھت ژہ زانان بڈہ احسان کرہ ون۔ یہ تہ ہے ژہ اکھ احساناہ اسہ پیٹھ کرہ، بھجھ اَس سپدہ ہو سیٹھاہ مشکور  
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنٌ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ حضرت یوسفن دوپچھ خدائیس چھوس بو  
 پناہ منگان سمہ کتھہ نیشہ کہ اس کیارٹون تس شخصس ورا ی بیہ کانہہ تمس نشہ سون چیز درا ڈہ۔ ہر گاہ اَس  
 یرھہ کتھہ گرو اِنَّا اِذًا الظَّالِمُونَ تلہ چھہ اس سخت بے انصاف فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  
 کس یلہ یم حضرت یوسفن شخصس نشہ نامید سپد بنیا مینہ سندس نہیں اندر الگ سپد تھ ہیو چھہ پانہ وان مشورہ کرن۔  
 اکثرن ہنزرای سپر کہ واپس پڑہ گوٹھن قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ بڈی بای دوپچھ چھہ چھوہ نازانان کہ بابہ صین پین چھوہ چھہ خدایہ سندن قسم ہوناومت  
 تہ عمد کرناومت بنیا مینہ سیدہ حقہ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ بیہ چھوہ نازانان سمہ بروٹھ  
 کثیر زیادتی کمر وہ توبہ حضرت یوسف سندس حقس اندر۔ تمن سیت کس برتاو کورو، توبہ تمہ سیت کیتاہ  
 حقوق سپد ضایع بابہ صین۔ سو بروٹھم شرمندگی کیاہ کم چھہ ون گڑھویہ بیاکھ شرمندگی ہتھ بابہ  
 صیس نشہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي کس نیرہ نہ یوسفہ شہرہ اندرہ ہر گز کتھہ جلیہ  
 یوتان نہ اجازت دینہ بابہ صیب پین۔ تہ گتھہ بھتھہ بیچہ یوسفن تس بروٹھ گن ہتھ۔ اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي  
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ یا کرہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ کانہہ فیصلہ۔ سو چھو بہتر فیصلہ تہ حکم کرہ ون۔ سو گوٹھ



خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ  
ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا  
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿۸۱﴾ وَسئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا  
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ  
سَأَلْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ﴿۸۳﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَبِيلًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَوَلَّى  
عَنَّهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ

طریقہ سپدہ بنیامینہ سز رہائی سے تھ سوئیتھ ہمہ بوبابہ صیس نغمہ۔ اِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ  
ابْنَكَ سَرَقَ۔ بوروزہ بیت تہمہ گرهو بابہ صیس نغمہ۔ ونبوئس بابہ صیبا تہمہ فرزندن بنیامین حض کمر  
ژور تہمہ موکھ آوسوگر فگار کرنہ۔ سوئیتھ نہ اسہ سیت واپس و ما شہدنا الا بما علمنا اس چھتہ  
ونان مگر تی یہ اسہ معلوم چھو۔ اسہ وچھہ پنہ نیوا چھو تسمدہ باروانہ منزہ پادشہہ سند مین بانہ نیران  
و ما کنا للغیب حافضین اس ما آس غیبہ چن کھن راجھہ گرهون۔ معاہدہ کریمہ وقتہ ماوس اسہ  
معلوم تھہ ہو مشکل تہ یہ پیش و سئل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها سائہ  
تہ پڑھہ بہوہ تہمہ پڑھو تمہ شہرہ کین لوگن تھہ منز اس آس یا تھہ قافلہ مین سیت اس واپس آئے  
و اننا الصادقون یقینا چھوہ اس پوزونہ ون قال بل سألتم لکم أنفسکم امرا حضرت  
یعقوبن دوچھہ بنیامین چھو نہ ژور کرنہ موکھ گرهو آمت کرنہ بلکہ چھوہ تہمہ پنہ نی دلہ کتھہ تیار کران  
فصبر جبیل ازتہ کرہ بو صبر برو تھمی پاٹھ شکایت کرنہ تہمہ قسمہ عسی الله ان یأتیننی بہم  
جبیلًا انہ ہوا العلیم الحکیم شاید اللہ تعالیٰ ماواتا وہ تمن سارنی فرزندن مہ نش کیا زہ سوچھو بیٹک  
سوزی زان وول سیٹھہ حمہ وول و تولى عنهم وقال یوسف علی یوسف و ابيضت عينه من



وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزْجَجَةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ  
هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾  
قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي  
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ  
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اشْرَكُوا

ای عزیز مصر در آگہ سببہ ووت آسہ تہ سانس عیالس سخت تکلیف۔ وئن چھ اس آمت رڈی سامانہ مؤیہ  
ہنا بیٹھ۔ کیا زہ وون زود نہ آسہ نیش کنی مال فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وون دتہ آسہ ڈہ پور  
غلہ (نیس آسہ پوشہ ہا) خیر اتاہ کرتہ آسہ بیٹھ۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو  
خیرات کرہ و نین اجر و ثواب عطا کران حضرت یوسف ہیو کنہ بہنہ مسکت آمیز تھہ یوز تھہ تاب  
کمر تھہ کہ تم کیاہ تھوہ ہن و نہ پن حال پوشیدہ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ  
أَنْتُمْ جَاهِلُونَ حضرت یوسف پز تھہ توہہ چھو یاد توہہ کیاہ کورہ یوسف تہ تہمدس بایس بنیا مینس  
نسبت پہلہ ناٹہہ نادان آسہ۔ تم گے حیران یہ عزیز مصر کیاہ چھو آسہ پز تھان۔ اوتان اوس حضرت  
یوسف تھس بیٹھ نقاب تراو تھہ یمن سیت تھہ کران۔ تموئل نقاب تھو دتمن پہلہ تھہ بیٹھ نظر تہ پزہ  
ناوکہ۔ مگر یقین حاصل کرنہ خیطرہ لگس پز تھہہ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ تم لگس پز تھہہ  
ژی ماحض چھو کہ حضرت یوسف قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي دوپنکھ لوی چھو س یوسف۔ بیہ یہ  
بنیا مین چھو میون لوی تم نٹہ تھانڈیہ درمت چھوہ۔ اس دوشوے چھہ جمعہ مت کسی جاہیہ قَدْ مَنَّ  
اللَّهُ عَلَيْنَا پز پاتھ بدمنت تھو اللہ تعالیٰ ان آسہ دوشون بیٹھ۔ گوڈہ وئن آسہ توفیق صبر و تقویٰ اک۔  
تمہہ برکتہ کوزن سون تکلیف بدل راتھس سیت۔ سان جدالی کرن بدل اکھ اکس سیت ملاقات کر س  
سیت۔ تنگدستی کرن بدل و تنس سیت إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ  
 الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۲﴾ اذْهَبُوا  
 بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا  
 وَأَنْتُمْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ  
 الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمَّ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ  
 تُفْتَدُونَ ﴿۹۴﴾ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿۹۵﴾

البتہ اُس کھوڑہ اللہ تعالیٰ اسی پر کرہ تکلیفیں پیٹھے صبر۔ بس اللہ تعالیٰ چھوٹہ نیکو کارن ہنرمند و درضایع کران۔ تم  
 ساری واقعات پی تکین تیس تم سپد شرمندہ قَالُوا تاللهِ لَقَدْ اِشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ  
 تم ساری لگ ونبہ خدایہ سزوری پز پناٹ اللہ تعالیٰ اَن ذیت توہمہ فضیلت اَسہ پیٹھے۔ پز پناٹ سان کن  
 آؤ اُتر۔ یہ کنیوہاہ اَسہ کور تھہ اندر چھہ اس خطا کار۔ خدایہ سندہ خیطرہ کمر و تھہ ساری اَسہ بخشائش  
 قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ حضرت یوسف دو چھ میاں طرفہ چھہ کانہہ ملامت تہ گراؤ۔ کانہہ  
 الزام توہمہ پیٹھے از۔ دل میون سپد صاف توہمہ پیٹھے بے فجر روزو یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ  
 اللہ تعالیٰ تہ کرن توہمہ بخشائش تہ مغفرت۔ سو چھوڑا رحم کرہ ان اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ  
 وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا گروہو وون دیو بشارت بابہ صمیس۔ سیت بیو یہ میان کرن۔ یہ تراءو  
 تہندس تھس پیٹھے۔ سمہ سیت پدن تہزہ اچھہ روشن۔ وَأَنْتُمْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تم ان  
 یورمہ نشہ تشریف۔ یہ بیو تہہ سوزی اہل و عیال ہتھ مہ نشہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ یلہ مصرہ نشہ  
 یہند قافلہ پد روانہ قَالَ أَبُوهُمَّ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفْتَدُونَ یہند بابہ صمیں روپ  
 بیٹک از چھوس بو یوسفہ سندی خوش محسوس کران تہہ نے مہ بجزہ سببہ بے عقل زانو قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ  
 لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ تم دو پھس واقعی چھوہ تہہ تھہ پرائس غلط خیال اس اندر بتلا۔ توہمہ چھوہ خیال

فَلَمَّا انْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْاَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۙ  
 قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۶﴾  
 قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيْنَ ﴿۹۷﴾  
 قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۹۸﴾  
 فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اَوْى اِلَيْهِ اَبُوْیْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا  
 مِصْرَانَ سَاءَ اللّٰهُ اٰمِيْنَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ اَبُوْیْهِ عَلٰى الْعَرْشِ

کہ یوسف چھوڑ دے۔ بیہ گروٹس سیت ملاقات۔ اسی خیال کہ غلبہ سیت چھو سپدان تو بہہ محسوس تہند  
 خوشبو۔ تمو کر تھوپہ۔ فَلَمَّا انْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْاَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا حضرت یوسف سیدہ  
 صحیح و سلامت آج خوشخبرانہ ون یلہ آؤ کرتن ہتھ تو پتہ تراؤ تم سو حضرت یعقوبہ سندس تھس پیٹھ یکدم  
 سہزہ تہزہ اچھ روشن۔ بیہ کور تم بیان سو روی حال حضرت یوسف سیدہ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ مِنَ  
 اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ حضرت یعقوبن فر مو کہ مہ ونیو وہ نا تو بہہ کہ خدایہ سنزن تھس یوت بو واقف  
 چھوس تیوت زانو نہ تہہ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيْنَ تمو ساروی دو پچھ ای  
 سانہ بابہ صیبہ سانہ خیطرہ معجو ہز گنہن مغفرت۔ بے شک اس آس خطا کار، سانہ وجہ ووت تو بہہ  
 سیٹھاہ تکلیف قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ تم دو پچھ عنقریب معگہ یو تہندہ  
 خیطرہ مغفرت خدائس۔ تہد کہ وقتہ کیا زہ تمہہ وقتہ چھو دعا قبول۔ بے شک سو چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ تو پتہ کر کہ تیاری درای۔ ساری سپد روانہ شہر مصر سُن۔ حضرت یوسف  
 در او پتھہ بابہ صیبس استقبالہ خیطرہ۔ مصرس نزدیک اُس جلیہ اُس حضرت یوسفن اکھ عالیشان مکانہ  
 بنو مت۔ گوڈہ نیک ملاقات سپد تھن تھہ مکانس اندر فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اَوْى اِلَيْهِ اَبُوْیْهِ  
 تھس یلہ ژای تم اتھہ مکانس اندر حضرت یوسفن نشہ تمو وژ پانس بھتھل جائے حضرت یعقوبس بیہ  
 والدس یا خالس تعظیمہ کن وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانَ سَاءَ اللّٰهُ اٰمِيْنَ حضرت یوسفن دو پچھ وون اثر و شہر

وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ  
 قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي  
 مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

مصرس منز۔ خدائے یوژھہ تیرے روز و تیرے خاطر جمعی سان۔ جدائی ہند تہ قحطک غم کوس اللہ تعالیٰ ان۔ تو  
 پتہ یلہ مصرس منز ژای تیرہ و اتا و تم حضرت یوسفن شاہی مملاتن اندر و رقعہ آبیوہ علی العرش بیہ  
 بہناون تم دو شروے پائس سیت شاہی بخش پیٹھ۔ تمہ ساتہ سہز تہن عجیب کیشیاہ۔ حضرت یوسفن  
 عظمت سہز تہمدین دکن پیٹھ وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا تمہو ساروی دمت تہن سجدہ وَقَالَ يَا بَتِ  
 حضرت یوسفن دوپ ای میانہ باہ صبیہ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ای کیا حض اوس میانہ  
 خوابک تعبیر۔ اُس بروٹھ مہ و جھمت اوس قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا پز پانٹھ میان پروردگارن کور میون  
 خواب حق تہ یوز وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ پز پانٹھ رنگہ رنگہ گورمہ نسبت میان  
 پروردگارن احسان۔ اکھ گوڈس یو قید خانہ نشہ باعزت، جزمہ نشہ بالکل بری توپتہ و اتو و س سلطت جس  
 مرتبس و جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ جہہ ساری و اتا و کوہ یوت مہ نشہ نمبرہ پیٹھ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي یہ سوری سپد شیطانہ سندہ سبہ۔ مہ منز تہ میانین بائن منز اختلاف  
 تہ فساد تراونہ پتہ۔ تم تراویو و اسہ منز سو اختلاف۔ تمہند خیال اوس ساری عمر ہا میونہ اس اکھ اس  
 سیت۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پز پانٹھ میون پروردگار چھوڑت تدبیرہ  
 کرہون۔ تمہ خیترہ یہ سو یرھان چھو۔ بے شک سو چھو سیٹھاہ زانہ ون سیٹھاہ جھمتہ وول۔ امہ پتہ رو و تم  
 ساری اتھ میصرسی اندر خوش و خوشحال۔ یوتان حضرت یعقوبس سمہ عالمہ گدھگ وقت ووت۔ تمو کر  
 وصیت ای زہ بوگھہ ملک شامس اندر و اتاوت دکن کرن پنہ نین بزرگن سیت۔ تمہ پتہ سپد حضرت

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ

یوسف سے آخر تک اشتیاق۔ تم کو دعا ربِّ قَدْ أَنْتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ای میانہ پروردگارہ پزیر پاٹھ ژہ کرتھ مہ عطا پرتھ رنگہ نعمو۔ ظاہری تہ تہ باطنی تہ۔ ظاہری گنیمہ سلطنت، پادشہت، باطنی گنیمہ کہ بو پکھو و تھس خوانن ہند تعبیر فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ای آسان تہ زمین ہندہ پیدہ کروہہ۔ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ژہی چھو کہ میون کار ساز دنیا س منز تہ آخر تہس منز۔ تہہ پاٹھ میانہ سارے کامہ ژہ دنیا س منز انجام د ژتھ تہہ پاٹھ و اتنا میانہ آخر تہہ کامہ تہ انجام تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ سیمہ عالمہ ہند مہ فرمانبر داری ہند س حاکم منز۔ ہیہ و اتنا ہمہ نیکو کارن سیتِ ذَلِكَ یہ قصہ چھو مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ غیبہ پوٹھ و آندرہ تھس آسہ وحیہ پاٹھ سوز توہہ کن یار رسول اللہ۔ کیا زہ توہہ نغمہ اوس نہ وحیہ و رای ہیہ کینہہ ذریعہا سیمہ سیتِ توہہ یہ قصہ معلوم سپدہ ہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ہیہ آسہونہ تہہ حضرت یوسف سندین بائکن نغمہ تمہ ساتھ یلہ تمو پٹن ارادہ ہختہ کور حضرت یوسف تھس منز تراونہ خیطرہ ہیہ آس تم تمہ خیطرہ تدبیر کران کہ بابہ صییس و توتھہ پاٹھ تہ تم کڈو کہ تہہ پاٹھ۔ ہیہ تھہ تھہ یقینی تہہ یوزونہ یہ قصہ کانہہ نغمہ لہذا تھہ یہ صاف دلیل تھہند س نبوتس پیٹھ تھہند س صاحبِ وَءِ آسنس پیٹھ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ باوجود آل کرن نہ پڑتھ توہہ واریاہ لو کہ اگرچہ توہہ آسنس سیٹھاہ خواہش سچ۔ تھہرہ ایمان نہ آندہ سیت چھونہ توہہ کانہہ نقصان وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کیا زہ تہہ چھو نہ منگان تھن نغمہ امہ قرآن مجیدہ خیطرہ کانہہ مزوریہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

مَنْ أَجْرَانِ هُوَ الْأَذْكَرُ لِلْعَالَمِينَ<sup>۱۳</sup> وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ<sup>۱۴</sup>  
 وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ<sup>۱۵</sup> أَفَأَمِنُوا أَنْ  
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

لِلْعَالَمِينَ چھونہ یہ قرآن مجید میں ہے۔ تم کہ بیٹھ پڑاں چھوہ مگر بد نصیحت عالمین ہندہ خیرہ۔ کس نہ  
 اتھ مانہ تمس چھو پائس نقصان وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
 مُعْرِضُونَ چھہ پائے تم لو کہ مکر نبوت چھہ چھہ پائے چھہ تم مکر توحیدہ۔ کیا زہ کاتیاہ آیات تہ نشانہ  
 خدایہ سندس گن آسکس پیٹھ تم آسمان تہ زمین منز چھہ تم کو کہ پکان چھہ۔ تم آیات و چھان چھہ  
 تم چھہ تمو آیا تو نشہ بے توحہی کران وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ چھہ اکثر لو کہ  
 تم خدائیں پڑھہ تہ کران چھہ باوجود آل چھہ تم مشرک، شرکچہ کامہ کران۔ یعنی زیوہ سیت چھہ ساری  
 ونان کہ اللہ تعالیٰ ای چھو مالک تہ رزاق۔ مگر باوجود آل چھہ کس شریک ٹھہراوان۔ چنانچہ کفار مکہ  
 آس ونان سون رُب چھو اللہ تعالیٰ تو پتہ آس پو تلین سجدہ کران ملائکین خدایہ سزہ کورہ ونان۔ یہود  
 چھہ خدائیں مانان مگر تھہ سیت چھہ ونان حضرت عزیر چھو خدایہ سند پتو۔ چھہ پائے چھہ بعض لو کہ عالمن  
 تہ راہن خدایہ سزین کائین اندر اختیارہ وال زمان۔ واریاہ لو کہ چھہ قبر پرستی پیر پرستی، تعزیہ پرستی  
 سیت توحیدہ کس چشمہ مصطفیٰ آس مکہ رتہ گدل کران۔ کیتیاہ چھہ توحیدک دعویٰ کثرت ہوا پرستی  
 سیت، پٹن سود دعویٰ باطل کران، بدعتن، پائے ٹھہراو متین چیزن ہنز پیروی کران۔ تہ دلیل نہ  
 کتاب و سنتس اندر گنہہ جایہ موجود چھہ۔ لہذا توحیدہ وراہی خدائیں ایمان اُن تہ پڑھہ گرن چھہ بے کار۔  
 چھہ ایمان اُن تہ نہ اُن چھو برابری۔ لو کمن ہنز پڑھہ حالت آتھہ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ  
 عَذَابِ اللَّهِ چھہ تم سو کھس تہ اطمینان اندر بہتھہ سمہ نشہ کہ تم کیتیاہ خدایہ سندہ عذاب تھہ بلایاہ  
 واتھہ یوسہ تم پر تھہ طرفہ ولہ یہہ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تہ چھہ واتھہ قیامت ہچہ



وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى  
 بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾

تہ معجہ تم تین نہ یہ کجاریہ۔ غرض شرک و کفر چھو متقاضی عذابس۔ سو ذنیاءس اندر ایمن یا آخرتس  
 اندر۔ تھ گن نظر کمر تھ اوس لوکن لازم عذابس کھوژن۔ کفر و شرکہ نشہ پتھ روزن۔ عذاب دنیوی  
 تہ عذاب اخروی نشہ پن پان بچوان قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي  
 فرما دیو کہ تہہ یارسول اللہ توحید پوز اسن بیہ چھہ میان و تھ۔ نادھجوس بودوان لوکن معبود برھتس  
 گن کامل واقفیت حاصل آتھ۔ اکھ بوبہ سمومیان پیروی کمر۔ یعنی مہ نشہ چھہ توحید و رسالتس بیٹھ  
 دلیل۔ سمولو کومہ پڑھ کمر تموتہ کمر پڑھ دلیل بوز تھ بے دلیل تھہ گن چھوس نہ بوکانہ دعوت  
 ودوان۔ لہذا چھو حاصل بیہ کھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو کھوی۔ بوچھوس تہتھ گن لوکن نادوان وَسُبْحَانَ اللَّهِ  
 منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ شریک آسنہ نشہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ چھوس نہ بوہرگز خدا س  
 شرک اندہ نیواندرہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بیہ سوزنہ اسہ توبہ بروٹھ پیغمبر۔ مگر تم ساری  
 آس مرد، انسان، ملک آس نہ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ وَحِي آس آس سوزان تمن گن مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  
 تھے آس شرن ہند روزن وال۔ گامن ہند نہ۔ سمونہ تمن ایمان اُون تہ پڑھہ کر تم کمر اسہ عذابس  
 گرفتار تی ہنہ تمن مکہ کین کافرن تہ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سم لو کہ چھنا پھیر مت زمینس منز گنہ طرفس بس وچھہ ہن تم کیاہ انجام چھو سپد مت  
 تمن مھکرن ہند سمو تمن بروٹھ خدایہ سندین پیغمبرن انکار کورمت چھو۔ یاد تھا ووتھہ ذنیاءس منز  
 روز تھ تہہ کھر ونا فرمانی اختیار کروہ سو ذنیاء چھو فانی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ  
 نَصْرًا فَفُجِّئَ مِنْ تَشَاءٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾  
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ  
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
 تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

آخر تک گرہ چھو بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ ہم خدائس کھوژن۔ ہر کہ نغمہ روزن ہتھ کیاہ ونہ چھوہ نا  
 توہمہ فجرہ تران کہہ فانی ناپاسیدار چیز اختیار کرن چھا جان کہہ سو چیزئس باقی تہ پاسیدار آسہ۔ ہر گاہ توہمہ  
 تاخیر عذابہ سیت خبہ تہ شک پیدا سپدان چھو عذابہ کس واتس اندر۔ یہ چھوہ تہمز سخت غلطی کیاہ  
 برو تھمن کافرن تہ آہ زتھمہ زتھمہ مہلو ونہ۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ تا اینکه یلہ نامید سپد پیغمبر  
 تہمہ ایمان انہ نغمہ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا بیہ کورگمانہ تمو کہ بیشک تمن سیتئس وعدہ آہو کرنہ سو  
 آوند ونہ پورہ کرنہ۔ خبر چھا آس ماگہ قومس نغمہ اپز زہر جَاءَهُمْ نَصْرًا فَفُجِّئَ مِنْ تَشَاءٍ تم آس یہ  
 خیال کرنی۔ اتی دو چھ سون مدد تہ یاری۔ ئس آو نجات ونہ تمن یہند آسہ بو تھ۔ یعنی با ایمان تہ  
 موحدن۔ کافر آہی امہ عذابہ سیت ہلاک کرنہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کیاہ پتھ چھوہ  
 یوان رفتہ سون عذابہ نافرمان نغمہ۔ بلکہ چھو عذاب تمن بیٹھ ضرور واقع۔ پدان۔ اگر چہ ژیر گھن تھ  
 اندر۔ ہذا مہ روزن اتھ خیال اندر گھار مہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پز پاتھ  
 چھ حضرت یوسف تہ تہندین باسن ہندس قصص منز بد عبرت عقلہ والین ہندہ خیطرہ مَا كَانَ حَدِيثًا  
 يُفْتَرَىٰ آس نہ یہ کتھاپائے ٹھرو نہ آمز وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ  
 بلکہ چھو یہ تصدیق تھ مضمونس ئس لمہ برو تھ کتابن منز بیان کرنہ آمت چھو۔ بیہ چھو تفصیل تہ  
 وضاحت پز تھ چیز چ۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بیہ چھو بوڈ ہدایت تہ بدر رحمت تمن  
 لوکن ہندہ خیطرہ ہمو ایمان اون۔

## سُورَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 التَّوْحِيدُ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ  
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ② يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ③ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

التَّوْحِيدُ اسم گئے حروف مقطعات میں ہند معنی زلیہ پانہ خدا تِلْكَ اِيْكَ الْكِتَابِ اسم چھہ قرآن مجید آیات۔ وَالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ بیہ یہ توبہ کن نازل آؤ کر نہ تہندس پروردگار ہندہ طرفہ یہ چھو بالکل ہند۔ نہ اوس منگان کہ ساری لوکن ہنز گچھہ تھہ پڑھ کرن۔ وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر واریاہ لوکہ چھہ پڑھ کران سم شیطاُن و تھہ راوہ راؤ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا خدا گوسوی قدرتہ وول سم آسمان بلند کر تھہم وراہ۔ وچھان چھو کہ تھہ تم آسمان تھہ پاٹھ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سڈ مستوی عرش پیٹھ۔ تھہ پاٹھ پیٹھ پاٹھ تھہم س شانس شوہ۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ کرن آفتاب نہ زون سخر نہ رام پر تھہ اکھاہ چھو سمو دو یو آندرہ پکان پنہ نس پنہ نس مدارس پیٹھ مقررہ و قس اندر۔ چنانچہ آفتاب آس و رہس پن مدار طے کران۔ زون چھہ آس رتیس طے کران یڈبڑ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ سوی چھو تم ساری کابین ہند تدبیر کران سمہ عالس آندر واقع سدان چھہ۔ سوی چھو تفصیل نکوینی نہ تشریحی دلیلہ صاف صاف بیان کران لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ تھہ توبہ قیامتک دوہ پنہ نس ہر وردگار س سیت ملاقاتک نہ نس نشہ حاضر سپد نک یقین کرو وَهُوَ الَّذِي

رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاحِينَ انْتِنِينَ  
يُعْشَى الْبَيْلَ النَّهَارِ طَائِفًا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾ وَ  
فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَرَةٌ وَجَدَتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعًا وَنَخِيلٍ  
صِنَوَانٍ وَغَيْرِ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا  
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾ وَإِنْ  
تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ انْتَابُوا عَلَيْنَا لِمَا خَلَقْنَا

مِنَ الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا یہ گو خدا سب سے زمین و ہر وہو آئس پیٹھ۔ یہ کمرن تھ منز پیدہ  
کوہ ناوہ ہند لنگر ہی بیٹھ سو آئس پیٹھ قرار کرہ۔ یہ پھرہ ون تھ زمینس اندر جو یہ تہ دیواو و مِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاحِينَ انْتِنِينَ یہ کمرن پر بیٹھ میوک اتھ منز زیز قسم جُورہ جُورہ، مدرتہ ژوک۔  
یُوٹھ تہ میوٹھ۔ اک ٹمہ رنگہ بیاکہ یہ رنگہ۔ اک ژھوٹ بیاکہ زیوٹھ۔ اکھ رود بیاکہ ڈلوم یُعْشَى الْبَيْلَ  
النَّهَارَ سَوِيَّ جُورہ اثر ہزہ تاریکی سیت ڈبگ گاش ولان تہ پوشیدہ تھاوان لَانِ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ بے شک اتھ منز چھہ واریاہ دلیلہ۔ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ۔ فخرہ کرہ وین ہندہ خیرہ۔  
بیٹھ پانڈہ چھہ یہ دلیلہ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ وَ فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَرَةٌ یہ چھہ زمینس منز زینک  
واریاہ فخرہ، قطعہ، چھہ چھہ۔ سم باوجود چھہ آسکہ بیون بیون تاثیر تھاوان چھہ۔ وَجَدَتْ مِنْ أَعْنَابٍ  
بہ چھہ ڈچھہ باغ وَ زُرْعًا بہ چھہ مختلف کھہہ۔ یعنی زرعی زمین وَ نَخِيلٍ بہ چھہ خزر کل صِنَوَانٍ  
وَغَيْرِ صِنَوَانٍ دو شاخل بہ اک شاخل يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ یعنی چھوٹک یوان دنہ اک آہ سیت  
وَ نُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ باوجود آک چھہ فضیلت دوان آس اڈین اڈین پیٹھ میون اندر  
(یعنی زمین کھوی، آب کھوی، مگر میوہ تہ پھل بیون بیون لَانِ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پز پانڈہ  
اتھ اندر چھہ بچہ دلیلہ خدایہ سندس گن آس پیٹھ عاقل تہ سمجھدار لوکن ہندہ خیرہ وَإِنْ تَعْجَبْ  
فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ انْتَابُوا عَلَيْنَا لِمَا خَلَقْنَا جَدِيدًا یہ ہر گاہ تمہ کئے کئے پیٹھ تعجب کر وتلہ چھہ

جَدِيدُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ فِي  
 أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾  
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ  
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى  
 ظَلِمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۶﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

بجس لایق کافرن ہنزیہ تھے کہ کیاہ سالیلہ اسہ میوہ گامڑ اسہ تو پتہ سموہ اس دوبارہ بیہ پیدہ کرنہ قیامتک  
 دوہ۔ بجس لایق جھہ یہ تھے ہی کہ تمین احمقن جھونہ تران فخرہ کہ تم ذات پاکن ساری مخلوق کمر پیدہ  
 کرن گوڈنی۔ تمس نش کیاہ عجائب جھو دوباریہ تم پیدہ کرن اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ تم لو کہ جھہ  
 تھے سموا انکار کور پنہ نس پروردگار س کیا زہ سمو کور پروردگارہ سندس دوبارہ پیدہ کرنس پیٹھ قدرتہ وول  
 آسس انکار اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعنی لو کن ہزنن گردن منز اسہ نال جھنمک طوق  
 اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ جھہ نارس منز واتن وال۔ تھے منز جھہ  
 روزن ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بیہ جھہ تم کافر توبہ نشہ بانبر کران عذابہ کس  
 واتہ نس اندر۔ عافیتک معیاد ختم جھونہ بروٹھی جھہ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وَقَدْ خَلَتْ  
 مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ حال جھہ تم برونٹھ جھہ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گذر سمت۔  
 یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کوسہ بدنتھ جھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظَلِمِهِمْ مگر تھہ  
 جھہ یثی کہ تہمدس پروردگارہ سند شان حلم و عفو جھونہ پریتھ لو کٹس ہڈس گنہس گرفتار کرن یرشہان۔  
 سو جھو لو کن ہند ظلم و ستم و چھان تو پتہ جھو و رگزر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ جھہ یہ تھے  
 تہ کہ جھہ پروردگار جھو سخت عذاب کرہ ون یقیناً۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس منز جھہ دوشوے صفت مگر پریتھ  
 صفحہ ظہورہ خیطرہ جھہ شرطہ اسباب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۸۰ اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْتٰى وَمَا تَغِيْضُ  
 الْاَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوْا وَاٰۤیٰتُ الْكُبْرٰى ۝۸۱ اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ الْكُبْرٰى ۝۸۲ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسْرَ الْقَوْلِ وَاَنْتَ  
 مِّنْ جَهْرَبِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝۸۳  
 لَهٗ مُعَقَّبٰتٌ مِّنْ اَبْيْنِ يَدَيْهِۦ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفُظُوْنَهُ

جھہ وان اسم کافر کیا زہ جھونہ اسم پیغمبر س پیٹھ کانہہ خاص معجزہ (بیس آس تھانڈان جھہ) نازل  
 سپدان اسم س پروردگار ہندہ طرفہ اثباتت منذر اول لکل قوم ہاد جہہ نہ حض جھونہ مگر نیم  
 گرہ ون۔ بیہ جھونہ تہہ و تہہ ہادہ ون۔ تہہ پاتھ پر تہہ قومہ خیطہ اکھ اکھ و تہہ ہادہ و ناہ اتاں گذر یومت  
 جھو۔ توہہ جھونہ امیک اختیار کہ تہہ کیا ہاو تہن سو معجزہ بیس تم طلب کرن اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ  
 اُنْتٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوْا اللہ تعالیٰ جھو زانان تہ سو روی تہ تھان جھہ پتہ یڈ منز پر ت  
 زنانہ۔ گور جھان پتو۔ پور جھانہ او ڈی۔ بیہ جھو زانان پتہ دانہ ہند تھوئن تہ ز تھن۔ تھن تہ مژدہ من۔  
 یعنی کم سپدان تہ زیادہ سپدان وَاٰۤیٰتُ الْكُبْرٰى ۝۸۱ اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكُبْرٰى  
 مقرر کرنہ امت علم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سو جھو پر تہہ پوشیدہ چیز تہ نون چیز زانہ  
 ون۔ سو ی جھو بوڈ تہ تھو سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسْرَ الْقَوْلِ وَاَنْتَ مِّنْ جَهْرَبِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ  
 وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ برابر جھو خلیہ سدس علس زہہ توہہ اندر سو شخص بیس لو تہ تہہ کرہ بیہ سو شخص بیس  
 بدہ تہہ کرہ۔ بیہ سو شخص بیس را تہ ہمزہ اندہ گتہ منز کھٹت روزہ بیہ سو شخص بیس دوہلہ نون پاتھ کامہ کران  
 آسہ۔ اور ہور پھیران آسہ۔ تہہ پاتھ سو پر تہہ اس زانان جھو تہہ پاتھ جھو پر تہہ آسز۔ حفاظت تہ کران  
 لَهٗ مُعَقَّبٰتٌ مِّنْ اَبْيْنِ يَدَيْهِۦ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفُظُوْنَهُ ۝۸۳ اَللّٰهُ يَٰعَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكُبْرٰى  
 جھہ تم تھامت تہ مقرر کر مت کہہنہ ملک اسم اکھ اس پتہ کامہ پیٹھ یوان جھہ تہ گڑھان جھہ تہ جھہ  
 روزان اسم انسانس بروٹھ کن تہ، تھر کن تہ۔ را جھہ تہ حفاظت جھہ اسم انسانس کران وار بہو بلا یونشہ

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
 بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
 مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ  
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

خدا یه سنده کلمه سبت۔ امہ سبت گزہر نہ زان کہ یلہ ملا یک چہہ پر ہتھ اہس حفاظت تہ را چہہ کران لہذا  
 یہ خوش کرہ تہ تہ کمر و۔ کفر و مصیبت تہ نا فرمانی کمر و۔ کیاہ پروا چھو۔ ملا یک چہہ را چہہ۔ یہ خیال کردن  
 چھو محض لغو۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ اگر چہ سو چھونہ ابتداء کانہہ عذابس گرفتار کران چنانچہ فرماوان چھو  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ہنز یا اللہ تعالیٰ چھونہ بدلاوان کنہ قومہ  
 کس رتس حالس صلا حقیس یوتان نہ تم پائے بدلاوان چہہ رتس حالس تہ صلا حقیس نا فرمانیو سبت یلہ تم  
 پنہ نس صلا حقیس منز خلل تراوان چہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو تہرہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت تجویز فرماوان  
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ہبہ یلہ اللہ تعالیٰ یشہان چھو کنہ قومہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت اوہ چھو  
 نہ تہ عذابس تہ مصیبتس کانہہ چیز اہدغ تہ دور ہیکان کر تہ سو چھو ضرور واقع ہکان وَمَا لَهُمْ مِنْ  
 دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ہبہ چھونہ تمن لوکن تمہ وقتہ کانہہ اکھاہ مددگار ہیکان سپد تہ نس ورا ی حتی کہ تم  
 ملا یک تہ چھنہ ہیکان حفاظت تہ مدد کمر تہ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ  
 السَّحَابَ الثِّقَالَ سو پروردگار گوسوی نس توہمہ بارشہ ہمدہ وقتہ ہاوان چھو وزلمہ نہ نہ گرہ و نہ تہ اندر  
 تمکہ پتھر پنک خوف تہ آسان چھو تہ تمہ منزہ بارش تہ رود پنچ امید تہ آسان چہہ۔ ہبہ چھو سوی پیدہ  
 کران تہہ ابرس نس رودہ سبت گو بیومت چھو آسان۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ  
 خِيفَتِهِ ہبہ چہ گرا یہ تسبیح پران تہندس حمدس سبت ملو تہ تسنز پاکی بیان کران تہند  
 تعریف کران ہبہ چہہ ملا یک تہ تسبیح تہ حمد پران تس پروردگارہ سندہ خوفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾  
 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ  
 لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ  
 بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۱۴﴾ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ  
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدْوِ  
 وَالْأَصَالِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ <sup>بہ</sup> چھو سؤی ترے تراوان۔ سؤی ترٹھ چھو واتاوان تَس پیٹھ یُسُد سؤ  
 یڑھان چھو <sup>وہم</sup> یُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ <sup>سم</sup> کافر تہ مکر چھہ بحث ہیوان کران  
 توہہ سیت یارسول اللہ تَس خدایہ سدس حقس اندرئس عظیم الشان چھو۔ بہ چھو سخت رشن وول۔ تَس  
 پزہ کھوژن۔ مگریم چھنہ تَس سُنہ قسمہ کھوژان تَس چھہ شریک ٹھراوان۔ بہ چھو سؤ بدن ہندس  
 مگنکس اجابت تہ کران کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ تَس شوبہ پز پائٹ نادتہ آلودین حاجتہ وقتہ کیا زہ اجابت  
 کرئج قدرت چھہ تَس یاژ <sup>والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ</sup> <sup>سم</sup> لو کہ تَس ورا ی بین باطل معبودن آلو  
 ووان چھہ <sup>لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا</sup> <sup>تم</sup> چھنہ تہندس مگنکس سُنہ قسمہ اجابت کران سُنہ چیزہ سیت۔  
<sup>إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ</sup> مگر تھہ پائٹ پتھہ پائٹ کانہہ شخصہ دورہ آئس  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ</sup> گن آتھ زہ و ہراوتھ خیال کرہ سؤ آب گوہیم پانے آس منزواتن۔ حالانکہ سؤ آب ہیچہ نہ پائے  
 اسدہ دورہ آتھ زہ مہوراو نہ سیت آسندس آسس منزواتن۔ پیچہ چھہ مثال تمن لوکن ہنز سم معبود  
 برحقس ورا ی تین معبودن مکان چھہ۔ مگن تہ آلودین شوبہ تَس ئس پریتھہ قسمہ نفع وضررک مالک  
 چھو۔ ئس پانہ عاجز تہ محتاج آسہ۔ تَس آلودنس منز کیاہ فائیدہ چھو۔ <sup>وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ</sup>  
<sup>قُلْ كَافِرَانِ هُمْ مَكْنُونٌ</sup> چھونہ مگر بے اثر تہ بے فائیدہ۔ <sup>وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup>  
<sup>طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدْوِ وَالْأَصَالِ</sup> بہ چھہ معبود برحقہ سی تم ساری نماز تہ سجدہ کران تم



أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا  
وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ  
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا  
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

آسمان سے زمین اندر چھ۔ بعض مخلوق خوشی سمیت۔ بعض مجبور سپت۔ یہ چھو تہند سایہ تہ نس نماں  
شمس تہ شمس قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہہ پر ژہیوک آسمان تہ زمین ہند رب کہہ چھو  
تہ جواب ونہ نس اندر کر کن قُلِ اللَّهُ تہہ فرماؤ کہ یوزے اللہ تعالیٰ ای چھو تہن ہند رب تہ  
مالک۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فرماؤ کہ کیاہ سمہ توحید چہ دلیلہ یوزت بناو کہہ توہہ نس  
درای پن دوست تہ مددگار تم معبود لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا تہ سکن نہ اختیار تہ  
طاقت چھو پنہ نین بان ہندہ خیرہ ہنہ نفعک تہ کنہ ضررک بین نفع یا ضرر و اتاوی چھنہ تھی قُلْ هَلْ  
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ پر ژہیوک گاشدار تہ اون چھا برابری أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ  
وَالنُّورُ بہہ چھاہ تہ گاش برابری۔ یعنی موجدس تہ مخرکس منز چھہ تہہ فرق ایژ گاشدارس تہ انس  
منز چھہ۔ تھے پاٹھ چھہ توحیدس تہ شرکس منز تہہ فرق ایچھہ تہ گاشس منز چھہ۔ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ  
شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ کنہ سمو ٹھہر او خدا نس تم شریک سمو خدایہ سندی  
پاٹھ مخلوق پیدہ کرمت چھہ۔ توپتہ آہہ نہ سکن کا نہہ فرق بوزنہ خدایہ سندی مخلوق اتن منز تہ تہندین  
مخلوق اتن منز قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تہہ فرماؤ کہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو  
پر تھہ چیزک پیدہ کرہ ون۔ مخلوقات چھہ ساری تہندی یات بہہ چھو سو کھوی پنہ ذاتہ کن تہ صفا توکن۔  
ساری مخلوقاتن پیٹھ چھو غالب، ایچ مثال أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ ان ترود آسمان چہ طرفہ  
روداہ فَسَالَتْ أوديةً بِقَدَرِهَا یوزے رود پوک نالو منز پنہ پنہ اندازہ موجب۔ یعنی بدہ نالہ منز

أَوْ دِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَبَدًا زَابِيًا وَمِمَّا  
يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ  
مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ه فَاَمَّا  
الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ه وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
فَيَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝  
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ

زیادہ لو کبیر نالہ منز کم فاحتمل السبیل زبدا زابیا پس نکل ام رود وون پائس پیٹھ پوس پیٹھ سیت  
ژھوٹھ تہ لوہہ آس۔ بیاک مثال و ممّا یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیة اومتاع زبدا  
مثله بیه ہجو و تھان تموجیز و اندرہ سم چیز سم نارس پیٹھ گالان چھہ (سون، روجھ تہ ترام ہو) گنہ  
زیوریا سامان بنانہ خیطر ہ پوساہ سمھ آہ کس پیٹھ ہی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اللہ  
تعالی ہجو پیٹھ پاٹھ پزج تہ لہزج مثال بیان فرماون یعنی ایمانج تہ کفرج توحیدج تہ شرع کمال فرماوان  
فا مّا الزّبّد فی ذہب جفآ تو پتہ لیس پوس ہجو آسان سیلابگ یاسونک تہ روپگ سو ہجو پائے  
ہو کھت گڑھان تو پتہ ہجو سورا تو تھ یوان شیرنہ و امّا ما ینفع الناس فی الذّرض  
مگر لیس چیز لو کن بکت مفید ہجو آسان آب یاسون تہ روپھ سو ہجو روزان موجود تہ باقی ذنیاع اس اندر۔  
پیٹھ پاٹھ ہجو لہز گلان۔ پوزہجو ظاہر تہ نون نیران۔ اگرچہ اپز دبا وئن کینہہ کالاہ ہزس مگر پتولا کہ ہجو  
پوزوی پزان کذالک یضرب اللہ الامثال پیٹھ پاٹھ ہجو اللہ تعالی لو کن سمھ فجرہ تارنہ خیطر ہ مثالہ  
بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى سمبولو کو خدیہ سد احکام مان توحید و طاعت اختیار کرنہ  
سیت تہ ہدہ خیطر ہ چھہ رٹمزور۔ سور رٹمزور گنیہ جنت تہ جتھ نعوہ والذین لم یستجیبوا الہ بیه سمبولو گونہ  
خدیہ سد احکام مان کفر و مصیبتس پیٹھ قائم روزنہ سیت۔ تہ ہدہ خیطر ہ ہجو جہنمک عذاب۔ لو ان  
لهم نافی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به ہر گاہ تہن نشہ تہ سوزوی مال آسہ بہ سارسی زمینس

لَهُمْ قَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ  
سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا أُولَئِكَ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَمَا أُولَئِكَ بِبِئْسَ الْأَلْبَابِ ۝  
أَلَمْ نَأْتِزِلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ۝ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئَا  
الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ۝ وَلَا يَنْقِضُونَ الْعَهْدَ ۝  
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۝  
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۝  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۝ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۝ وَيَدْرءُونَ

منز چھو بیہ تنہہ سیت بیہ ثبوت مال ضرور دین بدلہ تمہ عذابہ نشہ موکنہ خیرہ اولئک لہم سوء  
الحساب تمہی لوکن ہمدہ خیرہ چھو بیہ حساب وما اولئک بہم جہنم وبتس الیہاد بیہ چھہ ہنزی جانی  
نار جہنم کاژاہ چھہ جابا چھہ سو آفمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعلی آیا سو شخص  
نہیں زمانان چھو بیہ کیندہاہ توہم بیہ نازل آؤ کر نہ تہمدس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ سو زوی چھو حق تہ  
پوز۔ سو چھاتس شخصس ہیو نہیں اؤن آسہ ہرگز بیہ چھہ مثال با ایمانس تہ کافرہ سنز انما یتذکراولوا الالباب  
نصیحت چھہ رتان مگر عقلہ والی الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون العہد عقلہ وال گئے تہ تم  
پور چھہ کران خدایہ سندس عمدس بیہ چھہ پھلوان تنہہ عمدس نافرمائے سیت والذین یصلون ما  
امر اللہ بہ ان یوصل بیہ گئے عقلہ وال تہ لو کہ تم جملہ ناوان چھہ تہن حکمن تممن ہمدہ جملہ ناوک حکم  
کور اللہ تعالیٰ ان یعنی صلہ رحم و یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب بیہ تم کھوژان چھہ پنہ نس  
خدائس بیہ چھہ سخت عذابک اندیشہ کران والذین صبروا ابتغاء وجه ربہم بیہ تم صبر کور  
فرمانبرداری پیٹہ بلائسن تہ مصیبتن پیٹہ۔ بیہ گنہو نشہ پتہ روز نس پیٹہ پنہ نس پروردگارہ سند رضا حاصل  
کر نہ خیرہ واقاموا الصلوة بیہ تھاو کہ نماز برپا۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة بیہ کور کہ خرچ تمہ مالہ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۲۲ جَنَّتْ عَدْنٌ  
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَائِكَةُ  
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۲۳ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ  
عُقُوبَى الدَّارِ ۲۴ وَالَّذِينَ يَبْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۲۵ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

منزہ نِسْ اسی عطا کوزکھ، پوشیدہ پائٹھ تہ ن پائٹھ ویدرزون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ بیہ جہہ ذور کران نیکیو  
سیت بدیہ کاغے تمن نسبت بدی کرہ تم جہہ تس نسبت نیکی کران أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ تمنی لوکن  
ہمدہ خیطرہ جھوزت انجام آخر تمس گرس اندر سوزت انجام گو جَنَّتْ عَدْنٌ یَدْخُلُونَهَا تمی  
جنت یٹھ منز تمن واتن جھوزت روزن جھوزت وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ بیہ تھمدین مالین  
بُدبئن بیہ تھمدین جوزن۔ یعنی مردن زنانہ۔ زنان خاوند۔ بیہ تھمدین ٹھرن مرین۔ یمن جنس وارچ  
صلاحیت تہ قابلیت آسہ۔ یعنی تم با ایمان آسن۔ تم تہ واتن جنس تھمدہ برکتہ تھدہ در جس منز تھہ منز  
تم آسن وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ بیہ آسن ملایکہ اٹران تمن نشہ پر تھدہ دروازہ کن۔ ونان  
آسٹھہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقُوبَى الدَّارِ ای جنتیو سلام بو یوہ۔ بیہ بڈمز در بنیایہ توہیہ صبرکہ  
برکتہ۔ جہہ کیا زودودین جس پیٹھ مضبوط۔ جس کیاہ رت جھوزتو مقام نِس توہیہ حاصل سپد وَالَّذِينَ  
يَبْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وون گئے تم لوکھ تم پھڑاوان جھہ خدلیہ سند عمد تمکھ مضبوط تہ  
محکم کرنہ پتہ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیہ جھہ ژٹان تم چیز تمن ہمدہ حملہ ناو تک اللہ تعالیٰ ان  
لحم کورمت اوس یعنی آشنائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بیہ چھہ دنیاغس منز فساد تھلان ٹھہ تہ نافرمانی سیت  
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ تمی لوکھ کیا گئے ہمدہ خیطرہ لعنت تھہ۔ سو گویہ خدلیہ سزہرہ حمتہ لغہ ذوری ولہم  
سوء الدار بیہ جھو تھمدی خیطرہ تھہ گرہ سو گونا جھنم۔ کافرن ہنز ظاہری دولت و ثروت و جھت

وَقَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۳۷﴾  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ  
 يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿۳۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ  
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا بِهِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيَّ

گوشه نه به دھو کہ لکن کہ سم لو کہ ما آن مورد رحمت کیا زہ رزق کیفیت چھ اذکھ یسٹ الرزق لمن  
 یشاء ویقزل اللہ تعالیٰ ای چھو رزق ہرہ راوان کس یرشان چھو تہ کس بیہ چھو سوی رزق منرتنگی  
 کران کس یرشان چھو تہ کس۔ بیہ چھو نہ رحمت وغضبک معیار وقروحوا بالحقوة الدنيا کافر چھو خوش  
 سپدان دنیا چہ زندگی سیت۔ بیہ چھو نہ خوش سپدان چھو فضول کیا زہ وما الحیوة الدنيا فی الآخرة الامتاع  
 حالانکہ آخرت چہ زندگی مقابلہ چھنہ دنیا چہ زندگی مگر حقیر اکھ چیز اکھ سمہ سیت تمتح یوان چھو تلنہ کہ کہہ نہ  
 کالا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه بیہ چھو ونان کافر چھنہ کس نبوتس پیٹہ اعتراض کرنہ  
 خیطر ہ کہ کیا زہ آونہ نازل کرنہ حضرت محمدس پیٹہ نتیجہ معجزہ پنہ کس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ پیٹہ  
 برو نھمن پیغمبرن پیٹہ نازل سپدان اوس۔ حضرت موسیٰ سند عصا ہیو۔ حضرت صالحہ سز و وثن ہش  
 قل ان اللہ یضل من یشاء ویھدی الیہ من اناب نہہ فرما یو کہ کہ ہنر پائہ اللہ تعالیٰ چھو تہ راوہ  
 راوان کس یرشان چھو تہ کس۔ بیہ چھو سوی تہ ہاوان پائس کس کس کس ایہ، موجود سپدہ کس کس۔ بیہ  
 کس ہزہ وتہ ہند طالب اسہ۔ الذین امنوا وطمین قلوبہم بذكر اللہ سمولوکو ایمان اون۔ بیہ چھو چھنہ دل  
 قرار رنان خدایہ سندہ یادہ سیت ال الذین کول اللہ تطمین القلوب وارہ یوزو کہ یاد خدا کر تک خاصیت چھو کہ  
 تمہ سیت چھو با ایمان ہندین دن قرار تہ سکون حاصل سپدان الذین امنوا وعملوا الصالحات  
 طوبی لهم وحسن ما بہ سمولوکو ایمان اون بیہ کر کیر رزہ عملہ چھنہ خیطرہ چھو دنیا س اندر ت  
 حال۔ بیہ آخر کس اندر ت انجام۔ با عزت و ایسی کذالك أرسلناک فی آتہ قد خلعت من قبلہا امم بیہ

أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا لَإِزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَصِيبُهُمُ

پیغمبر پانچو آسمه توبه برودن پیغمبر سوز برودن نهمین امتن کن پیغمبر پانچو سوزوه آسمه توبه تیر یارسول الله اکبر امتن کن پیغمبر۔ سیمه امته برودن واریاه امر محمد رتموه هجده لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پیغمبر نه پیر و تمن پیغمبر سو کتاب یوسه آسمه توبه کن بطریق وحی نازل کر۔ تمن بهزه با آتمه حجه نعمو پیغمبر شکر دهن۔ آتمه نفس قدر زانن وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مگر سیم هجه ناسپاسی ته گهر ان نعمت کر ان رحمته ولس خدا بس قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ نه فرما دیو که سوی رحمته وول خدا چھو میون پروردگار۔ کانہ معبوداه چھونه تس وروی۔ تس پیغمبر کیاہ کورمه اعتماد ته توکل۔ بیہ چھوس تس کن یو رجوع کران۔ تس زعمه چھومہ وائن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بیہ هر گاه کانہ قرآناه یعنی کتاباه آسمه باسمه سیت کوه کلمه چایه پیغمبر بیس چایه کن پکانونه بیکن یا سیمه سیت دور دراز و ته طے کر نه بیہ پایایمه سیت مرده آتمه بیکن کرناونه یعنی مرده سپد بن زنده تمه سیت کیاہ بنه با۔ سیم کافر انهن نه توبه ایمان کیازه سیم چیز هجه موثر حقیقی بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا بلیمه چھو سوری اختیار کنس خدا بس آتمه۔ سوی بس هدایت کره تس بنه هدایت أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا کیما یوس ته نامید سپدنا با ایمان تمن مجزه ژهانده وین لوکن بنده ایمان انده نشه۔ اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا کیازه الله تعالی اگر یوه هاسو کره هاسارنی لوکن هدایت مگر تم یو ژهنه ته بعض چکن بنده وچهمه۔ لهنه انده تس هدایت یسنده هجه سو یژهمه۔ مجزه و چکن یا منته و چکن۔ یسنده هجه سو هدایت یژهمه تس کن بنه نه کنهنه ته۔ مجزه و چکن یا منته و چکن۔ وَلَا لَإِزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَصِيبُهُمُ مَخاصعوا قارعه همیشه روزه کافرن ته مکرن گهره ته

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخِذُوا بِمَوْلَانِمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٦٥﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومًا سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ  
 بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَطَّاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 مَكْرَهُمْ وَوَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦٦﴾

تا فرمائی سبب کانہ نہ کانہ مصیبتہا نہ بلا یاہ و اتان اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ یاواتیکھ بلای گرن نزدیک  
 حَتَّىٰ یَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ یوتان واتہ اللہ تعالیٰ سُدَّ وَعْدہ یعنی آخر تک عذاب نِس مر نہ پتہ شروع سپدہ اِنَّ  
 اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِيعَادَ پز پات اللہ تعالیٰ چھو نہ پنہ نِس و عدس بدل کران۔ لہذا چھو تین پیٹھ عذاب  
 واقع سَدَن یقین۔ تم کو کن ہند انکار یا استہزاء نہ ٹھٹھہ یہ چھو نہ تو ہی سیتِ نھو ص بلحہ  
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخِذُوا بِمَوْلَانِمْ ہنز پاتھ ٹھٹھہ آئی کرنہ کا تھن  
 پیغمبرن تم توہمہ برو تھہ آس کس تراومہ یکہ کینہہ کالاہ تم ٹھٹھہ گرہ و ن کافر۔ تمہ پتہ رٹ مہ تم نہ  
 کرم گرفتار عذاب فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ نِس چھو توہمہ معلومی میون سزاکیتھ اوس تھن نسبت۔ تیو  
 ٹھوی سزاکیا دمہ بو تھن ٹھٹھہ کرہ و نین لو کن تہ تم توہمہ ٹھٹھہ نہ استہزاء کران چھہ اَفَمَن هُوَ قَائِمٌ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ آیا سو پروردگار نِس قاسم روز تھہ پریتھہ شخصہ سزہ کامہ و چھان نہ ژر ژان  
 چھو سو تراویا تم توہمہ ٹھٹھہ کرہ و نین سزاندہ و رای وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومًا سَمُّوهُمْ بیہ ٹھرا و مشر کو  
 خدا نِس شریک۔ تہہ فرمایو کہ یارسول اللہ تھن ہند ناؤنتو۔ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ کینہہ تہہ  
 چھوہ خدا نِس صحیح خبر کران یہ نہ تس معلوم چھو تمام ذنیاعس اندر اَمْ بَطَّاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ کینہہ محض ظاہری  
 نقلن ہمدہ اعتبارہ چھہ تھن شریک و نان۔ حقیقت چھہ تھن لفظن ہنز کئی بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ  
 بلحہ چھہ تھن کافر ن پنہ مغالطہ تھہ جان یوان بوز نہ سمو تھو سیت تم شر کس مبتلا سپد مت چھہ





أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ﴿۳۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِن  
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَمَأَلِكُ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَرَيٍّْ وَلَا وَاقٍ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ  
 جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُحِلَّ لِحُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ﴿۳۸﴾ يَدْعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ  
 وَيُشْبِهُتْ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ

أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ناد جھوس بودوان سارنی لوکن تس گن بیہ جھو تس گن سارنی رجوع کرن  
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا بیہ کور اُسہ نازل بیہ قرآن مجید حکمہ عربی پاٹھ۔ جھہ پاٹھ بین پیغمبرن  
 خاص خاص زیوہ اندر خاص خاص احکام نازل کتر۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
 مَأَلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَرَيٍّْ وَلَا وَاقٍ بیہ ہر گاہ تمہہ بفرض محال مکرن ہنزن خواہشن، نفسانی خیالاتن  
 یعنی احکام منسوختہ یا احکام محرفن ہنز پیروی نہ اتباع کتر۔ توبہ نش صحیح علم واتنہ پتہ۔ تلہ جھونہ توبہ  
 خدائس نشہ کانہہ حمایت کرہ وناہ۔ بیہ تہندہ عدلیہ نشہ کانہہ بچاوہ وناہ۔ بیہ یلہ گونہی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلمس سبت معاملہ باقین ہنز جھنہ تھی۔ اہل کتابو اندرہ بعضیو کور اعتراض کہ نبی کریمس کیا زہ جھہ  
 واریاہ زنانہ۔ تمیک جواب جھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ  
 أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بیہ سوز اُسہ پیغمبر توبہہ بروٹھ، بیہ کتر اُسہ عطا تہن ثمر باٹھ۔ تمہہ نہ جھوہ تہندی پاٹھ  
 پیغمبر۔ توبہہ اہل و عیال اُسُن کیا زہ جھہ تم سو کتھاہ زنانان۔ بیہ جھنہ تڑوہہ کتھاہ یوسہ رسالتس نہ نبوتس  
 خلاف جھہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ اوس نہ کانہہ پیغمبر اہل خدایہ سندہ  
 حکمہ وراہی کانہہ آیہ یا معجزہ پیش ہیجہہ ہاکتر تھ لِحُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ پرستھہ وقتہ خیطرہ جھہ مناسبت احکام  
 نہ مناسب واقعات مقرر کرنہ آمت تموی منزہ گے معجزہ نہ آیات يَدْعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِهُتْ  
 وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ تموی احکامو منزہ جھو نہ ہوان اللہ تعالیٰ تم حکم تم سویشھان جھو۔ باقی جھو تھوان تم



مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنۢ عُقِبَى الدَّارِ ﴿۴۱﴾  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ ۖ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا  
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۴۲﴾

پئے آسہ تمہیں عذاب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنۢ قَبْلِهِمْ ہنر پانٹھ ہم کافر ہمیں بروٹھ آس تموتہ چھہ کم کم  
 تدبیر بروٹھہن بینبرن ہندس مخالفس منزکر مت۔ ہتھہ پانٹھ ازک کافر چھہ تہندس مخالفس منز کم کم  
 تدبیر کران ہس تہہ مہ ہنر و تمیک کانہ پروا قَوْلَهُ الْمَكْرُجِبِيْعًا اللہ تعالیٰ ہی نشہ چھہ ساری تدبیر کیا زہ  
 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ تہس چھو معلوم ہس شخص کیاہ چھو کران وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنۢ عُقِبَى  
 الدَّارِ عنقریب زانن کافر زت انجام کتہدہ خیطرہ چھو مسلمان ہندہ خیطرہ منہ کافر ان ہندہ خیطرہ  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ بیہ چھہ ونان کافر کہ تہہ چھو نہ پیغمبر قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا  
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تہہ فرماؤ کہ تہندہ انکار کرنہ سیت کیاہ چھو۔ یہ چھو بے اعتبار ہس چھو اللہ تعالیٰ گواہ  
 مہ منزتہ توہہ منز میانس پیغمبر آس پیٹھ وَمَنْ عِنْدَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ بیہ چھو گواہ میانس پیغمبر آس  
 پیٹھ سو شخص ہس نشہ تورات وانجیلک علم چھو۔ مثل عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔





أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۵﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۶﴾  
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  
 أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

تمنوی جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بے سوزنداسہ  
 کانہہ پیغمبر اہ مگر تمی زیوہ کلام تہ بیان کرہ ون یوسہ تہمدہ قویج زیو آس سٹھ سوادہ تمن بیان کرہ خدایہ  
 سند احکام فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ نبتہ کر تھ تہ نبس اللہ تعالیٰ یرشہان چھو تس چھو گمر اہ  
 کر ان۔ سو چھونہ تم احکام مانان نبس یرشہان چھو تس چھو تھ ہاوان راہ را اسس ن۔ سو چھو تم احکام  
 قبول کر ان تہ مانان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سومی چھو غالب تہ حمتہ وول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بے  
 سوزاسہ موسیٰ علیہ السلام بن آیات ہیتہ۔ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حکم کورس اسہ کہ  
 کڈن مکن قوم گھرہ چو گٹو منزہ ایمانہ کس نورس ن وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ بے پاوکہ ژ تیس نمون تہ  
 مہر بائین مہر دوہیہ تکفین تہ مصیتن مہر دوہہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہنز پاٹھ تھ ژ تیس  
 پاوس منزہ چھہ بڈ لغمانہ پر تھ مہر کرہ ونہ تہ شکر کرہ ون سہہ خیلرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا  
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بے پاو و ژ تیس بلہ موسیٰ علیہ السلامن ڈوپ پنہ نس  
 قوس ای قوم یاد کر و خدایہ سز نمٹ یوسہ توبہ عطا کر کوہ بلہ تانجات دیت کوہ فرعونہ سہہ قومہ نشہ  
 یسومونکم سوء العذاب سم توبہ وانتاوان آس کڈر عذاب وَ يَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ ماران آس  
 تہمدین نیجین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ بے آس زندہ تھاوان تہمن کورین سمہ بڈ تھ زمانہ کن و فی  
 ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھ منز آس تہمدہ خیلرہ بڈ آزمائش تہمدس پروردگارہ سہہ طرفہ وَإِذْ

وَيَذَّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ  
 مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۶ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ  
 لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝۷ وَقَالَ  
 مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَأَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ  
 اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۸ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
 قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعْرُبٍ ۝۹ وَالَّذِينَ مَنَعُوا بَعْدَهُمْ ثَلَاثًا  
 يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بیہ کمر و یاد اکی بنی اسرا نیلویلیہ عام اعلان کور تہجد پروردگار ان اگر تہہ شکر گذاری کمر وتلہ ہر رواوہ یو نعمت و لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ہر گاہ کفر ان نعمت کمر وتلہ چھو میون عذاب سیٹھاہ سخت۔ سو سخت عذاب گو نعمت آتھہ بن۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَأَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بیہ فر مو موسیٰ علیہ السلامن پنہ نس قومس، ہر گاہ تہہ کفر کمر و یا کفر ان نعمت کمر وتہہ تنبیہ تم ساری زمینس منز چھہ جنوتہ انسانو آندرہ کانہہ پراو چھونہ تمیگ فَأَنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو بالکل بے نیاز تمام مخلوقن نشہ۔ سو چھو سزاوار حمد و ثنا حمد و پیشس کانہہ یانتہ پیشس أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ای کافر و کیاہ تو بہہ چھنا وا اثر مشر خبر تمکن لوکن ہنز تم تو بہہ برو تھہ آس قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعْرُبٍ وَالَّذِينَ مَنَعُوا بَعْدَهُمْ مثلاً نوح علیہ السلامہ سیدہ قوچ، یا قوم عاد، ہود علیہ السلامہ سیدہ قوچ یا قوم ثمود، صالح علیہ السلام سیدہ قوچ خبر۔ بیہ تمکن لوکن ہنز تم تمکن پتہ آی لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ تم آس بے شمار۔ بیت زہ تہندہ گریند زانہ نہ بہ تفصیل کانہہ تہ خدائس و رای جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تمکن نشہ وات پیغمبر تہنزہ نہہ دلیلہ بیتھ، خدا یہ سزہ کتابہ بیتھ فَرَدُّوا أَيُّبَهُمْ فِي أَقْوَامِهِمْ ہس واتا و تمواتھ ہن تہندین آس

اَيُّدِيهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ  
 وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝۹ قَالَتْ رُسُلُهُمْ  
 اِنِّىْ اِلٰهُكُمْ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ  
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۝۱۰  
 قَالُوْا اِنَّ اَنْتُمْ اِلٰهٌ مِّثْلُنَا نَرٰى وَاَنْ تَصَدُّوْنَا  
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۱  
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلٰهٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اِلٰهَ يَمِيْنِ

اندر یعنی تم کہہ ناؤ کہ تھو پے۔ و ننه دیت بھج نہ کینہہ۔ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ۔ ۝۹  
 اس چھہ انکار کران تھہ ساری یہ بیٹھ تہہ سوز نہ آمت چھوہ یعنی توحید و ایمان۔ وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا  
 تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ۔ بیہ چھو اسہ شک تمہہ دینک بھج کُن اسہ تہہ نادروان چھوہ کس شک ترد پیدہ  
 کرہ ون چھو۔ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّىْ اِلٰهُكُمْ تھند یو بیغمبر وون تھن کیاہ معبود برھس منزتہ چھا شکی  
 تہہ نہ ہرگز کیا زہ تھندہ توحید چہ دلیلہ بھجہ ظاہر تہہ نہ۔ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ کس کس پیدہ کرہ  
 ون چھو آسمان تہہ زمین ہند۔ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ۔ سؤی چھو توبہ نادروان ایمان کُن  
 تہہ اسلام کُن۔ يَتَّه توبہ ہر تھنمیں گنہن مغفرت کرہ۔ وَيُوْخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى۔ بیہ بھجہ مہلت  
 دیہ توبہ عمر ہند اس مقرر کر نہ آتس و قس تان۔ قَالُوْا اِنَّ اَنْتُمْ اِلٰهٌ مِّثْلُنَا۔ تم لگ دینہ تہہ  
 چھوہ نہ مگر اسی ہوا انسان۔ توبہ اندر کیاہ زیادتی بھجہ ہمہ سبت اس تھندون مانو۔ نَرٰى وَاَنْ تَصَدُّوْنَا  
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا۔ بظاہر چھوہ تہہ یشھان اسہ پتھ رُن تھن معبودن ہنزہ عبادتہ نشہ یکن ہنزہ  
 عبادت سان مال بڈبب کران آس۔ ہر گاہ فی الحقیقت تہہ پوز و نان چھوہ۔ فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ  
 تلہہ آو اسہ نشہ کانہہ ن دلیلہ۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلٰهٌ مِّثْلُكُمْ۔ تمونہ نیو بیغمبر وون بھجہ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ  
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَا  
 أَنْ نَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا  
 أَذَىٰتُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ كُنُوزُكُمْ مِنْ آرِضِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا  
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَلَكَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنْسَلِّتَكُمْ  
 مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿۱۴﴾

بے شک اس جہنہ مگر تو ہی ہو انسان وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ چھو  
 پن فضل سے مہربانی کر ان پنہ نیو بندو آندرہ کس پیٹھ یڑھان چھو وَا مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ سانس اختیار س منز چھنہ یہ تمہہ کہ اُس کیاہ اُو توہہ نشہ پائے کانہہ دلپاہہ ان خدایہ سندہ  
 حکمہ وراے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ با ایمان ہزہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَمَا لَنَا  
 أَنْ نَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا اسہ تمہہ چیز ہیکہ پتہ رتھہ خدایس پیٹھ توکل کرنہ نشہ۔ حالانکہ  
 اسہ ہادہ تمہی سارے رزہ و تہ۔ سمن منز دنیاو آخر تک نفع چھو۔ ہر گاہ توہہ سون وُن ناپندہ تھہ اسہ توہ  
 تکلیفی دیو کانہہ غم چھوہہ وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَىٰتُنَا اُس گرو ضرور صبر تہندین سارنی تکلیفن پیٹھ  
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرن والین ہزہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ كُنُوزُكُمْ مِنْ آرِضِنَا أَوْ لَتَعُودَنَّ فِيْ مِلَّتِنَا بیہ دُوب کافر و پنہ نین پیغمبرن اُس  
 کدوہ تمہہ ضرور پنہ نیو شہر و منزہ نہ پھیرو واپس سانس دیش کن۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهَلَكَ  
 الظَّالِمِينَ \* وَلَنْسَلِّتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ پس سوز اللہ تعالیٰ ان وحی تمن پیغمبرن کن کہ پروانہ ہزو  
 کینہہ یو چھوس قسم ہاو تھہ فرماون کہ بوگا لکھ تم ظالم۔ تہندہ گالہ پتہ بسا وودہ تمہی تہندین شہرن اندر



وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ  
صَدِيدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَوْ بَرُّهُمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ  
لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ ۝۱۸  
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ إِنَّا بَشَائِرُكُمْ

ذٰلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي یہ مہربانی ہے تم لوکن ہمدہ خیرہ ہم کھوڑن مہ بروئہ کنہ  
جواب دہی خیرہ وودنہ روزئس۔ یہ کھوڑہ میانہ عذابئس وعیدئس وَأَسْتَفْتُوا وَحَابَ كُلِّ جَبَّارٍ  
عَنِيدٍ توپتہ نچ فتح پیغمبر و۔ اللہ تعالیٰ ان کمر تمن فتح عطا۔ توپتہ گوہند پریتھ کانہ سرکش دشمن نامید  
تہ خوار مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ئس جبار عنیدہ سہدہ خیرہ ہھوڈنیوی عذابہ علاوہ بروئہ نار جہنم ہے منز  
تم واتن۔ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ یہ پیہ چاونہ سوتتہ جہنمئس منز سوا آب ہےتھ سیت جہنمئس ہند پیل  
تہ پاک آسہ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ دامہ دامہ آسہ سوچوان سخت یوٹھ آسہ موکھ۔ سو آسہ نہ  
تتھ پیگتھی ہیکان۔ پھسہ لدتہ بدمزہ آسہ موکھ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ یہ آسہ ئس موج سختی  
مخسوس سپدان بدنہ منزہ پریتھ جایہ۔ والہ گڈو منزہ تان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مگر مران آسہ نہ وَمِنْ  
وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ تمہ پتہ تہ آسئس لمہ خوتہ سخت عذاب مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ بَرُّهُمْ مثال تمن  
لوکن ہنزہ سمو انکار کورنہ مفر کور پنہ ئس پروردگارئس أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ  
تہنزہ رتہ عملہ ہےتھ تتھ سورہ ڈیرئس ہےتھ و اوہھسکراوہ سخت وادکہ دوہہ۔ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا  
عَلَىٰ شَيْءٍ تم پیہ کنہ نہ تمن ملکن ہند کانہہ فائیدہ حاصل کترتھ ذٰلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ پیہ گنیہ  
دور ودر ازگمر ای یوسہ رشڈو ہدلیہ نشہ سیٹھاہ دور ہےتھ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
بِالْحَقِّ ژہ چھو کھناو چھان ای وجہہ وہہ کہہ پزیاٹ اللہ تعالیٰ ان کمر آسمان تہ تہ زمین تہ پیدہ۔ ہنزہ پاٹھ



إِلَىٰ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا  
 تَكُونُونَ وَلَوْ مَوَّانَفْسِكُمْ مَا أَنَا بِبَصِيرَةٍ وَمَا أَنْتُمْ بِبَصِيرَةٍ  
 إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  
 يُحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿۱۴﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً  
 طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿۱۵﴾

فَاسْتَجَبْتُمْ لِي صرف سہنجوی کہ میرے دیت تو میرے کفر سے نہ توبہ کرو تھ سوچنے وراوی اجابت  
 تسلیم فَلَا تَكُونُونَ وَلَوْ مَوَّانَفْسِكُمْ کس مہ کمر و تہہ میرے کج ملامت بلکہ کمر و ملامت پنہ نین پانن مَا  
 أَنَا بِبَصِيرَةٍ وَمَا أَنْتُمْ بِبَصِيرَةٍ دون ہیکو وہ نہ بو تہہ عذابہ بشرہ مولا و تھ کیا زہ توبہ کمر وہ میانس و نہ  
 نس پیٹھ عمل خدایہ سند فرمان موانوہ نہ نہ ہیکو تہہ میرے عذابہ بشرہ مولا و تھ۔ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا  
 أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ یو جھوس انکار کران تہ اظہار بیزاری کران تہہ جس میرے شریک خدایانہ کس پیٹھ  
 از کہ برو تھہ دنیاس اندر اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہتھ کتھ اندر جھونہ کاہہ شک کہ  
 مشرکن ہندی خیطرہ جھو کڈر عذاب وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بیہ بین و اتا و نہ تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ کر کیر رتھہ عملہ تین جنتن اندر سمو منز جو یہ  
 پکان آس خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ہمیشہ روزن تین جنتن اندر خدایہ سہہ لحمہ سیت تَحَيَّتُهُمْ  
 فِيهَا سَلَامٌ دعاتہند آسہ جنتن اندر بلفظ سلام۔ دنیاس منز جھہ سلام سلامتی ہند دعا جنتن اندر آسہ  
 سلام سلامتی ہند مبارکباد۔ تین جنتن بیہ تھہ پاتھ سلام کرنہ۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ  
 مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ کیاہ توبہ جھنا معلوم کہ اللہ

تَوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُن رَّبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  
 خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۴۶﴾  
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۷﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

تعالیٰ ان کوه رزته موقع مثال کرمیان کلمہ طبع یعنی کلمہ توحید چ۔ فرموان کہ سو چھو اکس رتس نہ  
 پاکیزہ کلس ہیو۔ تمہ اندرہ چھو مراد خضر کل۔ میوک مول چھو محکم زمینس منز۔ سسک شاخ چھہ  
 آسان اندر تَوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُن رَّبِّهَا کس پن میوہ چھو دو ان پریتھ فصلس اندر خدایہ سبہ  
 لحمہ سیت۔ پتھ پاتھ چھو کلمہ توحید لالہ الا اللہ امیک مول یعنی اعتقاد کس با ایمانہ سبس دلس اندر  
 مضبوط نہ محکم چھو۔ امہ کلک شاخ گئے رزہ عملہ سمہ اتھ ایمانس پیٹھ مرتب چھہ سدان۔ سمہ  
 قبولیتہ در گاہہ اندر آسان کن و اتان چھہ۔ تو پتہ چھو تھ پیٹھ رضای الہیک دایمی میوہ لگان وَيَضْرِبُ  
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ امہ قسچہ مثالہ بیان کران لوکن ہبہہ  
 خیطرہ بیٹھ تم معانی مقصودہ وارہ بوزن وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ  
 مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ چھہ نہ گندہ کلچ مثال چھہ۔ چھہ کلچ مثال۔ یعنی خر سبہ کلچ مثال چھہ تمہ چھہ کلچ مثال  
 بیٹھ نہ زمینس منز مول لگتھ آسہ۔ سو آسہ زمینہ منزہ پیٹھ پیٹھ مولہ نیران۔ سو کھہ نہ قرار آسہ نہ تھہ  
 کلس پتہ جاہہ۔ سو گوہہ وانگن يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 مضبوط چھہ اللہ تعالیٰ کران با ایمان تمہ مضبوط کلمہ سیت (یعنی کلمہ توحیدہ سیت) دنیاجہ زندگی منزہ  
 آخرتہ زندگی منزہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ گمراہ چھو کران ظالمین یعنی کافرزن تمہ مٹوس نہ گندہ کلمہ  
 سیت وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بیہ چھو سوتی کران بیہ یرھان چھو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ



يَا مُرَّةً وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهْرَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا  
 سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ  
 لظَلُومٌ كَفَّارٌ ۙ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ ۙ  
 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ

رَزَقَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ يَا مُرَّةً وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهْرَ . بے تھاوین تہندس اختیارس  
 اندرناوہ تہ جہاز۔ تھہ تمہ تہندی حکمہ سیت دریاوین اندر اورہ یورچکن۔ بے کرن تہندس اختیارس اندر  
 کولہ جو بے تہ دریاوہ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ . بے کرن تہندہ نفعہ خیطرہ مسخر آفتاب تہ  
 زون تم ہمیشہ پکان چھہ پتہ کامہ سیت . وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ . بے کرن مسخر تہندہ نفعہ خیطرہ  
 رات تہ دوہ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ . بے دیت تہ توہ تمہ منزہ بے توہہ مؤجوس پتہ پڑھہ مؤجوب  
 وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا . بے ہر گاہ تہہ شمار تہ گریندہ بے کرن خدایہ سزنا نعمون تہہ بے کوہ  
 تمن شمار کمر تہہ إِنَّ الْإِنسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ . پز پاٹھ انسان چھو سخت بے انصاف ناشکر گزار . وَإِذْ  
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا . بے پاوڑ تمیں یلہ ابراہیم علیہ السلام حضرت  
 اسماعیل تہ حضرت ہاجرہ خدایہ سدہ حکمہ میدان مکس منز انتہ تہہ تراو۔ تمی وقتہ مٹو کھ دغا۔ ای میا بے  
 پروردگارہ بے شہر (یعنی مٹہ شریف) کرتن آمنہ ول شہراہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ . بے  
 تھاو تہ دورمہ تہ میانین خاص لولاؤن تہ توپلین ہنز عبادت کرنہ نفعہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ النَّاسِ . پروردگار اپز پاٹھ ڈال سمونہ تولید واریاہ لو کھ۔ یعنی تم بنیای تہنزہ گرا ہی ہند سبب  
 فَمَنْ كَفَّرنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ . ودن سم تمون اندرہ  
 میان متابعت تہ پیرو کمر سوچھو میون بے تم میان نافرمانی کمر، ڈہ کرتن ہدایت کمر تھ مغفرت۔ کیا زہ

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ  
 ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ  
 وَارْتُزِقَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ رَبَّنَا  
 إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ  
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۹﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بے شک زہ چھوک سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھارحم کرہون رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ  
 غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ پروردگار اپنز پاٹھ مہ بسوؤ پئن فرزند اسماعیل علیہ  
 السلام تہندہ واسطہ تمسد اولادیتھ میداُس منزئس نہ زراعتہ وول چھو چائس تعظیمہ والس گھرس خانہ  
 کعبس کھتئل ئیس بروٹھ پیٹھ یتس موجوداوس یتھ لوکھ ہمیشہ تعظیم وادب کران روزن۔ پئن فرزند  
 بسوومہ اتھ کھتئل رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ پروردگار یتھ تم نماز پرپاٹھاوان نمازہ ہند خاص اہتمام  
 کرن۔ وئیکن چھویہ میدان خشک، بالکل بے آب وگیاہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ  
 ئیس کرژہ بعض لوکن ہندول مائل تحن ئن۔ یتھ تہن سیت آبادسپدن۔ چونکہ یتھ چھونہ زراعت  
 وغیرہ کینہہ تہ لہذا وَارْتُزِقَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کھیاؤکھ تم میوہ پینہ قدرتہ  
 سیت یتھ چان شکرگذاری کران رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ پروردگار لہ سون دعا  
 چھو محض محتاجی تہ عبودیتس پیٹھ منی ورنہ زہ چھو کہ زانان تہ سوزوی یتھ اس پو شیدہ تھوان چھہ یتھ تہ  
 سوزوی یتھ اس ظاہر کران چھہ۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ یتھ  
 چھونہ پو شیدہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کانہ چیزاہ زمینس اندر تہ آسماںس اندر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ





وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ لَّا نَحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۗ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ۗ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ۗ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا

بدحواس آن گامت وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بیه کھوژہ ناولوکھ تھہ لوکھ یارسول اللہ تھہ دوہس سمہ دوہہ سمن پیٹھ عذاب واتھ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ عذاب وچھتھ ون سم ظالم پروردگار اٹھلت دتہ اسہ کم کالس تان نَحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ تھہ متھس اندر کرہ ہوا اس تہ سوڑوی یہ ژہ فرماو چھہ۔ بیه کرہ ہومتابعت تہ پیروی چانین پیغمبرن ہنز۔ ونہ ایک اسہ دثایہ ناتوہہ دنیاس اندر پور ٹھلت اَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ کیاہ تھہ آسوہ ناقسم ہاوان ازکہ بروٹھ دنیاس اندر کہ توه چھونہ دنیاندرہ نیرنوی زانہہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بیه آسوہ ناتھہ ہسان تھن لوکن ہندین شھرن اندر سمو ظلم کورپان پاس سان نافرمانی کتر تھہ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ بیه نیندوہ ناتوہہ اسہ کیاہ معاملہ کور تھن سیت۔ اتھ نافرمانی پیٹھ کیتھ سزا دیت اسہ تھن لوکن وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ بیه کرہ ناسہ بیان توه تھنزہ مثالہ تہ تھندہ قصہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ہنز پاٹھ سمو کریا ہن ساری تدبیر بیشک تمہہ قسمک سمو سیت کوہ تہ پنہ جایہ ڈلہ ہن مگر تم ساری تدبیر سپد بیکار فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعِدَا رَسُولَهُ ای مخاطبہ ژہ مہہ گر ہرگز یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو بدل کرہ ون پنہ نس و عدس نس تم پنہ نین پیغمبرن سیت کور اِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہینہ وول۔ نس بیکہ نہ پتھ رتھ انتقام تہ بدلہ ہینہ نھہ کاہ۔

وَعِدَهُ رَسُولُهُ أَنْ آتِيَهُ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۳۶﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ  
 غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۳۷﴾ وَتَرَى  
 النَّجْمِينَ يُوعَدُونَ يَوْمَهُمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۳۸﴾ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ  
 قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارَ ﴿۳۹﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا  
 كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾ هَذَا بَلَاغُ النَّاسِ وَلِيُنذِرُوا  
 بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّهُمُ الْهَادُونَ ﴿۴۱﴾ وَاحِدٌ وَلِيُنذِرُوا لَوْلَا الْآلِبَابُ ﴿۴۲﴾

غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ سمہ دوہہ بدلاونہ پیہہ یہ زمین میں زمینس سیت یہہ یہ آسمان میں آسمانس  
 سیت وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ساری لو کہ نیران پنہ نیو جایو اندرہ کنس قمرہ والس خدا نیس برونتھ  
 کنہ جواب دنہ خیرہ وَتَرَى النَّجْمِينَ يُوعَدُونَ يَوْمَهُمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ پیہہ وچھو کہ توہہ نافرمان ہانکن  
 نہ ہتھ کرین منزاکہ اکس سیت بند کرنہ امت۔ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ کرنہ تہزہ آن تار کو پیر  
 وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارَ ولہ تہمدین تھن نار۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یُتھ اللہ تعالیٰ  
 بدلہ دیہہ پریتھ اکس جُرمس تمہ سارہ ٹوی یہ تم کورمت آسہ دنیاءس اندر إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
 پز پانھ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب ہیوہ ون۔ هَذَا بَلَاغُ النَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّهُمُ الْهَادُونَ  
 وَاحِدٌ وَلِيُنذِرُوا لَوْلَا الْآلِبَابُ یہ قرآن مجیدیہ سورہ شریفہ چھو کافی نصیحتہ خیرہ پیہہ یُتھ تمہ  
 سیت یم کرنہ پیہہ پیہہ یُتھ تمہ زانن اللہ تعالیٰ چھو معبود برحقہ ٹوی پیہہ یُتھ امہ سیت نصیحتہ رُٹن عقلہ وال۔

سُورَةُ الْحَجَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 الرَّحْمٰتِ تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝۱  
 رَبَّمَا یُوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ ۝۲  
 ذَرَهُمْ یَاكُلُوْا وَیَسْتَمْتَعُوْا وَیُلٰهَهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ  
 یَعْلَمُوْنَ ۝۳ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ  
 مَّعْلُوْمٌ ۝۴ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ ۝۵

الرسم چھہ حروفِ مقطعات سخن ہندہ معنی چھہ خدایہ سی خبر تِلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِیْنٍ رسم چھہ آیاتِ حج کتابہ ہندہ بہ روشن قرآن مجید ک۔ رَبَّمَا یُوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ یلہ قیامتگ دوہ سپدہ ، کافر آسن واریاہ قسمہ کین عذابن منز مبتلا۔ تمی وقتہ کرن پھیر پھیر تمنا، کونہ آس آس تہ مسلمان۔ سمہ سمہ سائتہ تم وچھن مسلمانن ہنز کامیابی یا سمہ سمہ سائتہ تم نوس عذابس آسن گرفتار سپدان ذَرَهُمْ یَاكُلُوْا وَیَسْتَمْتَعُوْا وَیُلٰهَهُمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ تراویو کہ تم پنہ نس حاکس پیٹھ کھین وارہ پاٹھ۔ بہ تگن تمتع مال دُنیاک۔ غافل تہ آورہ چھہ کران تمن زہیٹھ آرزوتہ بڈ مضوبہ۔ بس بروٹھ پین زانن تم پائے۔ مژ تھی سپدہ تمن حقیقت حال معلوم وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتٰبٌ مَّعْلُوْمٌ بہ کمر نہ اسمہ ہلاک کئے شہر ک لو کہ۔ مگر تہمدہ خیطرہ اوس ہلاکت وقت لیکنہ آمت، مقرر کرنہ آمت۔ تمی سببہ چھنہ یکن تہ نافرمانی پیٹھ فوراً سزایوان دنہ۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا یَسْتَاخِرُوْنَ کانہ اُمتاہہ گھنہ بروٹھ پنہ بس مقرر کرنہ آتس و قس نہ گھنہ چھہ۔ تھے پاٹھ سمہ سائتہ یکن لو کن ہند گنک وقت وائتہ سمہ سائتہ گلن رسم

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ كَوُ  
 مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷﴾ مَا نُنزِّلُ  
 الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ﴿۸﴾ إِنْ أَنْحَنُ  
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ  
 قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا

مُرور وَا قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ یہ لگ نہیں ملک کافر توہمہ یار رسول  
 اللہ، اے شخص بس پیٹھ نازل آو کر نہ قرآن، بے شک جھٹکے تھ موت سے دیوانہ۔ تھ جھٹکے تھ تو ملک غلط  
 دعویٰ کران کُو مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ورنہ ہر گاہ تھ اتھ دعویٰ اس اندر  
 پر زبر جھوہ۔ تلہ کونہ جھو کہ اسہ برو تھ کن ملائک اناں ہم اسہ نعرہ تھند تصدیق کرہ ہن۔ اللہ تعالیٰ جھو  
 فرماوان مَا نُنزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اس جھٹکھ ملائک سوزان مگر فیصلہ ہتھ و مَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ  
 مُنْظَرِينَ تھ صورتس اندر یہ نہ تھن تھمہ وقتہ مہلت دنہ۔ تھمہ ساتہ جھو تھن ایمان ان پاعز اس  
 گرفتار سپدن إِنْ أَنْحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ بیشک اسی کمر نازل یہ قرآن مجید۔ و کذیل  
 جھو تھمک مجزہ اُن۔ یہ جھہ اسی تھہ راجھہ گرہ ون۔ تھ اندر یہ جھہ نہ کانہ نہ کی کمر تھ نہ زیادتی کمر تھ  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ہنر پاٹھ سوزہ اسہ توہمہ برو تھہ یہ تار رسول اللہ پیغمبر  
 برو تھن جماعتن کن وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اوس نہ دیوان تھن نعرہ کانہ  
 پیغمبر مگر تم اس اس استہزاء تھ تھٹھہ کران کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ تھہ پاٹھ جھہ اس  
 انبیاءن تھٹھہ کران خیال۔ نافرمانن ہندین دلن اندر پیدا کران لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

عَلَيْهِمْ بِأَبَا مَنِ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۷﴾ لَقَالُوا لَئِنَّمَا اسْكُرَتْ  
 أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ  
 بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۹﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ  
 رَّجِيمٍ ﴿۲۰﴾ إِنْ أَسْرَقَ السَّمْعُ فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۲۱﴾  
 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿۲۲﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ

الْأُولَئِينَ تمی سببہ کرن نہ تم پڑھا آتھ قرآن مجید س یہ نوکتھا ہجھنہ یہ چھور کسی زودمت برو ٹھمن  
 لوکن ہند۔ لہذا منہ سید دوجہ آزدہ تہ غمگین۔ تہندہ عنادج کیفیت ہجھنہ زہ ملائکن ہند آسماکھ طرفہ نازل  
 سہدن تہ وکن تھا تو انھیں۔ ہر گاہ تہ لوکھ آسانس پیٹھ کھا روکھ ہجھنہ پانھنہ۔ وَلَوْ قَتَلْنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَا مَنِ  
 السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ہر گاہ آس موراؤد تہندہ خیطرہ آسماکھ دروازہ تو پتہ بین کھسن تم دولہ  
 (یہ وقتہ نہ نندرہ ہند موقع آسہ) تہندہ دروازہ کن آسانس کن لَقَالُوا لَئِنَّمَا اسْكُرَتْ أَبْصَارُنَا تو تہ پیکھ نہ  
 پڑھد ہینہ لکن سانہ اچھہ ہجھنہ مگر بند کرنہ آمزہ۔ آس ہجھنہ آسانس کھسان بلکہ ہجھنہ آسہ نظر بندی کرنہ  
 آمزہ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بلکہ چھو آسہ پیٹھ بحر تہ جود کرنہ آمت۔ آسہ امہ علاوہ تہ کینہہ ہاونہ  
 ہینہ ہتہ آسہ ای یعنی بحر تہ جود وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ہنز پانھنہ ہینہ کمر آسہ  
 آسانن اندر بُرج پیدہ۔ ہینہ کمر آسہ تم آسان مُزین وچھن والین ہندہ خیطرہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ  
 شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ہینہ کمر آسہ تھہ راجھہ پر ہجھنہ کڈ تھہ ژھنہ آتھس شیطانن ریشہ إِنْ أَسْرَقَ  
 السَّمْعُ فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ مُبِينٌ مگر شیطان ژورہ پانھنہ کن دیت، کانہ خبرہ لوزن تمس چھو پتہ  
 دوران روشن تازہ کارہینہ تراوان سمہ سمیت سو شیطان چھو ہلاک سہدان یابد حواس سہدان۔ اکی طریقہ  
 ہجھنہ اس شیطانن نغہ آسانس حفاظت کران وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ بیہ ہر دو آسہ زمین تھہ تھہ منز کن انسان تہ حیوانات، تھہ منز تراواسہ گو برہ

لَسْتُمْ لَهُ بِرُزِقِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِدُونَ ﴿۲۳﴾ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

تہ ثقہ خیطرہ لنگریغے بڈیڈ کورہ۔ بیہ کھوراسہ تمہ زینہ منزہ پرستہ چیزاہ میٹھہ تہ وزن کمر تھہ وجعلنا الکؤ فیہا معایش بیہ کمر پیدہ اسہ اتھ زمینس منز تھہیدہ خیطرہ زندہ روزیک سامان۔ کھیک چیز تہ چوبک چیز، لباس تہ پوشاک وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزِقِينَ بیہ کمر اسہ تھہیدہ فایدہ خیطرہ تم مخلوق پیدہ سمن روزی وودہ وان تھہ چھوہ نہ بلکہ چھہ اسی تھن رزق عطا کران۔ تھہ چھوہ تھن نشہ فاندہ تھان ولان من شئی إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ بیہ چھوہ نہ کانسہ چیزاہ از قسم رزق مگر تھک خزانہ ہمد خزانہ چھہ اسی نشہ۔ اس چھہ تراوان تہ نازل کران مگر اکہ مقدارہ موجب وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ بیہ چھہ اس سوزان وادیم ہمد چھہ کران ابرس آبہ سیت فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ توپتہ چھہ اس تراوان آسماکھ طرفہ رُود۔ توپتہ چھہ اس توہہ سیراب کران وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ تُوہہ بیہ ہونہ تیوت آب اسی جلیہ جمع کمر تھہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِدُونَ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ بیہ چھہ اسی زندہ کران تہ ماران۔ بیہ چھہ اسی ساری مارت پتہ گن باقی روزہ وونِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ہمز پاتھ اسہ چھہ خبری توہہ اندرہ بروٹھ گشہ وینن ہنز۔ بیہ چھہ ہمز پاتھ اسہ خبری توہہ اندرہ پتہ روزہ وینن ہنز وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہمز پاتھ تھہد پروردگاری سونبرہ تھن سارنی اولینن تہ آخرینن۔ ہمز پاتھ سؤی چھوہ سیٹھاہ حمتہ وول، سیٹھاہ زان وول۔ کس چھہ خبر گس مخلوقہ سمد کم کم اجزاء تھہ تھہ جلیہ چھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۱﴾ وَالْجَانَّ  
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿۲۲﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  
 لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۳﴾  
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِيدًا ﴿۲۴﴾  
 فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ  
 السَّجِدِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ  
 لَمَ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۷﴾

صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بیه کمر اسب پیدہ پنز پاٹھ انسان خشک گامرہ ربہ۔ بٹھ تر نو تر نو  
 گمہان اوس بٹھ وار بھس کالس آبس منر روزنہ سبب منک و نھمت اوس وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ  
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ بیه کمر جن پیدہ لمہ بروٹھ، نارہ چہ رہبہ بٹھ سبت زوہ اوس۔ وَإِذْ قَالَ  
 رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ سو وقت یہ بٹھ قابل ذکر یلہ ٹھہد  
 پرورد گارن فرمود ملائکن ای ملائکو بو کرن پیدہ اکھ مخلوقاہ اکھ سمند پوسٹ نوئے جہو و رای آسہ تغیر  
 گمہوہ ربہ یوسہ خشک گمہبت دزان آسہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِيدًا تو  
 پتہ یلہ بوسو مکمل کرن بیه برہ بو ٹھہدس بدس منر پٹن روح تمہ سائہ گمہہ ٹھہد فور اٹس کن ٹمن سجدہ کس  
 حالتس اندر روزن میانہ روجہ تنظیمہ خپترہ فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَسْجُودًا تو پتہ یلہ سو وقت دوت  
 ساروی ملائکو دیت سجدہ اکہ وئہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر دیت نہ سجدہ البلیس ابی ان یکن مَعَ السَّجِدِينَ  
 تم کور انکار سجدہ دنہ والین سبت شامل سپنہ نشہ قَالَ خَدَّيْنِ فَرْمُوسَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ  
 مَعَ السَّجِدِينَ ای ابلیس ژہ کیاہ سپدوی ژہ سپدکھ نہ شامل سجدہ دنہ والین سبت قَالَ البلیس دوپ  
 لَمَ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بو گوس نہ سو شخص بو کیاہمہ سجدہ کس





مِنَ الْغَوِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾  
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۳۹﴾  
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۴۰﴾ أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ  
 آمِنِينَ ﴿۴۱﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ  
 سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۴۲﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا  
 بِمُخْرَجِينَ ﴿۴۳﴾ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۴۴﴾ وَإِنَّ

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنُ الْاٰمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيْنَ پز پانچ ميانين بندن پيٽھ جهنمي نه ٿو ڪانه طاقت ڪمراه  
 ڪر ٿو، مگر ته سم ڇان پيروي ڪرن، چانهه مان، ڏيئو آندره **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ**  
 پيشڪ نار جهنم جهنم سارني همدو وعدج جاي۔ يعني ٿو ته چانين بيرون همدو خيتر ه جهنم تيار ڪر نه  
 آمت **لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ** تنه جهنمست ههه ست (۷) دروازه۔  
 پرسته دروازه خيتر ه جهنم تان فرمان لو ڪو آندره اڪه اڪه حصاه مقرر ڪر نه آمت **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي**  
**جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ** پز پانچ متقي نه پر هيزگار، سم شر ڪه نشه، نافرمانيون نشه هته رودست آسن، تم آسن  
 باغن اندر، سمن منز ڪم چشمه، ناگه راد آسن پکان، تنن پيه ونه **أَدْخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ** اي  
 با ايمانو اٿو سمن جنتن اندر بسلا متي، امن و امانه سان **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا**  
**عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ** پيهه آسه آسه ڪوڏمت بزو نطسي تهند پو ڏو آندره سوڙو ڪيننه ته حسد۔ تمه  
 سبهه آسن تم باي باي سيدهه سيود متخلن پيٽھ بهتھ۔ اڪه اڪي سندن درجهه وجهتھ آسيڪه نه رشڪ ته حسد سپدان  
**لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ** واتان آسه نه تنن جنتن منز ڪانهه تڪليفه پيهه پين نه  
 تم ڪڏنه زانهه تمو جنتو آندره **نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ\*** **وَإِنَّ عَذَابَ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ**  
 فرماو ٿو ههه يار رسول الله ميانين بندن پيشڪ بو جهنوس سيٺاهه مغفرت ڪر هون سيٺاهه رحم ڪر هون۔ پيهه  
 جهنميون عذاب ته سيٺاهه ٿڌر عذاب **وَيَنْبَهُمْ عَنِ عَذَابٍ ذِئْبِهِمْ** پيهه ڪرو و حنص ميانين بندن خبر۔

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝۵۱ وَيَذَّبُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝۵۲  
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۝۵۳ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي  
 عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ۝۵۴ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ  
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ ۝۵۵ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن  
 رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝۵۶ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا  
 الْمُرْسَلُونَ ۝۵۷ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝۵۸ إِلَّا آلَ

حضرت ابراہیمہ سندین پڑھیں ہنز۔ پائے ترکیہ فخرہ آتھہ پاٹھہ جھہ اللہ تعالیٰ سد دو شویے صفت۔  
 رحمتک صفت تہ غضبک صفت ظاہر سپدان ہنس ہنس موقس پیٹھہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا یلہ  
 تم پڑھہ ژای تمن نش توپتہ کر کہ سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ حضرت ابراہیم دو پچھہ آس جھہ  
 توہہ کھوژان قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ تمودو پچھہ کھوژومہ بلکہ گدھو خوش کیاڑہ  
 آس جھہ توہہ خوشخبر واتاوان آس عالم فرزندہ سز قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ  
 تُبَشِّرُونَ حضرت ابراہیم فرموو کہ کیاہ تہہ جھوہ مہ فرزندہ سز خوشخبر وان۔ حالہجہ بو جھوس  
 وول ہڈ یومت۔ ہس آتھہ پاٹھہ جھوم خوشخبر ووان قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ تمو  
 دوہیک آس حض جھہ ہنز پاٹ توہہ خوشخبر وان۔ پس مہ سپد یوتہہ نامید قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ  
 رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ حضرت ابراہیم فرموو کہ خدایہ سدہ رحمتہ نشہ تہہ سپدہ نامید گراہو ورا ی  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ توپتہ فرموو، کھہ توہہ کیاہ کوم جھہ بیہ، ای خوشخبر ہمت سوزنہ  
 آتیہ ملکو قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ تمودوہیک بیشک اس جھہ سوزنہ آمت آس نافرمان  
 جرائم پیشہ قومس کن جہندہ ہلاک کرنہ خیطرہ۔ تمن سزادنہ خیطرہ إِلَّا آلَ لوطِ إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ

لَوْ طَرَفْنَا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَأَنَّهَا لَمِنَ  
 الْغَابِرِينَ ﴿۵۹﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ  
 مُنْكَرُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا بَلْ جُنُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ ﴿۶۲﴾ وَ  
 آتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَأَسْرِبْ إِلَيْكَ بِقِطْعٍ مِّنَ  
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا  
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۴﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ لَآءٌ

مگر نہ حضرت لوط سے خاندان سے بچ پانچ تین ساری ہندہ خلیفہ چھہ اس نجات دودہ وین إِلَّا امْرَأَتَهُ  
 قَدَرْنَا لَأَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ مگر نہ حضرت لوط سوزنہ تمسیدہ خلیفہ چھہ اسے مقرر کورمت کہ نہ چھہ  
 کافران سیت روزتھ عذابس گرفتار سپدن واجین۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ تمہ پتہ بلہ  
 وات تم سوزنہ آمت ملک لوط سندس خاندانس نے انسان شکلہ اندر قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تمو  
 دوپیک جہہ چھہ بیشک بوزنہ یوان غیرزان جماعتھہ قَالُوا بَلْ جُنُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ تمو  
 دوپیک نہ آس دودہ چھہ بلکہ چھہ آس آمت توہم نش سوجیز ہتھ ہتھ منزیم لو کہ شک نہ تردد کران  
 آس یعنی بہندہ خلیفہ عذاب وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بیہ چھہ آمت آس توہم نے پختہ تھہ  
 ہتھ۔ بیہ چھہ آس یقیناً بوزنہ وین فَأَسْرِبْ إِلَيْكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ  
 أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ مہ کڈیون پن عیال سمہ شہہ اندرہ راتر ہندس عنہ حصص اندر۔

جہہ نہ نیریو کہ سیت پتہ پتہ۔ توہم اندرہ تھنہ پوت نظر کاہہ دیہ۔ بیہ گوجو تو توہی بیت توہم حکم کر نہ  
 آو یعنی شہ شامس ن وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ لَآءٌ مَّقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ بیہ سوزاسہ حضرت  
 لوطس نش بیہ حکم کہ پز پانچہ مکن لوکن ہند مول چھہ ژنہ آمت یٹھوی سم صبحس دو تھن وَجَاءَ أَهْلُ  
 الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ توپتہ ای امہ شہر کہ لو کہ حضرت لوطس نے یمن خوبصورت مسلمان ہند  
 بوزتھ خویہ نہ شادہ کران کہ شکار بیوہ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صِغَبِي فَلَا تَنْصَحُون حضرت لوط سپد

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾  
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۶۸﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا  
 تَخْزُونِ ﴿۶۹﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِمِينَ ﴿۷۰﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي  
 إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ﴿۷۱﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۲﴾  
 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۷۳﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ آسَافًا  
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿۷۴﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْمُتَوَسِّبِينَ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۷۶﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

غمگین تمودو پیک تم ہاتھ میان مہمان نہس مہ مندرہ چھاوومہ و اتقوا اللہ ولا تخزون بیہ کھوژو  
 خدائس بیہ مہ مندرہ چھاوومہ قالوا اولم ننہک عن العالمین تمودو پیک اس چھنا توہہ منع کران کہ  
 ہہ مہ آسبو کہ عالمک لو کہ گرہ اتان تہ مہمان بناوان قال ہولاء بناتی ان کنتم فعالین حضرت  
 لوطن فرمود کہ پڑپاٹ یہ ٹہنزہ زنانہ ہتھ میانین کورین برابر، ٹہنزہ خواہش پورہ کرنہ خیطرہ ہتھ تمہ  
 کافی۔ حلال چیز تراوتھ کیا زہ ہتھوہ حرام چیزس پتہ لاران لعمرك انہم لفي سكرتہم يعمہون ہتھدہ  
 جانک قسم یار رسول اللہ قوم لوط اوس پتہ مستی منزگیران۔ تمن اوس نہ بوزے یوان کینہہ سون دوگن  
 حضرت لوط سیدھ فرماونک آس نہ کانہہ پروا کران فأخذتہم الصیحة مشرقین پس رٹ تم  
 صحن آفتاب کھسن وزہ جبریل اینہ سزہ کریکہ فجعلنا علیہما آسافا و امطرنا علیہم حجارۃ من  
 سجیل توہ پتہ کوراسہ تہندس شہرس تلگ پیٹھ۔ بیہ تروواسہ تمن پیٹھ سنگ باران، میہہ پھل یم  
 نارس منزینہ آس آمت۔ تے آس کنہ ہتھ گامت تے تروکیہ پیٹھ رودک پاٹھ ان فی ذلک لآیت  
 للمتوسبین پڑپاٹھ اتھ نفسس منزچھ واریاہ نغانہ تہ دلیلہ وارہ وچھن والین ہتھہ خیطرہ وائہا  
 لبسبیل مقیم پڑپاٹھ تہند شہر ہتھہ من و تہ پیٹھ۔ نئس تہار پکان چھوٹس ہتھہ تم تباہ و برباد گامت شہر

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۸﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿۷۹﴾ فَانْتَقِمْنَا  
 مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿۸۰﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۱﴾ وَاتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۲﴾  
 وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸۳﴾  
 فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۴﴾ فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا  
 كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿۸۵﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بوزنہ یوان اِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پڑ پاڑ اتھ منز چھو بوڈ نشانہ با ایمان ہندہ خیرہ  
 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ بیہ آس پڑ پاڑ کلین تہ ڈھین تل روزہ ون، قوم شعیب سیٹھاہ ظالم تہ  
 نافرمان فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ پس ہیوت لسہ انتقام تہن دوشون قومن۔ ہڑ پاڑ  
 تم دوشوے قوم آس بسان ننہ وتہ پیڑ۔ صاف سرکہ پیڑ۔ پچار مکہ شریفہ پیڑ شام شریف لوکھ  
 گڑھان آس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہڑ پاڑ بیہ کور انکار حجرہ والیوتہ پیغمبرن۔ سوگو  
 قوم نمودن کن حضرت صالح پیغمبر سوزنہ امت آس۔ اکس پیغمبرس انکار کرن گوسارنی پیغمبرن  
 انکار کرن۔ تم آس بسان شہر حجرس منزئیں مدینہ منورس تہ شام شریفس درمیان واقع اوس  
 وَاتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بیہ واتاوسہ تہن نعرہ تہن نشانہ تہ دلیلہ مگر تمو بھیر تمہ دلیلہ  
 وہجھتہ تہ بھہ کانہ التفات کوزک نہ تہن آیتن کن وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ  
 تم آس کوہن منز گورجہ گرہ بناوان تمنی گرن منز آس امن وامانہ سان بسان فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ  
 مُصْبِحِينَ پس رٹ تم تہ کریجہ صبحہ وقتہ فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ پس دہت نہ  
 کانہ فایدہ تمن تمو مضبوط تہ محکم گرو۔ تم تم بناوان تہ تیار کرن آس وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ کرنہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ تہن دون منز چھو پیدہ مصلحتہ  
 بغیر بلکہ چھہ تہندس پیدہ کرنس اندر سیٹھاہ مصلحہ بیہ گہ بد مصلحت کہ آسمان زمین وہجھتہ کرن عقلہ

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصَّفْحَ  
 الْجَمِيلَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ وَلَقَدْ اتَّيْنَاكَ  
 سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَمُدَّنَّ  
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ  
 عَلَيْهِمْ وَانخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا

وال استدلال اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ یہ لازم چھو کہ جس خدا پر سزا شوبہ اطاعت  
 کرن۔ جس شخص اطاعت کرے جس، جس پر اجر و انعام عطا کرنے۔ جس نہ اطاعت کرے جس سزا خیرہ  
 چھو عذاب سو عذاب پہ نہ دنیا سے اندر کرنے۔ سولہ قیامت کو دہ کرنے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ سو  
 قیامت چھ ضرور آوے تہ منزلیہ نافرمان سزا دہ۔ فَاصْفِرِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ لہذا مہ کھینچو کہ نہ  
 غم۔ بلکہ کرو نہایت خوبی سان تہندین شرارتن عنو، در گذر إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ہر پانچ  
 تہند پروردگار چھو بوڈ پیدا کرے۔ سو چھ سو روی زانہ ون سارنی ہند حال چھو معلوم۔ تہندہ  
 صبر کہ تہندین شرارتن ہند تہ۔ لہذا ہبہ سوتن نغیر پورہ پورہ بدلہ تہہ مہ و چھو تہندس معاملس کن  
 کہ سو چھو سپدان توہہ موجب غم تہہ و چھو سائس معاملس کن کہ اس کہہ قسمہ چھہ توہہ سیت لطف و  
 مہربانی ہند معاملہ کران۔ چنانچہ وَلَقَدْ اتَّيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ہر پانچ  
 کر عطا توہہ ست آہ کریمہ یہ قرآن عظیم ہم ست آہ پھر پھر چھہ یوان پر نہ تہ نمازہ اندر یہ سورہ فاتحہ چھو  
 جامع بڑین بڑین مضمون۔ تہہ وجہہ چھو تہہ قلیل کہ اتہ یہ ونہ قرآن عظیم تہہ بوجہ عظمت ام القرآن لقب  
 چھو۔ لہذا تہا و تہہ نظریہ نعمت عطا کرے ونس کن تہ اتہ نفس کن، تہ سپدہ توہہ فرحت و سرور کہ باعث۔  
 لو کن ہندس عناد سے مخالفس کن مہہ کرو تہہ التفات۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَانخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مہ حض زبہ راوہ نظر پن تہہ مال  
 دنیا سے کن سمہ سیت متع تہہ نا و اس سمو کا فر و آندہ بعض لو کہ۔ یہ مہ کھینچو ہند غم۔ یہ تراوہ ون بازوی

التَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۹۱﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿۹۰﴾  
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ  
 أَجْبَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  
 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

مبارک ہیں بالیمان ہمدہ خیطرہ۔ یعنی تمہن آسوپیش یوان بتواضع تہ نرمی وقل لای انا التذیر المبین  
 بیہ آسوفرموان ہز پاطھ بہ جھوس ن پاطھ خدلیہ سبہ عذابک تیم کرہ ون توہہ سارنی کما انزلنا علی  
 الْمُقْتَسِبِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ اسہ کورنازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید۔ تھہ پاطھ اسہ  
 یہوودونصارئی ان پیٹھ کتاب نازل کر۔ تمہن کتابن پارہ پارہ کور۔ یہ خوش اوسکھ کران تہ آس تھوان۔  
 یہ نہ خوش اوسکھ کران تہ آس کڈان۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْبَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہس  
 جھو قسم تہندس پروردگارہ سہ ضرور پر تھو آس تمہن قیامتگ دوہ تمہہ سارگویی یہ تم کران آس توپتہ  
 دموپر تھہ آس سزا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہس ن پاطھ واتا و تہہ تم احکام  
 تمہن ہند توہہ تمہم جھو یوان کرنہ روی مبارک بھرو و مثر کن نغیر۔ تمہن ہندمہ کرو کاہنہ پروای  
 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آس کرووہ توہہ کفایت تھٹھہ کران والین ہند شردف کرنہ خیطرہ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ سم معبود برحقس سبت برابر جھہ تھوان بین باطل  
 معبودن۔ پس غقریب زانن سم امیک نتیجہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ تھٹھن  
 آس جھہ زانان کہ ہز پاطھ تہند دل جھو تنگ سپدان تمو کتھوسبت سمہ سم دشمن ونان جھہ تمیک علاج

أَنْتَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۷﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ  
مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۸﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾

چھو ﴿۹۷﴾ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ نِسْ مہ برو تمیک جہہ کانہہ پروا۔ جہہ کرو خدلیہ سُنَدِیاد۔  
بہاکی کرو تہند صفت بیان۔ بیہ آسو تمس سجدہ دنہ والیہ و اندرہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بیہ کرو  
پنہ نِس پروردگارہ سنزی عبادت یوتان ولتہ توہہ نِس یقینی سمہ یعنی موت مر نہ کس و قس تان کرو خدلیہ  
سنز عبادت۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اِنِّیْ اَمْرُ اللَّهِ فَلَاسْتَغْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا  
 یُشْرٰکُوْنَ ۝۱ یُنزِلُ الْمَلِٰئِکَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ  
 مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّہٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝۲ خَلَقَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝۳ خَلَقَ  
 الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَۃٍ فَاِذَا ہُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ۝۴ وَالْاَنْعَامَ

اِنِّیْ اَمْرُ اللَّهِ فَلَاسْتَغْجِلُوْهُ خدایہ سُنْدِ حَمِ اَوْ یعنی شرک و کفر کہ سزا دنگ موقوعہ ووت نزدیک۔  
 اے کافر و نپہہ مہ کرو تھہ آندر جلدی۔ سو سپدہ واقع پنہ نس و قس پیٹھ۔ نس چیزاہ اوہ دن چھو سوزن  
 او۔ لہذا ای کافر و نپہہ مہ ژھانڈ و اتھ منز جلدی سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ منزہ تہ پاک، بالاو  
 برتر چھو اللہ تعالیٰ تمو ساروی شریکو نشیہ تم نس مشرک ٹھراوان چھہ ہندس کئیہ کھمس ہمکن نہ تم  
 شریک بدل کر تھہ۔ یُنزِلُ الْمَلِٰئِکَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْذِرُوْا اِنَّہٗ لَآ  
 اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ سوزن چھو سو پروردگار ملائکن وحی ہتھ، پنہ کھم سیت نس پیٹھ یڑھان چھو سو پنہ  
 نیو بند و آندرہ یعنی انبیاء و آندرہ ای زہ نپہہ کرو بیم لوکن یہہ بوزہ ناویو کھ کہ کانہہ معبوداہ چھو نہ مہ ورا ی  
 نس کھو ژومی یوت۔ پرستش مہ کرو مہ ورا ی کانہہ ہنز خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰی عَمَّا  
 یُشْرٰکُوْنَ تمی کر پیدہ آسمان تہ زمین پڑ پانڈہ سینٹاہ بالاو برتر چھو سو تمو ساروی چیز و نشیہ تم نس شریک  
 ٹھراوان چھہ لو کھ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَۃٍ فَاِذَا ہُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ تمی کر پیدہ انسان حضرت  
 آدمس پنہ منی ہندس آہہ قطر س آگس نس چھو یو ہے انسان ن پانڈہ مقابلہ کران یعنی بعضی انسان

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤  
 وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَنُوبٌ وَحِجِينَ تَسْرَحُونَ ⑥  
 وَتَحْمِلُ أَرْثَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ  
 الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ⑦ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ  
 وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧  
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

چھ امہ قسمیک غرض چھو کہ سائے طرفہ چھہ اناس سیمہ سیمہ نعمہ، تمندہ طرفہ چھہ اتھ مقابلہ  
 ناشکری تہ ناساں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمِنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بیہ کرتی پیدہ  
 چارپا، دونٹھ، گین تہ تیر تہندہ خیطرہ ای انسانو تمنی منز تھاون تہندہ وشیر کر نک سامان وندک۔ بیر،  
 بیتھ گرم لباس ژادرہ تہ کملہ بناوان چھوہ، بیہ چھہ تمن منز واریاہ فاند۔ دودھ تہ سواری۔ بیہ چھوہ تموی  
 منزہ بعضین ہند ماڑ کھیوان وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَنُوبٌ وَحِجِينَ تَسْرَحُونَ بیہ چھو تہندہ خیطرہ  
 تمن منز زینت تہ عزت۔ سیمہ ساتہ تہہ شامکہ وقتہ تم گاسہ کھیٹھ وانل انان چھو کہ بیہ سیمہ ساتہ صمسن  
 گرواندہ گاسہ کھیٹھ خیطرہ کڈان چھو کہ وَتَحْمِلُ أَرْثَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ  
 الْأَنْفُسِ بیہ چھہ تم تلان تہند بور۔ توپتہ واتاوان تمن شہرن تمن تہہ بیجہ ہونہ تم بارواتاوتھ مگر پنے  
 نین پانن زون سیٹھاہ مشقت واتاوتھ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ بیشک پروردگار تہند چھو سیٹھاہ  
 مہربان تہ رحم کرہون۔ تہندہ آرامہ خیطرہ کم کم چیز کرن پیدہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا  
 وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کرتی پیدہ گر کاتر تہ گھر، بیٹھ سوار سپد۔ بیہ چھو تمن منز تہندہ  
 خیطرہ عزت تہ شان۔ بیہ کرہ سو پیدہ قیاس تان کھسن خیطرہ تمہ تمہ سوارہ سیمہ نہ توہہ معلومی چھہ۔  
 سیمہ سواریہ گیہ دنیا کیں مطمئن تان واتتہ خیطرہ۔ یہ گوہدنی تہ جسی سفر طے کر نک سامان۔ امہ پتہ  
 فرماؤ اللہ تعالیٰ ان روحانی تہ معنوی سیرج ذکر وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ پتمو برو ٹھہو دود لیلو سیت

أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

یوسه سیز و تھ ثمانت چھ سپدان سو گویہ سو تھ یوسہ اللہ تعالیٰ اس نش و اتق و تھ آسہ۔ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَتُو  
 آندرہ چھ بعضی و تھ پھر و تہ۔ اڈلو کھ چھ سیزہ و تہ پیٹھ پتھ خدائس نشہ و اتان۔ اڈ چھ بچو و تو پکان تو پتہ  
 چھ تھ تم گن تہ و اتان تم چھ د چھ تہ کھو فر بالن تہ چھ نمن ڈلہ گھوہان و لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ بیہ  
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ یزھہ ہا سو ہا وہ ہا تو ہہ سارنی سیز و تھ مگر سو چھو تمسی سیز و تھ ہا وان لیس تمیک طالب  
 آسہ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ سو پروردگار گو  
 سوی سم تھندہ فاندہ خیطرہ آسماچھ طرفہ زود تروو تھی منزہ چھوہ تہہ تریش چوان۔ بیہ چھو تھی سیت  
 گاسہ تہ کل کھسان تھہ منز چھو کھ تہہ چار پائین گاسہ کھینہ خیطرہ تراوان يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ کھاران چھو اللہ تعالیٰ تھی رودہ سیت تھندہ  
 خیطرہ زراعت بیہ درخت زیتون بیہ خضر کل بیہ ڈھہہ کل۔ بیہ ساری میوہ جات سم ذنیاء س اندر پیہہ  
 سپدان چھہ اِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ پز پاتھ اتھہ منز چھہ جہ جہ دلیلہ توحید چہ فکرہ والین  
 ہندہ خیطرہ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بیہ کر اللہ تعالیٰ اَن تھندہ آرام و آسایشہ  
 خیطرہ دودہ تہ رات، آفتاب تہ زون سخر قدرت وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ چھہ باقی ستارہ تہ  
 تھندی حمہ سخر قدرت تم چیز تہ سم تھندہ فاندہ خیطرہ پیہہ کمرن تمام روی زمینس اندر تم چیز بیہ چھہ  
 تھہ پاتھ کہ تمن ہند اقسام چھہ بیون بیون اِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پز پاتھ عقلہ والین ہندہ

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِي  
سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ لِحِمَاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا  
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾  
وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَايَا أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

خطرہ چھ بین چیزن اندر خدایہ سہ توحید چہ بجز جہ دلیلہ و مَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
أَلْوَانُهُ؛ چھ پانچ کرن مخر تم چیزتہ سم تہدہ فائدہ خطرہ پیدہ کرن تمام زوی زمین اندر تم چیز چھ  
تہہ پانچ کہ تم ہند رنگ چھ بیون بیون اِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ہر پانچ اتھ  
منزتہ چھ بجز جہ دلیلہ خدایہ سہ توحید چہ نصحت رہ و نین ہدہ خطرہ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ  
الْبَحْرَ لَنَا كُلًّا مِنْهُ لِحِمَاطِرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا بیہ گو سو پروردگار سوی یم  
دریاوتہ سمندر کر مخر قدرت چھ تہہ کھپہ تہہ منزہ کڈتھ گاڈن ہند تازہ تازہ مازہ بیہ چھ کڈو تہہ تہہ  
سمندرہ منزہ گہنگ تہہ زینک چیز لعل و جواہر تہہ تہہ۔ اُس تہہ ساری مرد تہہ زنانہ لاگان چھوہ زینتہ خطرہ  
وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ بیہ چھو دریاون ہند فائدہ بیہ تہہ کہ تہہ تھہک و چھان اے مخاطب تاوہ  
لو کچہ تہہ تہہ، بلکہ بڈ بڈ جازا اتھ سمندر س منز آس ٹان پکان وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ بیہ کرن دریا مخر قدرت چھ تہہ سمندر ن تہہ دریاون اندر مال تجارت تہہ سفر  
کر تھ خدایہ سدر زق تلاش کرو۔ بیہ چھ تم ساری فائدہ زہر نظر آتھ کرو تہہ شکر گداری وَالَّذِي فِي  
الْأَرْضِ رَوَايَا بیہ تھو اللہ تعالیٰ اِنَ ز مینس پیٹھ بڈ کوہ اِنَ تَبِيدَ بِكُمْ چھ نہ سوز مین توہہ پاس  
پیٹھ تھہ و تل جہ گرہ، اورہ رڈلہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ کرین جاری اتھ ز مینس  
منز کولہ تہہ جو بیہ۔ بیہ کچن اتھ ز مینس منزوتہ تہہ سڑ کہ تھہ تہہ تمو و توہہ مقصد س واتان آسو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَعَلِمْتَ وَيَا بَلَّغُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَسُنَّ  
يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ  
مَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ  
شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَلِئْتُمْ بَأَعْيُنِكُمْ قَدْرًا  
وَمَا يَشْعُرُونَ لَا

وَعَلِمْتَ وَيَا بَلَّغُهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کر اللہ تعالیٰ ان تمہہ و تہ پر زہ تاونہ خیطرہ واریاہ لغنہہ قائم مسافرن ہندہ پختہ خیطرہ سمو نشا نو سیت و تہ لبندہ یوان ہتھہ۔ بیہ چھہ بتار و سیت تہ لوکھ و تھہ لبان۔ تم سیت چیز کر پیدہ اللہ تعالیٰ ان آفکن ۱۵ یَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وون و سوتھی لیس ذات پاک تم تم چیز پیدہ کر و ن ہتھو سولگیما برابر تھاون تم سیت ایم نہ کتہ چیز س تمکن پیدہ کر تھہ۔ کونہ چھوہ تہ کتھہ ژیتس پاوت تس ایمان اتان تہ پڑھہ کران۔ تمسی ہن معبود زاتھہ عبادت تہ بندگی کران۔ یوے یا تھہ چھنہ تس معبود برحقہ سز نموہ ۱۷ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہر گے تھہ شمار ہیو کر نہ خدایہ سزہ نموہ ہر گز۔ ہیو نہ شمار کر تھہ۔ ادہ چھنہ کتھہ تم ن نعمون ہنز شکر گذاری کر تھہ۔ مٹرک چھنہ نعمون ہند شکر دپان نعمون ہنز قدر زانان۔ بیہ جرم اوس تیوت بوڈئیس نہ کتہ صورتس منز معاف ہیوہ ہاسد تھہ۔ اتھہ جرمس پیٹھہ اصرار کر نہ سیت گتھہ تم ساروی نعموہ و نشیہ محروم سپدن مگر ۱۸ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ مغفرت کر و ن مہربان ہر گاہ کانہہ شخص شکر کہ نشیہ توبہ کرہ تس چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کران۔ ہر گاہ تے توبہ کرہ توتہ چھو اللہ تعالیٰ تس مرئس تام نعموہ عطا کران ۱۹ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ مَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زانان تہ سوڑوی بیہ ہتھہ پوشیدہ پاٹھہ چھوہ کران ۲۰ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ بیہ تم لوکھ عبادت چھہ کران خدا لیس و رای ہن باطل معبودن ہنز تم نہ کانہہ چیزہ پیدہ ہیکان چھہ کر تھہ بلکہ چھہ تم پانہ آسان بناونہ آمت، تیار کر نہ آمت، گر نہ آمت، کتھو، پو یا بیہ کتھہ چیز ک۔ قاعدہ کلیہ چھو کہ خالق تہ غیر خالق ہر گز مساوی تہ برابر

آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدًا ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٢﴾ لَأَحْرَمَ أَنَّ  
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٦٣﴾  
 وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا آسَاطِيرُ  
 الْأَوَّلِينَ ﴿٦٤﴾ لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ ط الْإِسَاءِ مَا

چھنہ امواتِ غیرِ اَحیاءِ تمہے علاوہ چھہ معبودانِ باطل مردہ بے جان چیز و مَا یَشْعُرُونَ آيَانَ  
 يُبْعَثُونَ یہ چھہ تم ن خبرے کہ کہہ وقتہ بن لو کہ دوبارہ یہ زندہ کرنے معبود برحق گو سؤی بس خالق تہ  
 چھو زندہ تہ چھو عالم الغیب تہ چھو سؤی چھو إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدًا تہند معبود برحق۔ معبود برحقہ اس  
 بیوہ یہ کہ نہ چھو نہ ذاتس اندر نہ صفن اندر فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ  
 مُسْتَكْبِرُونَ بس تم لو کہ ایتر وضاحت کر تہ تہ پڑھ چھہ کر ان آخرتس، معلوم سپد تہند دل چھو  
 توحیدس انکار کر ان۔ یہ سپد معلوم کہ تم چھہ قیاس ایمان انہ نغہہ تکبر کر ان لَأَحْرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
 مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ضروری تہہ چھہ کہہ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو زنانان تہ سوزوی یہ تم پو شیدہ کر ان  
 چھہ۔ یہ یہ تم ن پاٹھ کر ان چھہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کر ان تکبر کرہ  
 و نین تم توحیدہ نغہہ تہ تصدیق رسالتہ نغہہ چھہ تکبر کر ان۔ یلہ تہند تکبر کر ان معلوم سپد، سستی سپد یہ تہ  
 معلوم کہ تم چھہ خدا بس ناپسند۔ لہذا یہ سؤ تم ضرور سزا وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  
 قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ یلہ ونہہ یوان چھو تم کہ کیاہ کر نازل تہند پروردگارن، دپان چھہ تم یہ  
 کہہ چھو خدایہ سدہ طرفہ سوزنہ آمت۔ یہ چھہ محض بے سندتھہ سیمہ برو تھمین نغہہ نقل کرنے یوان چھہ  
 لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نتیجہ یہ ونہ ٹک آسہ کہ یمن لو کن آسہ ٹکن پنہ نین  
 گنہن ہند بور قیامتگ دوہ پور پور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ تم لو کن ہندین

يَزْمُونَ ﴿٥٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى  
 اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ  
 فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾  
 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
 كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ  
 الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَلَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ  
 ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ

گنہگار ہند بولے، ہم گمراہ کران آس علمہ وراى الالسا ما یزموون وارہ وجھوہ بوزان سیٹھاہ پیچھہ چھوسو  
 بولیس تم تم نکلن قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پزپاٹھہ فند  
 تہ تدبیر کر خدائیس خلاف تمولو کو کو سم تمئن بروٹھہ آس لہس دوت خدلیہ سُنَد عذاب تہنزن لرین  
 ہندین کنن کلن فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ تو پتہ پیو دوستھہ تمئن لرہ ہند لہس پیٹھہ کنن وَأَتَاهُمْ  
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بیہ دوت تمئن عذاب تھہ پیٹھہ تمئن فکری ترہ بیہ حالت گیہ تہندہ  
 عذاب ذنیاس اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ تو  
 پتہ کر گیہ خوار و ذلیل اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ بیہ دیکھہ کتہ چھوہ تم معبودان باطل بہندہ خپرہ لڑایہ آسو  
 کران قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ونن تمہہ سائہ زانن وال تہ عالم پز  
 پاٹ خوار تہ پیچھہ عذاب چھوہ از کافرن تہ نافرمان پیٹھہ الَّذِينَ تَتَوَلَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ  
 تمئن زو کو ذملا کیوتھہ حاس اندر کہہ تم آس پان پانس ظلم کرہ ونن فَأَلْقَوْا السَّلَمَ لہس پیش کرن تم تمہہ  
 سائہ صلج تھہ بیہ دینن مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اس آس نہ کانہہ پیچھہ کوماہ کران ملایک ونن کتھہ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بیہ کتھہ تھنہ یوسہ تھہ ونان چھوہ پزپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھوہ پوزانان تہ سوروی بیہ تھہ

اللَّهِ عَلَيْهِم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ  
 خَالِدِينَ فِيهَا فليُسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۳۸﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ  
 اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي  
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا  
 مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمْ

کران آسودہ۔ سو دیہ پانے تچ مزور توہہ و نہہ بیکھہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اشر و جہنمہ کیو  
 دروازوں کن جہنم آندر ہمیشہ چھوہ آت روژن فليُسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ بس کاٹراہ بچھہ جای پھہ یہ  
 متعمرن ہندہ خیطرہ۔ یہ گو عذاب آخرت۔ حاصل چھوہ یمن آیتا تن ہند کہ ای لو کو ہتہ بوزوہ بروٹھمن  
 کافر ن ہندہ عذابک حال۔ تھہ پاتھہ بس اکھاہ دین حقس مقابلہ کرہ، مکرو فریب کرہ ہتھ پاتھہ تہہ کران  
 چھوہ۔ یہ چھوہ تہہ لو کہ گراہ کران۔ لہذا آسہ یسوی انجام تہندہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ  
 قَالُوا خَيْرًا یہ چھوہ و نہہ یوان تمن لو کن تم شر کہ نشہ کفرہ نشہ پتھہ روڈ توہہ پیٹھہ کیاہ کور نازل تہندہ  
 پروردگارن تمہو دوپ اللہ تعالیٰ ان کور نازل سو قران مجید ہتھہ منز خیری خیر چھوہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا  
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ تمن لو کن ہندہ خیطرہ سمور ٹکاہہ کرہ چھہ ہتھہ ذنیاس اندر ر ژمزور و لکدار  
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ یہ چھوہ تہندہ خیطرہ آخرتک گراہ زیادے رت باعث فرحت و سرور وَلَنِعْمَ دَارُ  
 الْمُتَّقِينَ یہ چھوہ متقین تہہ پر ہیز گارن ہند گراہ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ متقین  
 ہند گراہ گئے ہمیشہ روزک جنت یمن منز تم واتن تموی منز آسن پکان جوہی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 تہندہ خیطرہ چھوہ تمن جشن اندر تہہ سو زوری یہ تم یڑھان آسن کَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ تھہ پاتھہ  
 کیا دیہ اللہ تعالیٰ ر ژمزور سارنی پر ہیز گارن الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُم الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ تم گے تھے ہندہ روح  
 ملایک کڈن ہتھہ حاس اندر کہہ تم آسن پاک تہہ پاکیزہ شرگچہ آلا پشو نشہ یا آسن در کمال فرحت و سرور



الْمَلِیْکَةُ طَیِّبِیْنَ یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳﴾ هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلِیْکَةُ اَوْ  
 یَاْتِیْ اَمْرٌ رَّبِّكَ کَذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ  
 اللّٰهُ وَلٰكِنْ کَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَاَصَابَهُمْ سَیِّاَتٌ  
 مَّا عَمِلُوْا وَاَوْحَا قَیْبَهُمْ مَا کَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۵﴾  
 وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشْرَکُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِہٖ  
 مِنْ شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ وَلَا الْاَبَاؤُنَا وَلَا اَحْرَامُنَا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ

یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ملائک و نہ کجھ سلام بوسن توہمہ پیٹھ ائزو جنس  
 کیا زہ تہہ آسودہ رث عمل کران ہل یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلِیْکَةُ سم کافر چھہہ انتظار کران مگر  
 ملائک ہندس ہنس اویاتی اَمْرٌ رَّبِّكَ یا چھہہ انتظار کران خدایہ سندس کھمس نُس تہندہ گالہ ونہ عذابہ  
 خیطرہ آسہ کذٰلِکَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ ہتھہ پاتھہ کور انکار تہ تکذیب شرک تہ کفر تمولو کو کوسم  
 تمن بردنھہ آس وَاَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ کَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ اللّٰہ تعالیٰ ان کرنہ تمن لوکن کئہہ  
 قسمہ ظلم۔ مگر تم آس پان پانس ظلم کران وَاَصَابَهُمْ سَیِّاَتٌ مَّا عَمِلُوْا وَاَوْحَا قَیْبَهُمْ مَا کَانُوْا بِهٖ  
 یَسْتَهْزِءُوْنَ پس واثر تمن بدی پنہ نین عملن ہنزہہہ آوولنہ تمن سوی عذاب ہتھہ تم ٹھٹھہ آس  
 کران وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشْرَکُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ مِّنْ شَیْءٍ وَلَا الْاَبَاؤُنَا بیہ چھہہ  
 ونان یم منک مشرک ہر گاہ خدایٹھہ ہاَس کرہ ہونہ تس ورا ی بیہ کانسہ ہنز عبادت نہ آس تہ نہ سان مال  
 بُدْبَبٍ وَلَا اَحْرَامُنَا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ بیہ کرہ ہونہ آس حرام تہ تہندہ کھم ورا ی کانہہ چیزاہ۔ بیہ پوڑھہ  
 حتی تہندی یڑھنہہ موجب چھہہ آس کران کافرن ہنزہہہ سمہ کتھہ وننہ سیت مہ حض گوجو تہہہ آزرده۔ بیہ



بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ  
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَجْرٌ الْآخِرَةُ الْكَبِيرُ لَوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

دیو کہ بلی وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا البتہ ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ساری مرتبہ پیدہ کیا زہ تم چھو امیک وعدہ  
 کورمت پوزو وعدہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہ چھنہ باوجود دلیل قائم آسحہ یقین  
 کران۔ یہ دوبارہ زندہ کران چھو سمہ خیطرہ کہ یُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ اللہ تعالیٰ کرہ  
 ضرور مر نہ پتہ پیدہ سارنی تھہ سوتر اوہ تمن سو تھہ تھہ منز تم اختلاف آس کران وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ بہ زان کافر کہ بیشک تم آس ایوزیر۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ  
 نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لمہ نشہ کیاہ عجیب ہٹھہ بہ پیدہ کرن، یلہ آس ائٹہ چیز کہ پیدہ کرنک ارادہ کران چھہ  
 اس چھہ ونان سپد۔ اتی چھہ سہ چیز سپدان تہ وجود اس اندریوان وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ بہہ سمولو کو محض خدیہ سندہ خیطرہ پن وٹن مٹہ شریف تر و شہر  
 حبش گن گئے، یلہ تمن ظلم کرنہ آؤ، آس ومو ضرور تمن رث جای دنیاہ اس اندر، آس رتس شہر س منز  
 یعنی مدینہ منورہ منزیتہ تم امن و راجت زندگی بسر کرن وَلَا جُرْأَلُ الْآخِرَةِ الْكَبِيرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 یوسہ مزور آخرتس منز تمن عطا پیہ کرنہ سو چھہ امہ خوتہ بڈ۔ ای کاش تمن کافر ن تے اچ خبر آسہاسہ  
 حاصل کرنہ خیطرہ سپد ہن مسلمان الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سمومما جرو صبر کور و وطن  
 تر و انس پیٹھہ بہہ تم پنہ نس پروردگار س پیٹھہ تو کل کران چھہ وٹن تر او چھہ وقتہ کور کھنہ بہ خیال کہ کھیمو  
 چھو تھہ پاٹھ، درای پنہ نس پروردگار س پیٹھہ بھروسہ کرتھہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ  
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
 الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾  
 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ  
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ  
 فِي تَقَاتُلِهِمْ فَأَهُمُّ سَعْجِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ  
 رَبَّهُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

الَّذِينَ اسْمُهُ سُوْزَنَةُ تَوَهَّمَتْ بِرُوْحِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَكْرٌ بَشَرِيٌّ اِنْسَانِيٌّ يَتَغَيَّرُ كَمَا يَزِيهِ بَشَرِيَّتُهُ رَسَاوِلُ اِنْدَرَجَهْنَه  
 كَانَتْ مَنَافَاتٍ تَمَنُّ كُنْ اَسْ بِنِ اِحْكَامِ سُوْزَانِ اَسْ فَسَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اِسْ پَرِزَهْتُو  
 عِلْمِ وَالْمِيْنِ تَه زَانِ وَالْمِيْنِ هَرِ گَاهِ تَوَهَّمَتْ پَا سْ مَعْلُوْمٌ هَجْهَنَه بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اِسْمُهُ سُوْزَنَةُ تَمَّ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ دَلِيْلُهُ تَه  
 مَعْجَزَاتٍ هَيْتِهْ بِهٖ كِتَابِهٖ هَيْتِهْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ بِهٖ سُوْز  
 اِسْمُهُ تَوَهَّمَتْ كُنْ بِهٖ قِرَانِ مَجِيْدٍ هَيْتِهْ هَبْهٖ وَاَرَا نَرَاوَتْهٖ بِيَانِ كَرُوْكَوْ كُنْ بِهٖ تَمَنُّ كُنْ سُوْزَنَةُ اَوَّ بِهٖ هَيْتِهْ تَمَّ تَهٗ اِنْدَر  
 فَلَ كَرْنِ اَفَا مِّنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا  
 يَشْعُرُوْنَ كِيَا هٗ تَمَّ لَوْ كَهٗ مَمُوْجِهٖ حِيْلُهُ تَه تَدْبِيْرُ كَرْنِيْ كَرِيْمِهٖ سَبْدِ سْ خَالْفَسِ اِنْدَر تَمَّ چَهَابِهٖ فِخْرِ سَمِهٖ  
 كَتَهٗ نَشْهٖ كَهٗ تَمَنُّ كِيَا نِيَهٗ اللّٰهُ تَعَالٰى زَمِيْنَسْ تَلِّ وَالْتِ يَاسَمِهٖ تَهٗ نَشْهٖ كَهٗ عَذَابِ كِيَا بِهٖ وَاْتَهٗ تَبَارِيْ بِهٖ پَارَنَهٗ تَمَنُّ  
 فِخْرِهٖ تَرَهٗ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَاتُلِهِمْ فَأَهُمُّ سَعْجِيْنَ يَا كِيَا رَهٗ تَمَنُّ اللّٰهُ تَعَالٰى پَهِيْرَانِ تَهْوَرَانِ اِسْ  
 هَجْهَنَهٗ تَمَّ عَاجِزْ كَرَهٗ وَاِنْ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ يَا كِيَا رَهٗ تَمَنُّ كَهْوْثَهٗ نَاوَتْهٗ يَابَهٗ بِهٖ تَمَنُّ كَمْ كَرَانِ تَهٗ خْتَمِ  
 كَرَانِ خَدَا اِسْ هَجْهٗ پَرِ هَيْتِهٗ چِيْزِ سْ پِيْطِهٗ قَدْرَتِ تَسْ كَرَهٗهٗ پَرِ هَيْتِهٗ سَاوَتْهٗ كَهْوْثُنْ اَفَا اِنْ رَبُّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَّحِيْمٌ پَرِ  
 پَا تِ هَمْدِ رُبِّ هَجْهٗ سِيْطَاهٗ مَرَبَانَ سِيْطَاهٗ رَحْمِ كَرَهٗ وَاِنْ سُوْجَهٗهٗ جَلْدَرَانِ سَهٗ هَجْهٗ مَهْمَلَتِ دَوَانَ اَوْ لَمْ يَرَوْا

يَتَفَيَّؤُاِظِلُّهُ عَنِ الِیَمِیْنِ وَ الشَّمَاِیْلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ  
 ذٰخِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ  
 ذَا بَآءٍ وَ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۹﴾ یَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِ  
 وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَ قَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذْ وَاَلْهِنِ اٰتْنِیْنِ  
 اِنِّمَا هُوَ الْاِلٰهُ الْوَاحِدُ فَاِیَّآیْ فَارْهَبُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ  
 الْاَرْضِ وَ لَهُ الدِّیْنُ وَ اِصْبَابًا اَفْغَیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَ مَا یَكُمُ

لی ما خلق اللہ من شیء کیا تم جھنیا و چھان تمں سایہ دار چیزن کن تم اللہ تعالیٰ ان پیدہ کرمت  
 جھہ کل ہی، کوہ وغیرہ ہی یَتَفَيَّؤُاِظِلُّهُ عَنِ الِیَمِیْنِ وَ الشَّمَاِیْلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ ذٰخِرُونَ نماں تہ  
 پھیران جھہ تمں چیزن ہند سایہ دھن تہ کھو فر۔ خدا یس سجدہ کران تہ عاجزی ہند اظہار کران تابع  
 جھہ خدایہ سدس خمس وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ ذَا بَآءٍ بیہ جھہ خدایہ سی نماں  
 تہ سجدہ دو ان تم ساری چیز تم آسمان اندر تہ زمین اندر جھہ جاندار و اندرہ وَ الْمَلَائِكَةُ بیہ جھہ  
 ملائک تہ تس سجدہ دو ان وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ تم جھہ نہ باوجود علو شان تس عبادت کرنہ نشہ کنہ قسمہ  
 تکبر کران یَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِ وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ تم جھہ کھوژان پنہ نس بدوردگار س نس تمں  
 پیٹہ کن تہ بالادست جھہ۔ بیہ جھہ تم تمیل کران تمں ساری کھن تم تمں کرنہ یوان جھہ وَقَالَ اللّٰهُ  
 لَاتَتَّخِذْ وَاَلْهِنِ اٰتْنِیْنِ اِنِّمَا هُوَ الْاِلٰهُ الْوَاحِدُ فَاِیَّآیْ فَارْهَبُوْنَ بیہ فرموا اللہ تعالیٰ ان پیغمبرن ہندہ واسطہ  
 ای لو کو مہ تھاویو کہ زہ یا داریا ہ خدا۔ خدا جھہ مگر کئی، اکوی۔ نس کھو ژوہ تہ می یوت۔ کیا زہ علیہ الوہیت  
 خاص می جھہ ہند اتیک لو ازم تم جھہ کمال قدرت وغیرہ تم جھہ مے خاص انتقامک خوف گوہی می نش  
 تھاون۔ شرک جھہ مکان انتقامس۔ لہذا آرزہنہ خدا نس شریک ٹھراون وَ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ  
 وَ لَهُ الدِّیْنُ وَ اِصْبَابًا بیہ جھہ تہندی تہ سوزی بیہ آسمان تہ زمینن منز جھہ۔ بیہ شوہہ تہزی فرمانبرداری  
 کرن ہمیشہ اَفْغَیْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ سہ مجبود برحق آتہ جھہ تہ نس ورا ی تین کھوژان۔ تمں کھو ژو تھ

مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرْفُ فَأَلَيْهِ تَجَعُّرُونَ ﴿۵۳﴾  
 ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرْعُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾  
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا<sup>۱</sup> فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَجْعَلُونَ  
 لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ  
 تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾  
 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

چھوہ تہمز پر سٹش کران۔ یتھ پاٹھ نہ کھوڑنس قابل چھوکانہ نس ورا ای یتھ پاٹھ پھنہ امید تھاونس  
 قابل تہ کانہ نس ورا ای وَمَا يَكُفُّ مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ چنانچہ توبہ نشہ یوہ نہمتھاہ واتان چھہ سہ چھوہ  
 معبود برحقہ سندی طرفہ واتان بیہ نہ کانہ ہمدہ طرفہ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرْفُ فَأَلَيْهِ تَجَعُّرُونَ توپتہ یلہ  
 توبہہ کانہ سختیہ واتان چھہ تمہ ساتہ چھوہ نس کن عاجزی کران کریکہ نادلاگان۔ دُعا کر نس اندر، فریاد  
 کر نس اندر۔ تمہ ساتہ چھوہ نہ بیہ کانہ تہ منگان ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرْعُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ  
 توپتہ یلہ سہ سہ سختی دور کران چھہ توبہ نشہ اتی چھہ توبی منزہ اکہ جماعتھاہ، تمہ چھہ زیادہ پنہ نس  
 پروردگار س بدستور سابق شرک اتان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا<sup>۱</sup> فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یتھ تم کفران  
 نعمت کران تمن نعرود ہنز ہمہ نعرود اسی تمن عطا کرہ بس تلو تمع کینہہ کالاہ۔ عنقریب زانوامیک مزہ  
 وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ بیہ چھہ مقرر کران تم مشرک تمن معبودان باطلن  
 ہمدہ خیطرہ تمن ہنز نہ تمن خبرے چھہ زہ تمن اٹھہ پھنہ کانہ خیر وشریا نفع وضرر اکہ حصہ تمہ مالک  
 یس اسی تمن عطا کورمت چھہ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ قسم چھہ میہ پنہ ذات پاک ضروریہ  
 پرژھنہ توبہہ تمیک بیہ تمہ پائے ٹھر اوان آسہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ بیہ چھہ  
 ٹھر اوان معبود برحقس کورہ حالانچہ منزہ تہ پاک چھہ سہ کورہ آسنہ نغیرہ پنہ خیطرہ چھہ ژھانڈان تہ بیہ  
 پانس پند چھکھ یعنی گبر تہ پنچو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بیہ یلہ سمو

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ  
 يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۶۹﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَدَلِيلُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۷۰﴾  
 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلا كُنْ  
 يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ  
 سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۷۱﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

آندره کانسہ خبر چھہ یوان ونہ کورہ ہندہ ز شیخ اتی چھو تھندہ بھتہ گوہان کُرمن ، بیہ چھہ سیدان غمگین  
 یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ژھپہ ژھپہ چھہ کران ، ژورہ چھہ روزان لوکن نشہ تمہ  
 خبرہ ہنزہ شرمہ ہندہ سبہ۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سوچان چھہ پانس سیت اس کورہ  
 کیاہ کرہ بوؤن۔ تھے پاتھ تھاونہ کنہ زندیا مارتھہ دو براؤن ز مینس تل اَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ وارہ وچھو  
 کوتاہ پچھہ چھہ تھوینہ ہندہ سیم خدا لیس متعلق کران چھہ۔ یعنی تہ چھہ کورہ ٹھہراوان پانس چھہ  
 کورہ زینہ وزہ بھہ سیاہ گوہان لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ تمن لوکن ہند چھہ سیٹھاہ پچھہ  
 حال سیم پتھس دوہس انکار کران چھہ وَدَلِيلُ الْمَثَلِ الْأَعْلَى خدلیہ سندہ خیطرہ چھہ تھہ تھہ صفت وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ چھہ سوئی غالب تہ حکمتہ وول وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ  
 بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لوکن تھہد یوانا فرمانیہ سبہ گرفتار کرہ ہاتلہ تراوہ ہانہ اتھہ ز مینس پیٹھہ کانسہ جاندارس تہ  
 تمن نافرمان ہنز شانت واتہ ہابے گناہ چارولسن تہ۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مگر سہ چھہ تمن  
 مہلت ووان آگس مقرر کرنہ آتھس وفس تان فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا  
 يَسْتَقْدِمُونَ تھس یلہ واتہ تھندہ وقت تمہ ساتہ بن نہ تمہ نشہ نہ پچھہ کڈنہ نہ بروٹھہ انہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ  
 مَا يَكْرَهُونَ بیہ چھہ معبود برحقہ سندہ خیطرہ ٹھہراوان تم چیز سیم پانس کھران چھہ وَتَصِفُ  
 أَلْسِنَتَهُمُ الْكُذْبَ بیہ چھہ ونا تھنزہ زیوہ اپز اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ای زہ کہ تھندہ خیطرہ کیا چھہ خدا لیس





مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيبِ ۞  
 وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا  
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى  
 النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞  
 ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ  
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

من نسل فضلہ سے زتھہ چھہ تمبوے دو یو چیز و منزہ چھہ نیران دوداہ صاف، ہتھ و سہ و ن آسانی سان چنہ  
 والین۔ سئی دود چھہ آس تو بہہ چاوان۔ و چھو سان قُدرت اتھ دودس نہ چھہ آسان خوئج آلاش نہ فضلہ  
 آلاش یا منک وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا یہ گدھہ خضران تہ  
 دچھہ اندر غور کرن۔ تیار چھوہ کران تہہ تھہ نکل چیز بہہ کھینک چیز۔ خشک خضر بہہ کھش بہہ شربت تہ  
 برکہ۔ اتھ منز تہہ چھہ بچہ دلیلہ خدایہ سدہ توحید چہ۔ بہہ چھہ ثابت سپدان سارے نموہ عطا کرہ و ن چھہ  
 سئی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پزپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدایہ سدہ قدر تک عقلہ والین ہند  
 خیطرہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ تھہ تہ چھہ قابل  
 غور کہہ الہام تروو تہند پروردگارن ماچھہ ٹکرہ ای زہ ژہ بناوین گہہ کوہن منز، کلین منز بہہ لوکن ہندین  
 گرن منز چنانچہ سمن جاين منز چھہ سہ گہہ بناوان ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تو پتہ  
 کھہی ژہ پر پتھہ قسم میوہ آندرہ۔ پس بہہ پگن واپس ژہ پنہ نس اہلس گن پنہ نس پروردگارہ سنزن و تن اندر  
 سیمہ سہل تہ آسان چھہ چانہ خیطرہ۔ دورودراز جابو پیٹھ میون ہند رس ژہ تھہ چھہ یوان سو پنہ نسی اہلس  
 گن تو پتہ چھہ ماچھہ تراویج کوم کران يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ نیران چھہ  
 سہ ماچھہ ٹکرین ہندیو شیمو منزہ اکھ چینک چیزاہ میوٹھ تہ موڈر یعنی ماچھہ سمسک رنگ مختلف چھہ آسان  
 تھہ منز چھہ شفاء لوکن ہندہ خیطرہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پزپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدایہ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ

سیدہ قدر تک فخر تہ تامل کرو نین ہمدہ خیرہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ  
 بیہ کر وہ ہتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ تو تان آسہ نہ تہہ کنی۔ از عدم انوہ بوجوہ دینہہ کالاہ گودھت نیوہ سی  
 توہہ ہمہ عالمہ بیہ چھہ توہہ اندر کانہہ شخصہہ چھہ عمر ہ تان واتاوانہ یوان۔ تھہ عمر ہ منزہ چھہ جسمانی  
 قوت موجود روزان نہ عقلہ ہند قوت۔ یژہ عمر ہ نشہہ چھہ پناہ مؤکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 ”وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر“ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تمیک اثر چھہ بیہ سپدان کہ اکہ  
 چیز بچ خبر گودھنہ پتہ چھہ بیہ شخص تمہہ چیزہ نشہہ بنجر سپدان یادووتر چھہہ بجرس اندر کینہہ روزان إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ قَدِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ای چھہ سوزی زانہ ون، ساری پیٹہ قدر تہ وول وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ  
 بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ بیہ دیت فضیلت اللہ تعالیٰ ان توہہ اندرہ بعضی لوکن بعضین پیٹہ رزقس اندر۔ اکہ  
 کوزن مالدار تمس تھا ون نوکر تہ غلام تابع۔ تمسبہ واسطہ چھہ تم تہندین غلام تہ رزق واتاوان۔  
 کانہہ بنوون غلام تمس چھہ آغہ سبہ واسطہ رزق واتاوان۔ بیہ کوزن کانہہ شخصہہ تمس نہ چھہ تیرہ دولت  
 زہ غلام آسہ ہنس۔ نہ چھہ سہ پانہ کانسہ ہند غلام فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ  
 سَوَاءٌ لہذا تمکن لوکن رزقس اندر خاص فضیلت ونہ آبیہ تمکن نشہہ چھہ مال تہ دولت تہ، غلام تہ تمہ تمہ کن  
 نہ سہ پٹن مال تمکن غلامن دتھ۔ کیا زہ تلہ سپدہ آغہ تہ غلام برابر۔ کیا زہ غلام چھہہ کئہہ چوک مالکھی  
 بنان۔ لہذا چھہہ غلامی تہ مساوات تمکنی زانہ۔ تھہہ پاتھہ چھہہ یم معبودان باطل ساری خدایہ سبہ  
 مملوک۔ سمیک کافر چھہہ پانہ اعتراف کران۔ لہذا مملوک آتھہ کتھہ پاتھہہ تمکن خدائیس ہی آتھہ۔  
 یا تھہہ پاتھہہ تمکن تم خدایہ سبہہ کئہہ چیزس منز شریک آتھہ۔ بلہ نہ تہندہ غلام تہندس مال و دولتس  
 شریک تمکن سپدت۔ اللہ تعالیٰ سبہہ غلام تہ مملوک کتھہہ پاٹ تمکن تہندس الو تہندس اندر تس شریک

اللَّهُ يَجْعَدُونَ<sup>(۱)</sup> وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>(۲)</sup>  
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ<sup>(۳)</sup> فَلَا تَضْرِبُوا  
 لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>(۴)</sup> ضَرْبَ

بنت۔ کیا تم مضامین بوزت چھاتم لو کہ خدا بس شریک ٹھہراوان سیمہ سبت عقلاً یہ تمھ چھ ثابت  
 سپدان کہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار کران کیا زہ نس نعمو عطا کرہون آسہ سہ گوہہ زان مغبودتہ  
 کئی۔ تس شریک ٹھہراونہ سبت چھ لازم کہ تس چھہ تم نعمت عطا کرہون زانان۔ لہذا ہجہ تم مشرک  
 شرک انہ سبت تھہر س نفس انکار کران **أَفَبِالْبَاطِلِ يُجْعَدُونَ** کیا ہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار  
 کران **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا** یہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تھہدی جسہ منزہ یعنی انسانو منزہ تھہد جہہ  
 یعنی آشینہ منزہ تھہزہ **وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً** یہہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تھہدہ خیطرہ تھہزہ و  
 زانوا نفعہ کبرتہ اولاد بہہ اولاد ہہر اولاد **وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** یہہ کوزن عطا توبہہ رزق پاک تہ  
 رتو چیز واندرہ **أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ** یہہ کرت تہ چھاتم معبودان باطلن ایمان  
 اتان ہجہ پیٹہ نہ کانہہ دلیل چھہ تہ خدایہ سزنا نعمون چھہ انکار کران تس شریک ٹھہراونہ سبت **وَيَعْبُدُونَ**  
**مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ** یہہ چھہ تم  
 عبادت تہ پرستش کران خدا بس وراہی تمنی چیزن ہنزیم نہ مالک تہ اختیارہ وال چھہ تھہدہ خیطرہ ہنہ  
 قسمہہ رزق نہ آسہجہ طرفہ بارش تراوت نہ زبجہ طرفہ کانہہ چیز کھارت، نہ ہیکن تم تھہدہ خیطرہ  
 کینہہہ کرتہ **فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ** بس مہ آسوتہہ بیان کران خدایہ سزہ ہثالہ ہنی خیالہ موجب کہ  
 اللہ تعالیٰ چھہ بوڈاوشاہ۔ تس ہجہ نہ پرہتہ اکھاہ ہن حاجت پیش کرتہ، عام لوکن شوبہ تھہدین نامین

اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَسْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
 مِتَارِخًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ  
 يَسْتَوْنَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَضَرَبَ  
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ  
 كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶﴾

نغمہ پنن حاجت پیش کرن تم کرن پیش خدا نغمہ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیشک پز مثال  
 بیان کرن زانہ اللہ تعالیٰ ای تہہ زانہ ضَرَبَ اللّٰهَ مَثَلًا چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ مثالہ بیان کران عِبْدًا  
 مَسْلُوكًا اکھ غلاماہ پھو اکس شخصہ سُنْد لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کس نہ منہ چیزس پیٹھ کانہ قدرت یا کینہہ  
 اختیاراہ چھ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِتَارِخًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا بیاکھ چھ سُنْد شخص کس  
 آسہ پننہ طرفہ رُت رزق عطا کور۔ سہ چھ تہہ رزقہ منزہ خرچ کران۔ پو شیدہ پاٹھ تہ زن پاٹھ تہ ہَلْ  
 يَسْتَوْنَ تہی و نتو تم زہ چہا برابر ی۔ تم معبودان باطل بوز توکھ بے طاقت تہ بے اختیار غلام ہی۔ اللہ  
 تعالیٰ زانتون مختار کُل۔ پریتھ چیزس پیٹھ قدرت تہ طاقت تھاون وول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ساری تعریف تہ  
 صفت چھہ تس معبود بر حقس کس زانہ کن تہ صفو کن کامل چھہ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھہ سمو  
 آندرہ اکثرن معلومی کہ شرمسہ شامتہ کیاہ بنہ تمن وَضَرَبَ اللّٰهَ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ  
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ بیاکھ مثال چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان۔ زن جوراہ چھہ۔ اکھ چھہ تموا آندرہ  
 ماجر زانٹ کولوی کانہ کوم نہ ہیکان کر تھ۔ بیہ چھہ سُنْد بور تہ وبال گردن پننہ کس آغس پیٹھ نبیومت  
 اَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ یوت سوزان چھس تہ کانہ رزکا ماہ کرت چھہ یوان۔ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہی و نتو کیاہ یہ شخص چہا برابر کس شخص سیت  
 کس فصاحت و بلاغتہ سان کلام آسہ کران کس لوکن رٹن کاٹین ہند اصرار آسہ کران یہ آسہ سُنْد پانہ تہ



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
 الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
 وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا  
 إِلَىٰ حِينٍ ۝۸۰ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
 مِنَ الْجِبَالِ الْكُنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ  
 وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝۸۱ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

سفر آسویہ کرن تہمدہ خیطرہ چاروا این ہندین مسلمان ہند گھرہ۔ یعنی خیمہ تہم تہم لوت زانتہ پانس سیت  
 سفران اندر تلان چھوہ یوم ظعنکم ویوم اقامتکم تہمہ دوہہ تہمہ سفر س نیران چھوہ بہ تہمہ دوہہ کتہ  
 جالیہ ٹھہران چھوہ اقامت کران چھوہ ومن اصوابہا و اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی  
 حین بہ کرن تہمدہ خیطرہ کتہ مونہ، اونٹہ مونہ، ژھاول مونہ، پوشاک تہ فرش و فروش بہ گریچ گروٹھ  
 اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان یوتان تم چیز پھلان چھہ واللہ جعل لکم منہا خلق ظلالا بہ کر اللہ  
 تعالیٰ ان تہمدہ خیطرہ پنہ نین پیدہ کر متین چیزن ہند سایہ پیدہ۔ تہمن تل روزت تہمہ آفاچہ گرمی نشہ  
 بچان چھوہ مثلاً گلین ہند سایہ، لرین ہند سایہ و جعل لکم من الجبال الکنانا بہ کرہ اللہ تعالیٰ ان  
 تہمدہ خیطرہ کوہن اندر گوچھہ تہ غارہ تہمن تل روزت شینہ تہ رودہ نشہ بچان چھوہ و جعل لکم سرابیل  
 تقیکم الحر بہ کرہ اللہ تعالیٰ ان تہمدہ خیطرہ پھرن تہ گرتنہ یہ توبہ بچوان چھہ سردی نشہ تہ گرمی  
 نشہ و سرابیل بہ کرین بہ گرتنہ یعنی زرہ تقیکم باسکم تہمہ توبہ بچوان چھہ جس اندر شمشیرن  
 تہ نیزن تہ تیرن ہند یوز نمونہ کذالک یتئم نعتہ علیکم لعلکم تسلبون تہ پاتھ چھو اللہ تعالیٰ  
 توبہ پیٹھ نمونہ پورہ کران تہمہ تہمہ تہمہ ہم مانو فان تولوا فانما علیک البلاء المین ہس

الْبِیِّنُ ﴿۸۲﴾ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَهَا وَآکْثَرُهُمُ  
 الْکَافِرُونَ ﴿۸۳﴾ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لَا  
 یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَآلَاهُمْ یُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا رَأَیَ الَّذِینَ  
 ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ یُنظَرُونَ ﴿۸۵﴾ وَ  
 إِذَا رَأَیَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أَشْرَکَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
 شُرَکَاؤُنَا الَّذِینَ کُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا

ہر گاہ تم لو کہ امہ پتہ تہ بٹھ پھرن، پس توبہ پھونہ مگر تبلیغ کرن ان پات تہ صاف پاٹھ یَعْرِفُونَ  
 نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَهَا وَآکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ تم لو کہ چھہ پرزہ ناوان خدایہ سز نعمت توپتہ چھہ  
 زانتھہ کر تھہ تھہ نفیس انکار کران۔ پس برتاو معس سیت کرن گدھہ یعنی عبادت تہ اطاعت سو پھوئس  
 ورا ی بین سیت کران سمو آندره چھہ واریاہ کافر وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا بیہ پاو ورتیس  
 سمہ دوہہ آس تلون پرچھہ اُمہ خیرہ آکھ آکھ گواہ، سو گو تمہہ اتمک پیمبر قیامتک دوہہ ثُمَّ لَا یُؤْذَنُ  
 لِلَّذِینَ کَفَرُوا توپتہ پیہ نہ کافرن اجازت دنہ تھہ کرنک عذرو معذرت پیش کرنک قیامتک دوہہ  
 وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ نہ پیہ تمن نغیر عذر طلب کرنہ نہ پیہ تمن ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کریون راضی، توبہ  
 کرو، یا کانہہ رث عمل کرو کیا زہ تمہہ آسن کا مڑہ، آخرت چھو دار الجزا سو پھونہ دار العمل وَاذَا رَأَیَ  
 الَّذِینَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ یُنظَرُونَ توبہ پتہ یلہ وچھن ظالم تمہہ دوہہ عذاب،  
 پس نہ پیہ تمن تھہ عذابس منز کی کرنہ، نہ لیکھ مہلت دنہ وَإِذَا رَأَیَ الَّذِینَ أَشْرَكُوا أَشْرَکَاءَهُمْ بیہ  
 یلہ مٹر کن نظر پیہ تمن شریکن پیٹھ تمن تم ٹھراوان آس خدایہ سند شریک قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
 شُرَکَاؤُنَا الَّذِینَ کُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ دینہ لکن پروردگار سبے کیاہ چھہ تم شریک تمن آس  
 پرستش تہ عبادت کران آس تہ ورا ی فَأَلْقُوا إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکٰذِبُونَ پس کرن تم  
 معبودان باطل تمن کافرن سیت تھہ۔ دیکھ تہہ چھوہ بڈاپزیر۔ آس کر آسوہ توبہ ومان کہ توبہ کر تو

إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۷﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ  
يَوْمَئِذٍ لِلَّسَلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا  
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ  
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ  
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ

اسم پر ستمش یا توہ معذو اسمہ پن حاجت۔ تہہ آسوہ پنے نفسہ چہ خواہشہ تہ شیطانہ سندہ و نونہ موجب تم چیز  
کران وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِلَّسَلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ تراوان تہہ دوہہ  
کافر خدائس برو نھکن، اطاعت و صلحک معاملہ۔ یہہ مشھہ تم ساری چیز تم دنیاءس منز پانے  
نھراوان آسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِدُونَ تم لو کہ اکہ کفر کران آس۔ یہہ آس پتہ رتان بین لو کن خدایہ سزہ و تہ نغہ یعنی اسلام  
قبول کرنہ نغہ تم ن ہرہ راواواس عذابس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ تم آس تہاہی تہ بُر بادی عالمس منز  
پھیلاوان لو کن اسلامہ نغہ پتہ رتنہ سیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ یہہ  
پاوسودوہہ ژیتس سمہ دوہہ اس تلون پر پتہ اقس منز تموی منزہ اکہ گواہ یعنی یر پتہ امک پیغمبر وَجِئْنَا  
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ یہہ انوہ تہہ تہ یر رسول اللہ گواہ تم ن لو کن ہندہ خیطرہ یعنی پنے ائمہ خیطرہ تہہ  
تہہ فرماوہ کہ کمومون تہند، کمو کور انکار وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ یہہ کرنازل اسمہ توہہ پیٹھ یر رسول اللہ یہہ بڈ کتاب تہہ منز سار کوئی بیان چھو یہہ  
بوڈ ہدایت۔ بڈ رحمت تہہ بڈ بشارت ایمانج مسلمان ہندہ خیطرہ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ



بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتْلَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۱﴾ وَ  
 أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَتَّقُوا الْإِيمَانَ  
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا  
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ إيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو لحم کران عدل بہ انصاف کر تک بہ نیکی کر تک بہ آشنا  
 ون امداد کر تک۔ وَيَتْلَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بہ چھو اللہ تعالیٰ منع کران بیچھ کامیونہ بہ  
 خلاف شرع کامیونہ بہ سرکشی بہ بغاوتہ نشہ یعنی لوکن ظلم و ستم کرنہ نشہ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 اللہ تعالیٰ چھو وعظ پران، نصیحت کران ہتھ ہتھ سو نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
 بہہ کرو وفا خدایہ سندس عمدس یمہ عمدہ کہ پورہ کر تک شریعت لحم کران چھو۔ بہہ یلمہ پانہ وان عمد  
 آسو کران وَلَا تَتَّقُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا بہہ مہ آسو قسم پھڑاوان سہ مضبوط کرنہ پتہ۔ تھ  
 منز آسوہ خدایہ سند ناوتہ در میانس منز اوٹمت سیمہ سیت قسم مضبوط چھو سپدان وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ تعالیٰ آسون تھوومت گواہ بہہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو  
 زانان بہ سوزوی بہ تہہ کران چھوہ۔ تہس نشہ تہتہز کانہہ چیز پو شیدہ چھونہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي  
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا بہہ مہ آسو تہہ اے لو کو قسم پھڑاوانہ سیت مکہ شریعت تہس دیوانہ  
 زانانہ ہی بنان یوسہ ژمان آس پن کوٹمت، مضبوط کرنہ پتہ، مخرہ مخرہ تَتَّخِذُونَ إيمَانَكُمْ دَخَلًا  
 بَيْنَكُمْ تہتھ پاٹ چھوہ تہہ بناوان قسم پن پانوان فساد کرنہ خیطرہ اکھ ہمانہ بہہ ذریعہ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً مِّنْ  
 أُمَّةٍ مِّنْ أُمَّةٍ تہتھ سپدہ اکھ جماعت بارہ تعدادس تہ قوتس اندر بہہ جماعتہ خوتہ۔ تہہ کرو تمہہ ساتہ رعایت  
 زور آور جماعتک۔ قسمک کرو نہ تہہ کانہہ خیال إيمَانِيُكُمْ اللَّهُ بِهِ امہ سیت چھونہ مگر چھو امتحان

تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَسُعَلْنِ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾  
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ  
ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
لَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۸﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

کران توہمہ اللہ تعالیٰ کہ قسم کر تھے تہ معاہدہ کر تھے کہ وہ جہہ قسمک رعایت کنہ ظاہری حالات ہند  
یا زبردست جماعتک۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ بیہ بیٹھ توہمہ اللہ تعالیٰ  
نتر راوہ قیامتک دوہ سوزی بیٹھ منزہہ اختلاف کران آسوہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہا توہمہ ساری کرہ ہائنی جماعت اختلافہ ورا ی مگر تمسز۔ حکمت چھنہ بیہ یرشان  
وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ مگر سو چھو گراہ کران یس یرشان چھو تس۔ بیہ چھہ  
ہدایت کران یس یرشان چھہ تس۔ وَلَسُعَلْنِ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بیہ لیہ توہمہ ضرور پر ڈھنہ تمہ سارہ  
کوی بیہ جہہ کران آسوہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا  
السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ۔ بیہ چھہ فرماوان اللہ تعالیٰ تاکیدہ خیطرہ کہہ مہ بناو کہ قسم ہن  
ذریعہ پانہ وان فسادک تہ فنک۔ تمہ سیت ڈن تہند کھور تہن ہندہ درہہ تہ مضبوطی پتہ۔ بیہ تہو تمیک  
بیچہ مزہ دنیا س اندر عذابس گرفارسپندہ سیت کیا زہ توہمہ کیاہ کورہ آئندہ بینہ والین ہندہ خیطرہ خدلیہ  
سزوت تھہ ہند۔ وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بیہ چھہ آڑ تس اندر تہندی خیطرہ ہو ذعذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ  
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بیہ مہ آسوحاصل کران خدلیہ سند قسم ہاوتھہ دنیا بک مال لاشباعند اللہ ہو خیر

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ  
يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ وَإِذَا  
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾  
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پزیرا پائے سے ثواب سے مزور خدا کیسے نفعیہ چھہ سوچھہ بہتر تہندہ خیلرہ ہر گاہ توہمہ  
زان حکمہ با ما عیندکم ینفعد و ما عیند اللہ باقی یہ توہمہ نش چھہ مال دنیا اندرہ سورہ سوری چھہ مولا  
ون سے شہم گزہ ون۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نفعیہ چھہ باقی سے پوشہ ون۔ سہ موکلی نہ زانہ۔ و لنجزیینن الذین  
صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا اس صبر سے استقامت کرہ و نین مزور تہنزن  
رژن کامین سے عمل ہند بدلہ من عمل صالحا من ذکر او انثی و ہومؤمن فلنحییننہ حیوۃ  
طیبۃ سم دنیا س اندر رژ عمل کرن مردویا زانوا اندرہ با ایمان آتھہ پس کرو اس تمہ عطار ژ زند گیہ  
دنیا س اندر و لنجزییننہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا کہ اس پنن مزور تمہن رژن  
کامین بدلہ سیمہ تم کران اس فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کس بلہ تہہ  
ای پیغمبر برحق قرآن مجید ہرن ہیوان آسویس گزہہ پناہ منکن اللہ تعالیٰ اس مردود شیطانس نفعیہ۔  
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پزیرا پائے کس شیطانس چھہ نہ  
طاقت با ایمان پیٹھہ سیمہ تم پنے نس پروردگار س پیٹھہ اعتماد سے تکیہ کرہ ون اسن انما سلطنہ علی الذین  
یتوکلونہ والذین ہم بہ مشرکون شیطانہ سہد زور چھہ چلان مگر تمنی پیٹھہ سیمہ کس سبت یارانہ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَهُ وَالَّذِينَ  
 هُمُ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  
 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۰۲﴾  
 وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي  
 يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿۱۰۳﴾

لاگن۔ یہ تم ن پیٹھ سم کنس خدانس شریک ٹھہراؤن وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہی علیہ اَس لکھ آئیہ کریمہ چہ جلیہ بیاکھ آئیہ  
 کریمہ نازل کران چھہ اللہ تعالیٰ ای چھہ بستر زانان تمن احکامن ہنزہ مصلوہ یم سہ نازل کران چھہ۔ تمہ  
 ساتھ چھہ کافر وان توہہ یار سول اللہ تہہ چھوہ نہ مگر پتہ طرفہ تہہ ٹھہ ٹھہراوان۔ فی الحقیقت چھہ  
 واریاہ تمہو اندرہ بے خبر قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تہہ فرماؤ کہ یار سول اللہ، دول  
 یہ قرآن مجید جبریل امین نُس پاک رُوح چھہ تہہ س پروردگارہ سہہ طرفہ پزیاٹ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تہہ با ایمان ہندول مضبوط کرہ یہ چھہ یہ قرآن مجید بوڈ ہدایت  
 تہہ بدبشارت مسلمانن ہندہ خیطرہ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ یہ چھہ اسہ معلوم کہ سم  
 دُشمن چھہ ونان اس پیغمبرس چھہ ناوان مگر کانہہ زانن دول انسانہ۔ خیال اوسکھ کینون۔ یہودی یا  
 نصرانی غلامن ہند۔ اللہ تعالیٰ چھہ تہہ س اتھ باطل خیالس رد کران۔ فرماوان چھہ لِسَانُ الَّذِي  
 يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اے بے وقوف نُس غلامس نشہ تہہ سمن چھہ تہ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ  
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
 عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۷﴾

پرچ نسبت کران ہجھہ تمسز ز یو پھہ نجی۔ مگر ئس کلام سم توہہ بوزہ ناوان ہجھہ زیواہ عربی،  
 صاف تہ واضح۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پز پات سم  
 لو کہ نہ پڑھ کران ہجھہ خدایہ سندین آیاتن تہن ہا وہ نہ نجات و تھہ اللہ تعالیٰ۔ تہندی خیطرہ ہجھہ کڈر  
 عذاب إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ اہز ہجھہ نورا  
 وان مگر تے لو کہ یم نہ خدایہ سندین آیاتن پڑھ کران ہجھہ تے گے اہز زہر۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ئس اکھاہ خدائس انکار کرہ اقرار کر تھہ مگر نہ سہ شخص  
 ئس کفرہ خیطرہ زور تہ جبر کرنہ لیہ۔ زیوہ سیتہ سہ کلمہ کفر ونہ در حال تہجہ دل آسیس ذہبہ ایمانہ سیتہ وَلَكِنْ  
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ مگر ئس دل موراوت کفر تہ انکار کرہ تھہن لو کن  
 پیٹہ ہجھہ خدایہ سہ غضب تہ بیزاری وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ ہجھہ تہندی خیطرہ بوزہ عذاب ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ بیہ ہجھہ امی مو کہ کہہ تمو کیاہ کر پستہ ذنیاع ہج زندگی  
 آخر ئس پیٹہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بیہ امی مو کہ کہہ اللہ تعالیٰ ہجھہ تہ ہوان کافر ن

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ  
 الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ  
 مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

تہ معجزان اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سے کیا گئے  
 تم لو کہ تمہیں مہر کر اللہ تعالیٰ ان تہندین دکن پیٹھ بہ تہندین کنن پیٹھ۔ بہ تہنزن اچھن پیٹھ بہ کیا گئے  
 سے لو کہ غافل لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ پڑپاٹ سے لو کہ آسن آخرس اندر  
 تاوان رَدَّ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا تو پتہ پتہ  
 پڑپاٹ چون پروردگار تمہیں لوکن ہندہ خیطرہ سموکھر چہ سختی تلت گر بار تراوتھ، ہجرت کر۔ تو پتہ  
 کوڑکھ جہاد۔ بہ کوڑکھ صبر۔ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹ تہند پروردگارہ تھہ تمہ پتہ  
 تہندہ خیطرہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ سہ دہہ پاو وژتیس سہہ دہہہ پریت شخصاہ ایہ،  
 گفتگو آسہ کران پنہ نی پانہ کہ طرفہ۔ بہ ایہ پور دنہ جزائتہ سزا پر تھہ کانسہ۔ تھہ بدل یہ تم کرمٹ آسہ  
 تموا ندرہ ایہ نہ کانسہ ظلم کرنہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا  
 رَغَدًا مِّنْ جَبَلٍ مَّكِينٍ بیہ کریبان اللہ تعالیٰ ان مثال کہ شہرہ کین لوکن ہنز تم اس امن وامن

يَا تِيهَارِزُقَهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ  
 اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا  
 يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ  
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن  
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ  
 الدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اندره رُوزت۔ تمّن آس واتان کھینہ چینک چیز بکثرت پریتھ طرفہ فکفرت بآنعم اللہ اتی کور تمو  
 خدایہ سزنا نعمون انکار تہ کر ان نعمت فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  
 پس تہہ ناو تم اللہ تعالیٰ مزہ بوچھہ ہند تہ کھوڑ بھہ پو شاک۔ یعنی بوچھہ تہ بد امنی آیہ تمّن تھہ پاٹھ ولہ  
 تھہ پاٹ بد نس پٹھ آسان لباس ولتھ تمّن کا مین ہندہ سببہ سمہ تم کر ان آس۔ حضرت عبد اللہ بن  
 عباس پٹھہ فرماوان سمہ مثالیہ منزہ چھہ مراد اہل مکہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ پز  
 پاٹ او تمّن گن پیغمبرہ جلیل القدر نس تمبوی منزہ اوس۔ تس کور کھ انکار۔ سوی زوحھہ اپز زیور  
 فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اودہ رٹ تم عذائن یعنی تھن تہ بد امنی۔ تھہ حاس اندر کہ تم  
 آس پان پاس ظلم کرہ ون شرک تہ تکذیب کر نہ سیت فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا  
 پس کھوسہ رزق پس عطا کور توہہ اللہ تعالیٰ ان حلال تہ پاک وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ  
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بیہ دپوشتر خدایہ سزنا نعمون پیٹھ۔ ہر گاہ چھوہ تس یا تہ بندگی کر ان إِنَّمَا حَرَّمَ  
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تم پروردگارن کور نہ توہہ پیٹھ  
 حرام مگر مردار (پانے مومت) جانور، بیہ رتھ، بیہ سورہ مازیہ سہ جانور نس خدایس ورا ی سہ کانسہ ہندہ

اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾  
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا  
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ  
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾  
 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرْمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا  
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

تعلیمہ خیطرہ یا قریب ژھانڈ نہ خیطرہ مارنہ ایہ قَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
 تَحِيمٌ ہنس نِس اکھاہ فاتحہ وجہہ بالکل بیقرار تہ مجبور سپدہ سمو چیز و آندرہ کانہہ چیز کھینس پیٹھہ سمو  
 چیز وورای ہینس نہ کانہہ چیز بشرطیکہ لذت تہ مزہ حاصل کرہ ون آسہ نہ۔ ضرور تہ نحو تہ زیادہ ہیوہ وون  
 آسہ۔ ہنس مجھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون، رحم کرہ ون وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  
 الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ بیہ منہ آسہ وونان تہن چیزن یکن تہنہ زویہ آسن پانے اپز  
 تعریف کران کہ یہ گو حلال تہ یہ گو حرام لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ خدا ہنس پیٹھہ لہز نوراونہ خیطرہ  
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ پز پائت سم اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ لہز نوراون تم  
 سدن نہ زانہہ کامیاب مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ مجھ فائدہ تلنک کم چیزاہ۔ یعنی فائدہ  
 مویہ ہنہ۔ پتو لاکہ مجھ تہمدہ خیطرہ تدر عذاب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
 مِنْ قَبْلُ بیہ کوراسہ یہود من پیٹھہ حرام تم چیز سم آسہ بیان کر تہوہ سمہ برونھہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آسہ کورنہ تمن پیٹھہ کانہہ ظلم بلکہ آس تم پان پانس ظلم



ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْهُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾  
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِلْإِنْعَامِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَالتَّيْنَةُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

کران ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ توپتہ پھہ حقیقت کی کہ بیشک جہند پروردگار پھہ تمن لوکن ہندہ خیرہ یومیچہ کامہ  
 کرہ نادانی سببہ توپتہ کوزکھ تمہ پتہ توبہ خدا جس کن رجوع بیہ سنبھا لک پن پان۔ اصلاح کوزکھ پنہ نس  
 پانس۔ پزپاٹ جہند پروردگار پھہ تمہ پتہ تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ  
 أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پزپاٹھ حضرت ابراہیم تمن توبہ تہ جھوہ مانان  
 اوس کنی زن، بڈس اتس برابر کیا زہ سوزی عالم اوس شرک و کرس بتلا۔ یورہ کنہ اوس سہ کنی صاحب  
 خدا جس کنی زانان۔ سارنہ اوس توحیدس کن دعوت دوان، خدا یہ سندا فرمانبردار بندہ۔ جس ساروی نشہ  
 الگ سبت تس کن مایل سپدہ ون اوس۔ بیہ اوس نہ سہ خدا جس شریک ٹھرا دہ و نیو آندرہ شاکر  
 لِإِنْعَامِهِ سہ اوس شکر گزار تہ زن نعمون پیٹھ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سہ ژور اللہ تعالیٰ  
 آن، برگزیدہ کوزن بیہ ہانس و تھ راہ اتس کن وَالتَّيْنَةُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ بیہ کوراسہ عطاس دنیاس اندرتہ رت حال۔ جہ جہ مہرانیہ۔ نبوت، اقتباء، خلعت،  
 ہدایت بیہ پھہ آخر تس اندر سہ اعلیٰ درجہ کیو نیو کارو آندرہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا توپتہ سوزاسہ توبہ کن وحی یارسول اللہ کہ پیروی کرو جہہ حضرت ابراہیم سندس ملتس جس کنسی  
 خدا جس کن مایل تہ پیہرہ ون اوس وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سہ مُضِر کو آندرہ إِتْمَاعِجِل

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ  
 اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۴﴾ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾  
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ط وَلَئِنْ

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فيه به داره ہند تعظیم آونہ مقرر کرنے۔ مگر تمنی بیٹھ سموتھ منز اختلاف  
 کور وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیہ کرہ فیصلہ چون رب قیامتہ  
 دودہ تمن در میان تھہ چیزس منز بیٹھ منز تم اختلاف چھہ کران۔ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ناددیو ہتھہ لوکن خدا یہ سبزہ وتہ ن۔ علمہ چو کتھو سیت بیہ تہ نصیحتہ سیت  
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بحث کرو لوکن سیت۔ تمہہ طرفہ بیت منز شدت تہ خشونت آسہ۔  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پزپاٹ چون پروردگار چھہ یزانان تمن  
 تم ہتھہ وتہ نصیحتہ ڈل۔ بیہ چھہ سوی یزانان کہہ کمولوب ہدایت تہ کم چھہ راہ راہس پیٹھ پکان۔ اگر کھار  
 جدال علمی نصیحتہ ڈلت جدال عملیس کن رُح گران تو پتہ وائے ناؤن اتھہ سیت یازوہ سیت تکلیف۔ تھہ  
 صورتس منز چھہ توہمہ بیہ ہتھہ ن تاہن بدلہ ہیون جایز۔ امیک چھہ توہمہ رخصت بیہ چھہ صبر کرن تہ  
 توہمہ جایز۔ مگر تہ چھہ عزیمت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وون ہر گاہ ہتھہ رخصت  
 پیٹھہ عمل کرو یعنی تمن ہیو بدلہ تہ انتقام سہ گڑھہ ستوی ہیون یوت توہمہ تکلیف آسہ و اتانوانہ آمت  
 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ہر گاہ عزیمتس پیٹھہ عمل کرتہ ہتھہ صبری کرو۔ تلہ چھہ صبر کرہ  
 نوی بہتر صبر کرہ وین ہندہ خیلرہ و اصبر و ماصبرك الا باللہ بیہ کرو ہتھہ صبری کیا زہ ہتھہ شان چھہ

صَبْرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ  
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۳۷﴾  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۸﴾

بلند تہ ارفع۔ جہند صبر کردن چھنہ مگر خدایہ سندی توفیقہ تہ مددہ سیت تہ تھا وواطمینان کہ توبہ سپدہ نہ  
صبر کرس اندر سنے قسمہ دشواری پیدہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ بیہ منہ  
بر و جہندہ مخالفک غم بیہ تم تدبیر تم جہندس مخالفس منکر ان چہ تموسیت منہ سپد و سجد ل امہ سیت  
سپدہ نہ توبہ کا نہہ نقصان کیا زہ توبہ چھوہ تقویٰ تہ احسانہ سیت موصوف إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا  
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھہ پر ہیز گارن تہ متقن سیت سیت بیہ تمن تم نیو کار  
آسن۔





# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیْهُ مِنَ الْاَیْتَانِ ۙ اِنَّهُ هُوَ السَّیِّعُ الْبَصِیْرُ ۝۱ وَاتَيْنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا منہ تہ پاک  
 چھو سو ذات پاک پر مجتہ نقصہ نغیر، ضعفہ نغیر، عاجزی نغیر۔ تم یکہ نو پختن بندہ خاص رات کیت۔ راژ  
 منہ ہنہ انکس مسجد حرامہ پیٹھ۔ یعنی خانہ کعبہ چہ مسجدہ پیٹھ، مسجد اقصاں یعنی بیت المقدس تان  
 الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ مجتہ مسجد اقصاں اندر آسہ دین و دنیا چہ بر کث تھاوہ مزہ مجتہ لِنُرِیْهُ مِّنَ الْاَیْتَانِ یکہ  
 نو تہ سیر کرہ نو سو بندہ خاص مجتہ باؤ و آس تمن پختہ قدر تک نشانہ۔ چنانچہ اکس کم و قس اندر مکہ شریفہ  
 پیٹھ شام شریفس تان و اتہ ناؤن یہ گو اکھ نشانہ۔ بیت المقدس ہاون۔ تہ حضرات انبیائن سمیت ملاقات  
 کرہ ناؤن یہ گو بیا کھ نشانہ۔ تہ پیٹھ سیر آسمانی کرہ ناوت آسمان ہند عجائبات ہاون۔ تم گئے بے نشانہ  
 عالمن ہندس اصطلاحس اندر چھہ ونان مکہ شریفہ پیٹھ بیت المقدس تان سیرس، اسراء۔ بیت  
 المقدسہ پیٹھ ہدرۃ التیمی اس تان سیرس چھہ ونان معراج۔ کئہ وقتہ چھو دو شون سیرن معراج وندہ  
 یوان، کئہ وقتہ چھو دو شون اسراوندہ یوان۔ معراج شریفک حدیث شریف چھو تقریباً ترہن صحابہ صغین  
 ہندہ روایت۔ مجتہہور سلف و خلفن ہندا اعتقاد چھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تمو کور معراج  
 بروح و بجسد، در حالت بیداری۔ اللہ تعالیٰ ان کور بیان واقعہ معراج کمال اہتمامہ سان۔ مخالفو تہ کور اتھ  
 انکار نہایت زور و شورہ سان۔ یسے زہ چیز چھہ بوزہ ناوان کہ یہ اوس نہ مندرہ مز روحانی طور یا بطریق  
 کشف۔ کیا رسہ آس نہ کا نہہ عجایب کتھاہ یوسہ کمال اہتمامہ سان بیان ایہ ہا کر نہ۔ مندرہ منہ چھہ کم کم  
 لوک کم کم چیز و چھان۔ بیہ کرہ ہن نہ کفار مکہ خوابہ کس واقعت یوت انکار اِنَّهُ هُوَ السَّیِّعُ الْبَصِیْرُ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَاتِيحْنُوا مِن دُونِي وَكَيْفَا ۝<sup>۲</sup>  
 ذُرِّيَّةً مِّن حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝<sup>۳</sup>  
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ  
 مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝<sup>۴</sup> فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَّانَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون۔ سو روی وچھ ون و آیتنا موسیٰ الکتب و جعلناه ہدی لبنی  
 اسرائیل بیہ کر عطا اسہ حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات بنی اسرائیل ہندہ خیرہ بوڈ سبب  
 ہدایت۔ بیٹھ اندر باقی احکامن سیت توحید ک عظیم الشان حکم تہ اوس آلآتحنوا من دونی وکیف ای  
 زہ بیٹھنہ مہ ورا ای بناویون تہہ کانہ اکھاہ یون کار سازیس توبہ پتہ کامہ پتہ او یو ذریتہ من حملنا مہ  
 نوح ای بنی اسرائیلو تہہ گوہ تمنی لوکن ہمد اولاد تم امہ ناہ منزہ کھاہ حضرت نوح سیت بڈس  
 طوفانس اندر۔ توبہ پڑہ ہا سیٹھا شکر دہن اتھ نفیس بیٹھہ یم یہ نعمت عطا کردہ سوگوشہ زان کنی۔ تس  
 گدھہ نہ شریک ٹھہرون لہہ کان عبد اشکوراً پڑھا حضرت نوح تہ اوس سیٹھاہ شکر گزار بندہ  
 وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلمن علوا کبیرا بیہ کر اسہ بیان  
 بطریق پیشین گوئی بنی اسرائیل توراتس اندر کہ تہہ کرو ضرور ملک شامس منز دو یہ پھیرہ گنہن  
 ہندہ کثر تہ سیت خرابی تہ تباہی۔ اسہ پھیرہ کرو شریعت موسویٰ مخالفت، بیہ پھیرہ کردہ شریعت  
 عیسویٰ ن مخالفت۔ بیہ کرو تہہ لوکن بیٹھہ سیٹھاہ زبردستی ظلم تہ سرکشی۔ حقوق اللہ تہ کرو ضائع حقوق  
 العباد تہ دوشون لٹن اندر گدھو تہہ سخت عذابس مبتلا۔ توبہ ایہ سزاوندہ فاذا جاء وعد اولہما بعثنا  
 علیکم عبادا نانا اولی باس شدید ہم سخت توتہ وال اسن فجا سوا  
 خلل الدیار تہ اثرن تہمدین شہرن تہ گھرن منز توبہ گرفتار کرنہ خیرہ مارنہ خیرہ وکان وعدا

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝  
 ۱۰۰۰  
 إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ  
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا  
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتُمْ تَبِيرًا ۝  
 ۱۰۰۱  
 عَلَىٰ رَيْبِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا جِئْنَاكُمْ

مَفْعُولًا یہ چھو وعدہ نُس ضرور پورہ کرنے ایہہ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ تو پتہ یلہ تو بہر توبہ کروہ،  
 تاوم تہ پشیمان سپدہ اون اسہ واپس تہمدہ خیطرہ بیہ تہمد غالب سپدن تمن پیٹھ اکہ ہتہ (۱۰۰۰) دہر  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ بیہ کور اسہ توبہہ مد پتھو یوسیت بیہ مال و دولتہ سیتہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ  
 نَفِيرًا بیہ کور وہ اسہ توبہہ زیادہ لشکرہ تہ فوجہ اعتبار إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِكُمْ بیہ دواپ اسہ  
 توبہ کہ ہر گاہ توبہہ رتہ کامہ کروہ تہ چھو رت توبہہ پنہ نین پانن ہمدہ خیطرہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا بیہ ہر گاہ  
 پیٹھ کامہ کروہ تمیک نقصان چھوہ پنہ نین پانن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ادہ یلہ وائتہ دو سمہ لہہ فساد کر بیہ  
 سزائک موقعہ بیہ سوزو کہ آس لو کہ پنہ سم توبہہ قتل و غارت کرن لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ سم توبہہ بیٹھ  
 دگان دگان تہمدین تہنن ہمد حلیہ تہ ٹٹھ بدلوان وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بیہ  
 بیٹھ تم اژن مسجد اقصیٰ اس اندر بے خر متی کرنہ خیطرہ۔ تہ مسجد مہمد م کرنہ خیطرہ، بیٹھ پاٹھ بروٹھمہ لہہ  
 ثلاث آس تھہ منز وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتُمْ تَبِيرًا بیہ بیٹھ تم بیٹھ بیٹھ جایہ واتن تھہ جایہ کرن تاہ و ہر باد۔  
 چنانچہ بنی اسرائیلو بیہ حضرت یسعی شہید کور، اللہ تعالیٰ ان سوز تمن پیٹھ بخت نصر سم تمن قتل و  
 غارت تہ لوٹ مار کرنہ سیتہ طوفان تل۔ بیہ اوس تھہ کتابہ منزراتہ لیکنہ آمت کہ ہر گاہ تمہہ پتہ یلہ دور  
 شریعت محمدیہ اسہ تہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشیر پتھ روزت شریعت محمدیک اتباع کرو۔ عَلَىٰ رَيْبِكُمْ أَنْ  
يَرْحَمَكُم عجایب تہ دور چھنہ بیہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ تہمد پروردگار کیاہ کرہ توبہہ پیٹھ رحم ہر گاہ تہہ توبہ کرو،

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ  
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ  
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آخَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ  
وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۙ  
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ  
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

پشیمان سپو وَاِنَّ عَذَابَهُمْ عَذَابًا مگر ہر گاہ تہہ بہ تہہ فسادتہ تا فرمانی کر و بد ستور بہ کہ وہ اس جہتہ عذابس  
گرفتار دنیاس اندر وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا آخرتس اندر چھو آسہ جنتم کور مٹوی کافر ن ہند  
قید خانہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ پڑ پات یہ قرآن مجید چھو ہاوان سوی و تھ یوسہ سیز  
و تھ چھ یعنی اسلام وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بہ چھو بشارت ووان  
با ایمان تم رتہ عملہ چھہ کران زہ تہندہ خظیرہ چھہ مزوریہ سیٹھاہ بد وَاَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
آخَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بہ چھو یہ قرآن مجید خبر ووان کہ تم لو کہ پڑھ چھہ کران آخرتس تہندہ خظیرہ  
چھو آسہ تیار کور مت دودتہ دگ تلہ ون عذاب وَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ قرآن مجید چھو  
لوکن رتین چیز ن گن و تھ ہاوان۔ بچھ چیز و لغیرہ پتھ رٹان۔ مگر انسان چھو تھہ وزہ پانس یا پنہ نس  
عیاس و وہوان۔ تھہ پات۔ تھہ پات دعای خیر چھو کران وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا یہ انسان اوس ڈاڈ جلدی  
کہہ ون سوچنہ کچھہ و رای کوم کران وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ  
مُبْصِرَةً بہ کہ آسہ دودتہ رات پنہ قدر تک زہ نشانہ۔ کس جنہو و آسہ راژ ہند نشانہ تاریکی سیت بہ کور  
ڈہک نشانہ نر اوہ ون۔ تم چیز راژ ہنزہ تاریکی سیت پو شیدہ چھہ آسان تمن چھو ڈہک نور انتر اوان  
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تھہ تہہ ٹھاہند و پنہ نس بد ورد گارہ سہند فضل یعنی  
رزق ڈہکس گاش اندر۔ یعنی ضروریات زندگی حاصل کرنہ خظیرہ کرو کار و بار۔ بہ تھہ زانو تہہ شب و

وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ۱۲) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ  
طَلِيقَةً فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۱۳)  
إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۱۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا  
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۵) وَإِذَا أَرَدْنَا  
أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

روزہ کہ انہ گنہگار سے تبت آفتابہ تہ زونہ ہمدہ کھسنہ تہ لوسنہ سبت، ڈرہن تہ رتین ہنز گریند۔ بیہ دوہن تہ  
وقن ہند حساب وکل شئی فضللناہ تفصیلاً پریتھ چیزاہ کوراسہ بیان قرآن مجیدس اندر بوضاحت۔ تمو  
چیز و آندرہ گو ڈہک تہ راتک یں گروہن وکل انسان الزمناہ طلیقہ فی عنقہ اسہ کر پریتھ کوم کرونس  
انسانہ سنز کوم، ادہ نیک کوم آستن یا پیچھ کوم آستن، مومن آستن یا کافر، عمل ہنز جان آستن یا پیچھ  
نال ہنز ہ گردنہ منز یعنی پریتھ اکند تقدیر چھو پریتھ اکس سبت تھاونہ آمت ونخروج لہ یوم القیامہ کتباً  
یلقہ منشوراً قیامتک دوہ کڈو اس تہد نامہ اعمال تہد ہوجھنہ خیطرہ ہتھ سووارہ موراو تھ وچھ سو۔  
پریتھ اکس وائہ پن نامہ اعمال خود بخود۔ بعضین دھنس اتھس منز، بعضین کھو فرس اتھس منز اقراً  
کتبک پریتھ اکس بیہ ونہ ہر پن نامہ اعمال پائے کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً کافی چھوک ژہ از  
پنہ پانہ خیطرہ پانس حساب ہیوہ ون من اھتدی فانما یھتدی لنفسیہ بس اکھاہ سیزہ وتہ پوک سو پوک نہ  
سیزہ وتہ مگر پنہ پانچہ فاندہ خیطرہ ومن ضل فانما یضل علیہا بیہ بس سیزہ وتہ نشہ ڈول سو ڈول نہ مگر  
پنہ پانچہ ضررہ خیطرہ تمیک ضرر چھو تس پان پانس ولا تزر وازرۃ وڈراخری بیہ تلمہ نہ کانہ شخصاہ  
بس شخصہ سندین گنہن ہند بور وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً بیہ چھنہ اس کانسہ عذاب کران  
پوتان نہ اس پن احکام ہتھ کانہ پیغمبر چھن سوزان واذا اردنا ان تھلک قریۃ امرنا مترفیہا بیہ یلہ  
یژھان چھہ اس گنہ شہرک یا گنہ گامک لوک ہلاک کران تم کفر و معصیتہ کہ وجہ قابل ہلاک چھہ



الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۱۷ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ  
 بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۸  
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا  
 لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِمَّا دُمُومًا مَّدْحُورًا ۱۹ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا  
 سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰ كَلَّا لَمَدُّ هَؤُلَاءِ

آسان۔ حکم چھ کران اس پیغمبر ہندہ ذریعہ تمہ شہرہ کین مالدارن تہ زٹھین ایمانگ تہ  
 فرمانبرداری ہندہ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تم زٹھیلے عدول کمی تہ نافرمانی  
 چھہ کرن سائین احکامن ہنز، بیہ چھہ فتنہ وفساد تھان تھہ شہرس اندر آتی چھہ تمن پیٹھ جعت پورہ  
 سپدان تم چھہ عذاب کس حکمس سزاوار بنان۔ ادہ چھک اُس تم نافرمان گالان تھندس شہرس تاراج  
 کران وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بیہ کرہ اُسہ حضرت نوحس پتہ کاژاہ امر ہلاک تھنزہ  
 نافرمانی سببہ قوم عاد و قوم ثمود وغیرہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی چھو تھند  
 پروردگار پنہ نین ہندن ہندگناہ پور زانان تہ پورو چھان تہ تمی چھو کس پیٹھ سزا شو بہ کس چھو تھنی سزا  
 دوان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کس اکھاہ پنہ نین نیک عملن ہنز مزور، فقط  
 دُنْيَاک نفع ژھانڈہ، جلد دُمُومًا کس تمہ اندرہ ایڑہن اُسہ خوش کرہ تہ کس اُسہ خوش کرہ دُنْيَاک  
 اندر ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ تو پتہ چھہ اُس تیار کران تھندہ خیطرہ جنم يَصْلَاهَا مِمَّا دُمُومًا مَّدْحُورًا تھہ  
 جھنمس منزواتانہ ایہ سؤ بذلت و خواری۔ دکہ دی دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بیہ تم پنہ نین نیک عملن ہنز مزور ژھانڈ آخر تک ثواب حاصل کرنہ خیطرہ  
 سو کوشش یوسہ شو بہ۔ یعنی سو عمل اُسہ شریعتہ کین قواعدن مطابق بیہ اُس سُو شخص با ایمان،  
 مُشْرِك اُسہ نہ۔ تمی قسمک لوکھ یم چھہ تھند سعتی تہ کوشش چھہ قابل تعریف یوسہ رتھہ کھسہ۔ اللہ  
 تعالیٰ قبول کرہ، سوی عمل پیٹھ ترہ شرط اُسن اکھ اُسہ نیت رتہ۔ دویم اُسہ مطابق قواعد شرع۔ ترمیم

وَهُوَ آءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۰ أَنْظُرْ كَيْفَ  
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝۱۱  
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ۝۱۲ وَقَضَىٰ رَبُّكَ  
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ۚ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ۝۱۳ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

آسہ اعتقاد صحیح کلاماً ہُوَ آءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ پر بیٹھ آگس سمودو یو آندرہ یعنی دنیا ترہانہ و نوس تہ  
آخرت ترہانہ و نوس گرو آس امداد پنہ مہربانی سیت وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا جھنہ تہندس پروردگارہ  
سز مہربانی دنیا س اندر کانسہ ہمدہ خیطرہ بند آمز کرنہ تہ پتھ آمز شہنہ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ ای پیغمبر برحق و چھو تہہ آسہ کتھہ پاٹھہ جھہ زیادتی عطا کر مشاؤین لوکن اذین پیٹھہ۔ حتی کہ اکثر  
کافر جھہ اکثر با ایمان ہمدہ خوتہ مالدار وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا پزپاٹ آخرت جھو سیٹھاہ بوڈ  
درجات ہمدہ اعتبارہ۔ بیہ جھو سیٹھاہ بوڈ فضیلتہ اعتبارہ۔ تمیک گڑھہ اہتمام کرن۔ بیٹھ سم شرط جھہ تم  
گڑھن پورہ کرن لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ای مخاطب مہ ٹھراون خدا بس معبود  
برحق سیت بیاکہ کانہہ معبوداہ۔ ورنہ روزک ژہ مذمت کرنہ آمت نیکیس و بے بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا  
تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ بیہ جھو حکم کورمت چان پروردگارن کہ ای لوکو عبادت مہ کر و معبود برحق وراے  
کانہہ ہنز وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا بیہ کرو تہہ پنہ بس مالس ماجہ نسبت احسان، رُت سلوک۔ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ  
عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا ہر گاہ واتن چانس و قس اندر۔ جرس تموا آندرہ  
اکہ یاد شوے پس مہ آس تمن کتھہ پیٹھہ تنگ بیٹھہ آف و تان۔ بیہ مہ آس تمن زورہ تھہ یا حشم کرن  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تمن سیت آس کتھہ کران رتہ طریقہ نرمی سان وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  
الرَّحْمَةِ بیہ کر پست تہمدہ خیطرہ انکساری ہمدہ ہر، نیاز مندی سیت، بیٹھہ پاٹھہ جانورہ سُنڈ بچہ جھو آتپہ رحمتہ

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿۱۳﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ  
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿۱۴﴾ وَأَيُّ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرِينَ  
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالْأَبْدَانَ تَبْدِيرًا ﴿۱۵﴾ إِنْ الْهَادِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  
الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۱۶﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْتَاءٌ  
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَتُلَّهِمُ قَوْلًا مِّسُورًا ﴿۱۷﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

وقتہ ماس ماجہ بروئٹھ سٹہ ہر موروات روزان وکل زیارہما کما ربین صغیرا بیہ آس تہندہ حقہ دُعا کران۔ ای میانہ حقیقی پروردگارہ رحم کرین دوشون پیٹھ پیٹھ پاٹھ سم دوشوے مہ پیٹھ رحم کھیت میان ظاہری پرورش کران آس یلہہ بولومٹ اوُس رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ تہندہ پروردگار چھو زیادہ زانہ ون تمن کھن سمہ تہندین وکن منز چھہ۔ ہر گاہ تہہ تحقیق اندر ولہ کن سعادت مند آس۔ یعنی وکس منز ماس ماجہ ہنز شفقت تہ محبت آتھ بعضی سٹہ وقتہ تہندہ طرفہ تمن نسبت تیزی لبہہ یوان آسہ تو پتہ آسوتہ تمہہ نغیرہ توبہ کر تھ تم پانس نغیرہ راضی کران فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ کرن والین مغفرت کرہ ون وَأَيُّ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرِينَ وَالسَّبِيلَ وَالْأَبْدَانَ تَبْدِيرًا آشناون آس دوان تہند حق بیہ مسکینس محتاجس تہ مسافرس بیہ مہ آس کران مال خرچ کرنس اندر اسراف تہ فضول خرچی۔ سو خدایہ سُد دہمٹت مال خرچ کرن تہزن نافرمانین اندر، یا مباح چیزن اندر تہوت زیادہ خرچ کرن سمہ سیت بروئٹھ بیجہ نہ شخص ضروری حقوق ادا کر تھ إِنْ الْهَادِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ پزپاٹھ اسراف تہ فضول خرچی کرہ ون چھہ شیطان ہمد پای وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان چھو گوڈ پیٹھ پتہ نس پروردگارس ناشکری کرہ ون تمس شیطانس دژایہ اللہ تعالیٰ ان دولت عقل، تم کر سوزائے اللہ تعالیٰ سزہ نافرمانی اندر۔ مہذ رین کرن عطا دولت مال تم تہ چھہ سوزائے کران تہزن نافرمانین اندر وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ أَيْتَاءٌ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمَا فَتُلَّهِمُ قَوْلًا مِّسُورًا بیہ ہر گاہ سٹہ وقتہ بچوری ژہ بین مسکین غریبن تہ محتاجن جوانی آسہ کرن بیہ ژہ آسکھ پتہ نس رب سز رحمت ژھانڈان تل کر ہز ژہ امن سیت نرم کلا ماہ۔



فِي الْقِتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿۳۴﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿۳۵﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ السُّتَيْقِيمِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۳۶﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۷﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ

کرن۔ مجرمس مبدل غیر مجرم یا کس بدل واریاہ مارن اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُورًا بیشک سوہجو مد کر نہ آمت۔ تس سیت ہتھ لوکن ہنز ہمدردی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ بچو نکھ یتیمہ سندس ماس مگر تمہہ طریقہ کس رت آسہ شرعاً عرفانہ یعنی سمہ سیت اصل موجود روزت تمہہ نفہ پیٹھ یتیمہ سند اخراجات پورہ سپدن۔ یوتان سو یتیم پنہ نس طاقس ولتہ یعنی بالغ نہ سمھدار سپدہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بیہ کروفا تھہ عمدس کس توہہ خدا کس سیت کورمت ہتھوہ۔ بیہ تمہ عمدن سم تہہ پانوان کران ہتھوہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بیشک پریتھہ کتھہ عہدک ایکی پر تھہہ قیامتک دوہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ السُّتَيْقِيمِ بیہ یلہ مینہ و نین چیزن تہہ مینان آسوتلہ آسوپور مینان۔ بیہ آسوتلہ ون چیز پختہ سکرہ تہ پورہ پرمانہ سیت تولان ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بیہ ہتھوہ درزات خودتہ سیتھہ رت بیہ ہتھوہ امیک انجام تہ سیتھہ بہتر تہ سیتھہ رت امرہ سبت ہتھوہ اعتبار بڑان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بیہ مہ آس پتہ لگان تھہ چیزس یا تھہ کتھہ تگنہ تہ خبری پتھہ۔ بے تحقیق مہ آس نئے چیزس پیٹھہ عملدرآمد کران۔ یوتان نہ کانہہ چیز تھہ قہہ سان زانان آسکھہ توتان مہ و ون زونم۔ یوتان نہ وارہ وچھان آسکھہ توتان مہ آس ونان و تھہم یوتان نہ وارہ بوزان آسکھہ توتان مہ آس ونان بوزم ہر و مومہ آس اپز گواہی تہ شہادت دو ان کیا زہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا پزپاٹ کن تہ اچھہ تہ دل یمن سارنی نشہ لیہ پر تھہ گار کر نہ قیامتک دوہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

طُولًا ۱۲) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۱۳) ذَلِكَ مِمَّا  
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
 فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۱۴) أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۱۵)  
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۱۶) قُلْ

مَرَحًا بیہ مہ بچھ زمینس پیٹھ کان تکر او تھ تکبرہ سان زور زورہ لہ دوان اِنَّكَ لَنْ تَخْوَقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ  
 الْجِبَالَ طُولًا پزپاٹ ژہ بیکھنہ گود کر تھ پنہ نیولتو سیت اتھ زمینس بیہ بیکھنہ پان زینٹھر او تھ پنہ  
 سیت کوہن تان تھرہ کن واتھ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا سیمہ سارے بچھ کامہ سمن  
 ہنز ذکر نہ آیہ سیمہ چٹھ چانس پروردگار س ناپسند ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ای محمد سیمہ  
 کتھ سیمہ بین آیہ کر نہ سیمہ بچھ تمو حمتہ چو کتھو اندرہ سیمہ ٹھنہ پروردگارن وحیہ پاٹ توہہ کن سوزہ ولا  
 تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ای مخاطب بیہ مہ ٹھراون خدا ایسی معبود برحقس  
 سیت کانہ معبودہ۔ ہر گاہ ژہ معبود برحقس سیت بیاکھ معبود تجویز کر کہ تلہ کچھ ژہ تراونہ جہنمس اندر  
 جُرْم تہ ملزم بنت دکہ دنہ آمت۔ وون یلہ ژہ بوزک کہ شرک کوتاہ بچھ چھوتہ بوزت تہ رود کہ نہ ژہ  
 تمو کتھو لٹھ پتھ سیمہ توحیدس بر خلاف آسن۔ بچھ پاٹ بعض جاہل چھ اللہ تعالیٰ اس کورہ ٹھراوان۔  
 دپان چھ ملائک چھ (نعوذ باللہ) خدا یہ سنزہ کورہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا کیاہ تھنہ پروردگارن کورہ توہ پتھو یوسیت خاص پانس رچن کورہ ملائکو اندرہ  
 کورے کورہ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بیشک تہہ چھوہ دان سیٹھاہ سخت کتھاہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي  
 هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا بیہ چھو افسوس سیمہ کتھ ہند کہ بیشک اسہ کرہ بچھ قرآن  
 مجیدس منز پھیر پھیر بیان اثبات توحید ابطال شرک مضامین بچھ لوکن وارہ فخرہ ترہ لیکن باوجود آل  
 چھ تمن توحید ج نفرت ہر ان یوت زیادہ بوزان چھ تیوت چھ گرنہ یوان تہ پڑہ کتھہ لٹھ دور ژلان

لَوْ كَانَ مَعَهُ الْهَاءُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۳۳﴾  
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ  
 وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا  
 تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳۵﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ  
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿۳۶﴾

قُلْ جہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ شرکہ کس باطل آسنس متعلق لَوْ كَانَ مَعَهُ الْهَاءُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ہر گہ معبود برحقس سیت آسنن معبودان باطل تہ یتھہ پاٹ مشرک ونان جھہ تلہ آسا تمہو مخالفانہ طریقس پیٹھ عرشہ والس خدائیس نغیرہ وان کانہہ وقھاہ کڈ مژتس سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ۔ تس نشیہ عرش مجید تحت شاہی اتھ ہیہ خیطرہ۔ یتھہ پاٹ دنیاء ک پادشاہ چھہ اکھ اکس نشیہ تحت وتان جتج کوشش کران۔ تھہ صور تس اندر آسہا نظام عام تہاہ و بز باد سپد مت۔ حالانچہ تہہ جھوہہ و چھان کہ نظام عالم چھو بدستور قائم الان کماکان۔ پس سپد معلوم کہ سبب فساد یعنی وارینن معبودون ہند آسن چھو بالکل غلط تہ باطل۔ پس سپد ثابت کہ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰی عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا سم لو کہ سمہ سمہ ونان جھہ تمہو ساروی کتھو نشیہ چھو اللہ تعالیٰ منزہ تہ پاک ہیہ سیٹھاہ تھود تہ بلند یتھہ بلند ہی تہ تھز رس نہ نہاتھہ تھہ چھو تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تس معبود برحقس چھہ پیاکی یاد کران ست آسمان تہ زمین ہیہ تم مخلوقات سم تم منز چھہ وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہیہ چھنہ کانہہ چیز یسنہ تمسنز پیاکی بیان کران تہ تہنہز تعریف کران چھو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مگر اے کافر تو ہیہ چھو نہ بوژن نکان تہنہز تسبیح ہر انہہ لائے کانہہ حَلِيمًا غَفُورًا بیتک سو معبود برحق چھو سیٹھاہ حلیم تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون تم سم شرک و کفرہ نشیہ توبہ کرت تمہ نشیہ پتھ روزن۔ حلیم آسنہ موکہ چھو نہ اللہ تعالیٰ بین مشرکن جلد گرفتار عذاب کران وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ہیہ سمہ وقتہ تہ تبلیغہ کس سلسلس اندر قرآن مید پران چھو ہ یارسول اللہ آس چھہ تمہہ وقتہ توبہ منز تہ تم لو کن

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آيَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا  
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعًا عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ  
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا  
لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

منزمن نہ آخر ق پڑھ چھہ ٹھور تہ پردہ تراوان پوشیدہ سو پردہ گو بیوی کہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آيَةً أَنْ  
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا تراوان چھہ آس تھندین دلن پیٹھ پردہ سمہ سیت نہ تمن ختمہ قرانک مقصد  
کینہہ فکرہ تران چھو۔ بیہ چھک کنن تراوان زر تہ گو بیہ۔ تھوپ چھک کنن لگان۔ فکر ی چھکنہ تران آس  
کیاہ چھہ بوزان وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعًا عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا بیہ یلہ تہہ یار سول اللہ پنہ  
نسی پروردگارہ سندین صفاتن تہ کمال اتن ہند ذکر کران چھہ قرآن مجیدس اندر تمن کافر ن چھو نہ فخرہ  
تران کینہہ تہ۔ تم چھہ نفرت کر تھہ تہ فخر پھرت وانہس ژلان نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ  
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا اس چھہ پور زانان کہ تم کیاہ چھہ  
کن دارت تھہد کلام بوزان۔ سمہ ساتہ تم بوزان چھہ ہند غرض چھو آسان تھہ اندر اعتراض تہ طعن  
کرن۔ بیہ چھو معلوم اسمہ سمہ ساتہ تم قرآن مجید بوزت پانہ وان کتھہ کران چھہ۔ سمہ ساتہ تم ظالم  
با ایمان ونان چھہ تھہ چھو نہ پیروی کران مگر تش شخصہ سزئیس جاڈیک اثر چھو سپد مت۔ سو جادو ک  
اثر گو جنون أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ای پیغمبر برحق وچھو کہہ کچ پیٹھ کھ  
چھہ تم دشمن تو بہ نسبت ونان۔ کہہ کہہ قسمک القاب چھہ تو بہ نسبت تجویز کران۔ امی سبہ گے نام  
گمراہ۔ پس لبن نہ تم پر رس کن و تھے زاہ۔ کیاہہ سمو چیز وسیت چھو ہدایتک استعدادے ضائع سدان۔  
سمو کتر قرآن مجیدس سیت ٹھہ تہ استزاء۔ پیغمبرس سیت تہ ٹھہ تہ استزاء۔ امی خوتہ بد گمراہی  
کوسہ گئیہ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِزْقًا إِنْ أَنَا لَبِيعُونَ خَلْقًا حَبِيدًا تم کافر چھہ ونان کیاہ یلہ آس



عِظَامًا وَرِفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقْنَا جَدِيدًا ﴿۵۶﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً  
 أَوْ حَدِيدًا ﴿۵۷﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ  
 يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ  
 رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿۵۸﴾  
 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا  
 قَلِيلًا ﴿۵۹﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

مذرت اذبحه اذبحه اسمی اذبحن اسمہ سورۃ ریزہ ریزہ گوشت کیاہ تو پتہ بیوہ اس قیامتگ دوہیہ  
 دوبارہ قبر و اندرہ کلدنہ تہ زندہ کرنہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا \* اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ نہہ  
 فرمایو کہ یا۔ رسول اللہ اذبحن ہنز کیاہ چھہ کتھے۔ ہر گاہ نہہ مر نہ پتہ کتھے یا شتر یا تمہ خوتہ کا نہہ سخت  
 چیز بنوئس چیز نہہندہ خیالہ زیادہ سخت تہ زیادہ بعید اسمہ زندگی قبول کرنہ نشہ و چھتو نہہ اسمہ چھیا سو چیز  
 دوبارہ بیہ زندہ کرنہ نہہ فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا وون پر ژھن تم اسمہ کہہ کرہ بیہ زندہ قُلِ الَّذِي  
 فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ نہہ فرمایو کہ کہہ توہہ کرہ سوی قدر تہ وول پروردگار پیدہ بیہ زندہ تہ یم توہہ گوڈہ پیدہ  
 کمرہ۔ یلہ تمہ کہین تہ اسمہ فَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ اسمہ پتہ بن توہہ بروئھ  
 کن کلہ گلو ان بطور انکار۔ دپتہ لکن سو دوبارہ بیہ زندہ سپدنک دوہ کر اسمہ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا نہہ  
 فرمایو کہ سو دوہ اسمہ جلدی يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا یہ ہنہ  
 تمی دوہہ یمہ دوہہ پروردگار توہہ نادہ آلودیہ اس ملکہ سندہ ذریعہ لیس ناو چھو اسمہ ائیل۔ سہ دپوہ توہہ  
 ہالو کو سپدو زندہ تو پتہ سپدو جمع تہ حاضر محشرہ کس میدانس اندر۔ تھہ ناس کمر و نہہ مجبور سپدت اجابت  
 تہ تسلیم۔ نیرن ہیو نہہ قبر و منرہ تسد حمد تہ تعریف کران۔ پر ان آسو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ یہ  
 گڑھ توہ خیال کہ اس چھہ زود مت ذبیاعس منز قبرن اندر مگر کسی کالس وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ  
 أَحْسَنُ یہ فرماو میانین مسلمان بدن کہہ تم آسن کافر ن سو جواب دپان لیس رت اسمہ اخلاقن ہندہ

بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ  
 إِنَّ يَشَآئِرَ حُكْمِكُمْ أَوْ إِن يَشَآئِعِدَّ بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۴﴾  
 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ  
 النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۵۵﴾ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

اعتبارہ۔ یہ منزنہ تیزی سے اشتعال انگیزی سے کیا رہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُزَيِّرُ بَيْنَهُمُكَ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ  
 عَدُوًّا مُّبِينًا بیشک شیطان چھو سخت سے تیز جواب و نہ ناولت لوکن منزنہ تیزی سے فساد تراوان کیا رہے شیطان  
 چھو گوڈہ پیٹھے انسانہ سندنون سے مولی دشمن۔ لہذا چھو نہ سختی سے تیزی کرئس اندر کانہہ فائدہ کیا رہے  
 ہدایت و گمراہی چھہ خدائس اتھہ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَآئِرَ حُكْمِكُمْ أَوْ إِن يَشَآئِعِدَّ بِكُمْ توبہ سارنی ہند حال  
 زلہ پور ٹھہند پروردگار کہ گس شخص تھہ قابل چھو۔ ہر گہ سُو یثہہ توبہ اندرہ کانہہ پیٹھہ رحم کرن۔ رحم  
 کرئس یعنی ہدایت کرئس۔ راہ راستس پیٹھہ انئس۔ بیہ ہر گاہ سُو یثہہ توبہ اندرہ کانہہ عذاب کرنئس  
 کرہ عذاب یعنی تس دیہ نہ ہدایتک توفیق ہمہ سببہ سوسز اواری عذاب سپدہ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا بیہ  
 نہ حض سوزونہ اسہ ٹھہ لوکن ہندہ ہدایتک ذمہ دار بناوت لہذا ایلہ نہ ٹھہ باوجود نبوت و رسالت ذمہ دار  
 بناوت سوزنہ آمت چھوہ۔ عام لوکن ٹھہندین اُمتمین کیاہ ذمہ داری چھہ امہ کتھہ ہنز کہ تم چھہ زورہ اتھہ  
 منز ہر نہ قضیہ لاگان وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھہند پروردگار چھو پور زنان تمن سارنی  
 تم آسمان اندرہ زمین اندر چھہ یعنی ملائکن سے انسان سے جن۔ تمس چھہ خبر تموساروی اندرہ ٹھہ چھو  
 نبی ہناؤس قابل ٹھہ چھو نہ پس ہر گاہ تم ٹھہ نبی پیغمبر بناوہ اتھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ توبہ تہ ہر گاہ توبہ تم  
 فضیلت دیت تھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ کیا رہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا  
 تھہن اسہ دیت فضیلت بعضی پیغمبرن، بعضی پیغمبرن پیٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اسہ توبہ قرآن مجید عطا کور توبہ  
 کیاہ تعجب چھو کیا رہے اسہ کورنا عطا دَاوُد علیہ السلامس زبور۔ زبورک تخصیص اوامی کرنہ کہ زبورس منز  
 چھہ خصوصیتہ سان بیان آمت کرنہ نعت و صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ چھہ تھہ منز خبر و نہ  
 آمر کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان آسن صاحب ملک و سلطنت قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا

مَنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رُؤسِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۗ وَإِنَّ  
مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا  
شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۗ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

یَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۗ جبہ فرماؤ کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرک کہ اے  
مُخَّر کو تھانہ دی تو آلو تم معبودانِ باطن میں ہندہ معبود آسک توہہ گمان نہ خیال چھو کر ان میں  
نستین نہ پریشان ہندہ وقتہ دیتو آلو تمنی معبودن۔ معبود برحق ورا ی جبہ وچھو تم بیکوہ توہہ کینہہ  
چارہ کمر تھ۔ تم نہ بیکوہ تکلیف دور کمر تھ کمنہ قسمہ نہ بیکوہ تھ اولہ بدل کمر تھ۔ تم چھو نہ تمیک  
اختیار۔ ادہ تم ملایک آسٹن یا جن آسٹن یا انسان آسٹن ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ۗ تم لوک میں یم مشرک  
نفع حاصل کرنے خیطرہ یا کانہہ ضرر دور کرنے خیطرہ منگان چھہ ۗ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رُؤسِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ تم چھہ پانہ پنہ نس پروردگار س نیشہ قرب نہ نزدیکی ہند نہ تس نیشہ واسٹنگ  
ذریعہ تلاش کران۔ پریتھ اکھاہ چھو کوشش کران کہہ بوی نہ بوی گو ٹھس زیادہ خو نہ زیادہ تس ذات  
پاکس قریب پُنن۔ بیہ چھہ تم تمسندس رحس امیدوار روزان۔ بیہ چھہ تم تھندس عذابس کھوژان  
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۗ بیشک تھندس پروردگارہ سُنَد عذاب چھو کھوژانس قابل۔ امہ اندرہ چھو  
مطلب یلہ تم پانہ خدلیہ سز عبادت کرہ ون چھہ بین ہند حاجت تھہ پاٹھ بیکن تم کڈت۔ یلہ تم پانہ  
تسندس عذابس کھوژان چھہ بین نیشہ تھہ پاٹھ بیکن تھند عذاب نہ تکلیف دور کمر تھ ۗ وَإِنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا  
نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۗ بیہ چھہ کافر ن ہنز  
کانہہ بستیاہ میں آس قیامتہ کہ دوہہ بروٹھہ ہلاک و بناہ کرہ ون چھہ یا سکن اس قیامتگ دوہہ جہنمہ کس  
عذابس گرفتار کرہ ون چھہ۔ نہ سوزی چھو لوچ محفوظس لیکنہ آمت۔ پس ہر گاہ کانہہ کافرہ دنیا کہ

بِالْآيَاتِ الْآلَانَ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَاتَّبَعْنَا نِسْمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً  
 فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۹۹ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ  
 أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

عذابہ نیشہ کنہ وجہ چہ تہ مگر آخر حکم عذابہ نیشہ بیحہ نہ سونکہ صورتس اندر بچت واما منعنا ان نرسل  
 بِالْآيَاتِ الْآلَانَ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بیہ رٹ نہ آس ہتھ کنہ چیزن اس کیا سوز ہو تم معجزہ یمن ہنز لو کہ  
 خواہش کرہ یمن۔ مگر برو ظہن لوکن ہندہ تمہ قسمہ کین فرمایشی معجزن ہند انکار کرن۔ کیا زہ تمن لوکن  
 ہند تہ یمن لوکن ہند طبیعت چہہ کئی قسمک۔ نمونہ پاٹھ یوزو تہہ اتھ متعلق اکھ قصہ نہ۔ وَاتَّبَعْنَا  
 نِسْمُودَ النَّاقَةِ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا چنانچہ قوم ثمود چہ خواہشہ مطابق کریو اسہ تمن عطا بطور معجزہ  
 حضرت صالح پیغمبرہ سندہ ذریعہ دوئندہ ہند معجزہ یوسہ عجیب طریقہ پیدہ آہہ کرنہ۔ یوسہ معجزہ آسکہ  
 سببہ در ذات خود بصیرت حاصل کر نک اکھ ذریعہ اوس۔ مگر تمبو لو کو کتر نہ تمہ سبت کانہہ بصیرت  
 حاصل۔ بلکہ کوز کہ تس اونندہ نسبت بوڈ ظلم۔ سوگو سو اوٹن مار تمبو بیدردی سبت تھوی معاملہ کرن  
 از کہ و تک کافر تہ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا بیہ چہہ آس پن امہ قسمک نغانہ تہ معجزہ سوزان یم  
 فرمایشی آسن مگر پندہ عذابہ نیشہ کہوژ ناوندہ خیرہ۔ یعنی اگر ایمان اونہ تلہ کروہ اس فور اتناہ و بر باد۔ ای  
 چھو آسان فرمایشی معجزن ہند مقسود۔ دون ہر گاہ تم معجزات ظاہر سپدن تو پتہ انہ یمن نہ تم ایمان۔ اس  
 کر ہو کہ تم پندہ وعدہ موجب ہلاک۔ ہتھ پاٹھ قوم ثمود وغیرہ کور۔ ونہ آسہانہ بہندہ ہلاک سپد نک وقت  
 مقرر و تھمت۔ آس یہ کنیوہاہ توبہ و نان چہہ کہ تم ان نہ معجزہ و چہت تہ ایمان یہ چہہ آس اتھ کئی نظر  
 کتر تھ و نان کہ اسہ چھو معلوم گوڈہ پیٹھے۔ چنانچہ اسہ چھو توبہ تہ امیک اطلاع برو نٹھی کورمت وَإِذْ قُلْنَا  
 لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ چنانچہ تہہ پاوژ تیس یلہ اسہ توبہ فرموو کہ بیشک تہند پروردگار چھو پندہ علمہ  
 سبت ساری لوکن ہندین موجودہ حالات تہ تھہ ادہ و نین حالاتن احاطہ کتر تھ۔ تم ہند ایمان نہ اتندہ تہ  
 چھو تموے حالاً تو اندرہ۔ لہذا منہ ہر و تہہ کانہہ پرول۔ تہہ رُوژو پن کوم کران یعنی تبلیغ کوم وَمَا جَعَلْنَا  
 الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ بیہ کور نہ اسہ سو خواب ٹیس اسہ توبہ ہو و مکہ مفس اندر دین اسلامہ  
 ترقی متعلق۔ یا سو دیدار خصوصی ٹیس اسہ ہو توبہ در شب معراج۔ مگر لوکن ہندہ آزمایشہ خیرہ۔ ہتھ

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ قَايِزِيْدُهُمُ الْاَطْعِيَا نَا كَبِيْرًا ۝۷۰  
 وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السَّجْدَ وَالْاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا الْاِبْلِيسَ ۝ قَالَ  
 اَسْجُدْ لِيْنَ خَلَقْتُ طِيْنًا ۝۷۱ قَالَ اَرَايْتِكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتُ  
 عَلٰٓى لِيْنَ اٰخَرْتَنِيْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا

وا رہ نہ کہ کم کرن پڑھتہ کم کرن انکار۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ یہ کثر نہ اسہ تمہ کلج ذکر بس کل رحمتہ نشہ دور آمت چھو تھاو نہ یعنی درخت زقوم۔ بس جہنم منر آسہ۔ سمیک پھل جہنمی کھیاو نہ آسن یوان تمہ کلج ذکر تہ آسہ قرآن مجید س اندر لوکن ہندہ امتخانہ تہ آزمائشہ خیرہ۔ چنانچہ تمں دوشون چیزن کور کافر وانکار۔ معراجس کورکھ سمہ موکھ انکار کہ یہ آکھ عجائب بوزنہ کہ اکی شمس منزوت زیٹھ زیوٹھ سفر کزن۔ بالخصوص آسمان ہند سیر کزن۔ یہ اوس نہ تہنر فخرہ منز یوان۔ یتھ پاٹھ کورکھ شجرہ زقومس تہ انکار۔ دوپھ تہ تھہ پاٹھ ہنہ کہ نارس منز کیا آسہ کل۔ نارنج ماہیت تھہ الگ کلج ماہیت تھہ الگ نارہ سیت چھو کل دزان۔ بہر حال یتھ پاٹھ سمو کافر و تمں دون چیزن انکار کور۔ یتھ پاٹھ کہ ہن تم فرمائیش معجزن تہ انکار وَنُحُوفُهُمْ قَايِزِيْدُهُمُ الْاَطْعِيَا نَا كَبِيْرًا یہ جھہ آس تمں آخر جھہ عذابہ سیت ڈر پاوان۔ مگر تمں جھنہ تمہ سیت کینہہ تہ ہران مگر بڈ سرکشی تہ شرارت وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السَّجْدَ وَالْاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا الْاِبْلِيسَ یہ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ آسہ حکم کور ملائکن تمں سیت تمہ وقتہ ابلیس تہ شامل اوس کہ سجدہ تعظیم دیو آدم علیہ السلام۔ پس ڈیت ساروی ملائکیو تعیل حکم کتر تھ سجدہ مگر ڈیت نہ ابلیس قَالَ اَسْجُدْ لِيْنَ خَلَقْتُ طِيْنًا سولوگ دپنہ کیاہ بہ دما سجدہ تس بس ژبیہ رپہ پیدہ کور تھن۔ اتھ عدول کھی پیٹھ سپد سومر دود قَالَ تَمَّہ وقتہ لوگ سوونہ اَرَايْتِكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتُ عَلٰٓى لِيْنَ اٰخَرْتَنِيْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا مہ ونو یہ شخص بس توہ مہ پیٹھ فضیلت ڈیت وہ آس منز کوسہ خوبی تھہ۔ خیر ہر گاہ تہہ مہ مہلت دیو میانہ در خواستہ موجت قیامتہ کس دوہس تان زندہ روزخ تللہ وچھو بو کیاہ بتر اوہ آسندین کو تین پوتین نسبت تم ساری

قَلِيلًا ﴿۶۳﴾ قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ  
 جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿۶۴﴾ وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
 وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ  
 وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا ﴿۶۵﴾ اِنَّ عِبَادِي  
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكٰفِيْ بِرَبِّكَ وَاَكْبَرًا ﴿۶۶﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي  
 يُرْجِيْ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ

در غلاو کہ تہ گمراہ کر کہہ ہو کہیوں کم لوکن وراى چانیو مخلص بند و اندرہ قَالَ اِذْهَبْ اللہ تعالیٰ اَن  
 فر مووس گوشہ گوشہ۔ یہ تکی تہ کر۔ اُسہ سبھا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اُس اکھاہ تمو اندرہ چان پیروی تہ  
 متابعت کرہ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا پس بیشک نارِ جہنم چھو چانہ خیرہ ہیہ تمہن ہندہ خیرہ پورہ  
 پورسزا وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ہیہ ڈالتھ تہند قدم سبزہ و تہ نشہ۔ ہیہ کھوژ ناوتھ تہ  
 بانبر اوتھ تم پنہ نیو آواز وسیتِ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ہیہ اتھ تم گمراہ کرنہ خیرہ ہین  
 پور لشکر۔ پیادہ لشکر تہ سوار لشکر تہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ہیہ سپد تہ شامل شریک تہندین  
 مالن اندر تہ اولادن اندر یعنی تم دو شوے چیز کیا کرن تم حاصل ناجائز طریقو سیتِ وَعِدْهُمْ ہیہ  
 تھاوتہ تمہن ژہ لہز لہز وعدہ کرنہ سیت۔ تمہ سیت اندی نہ کینہہ تہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا بیشک  
 شیطان چھو لوکن سیت لہز وعدہ کران اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ کیا زہ بیشک میان ہندہ تم  
 چھہ تمہن پیٹھ چھوی نہ ژہیہ کتہ قسمگ غلبہ و کفی بِرَبِّكَ وَاَكْبَرًا تمہن شیطانس تھہ پیٹھ ہیہ غلبہ تھہ۔ تھند  
 پروردگار چھو تھند کانی کار ساز رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِيْ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ تھند پروردگار  
 چھو تھوی نعمت عطا کرہ ون سہ سو چھو توبہ فایدہ و اتناونہ خیرہ دریاون اندر ناوہ تہ جہاز پکہ ناوان۔ تھہ  
 تھہ تھندہ رز گک تلاش کمرو ائہ کان پکہ رَحِيْمًا بیشک سو چھو تھندس حالس پیٹھ سیٹھاہ مہربان۔ وَاِذَا  
 مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ ہیہ یلہ توبہ دریاؤس اندر یا سمندر س اندر کانہہ تکلیفاہ

رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  
 إِلَّا آيَاَهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
 كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ  
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿٦٨﴾ أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ  
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ  
 الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلِيَاً يَتَّبِعَا ﴿٦٩﴾

واتان چھو تمہ ساتہ جھہ توہہ مشان تم ساری معبودان باطل سمن تہہ عبادت کران آسوہ معبود  
 برحقس ورائی۔ تمہ ساتہ جھوہ تمس معبود برحقس نجات منگان فلما نجاتکم الی البر اعرضتمو پس یلہ  
 سو تہہ س منگس اجابت کمر تہہ توہہ پھنہ نشہ نجات دتہ پنھس کن واتاوان چھو اتی چھوس یہ تہہ  
 پھر ان تہ نافرمانی کران وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا یہ انسان اوس ڈاڈ ہمیشہ گھر ان نعمت کرہ  
 وئی۔ پنہ نس مُعم حقیقی سدا انعام تہ پن ناگر عاجزی تہ زارہ پارہ مشراوان۔ وون یوسہ تہہ۔ روگردانی  
 کران چھوہ یہ تہہ بناء س چھوہ کران أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیاہ توہہ لنبوہ امن وامان  
 سمہ تہہ نشہ کہ سو کیاہ واللہ توہہ پنھس پیٹھ واتتھ زمینس تل پٹھ پاٹھ قارون ووکن اوویرسل علیکم  
 حاصبًا یاسوزہ توہہ پیٹھ واواہ سمہ منزہ توہہ پیٹھ کنہ زود پیہ پٹھ قوم عاوس پیٹھ کنہ زود سپرو وکتھ  
 لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً توپتہ لیون نہ تہہ پنہ خطیرہ کانہ مددگارہ تہ کارسازہ اَمْ آمَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ  
 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى کنہ تہہ جھوہ پنہہ جلیہ خاطر جمع سمہ تہہ نشہ کہ اللہ تعالیٰ کیاواتاوہ توہہ دوبارہ بیہ اتھ  
 سمندر س منزہ ضروری کامہ موکھ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ پس سوزہ  
 توہہ پیٹھ چھلہ کرون سخت واوئس تہہ س جہازس چھلہ تہ کوچہ کمر تہہ توہہ سان چھاوہ تہہہ گھرہ سببہ  
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلِيَاً يَتَّبِعَا توپتہ لیون نہ تہہ کانہ اکھاہ آسہ باز خواست تہ پرژھہ گار تہ جواب طلب  
 کرہ ون وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَصَلَّاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیہ دیت پز پات آسہ حضرت آدم علیہ السلامہ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۴۰  
 نَدَّ عُوَاطِلَٓٓ أَنَايسِٓٓ يَا مَاهِمَهُمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ  
 يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ  
 أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ

سندین اولادوں یعنی انسان بعض صفت عطا کرنے سیت۔ بجز تھے صفات تم نہ باقی حیواناتن عطا آئی  
 کرنے۔ تم گے حُسن صورت سیود قد و قامت۔ عقل۔ ایجاد صنایع۔ یہ کمر آسہ تم سوار خشکی اندر  
 مختلف جانورن ہندین پٹھ۔ گرین نہ اوٹن نہ کاترن نہ کھرن ہندین پٹھن پیٹھ۔ دریاون نہ  
 سمندرن اندر ناؤن نہ جہازن پیٹھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یہ کوراسہ تم عطارزق نفیس نفیس صاف و  
 پاک چیز و آندرہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ دیت آسہ تم فضیلت پنہ نیو مخلوق آندرہ  
 واریہن مخلوقن پیٹھ رت فضیلتا۔ اتھ کن نظر کر تھ پڑہ ہا تم سن سائین نعمون ہنز قدر کرین منعم  
 حقیقی کئی زانہ سیت۔ یہ تسن عبادت نہ فرمانبرداری کرنے سیت۔ امہ نافرمانی نہ کفر و شرک محاسبہ ایہ  
 ہنہ تم قیامتک دہہ یَوْمَ نَدَّ عُوَاطِلَٓٓ أَنَايسِٓٓ يَا مَاهِمَهُمْ سودہ گو سوی سمہ دہہ اس نادومو سارنی لوکن  
 پن پن نامہ اعمال سیت ہتھ۔ محشرہ کس میدانس منزج سپد نہ خیطرہ۔ بعضی مفسر و فرمودو بامامہم  
 پنہ نیو سردارو نہ زہیو سیت ایک نادونہ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينُهُ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  
 پس تم لوکن نامہ اعمال دنہ آید پھنس اتھس کیتھ تو پتہ پڑن تم پن نامہ اعمال۔ وچھن تم کہ تم  
 ایہ نہ کتھ قسمہ ظلم کرنے۔ خضر آچہ ہدہ منزجہ کھشہ چہ جاہ ہندہ پنہ داوہ برابرتہ۔ یعنی تم ایہ ایمانگ  
 نہ رٹن عملن ہند ثواب پورہ پورہ عطا کرنے۔ تم ایہ عذابہ نیشہ نجات دنہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ  
 فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یہ پس شخص دنیاءس اندر ذانت کمر تھ نجاق و تھ وہجہ نہیہ اون نہ اعلیٰ  
 آسہ بنیومت۔ سو آسہ آخرتس منزجہ نجائس گرس منزواتنہ نیشہ اعلیٰ نہ اون نہ نابینا۔ یہ آسہ دنیاخو نہ



عَنِ الذِّیْ أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ لِتَقْتَرَىٰ عَلَيْنَا غَیْرَهُ ۖ وَإِذَا الْأَخْذُ وَكَ  
 خَلِيلًا ۗ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُنُ الْیَوْمَ شَیْئًا قَلِيلًا ۗ  
 إِذَا الْأَذْقَمَكَ ضَعْفَ الْحَیْوَةِ وَضَعْفَ الْمَبَاتِ ثُمَّ لَا یَجِدُ لَكَ  
 عَلَیْنَا نَصِیْرًا ۗ وَإِنْ كَادُوا لَیَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَیُخْرِجُوكَ  
 مِنْهَا وَإِذَا الْأَیْلَبُثُونُ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا

سیٹھا روومت سے دور پیومت منزل مقصود حاصل کرنے نہیہ کیا زہہ دیاءس اندر اوس گمراہی سے ضلالتس  
 تدارک کرن ممکن توبہ استفغده سیت۔ آخرتس اندر جھوٹو گمراہی تدارک کرن ناممکن سے دشوار۔ سمن  
 لوکن یہ نامہ اعمال دنہ کھو فرس اتھس کیتھہ ۗ لَنْ كَادُوا لَيَقْتَبُونَكَ عَنِ الذِّیْ أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ لِتَقْتَرَىٰ عَلَيْنَا غَیْرَهُ  
 وَإِذَا الْأَخْذُ وَكَ خَلِيلًا ۗ بیہ آس کافر سیٹھاہ نزدیک ہتھہ کوشش کران کہ تم ڈالمن توبہہ تموا احکامو نہیہ تم  
 آسہ توبہہ پیٹھہ بذریعہ وحی نازل کمرمت آس۔ یعنی تہہ کرہ ہووہ تہمزہ خواہشہ مطابق عام مسلمان پانس  
 نہیہ دور۔ یاد یہ ہو تہن آس ورہس اسلام انہ نس مہلت۔ سمہہ دو شوے کتھہ آسہ خلاف شرع۔ مگر تہمز  
 کوشش آس کہ تہہ پاتھہ کمر ونا تہہ یہ تھہ منظور۔ اسہ پیٹھہ لاگو ناسانہ حکمہ ورا ی بیا کہ حکماہ۔ تلہہ تلہہ تھاو ہن  
 تم توبہہ ہن جانی دوست ۗ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرُكُنُ الْیَوْمَ شَیْئًا قَلِيلًا ۗ ہر گاہ نے آس تہہ مضبوط سے  
 محکم ثابت قدم تھاوہ ہووہ پنہ نس خمس ہتھہ نتہ اوس احتمال کہ تہہ ماسپد ہو تہن گن مائیل موہہ ہنا۔ تھہ  
 صورتس اندر إِذَا الْأَذْقَمَكَ ضَعْفَ الْحَیْوَةِ وَضَعْفَ الْمَبَاتِ ہر گاہ تہہ ایہ ہالبنہ یعنی تہہ کیاسپد ہو تہمز ن  
 تھن گن مائیل تلہہ تہناوہ وہ اس تہہ دوگن عذابگ مزہ دنیاچہ زندگانی اندر تہہ۔ آخرتچہ زندگانی اندر تہہ،  
 مرنہ پتہ تہ۔ ۗ ثُمَّ لَا یَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیْرًا ۗ تویپتہ لہہ ہون نہ تہہ پتہہ خیطرہ آسہ مقابل کانہہ مددگارہ۔  
 مگر چوچکہ اسہ بناوہہ تہہ مہوم سے ثابت قدم تمہہ سببہ آونہ لہنہ تہنہہ طرفہ تہہ قسیمہ تہن گن مائیل  
 سیدن۔ خداین کمر وہ توبہہ ہن راہجہ سے حفاظت۔ تہہ لہو دُنیاو آخرتچہ دوگن عذابہ نہیہ نجات ۗ لَنْ  
 كَادُوا لَیَسْتَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَیُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الْأَیْلَبُثُونُ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ بیہ کریو قصد تموا کافرو

قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَحِدْ لِسْتِنَاتِنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْقِمَامُ الصَّلَاةُ لِذُلُوكِ  
 الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
 مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ ذِكْرًا لِّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ

توہمہ تکلیف و اتنا توہم کرہ کن تم مجبور توہم مکتہ شریفہ منزہ نیر نس پیٹھ۔ ہر گاہ تہ لبندہ ایہ ہاتلہ روز بہن تم  
 تم کافر توہم پتھ تھہ شہر س منز مگر کمہ سی کالس۔ چنانچہ تی آو بعل۔ یلہ خدایہ سندہ حکمہ موجب توہم  
 ہجرت کمر وہ، مکتہ معظمہ منزہ در اوہ، مدینہ منورس گن نیوہہ تشریف۔ ڈوڈوری گوشتھی آی کافر ہند پڈ  
 پڈ ڈاگر دشمنان اسلام ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید پلید جنگ بدرس منز قتل کرنہ تہ مارنہ۔ تمہ پتہ کمی  
 کینہہ کالاہ گڑھت سپد سٹ مکتہ۔ ساری جزیرہ عربس پیٹھ سپز اسلامی حکومت قائم۔ ٹھند یو دشمنو منزہ  
 رُودنہ اکہ تہ باقی۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا تَتَّبِعُوا مَا يَأْتِيكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَسَمِعَ اللَّهُ نِدْوَهُمْ إِذْ  
 طَرِقَ رُودُ، تم پیغمبر اسہ توہم بروٹھ سوزمت آس تمن تہ یلہ دشمنو تکلیف و اتناو، توپتہ کڈک تم پیغمبر  
 پتہ نیو شہر و اندرہ، اسہ گال تھہ تم ڈشمن۔ تمن دیت نہ اسہ سوک تمن تمن شہر اندر رُوزت۔ پیٹھ پاٹھ  
 گالو کہ آس تھہ ڈشمن تہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَحِدْ لِسْتِنَاتِنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْقِمَامُ  
 سانس مقررہ طریقس تغیر و تبدیل سپدان۔ دون یوزوٹھہ سونسخہ سیمہ سیت تھہ ساری غم دور سپدان  
 آقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ای پیغمبر برحق تھہ آسو پر تھہ دوہہ نماز قائم تھوان،  
 دوہلہ آفتاب ڈلنہ پتہ راتہ منزہ تاریک تہ لنگھ سپد سٹس تان، اتھ منز آیہ ژور نمازہ۔ پیشین۔ دگر، شام  
 تہ خفتن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ بیہ آسو صُحُ نماز پر ان إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیٹک صُحُ نماز چھہ ملائکن  
 ہمدہ حاضر سپدنگ وقت۔ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ دگر نمازہ تہ صبح نمازہ چھہ حاضر  
 سپدان ڈبک تہ راتک ملائیک۔ تم انسان ہمدہ حفاظت و کتابتہ خیطرہ وسان چھہ۔ تمن چھہ تمنی دون  
 وقتن پیٹھ بدل سپدان۔ راتک ملائیک چھہ صُحُ کھسان ڈبک ملائیک چھہ وسان۔ دگر س چھہ ڈبک  
 ملائیک کھسان تہ راتک وسان۔ صبح نمازہ تہ دگر نمازہ پیٹھ چھہ دوٹھوے کھسہ ون تہ وسہ ون جمع  
 سپدان۔ خدایس نیشہ گوہی دوان کہ۔ اس کھت چان بندہ آس نماز پر ان آس و تھہ تم آس نماز پر ان  
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ ذِكْرًا لِّكَ بیہ راتہ ہندس آگس حصس منز و تھو تھہ یار رسول اللہ، پتر و تھہ اندر نماز



الظَّالِمِينَ الْاَخْسَارًا ﴿۷۶﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا  
بِحَايِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوْسًا ﴿۷۷﴾ قُلْ كُلُّ يَعْْمَلُ عَلٰى  
شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۷۸﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ

قرآن مجید نازل کر انہیں بوڈ شفا چھو۔ بڈ رحمت چھہ با ایمان ہمدہ خیطرہ یعنی پتھ پاٹ ہڈ کہہ ینہ سبت  
اپز گول تہ زائل سپد پتھہ پاٹھ چھہ اس قرآن مجید وارہ وارہ نازل کران۔ اُس رُو حانی مرضن تہ بیمارین  
ہمدہ خیطرہ بوڈ علاج چھہ سمہ سبت وکو اندرہ ہدا اعتقاد تہ لہز عقاید تہ پچھہ اخلاق بیہ شکوک و شبہات دُور  
سپد تھہ روحانی صحت چھو حاصل سپدان۔ بلکہ چھو بسا اوقات امکہ برکتہ جسمانی مرضن تہ بیمارین تہ شفا  
بنان۔ با ایمان ہمدہ خیطرہ چھو رحمت و شفا می موکہ تم کیا چھہ اتھہ قرآن مجید س ایمان اتان۔ امہ  
موجب عمل کران۔ سمہ سبت اللہ تعالیٰ چھو پن بڈ رحمت تم کُن متوجہ کران۔ پچھہ عقاید تہ پچھہ عملو  
نشہ چھو تمین شفا بخشان **وَلَا يَرْزُقُ الظَّالِمِينَ الْاَخْسَارًا** مگر ظالمین تہ نا انصافن سمہ امہ قرآن مجیدہ  
موجب عمل کرن ہر نہ کینہہ تہ تاوانہ تہ نقصانہ وراى۔ کیا زہ تم چھہ امہ کیو ہدا یعو تہ ارشاد اتو موجب  
عمل کران سمہ موکہ تمین پیٹھہ چھہ خدایہ سزبیزاری زیادہ سپدان۔ تم چھہ مستحق عذاب و سزا سپدان۔  
یلہ وان یہ کیفیت چھہ لہذا تمین متعلق قبول اسلاج امید تھاوان یا تہمدہ مخالفنگ غم کیون چھو بیکاروبے  
فاسیدہ **وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِحَايِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَكُوْسًا** بیہ یلہ اُس کانہہ  
انسان یعنی کافر س کاٹھہ نعمتھاہ عطا کران چھہ تس پڑہ ہا شکر گذاری کرن۔ تھہ بدل چھو سانو احکامو  
نشہ پتھہ پھر ان۔ بیہ پہلو تہی کمر تھہ پس طرفس کُن پھیر ان یعنی اللہ تعالیٰ چھو س پنہ فضلہ سبت نعمت  
مال و دولت عطا کران۔ مگر سو چھو نہ احسان مانان۔ امہ نعمتک شکر ادا کران یوت اہس عیش و آرام چھو  
حاصل سپدان، تیوت چھو سو منعم حقیقیس نشہ غافل سپد تھہ تمسند یو احکامو نشہ اعراض کران۔ بیہ یلہ  
تس کانہہ تکلیفہہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھو نا امید سپدان دوشون حالتن منز چھو خدا اہس نشہ بے تعلق  
سپدان۔ مگر با ایمان چھہ دوشون حالتن اندر خدایہ سی کُن رجوع کران۔ نعمتہ وقتہ شکر دپان۔ تکلیفہہ  
وقتہ صبر کران۔ تکلیف دُور گرہنہ خیطرہ تس کُن التجا کران۔ **قُلْ كُلُّ يَعْْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ** تہہ فرما یو کہ  
یا رسول اللہ کہ با ایمان تہ کافر نیک تہ بد پر تھہ اکھاہ چھو کوم کران پنہ پنہ طریقہ موجب تھہ تمسز



لِبَعْضِ ظَهْرٍ ۸۸) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
 كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْكُفُورًا ۸۹) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ  
 حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۹۰) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ  
 نَّجِيلٍ وَعَنْبٍ فَتَفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلْفَهَا تَفْجِيرًا ۹۱) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ  
 كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۹۲)  
 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ  
 لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ

ہرگز ممکن نہ پیش کرتے اے ساری اڈاؤں پر مددگار تہ بن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
 كُلِّ مَثَلٍ پڑپاٹ ہیہ کرہ اسہ ہتھ قرآن مجیدس اندر لوکن فخرہ تارنہ خیطرہ پر ہتھ قسمک عمدہ مضامین  
 مختلف طریقو بیان قَالِیْ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا الْکُفُوْرًا باوجود آل کورنہ اکثر لو کونینہہ تہ انکارہ وراى تہ ناشکری  
 وراى وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا ہیہ لگ تم لو کہ توبہ دہنہ آس گر ونہ پڑہ توبہ  
 توتان یوتان نہ تہہ سانہ خیطرہ ہتھ متہ معظمہ کس زمینس اندر چشمہ ناگہ راد جاری کمر و اوتکون لک  
 جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِیْلِیْ وَعَنْبٍ فَتَفْجِرَ الْاَنْهَارَ خِلْفَهَا تَفْجِیْرًا یایوتان نہ توبہ خاص خضر کلین تہ دھجہ کلین ہند  
 باغہ آسہ تہہ باغس منزکر و تہہ واریاہ کولہ جاری اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمَتْ عَلَیْنَا لِسْفًا یایوتان نہ تہہ  
 آسہ پڑہ آسان جھلہ جھلہ ترا ووسمیگ تہہ ونان آس اَوْ تَأْتِیْ بِاِلٍّ مِنَ الْمَلَائِکَةِ قَبِیْلِیْ یایوتان نہ تہہ  
 پانہ خدا ہیہ ملائیک اسہ بروٹھ کنہ و تھ ذنہ تھاویو کہ تھ اس وارہ کارہ تم وچھو کہ اَوْ یَكُوْنُ لَكَ بَیْتُ  
 مِّنْ زُخْرٍ یایوتان توبہ آس گراہ مکاناہ سونہ سُنْد اَوْ تَرْقِیْ فِی السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنْزَلَ  
 عَلَیْنَا کِتَابًا نَقْرُوْهُ یایوتان نہ تہہ کھسبو آسانس پیٹہ۔ اسہ ڈیشمان، اسہ بروٹھ کنہ توتہ کر ونہ آس پڑہ

كُنْتُ الْإِنشِرَازُ سُوْلًا ۱۶) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ  
 الْهُدَىٰ الْآلَانُ قَالَ الْوَأَبَعَثَ اللهُ بِشِرَازُ سُوْلًا ۱۷) قُلْ لَوْ كَانَ فِي  
 الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يُبَشِّرُونَ مُطْبِئِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ  
 مَلَكًا رَسُوْلًا ۱۸) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
 بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۹) وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ

تہندس آسمان کھس یوتان نہ تورہ والو سائہ خیطرہ اکھ کتابہ۔ تھہ منز تصدیق آسہ تہندس آسمانس پیٹھ  
 واتس۔ یوسہ کتاب آس تہ پتر تھہ ہیجو۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ الْإِنشِرَازُ سُوْلًا تھہ فرما یو کہ یارسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سارنی بیسودہ تھن ہند جواب کہ منزہ تہ پاک چھو میون پروردگار تھہ چیزس  
 اندر عاجز آسنہ نشہ۔ بوکیاہ زونوس توبہ بوچھوس نہ مگر بشر انسان پیغبر بس میں حقیقت چھہ ایشی۔ مہ  
 قدر آس تہ تہزہ فرمائشہ پور کرنس اندر کانہہ دخلاہ چھونہ۔ یہ سوزی چھو قدر تہ والس خدا بس آتھہ۔  
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ الْآلَانُ قَالَ الْوَأَبَعَثَ اللهُ بِشِرَازُ سُوْلًا سمہ وقتہ تمن لوکن نشہ  
 ہدایت یعنی رسالچہ صحیح دلیلہ واژہ مثلاً قرآن مجیدک بوڈ مجزہ ہتھ لازم اوس تمن ہند گوژہ فوراً  
 ایمان ان تہ پڑھ کرن مگر تمن سپندہ کانہہ چیز ایمان انہ نس مانع مگر تمن آہہ بوزنہ بشریتس تہ رسالتس  
 اندر فرق۔ دہنہ لگ کیاہ اللہ تعالیٰ ان سوزہ اکھ بشراہ پیغبر قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يُبَشِّرُونَ مُطْبِئِينَ  
 لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُوْلًا تھہ فرما یو کہ یارسول اللہ ہر گاہ آسمن زمینس پیٹھ ملائیکہ روزان  
 لسان بسان اورہ پور پھیران تل سوزہو آس تمن گن تہ آسماچہ طرفہ ملکھی پیغبر بناوت قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ  
 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تھہ فرما یو کہ بس چھومہ منز تہ توبہ منز گواہ اللہ تعالیٰ۔ سوی چھو بہتر زنان کہ  
 بوچھوس پیغبر تھند۔ اگر تھہ ماونہ میون پیغبر برحق آسن متہ مانجو۔ اکہ دوہہ اکہ تلو پانے تمیک پیچھ  
 نتیجہ ایتہ کہان بعبادہ خبیر البصیرا کیاہ اللہ تعالیٰ چھو پنہن بدن ہند ساری حالات پورہ زنان تہ  
 پورہ وچھان تہ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ توپتہ چھہ واقعی کتھاہ ای زہ لیس اللہ تھہ ہاؤہ سوی چھو سیزہ

يُضِلُّ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَا وُهِمَ جَهَنَّمُ كُلُّهَا خَبَتْ  
 زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿۹۵﴾ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا وَّقَالُوْا  
 اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُقَاتًا اِنَّا لَلْبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۹۶﴾  
 اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَّالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى  
 اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَّجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ

وَتَبِیْحِ یُوَانِ وَمَنْ یُضِلُّ فَلَئِنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ بِیۡهٍ یَمُنُّ سُوُوْتُهُ رَاوِرَهُ، گمراه کره، و تَبِیْحِ  
 ذٰلِکَ۔ پس لیون نہ تہہ تہند کانہ مدگار خدا پس وراى وَحْشُرْهُمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمِيًّا وَّبُكْمًا  
 وَّصُمًّا بیہ یکہ ناووکہ آس سم قیامتگ دوہ تہہ کھکھر آں۔ زرتہ کل مَا وُهِمَ جَهَنَّمُ كُلُّهَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ  
 سَعِيرًا تہنز جای چہہ نار جنم۔ یلہ یلہ سو نار سو تن آسہ ہیوان۔ آس آسون سو تیز کران ذٰلِكَ  
 جَزَاؤُهُمْ یوہے نار جنم آسہ تہند سزا بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا ای موکھ کہ تمو کیا کور انکار سائین آیاتن  
 وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُقَاتًا اِنَّا لَلْبَعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا بیہ آس تم دنان کہ یلہ اس مزوباتی  
 روزہ نہ کینہتہ دورر سمہ وَاذْجُوْرَاى۔ کیاہ آس اموہ تہہ حال بختہ اذ جن آسہ سور گو مت، بیہ دوبارہ پیدہ  
 کرنہ قبر و اندرہ کڈت ایپا آسہ روزنگی عطا کرنہ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَّالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى  
 اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ تخن لوکن چھنادرنیہ امت کہ بیشک اللہ تعالیٰ گو سوی پروردگار تم مخلوقا اندرہ  
 بڈزہ مخلوق آسمان نہ زمین پیدہ کرمت چہہ۔ سو چھو پور قدرتہ دول سمن، ہی لوکت مخلوق انسان پیدہ  
 کرنس بیٹہ و جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ مگر تم پروردگارن تہندہ دوبارہ پیدہ کرنہ خیرہ اکھ وقاہ مقرر  
 کرمت۔ سو وقت واتس بیٹہ دوبارہ پیدہ کرنس اندر چھونہ کانہ شکاہ فَاَبٰى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا بیہ بوزت  
 نہ مرنہ ظالم لو کونہتہ تہ انکارہ وراى قُلْ لَوِ اَنَّكُمْ تَهْلِكُوْنَ خَرَابًا رَحْمَةً رَبِّیْ اِذَا اَلَمْسْتُمْ خَشِيَةَ  
 الْاِنْفِاقِ فرما دیو کہ تہہ یار رسول اللہ ہر گاہ تہہ مالک نہبو۔ توہہ آتھہ آسن منیس پروردگارہ سندن



إِلَّا كُفُورًا ۙ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا  
لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۙ ۱۰۰  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ  
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۙ ۱۰۱ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا  
أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ أَرَابُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ عَرَاوِي لَأَظُنُّكَ  
يُفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ۙ ۱۰۲ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

رحمن ہند خزانہ۔ ٹہہ کمر ہو کہ تم خزانہ بند خراج کر نکلہ خوفہ وکان الانسان قتورا یہ انسان چھو  
اوسمت ہمیشہ دل تنگ تہ کجوس ولقد اتینا موسی تسع الایات بینت تھقین یہ کراسہ موسی علیہ السلاسل  
نو معجزہ تن تہ واضح عطا۔ سمن ہنز ذکر نومہ سپارہ اندر شینہ مس رکوعس اندر چھہ۔ فسئل بنی اسرائیل  
ٹہہ پر ژھتو از کہ وقتہ کین بنی اسرائیل تمن آیاتن متعلق۔ یعنی تھہ پاٹ توہ معجزات تہ دلیلہ عطا کرہ  
تھہ پاٹھ چھہ اسہ عطا کرہ مژہ موسی علیہ السلاسل تہ۔ ٹہہ پر ژھتو از کہ وقتہ کین عالم بنی اسرائیل  
چنانچہ اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يموسى مسحورا یلہ موسی کلیم اللہ بنی اسرائیل تبلیغ کرنہ آی  
فرعونس تہ مگر کہ دوبارہ بیہ تبلیغ۔ فرعون لوگ تمن دینہ ہنز پاٹ مہ چھو بوزنہ یوان توہہ پیٹھ چھو کمتان  
جود کورمت سیمہ سببہ ٹہہزہ عقلہ پیٹھ چھو اثر پیومت۔ سیمہ سببہ ٹہہ سیمہ قسچہ تھہ چھوہ کران۔ قال  
حضرت موسی ان فرعون ای فرعون لقد علمت ما انزل هؤلا الاراب السموات والارض بصافر تھقین ژہ  
چھلھہ ولہ کن زانان کہ سیم آیات چھنہ کانسہ ہدہ طرفہ مگر تیس پروردگارہ سدہ طرفہ بس آسمانن تہ  
زمینن ہند رب چھو۔ مگر زیوہ سیت چھو کنہ ظاہر کران وانی لاظنک یفرعون متبوراً بوہ چھست  
ژہ زانان ای فرعون عنقریب تہا تہ بر باد سپدہ ون۔ چانہ تہا تہ تہ گنگب دودہ چھہ واتمت۔ اوتان اوس  
موسی کلیم اللہ فرعونس فرماوان کہ بنی اسرائیل مگر کہ آزاد تم تراو کہ مہ سیت اس نیر و مصرہ اندرہ۔  
اس گروہ و ملک شامس کن۔ مگر سو اوس نہ مانان۔ وون ژا یہ تمس ٹھہ حضرت موسی ماکرہ بنی اسرائیل

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿۱۳﴾ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا  
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمْ لَقِيفًا ﴿۱۴﴾ وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ  
 وَيَا حَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۱۵﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ  
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ اٰمَنُوْا بِهِ اَوْ

اندر قوت و طاقت حاصل۔ اسمہ سیت کرن تم مقابلہ فاذا ان یستقر منہ من الارض تھ کن نظر کتر تھ  
 کور تم ارادہ تم بنی اسرائیل کڈکھ بوسمہ شہرہ اندرہ بودمہ نہ تمن تھ شہر س اندر روزہ نے قاتر قنہ و  
 من معہ جمیعاً مگر اسمہ برو تھ کہ سو کیاسپدہ ہاپنہ نس ارادس اندر کامیاب۔ اسمہ پھاٹو سو بحر قلمس  
 اندر۔ بیہ تم تھ سیت آس ساری اکہ وٹہ وقلنا من بعدہ لبني اسرائیل اسکنوا الارض بیہ  
 فر مواسمہ بنی اسرائیلن فرعونہ سندہ غرق سپد نہ پتہ۔ ای بنی اسرائیلو بسو تھتہ تھ ز مینس اندر سمہ منزہ  
 فرعون توبہ کڈن یژھان اوس تھند دشمن گول اسمہ۔ توبہ دیت اسمہ تہزہ غلامی نشہ نجات۔ تہہ چھوہ  
 وون سمہ زینک مالک۔ خوش کر وہ مصر س اندر روز تو یاشامس اندر۔ بیہ خوش کر وہ بیہ بستو۔ مگر بیہ  
 مالکیت چھہ توبہ دنیا چہ زندگی تانی فاذا جاء وعد الآخرة جننا بكم لقیفا تو پتہ یلہ آخر تک وعدہ ولتہ  
 یعنی قیامت برپا سپدہ۔ تہہ ساری کر وہ جمع اکہ وٹہ۔ دوست تہ دشمن تہ۔ سعید تہ شقی تہ۔ تو پتہ بوز ناوو  
 وہ آس تہہ ساری آخری فیصلہ نس دانیکی اسمہ۔ تھہ پاٹ اسمہ حضرت موسیٰ آس معجزہ عطا کتر تھہ پاٹھ  
 کتر اسمہ توبہ تہ معجزات عطا سمو معجز و اندرہ بوڈ معجزہ چھو قرآن مجید ویا الحق انزلناہ ویا الحق نزل بیہ  
 کور اسمہ بیہ قرآن مجید توبہ پیٹھ نازل پنز پاٹ۔ بیہ دوت تہ سو قرآن مجید توبہ نس پنز پاٹھ۔ منزہ  
 سپدس نہ کمنہ قسمہ کانسہ ہند تصرف نس تغیر و تبدیل کرہ ہس۔ سٹہ زیادتی یا کمی وراہی۔ گوڈہ پیٹھ اند تان  
 چھو سو قرآن مجید پوزوی پوز و ما ارسلناک الامبشرا و نذیرا بیہ تھہ پاٹھ اسمہ سوز موسیٰ علیہ السلام  
 لوکن کن۔ ہدایت اوس نہ تھندس اختیار س اندر۔ تھہ پاٹھ سوزوہ اسمہ تہہ تہ صرف لوکن ایمانس پیٹھ  
 ثوابچ بشارت تہ خوشخبری بوز ناو نہ خیطرہ۔ گھرس تہ نافرمانی پیٹھ عذابک بیم کرنہ خیطرہ۔ وون ہر گاہ  
 کانسہ شخصصاہ ایمان نہ نہ، پڑھ کرہ نہ متہ کتر تن تھند گھہنہ آزر دہ تہ غمکین سپدن وقرانا فرقناہ لتقرأہ

لَا تَوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ  
يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ  
وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ  
خُشُوعًا ۝ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

علی التائب علی منکث و تنزیلہ تنزیلاً بیہ ہجو قرآن مجید س اندر سو پوز آسکیو صفیو علاوہ اللہ تعالیٰ ان پندہ  
فضل و رحمتہ سیت تم صفت تھاومت سمو سیت تمحہ ذریعہ ہدایت بن زیادہ آسان سپدہ۔ سوگو۔ اسمہ  
کور یہ نازل امہ کین آیتن اندر تھا واسہ ژمین تہ فصل۔ ہجھ نہہ لوکن پیٹھ پر ان آسو وارہ وارہ۔ ہجھ تم  
وارہ بوزان آسن بیہ آسکھ فخرہ تران۔ کیا زہ مسلسل زیوٹھ تقریر ہجو بعضی ذہنو منزہ نیران۔  
سو یاد تھاون چھو مشکل گڑھان۔ بیہ کور اسمہ بیہ قرآن مجید نازل کم کم وارہ وارہ تر وہن (۲۳) ذرین  
اندر۔ یوہے کور اسمہ نازل واقعاتو موجب۔ ہجھ امہ کین معانین ہند وارہ انکشاف سپدہ۔ تم صفات  
آس منگان اتھ قرآن مجید گدھ لوکن ہنز پڑھ کرن تہ ایمان ائن۔ امہ موجب عمل کرن۔ ہر گاہ  
دوان باوجود آل تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ نہہ مہ حض سپدو آزرده تہ غمگین تمہ سیت قُلِ اسْئَلِیْہِ  
اَوْ لَا تَوْمِنُوْا نہہ فرما یو کہ صاف صاف نہہ ایمان آنتویا متہ آنتومہ ہجھو نہہ کانہہ پروا۔ توہہ لو کو ہر گاہ  
ایمان اونوہ نہ بدل لو کہ ان ایمان اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہِ چنانچہ یمن لوکن امہ قرآن مجید  
کہ نازل سپد نہ بروٹھ دینک علم عطا کرنہ آمت ہجو یعنی اہل کتابن ہند منصف علماء إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ  
يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ بیہ قرآن مجید تم بروٹھ پرنہ یوان ہجو تمہ ساتہ جھہ تم سیت متاثر  
سپدان تم جھہ نہہ کن دستھ پیٹھ سجدہ ودوان ہو ہجو کرن وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ۝ بیہ جھہ تم پر ان منزہ تہ  
پاک ہجو سون پروردگار وعدہ خلائی نشہ اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا ۝ بیشک ہجو سانس پروردگارہ ہند  
وعدہ ضرور پورہ آسان۔ ئس وعدہ تم کور مت اوس بروٹھن کتابن اندر کہ بوکرہ فلان کتاب فلان  
پیغمبرس پیٹھ نازل۔ سو وعدہ کور تم پورہ۔ قرآن مجید کرن نازل حضرت محمد عربیس پیٹھ۔ وَيَخْرُونَ  
لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ ہو گینو کن جھہ سجدس منز پیٹھ ودوان۔ بیہ چھو تم قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَكَبِيرَةٌ كَبِيرًا ۝

بوزنہ سبت زیادہ عاجزی سے خشوع پیدہ سپدان۔ اللہ تعالیٰ سند یونام پا کو آندرہ اوس اللہ زیادہ معروف و مشہور۔ لفظ رحمان سبت آس کھر کہ کھیوان سے ڈالان۔ چنانچہ یلہ تم بنی کریمہ سندرہ زبان مبارکہ بوزان آس لفظ رحمان تم آس دپان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا زہ چھو آسہ خدا جس و رای بین منگس منع کران۔ پانہ کیا زہ چھہ خدا جس و رای منگان اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل **قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمٰنِ اَيُّهَا مَن دَعَاؤُكَ الْاِحْسٰنُ** نہہ فرماؤ کہ یا رسول اللہ ای لو کو تہہ مگو اللہ تعالیٰ آس یا اللہ کھر تھہ سے یار من کھر تھہ تمسند نام پاک ہتھہ سمہ نام پاکہ سبت تس مگو سو گو تس منگن۔ کیا زہ تس چھہ رت رت نام پاک۔ سم دوشوے نام پاک چھہ اللہ سے رحمان سے تموی ریتو نام پاکو آندرہ۔ اتھ منز چھو نہ شرنک کانہہ تعلق۔ ناہ وول کوی۔ ناو چھس واریاہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ اندر بڑہ بڑہ قرآن آس پران۔ مٹرک آس قرآن مجیدس جبریل امینس بیہ خدایہ سندس سے سانس نسبت گستاخی کران بیہ چھہ لفظ استعمال کران۔ اللہ تعالیٰ ان فرموؤ **وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** بیہ حض آسویا رسول اللہ نمازہ منز بڑہ بڑہ قرآن مجیدس پران۔ بس بوزنہ سبت مٹر کن بیہ چھہ تھہ دور نگ موقعہ آسہ یوان۔ سمہ سبت نماز گزارن دل مشوش سے یشان آسہ سپدان۔ نہ مہ آسہ بالکل لوت لوت پران بس نہ نماز گزارن سے بوزن نگان آسہ۔ اختیار آسہ کران یمن دون حالتن منز در میانی صورت۔ یعنی نہ زیادہ بڑہ نہ زیادہ لوتہ۔ سمہ سبت فائدہ سے آسہ واتان۔ مضرت سے نشہ سے آسہ بجان **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَكَبِيرَةٌ كَبِيرًا** بیہ آسہ علی الاعلان بیان کران کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ معبود برحقس یس نہ اولاد چھہ نہ چو سے نہ کو رہ۔ نہ چھو تس ملکس سے سلطنتس اندر کانہہ سے اکھاہ شریک سے نہ چھہ تس کمزوری سببہ کانہہ مددگارہ سنز ضرورت۔ بیہ کمر و ہز بیان تسد تھرتہ بجر۔ بوڈ زانیون سوی یوت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ یلہ جہدس خاندانس یعنی بنی عبدالمطلبس اندر کانہہ لو کٹس زیویوان آس ہتھہ اوس ہیوان کرنہ تس آس چھہ ناوان یوہے آسہ کریمہ **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا** رواہ ابن السنی فی عمل الیوم واللیلہ۔

## سُورَةُ الْكَافُرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ  
 لَهُ عِوَجًا ۱ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُنذِرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۲  
 مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا ۳ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ساری حمدتہ تعریف چھہ ثابتتہ سزاوارتس معبود برحقس یم نازل کورپنہ نس خاص بندس حضرت محمدس پیٹھہ یہ کتاب یعنی اعلیٰ تہ اجمل قرآن مجید۔ یہ تھوون نہ اتھ کتابہ اندر کھنہ قسمہ جہراہ۔ حج کتھاہ اتھ منز چھنہ۔ عبارت نہایت فصیح وبلغ طرز بیان نہایت مؤثر۔ تعلیم نہایت اعلیٰ متوسطتہ معتدل۔ یوسہ پریتھہ زمانس اندر پریتھہ کانسہ ہندس طبعیتس موافق و مطابق چھہ۔ افراط و تفریط نشہ پاک و صاف قِیمًا یوسہ کتاب بالکل سببہ تہ مکمل چھہ۔ یتھ منز ہندان ہنزہ سارے مصلوہ بیان کرنہ آمرہ چھہ۔ گمہ گمہ چیزہ سبت سپدہ ٹھنڈ معاش و معاد دُرس تہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ یتھ سبوتاب عموما کافرن کھوڑہ ناوہ تمہ سخت عذابہ نشہ یوسہ اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ آخرتس منز کافرن واتوون چھو و يُنذِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا \* مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا یہ یتھ یہ قرآن مجید خوشخبری تہ بشارت دیہ تمن باایمان تم رتھہ عملہ آس کران۔ یتھ خوشخبری کہ تہنہہ خیطرہ چھہ رتھمزور یعنی جنت تہ جنتیہ شعمو۔ تمنی جنتن اندر چھوروزن تمن ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یہ کرہ یہ قرآن مجید یم تہ کھوڑہ ناوہ تمن لوکن تم ونان چھہ تہ تم لاگان چھہ اللہ تعالیٰ آس اولاد۔ یہ مضمون اولگ وننہ بیہ امی موکھ۔ عربس اندر آس ساری مشرک تہ یہود تہ نصاریٰ تہ اتھ بلا یہ منز بتلا۔ مشرک آس ملاکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ یہود آس ونان حضرت عزیر چھو خدایہ سُنچو۔ نصاریٰ

وَلَدَّا قَوْلًا مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً  
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ  
بِآخِرِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ  
إِسْفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝ ۸

آس و نان حضرت عیسیٰ وھو خدایہ سند پتو۔ مآلھم بہ من علمہ و لا لآبآئھم اتھ پیٹھ آس نہ تمین نش کانہہ دلیلانہ تھندین مالین بڈمین لغہ کبڑت کلمہ تخرؤج من أفواھہم سینھا بڈکتھاہ ہتھہ یہ یوسہ نیران آس تھندیو چانیو منزہ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا تم لوک ہتھہ ونان یہ کتھہ مگر بالکل اپڑتہ بہتان۔ فَلَعَلَّكَ بِآخِرِ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفًا تہہ چھوہ تھندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ یوت غم کیوان۔ شاید تہہ ماواتہ تاو پیہ نس ذات مبارکس تکلیف تمین پتھ۔ تم کونہ چھہ پتھہ کلام یا کس قرآن مجیدس پڑھ کران۔ پیہ چھوہ تہہ تھندس کفرس پیٹھ اصرار کرنہ کہ سببہ یوت غمگیلین کہ معلوم چھو سہان تہہ ماکر و مارہ بن ذات مبارک تھی پتھہ افسوسہ کن۔ ہر گاہے تم قرآن مجیدس پڑھ گزن متہ کرسن۔ تہہ مہ حض کھیو یوت غم تھند۔ یہ دنیا چھو عالم ابتلاء و آزمائش۔ پتھہ منز چھہ اولوک کافر اؤ مسلمان إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بیشک آسہ کورتہ سوروی یہ پتھہ زمینس پیٹھہ چھو امہ زینت زینت تہ رونق۔ پتھہ آس لوکن آزمائش گرو کہ تہہ اکھاہ چھو تمو منزہ رش عمل کرہ ون۔ تہہ اکھاہ چھو امہ زمینہ کس رونق و زینتس گن مائل سپد ت عملہ نشہ غافل سپدہ ون۔ آخرت مشراوہ ون۔ اتھہ دنیا س پانداریاہ کینہہ ہتھہ۔ یہ چھو فانی سپدہ ون غرض یہ چھو عالم ابتلاء پتھہ منز چھو کانہہ کافر کانہہ با ایمان۔ اتھہ پیٹھہ غم کیوان چھو بے کار۔ تہہ کمر و ہن کوم۔ تہہ مہ سینو اتھہ کتھہ کہ کافر ن کیاہ بنہ۔ سو چھہ سان کام۔ چنانچہ اکھ دو ہانہہ وَإِنَّا لَجَعَلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اس چھہ تمین سارنی چیزن تم اتھہ زمینس پیٹھہ چھہ

## أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيقِ كَانُوا مِنْ الْأَشْيَاءِ عَجَبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

فناکرہوں۔ اٹھ ساری زمیںس کئی صاف میدان بناوہوں۔ سمہ دوہہ ساری فناسپدت دوبارہ ہیہ زندہ کرنہ یں۔ تو پتہ ایہ پریتھ اگس جزاوسزاوہ۔ یتیم یتھ دووٹت آسہ سہو یتھ لونہ۔ قریشو آندرہ کثیرہ وکافر و پڑتھ یوون ہندہ پتھ ناوہ سیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہفن ہند قصہ۔ یتھ متعلق چھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ فرماوان **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيقِ كَانُوا مِنْ الْأَشْيَاءِ عَجَبًا** کیاہ توہہ چھو خیال کہہ گوچھ وال یکن ہنداو آسہ ترامہ پٹس پیٹھ لیکنہ آمت (کئی کن آس تمی ونان اصحاب رقیم تہ۔ رقیم بمعنا مرقوم) تھند قصہ کیاہ چھو سانیو قدرہ کیو نشاؤ آندرہ زیادہ عجایب۔ پتھ پاٹھ یوونان چھہ۔ حالانکہ سانہ قدر تک باقی نشانہ تم چھاکینہہ کم تہ معمولی۔ تااینکہ یتھ معمولی قص متعلق چھہ تم دریافت کران۔ آسمان وزمین۔ آفتاب تہ زون۔ دُہک تہ رائگ یکن تہ گدھن۔ سمونشاو سیت گدھہ تہنر۔ عبرت رلن۔ حضرت رب العالمین خالق موجوداتہ سند حقوق یعنی توحید و طاعت گدھہ بجائان۔ تسدین پیغمبرن گدھہ پڑھ کرن۔ خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھن گدھہ پڑھ کترن۔ بہر حال بوزواصحاب کہفن ہند قصہ۔ شہر رومس اندراوس اکھ بادشاہت پرست۔ سواوس زورہ زبردستی لوکن بت پرست بناوان۔ امس پادشہس اوس ناودقیانوس۔ یتھ پاٹھ بعضی لوکھ ونان چھہ۔ اچھ و قس اندر پوکینون نوجوانن ہندین دلن اندر تم حکومتہ کیکن لوکن سیت تعلق تھاوان آس یہ خیال پیدا کہہ آس کیاہہ کرون اگس مخلوقہ سندہ خیطرہ خالق کائنات ناراض۔ تھند دل اوس خدایہ سندہ خوف و خشیتہ سیت، تقواے یقینہ سیت پڑ۔ بیہ اوس دُسمت اللہ تعالیٰ ان تھن صبر واستقلالگ توکل۔ تبتلک توفیق۔ بیہ کتر اللہ تعالیٰ ان تھند دل مضبوط۔ تمو دوپ علی الاعلان سون رُب چھو آسمانن زمینن ہند پروردگار۔ کس وراى انونہ آس ایمان بیہ کانہہ معبودس۔ پادشہس آو تہنرہ نوجوانی پیٹھ رحم۔ یاسپد تس ہن کینہہ مشاغل یا مصطحرمانع تم کترن نہ شہید۔ تھن دژن غور کرنہ خیطرہ مہلت۔ تمو کورپانہ وان مشورہ۔ نوپتہ سپد متفق امہ شہرہ آندرہ نیرنس پیٹھ۔ کتہ محفوظ جلیہ منز کھیت روزنس پیٹھ۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ** سووقت تہ چھو قابل ذکریلہ نوجوانن ہنز جماعت آہ۔ اگس بیدین ظالم پادشہس لشہر ثرت اگس گوچھ گن پناہنہ خیطرہ۔ اللہ

اِتْمَانٍ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۱۰  
 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۱۱  
 ثُمَّ بَعَثْنَا فِيهِمُ الرَّحْمَانِ اٰیَ الْحُزْبِیْنَ اِحْصٰی لِمَآلَبَتُوْا اَمَدًا ۱۲  
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ  
 وَرِزْدْنَاهُمْ هُدًى ۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا  
 رَبَّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نُّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا اَلٰهًا قَدُّ

تعالیٰ اس موعظہ دعا فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة ای سامنے پروردگارہ اسے کہ عطا پندہ  
 طرفہ رحمتک سامان وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا بیہ کرسانہ خیطرہ تیارسمہ سیت آس ہتھ کامہ  
 اندرروزو کامیاب۔ یعنی آس گڑھونہ مٹر کن تہ بے دین ہندس زالس اندر پھس۔ اس گڑھو تہندہ شرہ  
 نغمہ محفوظ وزن فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کس ژبجہ کن ژبجہ کن وژ اسہ  
 تہندین کن پیٹھ نندر پاونہ خیطرہ یعنی نندر پاوکہ اتھ گو پھہ اندر وارہین ورسن۔ ثُمَّ بَعَثْنَا فِيهِمُ الرَّحْمٰنِ اٰیَ الْحُزْبِیْنَ اِحْصٰی لِمَآلَبَتُوْا اَمَدًا  
 تو پتہ واریاہ کال گڑھت کل اسہ تم۔ نندرہ نغمہ کمر بیدار۔ ہتھ  
 ظاہرہ پاٹ معلوم کمر وکہ تموز منزہ کوسہ جماعت چھ تہندس گو پھہ منز روز کس مدتس زیادہ یاد تھاوہ  
 ون۔ کیا زہ تموز آندرہ آس اکہ جماعت دپان آس زود ہتھ گو پھہ منز اکہ یا اودودہ۔ بیاکھ جماعت آس  
 دپان تہندس خدایسی چھو معلوم تو بہ کوتاہ کال گووہ ہتھ گو پھہ منز روزان نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ  
 نَبَأَهُم بِالْحَقِّ آس کروہ بیان تو بہ تہند قصہ ہنز پاہہ اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَرِزْدْنَاهُمْ هُدًى تم  
 آس نوجوان ہنز اکہ جماعتھا۔ سمو ایمان اوس اومت پڑھ آسکھ کمر مشنہ نس پروردگار س۔ بیہ آس  
 اسہ تہن ہدایتس منز زیادتی کمر مژ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ بیہ آس اسہ تہند دل صبرہ سیت ثابت  
 قدی سیت مضبوط کمر مت اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبَّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یلہ تم دوتھ۔ تو پتہ  
 دو پھہ علی الاعلان رب سون چھو سوی کس آسمان تہ زمین ہند رب چھو لَنْ نُّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا اَلٰهًا



فَلَمَّا إِذَا اشْطَبَا ﴿۱۳﴾ هَوْلًا قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْ  
لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱۴﴾ وَإِذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
فَأَوَّالِيَ الْكَهْفِ يُنْشِرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ  
مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿۱۵﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِعًا

فَلَمَّا إِذَا اشْطَبَا یہ بھرنہ ہر گز آس کیا کروئیں اور ای بیہ کانسہ معبودہ سز پرستش سے عبادت۔  
اگر آس تھوہ ہش کوم گروتھ صورتیں منزگرو آس سہو حرکتھاہ یوسہ پزہ ہش دور چھ ہَوْلًا قَوْمَنَا  
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا یہ یس سون قوم چھو تمو چھہ معبود برحق تراوتھ بدل معبود مقرر  
کرمت۔ یہ قوم نے تھمد پادشاہ آس بت پرست لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ہم کونہ چھہ اتھ  
بت پرستی پیٹھ پیش کران کانہہ دلیلہ۔ تھہ پاٹھ موحدہ تھہ خدایہ سندس وحدانتیس سے لاشریک آسٹس  
پیٹھ دلیل پیش کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَاذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ توحید ثابت روشن دیلو  
سیت چھو پس تھہ اکھاہ چھو یزو ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ یس اپز نور اوہ کٹس خدایس پیٹھ شریک  
تھمر اونہ سیت۔ توپتہ لگ پانہ وان ونہہ وَإِذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یلہ تھہ تمن کوکن  
نہہ الگ چھوہ اعتقادہ کن۔ بیہ چھوہ تھمدین معبودان باطلن نہہ سے الگ یس پزہ آسہ روزن جایہ اندر سے  
تمن نہہ الگ سے دور بیہ تھمدین معبودان باطلن نہہ فَأَوَّالِيَ الْكَهْفِ پس ایو فلان گو چھہ منز  
روزو کٹھت لَوکن نہہ۔ محفوظ روزت گرو فراغتہ سان معبود برحقہ سز عبادت يُنْشِرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا سو پروردگار کرہ نازل توہہ پیٹھ تمن ہڈر حمت۔ بیہ کرہ تیار  
تھمدہ خیطرہ ہمزہ کامہ ہمزہ کامیالی خیطرہ ہوڈ سامان۔ سمہ خیطرہ سمو دعا کورمت اوس۔ امہ پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ فرماوان تمہہ گو چھہ ہمزہ جایہ متعلق سہو گو چھہ تھہ موقس پیٹھ چھہ محفوظ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا  
طَلَعَتْ تَوَارِعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ بیہ وچھہ تھہ ڈہ ای مخاطب آفتاب یلہ کھسان چھو تا چھہ

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذْ غَرَبَتِ تَفْرُغُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  
 وَهُمْ فِي فُجُوعٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ  
 الْبُهْتِدَىٰ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا ۝۱۷  
 تَحْسِبُهُمْ آيِقَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ  
 ذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ  
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِّنْهُمْ رُعْبًا ۝۱۸

چھو بیوان تہنزہ گو پھر نعرہ ڈلھد دھجھہ طرفہ وَاذْ غَرَبَتِ تَفْرُغُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ بیہ یلہ آفتاب لو  
 سان چھو تمہہ ساتہ تہ چھو تراوان تمن کھو فرس طرفس کن تمہہ ساتہ تہ چھو نہ گو پھر ہندس گلش پیٹھ  
 تا پھر بیوان تہنہ تمن تا پگ تکلیف واتہ وَهُمْ فِي فُجُوعٍ مِّنْهُ تم اصحاب کھف چھہ گو پھر ہنزہ  
 اکس کشادہ جاپہ اندر۔ تیس تمن پورا چھو واتان ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ بیہ چھو خدایہ سند پو قدرتہ  
 کیونشا او اندرہ بو ڈر شانہ کہ بین اصحاب کہن ہندہ تعدادہ کن کم آسجہ تہ مخالفن ہندہ زیادہ آسجہ باوجود  
 لوب تمو ہدایت راہ راستس کن۔ اللہ تعالیٰ تہہ پاٹھ چھو پنہ نین برگزیدہ بندن ظاہری اسبابن خلاف  
 ہمت واستقلال عطا کران۔ بس معلوم چھویہ مِّنْ يَّهْدِي اللَّهُ فُجُوعًا الْبُهْتِدَىٰ بس سو و تھ ہا وہ سو چھو لبان  
 و تھ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا بیہ بس سو گمراہ کرہ و تھ راورہ تسندہ خیلرہ بلہ  
 ہن نہ ژہ کانہ مدد گراہ بس تس و تھ ہا وہ ہا وَتَحْسِبُهُمْ آيِقَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ای مخاطب ہر گاہ تمن پیٹھ  
 نظر بیٹی ژہ کر کہ خیال کہ تم چھہ ہشیار۔ کیا ژہ تہنزہ اچھہ چھہ مزار او تھ در حالتیکہ تم چھہ شو چھہ۔  
 وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ بیہ چھہ اس تمن کرہ پھرن دوان دھجھہ طرفہ بیہ کھو  
 فرہ طرفہ۔ تہنہ تمن بدس پیٹھ زینگ اثر سپدہ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ بیہ چھو تہند  
 ہون بس تمن پتہ پتہ تمن سبت در امت اوس بڑھہ زہ پنہ مزار او تھ گو پھر ہندس گلش پیٹھ۔ پتہ کور  
 اللہ تعالیٰ ان تہندہ حفاظتک اکہ سبب۔ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِّنْهُمْ رُعْبًا

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ  
 كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوا رَبُّكُمْ  
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ  
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ  
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۱۹  
 إِنَّهُمْ إِنْ يَبْظَهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

ای مخاطب ہر گاہ وہ نظر دیکھ تمہیں کُن پوت پھیرک ژہ واپس ژلان ژلان۔ بیہ کیہ چون دل بر نہ تم  
 و جہت خوفہ سیت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ یتھ پاٹھ اسہ تمہن ندر پاو، زیتھ ندر۔  
 پنہ قدرتہ سیت یتھ پاٹھ کمر اسہ تم بیدار۔ وزہ ناواسہ تم زیتھ ندرہ نشہ یتھ تم پانہ وان اکھ اکس  
 ہر ژھن گوپھ منز کتیس کاس رُوو تم قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ چنانچہ تموا ندرہ اک شخصن وون  
 باقین کہ اسہ کوت کال گویتھ گوپھ اندر روزان۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تمودوپ اکس  
 دوہس یا ڈس دوہس آسورودمت۔ توپتہ یتھ نظر پنہ نین نمہن نزالن کُن تم وہتھ سیتھاہ زیتھمت۔  
 حیران گئے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ دینہ لگ تہندس خدا کیسی جتھ معلوم صحیح تھہ کتیس کاس  
 جتھہ یتھ گوپھ منز رودمت۔ یہ اختلاف تراو۔ وون کمر وکھینہ چیک کانہہ انتظام فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا نہس سوزیون اکھ شخصہ یتھ شرس  
 کُن یہ روپے یتھ۔ سو جتھن کس شخصن نشہ اسہ پاک وپاکیزہ رت حلال غذا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ  
 لْيَتَلَطَّفْ سُو شخصن اتن شہرہ منزہ کینہہ کھینہ چیزاہ یہ ساری کوم کمرن سورتہ تدیرہ سان وَلَا  
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا بیہ یتھنہ سُو شخصن کانہہ اکس تہند نیب دیہ إِنَّهُمْ إِنْ يَبْظَهَرُوا عَلَيْكُمْ  
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْئِمْكُمْ وَلَنْ نُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا بیشک سمہ شہرک لوکھ تم جتھہ  
 ہر گاہ تمہن یتھ لہجہ تم مارن توہہ کتھو سیت۔ نہتھ پھرہ نوہ توہہ جبر اپنہ نس دیکس کُن۔ تھہ صور تہس

فِي مَلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذْ أَبَدًا ۝۱۸ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا  
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا  
رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

منزیمہ کیونکہ تمہارے زانہ کا میاں سپہ تھہ وکذالک اعترنا علیہم یعنی پانچ کمر اسمہ پندرہ قدرت و حکمت  
سیت مطلع تہندس حاسل پیٹھ تمہہ زمانیک لوکھ۔ کیا زہ تمونزہ یلہ سواکھ شخص اسمہ شہرہ کس بازرس  
منزروت کھینہ چیز منول پندرہ خیطرہ۔ وانہ والس دکاندارس دیت تم طعامک قیمت۔ سو اس دقیاوسی  
روپے۔ دقیاوس پادشہہ سندرہ وقتہ پیٹھ لوس واریاہ کال گوتم۔ واریاہ پادشاہ اس اتھہ وقس تان  
بدلیمت۔ سو دکاندرا گو حیران پر لہہ وقی روپے وچھت۔ تم ہڈ ڈھس ڈیہ کتہ پٹھ انموہیہ روپے۔ ڈیہ  
آسی گھرس منز خزانہ درامت۔ سو گو حیران یہ کیاہ چھومہ ونان۔ تم دوہس مہ چھہ اوترہ مال سندرہ گرہ  
پانس سیت خرچہ خیطرہ نموہ۔ یہ روپے۔ ڈیہ کیاہ چھومہ ونان۔ یہند یہ گنگلو یوز یولو کو۔ یکدم کنیہ  
ساری بازرس اچ خبر۔ واتان واتان واثریہ خبر پولیس تھاس تان۔ تمو کوریہ شخص گرفتار۔ ہڈ ڈھہ  
ہس مالس کیاہ چھوی ناو۔ تمس زانمانہ اسمہ وقتہ کیو لو کو اندرہ کانہ تہ۔ تو پتہ یلہ تمو سو سخت تک کور۔  
تم دوہچھ مہ نیو دقیاوس پادشہس نشہ تمس چھہ میانہ حاج خبر۔ تمس اس تقریباتہ ہتھ وری گامت  
موقس۔ لو کو ہس ٹھٹھ کرن۔ واتان واتان ووت یہ قصہ اسمہ وقتہ کس پادشہس نشہ۔ تس نشہ تہ وون ام  
شخصن یوہے قصہ۔ پادشہن کمر جمع پن ساری اہل کار تہ تمہہ شہر ک رئیس لوکھ تم ساری ہتھہ آوسو اتھہ  
گو پھر نشہ۔ یتہ اسمد باقی رفیق اس۔ پادشہن کڈہ ناوسو ترامہ پٹ شاہی خزانہ منز ہتھہ پیٹھ تم سارنی  
ہند ناو اس مع ولدیت کھنہ آمت۔ سو ترامہ پٹ ان پانس سیت لیلعلمو ان وعد اللہ حق ہتھہ  
لوکھ زان کہ ہنز پات خدلیہ سند وعدہ چھو حق تہ پوز۔ بس تم مرنہ پتہ ہیہ زندہ سپد اس متعلق کورمت  
چھو وان الساعۃ لا ریب فیہا ہیہ ہتھہ لوکھ زان کہ قیامتہ کس ہس منز چھونہ کانہ شہکا اڈ  
یتننازعون بینہم امرہم یہ تھہ تہ چھہ قابل ذکر یلہ تمہہ وٹک لوکھ تہندس معالس منز اس پانہ  
وان قضیہ تہ تنازعہ کران۔ بعضی اس ونان اسمہ گو پھہ ہند گول گرو ہند ہتھہ بدن تمن اصحاب کہفن ہند  
مخفوظ روزن۔ تہندس یادگار س منز ہناو اتھہ گو پھہ سیت اکھ مسجد ہتھہ منز لوکھ خدلیہ سنز عبادت

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا  
 عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۚ سَيَقُولُونَ  
 ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  
 رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ  
 رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

کران آن۔ یہ گوتی وقت ہی وقتے لوک آس مر نہ پتہ بیہ زندہ سپہ نہ کس مسئل منزا اختلاف کران۔  
 اللہ تعالیٰ ان کو راصحاب کہن ہند واقعہ سیت اتھ مسئل منزا فیصلہ۔ چنانچہ اکثر لوک کو اون قیاس ایمان  
 مر نہ پتہ بیہ۔ زندہ سپہ نس کمر کہ پڑھ فقوالوا بنوا علیہم بنیاناً نس دوپ لو کو کہ کھا رو تم ن پیٹھ  
 اکھ عمارتھاہ ربہم اعلوہم بہم نہند پروردگاری اوس زانان تہند حالات قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا  
 عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا بِالْآخِرِ تم لو کہ پنہ نس خیال س پیٹھ غلبہ لبان آس تم گئے اہل  
 حکومت۔ تم آس امہ وقتہ دین حق س پیٹھ۔ تمو کو ارادہ اُس بناو اتھ گو پھ متصل اکھ مسجد اہو سہ  
 مسجد۔ روزہ علامت سمہ کتھ ہند کہ تم لو کہ یعنی اصحاب کفہ جہہ آسمت خلدیہ سد بندہ خاص خدایس  
 عبادت کر ہون۔ تا ایکنہ نم بنوہ نہ کانہ معبود س یقولون ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ  
 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ سمہ وقتہ اصحاب کہن ہند قصہ اُس بیان کر و تمہ وقتہ ون لو کہ تہند س  
 تعداد س متعلق مختلف تھ بعضی دین تم اصحاب کفہ آس ترہ نفر ژور تم اوسکھ ہون بیہ ون بعضی  
 تم آس پانژھ نفر شم اوسکھ ہون۔ مگر یمن دو شون جماعتن ہند ون جھو بے دلیل تہ بے تحقیق۔ یہ  
 گو نشانہ و چنے، اہجہ و تھ کنہ لائےہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ بعضی جہہ ونان تم آس تھ نفر  
 او ٹھیم اوسکھ ہون قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ تہہ فرماو کہ یارسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم میون پروردگاری جھو زیادہ زانان تہند س شمار س تعداد س۔ لو کو منزہ زان نہ تہند صحیح تعداد  
 مگر کمی کینہہ اشخاص۔ حضرت عبد اللہ بن عباس آس فرماوان بو تہ چھٹس تموا اشخاصو اندرہ اکھ شخص۔

الْأَمْرَاءَ ظَاهِرًا وَلَا سَتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۲۱﴾  
 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿۲۲﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
 اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي  
 رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ﴿۲۳﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ  
 ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿۲۴﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مہ چھو معلوم تم کتھ نفر آس۔ تم آس ستھ نفر۔ او ٹھم او سٹھ ہون کیا زہ اتھ قولس فر مووندہ اللہ تعالیٰ ان رجما بالغیب فلا تمار فیہم الامراء ظاہرا پس مہ ہز کمر و بحث سمن اصحاب کہن متعلق مگر سر سری پاٹھ۔ زیادہ مہ سبتو اتھ اندر وَلَا سَتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ مہ حض پر ژھو یمن اصحاب کہن ہند کانہہ اگس لو کو آندرہ۔ بہندہ تعدادک تحقیق کرنس اندر تہ چھونہ کانہہ فاسیدہ۔ نہ کانہہ اہم مطلباہ۔ ایڑہن اتھ متعلق خداین بیان فر مووتیہ ہن چھہ کافی۔ مٹر کو ہڈ ژھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوڈن ہندہ تحریرہ سبت اصحاب کہن ہند قصہ۔ تمو فر مووہ بچھہ پگاہ و نووہ امیک جواب انشاء اللہ فر موو کہ نہ اتھ سبت کینہہ تہ۔ خیال کو رکھ کہ جبریل امین ایہ تس پر ژھو تمہ پتہ و تو یمن لو کن جواب جبریل امین اوس نہ یوان پانے پندہ خواہہ۔ سو اوس یوان خدایہ سندھی کھمہ۔ امہ پتہ آونہ جبریل امین پند ہن دو ہن تان کینہہ۔ نبی کریم سپد سیٹھہ نمگین تہ پریشان۔ پندہہ ڈہہہ آو جبریل امین یہ آئیہ کریمہ ہتھ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ مہ حض آسوئہ چیزہ خیطرہ دنان بہ گرہ یہ کوم پگاہ۔ مگر آسو تھ سبت و نان انشاء اللہ۔ یو ژھ خدانن وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ بیہ یلہ توہہ اتفاقا انشاء اللہ ہرن مشرت آسہ گڑھان تو پتہ آسہ کئہ ساتہ ژہہ یاد یوان کمی ساتہ گڑھہ تہند انشاء اللہ ہرن وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا بیہ ونو کہ مہ چھہ امید کہہ میون پروردگار باوہ مہ و تھ اصحاب کہن ہندہ قصہ خونہ کئہ نزدیک امرس کن کئس نوح و لیل بدنہ خیطرہ زیادہ مفید آسہ وین اوس بیا کہ مسئلہ کہہ تم اصحاب کہف کئس کائس روواتھ

لَيْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَيْهِ وَأَسْمِعْ مَا  
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَرَائِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۳۶﴾  
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لِأُمِّدَّ لِكَلِمَتِهِ

غارس اندر۔ تہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَيْتُوا فِي كَمَفِيهِمْ تَلْكَ مِائَةِ سِنِينَ وَإِذَا دُوِئِئَا  
بِئِ تَه پانچ اصحاب کہن ہندس تعدادس بیٹھ لوکن اختلاف اوس بیٹھ پانچ اوس لوکن اختلاف تہزہ  
گوچہ اندر نندرہ ہندس مدتس اندر آس چہہ بیان کران امر واقعی سو گوی کہ رُود اصحاب کف اتہ  
گوچہ اندر شو بخت ترین دُر بن۔ بیہ ہرہ راو ہس نووری سو گوترن ورہن نہ نون وِر مَن قُلِ اللّٰهُ  
أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا تہہ فرماویو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ی چہہ زیادہ اچ خبر اللہ تعالیٰ  
اس گوہنا پور خبر آسن لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیازہ تمس چھو آسمان وزمین ہندین سارنی  
پوشیدہ حالاتن ہند علم أَبْصِرَيْهِ وَأَسْمِعْ کوتاہ زیادہ وچہہ ون چھو سو۔ کوتاہ زیادہ بوزہ ون چھو سو۔  
سُحان اللہ۔ کانہہ کتھاہ چھاتس نِشہ کھشت نہ پوشیدہ۔ ہر گاہہ کانہہ شخصاہ تسدس علم محیطس سیت معارضہ  
گرہ سو چھو مستحق سزاو عذاب۔ سزاونکہ وقتہ ہیچہ نہ کانہہ اکھاہ تمن کنہہ قسمہ مدد کتر تہہ مَا لَهُمْ مِنْ  
دُونِهِ مِنْ قَدِيرٍ کانہہ اکھاہ چھونہ تمولو کو منزہ آسمان وزمینہ کیو مخلو قومنزہ تس اکنس معبود برحقس  
ورای اختیارہ وول نہ کانہہ مالک۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا بیہ چھونہ سو معبود برحق سیت رٹان،  
شریک تھوان کانہہ آس نہ عالم علویو مخلو تو آندرہ نہ عالم سفلی کیو مخلو تو آندرہ۔ یعنی نہ کانہہ ملک  
مُقر بس۔ نہ کانہہ نبی مُرسلس پنہ نس حکمس اندر شریک رٹان۔ لہذا تھس جلیل القدر عالیشان  
پادشہس گوٹھہ سخت کھوژن۔ تہمہہ مخالفتہ نہ تا فرمائی نِشہ گوٹھہ سیٹھاہ پتہ روزن وَاتْلُ مَا أُوحِيَ  
إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ تہزہ کوم چہہ صرف پیچہ کہ تہہ پتر پونہ نس پروردگارہ سز سو کتاب  
یوسہ نازل آہہ کرنہ توبہ کن بطریق وحی۔ فکرمہ آسو کران بڈین بڈین لوکن ہندس مخالفت کرنس  
کن۔ تہزہ مخالفتہ سیت ماسپدہ دینچہ ترقی کرنس اندر کانہہ رُکاوٹ۔ دینچہ ترقی ہند چھو آسہ توبہ سیت  
وعدہ کورمت۔ لہذا رُوژوتہہ مُظنن لِأُمِّدَّ لِكَلِمَتِهِ کانہہ اکھاہ چھونہ اولہ بدل کرہ ون تہم دین حکمن  
وعدن۔ وولن ہر گاہہ تہہ کافر ن ہنز دل جوئی کتر وسمہ سیت احکام الہی متروک سپدنگ امکان سپدہ تلہ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿۶۷﴾ وَأَصِدْرُ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿۶۸﴾ وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ

جھو تہمدہ خیرہ معاملہ سیٹھاہ مشکل۔ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تھہ صورتس اندر لبونہ تہہ  
کا نہہ چھین جایاہ پناج جایاہ تس وراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کافرنا ہنز دلجوئی احکام الہین  
مقابلہ کرن جھو شرعی دلیلو سیت محال۔ یہ آویان کرنہ صرف سہمہ موکھ امیک اثر جھو امی قسمک  
وَأَصِدْرُ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تھہ پاٹ حکم آو  
کرنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافرنا سیت مہ تھاوو تعلق تھہ پاٹ آکھ حکم کرنہ  
مسلمان فقیرنا کن زیادہ التفات و توجہ کرنک۔ یہہ تھاوو ہنز زورہ ہن ذات مبارک تمنی لوکن سیت یم  
صبح وشام یعنی ہمیشہ پنہ نس پروردگارہ ہنز عبادت جھہ کران۔ یم ڈھانڈان تھندوی رضا چھہ وَلَا  
تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ یہہ مہ ڈلن تھند نظر مبارک تمن نشہ یعنی تم تھاولو کہ ہمیشہ زہر نظر۔ تُرِيدُ  
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ جھوہ دنیاچہ زندگی ہند زینت ڈھانڈان۔ توہہ پڑہ نہ نہ کرن وَلَا تُطِعْ مَنْ  
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا تھہ مہ حض مانو تمن لوکن ہنزہ تھہ۔ فقیر  
با ایمان الگ کرنس متعلق۔ یکن ہند دل آسہ بطور سزا چھہ غافل کرمت پنہ نہ ذکرہ نشہ پنہ یادہ نشہ سہمہ  
سببہ تمودین حق قبول کورنہ۔ یہہ تم پنہ نین نفسہ چن خواہش ہنز پیروی کران چھہ۔ یہہ تمکن ہند حال  
اجتاع ہو اگر نس اندر حدہ خوتہ زیادہ سپرد مت جھو۔ یعنی نفسہ چہ خواہشہ ہنز پیروی کرنس اندر جھہ تم  
حدہ ڈلت۔ تہنز فی تھن شو بیان تھاون۔ بلکہ شو بن تم پانس نشہ دفع کرن وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ  
یہہ فرما یو کہ تھہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمکن کافرنا صاف پاٹھہ یہہ دین حق جھو تھندس



وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
 أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادٍ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ  
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  
 أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ

پروردگارہ سیدہ طرفہ میں مہ توہمہ نش وائے نوو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَوَنْ  
 لیس اکھاہ یژہہ سوکترن پڑہ۔ سُوَأْنِ اِيْمَانِ۔ لیس اکھاہ یژہہ سُو رُوْزَنْ کُفْرِ سِی پِیْہ۔ اَسَہ چھونہ تہہ اندرنہ  
 کانہہ نفع نہ کانہہ نقصان۔ بلکہ ایمان نہ نفع چھو توہمہ پانس۔ ایمان نہ انہ نفع، کُفْرِ سِی پِیْہ روز نفع  
 نقصان نہ ضرورتہ چھو توہمہ پانس۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادٍ قُهَا بیشک اَسَہ  
 چھو ظالمین یعنی بے ایمان پڑہ نہ کرہ وین ہندہ خیطرہ سونا جہنم تیار تھوومت یمہ چہ لبہ نہ دیوار آرن  
 تمن کافرن پریتھ طرفہ احاطہ کثرت کانہہ و تھاہ آسہ نہ تمن ژلہ نس۔ وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا  
 بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بیہ ہر گاہ تم تریشہہ دوسہ موکھ فریادوزاری کرن۔ تہنز فریادری سپدہ  
 تمہ آہ سیت لیس سیاہ پلم ہیو آسہ۔ گرم آسہ تیوت لیس دوری زالہ تہند بھہ۔ حدیث شریف منہ چھو  
 آمت کہ بھیک سوڑوی والہ پیچھ ہنرت تمہہ بہ سیت۔ بِئْسَ الشَّرَابُ کوتاہ پیچھ نہ ناکارہ آسہ بیہ  
 چنہ چیز (پناہ بخدا) تہندہ خیطرہ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا بیہ کاژاہ پیچھ جای چھہ جہنم تہندہ روزنہ خیطرہ (الہی  
 نجات) بیہ گو ایمان نہ انہ وین ہندہ ضرر ک حال۔ اَسَہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان با ایمان ہندہ نفع نہ  
 فائدک حال اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ہنز پاٹھہ سمو  
 لو کو ایمان اون بیہ کر کیر رتہ عملہ۔ ہنز پاٹھہ اس گرونہ تمن لوکن ہنز مزور ضایع سم جان کوم نہ ر ژ عمل  
 کرن اُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ تمنی لوکن ہندہ خیطرہ چھہ ہمیشہ  
 روز تک باغ سمو منزہ کولہ نہ جوہی آسن پکان۔ يَكُوْنُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ تمنی جتن

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ  
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ  
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۱ وَأَخْبِرْ  
لَهُمْ مَثَلًا لَرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ  
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝۳۲ كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ  
الَّتِي أَكَلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۳۳  
وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

اندر آسہ تمہیں لوکن زیور گنڈنہ یوان سونہ سندس کر و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق بیہ  
لاگن تم پوشاک سبز جامن ہند۔ نس زاولہ پائیک تہ و شہہ پائیک آسہ نہ نہ کہہ ون متکین فیہا  
علی الارایک تم جتن اندر آسن تکیہ دتھہ پلنگ پیٹھہ بہتھہ۔ نغم الثواب و حسنت مرتفقا کیاہ  
زت ثوابہ چھویہ بیہ کیاہ ر ژمزوریہ ہتھہ بیہ۔ بیہ کاژاہ آرام و آسایشہ ہنز جای ہتھہ بیہ جنت و اخبر  
لہم مثلا تجلین بیہ فرماؤ کہ تہہ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاچہ بے ثباتی تہ بے اعتباری تہ  
آخر تجربہ باقی پانداری پیٹھہ مثال دون شخص ہنز جعلنالاحدہما جنتین من اعناب و حففنہما بنخل  
و جعلنا بینہما زرعا اس شخص آس و تمت آسہ زہ باغ دچھہ کلین ہند۔ سمن لہ اند آس خضر کل۔  
منزہ او س زراعت تہ و ونہ آمت کلمات الجنتین اتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا دوشوے باغ  
آس و وان میوہ ہن۔ سمن کلمی آس نہ کران بین باغن ہند پاتھہ۔ و فجزنا خلدہما نہرا بیہ آسہ  
آسہ یمن دوشونی باغن منز جاری گر مژہ کولہ و کان لہ شمر بیہ آس تس شخص بیہ امہ و رای تہ  
میوہ جات آمدنی ہند ذرا بیح۔ بیہ آس اولاد فرخہ فقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ پس دون ام  
شخص پنہ نس رفیقس تھہ کران کران آنا انکر منک مالا و اعترفوا بوچھوس چانہ خونہ زیادہ مال و

اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفْرًا ﴿۳۷﴾ وَاَدْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ  
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ؕ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا ﴿۳۸﴾  
وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَاَلَيْنُ رُدُّدْتُ اِلَى رَبِّي لِجِدَانِ  
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۹﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

دولتہ کن۔ بیہ چھوس چاہے خود زیادہ عزت و ول اولاد نہ ہو گبر و کن نو کرو چاکر و کن۔ زہ چھوک پنہ  
نس طریقس حق زانتھ خدائس نشہ پسندیدہ آسک دعویٰ کران۔ مینس طریقس چھوک باطل زانتھ  
خدائس نشہ ناپسند زانان مگر نتیجہ چھواتھ برعکس سپدان۔ کیا زہ دشمن چھونہ کانہہ نہ فائدہ نہ نفع و اتنا  
وان دوست چھونہ کانہہ نہ نقصان و اتنا نادان۔ وَاَدْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو پتہ ژاویہ  
شخص پنہ نس اتھ باغس اندر سو رفیق سیت ہتھ۔ در حالیکہ سو اوس جرم یعنی گھر پانس پیٹھ قائم  
تھاوتھ یعنی شرکس منز اوس مبتلا۔ کبر و غرورک اوس نشہ دماغس منز بین لوکن اوس حقیر زانان  
قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا دہنہ لوگ مہ چھونہ باسان یہ باغ کیا گڑھہ بُر باد زانہہ میانہ  
زندگانی اندر۔ امہ اندرہ اوس تس غرض توحیدس پیٹھ اعتراض کرن ائس رفیقس دوہنن ژے چھٹھ  
خالق عالم سُنَد قائل بیہ چھٹھ و نان کہہ سو زوی چھو تس اٹھہ۔ مگر مہ چھونہ گمان کہ طبعی اسبابن کیا ہیجہ  
کانہہ مُعْطَل تہ بے کار کتر تھ۔ مہ چھونہ بوزنہ پوان ہتھ مینس باغس ہتھ کار خائس سمجہ آبادی ہتھ  
ساری سامانہ موجود چھہ کل تہ گلین ہند آب تہ موجود کوم کار کرن وال تہ ساری موجود خرچ  
اخراجات کرنہ خیرہ مال و دولت موجود مالکہ حفاظتہ خیرہ سامانہ موجود۔ دولے یہ بر باد گڑھہ نہ تھہ  
پاٹھ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً بیہ چھونہ مہ خیال کہ قیامت کیا سپدہ قائم۔ اگر بفرض محال قیامت  
آیہ تہ وَاَلَيْنُ رُدُّدْتُ اِلَى رَبِّي لِجِدَانِ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا بیہ ہر گاہ ہوا اتا و نہ امہ پنہ نس پروردگار س  
نشہ بولہ ہتہ سمہ خود بہتر جای۔ ام شخص کتر ژورد دعویٰ۔ آکھ ای زہ گھر چھونہ قابل مذمت۔ دو تم  
کورن انکار توحید۔ تم کورن انکار قیامت۔ ژور تم کورن پن پان خدائس نشہ باعث تہ محترم  
ثابت قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ سمہ تھہ بوز تھ وون ائس پن رفیقن ائس دیندار غریب اوس وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

اَکْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
 سَوَّكَ رَجُلًا ﴿۳۶﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۳۷﴾  
 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
 إِنَّ تَرِينَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَوْ وُلِدْتُ ﴿۳۸﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن  
 يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ  
 فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۳۹﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ

اَکْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا کیا تھی کہ تھہ توحید سے  
 قیاس انکار کرنے سمیت انکار سے پروردگار سے تم تھی پیدہ کو رکھ گو وہ نعمہ توپتہ کو رکھ تھی پیدہ لطف  
 منی ہمد سے آئس۔ توپتہ کو رکھ تھی تیار پورہ انسان۔ مرنہ پتہ بہ زندہ سپنس انکار کرن گو خدایہ سندس  
 قدر سے انکار کرن۔ تھمد سے قدر سے انکار کرن گو وارہ تھس انکار کرن۔ لَکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ  
 بِرَبِّي أَحَدًا لَکِنَّا ہمیک اصل جھوکن انا یعنی بوئس جھوس بو جھوس اعتقاد تھا وان اقرار کران کہ سؤی  
 جھو میون پروردگار۔ بو جھوس نہ پنے نس پروردگار کا نہ اکھاہ شریک زانان وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ  
 جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تھی کونہ پر تو تھ پنے نس باغس اندر اثنہ وزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ  
 یرھہ تی بنہ۔ کانہہ جھونہ نمہ چیزس پیٹھ طاقت سے قوت تھمدہ مددہ وراے۔ اللہ تعالیٰ ایس کاس باغ  
 روزن یرھہ تیس کاس روزہ۔ اگر سو یرھہ سو سپدہ ویران سے بر باد۔ تھمد سے یرھس مقابلہ چھہ ساری  
 اسباب بیکار۔ تھمدہ مددہ وراے ہیچ نہ کانہہ سبہہ کوم کتر تھہ إِنَّ تَرِينَ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَوْ وُلِدْتُ ہر گاہ تھی  
 مہ وچھان چھکھ مالہ کن اولاد وکن کمی کانہہ نم جھونہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ مہ  
 جھو بوزن یوان کہ سؤ وقت جھو نزدیک یلہ میون پروردگار مہ عطا کرہ سوباغ نس بہتر آسہ چاہہ بانہ  
 خوتہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا یہ سوزہ چانس باغس پیٹھ نمبی آفآہ۔  
 آسماچہ طرفہ تھہ سمیت یہ چون باغ سپدہ صاف میدانہ ہیو۔ تھہ پیٹھ کھور آسن نیرت ثلان آو

لَهُ طَلَبًا ۳۱) وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا  
 انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۳۲) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۳۳) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ  
 لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۳۴) وَاضْرِبْ لَهُمْ  
 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

یُصِیْبُهُمْ مَاؤُهُمْ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۳۱) بیہ گڑھے تین باغن ہند آب زمینس منز شر پتھ پس بیٹکھ  
 نہ ژہ کنہ صورتس اندر زمینہ کڈت سؤ آب وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۳۱) چنانچہ امہ گفتگو پتے آیہ ولہ اس شخصہ  
 سندین میوہ باغن آسانی ناگمانی بلاے۔ آنا فنا منز گو یہ باغ تباہ و برباد فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا  
 انْفَقَ فِيهَا سؤنا فرمان مغرور شخص لوگ افسوس کران کران گل پنن مورنہ۔ تھہ ماس نہ لائس  
 پیٹھ ودنہ یوسہ اتھ باغس پیٹھ خرچ کمر مژ آس۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۳۲) مگر اتھ باغس اوس  
 امہ ساتہ وجہ واو آمت۔ سؤ اوس ڈو کھیوسان پتھر پیومت۔ دچھہ باغن چھہ ڈکھہ آسان وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۳۲) بیہ لوگ سؤ شخص ونہ ای کاش مہ نے آسہا پنہ نس پروردگارس کانہ نہ  
 شریک ٹھہر وومت۔ تمہس تور فخرہ یہ بلای آیہ کو ٹھس ٹھہرہ سببہ۔ یہ ندامت آس تس نقصان گڑھنہ  
 مٹو کھ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۳۳) بیہ آس نہ تمہس کانہ جماعتہا  
 سم تمہس مدد کرہ ہن خدائس وراے۔ نہ ہیوک تم پانہ اسہ نشہ امیک بدلہ پتھ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ  
 الْحَقِّ ۳۳) پتھہ کیاسپڈ ثابت کہ سوزوی اختیار چھو ہیزس خدائس اتھہ۔ پتھس موقس پیٹھ مدد کرن تہ چھہ  
 تہنزی کوم هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۳۴) تھندوی ثواب اجر چھو سیٹھہا رت۔ تھندوی نتیجہ چھو ذنیاءس  
 منز سیٹھہا رت وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ۳۴) بیہ کمر ونہہ  
 بیان یار رسول اللہ کون دنیاچہ زندگی ہنز مثال۔ سہو مثال گنیہ کیجہ کہ امہ کور آسہلجہ طرفہ باران زود

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ  
الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْأَمْالُ وَ  
الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۳۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ ﴿۳۷﴾  
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

نازل۔ تمہ آج کہ ذریعہ کھوت زمینہ منزہ گھاسہ سر سبز فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ  
هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ کینہہ کالاه گڑھتھہ سڈسوسر سبز گھاسہ خشک لُئس واوان اورہ یور ہتھ کروو۔ یوہے  
ہتھو حال رہتھک۔ ازہتھو تروتازہ بوزنہ یوان۔ کینہہ کالاه گڑھتھہ ہتھونہ تمیک نام و نشان تہ باقی روزان  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اللہ تعالیٰ ہتھو پر ہتھ چیزس پیٹھ پورہ قدر تہ وول الْأَمْالُ وَالْبَنُونَ  
زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مال تہ اولاد ہتھہ ذنیاء چہ زندگی ہند اکھ زینتہ تہ نیتہ ناپائیدار تہ بے اعتبار  
وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا رتھہ عملہ ہتھہ پائیدار ہمیشہ پوشہ ونہ  
چانس پروردگار س نشہ ثوابہ اعتبارہ۔ بیہ ہتھہ تھے بہتر امیداری ہندہ اعتبارہ۔ حدیث شریفس منز ہتھو  
آمت فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ والالہ الا اللہ واللہ  
اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بیہ کلمات ہرن ہتھہ باقیات الصالحات وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً بیہ گڑھتھہ سُدودہ یاد کرن سمدہ دوہنہ آس کوہ تہ بال پکنا دوکھہ۔ پنہ نیو جاو نشہ تلوکھ تہ  
ڈالوکھ توپتہ کروکھ ریزہ ریزہ۔ سمسٹر گروانس کوہن تہ لرین جاین۔ مکاناتن تہ باغن۔ و ہتھن تھہ زمین  
ای و ہتھہ ونہ نوئی آتھہ اندہ پیٹھ بیس اندس تان ہموار تہ برابر۔ نہ آسن کوہ تہ بال ہتھہ۔ نہ آسن لرہ تہ جلیہ  
عُنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا بیہ کڈوکھ آس ساری لوکھ قبر و آندرہ توپتہ سمسر اودوکھ اس  
مخشرہ کس میدانس اندر۔ تمواندرہ ہتھڈون نہ کانہہ اکھاہ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا بیہ بین ساری

اَوَّلَ مَرَّةٍ اَبْلُ زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلْ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۳۸﴾ وَوَضَعَ  
 الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ  
 يَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ اَيُّهَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً  
 وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ  
 لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۳۹﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا  
 لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ كَانَ مِنَ الْجٰنِ فَفَسَقَ عَنِ

لو کہ حاضر کرنے نہ ہند پروردگار سے بروٹھن صحن منر سم قیاس انکار کران آس۔ تمن ایہ وینہ لَقَدْ  
 جَعَلْنَا لَكُمُ الْاٰخِرَةَ اَوَّلَ مَرَّةٍ بیٹک تہہ واتوہ لہہ تہہ حاس اندر تہہ منر اسمہ تہہ گوڈنی پیدہ  
 کمرمت آسوہ یعنی نئی تہہ تھنئی توہہ وچہوہ گوڈنچ پیدایش مگر پڑھ کمر وہ نہ دوبارہ بیہ پیدہ سپد نس بل  
 زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلْ لَكُمْ مَّوْعِدًا بلکہ اوس توہہ خیال کہ آس کرہ وی نہ تہدہ خیطرہ پئن وعدہ پورہ  
 کر ٹک کانہ وقاہ مقرر وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ بیہ بن تہہ  
 دوہہ لوکن ہنزن عملن ہند دفتر تمن بروٹھن تراونہ۔ کانہ دن وچھنس اتھس کیٹھ۔ کانہ دن کھو فرس  
 اتھس کیٹھ۔ ہس وچھو کہ تہہ کافر کھوژان تہہ نان تہہ سیت بیہ تہہ منر لیٹھت آسہ وَاَيُّهَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ  
 مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا بیہ ون ہای افسوس کیاہ گوسانہ حقہ۔  
 سم سان نامہ اعمالن چھونہ تر وومت کانہ لوٹ گناہ نہ کانہ بوڈ گناہ ہس نہ لیو کھمت تہہ درج چھن  
 کورمت۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا بیہ لبن تم پندہ سارے عملہ سمہ تمو کمر مژہ آسن عمرہ ذنیاس  
 منر پانس بروٹھن کتہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا تہد پروردگار کرہ نہ ظلم کانہ سیت۔ نہ کورمت گناہ  
 کیا آسہا کانہ شخص لیکنہ آمت۔ یا کمر مژنیکی کیا آسا کانہ شخص لیکنے روز مژر وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ  
 اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ بیہ چھو قابل ذکر سو وقت یلہ آسہ کھم کور ملا کھن کہ سجدہ دیو  
 آدم علیہ السلامس بروٹھن کتہ۔ ہس ذیت تمو سارو سجدہ الیئس وراہی۔ الیئس آس تیو عبادت کمر مژ

أَمْرِي أَفْتَحِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ  
لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ  
الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ

سوتہ اوس دو ٹمٹ ملائکن ہندس در جس۔ تمی آوتیمس تہ ملائکن سیت سیدک حکم کرنہ مگر تم ذیت نہ  
سجدہ کائن من الیون ففسق عن امر ربہ سواوس جنوا ندرہ بس در اوسونیر پنہ نس پروردگارہ سندہ  
حکمہ نعرہ عدول حکمی کمرن۔ یعنی سجدہ دین نہ۔ سونیلہ وون بیٹھ شریر چھو افتتحیدونہ و ذریتہ  
اولیاء من دونی و ہم لکم عدو ای بنی آدمو، ای انسانو توہم چھو نہ سوا ایلیس تہ تہمز ذریت بو معبود  
برحق تراوتھ پن دوست زانان۔ حالانکہ سو چھو تہم سخت دشمن۔ کاژاہ چھہ شرمہ ہنز تھ کہ سوتہم  
دشمن تہم س بابہ صیب حضرت آدم علیہ السلامہ سند دشمن سو چھون تہم زانان دوست پن بو تہم  
مہربان دوست آتھ میان چھوہ کران نافرمانی۔ حیف صد حیف تہمزہ عقلہ پیٹھ۔ بئس للظالمین بدلًا  
یہ ایلیس تہ تہمز ذریت دوست بناون چھو ظالمین ہندہ خیطرہ سیٹھاہ بچھ بدل۔ دوست گروہوس زانن تہ  
رئن بو۔ تھ بدل چھوہ دوست ربان شیطانس۔ بس تہم دشمن قوی چھو۔ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ مہ چھہ ہم شیاطین سیت رٹت آسمان وزمین پیدہ  
کر نکہ وقتہ۔ یہ ہم نہ سیت رٹت تمہ ساتہ تمہ ساتہ تم مہ پیدہ کمر۔ تمن کیاہ پر تھہ ہابو کہ تھہ پاٹھ  
کرہ بو آسمان تہ زمین پیدہ۔ یا تھہ پاٹھ کروہ بو تہم پیدہ۔ یا پر تھہ بھ کہ یہ کورہ مہ جائے کتہ جلیہ  
ما چھوس ہیور بون گو مت وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا بو اوس نہ تمہ قسمک ناقص  
قدر نس اندر بو کیاہ رٹہ ہک گراہ کرہ ون میان بدن پن مددگار یا بو کیاہ ہمہ ہا تمن نعرہ کانہ مشورہ  
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ سُدُوہ تہ چھو یاد کرہ نس



مُؤَبِّقًا ﴿۵۲﴾ وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ  
لَمْ يَحِيدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۳﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾  
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا  
رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ  
الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿۵۵﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

لائق سیمہ دوہے اللہ تعالیٰ فرماوہ مُعْرَکَن تِلا آلودیو پنہ مددہ خیطرہ تمہن معبودان باطلن سم میان  
شریک آسوکہ زانان۔ توپتہ دلکھ آلو۔ تورہ ونہ نکھ نہ تم کانہہ جواب سمہ سیت تم مایوس سدن  
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بیه گرو اس تمہن منز ٹھورہ اکھ نارہ خند قاہ ٹس سخت مہلک آسہ  
وَرَأَى الْمَجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا بیه وچھن نافرمان نار جہنم یقین کرن کہ تم چھہ وانہ ون  
اتھ نارس منز و لَمْ يَحِيدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا بیه لہن نہ تمہہ نشہ چھ کانہہ وتھہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا  
الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پز پات بیه کور آسہ متھ قرآن مجیدس منز بیان لوکن ہندہ ہدایت  
خیطرہ پریتھ کتہ قسمک مضامین وارہیو طریقو وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا مگر باوجود آس چھو  
انسان ساروی خوتہ ہر تہ قضیہ تہ تنازعہ کرہ ون وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ بیه رٹ نہ لوکھ کتہ چیزن پتھ ایمان انہہ نشہ۔ بیه پنہ ٹس پروردگارس مغفرت معنہ  
نشہ۔ تمہن نشہ ہدایت وانہہ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا مگر تہ  
چیزن کہہ تمہن پیٹھ تہ کیاہ کڈرہ سہوی حال ٹس برو ٹھمن نافرمانن پیٹھ کڈرہ یومت اوس یاواتہ تمہن عذاب  
تمہن برو ٹھمن وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بیه چھکنہ آس سوزان حضرت انبیاء و  
مرسلین مگر باایمان فرمانبردارن بشارت ونہہ خیطرہ۔ بیه کافر نافرمانن عذابگ نیم کرنہ خیطرہ۔ تمہہ  
ثبوتہ خیطرہ چھہ آس تمہن کافی دلیلہ عطا کران۔ تمودلیو خوتہ زیادہ چھہ تمہن نشہ تم فرمایشی معجزہ

وَمُنذِرِينَ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا  
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِيَّتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا ۝ وَمَنْ  
 أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ  
 يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  
 آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا  
 إِذْ أَبَدْنَا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا

ترہانڈان۔ یہ جھوٹو لغو تہ بیکار و مجادل الٰہی کفر و باطل لیدھضوا بہ الحق بیہ چھہ کافر اپزہ  
 کتھ پیش کمر کمر ہر تہ قضیہ لاگان۔ بٹھ پنہ خیالہ پزس مغلوب کرن۔ تہ ہنہ نہ۔ پوزہ جھو ہمیشہ غالب۔ سو  
 سپدہ نہ مغلوب زانہ تہ واتخذوا الیٹی وما انذروا ہزوا بیہ چھہ تموسان آیات بیہ سمہ عذابک نیم  
 آو تین کرنہ روئمت تہ زوئمت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخزگیا وَمَنْ اظلم ممن ذکریا لیت ربہ فأعرض عنها  
 بیہ سمہ اکھاہ جھو زیادہ ظالم تس شخصہ سدہ خو تہ بس خدلیہ سند یو آیاتوسیت فصیحت کرنہ آہ۔ تو پتہ پھیر  
 تم تمو آیاتونشرہ بٹھ وئی ماقدمت یداہ بیہ مشراون تم گناہ تم تم پنہ نیو اتھو بروٹھ کن سو زمت  
 چھہ۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ و فی آذانہم وقرا ہز پات اسہ چھہ تراومت  
 تہندین دلن پیٹھ پردہ۔ بٹھ نہ تمن خدلیہ سند آیات فخرہ تزن۔ بیہ چھوک تراومت کن دوگہ تہ زرتی  
 سببہ جھو تہند حال نہ وان تدعہم الی الہدی فلن یہتدوا اذ ابدا ہر گاہ تہہ تمن دعوت دیو  
 ہدایتس کن تم لین نہ ہدایت زانہ تہ۔ لہذا کیا زہ چھوہ تہہ ہر ان امیک غم۔ تمن جھو تاخیر عذابہ سیت  
 خیال گڑھان کہ شاید تمن آسہ عذاب کینہہ۔ مگر تاخیر عذابک وجہ چھوکہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ  
 تہند پروردگار چھو سیدھاہ مغفرت کرہ ون رحمتہ وول۔ بس چھو سو تمن مہلت دوان سمہ کتھ موکھ کہ  
 شاید تمو منزہ ماسدہ کانہہ مسلمان۔ تس کرہ اللہ تعالیٰ مغفرت تہ گٹھن نڈران لویواخذہم بما  
 کسبو العجل لہم العذاب ہر گاہ سو تمن تہنز و بیچہ عملو سببہ گرفتار کرن یڑھہ ہاتلہ کرہ ہا تمن پیٹھ

كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا  
 مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا  
 لِبَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَآ أُبْرِحُ حَتَّىٰ

جلد عذاب نازل بل لہم موعدا لَنْ یجدوا من دُونِہ مویلا مگر تم جھو تہندہ عذابہ خیرہ اکھ وقاہ مقرر کورمٹ سمہ نشہ نہ تم ہرگز کانہ چھین جایاہ لہن۔ یو ہے قاعدہ آواستمال کرنہ بروٹھین کافر ن تہ نافرمان سیت تہ چنانچہ **وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِبَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا** سمہ بستی تم ہند قصہ معروف و مشہور چھہ۔ یعنی قوم عادتہ نمودو غیرہ یلہ تمو ظلم کور نافرمانی کمر اسمہ اوس تہندہ ہلاک کرنہ خیرہ وقاہ مقرر کورمٹ سو وقت دوٹھ گئے ہلاک۔ تھہ پانھ چھو اسمہ تم ن از کین کافر ن تہ تہندین دشمن ہندہ خیرہ وقت مقرر کورمٹ۔ سو وقت یلہ واتھہ تم تہ گڑھن ہلاک تہ برباد۔ بروٹھ آویان کرنہ کہ کافر ن ہند فقیر مسلمان سیت شریک تعلیم عار زان چھو سیٹھہ تھہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان موسیٰ علیہ السلام قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود جلالت قدر تمو کرنہ کانہ عار خضر علیہ السلامس تم تمن نغمہ بون مرتبس تہ در جس منز آس تمن نشہ علم حاصل کرنس اندر۔ تمیک وجہ سپد ای کہ اکہ دوہہ پور حضرت موسیٰ علیہ السلامن وعظ بنی اسرائیلن ہندس جماعتس منز۔ تھہ مجلسہ اندر ہڈ تھہ اکب شخص تمن کہ از کہ وقتہ کین لوکن اندر تہہ حض شخص چھو ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ تمو فرموہ بھہ بوچھوس ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ اگرچہ یہ اوس بالکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ان یثہ یمن کلام کرنس اندر احتیاط کورچ تعلیم کرن اللہ تعالیٰ ان فرمو تمن ای موسیٰ یہ تھہ پانھ و نوہ توہہ۔ حالانکہ مجمع البحرین یتہ نس زہ دریانہ وان رلان چھہ متصل چھوسون اکہ بندہ۔ نس بعض چیزن اندر تہندہ خوتہ زیادہ عالم چھو۔ تمن سپد تہندہ ملاقاتک شوق تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ** سو وقت پاوڈ تھیں یلہ موسیٰ علیہ السلامن دوپ پنہ نس خادمس یوشع ابن نونس (سم آس ابتداءس اندر حضرت موسیٰ سد خادم پتہ سپد پیغمبر) یلہ تمن حضرت خضرس سیت ملاقات کرنہ گڑھن اوس اللہ تعالیٰ اس ہڈ تھہ تمو خدایا تمن نشہ واتھ کیاہ صورت چھہ ارشاد سپد کہ اکہ بزت گاڈہ ہاتلو سیت تہہ توپتہ نیر و سفرس۔ تھہ جلیہ سو گاڈ زندہ گڑھت لوکرہ منز راوہ تھہ جلیہ لیون تہہ سو

أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقْبًا ﴿٦﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ  
 بَيْنَهُمَا نِسْيَا حَوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٧﴾ فَلَمَّا  
 جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقْدُلِقِينِي مِمَّنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٨﴾  
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا  
 أَنَسِيتهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكَرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

صاحب لکھنؤی اَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقْبًا یوروز نہ توتان پتھ یوتان نہ ہوواتے مجمع  
 البحرینس۔ اده پے تن مہ وارمین ورمین سفر کرن فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ  
 سبیلہ فی البحر سربا کس یلہ پکان پکان وات تم مجمع البحرینس یتہ نس زہ دریایانہ وان رلان تہ میلان  
 آس توتس واتتہ زود تم کس کنہ پلس سیت ڈوکھ دتھ تھکھ دینہ۔ تھہ حالس اندر پیہ تمین مندر سوگاڈ  
 سپز ٹوکرہ اندر بحکم خدایہ زندہ تو پتہ وژہ سو دریاس اندر۔ یوشخ علیہ السلام یلہ بیدار سپداتہ  
 وچھکھ نہ ٹوکرہ اندر گاڈاہ کینہ تہ۔ ارادہ کوزکھ یلہ حضرت موسیٰ تہ بیدار سپدن تھی ساتہ کرہ بوتمن  
 نسیہ بیہ واقعہ بیان۔ مگر یمن روزنہ مطلق نہ تھہ ذہنہ اندری۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تمین دوشون گنیہ  
 گاڈہ متعلق تھہ باتھ کرن مشیت۔ کس ہنہ تمہہ گاڈہ پن و تھہ دریاس منزگیہ اکھ سرونگاہ تہ گوچہا کس  
 گاڈہ ہندہ پتہ سیت فلما جاوزا سم زہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہ حضرت یوشخ علیہ  
 السلام یلہ امہ جایہ نسیہ برو تھکن پک بوچھہ لکھہ۔ قال لفتاہ ایتناغدا آنا لقا لقینا من سفرنا هذا  
 نصبا موسیٰ علیہ السلام فر موخاد مس پتہ نس کمر و پیش کون سون کینہ خیطرہ۔ اسہ تل تکلیف تھہ  
 سفرس اندر۔ سمہ برو تھہ دہن منز لن پتہ سیت و اژونہ اسہ کانہہ تکلیفہ قال اریت اذ اوینا الی  
 الصخرة و نس اس یلہ تھہ جہ کنہ تل و اژاے یتہ نس تھک کڈنہ روزاے فانی نسیت الحوت و ما  
 انسیته الا الشیطان ان اذکره بیتک مہ گو مشیت گاڈہ ہند قصہ توہہ نسیہ بیان کرن۔ تہ مشروونہ مہ مگر  
 شیطان۔ مہ آونہ ذہنہ اندری سو معاملہ پیش کرن واتخذ سبیلہ فی البحر جبنا تمہہ گاڈہ یوسہ

**الْبَحْرُ عَجَبًا ۷۳** قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۗ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا  
**قَصَصًا ۷۴** فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا  
 وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۗ ۷۵ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ  
 أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا ۗ ۷۶ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ  
 مَعِيَ صَبْرًا ۗ ۷۷ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۗ ۷۸  
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۗ ۷۹

اسے بڑھ آس تھا و مرثو کرہ اندر کا جس کھینہ خیطرہ سنو گئیہ زندہ تو پتہ نہ تھن دو ٹھہریہ ہنون و تھہ دریاوس  
 مں عجیب طریقہ۔ دریاوک آب رود معلق تھہ گئیہ گو چھاہ ہش زیتھہ **قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ** موسیٰ علیہ  
 السلام فر مووتی اوس تہ یہ آس ژھا نڈان آس۔ ژہ کونہ و نیو تھہ تھہ جاہیہ یہ قصہ **فَارْتَدَّ عَلَىٰ**  
**آثَارِهِمَا قَصَصًا** نھس پھیر تم اتی پیٹھہ واپس پنہ نیو کھورن ہندیونشا نو موجب۔ واتان واتان وات  
 تم ہیہ تھہ گئیہ کھٹل۔ تھہ سیت ڈوکھ و تھہ تمن مندر پیمو آس **فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً**  
**مِّنْ عِنْدِنَا** پس لوب تمو سانیو بندو آندرہ اکھ بندہ یعنی ملاقات کو رکھ حضرت خضر سیت نھس  
 اسہ عطا کر مرث آس پن بڈ رحمت نبوت یا ولایت **وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا** ہیہ اوس اسہ سو خضر علیہ  
 السلام پنکھو ومٹ پنہ طرفہ اکھ خاص علاہ۔ موسیٰ علیہ السلام اوس زانان علم اسرار الہیہ **قَالَ لَهُ مُوسَىٰ**  
**هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّا عَلَّمْتَ رَسُولًا** موسیٰ علیہ السلام ڈوپ تمن کیا حض بو پکا توہہ سیت  
 سیت تھہ شر طس پیٹھہ کہ تھہ کیا پنکھنا وومہ تمہ علمہ منزہ کینہہ نھس مفید علم تھہ پنکھناونہ آمت ہتھوہ **قَالَ**  
**إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا** خضر علیہ السلام دو پکھ تھہ نہ حض ہیو کونہ مہ سیت روز نھس پیٹھہ  
 صبر کر تھہ **وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا** ہیہ تھہ پاٹھہ ہیو کونہ تھہ تھہ پیٹھہ صبر کر تھہ تھہ  
 توہہ احاطہ کو رمٹ آسوہ پنہ علمہ سیت۔ یعنی یوسہ تھہ نہ توہہ معلوم آسہ **قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ**  
**صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا** موسیٰ علیہ السلام دو پکھ یو ژھے خدا نھن تھہ لیبو مہ صبر و ضبط کرہ ون۔ ہیہ

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ ﴿٤١﴾  
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنُتَسَطِّعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِيبَتِي إِنِّي بِمَانِيئَتِي وَإِنِّي بَأْمْرِي عَصْرًا ۖ ﴿٤٣﴾  
 فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْبِقِيَاءِ غَلَمًا فَنَقَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْت

کرہ نہ ہو تو ہمہ کلمہ اندر نافرمانی قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا خضر علیہ السلام دوپٹھ ہر گاہ تہمہ مہ سیت روز و تلہ بیٹھنہ مہ پر ژھو کتہہ چیزس متعلق یہ کیا زہ نہ یہ کونہ۔ یوتان نہ بوپانے توہمہ بیان کرہ تھ متعلق کانہہ کتھاہ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا توپتہ پنک تم دو شوے صاحب برو ٹھکن۔ بٹھہ اوس تہن دریاؤس تار دین۔ تمہہ موکھ کھست اکس تارہ ناوہ بیٹھہ ناوہ والیو پرزہ نوو خضر علیہ السلام تمود ڈنک پور تار مٹت اجرتہ و رای۔ خضر علیہ السلام کور اتھ ناوہ نمس سوران نہ گڈ۔ سہو ناو کرن عیب دار۔ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا موسیٰ علیہ السلام دوپٹھہ کیا حض اکھ ذیت سموناوہ والیو اسہ تار پور تان مٹت اجرتہ و رای بیہ کور و کھہ توہمہ اتھ ناوہ سوران۔ سم لٹھہ بچارہ پٹھن ناوہ سوران سپد نہ موکھ اہس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا توہمہ کمر وہ یہ عجیب کاماہ۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنُتَسَطِّعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلام دوپٹھہ مہ و نیو وہ نا توہمہ تہمہ نہ حض بیکو نہ مہ سیت روز نس بیٹھہ صبر کمر تھ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِيبَتِي وَإِنِّي بَأْمْرِي عَصْرًا موسیٰ علیہ السلام دوپٹھہ مہ حض گو ٹھشت۔ اتھ بیٹھہ مہ کمر و مہ باز خواست۔ بیہ مہ کمر و اتھہ معاملس بیٹھہ مہ بیٹھہ زیادہ تنگی فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْبِقِيَاءِ غَلَمًا فَنَقَلَهُ قَالَ أَقْتَلْت نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُلُومًا کس پک تم تا اینکہ سمکھہ تہن لوٹنا اکھ۔ خضر علیہ السلام روٹ سولوٹ توپتہ چورس ہوٹ نہ مورن۔ حضرت موسیٰ ان دوپٹھہ کیا حض



صَبْرًا ۱۰۰) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  
فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيدَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ  
غَصْبًا ۱۰۱) وَأَمَّا الْعُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا  
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۱۰۲) فَآرَدْنَا أَنْ نُيَبِّدَ لَهُمَا رِبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً  
وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۱۰۳) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

وضول کمر ہوئے اوس بہتر قَالَ هَذَا إِذَا قِيءَ وَيُنْبَىٰ وَيُنْبِكُ خضر علیہ السلامن دو بچھ بس دون ہجھ ہجھ  
تھہ پیٹھ مہ منزتہ توہہ منزجدائی ہند فیصلہ۔ سَأَلْنِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وون کرہ بو توہہ  
خبر تمن ٹھن ہندہ <sup>حقیقت</sup> یمن پیٹھ توہہ صبرتہ تاب ہو کو نہ کمر تھ۔ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ  
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيدَهَا وون یوسہ ناو آس سو آس کیوں غریبن مسکین ہنز تم ہجھ  
دریاوس منز پن مزور محنت کمر تھہ گزارہ کران آس۔ مہ کور ارادہ تمن فائدہ واتا و نہ خیرہ ہمز  
ناو عیب دار کرین۔ وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کیا زہ تمن پارکن اوس اکھ ظالم  
پادشا اکھ ٹس پر ہجھ ارہ ناوہ (بے عیب) اوس جبراً قبضہ کران۔ یا ہانزن (ملا جن) بیگارہ ناوان۔ مہ  
کر ہمز ناو عیب دار۔ ہجھ تم تھدہ ظلمہ نثرہ نجات لبس وَأَمَّا الْعُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ وون ٹس  
لوٹٹ اوس تھسد مول مون آس با ایمان۔ فَحَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ٹس کھو ژا اس سہ گدھہ  
نہ تمن پیٹھ کران سختی تہ سر کشی کمرہ سیت تمن گدھہ نہ سہ سبب بن ایمانگ سلب کر ٹک فَآرَدْنَا أَنْ  
يُيَبِّدَ لَهُمَا رِبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ٹس یژھ اسہ یے تھہ کہ تھدہ پروردگار دیہ تمن ٹس  
لوٹٹس بدل تھدہ خو تہ بہتر تہ رت فرزند پاکیزگی اندر دیہ زیادہ نزدیک شفقت و محبتس اندر۔ دپان چھہ  
امہ پتہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمن دون باژن کور عطا۔ ٹس کورہ کچل آؤ کر نہ اکس پیغمبرس سیت۔ تو پتہ ٹس  
فرزند زاؤ تمن سو تہ اوس پیغمبرے۔ ٹس باعٹہ ہدایت بیو و بدس اکس تو مس وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ  
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وون ٹس دیوار اوس سہ اوس شہرہ کین دون یتیم ہند وَكَانَ حَتَّىٰ كُنَّا



الْمَدِينَةَ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ  
 رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ  
 وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۳  
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنهٗ ذِكْرًا ۝۸۴  
 إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۵ فَاتَّبَعَ  
 سَبِيلَهُ ۝۸۶ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ

لهُمَا تھہ دیوارس تل اوس خزانہ یمن دون لوکین ہند **وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا** بیہ اوس یمن دون  
 لوکین ہند مول موج صالح تہ نیک۔ تم ہندہ نیک آسجہ سببہ تھا واللہ تعالیٰ ان تمکن دون لوکین تابالغن  
 ہند مال محفوظ۔ ہر گاہ دیوار دستھ پیہ ہاتھ ہندس ماس سپدہ ہالوٹ۔ سوگوشہ ہاضیح **فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ**  
**يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ** ہس یوزھہ چان پروردگارن تم گوشہن واٹن پنہ نس  
 بلغ سپدس توپتہ کڈن تم پائے پن خزانہ۔ یہ آس چانس پروردگارہ سز کمال رحمت تہمدہ حقہ۔ **وَمَا**  
**فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** بیہ کرم نہ مہ تم چیز پائے بلکہ کرم خدایہ سندی حکمہ۔ **ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ**  
**عَلَيْهِ صَبْرًا** بیہ کیاہ چھہ اصل حقیقت تمکن کھن ہنز تمکن پیٹھ توہہ تاب تہ صبر بیگوہ نہ کریت  
**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ** بیہ چھہ لوکھ پرژھان توہہ یار رسول اللہ ذوالقرنینہ سُد حال **قُلْ سَأَتْلُوا**  
**عَلَيْكُمْ مِنهٗ ذِكْرًا** تہہ فرما دیو کہہ یو کہہ بیان توہہ عنقریب تہمد حال۔ سہ ذوالقرنین اوس اکھ پادشا  
 جلیل القدر **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ** پز پٹاٹ اسہ کر عطا تمکن تمام روی زبج سلطنت بادشہت **وَآتَيْنَاهُ**  
**مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا** بیہ کراسہ تمکن پر تھہ کٹہ قسمگ سامان عطا۔ ستمہ سیت تم پنہ نین شای ارادن  
 تہ عزامن پورہ ہیکان آس کترتھ **فَاتَّبَعَ سَبَبًا** ہس زود تم تمکن سامان تہ ذوالقرنین پتہ ستموسیت تم  
 واتھہ بیجہ ہن آفتاب غروب سپد نچہ جایہ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةً**  
 تا اینکه یلہ وات تم آفتاب لوتچہ جایہ وچھن سہ آفتاب لوسان اکس کر ہنہ رتہ ہندس ناگس اندر

حِصَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ  
تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۗ قَالَ إِمَّا مِنْ ظَلَمٍ  
فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۗ وَإِمَّا مِنْ  
أَمْنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا  
يُسْرًا ۗ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبْيًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ  
عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۗ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا یہ دیکھتا ہے کہ قوما کا فرن ہند قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ  
تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اسے فرموتین اے ذوالقرنین۔ اختیار چھوٹی تہ سائے طرف خوش کری تم ساری  
کر عذاب۔ تم ساری مازکھ یکدم۔ ہر گے خوش کری تم بیٹھ تھا واحسان یعنی یمن کردین حُکْم  
تبلخ۔ اده ئس سمواندرہ اسلام قبول کرہ سوتراون۔ ئس مہ واتاؤئنے قسمہ تکلیف۔ ئس سمواندرہ انکار  
کرہ سوزن ہلاک۔ چنانچہ تمو کمر دویم کھے اختیار قَالَ إِمَّا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ  
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا چنانچہ تمو کو راعلان کہ ئس اکھاہ ظلم کرہ کھرہ تہ انکارہ سیت۔ ئس کزواس ضرور  
عذاب یعنی سہ کروں قتل اس۔ تو پتہ ایہ سوا اتانہ پنہ ئس ہر وردگار س نشہ سہ کر ئس تہ سوا عذاب ئس  
نہ تم و جھموی آسہ ۗ وَإِمَّا مِنْ أَمْنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ یہ ئس میاہ دعوت و تبلیغ پتہ  
ایمان آہ تہ رتہ عملہ کرہ تسدہ خیطرہ پتہ آخر ئس منزر ترمزور ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۗ یہ  
ۗ وَنَأْسِ ئس ذنیاع اس اندر پن سئل تہ آسان احکام ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبْيًا تو پتہ ہیوت سلطان سجد رن سز تہ  
سامانہ کرن مشرقس کن گھوہنہ خیطرہ تا اینکه مشرک شہر تہ کرن فتح حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ  
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا تا اینکه یلہ ووت سوا آفتاب کھسہ چہ جایہ و جھن  
سوا کھسان اس قومس پیٹھ یعنی تھہ جایہ و جھن اکھ قوماہ آباد۔ اوس نہ کورمت آسہ تہن آفتابس نشہ کانہہ  
ٹھورہ۔ یعنی تم لو کہ آس نہ لرین تہ جاسن یا ئسمن منزر و زان۔ بلکہ آس تم نم تہ سی تا ئس منزر و زت



انْفُخُوا حَتَّىٰ اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ائْتُونِي اَفْرَعٌ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿۹۷﴾  
 فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يُّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿۹۸﴾ قَالَ  
 هٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَاذْجَبْ وَعْد رَّبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ  
 وَعْد رَّبِّي حَقًّا ﴿۹۹﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ  
 فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿۱۰۰﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِيْنَ

ترود توہمہ سرکاری خزانہ منزہ۔ اتی ان تموشتر و لکرہ تمہ پتہ تھا وہ تم آکس پیٹھ لائے۔ تھہ پاٹھ دیوارس منز کنہ سیرہ تھہ تھاوندہ یوان۔ منزہ برہ ہک ژنہ تہ زین۔ بیہ گنجھہ اتھ لہد لہد دمن بستہ۔  
 حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفِيْنَ تَايَلَنَ اِلَيْهِ تَمَمٌ شَشْتَر كَهْنَجَهٗ بَرَابَر سِزَهٗ كَوَه تَالَن سِيْت دُو شُوِي طَرَفُو۔ قَالَ  
 انْفُخُوا حَتَّىٰ اِذَا جَعَلَهُ نَارًا دُو پَنجھہ دیواتھہ ژکھ توپتہ دیوس دمن بستوسیت پُجوکھ۔ ادہ یلہ بیہ شستر سوڑی تنگل ہیو دوزلیو قَالَ ائْتُونِي اَفْرَعٌ عَلَيْهِ قَطْرًا دُو پیکھ دون انوترام سوتر اوواتھہ پیٹھہ کار تھہ۔  
 چنانچہ تہ تہ آو کرنہ۔ توپتہ سُد دیواراہ اکھ تہ قلا یاہ اکھ قائیم سیٹھہا تھودتہ باند فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يُّظْهَرُوهُ  
 وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا بیہ پشول آسجہ سببہ سُد بیہ تھوی کہ یا جوج دما جوج ہوک نہ اتھ پیٹھہ  
 کھستھ۔ بیہ ہیو کھ نہ تھہ گودتہ سورس تھہ ٹنہ جلیہ۔ اتھ ہجھہ ونان سد سکندری قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ  
 مِّن رَّبِّي فَاذْجَبْ وَعْد رَّبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْد رَّبِّي حَقًّا سلطان سکندرن دُو پیک بیہ دیوار تہ بیہ  
 قلاے بنلان تہ باتمام واٹن ہجھہ محض میانس پروردگارہ سنز بڈ مہربانی۔ مگر یلہ اللہ تعالیٰ سُد وعدہ  
 قیامت واتھ دیوارس گرہ سمستر میانس پروردگارہ سُد وعدہ چھو حق تہ پوز وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ  
 يَمُوجًا فِي بَعْضٍ تمہہ دوہنہ گرواس تہنز حالت امہ کہ تم آسن او اڈین منز اثران۔ تھہ پاٹھہ آبک  
 مَنُوج چھہ اکھ آس منز اثران۔ نیرن امہ جلیہ منزہ نیر فوجو فوجو۔ امہ پتہ آسہ قیامت۔ چنانچہ کینہہ کالاہ  
 گزہت بیہ پوغس منز گوڈنیک پُجوکھ دند۔ تمہ سیت سپدہ سوڑی عالم فنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ توپتہ ایہ  
 دو تمہ پُجوکھ دند پوغس اندر تمہ سیت ساری بیہ زندہ سپدان فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا پس کروکھ آس ساری

عَرَضًا ۱۰۱ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا  
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۱۰۲ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا  
عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۱۰۳  
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۱۰۴ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۱۰۵ أُولَئِكَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

جمع کہ کہ محشرہ کس میدانس اندر وَعَرَضًا جہنم کو یومینہ لکھنوں عَرَضًا تمی دوہہ انون اس  
نار جہنم کافرن بروٹھ کن وارہ کارہ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي یمن کافرن ہنزہ اچھ  
آسہ پردن تہ ٹھریں تل ہوشیدہ میانہ یادہ نشہ۔ یعنی درٹھ او سکھ نہ یوان من آیات قدرت سمہ سمیت  
یوہمہ ہچھ ٹرس۔ نیون کرہ ہن یاد وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا بیہ آس نہ تم قرآن مجیدک آیات  
بوزک تہ طانت تھوان أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ کیاہ گمان چھا  
کافرن کہ میانین بدن کیا بناون تہ رٹن پرستش کرت مہ مقابلہ ہن مددگار۔ تہ ہن نہ ہرگز إِنَّا أَعْتَدْنَا  
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کیاہ اسہ چھو یعنی کافرن ہندہ خیطرہ نار جہنم تیار تھوومت گوڈنی پیش کرنگ اکھ  
چیزاہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فرماو یو کہ تہہ یارسول اللہ ﷺ اس کرووہ توہہ بیان کہ کم لوکھ  
آسن سیٹھان نقصان و تاوانس اندر عملوکن۔ یعنی کن ہنزہ عملہ گدھن ضایع تہ بے کار الَّذِينَ ضَلَّ  
سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم گے تم بہنز کوشش ضایع سپز دنیا چہ زندگی اندر دنیا ڈھانڈان  
ڈھانڈان وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا تمں چھنہ جانیہ گمان کہ تم ہچھہ یہ رٹکاہ کران  
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ مگر حقیقت چھہ یہ کہ تم گے تے سموا نکار کور پنہ نس  
پروردگارہ سندین آیاتن بیہ تسندس دیدارس تہ تس برونہ کن حاضر سپد نس فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا  
نُقِي لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَا لہذا تلو نہ اس تہندہ خیطرہ قیامتک دوہ تر کرے تہنزہ عملہ تولہ خیطرہ

نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا  
 وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَرُسُلِي هُرُوقًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۗ خَالِدِينَ فِيهَا  
 لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۗ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي  
 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنُتَا بِسَبِيلِهِ مَدَدًا ۗ

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَرُسُلِي هُرُوقًا ۗ ہے کیا چھو سزا تہند نار جہنم کیا زہ تم  
 آس آکھ انکار کران بیہ آس میانین آیاتن تہ میانین پیغبرن استزاء تہ بھٹھہ کران ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۗ پز پاپٹ یمولو کو ایمان اون تہ رزہ عملہ  
 کر کیک تہندہ خیطرہ چھہ فرودسک باغ پیش کشاہ یعنی گوڈیچی ضیافاہ ۗ تہن پیش لیہ کرنہ ۗ خَالِدِينَ فِيهَا  
 لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۗ تمنی باغن منز آسہ روزن تمن ہمیشہ۔ خواہشی کرنہ تم تموباغو منزہ نیرنج۔ نہ  
 کڈ کیک تموباغواندرہ کانہ باوجود آل کروکھ اس عطا تم چیز تم تمہ خود تہ بہتر تہ رت آسن ۗ قُلْ  
 لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنُتَا بِسَبِيلِهِ مَدَدًا ۗ فرماوونہہ یا  
 رسول اللہ لوکن ہر گاہ میانس پروردگارہ سزہ تہہ یعنی تم کلمات و عبارات تہندین کمالات و صفاتن  
 پیٹھہ دلالت کران چھہ لیکنہ خیطرہ سمندر آسن میلہ بدل، تم ساری مولکن تہ ختم گڑھن۔ میانس  
 پروردگارہ سند کلمات ختم گڑھنہ بروٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اس تمن سمندر ن ہی بے سمندر تہ مدد تہ خیطرہ  
 ملناووک تمن سیت۔ تم تہ مولکن۔ لیکن لیکن مگر کمالات و صفات آہیہ سپدن نہ ختم کیا زہ تم چھہ  
 غیر متناہی۔ لہذا چھہ الوہیت تہ ربوبیت مخصوص تنس یوت ۗ قُلْ تہہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ تہ تہہ تہ کہ  
 اے کافر و تمہ ئس انکارہ سیت مہ پیش یوان چھوہ کیاہ یو چھوسہ توبہہ بروٹھہ کن کانہہ تہہہ کتھاہ پیش  
 کران یوسہ ناممکن تہ دشوار چھہ ۗ اِنَّمَا اَكْبَرُ بِمَوْلَاكُمْ يُوحَىٰ اِلَىٰ اَتَمَّاءِ الْهٰكِمِ وَاللّٰهُ وَاٰجِدُ ۗ یو چھوسہ مگر توبہی  
 ہیواکھ بشرہ۔ توبہہ تہ مہہ منز چھہ فرق یے کہ وحی الہی چھو مہ پیٹھہ نازل سپدان کہ تہند چھو نہ آس  
 معبودس و رای کانہہ تہ۔ نہ چھو وحی واثن کانہہ عجیب کتھاہ۔ نہ چھو توحید باری تعالیٰ کانہہ وحشت

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أُمَّةٍ الْهُكْمُ إِلَهُ ۖ وَإِذْ فَنَّ كَانَ  
 يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُجْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

ناک امراء۔ وُن ہے تہہ مہ انکار کران چھوہ تہ کیا زہ۔ فَنَّ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُجْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا  
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وُون نُس اکھاہ امیدوار آسہ پنہ نُس پروردگارہ سبہ دیدارک، تس سیت  
 ملاقات کرہ نگ تہمد محبوب تہ مقرب بہ نگ ادہ سوکرن میانس پیغمبر برحق آسئس پشہ کتر تھ میانہ  
 شریعتہ موجب رثہ عملہ۔ بیہ مہ تھاون سو پنہ نُس پروردگارہ سبہ س عبادتس منز کانسہ آسئس شریک۔  
 یعنی توحید وور سالتک تھاون کامل اعتقاد۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 كَهَيْعِص ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكْرِيًّا ② إِذْ نَادَى رَبَّهُ  
 نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ  
 شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ  
 وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤ يٰرَبِّنِي

کَهِیَعِص اسم چھہ حروف مُقَطَّعات۔ تین ہند معنی چھو خدایسی معلوم ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذِکْرِيًّا یہ چھو تہندس پروردگارہ سندہ تمہہ رحمتک ذِکْرُ یُوسہ رحمت تم پنہ نس بندس حضرت زکریاء س عطا کر۔ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا یلیہ تمو کھٹھٹھ راز ہمزہ اُنہ کجہ منز پنہ نس پروردگار س آلو دیت، پست آوازہ سیت، چھنہ بیہ کانہہ بوزہ، کیا زہ بجز اندر اولاد ڈھانڈن زون تمو مند چھہ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا دہن میانہ پروردگارہ، میانہ اڈجہ، استخوان گنیہ کمزور بجزہ سببہ۔ بیہ چھتھوم کلہ سوزوی۔ چھتھس حاکس منز اولاد ڈھانڈن اوسہ نہ شایان۔ مگر چانس قدرت کاملس لغتہ چھونہ کینہہ دور۔ بیہ چھس یو ہمیشہ چانہ قدرتک تہ رحمتک ظہور و چھٹک خوگر تہ عادی سپدنت۔ چنانچہ وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا بیہ چھوسنہ یوازتاتن تہہ منگس اندر زمانہ تہ تا کام تہ خالی زودنت۔ از کہ پتھ گن تہ چھس امیدوار چانس اجاتس۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي یو چھوس کھو ژان پنہ نین رشتہ دارن، تم ما کرن نہ میانہ مر نہ پتہ، میانہ مرضی موافق دینچ تہ شریعت خدمت۔ یوی وجہ چھو کہ یو چھوس چھہ بجز اندر اولاد ڈھانڈان وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا بیہ آس آشین میان ہانڈہ گودہ پیٹھ۔ لہذا چھنہ مہ اولاد نہ نچ ظاہری کانہہ صورتہاہ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا یٰرَبِّنِي وَرِيَّتِي مِنْ اِلٍ يَعْقُوبٍ وون کر تہ ژہ پندہ خاص لطف و مہربانی سیت اسباب عادیں ہندہ وساطتہ



وَبِرِثٍ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ  
 بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّى  
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ  
 عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ  
 مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً قَالَ

ورای مہ تیٹھ فرزندہ عطائس اکھ میانین خاص علمن ہند وارث بنہ بابیہ خاندان یعقوب علیہ السلام  
 سندین موروثی علو من ہند وارث بنہ ہا واجعلہ رب رضیاً میانہ پروردگارہ بیہ کرتن سو فرزند با عمل  
 آسنہ موکھ مقبول تہ محبوب ہن۔ چنانچہ بواسطہ ملائک سپد تم ارشاد یٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ  
 يَحْيٰى اے زکریا بیشک اس چھی ژہ خبر دو ان اس فرزندہ سنزید ناوچھو سخی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
 قَبْلُ سَمِيًّا اہہ چھونہ کورمت پیدہ اس بروٹھ اسند ہمنام۔ از تاں چھونہ امہ ناؤک کانہہ انسان پیدہ  
 آمت کرنہ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ حضرت زکریا علیہ السلام وون پروردگار امہ کتھہ پاٹھہ بنہ پتھو  
 وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا میان آشین ہتھہ ہاٹھہ وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا بوچھوس پانہ ووتمت بجرہ  
 کس نہایتس۔ مہ چھونہ معلوم سپدان ژے اہہ فرزند عطا کر کہ تہ کتھہ پاٹھہ۔ اس سپدوہ دوشوے باژ  
 جوان کنہ مہ آہہ نو کاں کزن کنہ موجودہ حسابے اندر کر کہ ژہ اہہ فرزند عطا قَالَ كَذٰلِكَ اللہ تعالیٰ  
 اَن فرموس موجود حسابے اندر قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا چون  
 پروردگار چھو فرماوانیہ چھومہ نشہ آسان۔ اچ کیاہ چھہ حقیقتہ امہ خوتہ بجر کامہ تہ چھہ مہ گر مژہ۔ مثلاً  
 ژہ چھو کہ پیدہ کورمت از کہ بروٹھ۔ ژہ او سکھنہ کنہی۔ پتھہ پاٹھہ چھہہ اسباب عادیہ تہ کینہہ چیز۔ یلہہ بوپنہ  
 قدر تہ سیت نیستس چھس ہست کران، ناؤدس چھس بُود کران۔ معدوس چھوس موجود کران۔  
 اس موجودس نشہ بیا کہ موجود پیدہ کزن یہ کیاہ مشکل چھوی ژہ مینس قدر تس نشہ بوزنہ یوان قَالَ  
 رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً حضرت زکریا ان ڈوپ پروردگار اوعده سیت سپد امطیمان۔ وون کر کھنا میانہ

اَيْتُكَ الْاَيْتُكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ  
 مِنَ الْبُحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑪  
 لِيُغِيِبَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ⑫ وَآتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑬ وَحَنَانًا  
 مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ⑭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑮ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ  
 جَبَّارًا عَصِيًّا ⑯ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ  
 يُبْعَثُ حَيًّا ⑰ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا

مزید اطمینانہ خاطرہ کا نہ علامتہ مقرر۔ تمہے سیت مہ ترہ ہا فخرہ ژہ کوز تھ مہ عطا فرزند قال ایتک  
 الْاَيْتُكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللہ تعالیٰ ان فرموس چون علامت نہ نشانہ جھوڑہ نہ کھنہ  
 تندرست آتھ۔ ترین شین نہ ترین ووبن لوکن سیت کتھ کرتھ فخرج علی قومہ من البھراب  
 پس در او کتھ منزہ پنہ نس قومس لغہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کتھ بچن نہ کتر تھ کینہہ  
 ملس ہوون تبن اشارہ کہہ تھہ کتر و خدایہ سزپاکی بیان صمسن نہ شامس۔ چنانچہ کینہہ کالاه گو تہ حضرت  
 محبی سپد پیدہ۔ تو پتہ یلہ سوووت بن شعورس اللہ تعالیٰ فرماوان اسہ فرموس لِيُغِيِبَ خُذِ الْكِتَابَ  
 بِقُوَّةٍ ای محبی کتاب یعنی توراتس کرزورہ تھپ۔ یعنی تھہ پیٹھہ کرزورہ عمل تمہ ساتہ تہ اوس  
 توراتھی کتب شریعت۔ انجیل اوسنہ ون نازل سپد مت وَآتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا بیہ کتر اسہ حضرت محبی  
 اَسْ نُبُوْت عطا لو کپارس منز وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا بیہ کتر اسہ عطا تس پنہ طرفہ  
 رقت قلب بیہ اخلاقن ہنزپا کیزگی بیہ اوس سو سیٹھاہ پر ہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا  
 بیہ اوس سو فرما نبردار، خد متگار ملس ماجہ ہند۔ بیہ اوس نہ سو مخلوقن نسبت سرکش تہ خالقن نسبت  
 نافرمان۔ پروردگارس لغہ اَسْ تمہ سیت مکرسم نہ محترم کہ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان تہندہ حقہ وَسَلَامٌ  
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا سلام بو سن تبن پیٹھہ تمہ دوہنہ تم زاسہ بیہ تمہ دوہنہ  
 تم تمہ عالمہ گڑھن بیہ تمہ دوہنہ تم مر نہ پتہ بیہ تلنہ بین زندہ سپد مت وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ بیہ

مَكَانًا شَرُوبِيًّا ۱۷ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا  
إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۱۸ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ  
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۱۹ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ  
لِيُؤْتِيَكَ عَلِيمًا زَكِيًّا ۲۰ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ  
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۲۱ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ

پاؤوڑیس قرآن مجید کس کس حصّے اندر قصہ حضرت مریمؑ لیاذنبذت من اولہا مکانا شروبیّا  
یلہ الگ روز سو پنہ نین گرہ کین لوکن نشہ الگ اس مکانس اندر نیس بیت المقدسکہ مشرقہ طرفہ  
اوس۔ ماہواری عذرہ نشہ پاکی ہند سران کرنہ خیطرہ فاتخذت من دونہم حجابا ترؤن آویزان  
تمن بہ پارکن ٹھور تہ ہمدہ ہتھ تھ ٹھرس تل روز تھ سو سران کرہ فارسلنا الیہا روحنا امہ پتہ یلہ  
سران کمر تھ موکلہ یہ، پلو لارگ اتی سوزاسہ تس نشہ ہن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام فتتمثل لہا  
بشرا سویّا یوہے روادہس برونٹھ کنہ انسان بنت در کمال حسن و جمال قالت انی اعوذ بالرحمن  
منک ان کنت تقیّا حضرت مرتس یلہ نظر پیہ تس پیٹھ۔ دہنہ لچ پناہ چھس یو منگان حضرت  
رحماتس ژہ نشہ، چھکے ژہ شریف تہ خدایس کھوژہ ون یمہ جایہ نش سید دور فوراً۔ تمن گنہہ راعیہ ماہتھو  
کانہ انسانی قال انما ان رسول ربک جبریل امین دوہس بانبرمہ، بوچھوس نہ انسان بلکہ چھس  
یوچانس پروردگارہ سندہ طرفہ سوزنہ آمت اکہ ماہہ اکہ لاهب لک علما زکیّا ہتھ بوژہ عطا کرے  
خدلیہ سندہ طرفہ اکہ فرزندہ اکہ نیس پاک و پاکیزہ تہ بندہ بون آسہ۔ یو دے آس منزیاتلس منز پھوکھ  
تمہ اثرہ سیت تہ خدلیہ سندہ حکمتہ سیت روزی ژہ ششمس منز حمل تو پتہ زیوی ژہ فرزندہ قالت انی  
یکون لی علم ولم یسسنی بشر ولم اک بغیّا حضرت مرتس دوہس مہ ہتھ پاٹھ بہ فرزند  
حالانکہ مہ چھونہ باقاعدہ کچھ کمر تھ اتھ تہ لوگمت کانہہ انسان و لکھتان بیہ چھسہ بوہد کارتہ آسموزانہہ  
قال کذالک جبریلان دوہس ہتھ پاٹھ کانہہ بشرہ سندہ تھپ کرنہ و رای سپدہ ژہ نشہ فرزند پیدہ بوہتھو

هُوَ عَلَى هَيْبٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ  
 أَمْرًا مُقْضِيًّا ۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۲۲  
 فَاجَاءَهَا الْبَخَّاسُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ  
 قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا  
 أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۲۴ وَهَزِي

سے نہ یہ پانہ و نان قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْبٍ بلکہ چون پروردگار چھو فرماوان ماس و رای ژہ فرزند  
 عطا کرن چھومہ نشہ سہل نہ آسان۔ یہ چھو چون پروردگار فرماوان کہ اس چھن یہ فرزند بلا اسباب  
 عادیہ پیدہ کران وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا بیچھ کرون سوا اس پنہ قدر تک اکھ نشانہ لوکن  
 ہندہ خیطرہ، یہ لوکن ہندہ خیطرہ پنہ رحمتک ذریعہ دنیا س اندر وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا اس فرزندہ  
 سند بے پدر پیدہ ہون چھو اکھ طے کرنہ امت امرہ، نیس ضرور عملہ اندر یہ یہ چھ کتھہ فیصلہ کرنہ  
 امر فَحَمَلَتْهُ پس تل حضرت مر سمن فرزندہ سند بار خود بخود، و چھان و چھان فَانْتَبَدَتْ بِهِ  
 مَكَانًا قَصِيًّا نیس کئیہ سو گھرہ نغمہ دور سو حمل ہیچہ الگ اس کو ہس نہ جھگلس منز فَاجَاءَهَا  
 الْبَخَّاسُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ یلہ وضع حملک دود شروع ہون س تم داد و اتا و سوا اس خضر کلہ کس  
 گوڈس تل اس تھزرس پیچہ، تھہ سیت ڈوکھہ و تھہ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا  
 نہین لے کاش بو کونہ موعے نیس امہ برو نھی، تا اینکه گمہ آسمانا بود، ژہیہ سی آسہ ہانہ کانہہ ناوی ہیہ  
 ہم نہ کانہہ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ہس دس آلو جبریل امین امہ تھزہ ہون کن اَلَا تَحْزَنِي قَدْ  
 جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا غمگین نہ آزرده منہ سہ۔ پز پاپ چان پروردگار کن کور ژہ ہون کن  
 اکھ ناگہ رادہ اکھ جاری سمیک آب اوس دواتن سارنی عوارضن ہند یم پریمہ وقتہ زمانن لاحق نہجہ  
 سہدان ہیہ سز سو خوش تمہہ ناگہ راڈک آب و چھت۔ طہیتس منز سہدس فرحت و سرور پیدہ۔  
 وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا بیہ وہ ژہ دن پانس کن خضرہ کلہ

إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝<sup>۱۵</sup>  
 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ وَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا  
 فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝<sup>۱۶</sup>  
 فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْبِيلُهُ ۖ قَالُوا أَيْمَرِيْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝<sup>۱۷</sup>  
 يَا خُتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا ۖ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۝<sup>۱۸</sup>  
 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝<sup>۱۹</sup>

کس گوئدس یہ تراوی تریہ پیٹھ پوپ پوپ تازہ خضر فکلی و اشربی و قرری عینا سم خضر کھہ ژہ، امہ  
 ناگک آب چہ ژہ، اس نندہ بانس فرزندس ن و بھت شہلا و پندہ آچھ۔ بہ تلن یہ فرزند کو جھہ کیتھ تو پتہ  
 گھہ پنہ نس توس نثرہ فاماترین من البشر احدًا ہر گاہ و تہ پکان کانہ انسانہ و چھہ بن، سو بہ ژہ  
 پر ژھن گارن فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیئا ژہ و پ تس اشارہ پاٹھ، مہ  
 چھو خدلیہ رحمانہ سدہ خیطرہ روزہ داری ہند نذر تھوومت بو پیمہ نہ کانسہ انسانس سیت از تھہ کمر تھہ  
 فانت بہ قومہا تحیلہ چنانچہ واژیہ فرزند ہتھ پنہ نس توس نثرہ، سو اوئس کھونہ کیتھ قالو ایمریم  
 لقد جئت شیئا فریا لو کو دو پھس ای مریم ژہ آکھ اھ عجیب کتھہ ہتھ، چاہہ ماس و رای یاخت  
 ہر و ن ما کان ابوک امر اسوہ و ما کانت امک بغیا ای ہمشیرہ ہارون ژے شریف زا و بھکھ نہ اوس  
 مول چون بچھ شخصہ نہ آس موج چان بدکاریہ کیاہ کوزتھ ژیہ فأشارت الیہ تو پتہ ہو و کھ  
 حضرت مر تھن اشارہ سیت اس فرزندس ن زہ اسسی پر ژھو قالو کیف نکلم من کان فی المہد  
 صبیئا تمو دو پھس اس تھہ پاٹھ گزوتھ کھونہ منزہ کس لوئس سیت۔ سم جھہ ونہ تے کتھ کران ام  
 فرزندن ہمیوہ کتھ کرن۔ قال انی عبد اللہ الہی الکتاب وجعلنی نبیا دوہن اے لو کو بیشک  
 یو چھوس خدلیہ سد خاص بندہ تم کرمہ عطا ہن کتاب بہہ کورس بو پیغمبر وجعلنی مبارکاً این  
 ما کنت بہہ کورس بو برکتہ و ول کیا زہ میانہ سیت و انہ لو کن دینی نفع۔ یتہ نس بوروزہ، یوت یوت

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تَابِعِي الْكَتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي  
 مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ  
 حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ  
 عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ  
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ  
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

ہووائے تیرے کرہ بواشاعت دین۔ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا بے کورمہ خدا میں تا کیدی  
 حکم نماز پر تک سے زکوٰۃ و تک بیوت کال بوزندہ چھوس و نیاس اندر وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي  
 جَبَّارًا شَقِيًّا بے کورنس بوجاہے ہند فرمانبردار، بے کورنس نہ بوزبردست سے بد بخت کہ خالقتہ سید  
 حقوق کرہ ہاترک یا والدہ ماجدہ سند یو حقو نوشہ کرہ ہاسر کشی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ  
 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا خدایہ سندہ طرفہ چھہ مہ پیٹھ سلام، سمدہ دوہنہ بوزاس بے سمدہ دوہنہ بومرہ بے سمدہ  
 دوہنہ بودوبارہ زندہ سپدت تھو دیمہ تلنہ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یوہے کیا گو حضرت عیسیٰ حضرت  
 مریمہ سند فرزند تمکن ہند احوال سے اقوال و نمنہ آئے سمدہ سیت تھند مقبول بندہ آسن ثابت سپدان چھو۔  
 نہ چھہ نصاریٰ ان ہنز تھہ صحیح کہ بندگی منزہ کڈ تھہ الوہیتس منزواتاوان۔ نہ چھہ ہنودن ہنز تھہ صحیح کہ  
 مقبول بندہ آسنہ نشہ کڈ تھہ تمبن پیٹھ بے شمار ہاژہ لاگنہ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ بیہ چھہ ہنز  
 تھہ پیٹھ منز لو کہ شک کران چھہ۔ نصاریٰ چھہ ونان بے عیسیٰ چھو خدایہ سند چو، حالانکہ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ  
 يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلٍ خدایہ سند شان چھو نہ کہ سو کیا بناوہ کانسہ ہن چو سُبْحَانَهُ سُو چھو اولاد آسنہ نشہ  
 منزہ سے پاک۔ تمسند شان چھو کہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سولیلہ ارادہ چھو کران ٹنہ  
 چیزہ کہ پیدہ کر تک سُو چھو نہ تھہ چیزس ونان کینہہ سے مگر لفظ کن یعنی پیدہ سپد، اتی چھو سُو چیز پیدہ  
 سپدان، از عدم بوجو دیوان۔ حضرت عیسیٰ سے کورن پیٹھ پانٹھ حکم کن پیدہ۔ چھتس باکمال خدا انس چو

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا  
 صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۳۷﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ  
 يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۸﴾  
 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا

آئِنٌ وَهُوَ عِيبٌ تَقْصَانٌ - وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ بے چھو بیشک میون تہ ٹھنہ پروردگار  
 اللہ تعالیٰ۔ پس کمر و تہزی عبادت ہذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ چھوہ سبب و تہ توحیدس پٹھہ پٹھہ  
 دلیل آسحہ باوجود فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ پس توحیدس انکار کمر تہ کمر الگ الگ و تہ  
 اختیار مختلف جماژو تموا اندرہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس افسوس تہن لوکن سمو  
 انکار کور۔ تہن لہمہ بڈہ دوہہ ضرور حاضر سپدن بیہ ملک الجبارس برو تہہ کن یعنی قیامتگ دوہہ اَسْمِعْ بِهِمْ  
 وَأَبْصُرْ کوتاہ آکن تم پور بوزہ دن تہ پور و چھہ دن تہہ دوہہ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ  
 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مگر از چھہ تم ظالم ذنیاس اندر تہہ گرا ہی اندر وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ  
 قُضِيَ الْأَمْرُ بیہ کمر و تہن نیم حسرت و افسوس کھہ ڈبگ یہہ دوہہ ہنم فیصلہ بیہ دنہ جلتن تہ دوزخین  
 برو تہہ کتہہ بیہ موئس کھش کرنہ۔ دوشوے بن بوزناونہ حکم خلود۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
 وینکنس ذنیاس اندر چھہ تم لو کہ غفلتس اندر بوڈمت تم چھہ پٹھہ کران آخر چھو تہن اکہ دوہہ مران  
 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پزپاٹھہ اسی چھہ پٹولا کہ ساری زینک وارث۔  
 بیہ تہن سارنی لوکن ہدہ تم اتھہ زمینس پیٹھہ چھہ۔ بیہ چھو سارنی پٹولا کہ اسی کن واٹن تہ رجوع کرن۔ تو  
 پتہ کھن تم سزا شرک تہ کھرک وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْبُرْهَانَ بیہ کمر و لوکن لٹہہ ذکر قرآن مجیدس  
 اندر نیس قصہ حضرت ابراہیمہ سُنَدٌ چھو بیٹھہ تہن توحید و رسالتگ قصہ پور منکشف سپدہ إِنَّهُ كَانَ

يُرْجَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا ﴿۳۱﴾ اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يَا بَتِ اَلَيْسَ لَكَ عِبْدٌ مَّا لَا يُبْصِرُو  
 لَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۳۲﴾ يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُ مِنَ الْعِلْمِ مَالًا  
 يَاتُكَ فَاتَّبِعْنِي اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۳۳﴾ يَا بَتِ اَلَتَعْبُدُ الشَّيْطٰنَ  
 اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۳۴﴾ يَا بَتِ اِنِّي اَخَافُ اَنْ  
 يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۳۵﴾ قَالَ اَرَاغِبُ

صِدِّيقًا نَبِيًّا بیشک آس تم پر تھہ کتھہ منز پوزونہ ون۔ یہ آس پیغمبر اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يَا بَتِ اَلَتَعْبُدُ  
 مَّا لَا يُبْصِرُو وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا یلہ تمو فر موو مالس پنہ نس، نیس مشرک اوس اے میانہ  
 بابہ ژہ کیا زہ ہتھکھ پر ستش کر ان تمن پو تلین ہنز تم نہ کینہہ بوزان چھہ یہ تم نہ کینہہ و چھان چھہ یہ  
 سمنہ کتھہ کامہ بکار یوان چھہ، کینہہ کمر تھہ بیگان چھہ۔ مُراد چھو امہ منزہ پوتل۔ حالانکہ ہر گاہ تم پوتل  
 و چھہ کن تہ بوزہ کن تہ کتھہ کامہ تہ لگ کن توتہ آس نہ تم قابل پر ستش کیا زہ واجب الوجود آس نہ۔ و ون  
 چھہ کتھہ تھہ حاس اندر يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جِئْتُ مِنَ الْعِلْمِ مَالًا يَاتُكَ فَاتَّبِعْنِي اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا  
 ای میانہ بابہ میہ نشہ چھو و تھمت خدایہ سدہ طرفہ اکھ علامہ۔ نیس نہ ژہ نشہ ووت تھہ منزہ غلطی ہند کتھہ  
 قسمہ احتمالے چھو۔ ژہ چھہ نہ بیج خبری۔ لہذا پھتہ ژہ میانہ و تہ۔ میان متابعت کرتہ۔ بو ہادہ ہے  
 سبز و تھہ یعنی توحید و تھہ يَا بَتِ اَلَتَعْبُدُ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ای میانہ بابہ متہ  
 کرتہ شیطانہ سبز پر ستش یعنی شیطانہ سدہ و ونہ موجب پو تلین ہنز پر ستش۔ ہنز پاتھہ یہ شیطان چھو  
 او سمٹ گوڈہ پیٹھہ خدایہ سندا نافرمان لہذا شو بیا مسز بیروی کرن يَا بَتِ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ  
 مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ای میانہ بابہ مہ چھہ تھہ ژہ گو ژھوی نہ حضرت رحمانہ سدہ  
 طرفہ کانہہ عذاباہ و لہ کن نیس گتھہ سمنہ ژہ شیطانہ سندا رفیق بن عذابس اندر قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ  
 الرَّحْمٰنِ يَا اِبْرٰهِيْمَ تم مال و ونس توراہی ابراہیم ژہ چھکھ میانین معبودن نشہ تھہ بھران کین گو



أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا بَرَاهِيمَ لِيَنْ لَمْ تَنْتَهَ لَارْجَمْتِكَ وَالْهَجْرِي بِلِيَا ۳۶  
 قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۳۷  
 أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا  
 أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۳۸ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۳۹  
 وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۴۰

تَنْتَهَ لَارْجَمْتِكَ وَالْهَجْرِي بِلِيَا ہر گاہے تہ اُمہِ نِسۡہِ ہتھ روز کھ گنہ لای لای گرتھ بوسنگار۔ چھٹے پان  
 بچوان تلہ روز مہ نِسۡہِ کینہہ کالاہ دور قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا حضرت  
 ابراہیمؑ دو بھس میانہ طرفہ چھ سلام۔ توتہ معکھ بوجانہ خیطرہ پنہ نِس ہر دگار س مغفرت۔ بیشک سُو  
 چھو مہ پیٹھ سینٹھا مہ ربان وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي  
 شَقِيًّا بوروزہ الگ اکھ توہمہ نِسۡہِ بیہ تم ن تہمہ عبادت کران چھوہ معبود بر حقس ورا۔ توپتہ کرہ بو  
 اطمینانہ سان الگ رُوزت پنہ نِس پروردگارہ سنز عبادت۔ بیہ چھ امید کہ بوروزہ نہ پنہ نِس  
 پروردگار س عبادت کمرت محروم تہ نامر ادبچھ پاٹھ ہت پرست پنہ نین باطل معبودن پرستش کمر تھ  
 محروم تہ نامر ادبچھ روزان۔ یہ کھ باتھ کمر تھ سپد تم ن نِسۡہِ علیحدہ ملک شامس گن کمر کہ ہجرت فلَمَّا  
 أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ادہ یلہ حضرت ابراہیمؑ تم ن نِسۡہِ بیہ تم نین معبودان باطلن  
 نِسۡہِ، بہنز تم معبود بر حق تراوتھ پرستش کران آس جد اہدت تمہ شہرہ نِسۡہِ ہجرت کمر وَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا عطا کور اسہ حضرت ابراہیمؑ دو ستم فرزند اسحاق بیہ فرزندہ سُنَد  
 فرزند یعقوب علیہ السلام۔ بیہ کمر اسہ تم دو شوے صاحب پیغمبر۔ تم رفاقتہ خیطرہ ہت پرست برادری  
 خوتہ بہتر آس۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا بیہ کمر اسہ تم ن واریاہ قسمک کمالات عطا کمرت پنہ  
 رَحْمَتِكَ اکھ حصہ عطا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بیہ کور اسہ آئیدہ لسلن اندر تہمہ ناونیک تہ

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝۵۱  
 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲  
 وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ  
 إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝۵۴  
 وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵  
 وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ

بند۔ ساری آسن تعظیمہ سان تہمند ذکر خیر کران۔ اسحق علیہ السلامس برونٹھ اوس اسمہ تمین گوڈنیک  
 فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کورمت۔ تمین اندرتہ آس تے صفات۔ تہمند ذکر پیہ برونٹھ مہن  
 وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ پیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس منز حضرت موسیٰ سند قصہ۔ یعنی سؤکمر ولوکن  
 نشہ بیان إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا تم تہ آس پیز پاتھ خاص کرنہ آمت بندہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا پیہ آس  
 تم رسول تہ تہ نبی تہ تمین آس سم دوشوے شان وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ  
 نَجِيًّا پیہ دیت اسمہ تمین نادکوہ طورہ کہ دچھنہ طرفہ کن۔ پیہ گرہ اسمہ تمین سیت سیزہ تھہ پانس نکھ  
 انتھ۔ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا پیہ کور اسمہ تمین پنہ مہرانی سیت تہمند براڈر ہارون  
 علیہ السلام پیغمبر بناوتھ عطا تہمندہ درخواست کرنہ موجب تہمندہ مددہ خیرہ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ  
 إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا پیہ کمر ولوکن نشہ ذکر قرآن مجیدس اندر  
 اسماعیل علیہ السلام سند حال۔ بیشک تم آس وعدہ پیز گروہون۔ پیہ آس تم رسول تہ نبی۔ تمین تہ آس  
 دوشوے شان وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا پیہ آس تم پنہ نس عیالس  
 حکم کران نماز پر نک پیہ زکوٰۃ و نک۔ پیہ آس تم پنہ نس پروردگارہ سند مقبول بندہ وَأَذْكُرُ فِي  
 الْكِتَابِ إِدْرِيسَ پیہ کمر و قرآن مجیدس اندر حضرت ادریسہ سند حال لوکن نشہ بیان۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا بیشک آس تم سینٹھ پیزیر پیغمبر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا پیہ واتا و اسمہ تم کلماتن اندر تھدس

مَكَانًا عَلِيًّا ۵۵ اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  
 مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ  
 وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِ  
 الرَّحْمَنِ خُرُوعًا وَسَجْدًا وَبِكَيْسًا ۵۶ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  
 أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ عَذَابًا ۵۷  
 الْإِمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

مرتبس تھڑہ جلیہ اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ سے پیغمبر گئے تم تم سے اللہ تعالیٰ ان سے  
 انعام کور عطا پیغمبر و اندرہ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ تم ساری پیغمبرہ ہجھہ حضرت آدمہ سندہ ذریۃ اندرہ  
 وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ بیہ تمواندرہ تم اسہ کھارناوہ اندر حضرت نوح سے۔ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ  
 بیہ حضرت ابراہیمہ سزہ ذریۃ اندرہ وَإِسْرَائِيلَ بیہ حضرت یعقوب سندہ ذریۃ اندرہ وَمِمَّنْ  
 هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا بیہ تمواندرہ تم اسہ و تھ ہا، بیہ تم اسہ مقبول تہ برگزیدہ کمر، باوجود امہ مقبولیتہ  
 آس تم بندگی اندر تھ مہمبک کہ إِذِ اتَّخَذْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خُرُوعًا وَسَجْدًا وَبِكَيْسًا یلہ تم پیٹھ  
 حضرت رحمانہ سید آیات پر نہ آس یوان تان آس تم بکمال عاجزی و انکساری سجدہ و وان۔ و دان و دان  
 ز مینس پیٹھ کلہ تراوان۔ پٹن پان بتر تھ و وان فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ تو پتہ  
 آے تم پتہ تھبہ بعضی خلف سمو نماز برباد تہ ضائع کر۔ خواہ اعتقاداً انکار کرنہ سیت خواہ عملاً سمو ادا  
 کرئس اندر کوتاہی کرنہ سیت یا تمہہ کین ضروری حقوق تہ آدابین اندر کوتاہی کرنہ سیت۔ وَاتَّبَعُوا  
 الشَّهْوَاتِ بیہ کرکھ ناجائز نفسہ چن خواہش ہنز پیروی فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ عَذَابًا پس وہن تم  
 عنقریب آخرتس منزج خرابی، خواہ ابدی خواہ غیر ابدی الْإِمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُلَظْمُونَ سَيِّئًا مگر سمو کفر و معصیۃ نشہ توبہ کر تھ ایمان اون تہ رتھ عملہ  
 کرکھ، پس تم لوکھ واتن جنتس اندر کتھ منج خرابی و جھنہ و رای۔ بیہ تیکھنہ ظلم کرنہ کتھ قسمہ۔ جَدَّتْ

الْحِجَّةَ وَلَا يُظَلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَدَّتْ عَدْنُ إِلَاتِي وَعَدَدُ  
الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۗ لَا يُسْعَوْنَ  
فِيهَا الْعَوَّا إِلَّا سَلْمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ  
تِلْكَ الْحِجَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۗ  
وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا  
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۗ رَبُّ السَّمَوَاتِ

عَدْنُ إِلَاتِي وَعَدَدُ الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا تمّن جنّ من زواجن سمّن منز  
همیشه روزن آسکھ۔ سمّن جنّ ہند حضرت رحمان پنہ نین سیت وعدہ کورمت وھو غائبانہ۔ ہنز پاٹھ  
تہند وعدہ وھو پورہ کرنہ آمت یعنی تمہہ کس پورہ سپنس اندر وھونہ شمش کا نہہ لایسعون فیہا العوا  
تمّن جنّ من زبون نہ تم کا نہہ بیہودہ کتھاہہ إِلَّا سَلْمًا مگر پریتھ طرفہ آسن سلائے سلامہ۔ پانہ وان  
تہ سلائے ملائک ہندہ طرفہ تہ سلائے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تہندہ خپرہ وھو تمّن جنّ  
اندر کھین تہند، صمّس تہ شامس تہ تِلْكَ الْحِجَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا تہ جنت  
سمّن ہند ذکر کرنہ آؤ کرو اس عطا ورش پاٹھ پنہ نیوبند واندردہ تمّن تم شانت تہ پر ہیزگار آسن وَمَا نَنْزِلُ  
إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جبریل امینہ سندس پیش منز سپد کینہہ کالاہ تاخیرتہ کافر وھیت طعنہ دن، نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک سپد آزدردہ۔ تمہہ پتہ یلہ جبریل امین آؤ تمور پر ژھس تاخیر رک سبب اللہ  
تعالیٰ ان فرمود جبریل امینس ژہ ون امیک جواب کہ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آسن نہ حض وھنہ  
ز مینس پیٹھ وسان مگر تہندس پروردگارہ سندس لحمہ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ تہ  
سوزی یہ آسہ بروٹھ کنہ وھو آیندہ، بیہ یہ آسہ پتہ کنہ وھو گزشتہ و قس اندر، بیہ یہ اتھ در میان وھو  
موجودہ و قس اندر، سارکوی وھو خدا افس پور علم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا بیہ وھونہ پروردگار تہند کا نہہ چیز  
مشر اوہ ون رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سُوی وھو مالک آسمان تہ زمین ہند بیہ یہ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ﴿۵۸﴾ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿۵۹﴾  
 أَوْلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿۶۰﴾  
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّاهُمْ وَالشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿۶۱﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿۶۲﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿۶۳﴾ وَإِنْ

تعمّن منزاگ چھو فأعبده واصطبر لِعبادته پس کمر و تہزی عبادت تہ پر ستش۔ تہنز عبادت کرنس اندریم تکلیف واتوہ تمّن پیٹھ کمر و صبر هل تعلم له سئيًا کيازه چھو ہنہ ہرزاناں تہند کانہ ہم صفحہا۔ سو چھو سوئی تہس ہیو چھو نہ کانہ تہ۔ تہس یاژ عبادت کرن چھہ لازم وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا بیہ چھو بیہ انسان لہنہ قیاق چھہ چھہ، دنان کياہ یلہ بومرہ توپتہ سہما بو قبرہ منزہ بیہ زندہ کمر تھ نبر کڈنہ أَوْلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کياہ بیہ انسان چھنا پاوان ژ تہس کہ اسہ کوریہ پیدہ برو نھہ حالانکہ بیہ اوسنہ کنہی عدم محضہ منزہ یلہ اسہ توگ سو و جو دس اندر اُن مرنہ پتہ بیہ دوبارہ زندہ کرن کياہ عجایب چھو فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّاهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا تہندس پرورد گارہ سُنْد قسم اَس کرو کہ تم قیامتگ دوہ بیہ پیدہ، توپتہ سونبر اوو کہ تم ساری انسان بیہ ساری شیطان توپتہ انوکہ اَس تم ساری تھاوو کہ حاضر جہنمس اُتو اُتہ بیہتہ سیت اَسن تم کوٹھن پیٹھ روز تھ، روز تھ گیمت ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا توپتہ کڈو کہ الگ پریتھ جماعتہ منزہ تم تم اشخاص تم تمواندرہ آسن حضرت رحمانہ سند زیادہ نافرمان تہ سرکش بیٹھ تم گوڈنی بن نارس منز دار تھ دنہ اسہ چھنہ ضرورت تمّن متعلق تحقیقات کرنچ کُتھ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا کيازه اسہ چھو پور علم تمّن لوکن ہند تم جہنمس واتس زیادہ سزاوار چھہ وَإِنْ مِنْكُمْ الْأَوْلَادُ هَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَقًّا مَقْضِيًّا بیہ چھو نہ کانہ اکھاہ توہہ اندرہ لہنہ

مِّنكُمْ إِلَّا وَاوَدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي  
 الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۖ وَإِذْ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ  
 ائْتِنَابِي ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  
 خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ  
 أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْمًا ۖ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلْيَدُدْ لَهُ  
 الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا

پیکرِ امیرِ جهنم کن۔ یہ ہتھو تھندس پروردگارہ سندہ وعدہ موجب اکھ لازم منوکلہ، اکھ معاملہ اُس ضرور  
 پورہ سپدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا تو پتہ دمواس نجات تمن لوکن تم پتھ روڈوگرہ نشہ شر کہ  
 نَشْرٌ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا باقی تراووکھ اس تھتھ جھنمسن اندر ظالم یعنی کافر ہمیشہ روزنہ خیطرہ  
 تُبَدِّلُ شَرَّ تھتھ وَإِذْ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ ائْتِنَابِي ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا  
 وَأَحْسَنُ نَدِيًّا یہ بیلہ پر نہ یوان چھہ تمن مُکَرَن بروٹھ کنہ سائہ نندہ دلیلہ تہ واضح آیات ونان چھہ  
 کافر تہ مُکَر بالیمان تہ پڑھہ والین اسہ تہ توہہ منز کوسہ جماعت چھہ بہتر جایہ کن بہ کوسہ جماعت چھہ رث  
 مجلسہ کن۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خانہ گی تہ مجلسی سازوسامان وغیرہ چیزن اندر چھہ اس تھہ تھندہ خوتہ۔  
 دو تم تھہ چھہ یہ کہ محبوبی چھو کھیاونہ تہ چاونہ یوان امہ منزہ چھو ثابت سپدان کہ اسی چھہ محبوب خدا اُس  
 نَشْرٌ تہ تھہ چھوہ مردود۔ اللہ تعالیٰ چھو یہ ہندس ونہ اُس روڈوکران۔ فرماوان چھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن  
 قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِعْمًا اَسہ چھہ کاژاہ جماژ ہلاک تہ تباہ گر عزمہ سمہ تمن بروٹھ آسہ۔ تمہہ تہ  
 آسہ سازوسامانہ کن تہ ظاہری صورتہ کن اہندہ خوتہ تہ رثہ۔ دو تم جواب گو قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَاةِ  
 فَلْيَدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا فرماو یوکھ تھہ تم لو کہ گمراہی منز چھہ یعنی تھہ ای کافر و اُس تراوان چھو تمن  
 بیلہ حضرت رحمان پورہ پاٹھ یعنی مہلت چھو کہ دوان بٹھ تمن ناڈ بر نہ یہہ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ  
 تا ییکہ بیلہ و تھن تم تہ سوزوی تمیک تمن وعدہ یوان چھو تھاونہ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّعَاةَ ادہ سُو

السَّاعَةَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٥٥﴾  
 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْعَاتُ الصَّالِحَةُ  
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٥٦﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ  
 بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٥٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ  
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٥٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَعُدُّ لَهُ مِنَ  
 الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٥٩﴾ وَتَرْتَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٦٠﴾ وَأَخَذُوا

دنیاء ک عذاب آسہ یا قیامت آسہ فیسئلون من هو شر مکانا و اضعف جندا نہس سچہ تمن  
 زان کوہ و تھو خراب تہ پیچہ جاہہ کن بیہ تمہہ چھو بالکل کمزور لشکرہ کن تہ مددگارون کن ویزید اللہ الذین  
 اھتدوا وھدی بیہ چھو ہرہ او ان اللہ تعالیٰ سیزہ و تہ پیٹھ پکھ و نین ہدایت نہس سرمایہ نجات و تھو  
 و البیعات الصلیحہ خیر عیند ربک ثوابا و خیر مردا بیہ چھہ تمہہ رتہہ کامہ ستمہ روزہ و تہ چھہ بہتر  
 تھندس ہر روز دگار س نشہ ثوابہ کن بیہ چھہ تمہہ بہتر انجامہ کن اقرعیت الذی کفرہ بالیتنا و قال  
 لاوتین مالاً و ولدا کیاہ توہہ و چھو تہ شخصہ سہ حال سہ سائین آیتن انکار کورہ و نان و تھو سو ٹھٹھہ  
 پاٹھ مہہ پیہ آخرتس منزتہ مال تہ اولاد عطا کرنہ۔ غرض اسمزہ حالت تہ چھہ قابل تجبہ اطلع الغیب  
 ام اخذ عند الرحمن عھدا کیاہ سناہہ چھا غیبس پیٹھ مطلع سپد مت بندہ ام چھو حضرت رحمانس  
 نہہ کا نہہ عمدہ حاصل کورمت اتھہ کتھہ پیٹھ کلا ہرگز نہہ چھو محض غلط و نان سنکتب ما یقول  
 اس چھہ لیکتھ تھوان اسمزہ تھہ تمن کھن پیٹھ تہ نہس سزا دتہ۔ و عدلہ من العذاب مددا اس  
 و موسیٰ تھہ ز تھہر اسمدس عذابس اندر و ترته ما یقول و یاتینا فردا بیہ چھہ اسی وارث تہ مالک  
 تمہہ سارکی سیمک یہ و نان چھو یعنی مال تہ اولاد۔ سوادتہ آسہ نشہ ٹکوی زون۔ نہ آسہس مالی سمیت نہ  
 آسہس اولادی سمیت و اخذوا من دون اللہ الہا لیکونوا الھم عزا بیہ چھہ سمومشر کو خدا نہس و رای  
 معبود مقرر کمر مت یچھہ تم بن تھہد حامی تہ مددگار کلا تہ ہرگز نہہ نہ سیگمرون بوجادیتھہ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ  
 بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ ﴿۸۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ  
 عَلَى الْكٰفِرِينَ تُوۡرَهُمۡ آزًا ۗ ﴿۸۳﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عٰدًا ۗ ﴿۸۴﴾  
 يَوْمَ نَحۡشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحۡمٰنِ وَفَدًا ۗ ﴿۸۵﴾ وَنَسُوۡقُ الْمُجۡرِمِينَ  
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرَدًا ۗ ﴿۸۶﴾ لَا يَسۡلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنۡدَ  
 الرَّحۡمٰنِ عَهۡدًا ۗ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمۡ شَيْئًا

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا بلکہ کرن تم ضرور انکار تمہزہ پر ستھہ بیہ آسن تم تہدہ مخالفت تہ دشمن۔ تہہ  
 جہوہ کافرنا ہنزہ گمراہی پیٹھ نمگین سپدان۔ اَلَمْ تَرَ اَنَا اَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تُوۡرَهُمۡ آزًا کیاہ  
 توہہ جہنا معلوم کہ آسہ جہہ ہنر وومت شیطان کافرنا پیٹھ سم تمنا کفر وگمراہی تہ نافرمانین پیٹھ آمادہ  
 کران جہہ، تلان جہہ، ٹس پائے دشمن بد خواہنہ سدہ وننہ موجب پچہ تہند شو بیانم کیون۔ فَلَا تَعْجَلْ  
 عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عٰدًا پس مہ کرو تہہ درخواست تہدہ جلدی عذابس گرفتار سپدنہ خپترہ، اس جہہ  
 تہزہ کتھہ سمنا تھن پیٹھ تمنا عذاب پیہ کرنہ پانہ گنر راوان۔ سُوۡعٰبِۢیۡہ کرنہ تمنا تہدہ دوہنہ یَوْمَ  
 نَحۡشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحۡمٰنِ وَفَدًا سمہ دوہنہ اس متقی تہ پر ہیز گار مہمان ہند پانہ جمع کرو کہ عزتہ  
 سان، حضرت رحمانہ سدس مہمان خانس اندر چھاژو چھاژو وَنَسُوۡقُ الْمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرَدًا بیہ  
 سمہ دوہنہ پکناو کہ کمال خواری اس نافرمان جہنمس گن تریشہ تریشہ کران۔ لَا يَسۡلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا  
 مَنِ اتَّخَذَ عِنۡدَ الرَّحۡمٰنِ عَهۡدًا اختیار آسہ نہ کانسہ کس شفاعت تہ سفارش کرنگ مگر کس سم  
 حضرت رحمانس نش کانسہ عہدہ تہ اجازت حاصل آسہ کورمت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا بیہ جہہ  
 سم کافر وناں حضرت رحمانس جہہ اولاد۔ نصاریٰ جہہ وناں عیسیٰ علیہ السلامس، یوود جہہ وناں عزیز  
 علیہ السلامس، مٹرکین عرب جہہ وناں ملائکس، سم جہہ خدایہ سد پچو تہ کورہ لَقَدْ جِئْتُمۡ شَيْئًا اِذَا





بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿۹۰﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُخِشُّ  
مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْعُ لَهُمْ رُكُزًا ﴿۹۱﴾

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُخِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْعُ لَهُمْ رُكُزًا <sup>بیتہ کا شاہ جہاڑ نا فرمان ہنرہ</sup>  
 کرہ آسہ ہلاک تہ تباہ از کین نا فرمان بروٹھ۔ ٹہہ چھوہ لبان تمواندرہ کانڑ شاہ یا چھوہ یوزان تہندہ کوتہ  
 لوتہ پکچ آوازہ ٹہند نام ونشان تھوونہ آسہ کٹہ۔ پٹھہ پاٹھہ سم ٹہنز مخالفت گرن سمکن تہ بہہ تہنزی باش۔  
 خوش روزو۔





الْحُسْنَى ۵ وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ۶ إِذْ رَأَانَا فَقَالَ  
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلَىٰ إِيَّتَيْكُمْ مِّنْهَا يَنْقَبِينَ أَوْ  
 أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۱۰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَى ۱۱ إِنِّي أَنَا  
 رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۲  
 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۱۳ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۱۴ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى بے چھا توہمہ ای محمد و اثر مشر موسیٰ علیہ السلام سیدہ تسبیح خبر۔ سو قصہ چھو  
 بوزنس لایق۔ تھہ منزجہ توحیدس متعلق علوم، سمن ہند تبلیغ کرون نفع دودون چھوئیس ہتھہ پاٹھ واقع  
 سہمت چھو۔ إِذْ رَأَانَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلَىٰ إِيَّتَيْكُمْ مِّنْهَا يَنْقَبِينَ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ  
 هُدًى بیلہ تموو چھہ دورہ اکھ نارہ بیلہ تم شہر مدینس نشہ واپس یوان آس و تہ لچھہ راتھ بے لچھہ  
 سردی نئس دوچھہ عمیالس پنہ نئس تہہ ٹھہرہ بیتہ تھی۔ مہ اولہنہ نارہ نئس نوروس مگر شکل آس  
 نارچ۔ بوگرھہ تھہ جایہ دیوہ بوتورہ نہ تمہہ نارہ منزہ تہنہہ خیطرہ تنیکلہ بٹھہ سردی ہند  
 علاج سیدہ ہالبہ بونارچہ جایہ پیٹھہ کانہہ و تہ ہاوکھہاہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَى اودہ بیلہ سوتھہ نارس کھہ  
 ووت، آواز گیس خدلیہ سیدہ طرفہ ای موسیٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ نارچھنہ یارچھو۔ بیشک بوچھوس پروردگار  
 چون فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى پس بڈو کھور و آندرہ نعلین ہن کیا زہ تہہ چھہ پاک  
 میدانس اندر بیتھہ ناوچھو طوی۔ نعلین تہنہ چھنہ پاک سوچھہ مستعمل۔ کھوربانہ اگر پاک آسہ تمہہ سان  
 نماز پر ن چھہ جایز مگر ہر گاہ مستعمل تہ ناپاک آسہ تیلہ چھنہ تمہہ سان نماز جایز۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ  
 فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ مہ کسر موہ تہہ باقی لو کو آندرہ پیغمبری خیطرہ فُتخَب۔ نئس بوزو وارہ تم احکام سم  
 توہمہ کن سوزنہ بین إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي بیشک بوی چھوس معبود  
 برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ مہ ورا۔ نئس کسر و میانی یا اثر پرستش۔ بے تھاوو نماز پر پامیانہ یادہ خیطرہ۔

اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿۱۵﴾ فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا  
 مِنْ لَابِئُونَ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرُدِّي ﴿۱۶﴾ وَمَاتَلِكَ بِمِثْلِكَ يُوسَى ﴿۱۷﴾  
 قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْبُشْ بِهَا عَلَى غَمِّي وَلِي فِيهَا  
 مَارِبٌ اٰخْرٰى ﴿۱۸﴾ قَالَ اَلْقَهَا يُوسَى ﴿۱۹﴾ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ  
 تَسْعٰى ﴿۲۰﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى ﴿۲۱﴾  
 وَاخْمُمُ يَدَاكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيِّضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ اِيَّةٌ

دو تم تھ چھ یہ کہ اِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا پتر پاٹھ قیامت چھ ضرور یوہ دن۔ بو چھوس  
 سو مخلوقن نشہ کھٹت تھاون یڑھان۔ سو قیامت بیہ سمہ موکھ لَتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى مُتھ  
 پریتھ اکھاہ بدلہ حاصل بیہ کمر تھ تمہ سار گوی سمہ خیطرہ سو اورہ یور سعی و تلاش کران چھو  
 فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا مِنْ لَابِئُونَ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرُدِّي پس مہ رٹنے ژہ پتھ تمہ قیامتہ فکرہ لغہ سو  
 شخص تمس نہ نہ پڑھی چھ۔ بیہ چھو سونفچہ خواہشہ ہنز بیروی کران، ہر گاہ ژہ تم ڈو لکھ ادہ کوشھ ژہ  
 تباہ وَمَاتَلِكَ بِمِثْلِكَ يُوسَى ای موسی یہ کیاہ چھو توہہ دچھن اٹھس کیتھ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا  
 عَلَيْهَا وَاهْبُشْ بِهَا عَلَى غَمِّي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ اٰخْرٰى تمبو ڈوپ خدایا بیہ چھمہ پن لورہ ہن۔ بیہ چھن  
 بوٹنہ ڈکھراوان۔ بیہ چھس بوٹنہ ای سیت پنہ نین تیرن ہندہ خیطرہ پن چھانان۔ بیہ تہ چھمہ مہ اتھ منز  
 واریاہ مطلب قَالَ اَلْقَهَا يُوسَى اللہ تعالیٰ ان فر مووس ای موسی یہ لور تراوان اتھ منزہ زمینس  
 پیٹھ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى پس تراوان اتھ منزہ سنو لور۔ اتی بیووتھ ہجھ مچھ سرفاہ دورہ  
 دور کران۔ موسی علیہ السلام کھوژ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى اللہ تعالیٰ ان  
 فر مووس کمر یوس تھہہ، کھوژومہ۔ تھپ کرہ ونوی نمون اس یہ بیہ گڈ نکس حالتس کن۔ یعنی یہ سپدہ  
 بیہ لور۔ اکھ قدر تک نشانہ گویہ۔ امہ پتہ کرودہ عطا قدر تک بیا کھ نشانہ۔ وَاخْمُمُ يَدَاكَ اِلَى جَنَاحِكَ  
 تَخْرُجُ بَيِّضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ اِيَّةٌ اٰخْرٰى بیہ تھاووہن دچھن اتھ پنہ نس کھو فرس کڑھس منز سونیرہ

اٰخِرٰى ﴿۳۳﴾ لِزَيْكٍ مِّنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ اِذْ هَبَّ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّكَ  
 طَغٰى ﴿۳۵﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ﴿۳۶﴾ وَبَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ ﴿۳۷﴾ وَاَحْلِلْ  
 عُقْدَةَ مِّنْ لِّسَانِىْ ﴿۳۸﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِىْ ﴿۳۹﴾ وَاجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ  
 اَهْلِىْ ﴿۴۰﴾ هٰرُوْنَ اَخِىْ ﴿۴۱﴾ اَشْدُدْ يَدِىْۤ اَزْرِىْ ﴿۴۲﴾ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ ﴿۴۳﴾  
 كِىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿۴۴﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿۴۵﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا  
 بَصِيْرًا ﴿۴۶﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿۴۷﴾ وَلَقَدْ مَنَّا

تورہ سیٹھا سفید روشن۔ پتہ نہ گره و ن کنہ عیبہ و رای۔ یہ جھو دو ستم مجزہ۔ ہم دوشوے مجزہ سانہ  
 قدر تک تہ تہندہ نیو تک ستم کمر اسہ توہمہ عطا۔ لِزَيْكٍ مِّنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى بٹھ اس توہمہ ہاودہ پتہ  
 قدر تہ کیوڈ یونغانو آندرہ بعضہ نغانہ اِذْ هَبَّ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّكَ طَغٰى سبے پتھ گہ ہو پتھ فرعونس نشہ، پتہ  
 پاٹھ تم پتھ سر کشی کمر مرث۔ تم جھو د عوائے خدائی دتتمت۔ موی علیہ السلا مس سپد معلوم کہ نو سمہ  
 سوزنہ پیغیر فرعونس فہمالش کرنہ خیطرہ۔ تمو کور دعا کہ پروردگار ائمہ تھدہ مصبک مشکات کر تہ مہ  
 سہل تہ آسان قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ \* وَبَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ تمو ڈوپ ای میانہ پروردگارہ میون حوصلہ  
 کر سیٹھا وسیع بیہ کر میان کوم۔ تبلیغ کزن آسان میانہ خیطرہ وَاَحْلِلْ عُقْدَةَ مِّنْ لِّسَانِىْ \* يَفْقَهُوا  
 قَوْلِىْ بیہ مژراو پتھہرک گنڈ میانہ زیوہ نشہ بٹھ لوکھ میان تھہ وارہ بوزن وَاَجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ  
 اَهْلِىْ \* هٰرُوْنَ اَخِىْ \* اَشْدُدْ يَدِىْۤ اَزْرِىْ بیہ کرتہ میانہ خیطرہ میون مددگار میانی خاندانہ منزہ  
 کانزہاہ۔ ہارون، نیس میون بوی جھو۔ تہمدی سمیت در روا تہ میان تھہ تہ میون قوت وَاَشْرِكْهُ فِىْ  
 اَمْرِىْ بیہ کزن سو میون شریک میانہ تبلیغہ چہ کامہ اندر یعنی سوتہ بناون پیغیر۔ تمس تہ کر حکم تبلیغ  
 کر تک كِىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا بٹھ اس دوشوے چون تسبیح آسو تبلیغہ وقتہ زیادہ کران وَنَذْكُرَكَ  
 كَثِيْرًا بیہ آسو چون یاد زیادہ کران اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا بیشک تہ جھوک سون حال وارہ و پتھ  
 وَن قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوْسٰى اللہ تعالیٰ ان فر مووس ای موی تہمہ اودہ عطا کرنہ یہ تہمہ

عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿۳۷﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿۳۸﴾  
 أَنْ اقْدِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ  
 بِالسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ وَأَلْقِيَتْ عَلَيْكَ حَبَّةً  
 مِّنِّي ۗ وَلِصْنَعِ عَلِيٍّ عَيْنِي ﴿۳۹﴾ إِذْ تَمْشِي أَخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ  
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  
 وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغُورِ وَوَقَلْتَ

منگان چھوہ۔ رب اشرح لی پیٹھ۔ تم گئے تم چیز تین ہند توہمہ درخواست کروہہ وَاَقْتَدَمْنَا عَلَيْكَ  
 مَرَّةً أُخْرَى پز پاپاٹ آہ چھو توہمہ پیٹھ بیہ کثرتہ احسان کورمت نہمدہ درخواستہ درای إِذْ أَوْحَيْنَا  
 إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ یلہ آہہ الہام ترود نہمزہ ماجہ والدس نہمدہ زینکہ وقتہ سوکتھ یوسہ الہامہ پاشی  
 وَاَتَانَهُ يَوْمَئِذٍ بِحَبَّةٍ مِّنِّي ۗ قَالَ فَمَنْ حَزَنَهُ فَمَنْ حَزَنَهُ فَمَنْ حَزَنَهُ فَمَنْ حَزَنَهُ فَمَنْ حَزَنَهُ  
 ہند یو اتھو نہ۔ یہ تھاون صندوقس منز توپتہ تراون سو صندوق دریاوس منز فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ  
 يَا خُذْهُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ توپتہ واتہ ناوہ دریاء صندوقس پٹھس سیت۔ پتولاگس رٹہ اش اکھ  
 میون دشمن۔ بیہ تھوند دشمن وَأَلْقِيَتْ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي بیہ ترودمہ توہمہ پیٹھ پنن محبت۔ یعنی کس  
 توہمہ کن وچھان اوس کس اوس نہمد محبت گروہان وَلِصْنَعِ عَلِيٍّ عَيْنِي بیہ پیٹھ نہمہ رچھنہ ابو میانہ خاص  
 گرانی تل بیہ گوتمی وقتہ إِذْ تَمْشِي أَخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ یلہ پکان پکان واثر نہ،  
 ہمشیرہ نہمزہ تھمد حال دریافت کران کران فرعونہ سئد گھرہ تمو آہہ انمزہ واریاہ دودہ ماجہ توہمہ دودونہ  
 خیطرہ۔ نہمہ آسوہ نہ کانہہ ہمزبب رٹان۔ پس لچھ سو نہمزہ ہمشیرہ وننہ بوہا ہاووہ توہمہ کس زمانہ ہند پتہ  
 یوسہ آہس وارہ پاتھ رچھہ۔ تمودوئس کبیرہ ہاہ کرتہ جلد پنن۔ تمہہ ان والدہ نہمزہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ  
 تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ توپتہ وَاَتَانَهُ اُس تہہ پندہ ماجہ نہمہ یوتھ نہمزہ اچھہ شہلن۔ بیہ سپدہ نہ سو  
 نہمزہ جدائی سبہ غمگین۔ بوڈواتھہ کروہہ اُس توہمہ بیاکھ احسان وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغُورِ

فَتَوَّانَا فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لَهْ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدْرِ  
 يُمُوسَى ۝۳۵ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝۳۶ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْبَيْتِ  
 وَلَا تَنِيَابِي فِي ذِكْرِي ۝۳۷ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝۳۸ فَقَوْلَا لَهُ  
 قَوْلًا لَيْتَ الْعَالَمَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝۳۹ قَالَ أَرَبْنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ  
 يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝۴۰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ آسَمِعُ  
 وَأَرَى ۝۴۱ فَاتِيَهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ

وَفَقْنِكَ فُتَوَّانَا بے موروں توہمہ غلطی سببہ قبیلو اندرہ اکھ شخصہ، ہنس ڈیت اسمہ توہمہ نجات غمہ  
 نغمہ۔ خوف عقابہ نغمہ ڈیت اسمہ توہمہ نجات استغفارک توفیق دنہ سیت۔ ہنس استغفار اسمہ قول کور۔  
 خوف انتقامہ نغمہ ڈیت اسمہ توہمہ نجات، مصرہ نغمہ و اتاودہ اسمہ ٹہہ شہر مدینس منز۔ بے گرہ اسمہ توہمہ شہر  
 مدینہ و اتس تان واریاہ آزمایشہ سمو سیت انسان پختہ کار چھو بنان فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تو  
 پتہ زودوہ ٹہہ شہر مدینہ کین لوکن نغمہ واریہن وریہن ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدْرِ يُمُوسَى توپتہ و اتوہ ٹہہ  
 خاص و قس پیٹھ ہنس تہدہ خیرہ تقدیرہ موجب موزون و مناسب اوس میانہ ہمکلامی خیرہ بے مصرس  
 منزای موسیٰ۔ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٹہہ بناودہ مہ خاص پتہ کامہ خیرہ یعنی نبوت و رسالتہ خیرہ  
 إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَنِيَابِي فِي ذِكْرِي لہذا کہہ ہو ٹہہ بے ٹہہند برادر ہارون علیہ السلام میان  
 آیات ہتھ یعنی میان معجزات عصا تہدہ بیضا ہتھ۔ ٹہہند سستی کمر و میانس بازس اندر إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ  
 إِنَّهُ طَغَى گھو فرعونس نغمہ کیا زہ تم کمر سر کشی فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْتَ الْعَالَمَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ہنس  
 کمر و تس سیت تھہ نرم نرم، شاند سوار تہ نصحت یا ما کھوڑہ خدایہ سدس عدائس قَالَ أَرَبْنَا إِنَّا  
 نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى تمودو شوی ڈوپ ای سانہ پروردگارہ اس چھہ کھوژان سو  
 گھہنہ برو نغمی اسمہ پیٹھ کتہہ بد سلوک سیت پیش سن یا گھہنہ نہ اسمہ برو ٹھہ کتہہ تہہ سر کشی کردن۔ قَالَ  
 لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ آسَمِعُ وَأَرَى اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ کھوژو مہ ٹہہ۔ امیک مہ کمر و کانہہ پرول۔



إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ  
 عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ قَالَ فَسِنَّ رَبُّكُمْ يُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۖ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۗ  
 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۗ

یو چھوس پانہ توہہ سیت سوزی بوزان سوزی وچھان۔ میان یاری تہ مدد چھو توہہ سیت فکر مہ سکر و  
 بوکرہ ہنہز حفاظت سو کرن بو مرعوب قَائِلُهُ فَقَوْلًا تَارِسُ وَلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 لہذا کہہ جو تہ نشہ بے خوف و خطر۔ تو پتہ و نیوس پنز پات آس چھہ چانس پروردگارہ سہہ طرفہ زہ پیغمبر  
 لہذا کہ تہ سان اطاعت۔ توحید مان۔ ہیہ روز ظلمہ نشہ پتہ۔ تراو کہ اسہ سیت بنی اسرائیل۔ تم مہ ہلاک  
 تہ ہن غلام۔ تم کر کہ آزاد۔ تم نہ آزادانہ زندگی بسر کرنہ وَلَا تَعَذِّبَهُمْ تہن پیٹہ مہ کر ظلم۔ آس نیس  
 پیغمبری ہند دعوے کر ان چھہ، ہیہ دعوے وچھنہ کر ان آس پتہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ  
 مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى پنز پاتھ آس چھہ آمت تہ نشہ چانس پروردگارہ سہہ طرفہ مجزہ ہتہ۔ سلامتی چھہ  
 تہ شخصہ سہہ خیرہ نیس پیروی کرہ سیزہ و تہ ہنہز إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ  
 وَقَوْلِي اسہ پیٹہ چھو پنز پاتھ وحی نازل آمت کرنہ کہ بیشک خدایہ سہ عذاب ہیہ تہ کرنہ نیس پنز س  
 زانہ اہز ہیہ کرہ روگردانی ہننے پزہ نشہ پھر ہتہ۔ ہیہ سوزی مضمون و نو تہ۔ چنانچہ تم دوشوے آئے  
 فرعون نیس نشہ ہیہ سوزی مضمون کو رکھ تہ بیان۔ قَالَ فَسِنَّ رَبُّكُمْ يُوسَىٰ فرعون دو چھہ تورہ  
 سو گس چھو تہند پروردگارہ موسیٰ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ حضرت موسیٰ  
 ان دو نیس سون پروردگار چھو سوزی نیم پر چھہ چیز س دژ ہن ہن صورت تہ شکل۔ تو پتہ تہ تم تمواندرہ  
 جاندار چیز چھہ تہن ہاون و تہ پنے نین پنے نین منافع سُن قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ فرعون دو چھہ  
 برو تھمہ وقتہ کین لوکن ہند کیاہ حال سہہ سمو برو تھمہن پیغمبرن تکذیب کر، تہن پیٹہ کوہ عذاب سہہ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ  
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿۵۳﴾  
 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿۵۴﴾ مِنْهَا  
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿۵۵﴾ وَلَقَدْ آرَيْنَهُ

نازل قَالَ عَلِمَّا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ حضرت موسیٰ ان دونہیں کہ میون دعویٰ چھونہ کہ سُو عذاب  
 کیاہ سپدہ تین دنیاء سی اندر ضرور بلکہ چھو سُو عذاب دنیاء س منزتہ تین ہندہ ہتھ۔ ہر گاہ سُو بیٹھہ  
 آخرتس منز چھو یقینا۔ چنانچہ تہمدین بد اعمالن ہند علم چھو میانس پروردگار س نغمہ اعمالن ہندس  
 دفترس منز موجود۔ اگرچہ تس چھند ضرورت دفترس محفوظ تھاوچ کیاہہ میون پروردگار چھو تیتھ زان  
 ؤول کہہ لَايُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَشِيءُ نہ چھو سُو غلطی کران کُنہ چیزس منز نہ چھو تس مینتھ گوشان۔ پس  
 چھو تس تہمدین سارنی عملن ہند صحیح علم مگر عذابہ خیطرہ چھون وقاہ مقرر کورمت۔ یلہ سُو وقت  
 ولتہ، سُو عذاب پیہ تین پیٹھ جاری کرنہ۔ یوتان سپد موسیٰ علیہ السلامن تقریر ختم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ پن شان پانہ فرماوان الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى سُو پروردگار گوسوی نیم زمین کمر تہندہ خیطرہ و شھر ناہ  
 تھ پیٹھ چھو تہہ آرام کران۔ پیہ کُن اتھ زمینس منز تہندہ پینہ خیطرہ ؤتہ۔ پیہ تروون آسمانچہ طرفہ  
 رُوو۔ پس کھار اسہ تھی رُووہ سیت زمینہ منزہ مختلف نباتات۔ گاسن ہند اقسام كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ توپتہ آوتوہہ اجازت دنہ کہ کھیو تہہ اکھ پانہ پیہ کھایو کہ پن چاروا ی تہ  
 مویثی۔ پزپاٹ تین سارنی چیزن منز چھہ کم کم نشانہ خداہ سبدہ قدر تک عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ پیٹھ  
 پاٹ نباتات اسہ کھار زمینہ منزہ پیٹھ پاٹھ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  
 امی زمینہ نشہ کمر وہ لسہ توہہ بیدہ۔ ابتداء س اندر آؤ حضرت آدم بیدہ کرنہ میوہ۔ لہذا چھو سارنی  
 انسان ہند مادہ بعید میوہ۔ پیہ واتا وودہ تہہ اتھ میوہ اندر مر نہ پتہ۔ امی میوہ منزہ کڈوہہ پیہ دُوبارہ قیامتگ  
 دوہ وَلَقَدْ آرَيْنَهُ الْبَيْتَ كُلَّهُمْ فَنُكَدِّبَ وَابْنَ پزپاٹ پیہ ہلے اسہ فرعونس پن ساری نشانہ تہ معجزہ

اٰتَيْنَا كُلَّهَا فَاكْذَبَ وَاٰبِي ﴿۵۳﴾ قَالَ اٰجِئْتَنَا بِالسَّحْرِ جَانِمٍ اَرْضِنَا  
 بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ﴿۵۴﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ  
 مَوْعِدًا اَلَّا نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿۵۵﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ  
 يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَمِي ﴿۵۶﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ  
 كَيْدَهُ ثُمَّ اٰتٰى ﴿۵۷﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا  
 فَيَسْجِدْكُمْ يَعْذَابٍ وَّوَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿۵۸﴾ فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ

تہ کمر تھ تہ زون تم اہڑی بیہ کوزن انکاری قَالَ اٰجِئْتَنَا السَّحْرِ جَانِمٍ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى تہ نہ  
 لگ ای موسیٰ کیا تہ چھوہ آسہ نش آست بیہ دعویٰ ہی تہ ہی تہ ای ہمانہ سیت آسہ پتہ ملکہ منزہ کڈوہ پتہ  
 بحرہ تہ جاوہ سیت ای موسیٰ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اَلَّا نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا  
 اَنْتَ مَكَانًا سُوًى اَس تہ اَنوچانس جادس ہیو بحرہ تہ جو دمقابلہ خیطرہ۔ پس کراسہ تہ پانس منز مقرر اکھ  
 وقاہ نہ گرد آس تہہ خلاف تہ نہ کمر و تہہ تہہ خلاف۔ اَس صاف تہ ہموار میدانس منز سمو اَس  
 دو شوے مقابلہ خیطرہ۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَمِي حضرت موسیٰ علیہ  
 السلامن دو کھ وعدہ تہند چھو تہمہ دوہہ ہی تہہ منز توہہ میلہ آسان چھو۔ ہم آس فرعونہ سہد سالگرہ  
 مناوہہ خیطرہ میلہ لاگان۔ (معلوم سہد سالگرہ مناون چھو فرعونہ سہد ایجاد۔ مترجم) مگر شرط چھو لوکن  
 ہند گھوہ اڈہ کاجس جمع سہدن فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اٰتٰى تو پتہ گوہہ بوزت فرعون، دربارہ  
 منزہ دراوہ۔ پس تہن کزون جمع مکرک سوزوی سامانہ۔ تو پتہ آومقرر کر قس دوہس پیٹھ، بیہ اَن ساری  
 پانس سیت۔ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا فَيَسْجِدْكُمْ يَعْذَابٍ وَّوَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى تہہ  
 دوہہ ادہ تم ساری جادوگر سیتے، حضرت موسیٰ اَن کوزکھ تقریر۔ تہہ منز فرمودکھ ای جادوگر و تہہدہ  
 خیطرہ چھو افسوس تہہہ مہ نور او و خدا پس پیٹھ اپز۔ ہر گاہ تہ تہہ آسہ نچہہ تہہ روز و تیلہ گالہ وہ سو توہہ  
 پتہ عذابہ سیت۔ پز پاپ ہم اپز نور و خدا پس پیٹھ سو گو یقیناً ناکام فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرُوا

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٧﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدُنَ أَنْ  
يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٦٨﴾  
فَاجْبِعُوا لَكُمْ تَمِيمًا وَصَفَاءً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٦٩﴾  
قَالُوا يُمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٧٠﴾  
قَالَ بَلْ الْقَوْمُ افْرَاقٌ أَجْبَالُهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ بِخِيَلِ إِلَهِهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ  
أَنَّهُ تَسْعَى ﴿٧١﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَى ﴿٧٢﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٧٣﴾ وَالَّذِي مَاتَ فِي يَدَيْكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا

النجوى تمہ پتہ ہیوت تموجادوگرو پانہ وان اختلاف کرن بیہ ہیو کہ لویتہ لویتہ کن تھہ کرنہ قالوا ان  
هذین لسیحرن یريدن ان یخرجکم من ارضکم بسحرها ویدہا ببطریقکم المثلی دینہ لگ اکہ وئہ  
ساری جادوگر تسم دوشوے بارن موسی و ہارون علیہ السلام ہتھہ بیشک جادوگر۔ تسم ہتھہ یٹھان توہیہ  
سارنی کڈنوہ پنہ نیو شہر واندرہ۔ بیہ ژلن ہتھہ توہیہ ہتھہ تھمہ عمدہ مذہب توپتہ کرن سوختم فاجبوعوا  
کیدکم تہم انتواصفا پس سونبر اووہن ساری حیلہ توپتہ ایو صفت دی دی مقابلہ کرنہ خیطرہ  
وقد افلحہ الیوم من استعلی پز پانہ ازیزون تھی نئس غالب سید۔ قالو یوموسی ایمان تلتقی وایما ان  
تکون اول من القی جادوگرو دوپ ای موسی تہہ تراوہ کہہ اسی تراوہ گوڈہ قال بل القوم تموج  
دویک نہایت بے پروائی سان۔ نہ گوڈہ تراوہ تھی۔ فاذا اجبالہم وعصیتہم یخیل الیہ من سحرہم  
انہا تسعی توپتہ تروو تموہن جوو۔ آتی او حضرت موسی خیا لسان اندر تھمہہ جادو کہ زورہ سیت  
کہ تہزہ رزہ تہ لورہ ہتھہ سرفن ہمد پانہ دورہ دورہ کران۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسی توپتہ لگ  
حضرت موسی پانس منز خوف محسوس کرنہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى اسیہ دوپس ای موسی  
کھوژمہ غالب روز کہ ڈی والقی ما فی یدیک تلتقف ما صنعوا بیہ تراوہ تہ بیہ ژہ پنہ نئس دہتھس

صَنَعُوا كَيْدًا سِحْرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿۳۸﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ  
سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا تَابِرْتُ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿۳۹﴾ قَالَ أَمْنَمُّ لَهُ قَبْلَ  
أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطْعَانَ  
أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلِيَّتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى ﴿۴۰﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا  
جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

اٹھس کیتھ چھوی یعنی عصا، کنوی میوند کڈھ سو عصا اتھ ساری یہ تمبو تیار کورمٹ چھو۔ اِنَّمَا صَنَعُوا  
کیدا سحر و لا یفلح السحر حیث ائی سمبو چھونہ تیار کورمٹ مگر جادوگرہ سُد مکر تہ فریب۔ جادوگر چھو  
نہ کامیاب سپدان کنہ جایہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان یلہ لور پین ہنتر تراؤتھ لورہ بنیو واژدہ اسم اتھ  
ساری جادوگرن ہمدس جادس ستیاناس کور، تہ یلہ جادوگر وچھہ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا تم جادوگر  
آئے وکراونہ سجدس منز قَالُوا أَمَّا تَابِرْتُ هَارُونَ وَمُوسَى تمو دوپ اسہ کمر پڑھ حضرت ہارون تہ  
حضرت موسیٰ سندس بدوردگارس قَالَ أَمْنَمُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ فرعونن دوچھہ کیاہ توبہ کسروہ  
پڑھ تھہ میانہ اجازتہ وراى اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ معلوم چھو سپدان یہ چھو تھہ زبٹھ  
سم تھہ تہ سحر تہ جوڈ پچھناومت چھوہ۔ وَاَنْ وَجْهًا بَلَوِيَا كَرُوهُ توبہ فَلَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ  
خِلَافٍ وَلَا وَصَلِيَّتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کس ژٹہ بو توبہ اتھ تھہ تہ کھور تھہ دھین کھو فر۔ یہ  
دمووه بو توبہ پچھہ خضر کلین پیٹھ ساری لوکھ وچھن تھہ حال وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى یہ  
ترہ توبہ فخرہ زہ اسہ منزہ کہہ چھو زیادہ سخت تہ پوشرہ وَاَنْ عَذَابُ كَرُوهُ۔ بوچھسانہ موسیٰ سُد  
پروردگار۔ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا جادوگر و دھن ای فرعون گڑھ  
گڑھ۔ اس ہرگز تہ مانو تھہ نہ، ژہ اختیار کروت نہ بنیو دلیکو خوتہ سمہ اسہ زبٹھ واژدہ۔ یہ کس پروردگارہ  
سدہ خوتہ سم اس پیدہ کمر قَاضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کس ژہ گرن چھوی

إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۴۶﴾ إِنَّا أَمْثَلْنَا بِتَابِ لِيْغْفِرَ لَنَا  
 خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿۴۷﴾  
 إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ  
 لَا يَحْيَىٰ ﴿۴۸﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ  
 لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿۴۹﴾ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿۵۰﴾

تہ کر۔ اُس کھوڑہ ون چھنہ۔ بوڈ بوڈ بم گوڑہ چلاؤ کہ حکم تہہ سانہ دنیا چہ زندگی پیٹھ۔ یعنی اسہ مار کہ  
 تمک چھونہ اسہ کانہہ پروا۔ **اِنَّا اَمْثَلْنَا بِتَابِ لِيْغْفِرَ لَنَا** خطیئنا وما اکرهتنا علیه من السحر واللہ خیر وابقی  
 وابقی اُس چھہ علی الاعلان دنان پز پاپ اسہ کمر پڑھ پنہ نس پروردگار س دیوہ سواسہ مغفرت تہ  
 بخفا نش کر گنہن ساین بیہ سانس جود کر نس تہہ پیٹھ ژئی اُس مجبور کمرت معبود برحق چھو باعتبار ذات  
 وصفات سیٹھاہ رت، باعتبار ثواب و عقاب تہ چھو پوشہ ون۔ باقی روزہ ون۔ ژہ چھوی نہ خیریت  
 نصیب نہ بقا۔ اسہ کیاہ کھہہ چون انعام فخرہ یا چون عذاب۔ اللہ تعالیٰ سُد قانون چھو **اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ**  
**مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَىٰ** پز پاپ نُس شخص ولتہ پنہ نس مالکس بروئٹھ  
 گن گنہگار تہ تا فرمان یعنی کافر حالتس اندر کس تہندی خیطرہ چھو سزاسے نار جہنم۔ تہہ منز و اتہہ نہ سزہ نہ  
 اسہ زندہ۔ کیاڑہ زندہ روزن گنیو آرا ماہ تلہ ہا **وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ**  
**الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ** البتہ ہم واتن پنہ نس مالکس نشہ نس ایمان انہ ون بیہ آس و اتقی رتہ عملہ کرہ  
 مژہ۔ تمنی لوکن ہمدہ خیطرہ چھہ تہہ درجہ **جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ**  
**فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ** تم تہہ درجہ گئے ہمیشہ روزیک باغ سمو منز جو یہ تہ کولہ پکان آسن۔  
 تمنی جشن منز آسن روزہ ون تم ہمیشہ۔ پیہ چھہ مزور تمن لوکن ہنز ہم شرکہ تہ گھرہ نشہ پاک آسن۔  
 اٹھ قانونس ماتحت تردو اسہ گھر، اختیار کور اسہ ایمان **وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اسْرِ بِعِبَادِي**

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ  
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴  
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵  
وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ۝۴۶ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ  
أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝۴۷ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ

فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴ بے سوزا سہ وحی پڑھاٹ موسیٰ اس گن کہ نیر و نجرہ میان بندہ یعنی بنی اسرائیل بیتہ۔ رات کیت و اتناویو کہ دُور کتہ جایہ بیتہ تم فر عوہ سہدہ ظلمہ نشہ نجات لئین۔ تو پتے و تہ منز تو بہہ دریاہ قلزم ایہ تہہ لایہ پندہ لورہ سیت ژنڈ۔ تمہ منزہ کتہ و تہہ خشک۔ تہہ مہ کتہ ژو فر عوہ سہدس پتہ لاریت رٹہ نس۔ نہ مہ کتہ ژو دریاوس منز پتہ نس تہہ و اتناو و وہ اُپور امن و امانہ سان فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۝۴۵ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵ کس دوریو پتہ تہن فرعون ہن لشکر بیتہ۔ تو پتہ و تہ سوتہ اتہ دریاوس منز۔ سوتہ پوک ای دریاوہ منز۔ کس ول تم دریاوہ منزہ تم چیزن تم تم ول یعنی آب آکھ پریتہ طرفہ تمی کتر غرق وَاَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝۴۶ بے ڈول و تہ فرعون ہن قوم۔ سیز و تہہ ہلو کتہ ساری پھاٹون کولہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ای بنی اسرائیلو و جھو اسہ ڈیت تو بہہ نجات تہندس ہڈس دشمن نشہ بے تھو واسہ وعدہ تو بہہ یعنی تہندس پیغمبرس موسیٰ کلیم اللہس کوہ طورہ کس دچھنس پاس پیٹہ بنگ۔ تہہ تواریت عطا کرنگ۔ بے کوراسہ نازل تو بہہ پیٹہ وادی تہنس منز من و سلوی۔ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ﴿٨٦﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٧﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿٨٨﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٩﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَعْيُنِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٩٠﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ اسہ دون ٹہہ کھیورت چیز۔ تموی چیز و آندره تم اسہ توبہ عطا کر۔ بٹھنہ ٹہہ تھ منزحدہ ڈلو۔ پگھمہ خیلرہ تھ اوڈ خیرہ کمر تھ۔ تھ پیٹھ سپد وہ میان بیزاری۔ بس پیٹھ میان بیزاری سپدہ بس پنز پاٹھ سو پیو خواری ہندین سر نین چمن اندر وائی لغفار لمن تاب وامن و عمل صالحا ثم اهتدى پنز پاٹھ یو چوس سیٹھا مغفرت گرہ ون تمن تم توبہ کرن ایمان ان بیہ رثہ عملہ کرن تویتہ روزن قائم تھ سیزہ و تیر پیٹھ۔ یلہ اللہ تعالیٰ ان منظور کور موسیٰ علیہ السلا مس تورايت عطا کرن۔ فر موونجھ کوہ طورس پیٹھ ایو۔ سیت اینو کھ پنہ قومہ منزہ بعضی اشخاص۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کمر جلدی قومس بروٹھی وات کوہ طورس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ان فر مووس وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ای موسیٰ تھ کم چیزن او کھ پنہ بس قومس بروٹھ مہ نش۔ تم کیا زہ تراوتھکھ پٹھ۔ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ عرض کوزن یکیا تم چھہ پکان مہ پتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ مہ کمر جلدی تھ نشہ حاضر سپدہ خیلرہ بٹھ تھ رضیٰ گرھہ تم میا نہ پد و در گارہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَعْيُنِكَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس اے موسیٰ تھ پتہ کور اسہ چون قوم بس آزما نشہ اندر بتلا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ تم ڈال سامرین فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا بس پھیور پوت حضرت موسیٰ پنہ بس قومس کن تھکھ ہوت انوس کران قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنًا قومس دو مان ای قوم توبہ سیت



رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْرًا دُشْمَانٌ  
يَجِيءُ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿۸۷﴾  
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِّن زِينَةِ  
الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَا فكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا  
جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ لَأَنفُسِي ۗ أَفَلَا

اوس ناپروردگارن تہمہ وعدہ کورمت رت وعداہ کہ توبہ کرووہ عطا کہ کتاباہ تہہ منز تہمہہ خیطرہ  
احکام آسن۔ توبہ اوس لازم تمیک انتظار کرن افطال علیکم العہد کیاہ تہہ وعدس گیاوہ توبہ زیادہ  
ثیر تا اینکه توبہ سبز ناامیدی تمہ نشہ نہ توبہ کمر وہ ایجاد کہ عبارتہاہ پائے۔ امراد دشمن ان یجیل علیکم  
غضب من ربکم کہ توبہ کا نچھوہ ناامید سپدنہ ورا ی پانس پیٹھ پنہ نس خدلیہ سنز بیزاری  
فأخلفتم موعیدی تہہ کن نظر کمر تہہ کوروہ میانس وعدس بدل کہ آس گرونہ کنس خدانس ورائے بیہ  
کانسہ ہنز پرستش قالوا ما أخلفنا موعداک بملکنا تمودوپ آے موسی اسہ کورنہ تہمہدس وعدس  
بدل پنہ اختیارہ ولکننا حملنا آوارا من زینۃ القوم فقد فتننا لیکن قصہ سپد تہہ پاٹھ کہ آس آس  
تلتاونہ آمت قوم قبط گہنہ نہ زیور سوسی تراویو واسہ سامری سہہ وونہ موجب نارس منز گالک خیطرہ۔  
سوزیور اوس نہ ونہ تموپنہ نس تصر فس منز اومت کیازہ سومال اوس تمن بنیومت قطبی کافر نیشہ۔  
تہمہہ رضامندی ورا ی۔ تمن اوس نہ ونہ تمیک حکم بیان آمت کرنہ شریعت موسوی موجب۔ تمی  
وونکھہ سامرین کہ یہ مال تھا ووتان جمع کمر تہہ تہہ پاٹھ روزہ یہ محفوظ۔ پتہ یلہ حکم بیان یہ کرنہ اتھ  
متعلق تمہ ساتہ گرو تقسیم۔ سامر اوس کہ گاہہ ملک شامس اندر تیگوی اوس یہ شخص۔ تمی آس وتان  
سامری۔ یہ شخص اوس منافق فکذالک القى السامیری تہہ پاٹھ ترود سامرین نہ پنہ حصک زیور  
نارس منز گالک خیطرہ فأخرج لهم عجلا جسدا آلہ خوار ہس کوڈ تمی لوکن ہندہ خیطرہ تہہ ساری  
سونس بناو تہہ اکھ ووژہاہ، وژہہ سہد جسماہ۔ تہہہ آس آوازہہ وژہہ سنزی ہش۔ یعنی سوسونہ سہد ووژہہ

يَرُونَ الْأَيْرِجَةَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۙ ﴿٩٥﴾  
 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ  
 رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ ﴿٩٦﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ  
 عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ ﴿٩٧﴾ قَالَ يُهْرُونَ مَا  
 مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ ﴿٩٨﴾ أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ ﴿٩٩﴾

اوس ٹانگ روان وژھ سہ پاٹھ۔ فَقَالُوا تھے نسبت لگ ونہ تم احمق لو کہ اکھ انیس هَذَا إِلَهُكُمْ وَ  
 إِلَهُ مُوسَىٰ قَنِیٰ یو ہے چھو ٹھہد معبودیہ حضرت موسیٰ سہد معبود۔ امسزی کمر و عبادت۔ تَس  
 (یعنی حضرت موسیٰ اس) زود نہ زیتس سو گو کوہ طور س پیٹھ معبود سیت ملاقات کرنہ اَفَلَا يَرُونَ  
 الْأَيْرِجَةَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۙ ہم احمق لو کہ چھناو چھناں کہ و وژھ چھونہ تمکن  
 کانہ جوابہ ہیکان پھیر تھ و نٹھ۔ بیہ چھونہ سو مالک عنہ ضر رس تھہد س نہ عنہ نفقس وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ  
 هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ بیہ اوس پتر پاٹھ تہن و وٹمت حضرت موسیٰ سہدہ واپس ینہ  
 بروٹھ ہارون علیہ السلام کہ ای میانہ قومہ ٹہہ آوہ آزمادہ نہ تہس وژھ سہدہ سیت۔ ٹہہ پھسے وہ  
 گرا ہی اندر وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بیشک ٹھہد ہروردگار چھو حضرت رحمن، بیہ  
 و وژھ چھونہ لہذا کتر و ٹہہ میان پیروی بیہ مانو میون حکم۔ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ  
 إِلَيْنَا مُوسَىٰ تمود و پکس جواب اُس روز و برابر اہس وژھ سز پر ستش کران یوتان واپس ایہ اسہ  
 نٹھ حضرت موسیٰ۔ تو پتہ آو واپس حضرت موسیٰ۔ تو مس گن خطاب کرنہ پتہ فرمود تمو ہارون علیہ  
 السلام پیٹہرس قَالَ يُهْرُونَ مَا مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ \* اَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي حضرت  
 موسیٰ ان روپ ای ہارون ٹہہ کم چیزن روٹھ و ٹھہ مہ نٹھہ و اتہہ نٹھہ توہہ و پھسے وکھ تم گراہ سپدان یعنی توہہ  
 پزہ ہاتم اتھی تراون تہ مہ نٹھہ و اتن۔ تمکن سپدہ ہاتمہ سیت معلوم اسہ کتر بیہ ناجائز حرکت۔ مہ اوس  
 توہہ و وٹمت کہ (وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُنْفِئِينَ) یتھنہ ٹہہ پیروی کمر و مفسدن ہنزہ و نٹہ ہنز لہذا کیا زہ کورہ

قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِيَّاي خَشِيتُ أَنْ  
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي<sup>۱۴</sup> قَالَ  
فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرِي<sup>۱۵</sup> قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ  
لِي نَفْسِي<sup>۱۶</sup> قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا  
مِسَاسَ مِنِّي وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي

توہمہ میانس اتھ خمس بدل۔ قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ہارون علیہ السلام دو کھ  
ہای صابانہ ہنز کمر تھپ ریش سے مستس میانس۔ اموی رنکھ مہ لٹھومہ۔ ذراتراو حشم وارہ بوزتھ ای  
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي بوکھوٹس نہی مادپو ژہ کور تھ  
تفرقہ سے جدائی بنی اسرائیل کن منز۔ ژہ کور تھ نہ کانہ خیال میاں تھ بند۔ میان تھ تھاوتھ نہ تیس۔  
توپتہ سپد حضرت موسیٰ متوجہ سامریس کن قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرِي دو پھس اے سامری چون  
معاملہ کیاہ چھو۔ ژہ کھہ وکانہ گوی، پشہ حرکت کیا زہ کر تھ ژہ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
دوہن مہ آو بوزنہ تی یہ نہ لوکن بوزنہ آو۔ یعنی جبریل امین یلہ حضرت موسیٰ اس نشہ آو سو آوس تمہ  
ساتہ گرس کیتھ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ کس تج مہ اکھ سیڑہ موٹھاہ سوزنہ آتس شخصہ سندہ  
سواری ہند بوکھو روتلہ۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي سنوی تراوم سنونہ وژ ہس منز۔ یہوی  
خیالہاہ دو تھ مہ تمہ ساتہ دلہ پیٹھ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حضرت  
موسیٰ کن دو پھس گڑھہ چانہ چھہ چھو امیک سزاد نیاس اندریو ہے کہ آتس کالس ژہ زندہ چھہ ژہ آسٹھ  
ونان لوکن دُور رُوزومہ بٹھہ اٹھ لاگو وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ بیہ چھہ امہ علاوہ چانہ خپترہ  
عذابگ وعداہ کس نہ ڈلٹھہ بیچہ۔ متھنہ ژہ سیت بدل بیہ کرنہ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي كَلَّمَتْ عَلَيْهِ  
عالمک النعوتہ کُم لکنسعتہ فی الیم تسعنا بیہ وچھہ ژہ پنہ نس باطل معبودس کن، کس ڈاکٹر تھ او سٹھ

ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لِنَحْرِ قَبْتِهِ ثُمَّ لَنْسِفَتَهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۙ  
 إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۙ كَذَلِكَ  
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا  
 ذِكْرًا ۙ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۙ خَلِدِينَ  
 فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۙ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ  
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۙ يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

ثه پرستش کران۔ وچھ سوزولون آس۔ تویته کروس سور۔ سوی سور وچھو کوریوس منز پوره پاٹھ۔  
 آس سیت گودھ سو سور ایرہ **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا** ای لو کو تھند معبود  
 وچھونہ کانہہ نس ذات پاکس ورا ای، نس ورا ای نہ کانہہ معبودا وچھو، سو وچھو پریتھ چیزس احاطہ کرتھ  
 پنہ علمہ سیت۔ **كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ** تھہ پاٹ اسمہ توبہ موسیٰ علیہ السلام سند  
 قصہ بیان کورتھہ پاٹ وچھہ آس بیان کران توبہ بروٹھم حالات وواقعات۔ **وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا**  
 بیشک بیہ کور اسمہ توبہ عطایار رسول اللہ پنہ طرفہ اکھ نصیحت ناما، قرآن مجید نس پانہ اکھ نوڈ مجرہ آسنہ  
 سببہ تھندہ نبوت بڈ دلیل وچھہ۔ سو نصیحت نامہ وچھو تھہ **مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا**  
 نس اکھا وچھہ پھرہ تمہ نشہ، تمہ کین اعمال تعمیل کرنہ نشہ نس بیشک سونٹہ قیامتگ دوہ گونمن ہند بوڈ  
 بور یمن گنمن ہندہ شامتہ بڈس غذا بس گرفتار سپدن **خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا** تھہ  
 غذا بس منز روزن ہمیشہ۔ بیہ آسہ سینٹھاہ پیچھہ قیامتگ دوہ تھند بور **يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ**  
**نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا** سمہ دوہہ وچھو کہ بیہ دنہ پوٹھس منز بیہ سونبر اوو کہ آس تمہہ دوہہ نافرمان  
 آچھ کاثرہ کرتھہ گاشہ رتھہ **يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ** لوتہ لوتہ کرن پانہ وان تھہ **إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا**  
 دہن توبہ رودیونہ قبرن منز یا دنیا عس منز مگردوہ ذہنہ مرہ **مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا**  
 کرنہ سیت کیاہ سنا اندہ۔ آس وچھہ پور زانان تم کیاہ وچھہ ونان پانہ وان **إِذْ يَقُولُ آمَنَّا يَا لَبِثْنَا إِلَّا عَشْرًا**

عَشْرًا ۱۷ نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ  
لَيْسَتْ إِلَّا يَوْمًا ۱۸ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۱۹  
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۲۰ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۲۱ يَوْمَئِذٍ  
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ كُهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ  
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۲۲ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ  
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۲۳ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

الْأَيُّمًا - تمہ ساتہ تموا اندرہ زیادہ گائل ونان آس تمن نہہ ناروودونہ دُنیا س اندر مگر اکھ دوہایتہ کس  
مُدتس کن نظر کتر تہہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بیہ ہجہہ پر ژشان توہہ یار رسول اللہ  
بعضی لوکھ قیامتک حال بوزت تمہ دوہہ کیاہ بنہ تمکن کوہن۔ پس فرماویوکھ نہہ یار رسول اللہ مُدین  
پروردگار کرہ تمکن ریزہ ریزہ، سور توپتہ ہجہکر اوکیہ ہوہس منز پورہ پاٹھ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى  
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا توپتہ کرہ اتہ زمیں ہموار میدانہ ہجہ منزہ ژہ لبے بی کی کانہہ جہرا نہ کانہہ  
تہز راہ، نہ کانہہ گہسہ وساہ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ كُهُ وہجہکھ ژہ تمہ دوہہ کہ ساری لوکھ  
کرن آکو دوہون سہس آکوس پیروی اورہ پور گہسہہ وراہ۔ یعنی پو غس منز یلیہ چھو کہ دنہ بیہ سہو آواز  
واپتہ سارنی قبرن منز۔ اتی بن نیرن لوکھ قبر و منزہ۔ تہہ آوازہ بروٹھکنہ بیکنہ نہ کانہہ تہ ہجہ قسمک، جہراہ  
لَا تَسْمَعُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا بیہ آسن تمہ دوہہ سارے کر یکہ پچھوہہ خدای  
رحمانہ سہہ خوفہ سببہ۔ پس آسکھنہ ژہ بوزان تہتین لوکن اندر مگر کوت کوت کن پچھر ارے یا صرف  
کھورن ہندہ پچہ ٹک صدًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تمہ دوہہ دیہ نہ  
کانہہ فاندہ کانہہ آس کانہہ ہنز شفاعت تہ سفارش مگر تمس دیہ فاندہ یسیدہ حقہ حضرت رحمان  
شفاعتک اجازت دیہ۔ بیہ آسہ حضرت رحمان راضی تہندس ونہ نس، کلامس تس شخصہ سہہ حقہ۔ آسہ  
اندرہ ہجوہ مراد بایمان تہدہ شفاعتک اجازت بیہ نہ شفاعت کرہ ونین۔ تمن متعلق شفاعت کرن آسہ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿۱۰﴾ وَعَدَّتْ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ  
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿۱۱﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿۱۲﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ  
 صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ أَمْذَكِرًا ﴿۱۳﴾  
 فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا

بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى آس - کافرن تہ مشرکن شفاعت کرنک ایہ نہ اجازتھی دنہ کانسہ یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ  
 مَا خَلْفَهُمْ سُو پروردگار رحمان چھو زمانان تہ سو روی یہ تمہن برو تھہ کنہ آسہ یہ یہ تمہو پتھہ کن کورمت آسہ  
 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لو کہ تمکن نہ احاطہ کتر تھہ خدایہ سب دس علس وَعَدَّتْ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ  
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا یہ آس ساری پتھہ نمت تمہہ دوہہ تَس خدایس کن، لیس زندہ چھو، زندہ تھوادہ  
 وَن چھو۔ یہ آسہ ذلیل تہ ناکام تمہہ دوہہ سوی لیس شرکگ بُور تلت آسہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا یہ تم رتھہ عملہ گر مژہ آسن در حالتیچہ سُو آسہ بالیمان۔ لیس کھو ترہ  
 نہ سونہ گنہن ہمزہ زیادتی نہ تمکن ہمزہ کی وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ أَمْذَكِرًا پتھہ پاتھہ تم مضامین آی صاف صاف بیان کرنہ۔ پتھہ پاتھہ کور آسہ  
 نازل سوری قرآن مجید عربی زیوہ اندر یہ کتر بیان آسہ تھہ منز پھیر پھیر و عید۔ پتھہ لو کہ کفر و شر کہ ہشہ  
 نافرمانیہ ہشہ پتھہ روزن۔ یاگرہ یہ قرآن مجید تہندین ولن اندر پیدہ کانسہ شعور اہ سہ سببہ کنہ تہ کنہ وقتہ  
 سپدن تم اسلام کن مایل۔ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ بس چھو بوڈ تہ تھو د اللہ تعالیٰ لیس حقیقی پادشاہ  
 چھو تم یہ قرآن مجید نازل کور پتھہ منز سیٹھاہ نفع چھو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ  
 وَحْيُهُ یہ پتھہ پاتھہ قرآن مجیدہ موجب عمل کرن، تمہہ چہ لیسٹھ مانہ ساری مکلفن پیٹھہ فرض چھو پتھہ  
 پاتھہ چھہ بعضی آداب قرآن مجیدہ کس نازل کرنس متعلق، تمکن ہندہ ادا کرنک توہہ سبت تعلق چھو

إِلَىٰ أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط ﴿۱۱۶﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ الْأَلْبُورَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿۱۱۸﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظُنُّوْنَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿۱۱۹﴾

یا رسول اللہ۔ تمو آندرہ گواکھ تہہ منہ آسہو جلدی کران قرآن مجید سیت سیت پرئس اندر تمہہ و حیک نزول ختم سپندہ بروئٹھ۔ اتھ منز چھو توہہ پانس تکلیف۔ کیا زہ جریل آینہ سُد ہرن، تہندہ بوزن، توپتہ سو پانہ پن، اگر توہہ اندیشہ چھو کہ یہ ماروزہ نہ مہ یاد سو کام تراو تہہ آسہ پیٹھ۔ تہہ آسوتہمہ خیلر ہیہ دُعا پران وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تہہ آسودُعا کران ای میانیہ پروردگارہ مہ ہرہ راو علم۔ تھہ منز آئی سم ساری مطلب وَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ سمہ بروئٹھ واریاہ کال زیادہ دژو و آسہ آدم علیہ السلا مس اکھ لحمہ سمہ حکمک بیان بروئٹھ پکن ہیہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا تہن رُودنہ یاد۔ تہن گنیہ غفلت تہ بے احتیاطی۔ آسہ لوب نہ آسہ لحمہ کس اہتماس اندر تہن منز چٹنگی تہ ثابت قدی۔ اگر آسہ اجمالک تفصیل توہہ بوزن عرض چھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابی تیلہ پاووژ تیس سو وقت یلہ آسہ حُم کور ملا پکن سجدہ دیو آدم علیہ السلا مس۔ پس ڈیت تمو سجدہ مگر ڈیت نہ ابلیس، تم کور انکار فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ پس وون آسہ اے آدم پنز پاٹھ ہیہ ابلیس چھو چون تہ چانہ زانہ ہند ڈشمن۔ کیا زہ تہندی وجہ سپدیہ مردود۔ تہتھہ وون ہیہ توہہ دوشون سمہ جنتہ منزہ کڈہ۔ یعنی تہتھہ اسدہ وونہ موجب تڑھ کا ماہ کتر و سمہ سبہ جنتہ منزہ ہیہ کڈنہ۔ ادہ تلو تہہ دوشوے مشقت تہ تکلیف معاش حاصل کرئس اندر۔ ہیہ جتس اندر چھو توہہ آراسہہ اِنَّا لَكَ الْاَلْبُورَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ تہتھہ منز چھنہ کانہہ بو چھاہہ سمہ سبب تکلیف و اتہا توہہ۔ سو دور کرنہ خیلرہ کانہہ سامانہ آسانہ مہیا۔ نہ چھوہ تہہ سبب وَأَنَّكَ لَا تَظُنُّوْنَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ہیہ نہ چھوہ تریشہ ہست، نہ چھوہ نرس تہ تاہس منز روزہ وون کیا زہ جتس منز آسہ نہ تا پھے۔ ہیہ آس جتس منز مکانات پر تہتھہ

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمَهُلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ  
 الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يُبْلَى ﴿۱۲۰﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا  
 وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى ادم رَبَّهُ  
 فَعَوَى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا  
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا تَبَيَّنَكُم مِّنِي هُدًى لِّ  
 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ

قسمک موجود۔ اگر جنت منزه نیر ذنیاء س منزہہ سوزنہ البوتہ آبیہ پر تھہ معاملس منز مشکے تہ  
 مضیقہ۔ یہ تھہ زہر نظر تھاوتھ روزہ ہشاری سان فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمَهُلْ أَدُلُّكَ  
 عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يُبْلَى پس تروووسہ شیطان تہن منز۔ دُونِس ای آدم یوماہاؤے تہ  
 سؤکل سیمک پھل کھینہ سیت ہمیشہ چھہ زندہ روزان بیہ چھہ بنان سوپاوشہت یوسہ نہ پراتان چھہ زانہہ  
 تھہ نہ ضعف وستی یوان چھہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا پس کھیو و تمودو شوے باژو تھہ  
 کلک پھل۔ اتی نیو و تہن دو شون بدنگ سوجہہ تھہ ستر چھو یوان کرنہ یعنی جنگ لباس آکھ پائے  
 بدنہ پیٹھ موراونہ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ اتی تھہ جنتہ کین کلین ہمد پتہ و تھر بدنس  
 پیٹھ لاگن تھوے سیت ہیو تھہ بدنس ستر کزان وَعَصَى ادم رَبَّهُ فَعَوَى بیہ کور آدم علیہ السلامن  
 خدایہ سندس کھمس اندر قصور۔ پس کتر تم غلطی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى تو پتہ یلہ تھو  
 معذرت پیش کمر اللہ تعالیٰ ان کتر تم برگزیدہ تہ زیادہ مقبول۔ بیہ کور کس توبہ قبول۔ بیہ ہاؤس و تھہ  
 پنہ رضامندی ہنز۔ بیہ تھوون راہ راستس پیٹھ قائم۔ مگر تھہ کلک پھل کھینہ کہہ و چھہ قَالَ اهْبِطَا  
 وَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ ان فرموو کھ و سیدو شوے جنتہ منزہ زمینس پیٹھ تھہ  
 حاکس اندر کہ تھہ روزوتہ تھہ فرزند آسن اڈاؤین ہمد دشمنن فَأَمَّا يَا تَبَيَّنَكُم مِّنِي هُدًى پس یلہ ولتہ  
 توہہ نشہ میون ہدایت تہ احکام پیغمبرن تہ کتابن ہمدہ ذریعہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى



عَنْ ذِكْرِي قَانَ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
 اَعْمَى ۱۳۳ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۱۳۴  
 قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ اِيْتَانِ فَتَنِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۱۳۵  
 وَكَذَلِكَ نَجِزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ  
 الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى ۱۳۶ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ  
 الْقُرُوْنِ يَٰبَشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّاُولِي النُّوْرِ ۱۳۷

پس نُس پیروی کرہ میانس ہدایتس سو و تہ نغہ ذلہ نہ، عُمر اہ سپدہ نہ دُنیا س اندر۔ نہ آسہ سوشقی  
 آخرتس اندر و من اعرض عن ذکری قان لہ معیشتہ ضنکا و نحشرہ یوم القیمۃ اعمی بیہ نُس  
 میانہ تمہ نصیحتہ نہ حکمہ نغہ بھہ پھر ہ نُس آسہ تہندہ خیلرہ قیامتہ بروئہ دُنیا س تہ قبرہ منز تنگی ہنز  
 زندگی۔ بیہ تلون اُس سو قیامتگ دوہ قبرہ منزہ اون تہ اعمی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ  
 بَصِيْرًا و پہ سو تجبہ کن پروردگار ابوکیازہ کلھس ژہ اون۔ بوی اوس دُنیا س اندر گاشدار قال کذالك  
 اَتَتْكَ اِيْتَانِ فَتَنِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ تعالیٰ فرماوئیس تہ پھہ پاٹھ کیاہ واژاے ژہ نغہ انبیاء و  
 علماء عن ہندہ واسطہ سان آیات تہ احکام۔ ژہ مشراوتھہ تم۔ تم ہند کو رتھ نہ کانہہ خیال۔ تہ پھہ پاٹھ کیاہ  
 کیہ ژہ تہ از مشراونہ۔ چون بیہ نہ کانہہ خیال کرنہ وَكَذَلِكَ نَجِزِيْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ  
 لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى تہ پھہ پاٹھ بیہ سزا عملہ مناسب آدو نہ تہ پھہ پاٹھ دِ مَوَاسِ سزا پر تہ زیادتی  
 کرہ و نُس نُس نہ پڑھہ تہ یقین گرہ پنے نُس پروردگارہ سندین آیاتن۔ آخر تک عذاب چھو سیٹھاہ سخت تہ  
 سیٹھاہ پوشہ ون۔ تہ چھو نہ نہاتھہ نئہ۔ آخر چھہ عذابہ نغہ چنگ گڑھہ سیٹھاہ کوشش کرن اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَٰبَشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّاُولِي النُّوْرِ تہ پھہ پھرہ ون تہ  
 اعراض گرہ ون، تم اعراض کر نُس پیٹھہ ڈاڈگر تھہ چھہ۔ کیاہ تمکن ہاوانا و تھہ سمہ کتھہ کہ اَسَہ کاژاہ جماژ  
 چھہ تمکن بروئہ ہلاک گر مشرہ تہ اعتراض کرنہ موکھ۔ و چھینس تہ چھہ تم پکان تہ اورہ یور کران تہنز

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُسَمًّى ﴿۳۶﴾  
 فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
 وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْأَنْبَاءِ الْآئِلِ قَبِيحٍ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ  
 لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا

ولریو جایو کن شہر شامس کن گوہندہ بیچہ وقتہ کیا زہ تہنہ۔ ہمہ لہہ جایہ آسہ مکہ کین لوکن و تہ منز یوان پیز  
 پاٹھ اتھ لہر مذکورس اندرتہ چٹھہ اہل فہم تہ عقلہ والین ہمدہ خیطرہ کافی دلیلہ خدا بس نش اعراضہ کس  
 مذموم تہ ناپسند آسئس پیٹھ موجود و لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُسَمًّى بیہ ہر گاہ  
 تہ ٹھہر س پروردگارہ سہہ طرفہ اکھ کتھاہ بیان کرنہ آسہا آمزہ۔ سوگوئیہ بیہ تھہ کہ بعض مصنفین ہمدہ  
 موکھ پیہ نافرمان مہلت ونہ۔ بیہ تہ پریتھ کامہ ہند وقت مقرر کرنہ آسہا آمت تک نافرمان پیہ ہالازی  
 طور ضرور عذاب کرنہ دنیا سی اندر۔ مگر سو وقت چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو گو قیامتک دوہ۔ ودن یلہ  
 عذابک و ائن یقینی چھو لہذا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  
 وَمِنْ الْأَنْبَاءِ الْآئِلِ قَبِيحٍ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ہنس کمر و تہہ دشمن ہنزان کھر آمیز تھن پیٹھ  
 صبر۔ بیہ یوسہ توبہ خدایہ سہہ خیطرہ تہن پیٹھ تھہ کھسان چٹھہ تہن پیٹھ عذابس اندر درنگی سپد نہ موکھ  
 اضطراب پیدہ سپدان چھو۔ سو اضطراب تروو۔ تہہ سپد و متوجہ پنہ نس یادس کن۔ پنہ نس پروردگارہ  
 سہد حمد و ثنا آسہو دیان۔ تسبیح و تقدیس آسہو کران۔ تھہ منز نمازتہ شامل سپز آفتاب کھنہ بروٹھ۔ سوگوئیہ  
 صبح نماز۔ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھ تھہ منز بیہ پشن نمازتہ و گر نماز بیہ راژ ہندیو وقتو منزہ تہ آسہو تسبیح  
 پران۔ تھہ منز سپز شامل شام نمازتہ تھن نماز۔ بیہ دوہہ کس گوڈس تہ آندس منز تہ آسہو تسبیح پران  
 تا اینکه اتھ پیٹھ ہنس ثواب توبہ حاصل سپدہ تمہہ سبت آسہو تہہ خوش سپدان۔ غرض کہ تہہ کرو پنہ  
 نس مجبور برحقس کن پور توجہ۔ دشمن ہنز فکر مہ کرو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 مِمَّا مَلَآ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْصَبُ لِمَا مَلَآ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْصَبُ لِمَا مَلَآ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْصَبُ لِمَا مَلَآ بَيْنَ يَدَيْهِمْ

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقٌ مِنْ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿۳۱﴾ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا  
 نَسَأُكَ رِزْقًا مَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿۳۲﴾ وَقَالُوا  
 لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّنِ الصُّحُفِ  
 الْأُولَى ﴿۳۳﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا  
 رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ

قسمک لو کہ مثلاً یہود و نصاریٰ یہی مشرکین زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نِس مال و جھو دنیا چہ زندگی ہنر  
 ناپیدار پھلہا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ تھہ اسی سیت گرو تم آزمائش وَرِزْقٌ مِنْ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى توبہ  
 یہ دہمت جھو پن پروردگارن تہ جھو سبھہا ہتر تہ پوشہ ون وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا  
 لَا نَسَأُكَ رِزْقًا یہی کمر و جہہ حکم پنہ نین گرہ کین لوکن پنہ نِس اقس نماز پر نگ۔ پانہ تہ کمر و نمازہ  
 پیٹہ استقامت۔ سیمہ کامہ جھہ زیادہ تو جھس قابل۔ اسی جھہ توبہ دپان یا توبہ و رای بین لوکن دپان  
 تہ تھہ معاش تہ رزق کماون نِس مانع سپدہ ضروری طاعتن نہ عبادتن مَحْنُ نَرْزُقُكَ رِزْقٌ تہ معاش  
 کروہہ اسی توبہ یہی توبہ و رای بین عطا۔ یعنی مقصود اصلی جھو نہ رزق کماون تہ معاش کماون بلکہ جھو  
 مقصود اصلی دین تہ طاعت باری تعالیٰ کرن۔ مال زینہ نگ تہ رزق کماونگ جھو اجازت تھہ حدس  
 تان سیمہ سیت ضروری اطاعتن تہ عبادتن فتور لیہ نہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى رت انجام جھو پر ہیز  
 گارن ہند وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ یہی جھہ دنان اعراض گرہ ون لو کہ یہ پیغمبر کیاہہ جھو نہ  
 اسہ نِس اناں کانہ نشانہ پنہ نبو نگ پنہ نِس ہر وردگارن نثرہ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّنِ الصُّحُفِ الْأُولَى  
 کیاہہ تم نثرہ ووت نایبان تم مضمون ہند ہم برو نظمین کتابن منز آس قرآن مجیدس متعلق۔ وَلَوْ أَنَّا  
 أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

أَنْ تَذِلَّ وَتَخْزَى ۝ ۱۳۶ ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا  
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝ ۱۳۷ ۝

تَذِلَّ وَتَخْزَى بیہر گاہ اُس تم گالہوک کئی عذابہ سیت قرآن مجید نازل کرنہ بروٹھے ضرور ونہ ہن تم  
ای سانہ پروردگارہ ژہ کونہ سوزو تھن اسہ گن کانہہ پیغمبرہ تا اینکه اُس کرہ ہو پیروی چائین حکمن ذلیل و  
رسوا کرہنہ بروٹھے تہ ونہ نچ تھا دکھ نہ اسہ گنجائش اگر تم ونن سو عذاب کر سپدہ واقع قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ  
فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى تہہ فرماؤیکھ یارسول اللہ  
اُس ساری چھہ پیاران، کینہہ کالاہ، پیارو تہہ تہ، توہہ محکمہ پانے زان سیزہ وتہ ہند لوک کم چھہ۔ بیہ کم  
چھہ منزل مقصودس واتہ وان



سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ  
 مُّعْرِضُونَ ۝<sup>۱</sup> مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ اِلَّا سَمِعُوهُ  
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝<sup>۲</sup> لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاَسْرُ وَالنَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا  
 هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۝<sup>۳</sup>  
 قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝<sup>۴</sup>

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ نزدیک سپد یمن منکر لوکن ہمدہ حساب وقت۔ کیا زہ قیامت ہمدہ روز بروز نزدیک یوان مگر تم ہمدہ ونہ بے خبری تہ غفلتس اندر پیتھہ اعراض کران تہ ہمدہ پھر ان تہمز غفلت چھ یوتہ واثر مثر مایا تہ ہمدہ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ اِلَّا سَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ کہ یوسہ نصیحتہ تازہ تمن نشہ پنہ نس پروردگار ہمدہ طرفہ واتان چھ تہ ہمدہ تم تہ پاتھہ بوزان کہ زن گند نہ ہنا چھ لاهیه قلوبہم غافل چھ تہ دل تمہ نصیحتہ نشہ تہ کن چھ نہ کانہ توجہ کران وَاَسْرُ وَالنَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لوتہ لوتہ چھ تم ظالم تہ کافر لو کہ کن تہ کران پانہ وان۔ دپان چھ یہ (حضرت) محمد چھو محض تو ہی ہوا کہ انسانا یہ نہ کینہہ۔ ووان یمہ تہ بیان کران چھ، تمہ چھ بحر تہ جود۔ تمہ اندرہ کرزو نہ تہ مجزہ آسک خیال۔ مجزہ آسک خیال کثرت کرزو نہ تہ تہ ہمدہ پیغمبر آسک خیال اَفَتَاتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ادہ کیا زہ چھہ واچھن ڈیشمان توہہ سو سحر یوزنہ خیطرہ تمن نشہ یوان، پان پان زورہ گرفتار کرنہ خیطرہ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ فرمود کہ پیغمبر برحق، تہ کثرت و تہ زورہ تہ کن تہ۔ میون پروردگار چھو زانان

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا  
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ﴿۵﴾ مَا آمَدْتُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا  
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ  
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ  
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۸﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ

پریتھ تھ۔ ادہ سہو آسمان منز آستن یاز میلن منز، ادہ سو ظاہر آستن یا پھو شیدہ۔ بیہ چھو سو روی وارہ  
بوزہ ون۔ سو روی پور زانہ ون۔ تہنز تھہ چھنہ تہس نش کھنہ سو دیہ توہہ پور سزل۔ تمو کافر دون نہ  
قرآن مجیدس سحری یوت بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بلکہ لگ تم وننہ کہہ یہ قرآن مجید چھو پریشان  
خیالات بِلِ افْتَرَاهُ بلکہ چھو یہ قرآن مجید تمو پانے پتہ دلہ ٹھہرومت بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بلکہ چھو یہ پیغمبر  
شاعر۔ ہر گاہ سو واقعی پیغمبر چھو فلیأتینا یا ایہ کما ارسیل الاولون تیلہ آن سو اسہ نشہ تم مجزہ ہم  
مجزہ ہتھ برو ٹھہم پیغمبر چھہ سوزنہ آمت۔ یہ آس حیرانی یمن کفرن پانس کہ اکس رایہ پیٹھ آس نہ  
روزان۔ مَا آمَدْتُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا افھم یومنون سمو برو ٹھہم شہرک روزن وال تم اسہ ہلاک  
کرتہ گال باوجود فرمائش مجزات آسہہ اون نہ تمو ایمان، کیا سم لو کہ انہہ مجزات ظاہر سپد تھ ایمان۔  
تتھس حاکس پیٹھ چھو ایمان نہ انہہ مو کہ ضرور عذاب نازل سپدان۔ لہذا چھنہ آس تم مجزات ظاہر  
کران تمن ہنز فرمائش سم کران چھہ۔ قرآن مجید چھو ساروے مجز و کھنہت یوذ مجزہ۔ سو ی چھو کافی  
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ سوزنہ اسہ توہہ  
برونٹھ کانہہ پیغمبر اہ مگر سوز مردانانو تہ بشروی اندرہ۔ تمنی گن آس آس وحی سوزان۔ کس پر ژھو ٹھہ  
اہل کتابن، یهود و نصاریٰ ان تمن ٹھہ پن دوست چھو ونان ہر گاہ نے توہہ پانس خبر چھوہ۔ وَمَا  
جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بیہ بناونہ اسہ تمن پیغمبرن ہند بدن تھہ ہم نہ خوراک نہ غذا  
کیو ان آسن ملائکن ہند پاٹھ۔ بیہ چھہ سم کافر مظہر تہندس سمہ عالمہ گنہنہس، تھہ پیٹھ چھہ تم خوشیہ

الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۙ لَقَدْ  
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۙ وَكَمْ قَصَبْنَا  
 مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۙ  
 فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۙ لَا تَرْكُضُوا وَ  
 ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۙ

تہ شاہدہ کران۔ یہ ستمہ عالمہ گدھن ہنوتس منافی تہ خلاف۔ کیا زہ۔ و ما کا نوا خلدین تم برو ظہم  
 حضرات انبیاء زودنہ ہمیشہ دنیا ہی اندر۔ پس ہر گاہ تمہند وفات سپدہ تمہہ سیت کیاہ نقص لیہ لازم  
 تہندس نبوتس تمہ صدقہم الوعدہ فأنجینہم ومن نشاء واهلکنا المسرفین تو پتہ کور اسہ وعدہ پن  
 تمن مکرن سیت پوز۔ یعنی نافرمان پیٹھ عذاب نازل کر نس متعلق۔ تم سپد عذابس گرفتار پس دیت  
 نجات اسہ تمن با ایمان، بیہ تمن ہند اسہ یوڑھہ بیہ کمر اسہ ہلاک نافرمانی منز حدہ ڈلہ ون، لہذا گڑھ  
 کھوژن تمن کافرن ہند۔ ای منکر و ہر گاہ توہہ پیٹھ دنیا س منزیا آخرتس منز عذاب کرنہ لیہ کانہہ  
 تجب چھنہ کیاہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون پز پاٹ نازل کمر اسہ توہہ کن سہ  
 کتاب۔ تہہ منز توہہ کھو کافی نصیحت چھہ۔ کیاہ تو تہ چھنہ توہہ فخرہ تران و کھہ قصصنا من قریۃ کانت  
 ظالمة وانشا نابعدا ہا قومًا اخرین بیہ چھہ اسہ کاتن شہرن ہند لو کہ سم ظالم یعنی کافر آس ہلاک  
 تہ تباہ کرمت تو پتہ کور سپدہ تمن پتہ بیا کہ تو ماہ سم تمن شہرن اندر آباد کمر فلما احسبوا باسنا اذا ہم  
 منہا یرکضون ادہ یلہ تمو ژ یون سانہ عذابہ نازل سپد نک۔ اتی ہیر و کھ ژکن، اسہ دو پچھ لا تیرکضوا و  
 ارجعوا الی ما اترفتہ فیہ و مسکنکم لعلکم تسئلون ژلومہ، واپس ایو تہہ سازو سامانس کن۔ تہہ منز  
 روزت عیش آسہ کران۔ بیہ ایو پنہ نین گرن کن واپس دیو توہہ پڑھنہ لیہ کہ مال و دولتک تہ توتک  
 نشہ کوت گو۔ امہ آندہ چھو مہر اد تمن ژینہ ون دن کہ نہ زودوہ توہہ سامانہ کھنہ نہ روزوہ تمہ لہہ جلیہ  
 کھنہ۔ نہ زودوہ کانہہ ہمد رکنہ ساری گے ختم قالو ایو یکننا اناکم ظالمین یلہ عذابس گرفتار۔ تن سپدن تم

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۳﴾ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى  
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿۱۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ﴿۱۵﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ فَآيَةً  
 مِنْ لَدُنَّا لَإِنْ كُنَّا فَعِلِينَ ﴿۱۶﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۷﴾

دینہ لگ افسوس واقعی آس آس ظالم۔ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ پس  
 روزہ تین ہنزہ سے کر کے تو تان، یوت تان اسہ تم کتڑو تھ تھاو، شہلاو تھ تھاو وَا مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ سانس گن آسنس پیٹھ چھہ سان مصنوعات تہ مخلوقات دلالت کران  
 کیا زہ اسہ کمر نہ آسمان تہ زمین میہ یہ سمن دون منز چھو پیدہ گند ان گند ان حکمت تہ مصلحت ورا ی۔ اسہ کمر نہ  
 تم چھہ پاٹھ پیدہ کہہ آس کیا آسمو عبث تہ بے معنی اکھ کا ماہ کران۔ بلکہ چھہ یہ پیدہ کر نس اندر بحر جہ  
 حکمت تہ کتبہ یہ کہہ تم چھہ دلالت کران معبود برحقہ سندس وحدانیتس پیٹھ۔ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ  
 نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ فَآيَةً مِنْ لَدُنَّا لَإِنْ كُنَّا فَعِلِينَ پیدہ کر نس اندرے کنبی مصلحت آسمانہ بلکہ آسہا  
 اکھ مشغلہ بناون اسہ مرادیتھ منز نہ کا نہ رت فائدہ آسمانیلہ بناوہ ہو آس پنہ نس شے چیزس پن مشغلہ۔  
 مثلاً پنہ نین کمالہ کین صفاتن ہندس مشاہدس بناوہ ہو آس مشغلہ۔ کیا زہ مشغلس گوشہ شاغلہ سندس  
 ذاتس سیت مناسبتہا آرن۔ حضرت واجب الوجودس کیاہ مناسبت چھہ مصنوعات حادثن سیت۔  
 صفات قدیمہ باوجودیکہ تم چھہ لازم تہ پن چھہ مناسبت تم کیا تہ کن مشغلہ بنت۔ وون چھہ کتبہ  
 مصنوعات حادثن ہنز تم کیاہ تہ کن بنت مشغلہ باری تعالیٰ۔ لہذا سپد ثابت کہ آسمان وز زمین اسہ بے ہودہ  
 تہ عبث پیدہ کمر نہ۔ بلکہ کمر پیدہ اثبات حق تہ ابطال باطلہ خیرہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلکہ چھو سون ارادہ یہ تمام کائنات پیدہ کر نہ اندر حق و باطلک مقابلہ کرون۔  
 چنانچہ آس چھن ہنز کتبہ چھہ پیٹھ مصنوعات دلالت چھہ کران اپڑس پیٹھ ہنز ترہہ دو ان تہ غالب کران۔



وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ ﴿٢١﴾  
لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

کس چھو سو پوز تھہ اہڑس کاڑ کڈان اتی چھو سو اپڑ گان، ختم کوشہان و لکھ الویل مٹا تصفون تھندہ  
خبطرہ چھو ویل تہ افسوس بیہ سیٹھاہ خرابی۔ ای مکہ کیو کافرو، تمو کھو سیبہ سمہ تہہ ونان چھوہ معبود  
برحق نسبت۔ معبود برحقہ سڈ شان چھو سیٹھاہ تھود و لکھ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حال لکھ تم  
آسان تہ زمین اندر چھہ تم چھہ تہندی مملوک۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ  
لَا يَسْتَحْسِرُونَ تمو آندرہ تم کس نزدیک چھہ یعنی مقرر بان الہی تم چھہ تکبر تہ عار کران تہندہ عبادتہ  
نشہ، نہ چھہ تم عبادت کران کران تھکان زانہہ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ بلکہ چھہ رأس  
تہ دوہس تسبیح پران آسان، تراوان چھہ سو کام أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ توحید چہ  
ایژہ دلیلہ بوزت تہ چھہ تم زمینہ کین معبودان باطلن معبود ٹھہراوان۔ یم تہن مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن۔  
آسان ہند مقرر بندہ چھہ خدای قدوسہ سز عبادت کران۔ زمینہ بیہ زمینہ نشہ نیت مت مخلوق تم سیٹھاہ  
سفلی نمہ درجک مخلوق چھہ، تہن اندر چھہ تہہ کانہہ ہستی یم خدائس مقابل معبود تہن بنبت۔ یلہ خدای  
ذوالجلال تہندین پرستش کردہ وین سزوت تہ عذاب کمر تھہ مارہ تم معبودان باطل ہیکنہ سنا تہن تمہ  
عذابہ نشہ موکلاوت یامر نہ پتہ بیہ زندہ کمر تھہ۔ وون کس نہ عذابہ نشہ موکلاوت ہیکنہ یامر تھہ زندہ  
کمر تھہ ہیکنہ نیتھ عاجز ہیکیا معبود آرتھہ۔ لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ہر گاہ آسن آسان  
وز مینس منز معبود برحق ورا ی ہی معبود تلہ آسن تم دوشوے تباہ تہ بُر باد گامت۔ کیاہہ عادتاً  
آسہا تہن دوشون ہندین ارادن تہ کاین اندر اختلاف۔ اکھ دپہ ہارود تراوہ۔ بیا کھ دپہ ہابہ تراوہ نہ۔ دون  
منز سپدہ ہامزاحت۔ کس سپدہ ہافساد۔ وون چونکہ فساد چھہہ ہی آندرہ سپدہ معلوم۔ زہ چھہ کئی معبود

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ  
يُسْأَلُونَ ﴿۲۳﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا هَاتُوا  
بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي  
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾  
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

برحق چھو فسبحن اللہ رب العرش عَمَّا يَصِفُونَ پس معبود برحق عرش مالک چھو منزہ تہ پاک تمہو ساروی تھو نشہ سمہ کتھ مفرک تس نسبت ومان چھہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ سو چھو تھوی عظمتہ وول کہ تس لیہ نہ پر ژھنہ کتھ کامہ ہند۔ یہ کیا زہ تہ یہ کونہ۔ لوکن یہیہ پر ژھنہ یہ کیا زہ کورہ، یہ کونہ کورہ یلہ نہ تس عظمتس منز کانہہ شریک چھو، معبود آسٹس منز تھہ کتھ ہیچہ تس شریک آستھہ اَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیاہ معبود برحق تراوت چھہ تمہو بے معبود تھہراومت قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ اے لوکو چھوے اتھہ شرکس پیٹھہ کانہہ دلایلاہ سنو کتھرو پیش هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي یہ گنیہ کتاب تمہن لوکن ہنزیم مہ سیت چھہ یعنی قرآن مجید۔ یہ گنیہ تمہن لوکن ہنز کتاب تمہ مہ بروٹھہ آس یعنی تورات وانجیل وزبور۔ یکن سارنی کتابین منز ہاوتو امیک جہو تاہ تہہ جلیہ یعنی شرک بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ بلکہ چھہ تہی منز اکثر تہی تم نہ امر حٹک یعنی یقینی چھہ کران۔ تمہہ موکھ چھہ تم پوز قبول کرنہ نشہ اعراض کران تہ تھہ پھر ان۔ یہ توحیدک مسئلہ چھنہ نوکانہہ مسئلہ سمہ سیت تمہن وحشت پیدہ سپدان چھو۔ بلکہ چھویہ بروٹھہم شریعت چنانچہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ یہیہ سوزنہ اسہ توبہہ بروٹھہ کانہہ پیغبراہ مگر تس گن سوز اسہ یوہے وحی کہ کانہہ معبوداہ چھنہ مہ وراہی۔ پس کتھرو میانی یاژ عبادت تہ پرستش وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہُ سَمُو

وَسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ  
 بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ  
 لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾  
 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ  
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ

مشکوٰۃ آندره چہرہ و نان بعضی کہ حضرت رحمانس چہرہ اولاد ملائک بعضہ چہرہ و نان زہ ملائک چہس  
 کورہ۔ توباہ۔ توباہ، سوچھو اولاد تہ کورہ آسندہ نشہ منزہ تہ پاک، تم ملائک چہرہ تمسند اولاد بَلْ عِبَادٌ  
 مُّکْرَمُونَ بلکہ چہرہ تم خدایہ سند معزز بندہ تہندہ عبدق تہ مخلوق کیفیت چہرہ یہ کہ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ  
 وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ تم چہرہ نس بروئہ کتہ کتہ ہیگان کمر تہ۔ بلکہ چہرہ آسان پنہ جایہ روز تہ  
 حکم انتظار کران۔ بیہ چہرہ تم تہندس حکم تقیل کران۔ تم چہرہ تہندس حکم بدل کران کیا زہ  
 یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ چہرہ تہند بروٹھم یتیم سو روی حال زانان۔ تمن ہندہ  
 ادق کیفیت چہرہ یہ کہ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ بیہ چہرہ تم شفاعت  
 تہ سفارش کران کانہہ مگر تس بیدہ ہندہ اللہ تعالیٰ راضی آہ شفاعت کر نس۔ تم چہرہ تہندہ خوفہ سبہ  
 نند اندر آسان وَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ بیہ نس اکھاہ تمو ملکو آندرہ  
 دعوے کرہ پنہ معبود آسک معبود برحقس و رای نس و موس آس سزاناں جہنم کَذَلِكَ نَجْزِي  
 الظَّالِمِينَ نتھے پاٹھ چہرہ آس ظالم سزادوان أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیا تم کافر سز نامعلوم یہ کتہ کہ پنز پاٹھ آسانہ تہ زمین اوس اکھا اس سیت  
 میلٹھ بند۔ نہ اوس آسانہ رود پیوان نہ اوس زمینہ منزہ کینہہ پیدہ سپدان۔ نس مڈرا و اسی تم دوشوے۔

كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ  
تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾  
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿۳۲﴾  
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ  
أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

اکھ اکس نشہ کمر جدا۔ ہتھ پاٹھ کہ آسمانچہ طرفہ ترورود زمینہ منزہ کھور گاسہ۔ امیر بارشہ سیت چھنہ زمینہ  
منزہ گاسے یوت کھسان بلکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بلکہ بنواسہ امیر بارشہ سیت پر ہتھ چیزاہ  
جاندارتہ زندہ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیاہ توتہ کرن نام پڑھ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي بیہ کمر اسمہ پنہ  
قدرتہ سیت زمینس پیٹھ کوہ پیدہ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ہتھ نہ زمین لکھ ہتھ اورہ یور ڈلہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا  
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کرہ اسمہ اتھ زمینس منز شادہ وتہ ہتھ لوکھ واتان آسن پنہ نین  
مظلمین تہ مقصدن وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا بیہ کور اسمہ آسمان محفوظ پشاہ اکھ نیس وار نیس  
کاکس موجود روزہ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ مگر تم لوکھ چھہ امیر کیو قدرتی نشاوتہ نشہ ہتھ پھر ان  
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بیہ چھو سو خدائتھ قدرتہ  
وول کہ رات تہ دوہ کوزن پیدہ، پر ہتھ اکھاہ تمودویو اندرہ چھو پنہ نیس مدارس منز ہتھ پاٹھ پکان زان  
ژھانٹ وایان چھہ۔ تم لوکھ چھہ تھندس وفاتس پیٹھ خوشی تہ مسرت ظاہر کران۔ یہ وفات چھنہ  
نبوتس منالی کینہہ تہ کیا زہ وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَأَنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ اسمہ  
کورنہ توہہ برونٹھ کانسہ بشرہ سندہ خیطرہ (خواہ سونہ آستن یا غیر نبی) دنیاءس اندر ہمیشہ زندہ روزن  
مقرر۔ ہتھ پاٹھ توہہ برونٹھ پیغمبر سوزنہ آے توپتہ گے تم اسمہ عالمہ ہتھ پاٹھ سوزدہ تہہ تہ، تہہ تہ چھوہ  
سمہ عالمہ گڑھن۔ کیاہ ہر گاہ تہہ سمہ عالمہ گڑھو، تم چھاروزن ہمیشہ زندے۔ تم تہ چھو نمز، سمہ

الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا  
 الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ وَهُمْ يَذُكَّرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُوا وَ ﴿۳۶﴾  
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۷﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ

دنیا آندره نیرن۔ تم تھ پیٹھ چھہ تہندس سمہ عالمہ گڑھنس پیٹھ خوشی ظاہر کران کُلْ نَفْسٍ  
 ذَٰلِكَ الْمَوْتُ مَاتَ جُحُو شَيْتْہ چیزہ کہ پریتھ جاندارہ چھو اہمہ نتہ اہمہ دوہہ موتک مزہ ژہن وول  
 وَنَبَلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ بیہ بیوسہ اہمہ توہہ چندروزہ زندگی دژ مژ چھہ سنو چھہ  
 محض توہہ خیرہ تہ شرہ سمیت آزمائش کرنہ خیطرہ۔ دنیا آندره نیرت چھو توہہ اسی نغمہ وائٹن۔ اسہ نغمہ  
 واتھہ پیہ پریتھ اہس مناسب سزائہ جزائہ بین کافران ہنز حالت چھہ یہ کہ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا یمانہ کافر توہہ وچھان چھہ تمہ ساتہ چھہ توہہ سمیت ٹھٹھہ تہ استہراء  
 کران۔ پانہ وان چھہ ونان کہ اَهِذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ وَهُمْ يَذُكَّرُ الرَّحْمَنُ هُمْ كَفَرُوا کیا بیوسہ  
 شخص چھانس تہندین معبودن نسبت چھو پیچھ ونان۔ حالانکہ تم چھہ حضرت رحمانہ سڈناہینہ نشہ انکار  
 تہ گھر کران۔ حقیقتس اندر آس اعتراض کھہ پیہ۔ تمن پڑہ ہاپائس اتھ پیٹھ ملامت کرن۔ اہمہ خونتہ  
 تعجب چھو کہ سمہ ساتہ تم یوزان چھہ کہ گھرک سزائہ چھو نزول عذاب، تم چھہ انکارہ کن تھہ عذابس  
 جلد ژھانڈان خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ انسان چھو پیدہ کرنہ اُمت بانبرہ۔ ژان امستہرہ آڈرنہ منز چھہ  
 تراونہ آمرژ جلدی تہ بانبرہ۔ امی موکھ چھہ سم لوکھ جلدی عذاب منگان۔ تھہ منز ژیر گڑھنس چھہ زانان  
 عذاب واقع نہ سپدنج دلیل سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ای کافر و بانبرہ مہہ جلدی ہاودوہ یو توہہ  
 عذابس گرفتار کرنک نشانہ تہ علامت۔ تہہ مہ کمر و جلدی کیا زہ وقتہ بروٹھ سؤ عذاب ایہ نہ۔ و تقس پیٹھ  
 پینہ نشہ ڈلہ نہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان تم لوکھ کہ کرسپدہ بیہ وعدہ

الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا  
عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً  
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾  
وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِك فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا  
مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ مَن يَجْلُوكُم بِالْبَيْلِ  
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

پورہ چھوے نہہ پزار۔ لَوَيْعَلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ  
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے کاش تم کافر نہ ہتے تمہ وقت خبر گزشتہ ہایلیہ تم جہنمک نار پر تھ  
طرف ولنہ پیہ تو پتہ بیکن نہ تم سونا پانس برو تھکن دور کمر تھ نہ پتہ پختہ کن تہ تھز کن دور کمر تھ۔  
نہ ایہ تم کا نہ مدد کرنہ۔ اگر تم تہ معلوم آسہا۔ تیلہ کرہ کن نہ تم عذاب نارچ فرمائش۔ لہذا جھنہ یہ  
تھ ضروری کہ تہزہ فرمائشہ موافق کیا ایہ نارک عذاب تم کرنہ۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ واتہ تم برو تھکن سو عذاب ہتھ تہ متھ۔ سو کی کر کیہ  
حیران۔ دم پھٹ گزھن۔ پس بیکن نہ تھ نارس پانس نشہ دور کمر تھ نہ اکیہ مہلت ونہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ  
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِك فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ بیشک بیہ جھہ ٹھٹھ آمت  
کرنہ تم پیٹبرن سیت تم توہہ برو تھ آس یار سول اللہ۔ پس آولنہ تم ٹھٹھ کرہ ونین سو کی عذاب  
یتھ تم ٹھٹھ کران آس قُلْ مَن يَجْلُوكُم بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نہہ فرماو یو کہ یار سول اللہ کہ  
دنیا اس منزئس توہہ محفوظ چھوہ عذابہ نشہ پتہ جھہ مہربانی حضرت رحمانہ سزئی ہر گاہے تہہ ماو تہز  
مہربانی تہ احسان تلہ ونسو نہہ جہہ چھوہ را جھہ کران راتس تہ دوہس حضرت رحمانہ سندہ عذابہ نشہ۔ یہ  
چھہ تہزئی رحمت تہ مہربانی کہ سو چھونہ توہہ نافرمانی سبہ عذابس گرفتار کران۔ ورنہ توہہ جہہ ہیچہ تمہ  
عذابہ نشہ بچاوت۔ یہ مہربانی تہ احسان اوس منگان کہ یہ محسن تہ مہربانی کرہ ون گزھہ سو کی زان۔ تس

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ  
 أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ  
 آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي  
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِنَّمَا  
 أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْعَى الضَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾

گوئند نہ کا نہ شریک تھاؤں۔ مگر تم چھتہ توتہ توحیدک اقرار کران بَلْ هُوَ عَنِ ذِكْرِهِمْ  
 مُعْرِضُونَ بلکہ چھہ تم بدستور پنہ نس حقیقی پروردگارہ سندہ یادہ نشہ تہ توحیدہ نشہ پتھ پھر ان  
 روگردانی کران أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ  
 کیاہ تم چھا اسہ ورا ای تھہ معبود سم تم چاوتھہ تم کن سائہ عذابہ نشہ۔ تم کیاہ تم کن چاوتھہ تم کن  
 چھونہ طاقت پتھ پان چاوتھہ۔ تم کن کیاہ تم کن چاوتھہ۔ نہ ہیچہ مقابلہ کہ وقتہ کا نہہ اسہ منزہ تم کن سیت  
 روز تھہ۔ تم کن کافر ن ہند کس پیٹھہ اصرار کران۔ یہ چھہ سمہ وجہ کہ سائین دلیلن منز کیاہ چھو کا نہہ  
 نقص بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ چھو اصلی وجہ کہ اسہ کور تم کن  
 لوکن یہ تھہدین مالین بدین دنیاء ک سامان عیش مہیا۔ یوتان ہمزہ عمرہ بڈے یہ۔ تم آے پٹت در  
 پٹت دنیاء س منز عیش و آرام کران۔ تم آیکھ غفلت ولہ۔ غرض نقص چھو تھمی منز۔ سو گو غفلتک  
 نقص تہ خلل۔ اسہ کرے یہ بیان تم چیز سموسیت تم غفلت ڈلہ ہا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ  
 نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ کیاہ تم چھناو چھان کہ اس چھہ تھدس زمینس بذریعہ فتوحات  
 اسلامیہ پر پتھہ طرفہ کی کران۔ یکن ہندہ تصر فہ نشہ کڈت مسلمان ہندس تصر فس منز آنان۔ کیاہ تم  
 ہیچہ سانس پیغمبرس پیٹھہ غالب سپد تھہ۔ تم چیز و چھت تے توتہ تم جمالتس تہ عنادس پیٹھہ اصرار کر  
 تھہ عذاب فرمائش روزن کران قُلْ إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ تھہ فرماؤ یو کہ یو چھو سنہ مگر نیم کران توہہ  
 وچیکہ ذریعہ۔ عذاب واقع کران چھونہ مینس اختیارس اندر۔ اگرچہ پتھہ پاٹھہ نیم کران اوس کافی مگر ولا

وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا  
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ  
 مُشْفِقُونَ ﴿۴۰﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

يَسْمَعُ الصَّخْرَةُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يَدْعُونَ تم زیر اسمہ ساتھ پڑسُن نادو تھ عذابہ سیت کھوڑا و نہ بیوان چھہ  
 تم چھہ سُو آلو بوزانی وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو پتہ  
 اسمہ ساتھ تمن چھہ پڑس پروردگار ہ سندہ عذابہ ہولوک اکھ دکاہ لعمہ تمہ ساتھ وہین ہاے افسوس واقعی  
 آس آس ظالم تہ خطاکار وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بیہ گرو آس قیامتہ دوہنہ قائم عدل  
 ترکر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس ایہ نہ کاسہ نسبت ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ بیہ ہر گاہ اسمہ لعمہ اکس اسم پھلس برابر اسمہ کاسہ ہنر عمل،  
 سنوہ آس تو نہ خیرہ بیہ چھہ اس کافی حساب ہینہ خیرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ  
 وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ پڑاٹھ بیہ کر اسمہ حضرت موسیٰ آس تہ حضرت ہارونس عطا تباہ، یوسہ  
 پڑس تہ اپڑس منز فرق کرہ و ن آس۔ بیہ و تھ ہاونہ خیرہ اکھ گاشاہ بیہ اکھ نصیحت ناماہ پر ہیز گارن  
 ہندہ خیرہ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ تم پر ہیز گار پنہ نس  
 پروردگار س غائبانہ کھوڑان چھہ، بیہ تم قیامتہ نشہ تہ کھوڑان چھہ، تھہ پڑاٹھ تمن یعنی موسیٰ تہ ہارون  
 علیہ السلام اسم کتاب عطاکر وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ یہ قرآن مجید تہ



مُنْكَرُونَ ۵۰ ۞ وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُسُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ  
 كَتَابَهُ عَلِيمِينَ ۵۱ ۞ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ  
 الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَافِكُوْنَ ۵۲ ۞ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا  
 عِبَادِيْنَ ۵۳ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ  
 مُّبِيْنٍ ۵۴ ۞ قَالُوْا اَجْمَعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِيْنِ ۵۵ ۞  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي

چھو بارکت اھ نصیحت ناما، نُس اسہ نازل کور کیاہ تہہ چھوہ اتھ انکار کران وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ  
 رُسُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كَتَابَهُ عَلِيمِينَ پنر پات بیہ کر اسہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام  
 بروٹھ پنر دوتتہ معاملہ فہمی عطا کیوسہ تہندس شناس شوہ ہا۔ اسہ آس بروٹھ خبر تہندین کمالات  
 علین ہنز اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَافِكُوْنَ قابل ذکر چھو تہندیہ واقعہ  
 یلہ تمودوپ پنہ نُس ماس تہ پنہ نُس قوس یلہ تم مصروف وچھہ تمودوپ تلمین ہندس عبادتس  
 اندروو تھکھ سمہ گمہ شکلہ چھوہ توہہ تھاومرہ تہن پرستش کرنہ خیطرہ تہہ پرستھ وقتہ تہن بروٹھ کنہ بہت  
 چھوہ آسان قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عِبَادِيْنَ تمودوپک جواب کہ اسہ وچھہ مال تہ بڈبب یعنی  
 پرستش کران۔ تم لو کہ آس عاقل لہذا زون اسہ تم چیز چھہ پرستھہ قابل۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ  
 وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ابراہیم علیہ السلامن دوچھہ تہہ تہ بیہ تہند مال بڈبب چھوہ پنر پاتھہ تم  
 پوتل لایق عبادت زانہ نُس اندرنہ گمراہی منزبتلا۔ تم آس پانہ گمراہ، تہہ تہ رُودوہ تھہ گمراہی پیٹھ۔ یہ  
 بوز تمودووا کہ کتھہ۔ تم گئے یہ بوزت حیران۔ تمودوپ قَالُوْا اَجْمَعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِيْنِ  
 تم لگ دینہ کیاہ تہہ چھوہ پنہر جاہیہ یہ کتھہ پنر زانٹھہ اسہ نشہ پیش کران۔ کنہ تہہ چھوہ تھہ محول کران  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ابراہیم علیہ السلامن فرمودہ کہ محول  
 چھوہ بلکہ چھہ پنر کتھہ نہ صرف مے نشہ بوت بلکہ واقفس منزتہ چھہ ییہ پنر کتھہ کہ رب تہند تھاوسوی

فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾  
 تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۵﴾  
 فَجَعَلَهُمْ جُذًا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۶﴾  
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ قَالُوا  
 سَبْعِنَا فَمَا يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا  
 فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

ذاتِ پاک نئس سارنی آسمان تہ زمین ہند رب چھو۔ تم تم آسمان زمین گوڈہ پیدہ کر بد تمہم نقشہ تہ نمونہ آسنہ ورائی۔ بیہ یہ تم آسمان تہ زمین منز چھو تہ سو زوی کور تمہی پیدہ تہ منز تم تہند پوتل تہ چھہ شامل۔ یعنی تم تہ چھہ تمی پیدہ کمر مت۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ بوجھس پانہ ایچ گوانی دوان۔ اتھ پیٹھ چھہ مہ نشہ دلیلہ تہ۔ یو چھوس نہ تہند پاٹھ اچھہ وٹھہ تقلید کرن و تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ۖ قسم خدا یو کرہ تہندین پوتلین ضرور کینہہ تدیرہ تہ بند وبتاہ تہ توبہ معلوم سپدہ تہند عاجز آسن تہندہ تم نشہ واپس گوہنہ پتہ فَجَعَلَهُمْ جُذًا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ چنانچہ تہندہ گوہنہ پتہ کر ابراہیم علیہ السلام تم پوتلین تہرہ سیت ریزہ ریزہ۔ مگر نہ اس بڈس پوتلس۔ تہس کور کھ نہ کینہہ تہ تہندہ تم تم کن واپس سن دریافت کرنہ خیطرہ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ تمہہ پتہ بلہ تم واپس آئے و چھکھ پوتلین ہند یہ حال۔ دپنہ لگ یہ بے ادبی تہ بے حرمتی ہنز کام تم سنا چھہ کمر مرسانین معبودن نسبت پیشک چھو سونو ظالم قَالُوا سَبْعِنَا فَمَا يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ۖ بعضی لگ دپنہ آسہ بوزاکھ جواناہ اوس تم پوتلین ہند تذکرہ کران۔ تہس چھو نا وبراہیم قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۖ دچھہ تہس انیون سوسارنی لوکن تہی۔ تہندہ تم تہی اقرار کرہ تم تہ روزن تہ پیٹھ گواہ توپتہ انہ نوؤکھ ابراہیم علیہ السلام قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۖ يٰۤإِبْرَاهِيمُ ۖ دوپہس اے ابراہیم تہ کور تہ یہ حال

ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا بَرِّهِيْمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَطْ  
 كِبٌ رُّهُمُ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ  
 أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ  
 رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاهُوَ الَّذِي يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ أَفِ  
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾  
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۶۸﴾

سائین پو تلین نسبت قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَطْ كِبٌ رُّهُمُ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ تمودوہیک بلکہ چھو  
 کورمت یہ یہہہ بڈہی پو تل۔ نُس پر ژھتو تم پو تلین چھے تم کلام کرہ ون فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا  
 إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ پتہ پھیر تم پانس گن۔ پان پانس سبت سوچ کمر تھ لگ اکھ اکس ونہ۔ یقیناً چھہ  
 زیادتی تہندی طرفہ (بے جان کینن معبودون چھو بیشک ظلم) ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ  
 مَاهُوَ الَّذِي يَنْطِقُونَ توپتہ آکھ نومراونہ کلہ یون گن نجالتہ سببہ۔ کلہ یون گن تراوتھ لگ ونہہ واقعی  
 توہہ چھو معلوم اے ابراہیم تم پو تل چھہ کئی ہیکان ونہہ۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
 يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ابراہیم  
 علیہ السلامن دوچھہ کیاہ چھہ اودہ معبود برحقس ور اے تمن چیزن ہنز پر ستش کران تم نہ توہہ  
 کانہہ نفع ہیکن وائتاو تھہ بیہ نہ کانہہ نقصان۔ سیٹھاہ تنگ چھس یوسد مت تہندہ موکہ بیہ تمن ہنز چھہ  
 پر ستش چھوہ کران معبود برحقس وراہی۔ کونہ چھوہ چھہ عقل کران نُس بے جان چیز تھہ ہیکہ نہ کمر تھہ  
 سؤی ہیکیا معبود آتھہ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ تم لگ ونہہ پانہ وان ام  
 ابراہیم گن زال سان پھر۔ لہذا آڑھہ پتہ زال نہ یون نارس اندر۔ چھہ کمر ومد معبودن پنہ نین چھوے توہہ

قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۹۹﴾ وَأَرَادُوا  
 بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِثِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۱﴾ وَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۱۰۲﴾  
 وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  
 الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا تَارِعِينَ ﴿۱۰۳﴾

کینہہ کران۔ تو پتہ کوزکھ نار تیاروارہمس کالس زمین سونبرتھ۔ تمہ پتہ یلہ ابراہیم علیہ السلام تھہ نارس  
 منز تراون ہیو مجھ قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ تعالیٰ فرماوان مجھ کوراسہ نارس،  
 ناروسر دسپد، بیہ سلامتی ہند ذریعہ ابراہیمس پیٹھ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِثِينَ بیہ کریو  
 تموارادہ پنہ تدریہ سیت ابراہیمس نقصان واتناونک۔ جس کمر اسہ تھے سخت نقصان تله ون۔  
 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ بیہ دت اسہ نجات ابراہیم علیہ السلام  
 بیہ لوط علیہ السلام، جس تھند باپہ تھروس دشمن نشہ۔ واتناو اسہ تم دوشوے تھہ زمینس منزیتھ منز  
 اسہ برکت چھ تھامز لوکن ہندہ خیرہ یعنی ملک شامس اندر وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 نَافِلَةً بیہ کوراسہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرزند اسحق علیہ السلام تھندس مگنس پیٹھ۔ بیہ یعقوب علیہ  
 السلام علاوہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ بیہ کمر اسہ تم ساری، مول پٹھو پٹھو سڈ پٹھو، پیغبر یعنی ترشوے کمر  
 اسہ پیغبر وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا بیہ کمر اسہ تم امام تہ پیشوا لوکن ہند تم تمن و تھ ہاوان چھہ  
 سانہ حکمہ موجب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا تَارِعِينَ بیہ  
 سوز اسہ تمن گن وحی رتہ کامہ کرنک بیہ نماز کرنک۔ بیہ زکوٰۃ کرنک۔ بیہ آس تم سانی یاثر عبادت  
 کران۔ یژھ شوہ تہ تژھ وَلُوطًا اتينهُ حَكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
 الْحَبِيثَاتُ بیہ کوراسہ عطا لوط علیہ السلام نبوتک اختیارات بیہ علم بیہ ولس نجات تمہ شہرہ نشہ سمہ

وَلَوْ طَأَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي  
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿۴۳﴾  
وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۴﴾ وَنُوحًا  
إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  
الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۶﴾ وَدَاوُدَ  
وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمٌ

شہر کو لکھ ناپاک تہ پیچھ کوم کران آسِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ بے شک آس تم لو کہ پیچھ  
قوم سخت بدکار وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ کور اسمہ سُو لوط علیہ السلام داخل پنہ  
نین تم بنان اندر تم ن پیچھ رحمت ہتھہ نازل سپدان۔ کیا زہ تم آس بے شک بدہ درجہ کیونیک مردو  
آندرہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بیہ کریوز کرنوح علیہ  
السلامہ سُنَدِ قِصَّةِ يِلْمِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُس برونٹھ تمو اللہ تعالیٰ اس مُونگ ای بارخدا ایامین کافرن نَشْرِ  
بیہکھنا زہ میون بدلہ۔ نَسِ كُر اجابت اسمہ تھندس مَنگس۔ بیہ دیت اسمہ نجات تم ن بیہ تھندس لوکن تہ  
تالغن بدہ غمہ نَشْرِ۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ کور اسمہ مدد تم ن، تم ن لوکن  
پیچھ سموانکار کور تہ اہز زان سان آیات اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک تم  
آس سیٹھا پیچھ لو کہ نَسِ پھا لو اسمہ تم ساری یچہ وَهُ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ  
نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمٌ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ بیہ کور ویا د داود علیہ السلام تہ سلیمان علیہ  
السلامہ سُنَدِ قِصَّةِ يِلْمِ تَمِ فِیصَلہ کران اسمہ اَمْرَ زراعٹگ تھہ منز غلہ اوس بیہ دچھہر کل آس۔ تھہ زراعٹس  
رات گیت اسمہ تومگ جب (تیر) آس پیمت۔ سمہ سیت تھہ زراعٹس نقصان ووتمت اوس۔ حضرت

الْقَوْمِ وَكَتَابُ الْحِكْمِ مِنْ شَهِدِينَ ﴿٤٨﴾ فَفَقَّهْنَهَا سُلَيْمَنَ  
 وَكُلًّا اتَيْنَاهُمْ وَأَعْلَمْنَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ  
 يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ  
 لَبُوسٍ لَكُمْ لِيَتَّخِذَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 شَاكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

داؤد کور فیصلہ زراعتہ والس گڑھن سم تیر من دنہ امہ نقصانہ بدل۔ آس آس تہند فیصلہ و چھان  
 فَفَقَّهْنَهَا سُلَيْمَانَ کہس تور فخرہ اسہ تمیک فیصلہ حضرت سلیمان تمودوپ سم تیر روزن زراعتہ  
 والس نغمہ۔ یہ کہیہ تمک دودھ۔ بیہ تلہ بہنز مون (بیر) تیرہ دول گرہ زچہ تہ زراعت خد مت یو تان  
 زراعت پختہ سپدہ تہ پچہ۔ تو پتہ بیہ زراعتہ والس زراعتہ والس دنہ تیرہ والس تیرہ والس دنہ  
 اتینا حکمًا وعلماً تمک دوشون صاحبن اوس اسہ قوت فیصلہ بیہ علم عطا کور مت و سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ  
 الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ بیہ کمر اسہ مسخر تہ تابع داؤد علیہ السلا مس کوہ۔ تم کوہ آسن  
 تمی سیت تسبیح پران۔ بیہ و ذون جانور تم تہ کمر تمک مسخر تہ تابع۔ تم تہ آس تمی سیت تسبیح پران۔  
 کانسہ ہند گڑھہ نہ بیہ عجائب زان۔ یہ سو روی کرہ ون آس آسی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ  
 لِيَتَّخِذَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ بیہ پچھناہ اسہ داؤد پیغمبر تہندہ جنگی لباس و ونہ نک  
 گسب یعنی زرہ۔ بیہ توبہ بچاؤہ سو لباس اکھ آسندہ تکلیفہ نشہ۔ کیا چھوہ توبہ امہ تسبیح شکر کداری کرہ ون  
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ بیہ  
 کمر اسہ سلیمان علیہ السلا مس مسخر تیز او۔ سو ی اوس پکان تہندہ حمہ ملک شامس کن۔ بیہ ملکس اندر  
 اسہ مجر بر کتر تھاومرہ ہجہ۔ بیہ ہجہ اس پر ہتھ چیزاہ پورزانہ ون وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَبْغُضُونَ لَهُ  
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ بیہ تھاواہ تابع سلیمان علیہ السلا مس بعضی جن

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا  
 دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ  
 رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٧﴾  
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ  
 مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿٨٨﴾  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٩﴾  
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٠﴾

سیم سمندر س منز تهنده خیره دنگ ته غوطه د تھ نخه، لعل ته جواهر کھاران آس۔ بیه آس تم جن امه  
 وراى ته بیه کامه کران۔ اسی آس تمن جن راپھہ کمر تھ ته سنبھال تھہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي  
 مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ بیه کمر و تذکرہ ایوب علیہ السلامیہ سُنْد قصہ یلہ اُنس سخت  
 مرضس مبتلا سیدت تم نادویت پنه نس پروردگار س ای زہ بوچھوس سخت تکلیفیس مبتلا۔ ژہ چھوک  
 ساروی رحم کره و نیو آندره زیادہ رحم کره ون میانس حاس پیٹھ ته کر ته رحم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا  
 مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ کس کمر اسہ  
 اجابت تھندس مگنس کوس اسہ تمن سوتکلیف ته سختیوسہ تمن آس۔ بیه کمر اسہ تمن عطاخر با تھہ  
 ایت برو تھہ آس تمن سیت بیه تھیت پنہر رحمتہ سیت، بیه اکھ و عظ ته نصیحتاہ بندگی کره و نین ہندہ خیرہ  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ بیه بوزو حضرت اسماعیلہ سُنْد حضرت ادریسہ  
 سُنْد، بیه حضرت ذوالکفلہ سُنْد۔ سیم ترشویہ چھہ صبرہ والیو آندره وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ  
 الصَّالِحِينَ بیه واتاوا سہ پنہ نس رحمتس منز۔ بیشک تم چھہ نیکو کار و اندرہ وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ

وَذَاتُ النَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ  
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  
مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْعِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَذَكَرْنَا  
إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ  
مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ کر یونہی کہہ گاڑا وہ اس پیغمبر یونس علیہ السلام سے کہہ دیا۔ یہ تم پندرہ قوم نے تمہارے  
تین نے تمہارے سپرد تھے۔ یہ نہ تموا ایمان قبول کر۔ تو پتہ یہ کہ تمہارے قوم نے تمہارے عذاب دور سپرد تھے تہ آئے نہ  
تم واپس بلکہ تمہو کہ پٹن سفر جاری سانہ اجازتہ وراہی۔ تمہو کور پتہ اجتمادہ سیت یہ خیال کہ تمہ میانس  
بلا اجازت سفر کرئس پیٹھ سپدہ نہ مہ پیٹھ کانہہ باز خواست۔ انبیاء عن پیٹھ چھو لازم و حیس پیارن۔ وجہ  
موجبہ پر تھہ کاماہ کرن۔ تم سہز اتھہ ترک مناسب کرئس پیٹھ خدایہ سندہ طرفہ آزمائش۔ تھہ آواکھ  
دریادواہ اکھ۔ یہ آہ ناواہ اکھ۔ تم سپد تھہ ناوہ منز سوار۔ ”یہ ناوسہز طوفانس گرفتار پتہ تراوہ ہائز وچیرہ  
کہ کس سنا چھہ بغیر اجازتہ سفرس درامت، چیرن منز دراؤ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلامن ہندناؤ  
دوبارہ تہ آہ چیرہ تراؤنہ متہ تہ دراؤ تھندی ناو“ کس آہی تراؤنہ تم دریاس منز۔ اتی سچ ناو۔ خدایہ سندہ  
حکمہ سیت آہ اکھ گاڑا۔ تمہی کھے تم یعنی یونس علیہ السلام۔ کس مونگ تمہو تاریکی تہ گٹن اندر کہ تہ  
ورای چھونہ کانہہ معبوداہ۔ تہ چھوک ساروی عیبو تھہ منز تہ پاک۔ یو چھوس گتہ کارو آندہ۔ میانہ  
طرفہ آہ غلطی۔ میون قصور کر معاف۔ مہ موکلاو سمہ سختی منزہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ  
الْغَمِّ کس کسر اسہ تھہندس مگنس اجابت۔ یہ دیت نجات اسہ تہن غمہ تھہ وَكَذَلِكَ نُصْعِي  
الْمُؤْمِنِينَ۔ تھہ پاٹ اسہ یونس علیہ السلامس نجات دیت۔ تھہ پاٹھ دمو اس نجات با ایمانن ہیلہ تم  
تہ دعا پرن۔ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ



الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا  
لَهُ زَوْجَهَا اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ  
يَدْعُوْنَآرْعَابًا وَّرَهْبًا وَّكَانُوْا الْنٰخِشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾  
وَالَّتِىْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ  
جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ  
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ

سکر و یاد زکریا علیہ السلامہ سُند قصہ۔ یلہ تمومونگ پنہ نس پدوردگار س، ای میانہ پروردگارہ منہ تراوتہ  
مہ لاوارث تہ بے اولاد۔ ثری جھوک حقیقی تہ بہتر وارث۔ سوا اولاد تھاوہ ہامیان کام تومس اندر باقی۔  
تمن آسماچان احکام و اتناوان فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهَا نِس سکر اسہ  
تہدیس منگس اجابت توپتہ کور اسہ تمن عطا فرزند، یحییٰ علیہ السلام بیہ سکر درست اسہ تہنز آشن۔  
تمن یوسہ ہانٹھ آج شکایت آس سکر اسہ دور تمن۔ سوسہ اولاد نہ نس قابل اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ  
فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعَابًا وَّرَهْبًا بے شک ہم ساری پیغمبر تمن ہنز ذکر تہ سورہ شریف  
منز کرنہ آس جلدی کران خیرہ چن کاین اندر بیہ آس سان عبادت کران توقع سان تہ خوف  
سان وَّكَانُوْا الْنٰخِشِعِيْنَ بیہ آس تم اسہ بروٹھ تہ عاجزی نراوہون وَالَّتِىْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا  
فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ بیہ کر یو تذکرہ نس دید صابہ ہند سمہ راجھ  
کر پنہ نس سکتس مردن نشہ نس و اتناواسہ ہن روح بواسطہ جبریل امین علیہ السلام تمن نشہ، سمہ  
سیت خاندن س و رای تہدیس سکتس اندر چہ رود یعنی حضرت عیسیٰ تمی چھہ و نان تمن روح اللہ۔ بیہ سکر  
اسہ سکو دید صابہ بیہ تسد فرزند پنہ قدر تک اھ بوڈ نشانہ اھ سارنی عالمین ہندہ خیطرہ یعنی تہدہ کچاح  
ورای حاملہ سڈن بیہ فرزند اھ پیدہ سڈن بے پد۔ ای آندرہ گوشہ زان کہ اللہ تعالیٰ جھو پر تہ چیز س  
پیٹھ قدر تہ وول اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ اے لو کو سمہ بروٹھ نس

بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجُوعٌ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾ وَ  
 حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا  
 فُتِحَتْ يَا حُجُوجٌ وَمَا جُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾  
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ

مضمون بیان آورده نموده اند هر چه معلوم شد انبیاء کران مند طریق چھو توحید۔ بیٹک یو ہے چھو تہند  
 طریق یتھ مستقیم روزان چھو توہہ پیٹھ واجب۔ یہوی چھو کوی طریق یتھ منزہ کانہ پیغمبر  
 اختلاف چھو سمہ طریق حاصل چھو کہ یو چھو س تہند حقیقی پروردگار، کس ہزہ توہہ میانی یا اثر عبادت  
 کرن، لوکن اوس لازم اتھ طریقس پیٹھ محکم روزان وَنَقَطُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجُوعُونَ  
 مگر لوکو کوردینہ کس معاملس اندر اختلاف۔ دینس کمر کہ لکرہ لکرہ۔ تمیک سزا کھین تم پانے۔ کیا زہ  
 پریتھ اکس چھو واتن اسی نشہ۔ یوت واتھ تلہ پریتھ اکھاہ پنہ عملہ ہند نتیجہ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ  
 الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس کس اکھاہ رز کام گرہ با ایمان آتھ  
 کس ضائع تہ چھنہ گھسہ نہ تہز۔ کوشش۔ اُس چھہ تہزہ عملہ لیکت تھاون وال وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ  
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ناممکن چھو تم شرن ہندین لوکن ہند سم اسمہ نافرمانی سبہ گال دنیاس  
 کن ہہہ والکس سن حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا حُجُوجٌ وَمَا جُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یوتان یا جوج  
 ماجوج یکہ تراوندین سم و کس سد سکندر کس منز بند چھہ توپتہ دورن تم کوہو تہ بالو پیٹھ وَاقْتَرَبَ  
 الْوَعْدُ الْحَقُّ توپتہ سپدہ پورہ پوزوعدہ یعنی قیامت سپدہ تمہ پتے قایم قَاذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا توپتہ لگن درہ کافرن ہنزہ کہچہ۔ تم اس ای وانان یُوَيَّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ  
 کتا ظلمین قیامتک ہولناک حالات و جہت دہن ہای افسوس پز پاٹ اس اس قیامتہ نشہ غفلتس منز

كُتَابِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۷﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ  
 إِلَهًا مَا وَرَدُوا مَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۹۹﴾ لَهُمْ فِيهَا  
 زَفِيرٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ  
 لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ  
 حَسِيصًا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۰۲﴾

یو ڈمت۔ غفلت گئے یہ ہر گاہ اس کا سہ خیر دار آسہو نہ سحر مت بلکہ آس اس ظلم کرہ وں لاکم و  
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ونبہ بیچھ ہنز پیاٹ نہہ اے  
 مخر کو بیہ سمن ہنز پر ستش کران آسہو نہہ خدا نس ورا ی چھوہ از نار جہنمک زبن۔ تہہ منز چھوہ تو بہ  
 سارنی ضرور واٹن۔ معبود و اندرہ ہم بعضے ملائکہ یا پیغمبر چھہ تم چھہ بیہ آینہ کریمہ سیت امہ نشہ مستثنیٰ  
 آمت تھاونہ تمیک ذکر بیہ عنقریب لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَهًا مَا وَرَدُوا مَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ تم بیہ  
 ونبہ ہر گاہ آسن تم پو تہل معبود تیلہ کیا زہ وادہ بن تم نار جہنم منس منز۔ نیر روزن تہ کم کینہہ کالاہ تھونہ  
 تو بہ، تو بہ سارنی چھو روزن ہمیشہ اتھ جہنم اندر لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ تم  
 کافر ان آسہ جہنم منس کریکہ نادہ شور وغل ستمہ سبہ تم اکھ آسن تھی آسن نہ بوزان إِنَّ الَّذِينَ  
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ہنز پیاٹ بہندہ خیطرہ برو نطھی ازلہ مقر چھہ امر  
 کرنہ نیکی تہ رڑ، ہمیک ظہور آسہ سد مت تہد یو اعمال و افعالو سیت تم چھہ امہ جہنمہ نشہ دور تھاونہ  
 آمت لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصًا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ تم بوزن نہ تمیک تہہ تبہ  
 آسن تم پتہ نین مرغوب چیز اندر ہمیشہ روزہ وں۔ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّوْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
 غمگین کرہ نہ تم بن بڈ پریشانی یعنی پو غس دو تم پھو کہ دنہ سبہ ہم ہیبت ناک واقعات سپدن قبرہ منزہ نیرہ  
 وئے۔ بہ بن تم استقباس ملائک تم ونبہ نکھ هَذَا يَوْمَئِذٍ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یسوی کیا گو تہد

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ  
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ  
 لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا طَائِفًا  
 فَعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ  
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا  
 لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

سُوْدُوهُ تَوْبِهِ وَعَدَهُ تَهَانُهُ أَوْسُ يُوَانُ - تَمَنُّ سِطْرِهِ بِهٖ بُوَزْنِهِ سَيْتِ، مَسْرَتِ وَشَادِمَانِي زِيَادَهُ يَوْمَ نَطْوِي  
 السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ سُوْدُوهُ تَهٗ جَهْوَةٌ قَابِلٌ ذَكَرَ سَمَهُ دَوْبَهُ آسْمَانُ وَتُوَاوَسَ تَهٗ بِطَاهُ تَهٗ بِطَاهُ لِيَكْهَنَهُ  
 آسَمَهُ مَضْمُونُكَ كَاغْذِ جَهْوَةٌ يُوَانُ تَمَّ بِتَهٗ يَمَنُ تَمَّ بِتَهٗ بِطَاهُ وَنَهَشِي تَهَانُهُ دَوَسْمَسُ جَهْوَكُسُ تَانِ يَابِزِ  
 مَعْدُومُ مَحْضُ كَرَنَهُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ تَهٗ بِطَاهُ اسْمُهُ كُوُزْجُهُ لِهٖ پِيْدَهُ كَرَنَكَ وَقْتَهُ بِرَهٗ جِزْجِ  
 پِيْدَانَشُ كَرْتَهٗ تَهٗ بِطَاهُ كَرُوَاوَسَهُ دُوَابَرِهِ بِهٖ پِيْدَهُ - وَعَدَّا عَلَيْهَا طَائِفًا فَعِلِينَ بِهٖ جَهْوَةٌ وَعَدَاهُ أَكَّهُ اسْمُهُ پِيْطُهُ مِنْهُ  
 بَعِ شَكُّ أَسَى جَهْمَهُ سُوْدُوْعَدَهُ يُوْرَهُ كَرُونُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا  
 عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ بِهٖ لِيُوَكَّهُ اسْمُهُ سَارِنِي آسْمَانِي كَتَانِ اَنْدَرُ لُوْحُ مَحْضُ طَسُ مَنْزَلِي كَهْنَهُ بِتَهٗ كَهٗ بِزِ بِطَاهُ جَشْمَهُ  
 زِيَتِكُ وَارْثُ تَهٗ مَالِكُ آسَنُ نِيكُوَاوَسَهُ بِنْدَهُ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ بِزِ بِطَاهُ تَهٗ تَهٗ قُرْآنُ  
 مَجِيْدِسُ مَنْزِلِي تَهٗ سُوْرَهُ شَرِيْفِسُ مَنْزِلِي جَهْوَكَانِي مَضْمُونُ هِدَايَتِسُ مَضْمُونُ عِبَادَتِ كَرُونِ لُوَكُّنُ هِنْدَهُ خَيْطَرَهُ  
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بِهٖ نَهٗ مَحْضُ سُوْرُوْنَهُ اسْمُهُ جَهْمَهُ مَكْرُ سُوْرُوْهُ تَهٗ نَفْعُ دَوْدُونُ مَضْمُونُ  
 بِتَهٗ عَالَمِينَ پِيْطُهُ مَهْرَبَانِي كَرَنَهُ خَيْطَرَهُ - سُوُو مَهْرَبَانِي كَيْبِيَهٗ بِهٖ كَهٗ لُوَكَّهُ كَرَنُ اَمْسُ تَبْتِيْمِيْرُ بِرُحْمَسُ رَهْمَهُ تَهٗ مَضْمُونُ  
 قَبُولُ كَرْتَهٗ هِدَايَتِكُ ثَمْرَهُ تَهٗ پَهْلُ حَاصِلُ - لَيْسَ نَهٗ تَهٗ مَضْمُونُ قَبُولُ كَرَهُ، تَهٗ جَهْوَةٌ تَمَسُ بِنِزْنُ قَصُوْرُ - تَمَنُّ  
 مَضْمُونُ پِيْطُهُ جَهْوَةٌ تَهْمَهُ سَيْتِ كَانَمَهُ اَثْرُ يُوَانُ - قُلْ اِنَّمَا يُدْعَى اِلَى اِنْمَا الْعُلَمَاءُ اِلَهُ وَاحِدًا فَهَلْ اَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ جَهْمَهُ فَرَاوِيُوَكَّهُ بِطُوْرُ خِلَاصِهِ بِهٖ يَهٗ كَهْمُ كَهْمُ مَهْ لُنُ جَهْوَةٌ كَانَمَهُ وَجِي سُوْرُونَهُ يُوَانُ مَكْرَايُ زَهٗ بِزِ بِطَاهُ

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ إِذْ نُنْتَكُمُ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي  
 أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ  
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَكُمْ  
 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا  
 الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

تہند معبود چھو کنوی۔ پس کیا ہ چھو تہہ یہ تہہ مانہ وان ایچ حقیقت ثابت سپدہ پتہ۔ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ**  
**إِذْ نُنْتَكُمُ عَلَى سَوَاءٍ** تو پتہ ہر گاہ تم نبھ بھرن تہ مانہ تلہ فرماؤ کہ مہ کمر موہ توہہ عذاب خیر برابر  
 برابر **وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ** مہ چھونہ معلوم سو عذاب کر وسہ توہہ پیٹہ جلدی کنہ  
 یزہ کال۔ سمیک توہہ وعدہ کرنہ یوان چھو **إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ** ہنر پات  
 تہند پروردگار چھو زانان تہنر سو تہہ یوسہ تہہ بدہ چھوہ کران بیہ چھو زانان تہ سو زوی یہ تہہ پو شیدہ تہ  
 کھٹھ چھوہ تھاوان **وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** بیہ چھونہ معلوم شاید عذابس منز  
 تاخیر سپن ما آسہ تہندہ آزماشہ خیرہ یا ئہ وقس تان توہہ تمنع تہ نفع تلمہ ناونہ خیرہ **قُلْ رَبِّ احْكُمُ**  
**بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ** پیغمبرن کور دعا اے میانہ پروردگارہ تری  
 کر میانس تو مس منز حق وانصافک حکماہ تہ فیصلاہ۔ بیہ فرمو پیغمبر برحق سون پروردگار چھو سیٹھاہ  
 رحمتہ ول۔ تمس نغہ چھہ اس مدد متکاں تمن کھن پیٹہ سمہ تہہ تہہ تس نسبت وان چھوہ۔

سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  
يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ  
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى  
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۲  
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ای لو کو کھو تروپنہ نس بد وردگار س، تہ بندس  
عذابس، تس اؤو ایمان، تہن کر و اطاعت، کیا زہ پز پانہ قیامتک بئیل نئس ینہ وول چھو، سو چھو چیزاہ  
سیضاہ بوڈنہ مشکل۔ یہ زلزله تہ بئیل چھو قیامتہ کیو واقعاتو آندرہ اکھ واقعاہ۔ یہ ینہ بئیل چھو ساری  
واقعات کیتیاہ مشکل آسن۔ تمو ساروی مشکو نشہ بئیر گڈنہ خیطرہ کمر و کانہہ ساماناہ تہہہ حاصل۔ سو  
سامانہ چھو تقویٰ، خدائس کھو ژن۔ تمہہ بئیل شدت تہ سختی آسہ یشہہ کہ یوم ترو نھا تذھل کُل  
مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا سمہ دوہہ وچھون تہہہ سہ بئیل تہ زلزله سو  
آسہ تھوی خوفناک کہ پر تہہہ دودہ ماجہ مشہہ ہیتہ تہ دہشتہ سیت بئیل دودچوہ وڈن ٹر۔ یہ سپدہ پر تہہہ حملہ  
واجبہ زمانہ وقتہ بروٹھی وضع حمل وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَ مَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ  
یہہ وچھہ بکھ ژہ لو کہ مست تہ بے ہوش مگر حقیقتس منز تم مست آسن نہ کنہ نشہ چیتہ بلکہ آسہ خدا لہہ سند  
عذاب سیضاہ سخت سمہہ خوفہ سیت لو کہ آسن بے ہوش تہ بدحواس سپد مت وکمن الناس من  
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ یہہ چھہ لو کو آندرہ تم شخص سم بحث چھہ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ  
 وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ  
 فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ  
 نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ  
 مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ  
 أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ  
 وَمِنكُم مَّن يُتَوَلَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

لاگان خدایہ سزنا کنهن اندر علمہ وراى۔ بیہ چھہ پر پتھہ سر کش شیطانہ سز پیروی کران۔ کُتِبَ عَلَيْهِ  
 أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ شیطانس متعلق خدا این لیو کھمت چھو کہہ نس  
 اکھاہ نس سیت دوستی لاگہ تمس کرہ سو شیطان یقیناً گمراہ بیہ ہاویس و تھہ جھنمہ کس عذاب نس کن۔  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ  
 مِمَّنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
 ای لو کو ہر گاہ توہہ شک چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نس اندر، تہہہ و چھو پتہ نس ابتداء نس کن، اسہ کمر وہ تہہہ  
 پیدہ میڑہ (کیا زہ غذا نشہ چھو نطفہ بنان عناصر و نشہ بیٹھہ اکھ جزء میڑہ چھہ۔) تو پتہ آبہ قطرس، تو پتہ  
 خونہ دتہ، تو پتہ مازپارس بیٹھہ پور شکل دتہ آمڑہ چھہ آسان یا چھسنہ آسان پور شکل دتہ آمڑہ، بیٹھہ اس  
 سز او وین قدرت سببہ چھن اس قرار کرہ تاوان شیکمن اندر تیتس کالس تیتس کالس بیہ اس بیوہو۔ اس مقرر  
 مدتس تان ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَلَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ  
 أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تو پتہ چھہ اس توہہہ نبر کدان ماجہ ہنزہ ہڈ منزہ بجاہ۔  
 تو پتہ چھہ اس توہہہ تربیت کران۔ تھہہ تہہہ و تاو جوانی ہندس نس۔ بیہ چھہ توہہہ اندر بعضی جوانی واحدہ برو نطھی

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ  
 هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  
 وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكِ يَبِّئُ اللَّهُ  
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ  
 فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مران۔ بیہ چھ توہم اندر بعضی تم و اتنوں دیوان چھ بیچہ زندگی اندر یعنی، بجز اس بیچہ منز گنہند قوت حافظہ تہ یادداشت چھو کمزور سپدان سہ چھو کہ چیز چ خبر گھت تہ نشہ بے خبر سپدان تہ چھس شہد گنہان۔ ای اندر ہند معلوم اللہ تعالیٰ چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ کر نس پیٹھ قدر تہ دول۔ بیا کھ دلیل ہتھ اتھ پیٹھ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھن چھان تہ ای مخاطب بیہ زمین، ہو کھمت تہ خشک گو مت آسان۔ تو پتہ یلہ اس تھ پیٹھ زود تر او ان چھ اتی چھو سوترو تازہ سپدان بیہ چھو پھولان بیہ چھو کھاران پر ہتھ قسمک خوبورت کل ذَلِكِ يَبِّئُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ آو بیان کرنے ای سببہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو موجود بر حق، وجودس منز کامل۔ بیہ گو گنہند کمال ذاتی۔ بیہ چھو سومی مردن زندہ کران۔ بیہ گو گنہند کمال فعلی۔ بیہ چھو سومی پر ہتھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول۔ بیہ گو گنہند کمال وصفی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بیہ چھہ قیامت ضروریہ ون، کانہہ شکھاہ چھونہ تھہ منز بیہ کرہ زندہ اللہ تعالیٰ تم سارنی سم قبرن منز چھہ یعنی عالم برز خس منز۔ یم ثور و عناصر و منزہ عنہ عنصرس منز آسن سم خاکس منز آسن تمن تہ سم نارس منز آسن تمن تہ، یم آس منز آسن تمن تہ، یم ہو اوس منز آسن تمن تہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا كِتَابٍ قَدِيرٌ بیہ چھہ لو کو اندرہ بعضی لوک سم ہر تہ قضیہ لاگان چھہ خدلیہ سدس معاملس اندر، تہندس



وَأَهْدَىٰ وَأَلَكْتِ بِمُنِيرٍ ۗ ۙ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُفْضَلَ عَنْ  
 سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَذَابَ الْحَرِيقِ ۙ ۙ ذَلِكِ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ  
 بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ۙ ۙ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۙ  
 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۙ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ  
 وَجْهِهِ فَيَخْسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۙ ذَلِكِ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۙ ۙ

ذاتس، صفات یا افعال کن اندر نموده علمی و اقیقیت و راهی۔ یہ سب روغن کتابہ و رای ثانی عطفہ لیفضل عن سبیل اللہ کن تکرار و تہ، یعنی مجسمہ انہ طریق منکر کو کن خدایہ سزہ و تہ نشہ و ذالہ خیرہ۔ لہذا فی الدنیا خیزی و نذیقہ یوم القیامہ عذاب الحریق تہندی خیرہ چھ بڈرسوائی دنیا س اندر یہ ہا و اُس اُس قیامتک دوہ ذرہ و نہ نارکہ عذابک پور مزہ ذلک بہا قدامت یدک و ان اللہ لیس بظلام للعبد و نہ یس یہ عذاب چھوی تہن کا میں ہند بدلہ سمہ پنہ نیوا تھو گر مشہ و جھت۔ یہ امی سبہ کہ اللہ تعالیٰ چھو نہ ہرگز ظلم کرہ و ن پنہ نین ہندن لہذا کیاہ اوی ژہ سزا نہ جرمہ و رای و من الناس من یعبد اللہ علی حرف یہ چھ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہ سم بندگی چھہ کران خدایہ سزہ اندس پیٹہ روز تھ یعنی تردتہ شمشہ کس حاس پیٹہ فان اصابہ خیر اطمان بہ ہس ہر گاہ و اُس کا نہ خیراہ تلہ چھو قرار کران تہت تھی۔ و ان اصابته فتنۃ انقلب علی وجہہ خسیر الدنیا و الآخرة یہ ہر گاہ و اُس کا نہ آزماہاہ یعنی کا نہ تکلیفہ اتی چھو پھیران تہ چھہ کران و اہس کھر س گن سمہ سیت گڑھان چھو اُس دنیا ک تہ آخر تک نقصان ذلک ہو الخسران المبین اتھ چھہ و نان نون نقصان۔ دنیا ک نقصان گو قنس اندر بتلا سپدن۔ آخر تک نقصان گو اسلامہ نشہ چھہ آتھ چھلان خدایہ سزہ عبادت ترا و تھ یدعو امن دون اللہ مال ایضراً و مالاً یفیعہ عبادت چھوہ کران خدائس و رای تمنی چیزن ہنزیم نہ خمس عبادت نہ کر اُس پیٹہ نہ کا نہ ضرر ہیکن و اتا و تھ یہ نہ عبادت کر اُس پیٹہ



وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرِي  
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن  
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ  
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ

سند یہ تدبیر کرم اسمہ نشہ سوا بلکل عاجز چھو بیجا اسمزہ ناگواری ہند چیز یعنی وحی بند کمرت۔ ہرگز بھیجہ نہ کمرت و كذلك انزلناه آيات بينات يتھ پاتھ کوراسہ نازل قرآن مجید۔ تھ منز صاف صاف تہ واضح دلیلہ چھ مگر باوجود اس وان اللہ یهدی من یرید یہ چھو اللہ تعالیٰ اکی و تھ ہاوان نس یسند ارادہ کران چھو۔ ان الذین امنوا والذین هادوا والصبغین والنصری والمجوس والذین اشركوا ہنز پات با ایمان یہ یہودیہ صابین یہ نصاریٰ یہ آتش پرست یہ مشرک ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید ہنز پات اللہ تعالیٰ کرہ تم سارنی منز فیصلہ قیامتک وہ۔ مسلمان با ایمان و اتادہ جنس منز۔ کافران و اتادہ جنس منز۔ ہنز پات اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزاہ، پر تھ کانسہ ہنز پر تھ کاہ پانہ و چھون۔ ا لم تر ان اللہ یسجد له من فی السموات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب آیا و چھان و تھ کناثرہ اے و چھو نہ پتیک اللہ تعالیٰ اس چھہ سجده دوان تم ساری مخلوقات تم آسمان منز چھہ یہ تم ساری مخلوقات تم زمین منز چھہ یہ آفتاب یہ زون یہ ستارہ۔ یہ کوہ تہ کل یہ ساری چارپا یہ کو کو اندرہ واریاہ۔ باوجود اینکہ ساری مخلوقات چھہ تابع تہ فرمانبردار اللہ تعالیٰ اس مگر انسان تم خاص عقل آئے یہ عطا کر نہ تمو منزہ چھہ ساری فرمانبردار بلکہ چھہ واریاہ فرمانبردار۔ مگر واریاہ چھہ تمواندر تم تم پٹھ نا فرمانی سببہ عذابس متحق اسن چھو امت قرار دہ یعنی تم متحق عذاب چھہ



مِنْهَا مِنْ غَمِّ اَعْيُدُ وَا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾  
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحٰلَوْنَ فِيْهَا مِنْ  
 اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۲۳﴾  
 وَهَدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَّهَدُوْا اِلَى صِرَاطِ  
 الْحَمِيْدِ ﴿۲۴﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ

نارس اندر گرم کرنے آمت شسترو ولس ته گرزہ کلما آرادو ان یخرجوا منها من غم اعید وافیہا  
 یلہ یلہ تم ارادہ آن کران جنہن منزہ نیر تک بیہ آن واتاوندہ یوان تہہ منزہ تموی ڈیو تہ گرزوسیت  
 وندہ آسکھ یوان وذوقوا عذاب الحریق ترہو ہمیشہ خپترہ مزہ ذرہ عذاب۔ اِنَّ اللّٰهَ یَدْخُلُ  
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ پز یاٹ اللہ تعالیٰ واتاوندہ تمن لوکن  
 سموا ایمان لون تہ رتہ عملہ کرکھ جنہ تمن باغن منزہ سمو منزہ کولہ تہ جو بہ آن پکان یحسون فیہا  
 من اساور من ذہب و لؤلؤ ولباسہم فیہا حریر زور بیہ گڈنہ تمن جنٹس منز سونہ سند کربہ  
 محتہ مالہ، بیہ آسہ ٹہند لباس جنٹس منز پوٹ۔ ذنیاس منز چھوسون رو پھ تہ پوٹ مسلمان مردان پیٹھ  
 حرام۔ کیا زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموؤ (أحل الذهب والحریر للإناث من أمتی وحرم  
 علی ذکورہا) یعنی سون تہ پوٹ او حلال کرنے میانہ اچن زنان پیٹھ مگر حرام آئی کرنے سم چیز میانہ  
 اُمتہ کین مردان پیٹھ لہذا ایس مرد سون، رو پھ تہ پوٹ استعمال کرہ ذنیاس اندر سون آسہ آخر کس  
 اندر حرم جنہ کیوز یوروشہ وهدوا إلى الطیب من القول وهدوا إلى صراط الحمید  
 یہ سوڑوی انعام واکرام آسہ تمن سمہ سببہ ذنیاس منز کیا آسہ و تہ ہونہ تمن با ایمان پاک کلامس  
 کن، سوگو کلمہ طیبہ۔ بیہ آکھہ و تہ ہونہ قابل تعریف و تہ کن سو و تہ گنیہ دین اسلام، صراط مستقیم۔  
 تمہ کی برکتہ آکھ جنہ تہ جنتہ نعمہ جنک زور عطا کرنے اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ شَرِدَ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ تُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۳۵﴾ وَاذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ ﴿۳۶﴾ وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۳۷﴾ لِيَشْهَدُوا

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ بِمِزَابٍ مَمْلُوءٍ لَوْ كَفَرْتُمْ بِانكسار كوربیه  
 ہجہ تم پتہ رٹان لوکن خدیہ سزہ و تہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ۔ بیہ ہجہ پتہ رٹان لوکن تمہ محترم مسجدہ نشہ  
 یوسہ امہ مقرر ہجہ کمر مژسارنی لوکن ہندہ خیطرہ عبادتج جای ستھ منز برابر ہجھو تینگ روزن وول تہ تمہ نیر  
 یوشہر و پیٹھینہ وول وَمَنْ شَرِدَ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ تُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ اکھ سم لوکن پتہ  
 رٹن دین اسلامہ نشہ بیہ مسجد حرام، ستھ منز کعبہ شریف ہجھو تمجہ زیارتہ نشہ، بیہ سم لوکھ اتھ مسجد  
 خرامس اندروین اسلامس خلاف کانہہ کاماہ گرن یاٹھ و ٹرکک ارادہ کرن سٹوٹہ ناوون آس ڈگ تہ  
 ڈوونکہ ونہ عذاب گزہ وَاذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لوکن نشہ کمر و ذکر بیلہ  
 تیار کمر امہ ابراہیم علیہ السلامہ سندہ خیطرہ گرج جایہ، تھ عبادتس منز مہ تھوون شریک مہ سیت کانہہ چیز  
 وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ پاک تھوون میون گرہ عبادت کرہ و نین  
 ہندہ خیطرہ، خانہ کعبہ تیار کرہ نچ جائے سیت فر مووہس یہ مکانہ کریون تیار میانہ عبادتہ خیطرہ نماز پرہ  
 و نین ہندہ خیطرہ سم نمازہ اندر قیام رکوع تہ سجدہ کرہ ون آسن وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ  
 رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ بیہ وون امہ ابراہیم علیہ السلامس کہ اعلان کمر و  
 لوکن اندر امہ گرج زیارت کرہ ٹک۔ امہ اطلانہ سیت بن لوکھ توہمہ گن امہ گرہ چہ زیارتہ خیطرہ لاران  
 تہ گاران، پتھر تہ سوارین پیٹھ تمن سوارین پیٹھ سمہ ڈورود از سفر کرنہ سیت لاغر تہ سٹ آسن سپرہ

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ  
 عَلَىٰ مَآرِزَ قَعْمٍ مِّنْ أَبْهِيمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  
 وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ  
 وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَيَلْظُقُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹)  
 ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
 وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُثَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

مذہب۔ بین تمہ سوار یہ دور یو و تو پٹیہ کو بہہ ڈرو منز لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام  
 معلومت علی مارز قعم من ابھیمة الانعام یتھ واتن تہ حاضر سہدن پنہ نین دینی تہ دنیوی  
 فائدن حاصل کرنہ خیطرہ (دینی فائدہ چھو مقصود بالذات دنیوی فائدہ چھو تابع غیر مقصود) بیہ یتھ  
 خدایہ سندیاد کرن تم ن دوہن منز تم معلوم تہ مقرر چھہ (تم گئے وہم، کلمہ (۱۰) تہ بیہ یوم (۱۲) قربان کرنہ  
 خیطرہ تم جانورن تم اللہ تعالیٰ فی عطا کرمت چھہ مخصوص چارواید آندرہ یعنی گاؤ، دونٹ، ٹھاول تہ  
 کھ۔ تمنی ذبح کر بھہ وقتہ بین خدایہ سنداو یعنی ہرن ذبح کران بسم اللہ اللہ اکبر  
 وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نِس کھنچو پانہ تم قربانی ہندین جانورن ہندہ مازہ آندرہ۔ بیہ کھیاو کھ مصیبت  
 زدہ تہ محتاج بلکہ مالدار اشخاص تہ ہے کھیاو کھ، کانہہ حرج چھونہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا  
 نُدُورَهُمْ وَيَلْظُقُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ توپتہ گڑھہہ لوکن ہند دور کرن پن مل تہ کثافت یعنی  
 احرام مذہ راون مس کائن یا کرن بیہ کائن نم بیہ ہون اصلاح بیہ گڑھن گرن پورہ پن واجبات بیہ کرن  
 طواف خانہ کعبس نِس مامون و محفوظ چھو، طواف زیارت۔ بیہ طواف چھو فرض۔ ذَلِكَ اَکْہ گنہ بیہ  
 کھہ امہ علاوہ چھو خدایہ سدن احکامن ہنز قدر کرن وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
 نِس اکھاہ خدایہ سندن محترم احکامن ہند تعظیم بجالیہ تہ چھو تسدہ خیطرہ سیٹھا بہتر پنہ نِس  
 ہر وردگار س نشہ۔ تمہ سیبت نیش ثواب، بیہ لہ عذابہ نشہ نجات وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُثَلَّىٰ

الرَّجْسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝۳۰  
 حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا  
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي  
 مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝۳۱ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ  
 تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۳۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بیہ آیہ ٹھنڈہ خیطرہ حلال  
 کرنے چار پالیہ تم خدایہ سنداوتھ ذن بیہ کرنے مگر نہ تم جانور تکن ہند کھم توہہ پیٹھ پر نہ یوان چھو۔ تم  
 گے تھے جانور یمن ہنز ذکر سورہ انعام منز کرنے آیہ (سُو گو خود مردہ، خون، خنزیر۔  
 بیہ یس جانور خدایس ورا ی بیہ کانسہ ہندہ ناوہ تسند قرب ژھانڈنہ خیطرہ ذن بیہ کرنے) یس روز پتھ  
 پوتلین ہنز پر ستنش کر چہ ناپاکی نشہ۔ بیہ روز پتھ اپڑتھ ونہ نشہ، اپڑ گواہی دنہ نشہ۔ حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ  
 مُشْرِكِينَ بِهِ در حال بیہ مائل آبو تہہ معبود بر نفس کن۔ یس کانسہ اکھ شریک ٹھہراونہ ورا ی وَمَنْ  
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کیا زہ یس  
 اکھاہ کنس معبودس شریک ٹھہراوہ تمسز مثال پتھ زن سُو آسمانہ بیو پتھر دستھ تو پتہ تل مُردار خور  
 جانور وگہ وگہ یادیت تیز واؤن بڑت کمنہ دور جایہ یتہ سُو ہلاک گو بہر حال سُو گو یتھ پاٹھ یس شخص  
 شریک ٹھہراوان چھو خدایس سُو چھو یا کانسہ ہندہ اتھ مارہ گوہان یا چھو خود بخود مران پر یتھ حاکس منز  
 چھو یس جہنم اندروان ذلک یہ تہہ یتہ گنیہ ختم۔ وون بوڑو تہہ اکھ خاص تہہ قربانی ہندس جانورس  
 متعلق۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ بیہ یس تعظیم کرہ خدایہ سندن دینہ کین  
 یادگارن تہ نشان یعنی جہ کین کھن بیہ قربانہ کین جانورن ہند۔ یس بیشک یمن چیزن ہنز عظمت چھ  
 حاصل سپدان دلہ سیت خدایس کھوڑنہ سیت لکم فیہا منافعہ الی اجل مسمی ٹھنڈہ خیطرہ چھو جائز  
 فائدہ تان تہن قربانہ کین جانورن نشہ اکس معین و قس تان یو تان نہ شرعی قواعد و موجب تم ہدی



مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا  
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ  
فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْإِحْدُ فَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ  
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ

ین بناو نہ تو تان چھو تم ن پیٹھ سوار سپدان، ٹھہر دو دھ کیوں، تم ن پیٹھ نور سا رن جائز علیہ تم ہدی بناو نہ آئے ا دہ گڑھہ سمو ساروی چیز و نعمہ پتھ روڈن مگرے سخت ضرورت پیہ ٹھہر مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو پیہ چھو تھہرہ حلال سپدنج جائے یعنی ذبح کر نچ جائے خانہ کعبہ ن نزدیک۔ پیٹھ یہ بیان آو کر نہ کہ حرمی اندر گڑھہ قربان مَن کر نہ ا مہ اندرہ گڑھہ نہ یہ خیال کر ن کہ ا مہ منزہ ما چھو مقصد حرمک تعظیم کر ن تہ چھو نہ ہر گز بلکہ چھو اصل مقصود پروردگارہ سُن دوی تعظیم، تمسندوی قُرب حاصل کر ن۔ مذبح جانور یا تھہ جائے ذبح کر نہ پیہ سو چھو اکھ ذریعہ، مقام تہ جائے ہند تخصیص چھو بعض جتن ہندہ وجہ۔ تم تخصیصات ہر گاہ مقصود آسن تلہ بدلہ مَن نہ تم کمنہ شریعتس اندر مگر تم ہند بدلن چھو ظاہر۔ تقرب الی اللہ مَن اصل مقصود چھو سو چھو پریتھ شریعتس منز محفوظ رُودمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماو ان وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ برو تھم اہل شریعت تم گڈر سمیت چھہ نمو اندرہ چھو ا مہ پریتھ ا تھس قربان کر ن مقرر کو رومت۔ سمہ غرضہ کہ تم آسن قربانہ کس تھس مخصوص جانورس پیٹھ اللہ تعالیٰ مَن نام پاک ہیوان تم سو جانور عطا کو رومت چھو فَا لْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْإِحْدُ فَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ا مہ اندرہ سپد ثابت کہ ٹھہر خدا چھو کئی تھس کمر و تہنزی اطاعت تہ فرمانبرداری، تھدی یوت ہو، مؤحدہ خالص رُود۔ کانہہ جای وغیرہ مہ زانیون بالذات تعظیمس سزاوار۔ پنہ عملہ اندر مہ آسو ا کس درس برابر تہ شریکس شائس پتہ دو ان وَبَشِيرِ الْمُحْسِنِينَ تھہ دیو بشارت تہ خوشخبری تہ یارسول اللہ ﷺ خدایہ سندس کھمس گردن دارہ و نینم الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمُ وَالْمُتَّقِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ

مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيَّبِي الصَّلَاةِ وَمَسَارِقَتِهِمْ يُفْقُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا  
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا  
 دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

يُفْقُونَ تم لہ توحیدہ خاصہ برکتہ چھہ تنھی کہ یلہ تم برونٹھ گنہ خدایہ سد صفات بیہ ہند احکام بیہ  
 تمسندین و عدلان نہ وعیدان ہند ذکر کرنہ یوان چھو تم چھہ کھوژان، دکن چھکھ نھہ دو تھان بیہ تم صبر کران چھہ  
 مضمین پیٹھ بیہ تم ڈلو کران چھہ نمازہ پیٹھ بیہ تم خرچ کران چھہ تمہ مالہ اندرہ بس اسی تم عطا کور، مطلب  
 چھو کہ توحید خاص چھو تیٹھ بار بکت چیز ازہمہ سبت کمالات نفسانی، بدنی نہ مالی حاصل سپدان چھہ وَالْبُدْنَ  
 جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ای مسلمانو بیہ کبر آسہ ٹھنڈہ خیرہ قربانگ ساری  
 جانور و نٹھ گن، کھ، ژھا ول جس اندر خدایہ سدہ دینہ کیو یادگار و اندرہ تم جانورن اندر چھہ ٹھنڈہ  
 خیرہ دینگ تعظیم بجائیکہ علاوہ بیہ بیہ فائدہ تہ۔ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ بس آسو تم  
 ووتھ نہ ٹھش کر چھہ وقتہ خدایہ سدناو بیوان۔ برو تنظیم کھو فر کھور بیورن گنڈ تھ ترین زنگن پیٹھ استادہ  
 کران۔ فَادَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اودہ یلہ سو جانور کئہ کرہ  
 ہٹھ و س بیوان آسہ تو پتہ بیہ شیر نہ سبالنہ بس کھ بیو ٹھہ ہندہ مازہ اندرہ بیہ کھیاو لوانہ منجہ ون تہ، غیر  
 سایل تہ تہ سائل تہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تیٹھ پاٹ کبر آسہ رام تہ مخر توہہ تم  
 جانور تیٹھ ٹھہ شکر دپ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ خدائس نشہ نہ  
 چھو واتان تم قربانہ کین جانورن ہند مازہ چھو واتان ٹھنڈ تھ بلکہ چھو واتان بس نشہ ٹھنڈ تقولے تہ پر ہیز  
 گاری کذالک سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تیٹھ پاٹھ کبر اللہ تعالیٰ ان توہہ مخر تہ رام

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ  
 إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
 بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

سم جانور بیٹھ نہہ بوڈزانیون اللہ تعالیٰ بیٹھ پیٹھ کہ و تھ ہاونوہ توہمہ پوس و نیس کن۔ حج کین صحیح کھن کن بیہ دیت کوہ توہمہ توفیق قربان کر نک و بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ مہ فرماو و نہہ یارسول اللہ بشارت تہ خوشخبری اخلاصہ والین نیکو کارن اِنَّ اللہَ یُدْفِعُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا پزپاٹ اللہ تعالیٰ کرہ بالیمان نغمہ تھمدین دشمن ہند غلبہ عنقریب دور۔ تم نیکن نہ آئندہ نغمہ چیزس اندر مزاحمت کمر تھ اِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ خیانت کرہ و نس و غابازس تہ ناشکر گڈارس پھد کران اذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَلَٰنَ اللّٰهُ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْرٌ اجازت آوونہ مقابلہ کر نک تمہن لوکن یمین سیت کافرن ہندہ طرفہ لڑای آس یوان کر نہ کیا زہ تمہن پیٹھ آوسینشاہ ظلم کر نہ۔ مسلمان ہندہ کم پزیاہدہ آسنگ چھونہ کانہہ سوال کیا زہ، بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمہن پر بیٹھ حاس اندر مدد کر نس تہ غلبہ نس پیٹھ سینشاہ قدر تہ وول۔ اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ یَّقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ یَمْسُلَانِ تاحق کڈنہ آئے پنہ نیوشہر و آندرہ تھمد ہزم اوسنہ کینہہ سمہ تھہ وراے کہ تم آس و نان سون پروردگار چھو اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ سوڑوی غیظ و غضب چھو تو حیدس پیٹھ۔ و لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِیْہَا سَمُ اللّٰهِ کَثِیْرًا بیہ ہر گاہ نہ اللہ تعالیٰ لوکن ہند زور اڈین ہندہ سیت اڈین کم کران آسہایعے اہل حقن نے اہل باطلن پیٹھ و قفا و قفا غلبہ ووان آسہا، تلہ آسمن آمت پنہ پنہ وقتہ لورنہ تہ مہمد کم کر نہ نصاریٰ ان ہند خلوت خانہ تہ عبادت خانہ،

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ  
الْأُمُورِ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ  
وَتَمُودٌ ﴿۳۲﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ  
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۴﴾

یہودوں ہند عبادت خانہ میں مسلمان ہنزہ تمہ مسجد میں منبر بکثرت خدایہ سُنَد ناوہینہ دیوان چھو و لیتصرون  
اللہ من یتصرون ان اللہ لقوی عزیز بیہ چھو ضرور اللہ تعالیٰ یاری تہ مدد تہمین لوکن کران اسم تہس مدد  
گزن یعنی تہمیدس دینس۔ ہنز پات اللہ تعالیٰ چھو پانہ سیٹھاہ طاقتہ دول سارنی پیٹھ غالب۔ سو چھو تہ کانسہ  
ہندس مددس کن محتاج الکتین ان مکٹھم فی الارض آقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ و امرؤا  
یا المعروف و نهوا عن المنکر و لہ عاقبۃ الامور اسم گے تہ مسلمان تہن بشارت دنہ آہی، ہر گاہ اس  
دنیاس منر حکومت دموت تہمیدس اتھس منر اسہ ہتھ خبری تم تھاون پانہ تہ نماز برپا بیہ کرن زکوٰۃ اول۔  
بیہ کرن تہن تہ رٹن کائین ہند امر تہ پیٹھ کامیونشہ منع سارنی کائین ہند انجام چھو خدایہ سندس  
اختیار س اندر و ان یکتب بوک فقد کذب قبلم قوم نوح و عاد و تمود ہر گاہ تم ہر تہ قضیہ لاگہ ون  
لوکھ توہہ اپزازن تہ پڑھ گزن نہ۔ بیہ ٹوکتھاہ چھنہ، امہ سیت مہ سپد تہمہ آژردہ۔ تہن بروٹھ تہ چھہ  
قوم نوحن، قوم عادن تہ قوم تمودن تہن پیٹھبرامہ زانمت و قوم ابرہیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب  
موسى بیہ قوم ابراہیم بیہ قوم لوط بیہ شہر مدین کیو لوکو، بیہ چھو اہزانہ آمت موسیٰ علیہ السلام۔  
فاملیت للکفرین تہم اخذتھم فکیف کان نکیر تہن سارنی کافرن تہ مٹھرن دژمہ کیہنہ کالاہ مہلت۔  
توپتہ رٹم تم تہ کرم عذابس گرفتار۔ کس و چھو تہمہ سو میون عذاب کیٹھ اوس تہمہہ خیطرہ۔ فکائن من  
قریب اھلکابا و ہی ظالمۃ فی خلوٰیۃ علی عرشہا کس کاتھن شہرن ہند لوکھ گال اسہ تہمہہ نافرمانی سببہ۔



أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْبَصِيرِ ﴿۳۸﴾ قُلْ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كَمَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَأَلْذِينَ آمَنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا  
فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ  
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

جلدی تمسحہ و تو عک مطالبہ کران۔ تم علیہ توبہ باز آئے نہ توبہ نہ کرمہ تم عذاب اس گرفتار۔ یہ جھوساری  
پتولا کہ مے لغمہ و ان تمہ ساتھ دمہ بو تمہن شرک و کفر ک پور سزا قل یا ایھا الناس انما انکما نذیر مبین  
نہہ فرماؤ کہ یا رسول اللہ اے لوگو بو جھوسنہ مگر تہندہ خیطرہ اکھن پاٹھ نیم کرہ ون۔ مہ تان جھوسنہ  
عذاب واقع کرن فالذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم کس سمولو کو میانہ کھوڑ  
ناونہ نہ نیم کرنہ سیت عبرت رٹھ ایمان اون تہ رزہ عملہ کرہ، تہندہ خیطرہ جھوسوڈ مغفرت بہ عزتک  
رزق یعنی جنت تہ جتہ نعمہ۔ والذین سعوا فی آیتنا معجزین اولیک اصحاب الجحیم یہ سم لو کہ  
کوش چھہ کران سانین آیاتن اپڑانٹھ اسہ عاجز کرک۔ عے گے نارہ وال یعنی نار جھنم و اتہ ون۔ ای  
پنیر سم لو کہ جھہ شیطانہ سدہ انوعاسیت توبہ سیت مقابلہ تہ مجادلہ کران۔ یہ جھنہ لو کتھہ و ما آرسلنا  
من قبلک من رسول و لانی الی الا اذا تمئی القی الشیطان فی امنیئتہ اسہ سوزنہ توبہ بروٹھ کانہہ رسولہ  
تہ کانہہ نبیہ تمس نہ یہ قصہ پیش آؤ کہ یان تمہ اللہ تعالیٰ سند یوا حکماوندہ حکماہ بیان ہیوت کرن تان  
ہیوت شیطان کافر ن ہندین و لن اندرہ تہ اعتراض تراون فی نسخہ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم  
اللہ لیتہ واللہ علیہم حکیم کس جھو اللہ تعالیٰ نہناوان تہ نیست و نابود کران تم شہادت تہ وسوسہ سم  
شیطان تراوان جھو قطعی جوائو تہ روشن دلیکوسیت۔ توبہ تہ جھو اللہ تعالیٰ مضبوط کران پنہ نین آیاتن  
ہند مضامین۔ یہ جھو اللہ تعالیٰ تم اعتراضاتن متعلق پور علمہ وول۔ یہ جھو تم اعتراضاتن ہند جواب

اِيْتِهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيْمٌ ﴿۵۶﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ  
 فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰلِسِيَّةَ قُلُوْبُهُمْ وَّ  
 اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۷﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا  
 الْعِلْمَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ  
 قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۸﴾  
 وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ  
 السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰٓاْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيْبِهِ ﴿۵۹﴾

تسليم کرس اندر پور جہمتہ وول۔ وون گو یہ کیا زہ چھو اللہ تعالیٰ کران یعنی شیطانس کیا زہ چھو و سوسہ  
 تراو تک موقع ووان لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰلِسِيَّةَ قُلُوْبُهُمْ  
 یتھ اللہ تعالیٰ کرہ تھہ شیطانہ سندس و سوس آزما شہ ہند ذریعہ تم کو کن ہندہ خیطرہ ہہ ہین دن وکن  
 اندر شکن تہ شہین ہند مرض چھو۔ یہ تم ہند دل سیٹھاہ سخت چھہ و اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ  
 پنر پاٹ چھہ کافر ز شیٹھس اختلافس تہ مخالفس منز۔ پوز روشن آستھ چھہ محض عنادہ سببہ قبول کران،  
 شیطانس آو سوسہ تراو تک طاقت دنہ یتھہ لو کن آزما کش کرنہ یہ۔ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ اِنَّهُ  
 الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ چھو سمو صحیح جوابو سیت تم شہما تہ ہند ابطال  
 سہدان یتھہ علمہ وال یہ تھہ وارہ زان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر موو تہ تلاوت کور۔ تہ چھہ پنر پاٹ  
 تھہ دس پروردگارہ سندس طرفہ۔ ٹس روزن تم ایمانس پیٹھ پور قایم تو پتہ سہدان تھہ پیٹھ عمل کرنہ  
 خیطرہ تھہ دل پور مائل و اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بیشک اللہ تعالیٰ ای چھو با ایمان  
 سمیر و تھہ ہوان۔ ٹس گو تھہ ناتمن ہدایت ہن۔ یہ گنیہ حالت با ایمان ہنز چھہ رود کافر تم ہند حال چھو اہ  
 پتہ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰٓاْتِيَهُمْ عَذَابٌ

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۵۸  
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

یومِ عقوبتِ پتھ رو دکافر تم روزان ہمیشہ قرآن مجیدہ کہ حقہ شکر سی اندر یوتان واتھہ یہہ ہجہ تہ ممک تم قیامتگ دوہ یواتیکھ دنیاسی منزگنہ سخت مثل تہ بے برکت دہگ عذاب یتھ منز تمن قتل وغارت سپدہ الْمَلِكُ یَوْمَئِذٍ یَخْلُقُ بَیْنَهُمْ پادشہت آسہ تمہ دوہہ یعنی قیامتگ دوہ اللہ تعالیٰ سنزی یاثر سوسی کرہ تمن کافرن منز عملی فیصلہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ سُو فیصلہ گو یوہہہ سموگو کو ایمان انتھہ رثہ عملہ کرہ مژہ آس تمن واتاوہ اللہ تعالیٰ نعمن ہندن جنس اندر والذین کَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ بیہ سموغر تہ انکار کور بیہ زانجھ اہر سان آیات، لیس تمن لوکن ہندہ خیطرہ چھو ذلیل تہ خوار کرہ ون عذاب وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا بیہ سموگو کو خدلیہ سنزہ و تہ یعنی تہمدہ دینہ خیطرہ ہن وطن تراوت ہجرت کمر تو پتہ آس مارنہ یا مودپائے تمن دہہ اللہ تعالیٰ ضرور اکھ رت رزقاہ جتگ رزق تہ کم کم میوہ بیہ دیدار خدا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ پنر پات اللہ تعالیٰ ای چھو ساروی عطا کرہ ونیو اندرہ رت عطا کرہ ون سُو کرہ تمن عطا رزق جنس سیت رت جاے تہ رت گرہ تہ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ سُو واتاوہ تمن ضرور تہ ہی رثہ جاییہ اندر یوسہ تمن سیٹھاہ پسند سپدہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ بیٹک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ ہنر مصلحت زانہ ون سیٹھاہ تریڈ کرہ ون پنہ نین دشمن چھو نہ سیتی رٹان تہ سز اووان بلکہ چھو مہلت دو ان ذلک وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۖ ثُمَّ يُنْفِخْ عَلَيْهٖ



حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ  
 ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ  
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ  
 اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ  
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ

لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَاوَن بُزْأَمَهُ پتہ یہ تھہ کہ ہم دُشمنِ زُشْمِ بدلہ ہیوت تھوی بیجھ  
 تمس تکلیف و اتاوانہ اُمت اوس، تو پتے بیجھ تِس پیٹھ زیادتی کرنہ آیہ اللہ تعالیٰ کرہ تِس شُرور مدد تہ  
 یاری۔ پتہ پاٹھ اللہ تعالیٰ جھو یقیناً سیٹھا غفو کرہ ون سیٹھا مغفرت کرہ ون ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ  
 فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ یعنی با ایمان غلبہ دُن تَمَن یاری تہ مدد  
 کران جھو اُوے زہ اللہ تعالیٰ جھو کمال قُدرتہ وول۔ چنانچہ سُو جھو راتھ ہندین اجزاءن و اتاوان دوس  
 منز۔ دوہہ کین اجزاءن و اتاوان راتھ منز یعنی کمی تہ زیادتی کران۔ بیجھ جھو امہ نصر تک سبب کہ اللہ  
 تعالیٰ جھو سارنی ہند احوال تہ اقوال بُزہ ون تہ و جھہ ون ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بیجھ جھو امہ نصر تک سبب کہ اللہ تعالیٰ ای جھو  
 بیشک خدائے برحق۔ پتہ ہستی منز کامل۔ سُو جھو واجب الوجود، بیجھ تَمَن معبودن تم لو کہ عبادت کران  
 جھہ، تم جھہ لہز تہ باطل۔ بیجھ جھو پتہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ای سیٹھا تھود تہ سیٹھا بُوڈعالیشان۔ امہ علاوہ جھہ  
 اللہ تعالیٰ سند کمالات بیجھ جھہ تہزہ بے شمار نعمتو سُمُو کمالا تو تہ نعمتو سبب سُو جھو توحیدس تہ شکرس  
 سزاوار اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً زہ جھہ تھنا و چھان اللہ

اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۶۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۶۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَازُنِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۶۵﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۶۶﴾

تعالیٰ سز قدرت تھہ پاٹ چھو سو آسماں طرف رود تراوان سمہ سبت زمین چھہ سپدان سر سبز ان اللہ لطف خبیر پنر پاٹ اللہ تعالیٰ چھو بدن پیٹھہ سیٹھاہ مہربان کس چھہ بدن ہنزن کھن ہنزن پور خیر۔ تہندین ضرورتن ہند کافی علم تمن مطابق چھو سو تہند حاجت پور کر ان۔ کہ ما فی السموات وما فی الارض وان اللہ لغنی الحمید تہندوی چھو تہ سوزوی یہ آسمان منر چھو، یہ تہ سوزوی یہ زمین منر چھو۔ یہ چھونہ اللہ تعالیٰ کانہہ کن محتاج سو چھو تعریفن تہ حمدن سز اوار ا لم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض اے مخاطب تہ چھہ ناخبر کہ پنر پاٹ اللہ تعالیٰ ان چھہ لاگمت کامہ تم ساری چیز سم زمینس منر چھہ تہندہ خیرہ والفلک تجری فی البحر بامرہ یہ چھہ ناوہ سمہ تہندی حمہ دریاوس منر پکان چھہ ویسبک السماء ان تقع علی الارض الا یاذینہ یہ چھو سوی آسماں تھپ کمر تھہ تھنہ تہندہ حمہ وراے سوز مینس پیٹھہ و تھہ یہہ ان اللہ بالناس لرءوف رحیم پنر پاٹ اللہ تعالیٰ چھو کو کن پیٹھہ سیٹھاہ شفقتہ وول تہ مہربان وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور یہ گو سو سوی قادر مطلق سم تہہ پیدہ کمرہ۔ تو پتہ ماروہ سوی تو پتہ کروہ یہ دوبارہ زندہ سوی۔ تمن دلیلن تہ نعمت کن نظر کمر تھہ گو تھہ کو کن ہند سو سوی زان۔ تہنرے گو تھہ شکر گزار ی کرن۔ بیشک انسان چھو سیٹھاہ کمر ان نعمت کرہ ون لکل امة جعلنا منسکاهم ناسکوا فلا ینار عنک فی الامر وادع الی ربک ایڑہ امرہ گذر سمہہ چھہ پر تھہ امتہ خیرہ چھو اسہ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ فِي  
 الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿۶۷﴾  
 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۸﴾ اللَّهُ  
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۶۹﴾ أَلَمْ  
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذبح کر تک اھ طریقہ مقرر کورمت۔ تھ طریقہ پیٹھ آس تم ذبح کر ان پس اوس لازم اعتراض کرہ  
 ونین کہ تم کرہ ہن نہ کانہ اعتراض یہ اختلاف ذبحہ کس معاملہ اندر۔ جہہ روزو بدستور لو کون پنہ  
 پس خدا پس کن نادوان اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ہنز پاٹھ جہہ جھوہ یقیناً سیرہ و تہ پیٹھ و اِنْ جَادَلُوكَ  
 فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ ہر گاہ اتھ پیٹھ تہ تم لو کہ توہہ سیت ہر تہ قضیہ لا گن جہہ  
 فرماؤ کہ پتہ تم تھ۔ اللہ تعالیٰ جھو زیادہ زانان تھ ساری، بیہ جہہ کر ان جھوہ۔ سوی انزراوہ جہند نیای۔  
 اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ کرہ پانہ توہہ منز عملی فیصلہ قیامتگ  
 دود تھ ساری منز تھ منز جہہ اختلاف کر ان آسودہ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ای  
 مخاطب کیاہ ثہ جھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ جھو زانان تہ سو زوی بیہ آسان تہ زمین منز جھو باوجود آل  
 اِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ اِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ہنز پاٹھ بیہ سو زوی جھو لکھت تہ محفوظ نامہ اعمال منز۔  
 لہذا پس ثابت کہ ہنز پاٹ بیہ فیصلہ کرن جھو اللہ تعالیٰ اس نغمہ سینہاہ آسان و یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَالَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بیہ جھہ مشرک لو کہ عبادت کر ان خدا پس درائے بین  
 چیزن ہنز تم عبادت کرنہ خیرہ نہ کانہ دلیلاہ اللہ تعالیٰ ان پنہ نین کتاہن منز نازل کمر مز جھہ، نہ

مَنْ نَصِيرٍ ۝۱۶ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَايَيْنِ تَعْرَفُ فِي  
 وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ بِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ  
 يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشِيرٌ مِّنْ ذَلِكَ  
 النَّارِ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْسِ الْمَصِيرُ ۝۱۷  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُكُونُوا

بچھہ تم کافرانِ نَش تَج کا نہ عقلی دلیلہ۔ بلکہ چھہ تم محض بے دلیل خدائیں شرک اتان۔ قیامتک وہ  
 یلہ تم شرکس پیٹھ سزا نہ ایہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ تم ظالمین ہندہ خیرہ آسہ نہ کا نہ  
 مددگارہ۔ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَايَيْنِ تَعْرَفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ یہ یلہ پر نہ یوان  
 بچھہ تم پیٹھ سان آیات، تم صاف تہ روشن چھہ۔ وچھان چھوہ تمہ کافران ہندین یقین بچھہ آثار۔  
 بھس بھکھہ گینہ گوہان، نس بھکھہ تھو دکھسان، بھیک رنگ بھکھہ بدلان، تمو آثار وسیت بھ  
 معلوم ہد ان۔ بِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ قریب چھو تم ماتر وان چھہ تم پیٹھ  
 تم سان آیات تم پیٹھ بدلان چھہ یعنی تم پیٹھ ما کرن حملہ۔ تیوت چھو تم کافران خون گرم گوہان  
 قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشِيرٌ مِّنْ ذَلِكَ النَّارِ نہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ ہا کروہہ توہہ خبر تمہ چیز جس امہ  
 قرآن مجیدہ خوتہ ناگوار چھو ہندہ خیرہ، سوگو نار جنم وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْسِ الْمَصِيرُ  
 تمیک وعدہ چھو اللہ تعالیٰ ان کورمت کافران۔ کاژاہ بھہ واقع جائے بھہ سو جنم يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ  
 مِّثْلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اے لو کو اکھ عجیب مثالاہ بھہ بیان کرنہ آمر سوسو یوز تو نہہ وارہ کن دار تھہ اِن  
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُكُونُوا اجمعوا لہ پزپاٹ یمن معبودان باطلن  
 نہہہ پرستش کران چھوہ، تم نشہ حاجت روائی ژھانڈان چھوہ خدائیں، معبود برحقس وراے۔ تم  
 ہیکن نہ پیدہ کر تھہ اکھ بھہ تہ۔ اے تمہ خیرہ ساری معبوداکہ وٹہ سخن تہ اِن کیاہ بھہ تھی وَاَنْ

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَاسْتَنْقِذُوهُ  
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ  
 حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۴﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ  
 الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿۴۵﴾  
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ہر گامگھ ہیت ژلہ کانہہ چیز اہن نشیر لَاسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ سو چیز ہمکن نہ تس نشیر  
 تم موکلا و تھہ تہ و اہس ہتھ۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ژھانڈہ ون تہ کمزورے، بس نشیر  
 ژھانڈان سو تہ کمزور۔ یعنی مجھ تہ کمزور تھندہ خوتہ زیادہ کمزور پوئل۔ تھندہ خوتہ کمزور بس پوئلس  
 پر سٹش کرہ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ہمو لو کو کورنہ خدایہ سُنْد تَعْظِيمٌ ہتھ تس شو بہ ہا۔ کیا زہ  
 تمو تھا و تس عباد تس اندر بے چیز شریک حالہجہ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو  
 سیٹھاہ قوتہ وول، سارنی پیٹھ غالب، تمسند قوتہ وول تہ غالب آسنہ موکھ چھو عبادت تھندہ حق۔ یہ  
 اوسنہ حق کمزور چیزک بس نہ چھو پورہ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ  
 اس چھو اختیار کہ رسالتہ خیطرہ بس سو منتخب کرہ تہ ژارہ ملائحو آندرہ یا لو کو آندرہ ملائحو آندرہ چھہ  
 ژاران ہن احکام حضرت انبیاءن نشیرہ واتنہ خیطرہ لو کو آندرہ چھو ژاران حضرت انبیاءن ہتھ تھندہ  
 ذریعہ ہن احکام و اتا و لو کن نشیرہ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی  
 و چھہ ون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سو چھو لو کن ہند ساری حالات برو شھم تہ تہ ہتم تہ پور  
 زانان وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سی پیٹھ سارنی کامین ہند و از و مدار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے با ایمانو اصول  
 اسلام قبول کر چھہ کرو تھہ فروعات اسلامن ہنز تہ پانہدی، خصوصاً نماز۔ نمازہ منز آسور کو ع کران سجدہ

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۰﴾  
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا  
 جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ  
 إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
 النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا  
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۶۱﴾

دوان، بیہ آرو پنے نس بد وردگارہ سز عبادت کران، بیہ آبرورثہ کامہ کران بیٹھ نہہ کامیاب سپدہ تم  
 کاین منزہ آروستی کران وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ بیہ آرو خدیہ سزنا کاین اندر کوشش  
 کران برشہ کوشش کرن شوبہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ تمی کردہ نہہ بیہ  
 اُمتواندرہ ممتاز، نہہ کر وہ برگزیدہ، بیہ کمر نہ تم نھندہ خیرہ دینس منز کانہہ سختیہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  
 نہہ رُو زوپنے نس مالس ابراہیم علیہ السلامہ سبوس ملتس پیٹھ قائم بہ مضبوط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمی  
 خدائن ہجووہ توہہ نا توہودمت مسلمان مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا برو نظھین کتائن اندر بہ تھہ قرآن مجیدس اندر  
 تہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بیٹھ آسن حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم قیامتک دوہ نہہ گواہ، نہہ آرو گواہ بین لوکن ہدی یعنی برو نظھین اُمتن پیٹھ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اتھہ خصوصیتس کن نظر تھاوتھہ کرو نمازہ ہنز پابندی کیازہ سوہہ افضل  
 عبادت بدنیہ، بیہ کبر والداز کوہ۔ کیازہ سوہہ افضل عبادت مالیہ۔ بیہ کرو باقی احکامن پیٹھ عمل زورہ تھہ  
 کرتھہ معبود برحقس۔ امہ عزتہ کہ شکرانہ خیرہ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ سوی ہجو نہہ آغہ، مددگار تہ کار ساز  
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نس کیاہ رت کار سازتہ کیاہ رت مددگار ہجو سو نہہندہ خیرہ



لَأْمَنِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾  
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَادِوسَ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾  
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا فَلَكَسْنَا الْعِظْمَ  
 لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأْمَنِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۸﴾ یہ اسم پنے نین لائن سے عمدن ہند رعایت کرہ ون آسن  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾ یہ اسم پنے نین نماز ر لہجہ کرہ ون آسن یعنی وقت پابندی کرہ  
 وَنِ آسن۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَادِوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾ تم با ایمان  
 منز اسم شہ صفت آسن تھے ہجہ وارث سپہ ون، تم جنت الفردوسک وارث بن گئے روزن تہہ منز  
 ہمیشہ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾ یہ کور اسمہ نیز پارت انسان میوہ ہندس خلاص  
 یعنی غذاء س پیدہ (گوڈہ ہجہ آسان میوہ توپتہ چھو تہہ غذاء س سوادہ بنان۔ تہہ انسان بنان چھو تہہ  
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۳﴾ توپتہ بنو اسمہ سوتہہ نطفس بس اکس معین مد تس تان اکس محفوظ مقاس  
 یعنی رحمس منز روزان چھو تہہ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿۱۳﴾ توپتہ بنو اسمہ تہہ نطفس موٹ خون فَخَلَقْنَا  
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴿۱۴﴾ توپتہ بنو اسمہ تہہ مونس خونس ماز چھولاہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا ﴿۱۵﴾ جس بناوہ اسمہ تہہ ماز  
 پھلس منز اوجہ فَكَسْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿۱۶﴾ توپتہ وول اسمہ تم اوجن سوماز تہہ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿۱۷﴾ توپتہ  
 تہہ منز روح وادہ ناو تہہ بنو اسمہ بیا کھے مخلوقاہ بس برو ٹھمیدو حالاً تو نشہ بد لے اوس فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ ﴿۱۸﴾ بس کیتہ بوڈشان چھو اللہ تعالیٰ سندس سارنی کار گیرن کھست چھو تہہ اَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ  
 لَبِئْتُونَ ﴿۱۹﴾ توپتہ چھو ہجہ اسمہ پنے ضرور مرہ ون تہہ اَلَمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۲۰﴾ توپتہ ایو ہجہ لوکھ ضرور



ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۶﴾  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ ﴿۱۸﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّ  
 أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَجَرَةً  
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيْنَ ﴿۲۰﴾

قیامتک دوہ قبر و منزہ تلت زندہ کرنہ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ** بیشک بیہ کر پیدہ اسہ توہہ پیٹھ  
 کرن ستھ آسمان، تمن منز ملاکن ہندہ اورہ یور پختہ خیطرہ و تہ چھہ **وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ** بیہ چھہ  
 آس پنہ نیو مخلوق ہند یو مصلحتو لغہ بے خبر **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ** بیہ  
 کور نازل اسہ تہندہ بقاء کہ مکمل کرنہ خیطرہ آسمانکہ طرفہ زوداہ کہ اندازہ موجب، تو پتہ ٹھہر و وسو  
 ز مینس منز **وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ** بیہ چھہ آس تمہہ آہ کس و اہس نینس پیٹھ پور قدرتہ وال  
**فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** تو پتہ بناو  
 اسہ تہندہ خیطرہ امہ زودہ سیت خضر گلین تہ دچھہ اندر واریاہ میوہ یم تہہ تازہ تازہ کھیوان چھوہ تموی  
 منزہ چھوہ اڈ میوہ ہو کہ ناوان۔ سو چھوہ تہہ غذا بدلہ کھیوان **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ**  
**بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيْنَ** بیہ کور اسہ امی آہ سیت بیا کہ گلاہ پیدہ ٹس نیران چھو کہوہ طورہ منزہ  
 (یعنی درخت زیتون) سو چھو زینہ منزہ کسان تیل ہیتہ۔ بیہ کھینہ و لین ہندہ خیطرہ سُن ہیتہ۔ یعنی تمہہ  
 پھلہ منزہ چھہ دوشوے مطلب نیران۔ ژا جس تہ چھو تمیک تیل دزان مالش کرس تہ چھو سولگان، بیہ  
 چھو سہ بدلہ ژوچہ سیت تہ کھینہ یوان۔ ژوٹ پوان تہہ منز کڑو تہہ کھینہ **وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَالِ لَعِبْرَةً**  
 بیہ چھہ تہندہ خیطرہ چارواں اندر، یعنی ڈونٹن، گپن تہ تیرن اندر غور کر نک موقع **نُصِيحَتِكُمْ وَمَتَانِي**  
**بُطُونَهَا** آس چھہ دوان توہہ چنہ خیطرہ سو چیز ٹس تہندہ یوشکو اندرہ چھو نیران یعنی دودھ **وَلَكُمْ فِيهَا**

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
 مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۲﴾  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  
 اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَسْبِغْنَآ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿۲۴﴾ إِنَّ هُوَ

مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ یہ ہے تھمدہ خیلرہ تم چار پاعن اندر واریاہ فاندہ۔ تهنز مون، بیر نہ  
 وال چھوہ تہہ استعمال کران، یہ چھوہ تھمدہ ماز کھیوان۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ یہ چھوہ اکھ  
 تم چار پاعن پیٹہ یہ ناؤن نہ جہازن پیٹہ سوار یوان کرنہ توبہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ  
 فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پڑپاٹ، یہ سوز اسہ نوح علیہ السلام پنے  
 نس تو مس کن پیغمبر۔ بس فرمودہ تم پنے نس تو مس، ای میا تہ قومہ عبادت کرد و معبود برحقہ سنزی پاڑ۔  
 نس ورا ی چھوہ معبود برحق آس نس لایق نہ سزاور کنی۔ کیاہ تہہ چھوہ ناس ورا ی بیا کہ معبود بناؤ نس  
 اندر کھو ژانی فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نوح علیہ السلام سنز  
 یہ تہہ بوز تہہ دوپ تھمدہ قومہ منزہ تھو کافر و عام لو کن کن کہ یہ شخص چھوہ مگر توبی ہیوا کہ انسانہ،  
 یہ پیغمبر یا بزرگ شخصہ چھوہ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ یہ چھوہ یژہان توبہ پیٹہ فضیلت حاصل  
 کرن، تھمدہ زیٹہ بن و اوشاء اللہ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہ ہا پیغمبر سوزن تلہ سوزہ ہاسو  
 کانسہ ملکس فَاسْبِغْنَآ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ آسہ چھہ سمہ کتھ بوز مڑے بروٹھن مالین بڈ بن  
 نشہ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِّثْلُكُمْ یہ چھوہ مگر خوشبت لد انسانہ اکھ۔ تی چھوہ دنیا کی کن لو کن خلاف کتھ  
 کران قَتَرُكَؤا يه حَتَّىٰ جِئِنِ بس بیار و تہہ اس اس و قس تان۔ و چھوہ اسند حال کیاہ آسہ۔ اکہ نتہ  
 اکہ دوہہ مڑہ یہ۔ قصہ گڑہ ختم قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي مِمَّا كُنْتُ بِهَذَا كُؤون حضرت نوح کور دُعای میا تہ پرورد گارہ

الْارْجُلِ بِهِ جَنَّةٌ فَرِيصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي  
 بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا  
 وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  
 مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٢٧﴾  
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 الَّذِي نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزلاً مُبْرَكاً

مہ کریاری، کیا زہ سموزوس بو ایزور۔ سمن نشہ بہ زہ امیک بدلہ۔ اسہ کور تہند دعا قبول فأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ  
 أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا نہس سوزاسہ تمن کن وحی زہ تہہ بناوواکھ ناوہ اسہ برو تھہ کنہ بیہ  
 سانیو ہدایو موجب۔ وون بیہ اکھ طوفانہ، تہہ تہ بایمان روزو تھی ناوہ ہندہ ذریعہ محفوظ فأذَا جَاءَ أَمْرُنَا  
 وَفَارَ التَّنُّورُ نہس یلہ سون حکم عذابک جاری سپدہ تنورہ منزہ بیہ آب نیرن فاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ نہس والیو کھ ناوہ منز پر تھہ قسمہ کیو جانور و منزہ سم انسانس کار آمد چھہ  
 آسان، اکھ اکھ نر تہ اکھ اکھ مادہ یعنی زیز جانور، بیہ بن عیال إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ  
 مگر نہ عیالہ منزہ تم تمن ہندہ حقہ غرق سپد تک حکم برو تھسی چھو کرنہ آمت یعنی تم کافر آسن ولا  
 تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ بیہ تھہ بوزوارہ کہہ مہ انز نہ روبے تمن شخصن ہندہ حقہ  
 کانہہ تھہ سمو ظلم کور یعنی ٹھرو شرکس پیٹھ رود کیا زہ تمن چھو ضرور چھن فأذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ  
 مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ نہس یلہ وارہ بہو تہہ بیہ تم توہہ سیت چھہ اتھ ناوہ منز فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا  
 مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نہس دہزہ تمہ ساتہ حمد یومین تس مغبود بر حقس تم اسہ نجات دیت ظالم لو کن  
 ہنزو کامیو نشہ بہ تہندہ عذابہ نشہ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزلاً مُبْرَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ بیہ پر زہ سمہ ساتہ بیہ





مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا  
 رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ  
 بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾  
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا  
 أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ﴿۳۷﴾ فَلَمَّا كَذَّبُوهُمَا

نا فرمان نمود انشانان من بعدهم قرونا الخیرین تمہ پتہ یعنی قوم عاد و ثمود کہ ہلاک گزہنہ پتہ کرہ  
 اسہ واریاہ امز تہ قوم پیدہ ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون بروئھ بیجہ نہ گزہت کا نہ قومہ  
 تہ کا نہ امتاہ پتہ نس ہلاکتہ کس مقررہ و قس نہ بیجہ پتہ گزہت تمہ نشہ۔ پتہ پانھ پتہ پتہ پتہ پتہ  
 ہلاک گزہنہ خیرہ و قہ مقرر کر نہ آمت۔ الغرض تمہ امز آیہ گوڈہ پیدہ کر نہ ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا  
 تو پتہ سوز اسہ تم ن نشہ پتہ پیغمبر پوئس پتہ ہدایت و ارشادہ خیرہ کَلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ  
 تہنز حالت سوز یہ کہ یلہ یلہ تمہ قومس نشہ تہند خاص پیغمبر و اتان اوس خدایہ سند احکام پتہ تم آس نس  
 ایز اتان تہ انکار کر ان۔ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ نس گال اسہ تم اکھ اس پتہ تو پتہ  
 تھا وہ پتہ کن تہنزہ کتہہ یا تہہ قصے یات فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ لعنت یوسن تہن لو کن سم نہ کنس  
 خدائس پڑھ گرن تہ ایمان اَن ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
 وَمَلَئِهِ تو پتہ سوز اسہ موسی علیہ السلام بیہ تہند برادر ہارون علیہ السلام پتہ آیات تہ سند پتہ  
 فرعونس تہ تہندین ارکان سلطنت کن فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ نس کور تمہ تصدق و اطاعت کر نہ  
 نشہ شکر بیہ آسہ تم مغرور تہ متکبری یات بلکہ آسجھ بنی اسرائیل مغلوب تہ غلام بناؤمت۔ فَقَالُوا  
 أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ نس لگ تم پانہ وان دپتہ کیاہ اس گردہ پڑھ پانسی ہون  
 دون انسانس بیہ تم ہند قوم سان غلام تہ خد متگا رچھہ فَلَمَّا كَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ نس یلہ تموتہ

فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ  
يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى  
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

تمن دون پیغمبران انکار کور، تم تہ زانجھ اپن زبیر، بس سپد تم تہ گلہ و نیوتہ ہلاک سپدہ و نیو آندرہ و لَقَدْ  
آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تہندہ ہلاک گزھنہ پتہ و ژا سہ یہ کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ  
السلامس تھتہ تم لو کہ تم باقی زود ہدایت لمن وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ  
قَرَارٍ وَمَعِينٍ بیہ کراسہ پنہ نس کمال قدرتس بیہ پنہ نس وحدائتس پیٹھ دلالت کرنہ خیطرہ بیہ بنی  
اسرائیلن ہندہ ہدایتہ خیطرہ مریم علیہا السلامہ سُنْد فرزند علیسی علیہ السلام بیہ تہنمز والدہ ماجدہ بڈ دلیل  
علیسی علیہ السلام سمعہ اعتبارہ کہ تم کراسہ بے پدر پیدہ۔ مریم علیہا السلام سمعہ اعتبارہ کہ سُوکتر اسہ  
خاندنس یابیہ کانسہ انسانس نزدیک سپدنہ و رای حاملہ تہ بچہ دار۔ بیہ چھو یمن دوشن ہندہ خیطرہ بوڈ نشانہ۔  
چونکہ علیسی علیہ السلام متعلق اوس سُون ارادہ پیغمبر بناون۔ مگر اتھ شہر شامس اندر اوس اکھ ظالم  
پادشہائس ناواوس ہیر دوس۔ نس اوس نجومیو وو نمٹ کہ علیسی علیہ السلامس سپد سرداری عطا۔ سُو  
پادشاہ اوس لو کچارہ پیٹھتہ تہند د دشمن سپد مت۔ سواوس تمن قتل کرنہ خیطرہ آادہ سپد مت تمہ موکھ  
دیت اسہ تمن تہ تہندس والدہ ماجدس پناہ اکس تھزہ جلیہ پیٹھ۔ یوسہ جای میوہ بکشرت آسنہ موکھ بسکس  
تہ قرار کرس لایق آس۔ بیہ تمہ منزہ دریاو جاری آسنہ موکھ، سر سبز و شاداب جلیاہ آس۔ یوتان تم  
(علیسی علیہ السلام) امن و اناس اندر جو ان سپد۔ تو پتہ آو تمن نبوت عطا کرنہ۔ تمس ظالم پادشہہ سہدہ  
مرنہ پتہ آبیہ مریم علیہا السلام مصرہ پیٹھ بیہ وانس شہر شامس کن۔ ماء معین چھہ ونان رود نیلہ ہندس  
آبس۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اسہ تھ پات برو نٹھی  
نعمو استعمال کرنک توبہ اجازت دیت بیہ عبادت کرنک حکم کور، تھ پات فرمود اسہ سارنی پیغمبران،

وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا  
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ ﴿۵۴﴾ أَيْحْسِبُونَ أَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ ﴿۵۵﴾ نَسَارِعُ  
 لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ

تہندہ ذریعہ تہنزن اُمتن ای پیغمبر و کھو ہتہ تہند اُمتی رت رت چیز۔ خدایہ سزہ نعمو۔ تمیک پھل تہ  
 رت شمرہ عطا وان ہذا اُمتکم اُمتہ وَاَحَدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ تمہہ طریق اسہ بیان کورہیے پھتہ تہن  
 طریق پھتہ پیٹھ توہہ روزن پھو واجب تہ ضروری۔ سوچھہ اکے طریق۔ حاصل تہ خلاصہ تمہہ طریق  
 چھو کہ یو پھو س تہند پروردگار، تہند مالک حقیقی، بیہ منعم حقیقی۔ لہذا کھو ژومے یوت، میانین حکمن  
 ہنزمہ کمر و مخالفت تمکن پیغمبرن ہنزن اُمتن شو بہ ہاتھہ اکسی طریقس پیٹھ مضبوط روزن مگر تمو کورنہ  
 تہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بلکہ کور تمو پنہ نس دینس منز الگ الگ  
 و تہ کڈت اختلاف پیدا۔ چنانچہ تمکن منزیمہ جما ژاژتہ موجود پھتہ، پریتھہ جماعتس نشہئس نس دیناہ پھو  
 سوچھو تھہ پیٹھ خوش تہ راضی۔ باطل آسہہ باوجود پھو تھہ زانان پوز۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ کس ترا یو کہ تہہ یار رسول اللہ پنہ نس جمالتہ کس حاکس پیٹھ۔ کانہہ غم مہ برؤ، تہند س اکس  
 خاص و قس تان۔ یعنی تہندہ مرنہ کس و قس تان۔ یلہ سو وقت و اتہ تمہہ ساتہ سپدہ تمکن ساری حقیقت  
 معلوم۔ و سن نس یمن پیٹھ جلد عذاب نازل پھونہ سپدان، کیاہ امہ سیت چھا لو کہ یہ خیال کران کہ اس  
 یوسیہ تمکن مال و اولاد تہ بیہ دولت عطا کران چھہ، اس ماچھہ تمکن جلد جلد تہ ول ول فاندہ و اتاوان، اسہ  
 ماچھہ تہنزن منہ کامن۔ یہ کتھہ پھنہ ہر گز تمکن کو کن پھونہ امیک و جہی معلوم۔ امیک و جہ پھو استدر اج  
 یعنی تہنزن ناو گو براون۔ یلہ ناو گو کتھہ، یہ کدم پھنن تم۔ غرض امیک انجام پھو سیٹھاہ کزوٹھہ اَيْحْسِبُونَ  
 أَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ کیاہ تمکن پھٹا گمان کہ اس نس تمکن دیار تہ گبر دوان چھہ نُسَارِعُ لَهُمْ  
 فِي الْخَيْرَاتِ بیہ چھہ اس تمکن جلد جلد خیر و اتاوان نہ سوچھنہ حقیقت بَلْ لَا يَشْعُرُونَ بلکہ چھونہ



رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾  
 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا  
 قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ  
 فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  
 وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي  
 غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۶۳﴾

سمن فجری تران امہ منز کیاہ چھو سون مطلب کہ یہ تہ چھ سناہ طرفہ اکھ آزمایشاہ **إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ** پڑپاٹتہ منز چھونہ کانہہ شک کہ یم پنہ نس پروردگار سندرہ ہیبتہ تہ خوفہ سبہ نمان چھہ **وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ** یم پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن پڑھ چھہ کران **وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ** بیہ سم اتھ ایمانس منز پنہ نس پروردگار س شریک چھنہ ٹھراوان **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ** بیہ سم خدلیہ سزہ وتہ کینہہ دوان چھہ، یوت پلان چھو کہ ثیوت مگر تہہ منز تہ چھک دل نثرہ منز آسان۔ **أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** بیٹک چھو تین واٹن پنہ نس پروردگار نشہ۔ خبر چھاسو کریاہ سون مال خرچ کران قبول کنہ نہ **أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** تہہ کیاہ گے تم لو کہ سم نیکن منز جلدی کران چھہ **وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** بیہ سم نیکن کن بروٹھ وائتہ ون چھہ **وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** بیہ چھنہ اس کانہہ اکس تکلیف دوان تہ عبادتک بور کھاران۔ مگر توی ہن یشی ہن تس بتر تہ طاقت آسہ **وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** کیاہ اسہ نشہ چھو اکھ دفتر، کتابہ، یعنی نامہ اعمال محفوظ ٹیس پوز پوز سوزوی باوہ۔ بیہ بیہ نہ لو کن کئہ قسمہ نظم کرنہ۔ خیرہ کس اکس اکس ذرس پیٹھ لیہ تین ثواب عطا کرنہ۔ یہ اوس حال باایمان ہند مگر کافر ن ہند حال چھونہ ٹھہ **بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ** بلکہ اتھ برعکس چھہ تہند دل سمہ دینہ نشہ جہالتس تہ شکس منز ہیبت۔ بیہ چھہ سمن امہ جہالتہ ورا تہ بیہ بیچھ عملہ سمہ عملہ تم بدستور چھہ

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۱۷﴾ لَا تَجْرُوا  
 الْيَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ وَأَنْتُمْ كَالَّذِينَ تَكْفُرُونَ ﴿۱۸﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ  
 عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْ تَنْكِصُونَ ﴿۱۹﴾ مُسْتَكْبِرِينَ تَقْتَرِبُونَ سِيرَاتِهِمْ يُجْرُونَ ﴿۲۰﴾  
 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۱﴾  
 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ  
 بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كُفْرُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

کران۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ تا اینکه یلہ تمو آندره خوشحال کو کہ عذابس  
 گرفتار کرو کہ اس سمن نشہ نو کر چا کر چہ غریب غرباء تہ عام لو کن ہنز چہنہ تہس۔ غرض یلہ یمن  
 سارنی پیٹھ عذاب نازل سپدہ تان ہن تم کر یکہ ناد کرن۔ اس دپو کہ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ  
 مُنْكَرُونَ مہ تلو از کر یکہ ناد۔ سمو کر یکہ گو سیت بیونہ کینہہ۔ توہہ پیہ نہ ہرگز سانہ طرفہ مدد کرنہ۔ کیا زہ  
 ہنگوہ تاتے قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْ تَنْكِصُونَ \* مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِيرَاتِهِمْ يُجْرُونَ پز  
 پاٹ دنیاس منز اس میان آیات توہہ پیٹھ پر نہ یوان حضرات انبیاء ہندہ ذریعہ۔ تہہ آسوہ پوت  
 پو توی ثلان۔ کمال مجہر آسوہ رات کیت اتھ قرآن مجیدس خلاف بکواس کر تھ یہ بوزنہ نشہ دور  
 روزان۔ کانہ اوس ونان تھ شعر کانہ اوس ونان تھ سحر۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ  
 آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیاہ سمو کورنا تھ قرآن مجیدس منز غور تہ فخر۔ تے فخر گرہ ہن پائے سجھ بکھ بو زن  
 امیک مجرہ وہجھت انہ ہن ایمان کنہ یعنی نشہ ووت نو اکھ چیزاہ نس نہ تہندین مالین بدین نشہ ووت مت  
 اوس۔ امی چہہ اتھ انکار کران أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ کنہ تم زانی نہ پیغمبرس پنہ نس  
 تہن چہنہ خبری تہندہ امانت و دیا تچ، راست گوئی ہنز تمی چہہ نس انکار کران أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ کنہ  
 تم چہہ ونان انس پیغمبرس چھو جنون۔ سمو کھو آندره چہنہ کنہی تھہ۔ تم ساری اس منجھہ طور تہندہ  
 صدق والمانک تہ دیا تک قائل یہ اوس تہن اتفاق کہ تہن برابر چھو نہ صاحب عقل کانہ تہ بَلْ جَاءَهُم

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ مِنْهُمْ  
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ  
وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾  
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَكُفْرُونَ ﴿٤٤﴾  
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِي طُعْيَانِهِمْ  
يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا إِلَّاءَ رَبِّهِمْ

بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ لَهُمُ الْحَقُّ كُفْرُونَ بلکہ چھو اصلی وجہ کہ یہ پیغمبر آؤ تمہیں نش پڑتھ ہیٹھ، مگر سمو اندرہ ہتھ اکثر لوکن پڑج نفرت۔ تمی چھہ قبول تہ تسلیم کران وَلَا تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بیہ ہر گاہ پوز تابع روزہ تہمز ن خواہن تلہ گوہن آسمان وزمین تباہ و بربادیہ تم ساری تم تمہن منہر روزان چہ۔ کیا زہ ہر گاہ تہ لبندہ بیہ ہانہ ہوزہ کیا روزہ ہاتاج تہمز ن خواہن تیلہ سپدہ ہاسوزی عالم پڑ کفر و شر کہ سیت عالمس منہر پھیلہ ہا گرائی۔ تمیک نتیجہ نیرہ ہا اللہ تعالیٰ سُد غضب ایہ ہا بجوش، آسمان وزمین بیہ یم تمہن منہر روزان چہہ گوشہ ہن ہلاک تہ برباد بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ آئی آس تمہن نش نصیحت تہ نفع تھ ہیٹھ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ مگر تم چہہ پندہ فاند چہ تھ نشہ تہ تھ پھر ان تہ روگردانی کران أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ سجدیہ کیکن بروظھمن و جھن علاوہ چھو بیہ بیاکھ وجہ کہ تمہن چھو خبہ تہ اندیشہ کہ تہہ ماچھوہ تمہن نش دین حق و اتاوندہ خیطرہ کینہ معاوضہ ژہانڈان۔ توہہ کیاہ آس تیج ضرورت توہہ نیس معاوضہ خدایہ سندہ طرفہ حاصل سپدہ ون چھو۔ سوی چھو سیٹھاہ بہتر زوزی دنہ وول وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پڑپاٹ تہہ چھوہ تمہن راہ راستس، سیزہ و تہ گن نادووان وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَكُفْرُونَ پڑپاٹ تمہن نہ آخرف تیچ پڑ پھ چھہ تم چھہ سیزہ و تہ نشہ پتہ ژلان وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ بیہ ہر گاہ آس تمہن پیٹھ رحم کر تھ، تمہن نیس تکلیف چھو سو وور تہ گرو، توہہ روزان تم

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ  
 إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۴۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي  
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۴۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۰﴾ بَلْ قَالُوا  
 مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

بدستور پختہ سرکشی سے مگر ای اندر اورہ پور کران و لَقَدْ أَخَذْنَا لِيَوْمِ الْآخِرِ  
 يَتَضَرَّعُونَ پڑیاٹ اس اگر تم گرفتار کرو کہ عذاب جس کرنے تمو پندہ نس خدا جس کن عاجزی، نہ کو رکھ  
 زارہ پارہ نس حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تا اینکه یلہ اسہ تمن کن  
 مُدَوَّرًا و سخت عذاب دروازہ اتی سپد تم تہ اندر حیران وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سو معبود برحق گو سوی تم توہہ کن اچھہ تہ دل پیدہ کمر۔ بھتہ تہہ آرام تہ کر وہیہ  
 دینس کن تہ خیال تھا و مگر سیٹھاہ کم چھوہ تہہ تمن نعمون پیٹھ شکر گذاری کرہ دن۔ کیا زہ اصل شکر  
 گذاری گئے یہ نس منعم حقیقی سہد پسندیدہ دین اختیار کران۔ بیہ پڑھہ گرن کہ نس چھہ قدرت مر نہ پتہ بیہ  
 زندہ کر نس پیٹھ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ گو سو پروردگار سوی تم تہہ  
 زمینس منز چھکروہ۔ بیہ ایو تہہ ساری قیامت دہہ نس نشہ سونبر نہ تہ جمع کرنے تھی وہہہ کیا و چھو تہہ امہ  
 نکران نعمت کر نک مزہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بیہ  
 گو سو پروردگار سوی نس سارنی زندہ کران چھو بیہ نس ماران چھو۔ بیہ چھو نس، یعنی تہہدی سی اختیار س  
 منز راتک تہ دُبک من گوٹھن، تہوٹھن تہ زہٹھن۔ کیا توہہ چھنا ایو تہن تہ فخرہ نران۔ سہمہ دلیلہ چھہ  
 توحیدس تہ قیامتس پیٹھ دلالت کران مگر توہہ چھہ تم مانان بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ  
 چھہ ونان تہ تہ سہہ کتھہ بروٹھمید کافر دوتہ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا نُبْعَثُونَ

وَعِظَامَنَا الْبَعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَاهُذَا  
 مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ  
 وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ  
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ

تمو دوپ کیا اس لیے مر تو پتہ سپدو اس میں تہ اذہر کیاہ تمہ پتہ سموہ اس یہ زندہ کرتھ قبر ومنزہ تلمنہ  
 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَاهُذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ہمہ پات وعدہ آو کر نہ اسمہ  
 سیت امیک یہ ساین مالین بدین سیت سمہ بروٹھ تہ یہ چھونہ کینہ تہ مگر بروٹھمین لوکن ہنزہ اپزہ تہ  
 بے گندتھ تہ قصہ ہم نقل چھہ یوان کر نہ قُلْ فرما دیو کہ تہہ یار سول اللہ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہر گاہ تہہ کینہ زمانا چھوہ تلہ وینو زمین یہ ہم مخلوق اتھ منز چھہ ہم کہند چھہ۔  
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ تم وزن ضروریو ہے جواب کہ یہ سو زوی چھو خدایہ سہ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تہہ  
 فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ غور تہ تا مل کران، لیس قدر تہ والیس یہ لوگ پیدہ کرن تس نغہ کیاہ عجائب چھو  
 چہ سرت یہ پیدہ کرن قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تہہ پر ٹھوک  
 ستن آسمان تہ عرش عظیم مالک تہہ چھو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دن تم کہ سمہ سارہ کوئی مالک  
 چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تہہ فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ تس کھو تان ادہ تھہ پات چھوہ تہہ  
 جہدس قدر تس، تہدین آیتن، آخر تس بروٹھ کن واتس انکار کران قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تہہ پر ٹھوک گس اتھ چھو پر تھہ چیزک  
 اختیار رسوئیس۔ بڑھان چھو تس چھو پناہ دو ان۔ تس مقابلہ ہمہ نہ تس نغہ کا نہہ اکھاہ کا نہہ اکس پناہ دت  
 ہر گاہ توہہ کینہہ معلوم چھو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دین تم کہ ہم ساری صفت چھہ خدایکی یوت

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾  
 بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ  
 وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ  
 وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلَيْهِ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيئِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ نہیہ فرما دیو کہ اذہ کتہہ چھو توہمہ پیٹھہ جود آمت کر نہ۔ نہیہ چھوہ مجبوظ الحواس  
 سپد مت۔ توہمہ چھوہ فکروہ تران کینہہ۔ سیمہ سارے کتہہ چھوہ مانان مگر اصل کتہہ چھوہ نہ مانان۔ سوگو  
 توحید تہ مرنہ پتہ ہیہ زندہ سپدان بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ واتنا واسہ تہن نشیہ پرتکھ۔  
 مگر ایزیر پتہ تم پانہ کن چھو کھنہ پوزویشان تہ برداشت سپدان مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ  
 إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ ان چھوہ نہ کانہہ شخص پتہ بنو مت۔  
 ہیہ چھوہ نہ تس سیت بیا کہ محبوبادہ۔ ہر گاہ تہ آسماتیلہ نیہ ہا پرتکھ محبوبادہ تھہ ہیہ تم پیدہ کر مت آسمہا۔ ہیہ  
 آسن تم کہ اکس پیٹھہ حملہ کر تھہ کہ اکسید مخلوقات زبردستی سیت نوان۔ مخلوقات آسن تباہ و برباد  
 سپد مت۔ چونکہ نظام عالم چھوہ بدستور قائم امہ اندرہ سپد ثابت کہ سو چھوہ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشیہ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ چھوہ سو منزہ تہ پاک تموساروی کھوہ نشیہ سیمہ تس کن لوک لاگان چھہ علیہ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَشْرِكُونَ سو چھوہ زانہ ون سو زوی پو شیدہ تہ نون۔ تس نشیہ چھوہ نہ  
 پو شیدہ کینہہ ہیہ چھوہ سو سیتھاہ بلند تہ تھود تہمہ شر کہ نشیہ ہیہ تس کن لوک لاگان چھہ۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيئِي مَا يُوْعَدُونَ نہیہ مگو خدا ہیہ ای میانہ ہر وردگارہ ژہ مہ ہاؤ کہ سو عذاب سیمک سمن وعدہ  
 تھوانہ یوان چھوہ یعنی میانی زندگی منز کر کہ سمن پیٹھہ عذاب نازل رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ  
 الْكَاذِبِينَ اکی میانہ ہر وردگارہ چھتہ مہ تھاو کہ تہمہ وقتہ ظالم سیت شامل وَرَاتَاعَلَىٰ أَنْ تُرِيئِكَ مَا

الظَّالِمِينَ ﴿۹۲﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُثْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۳﴾  
 إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۴﴾  
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۵﴾ وَأَعُوذُ بِكَ  
 رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ ﴿۹۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ  
 ارْجِعُونِ ﴿۹۷﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ

نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ یہ ہے جسے اس بیشک توہمہ سُو عذاب ہاؤس پیٹھ قدرت وال سہمہ عذابک اس تمن وعدہ تھاوان چہرہ۔ یوتان نہ تمن پیٹھ سُو عذاب نازل سپدہ توتان تھا ووتہہ تمن سیت اتھہ پاٹھ معاملہ کہ  
 إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ہنزہ ہدی ہند مدافعہ آسوتہہ کران۔ جتہ ورتا وہ سیت نئس سیتھاہ رت  
 تہ نرم آسہ پنہ ذلتہ خیطرہ مہ آسوتن بدلہ ہیوان بلکہ آسو معاملہ آسہ سپر دکران۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا  
 يَصِفُونَ اسہ پٹھو پور معلوم تم کیاہ چہہ وانان توہمہ نسبت۔ اگر ممقتضائے بشریت توہمہ تھہ بوزنہ  
 سیت تھہ آسہ کھسان جہند گزہہ تمہ ساسہ ہران یہ دُعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ \*  
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ ای میانہ پروردگارہ بو پٹھوس پناہ منگان شیطان ہند یوسو سونشہ یہ چھوہ  
 سے پناہ منگان میانہ پروردگار ہندہ میہ پٹھہ بنہ نشہ تم مہ واتاوان تہان کامہ کن یوسہ مصلحتس خلاف  
 آسہ۔ یہ روزن نہ پنہ کفر وانکارہ نشہ پٹھہ۔ یہ دُعا پر نہ سیت آسہ توہمہ سو تھہ دور سپدان حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ  
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ پٹھہ زود کافر تمن بنہ نہ کیہنہ یوتان نہ تمن اندرہ کانہہ مر نک وقت  
 واتہ، آخر تک معاینہ یہہ شروع سپدان تمہ ساسہ بن نئس اچھہ مورا ونہ جھلس تہ کفرس پیٹھ سپدہ ناد م تہ  
 پشیمان۔ مرت ونہ سو کافر، پروردگار مہ سوزتہ بیہ دُنیا س کن واپس لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ  
 پٹھہ بورثہ عملہ گرہ دُنیا س اندر نئس مہ پٹھہ کن تر و۔ ملا کن ہندہ ذریعہ پئس اتھہ در خواستس رد کر نہ۔  
 دپنہ پئس کَلَّا تہ بنہ نہ ہرگز۔ یعنی دُنیا س کن واپس گزہن پٹھو نام کن إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا بیشک یہ  
 پٹھہ سو تھہ یوسہ اس و نئی پٹھہ۔ اتھہ ونہ نئس پٹھو نہ امیہ نش اعتباری کیہنہ مِن وَرَأَيْهِمْ رَدُّ إِلَىٰ

قَابِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذَا نْفَخَ  
 فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۰۱﴾  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ  
 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ  
 خَالِدُونَ ﴿۱۰۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۰۴﴾  
 أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِئْتُنِي أَيُّومًا مِمَّنْ يَلْتَمِسُكَ فِي مَنَازِلِكُمْ قَدْ نَفَذْتَ  
 إِلَيْنَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰۵﴾ قَالُوا

يَوْمِ يُبْعَثُونَ تم ن پتہ چھو اکھ پرداہ تہ ٹھوراہ اکھ تھہ دوہس تان سمہ دوہسہ ہیہ تم دوبارہ زندہ کرنہ بن۔ ونہ  
 کیاہ وچہ تمو۔ مرنہ سیت بانبرے تم یوت۔ تھہ چھو تم ن عالم برزخ یوان۔ توت واتھہ روزن تم پردس  
 منز دنیا کین لوکن نشہ۔ آخرت تہ ولانہ تم ن برونھ کن البتہ آخرتک عذابک کم پکن نموناہ ولتہ تم ن  
 برونھ کن سمیک مزہ ٹلان روزن قیامت تان **وَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا**  
**يَتَسَاءَلُونَ** پتہ یلہ قیامت سپدہ چھو کہ ہیہ ونہ پوغس منز تمہ ساسہ سپد ن تم تھس خوئس تہ پیتس گر فارکہ  
 سوڑی مٹھکھ تم ن منز تم اکھ اکس رشتہ دار آسن، تم رشتہ روزن نہ ٹنہ تہ یعنی کانہہ کرہ نہ کانہہ ہنز  
 ہمدردی۔ زن تم ڈرڈر آسن۔ نہ آسہ کانہہ کانہہ پر ژھان۔ غرض تمہہ دوہسہ نہ ایہ رشتہ داری بکار نہ  
 دوستی بس تمہہ دوہسہ ایہ بکار فقط ایمان سمہ خیطرہ قائم ہیہ کرنہ اکھ تر کراہ، تھہ منز ایمان و عمل ہیہ تولنہ  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمسدہ ایمانک تہ ٹیکن ہند تر کرہ پو تر گوب لکھ تے ہتھہ  
 کامیاب تہ رستگار **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** تم ن  
 ہندہ ایمان و عملہ ہند تر کرہ پو تر لوت آسہ بس تے گئے تم سموپان پائس نقصان تہ تاوان واتنوہ۔ تم  
 آسن جہنم منز ہمیشہ **تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ** زالہ نار جنم تہدین تھن ہیر یوم ڈٹھ  
 واتیکھ کلس تان۔ بونیوم ڈٹھ واتیکھ ٹولس تان تے آسن تھہ نار جہنم منز سخت بد شکل۔ تم ن ہیہ  
 ونہ **أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِئْتُنِي أَيُّومًا مِمَّنْ يَلْتَمِسُكَ فِي مَنَازِلِكُمْ قَدْ نَفَذْتَ إِلَيْنَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ** کیاہ توہہ بیٹھ آس نامیان آیات پر نہ یوان۔



رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا  
 أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا  
 وَلَا تَكَلِّمُوا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ  
 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۸﴾  
 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ  
 تَضْحَكُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ

توپتہ آسوہ تہہ تمہن اہیز زنتھ انکار کران۔ یہ پھو تمھو سزا قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ تم وہن ای سانہ پروردگارہ آس چھہ اقرار کران پنہ بس بجز مس۔ آس آس وملت شقلاوتن۔ بیہ آس آس واقعی وبتہ لغت۔ آس چھہ درخواست کران۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ای سانہ پروردگارہ کڈتہ امہ جہنمہ اندرہ توپتہ سوزتہ بیہ دوبارہ دنیا س گن۔ تو پتے آس دوبارہ نافرمانی کردتہ بیہ آس واقعی ظالم۔ تمہ وقتہ گزھہ آسہ پور سزادین قال اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُوا اللہ تعالیٰ فرماو کیہ۔ دفع گھو اتھ جہنم س منزدومہ سبت مہ کروکتھ۔ آس گزونہ جہنم درخواست منظور۔ تو بہہ جھنایاد اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ تہہ گونہ تہہ کہ میانہ بند و اندرہ آس اکھ جماعتھہ ہم بچار عرض کران آس اے سانہ پروردگارہ آسہ اولن ایمان بس کر آسہ مغفرت بیہ کر آسہ پیٹھہ رحم۔ ثی چھو کہ ساروی اندرہ سیٹھہ رحم کرہ ون فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا بس کورودہ تو بہہ اتھ تھہ یوسہ قابل قدر آس ٹھٹھہ۔ تم زانو کہ تو بہہ ٹھٹھس لایق تمنی پیٹھہ لگوہ تہہ لسنہ گرنہ تھہ سبت زودوہ تہہ مشغول حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یوتان تموکتھو تو بہہ میون یادتہ مشرودوہ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ بیہ آسوہ تہہ تم و پھتہ اسان تمو کور تھہ تھندس لکیفس پیٹھہ صبر اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اِنَّهُمْ الْفٰلِزُونَ بجز پاتہ مہ کر عطا تمن از تمہہ صبر بجز جزو۔ بیشک تے سپد کامیاب قُلْ كَلِمٰتٌ فِي الْاَرْضِ عَدَدٌ سِنِيْنَ اللہ تعالیٰ

الْفَازِرُونَ ۝ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝  
 قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ۝  
 قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝  
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ الْبَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝  
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

پرڑھے یا پرڑھنا وہ تمن کافر تہہ کیتس کاس رُودوہ زمینس اندر ور ہو موجب قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا  
 أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ تم دین آس رُودوہس یا ڈس دوہس اسہ چھونہ پورہ یاد۔ فَسَلِ الْعَادِيْنَ اسہ  
 چھنہ کینہہ خیر تہہ پرڑھو عمرن ہند حساب تھوہ نین سلا کن قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماو کیکہ تہہ رُودوہ مگر تم سی کاس۔ ہر گاہ تہہ تی زانہو دنیاس اندر کہ دنیا کس منزہا  
 چھو کس کاس روزن اسہ۔ تہہ بدل آسوہ تہہ زانان یجوی چھو سو زوری بیہ نہ کینہہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا  
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ الْبَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیاہ توہہ اوسہ گمانہ کہ اس کیاہ کروہ تہہ پیدہ بے معنی گندناہ۔  
 بیہ کیاہ ایونہ تہہ اسہ کن و اہل اند۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ کس سیٹھاہ بالاہ برتر چھو اللہ تعالیٰ۔  
 سؤی چھو بادشاہ پزپاٹ۔ تم کورنہ بے معنی تہ بے ہودہ کانہہ چیز پیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ کانہہ معبوداہ چھونہ کس دراں سو چھو مالک عرش عظیمگ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
 آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بیہ کس اکھاہ سمہ دلیلہ آتھہ خدا کس سیت بیہ  
 کانہہ معبود سنز عبادت گرہ چھہ پیٹھ نہ کانہہ دلیلہ چھہ تمسند حساب چھونہ مگر تہہ کس ہروردگار س نسیہ  
 إِنَّهُ لَا يُفْعِلُ الْكَافِرُونَ بیشک کامیاب ہدن نہ کافر بلکہ روزن تم ابد الآباد عذابس اندر گرفتار وَقُلْ

لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۱۱۵﴾  
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ای پیغمبرِ تبه آسود دعا کران تہ منگان ای میلہ پروردگارہ مغفرت  
 گرمہ۔ سبہ گرمہ پیٹھہ رحم، معاش اندرتہ، توفیق طاعتس اندرتہ، نجات آخرتس اندرتہ۔ عطایے جنتس اندرتہ۔  
 پیٹھہ رحم، معاش اندرتہ۔ تھی چھوک ساروی رحم کرہ نیو اندرہ زیادہ رحم کرہ ون



## سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ۝۱ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَا بَهُمَا طَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ ہتھو اکھ سوراہ اکھ سمیک الفاظ  
 اسی نازل کتر۔ یہ کراسی نازل تمیک معانی یعنی احکام یہ کراسی تہ اندروا صحت صاف صاف آیات نازل  
 ہتھ جہہ تم آیات زانو تہ مانو الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ زنا کرہون زنا نہ  
 زنا کرہون مرد، پر ہتھ اکس تمواندرہ لایو اکھ ہت ذرہ ہر گاہ تم یتھرہ واری آسن وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا  
 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ توہہ گڑھہ نہ تم دوان پیٹھ خدا یہ سندس معاملس اندرا کہ ذرہ تہ رحم سن۔ سمہ سمیت تم  
 تراو ہو کہ یا سزاء اس منز کی کتر ہو کہ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہتھوے جہہ پڑھ کران اللہ  
 تعالیٰ اس تہ پتھس دوہس یعنی قیاس۔ کیا زہ دوشون پیٹھ ایمان تہ پڑھ آسن چھہ منگان۔ اللہ  
 تعالیٰ سندس کھمس گڑھہ تعیل سپن وَلَيْشَهِدَ عَدَا بَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سپن حاضر  
 تہ عدس اتھ سزاء اس جماعتھا اکھ بالیمان ہنز۔ یہ سز اچھو تم دوان مجر من۔ سم آزاد، عاقل تہ بالغ یہ  
 انہاری آسن تم غلام آسن تم پڑواہ ذرہ۔ سم نہ عاقل یا بالغ آسن تم چھنہ مٹھنی۔ سم نکاحہ وال  
 آسن۔ تہند سز اچھو رجم، سنگساری۔ یعنی تیڑہ کتہ لاینہ۔ موسیت تم مرن۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْأَزَانُ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ ۝۳ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۴ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا  
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵ وَالَّذِينَ  
 يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝۶

اَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْأَزَانُ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زانی یعنی زناہ کرہوں  
 چھوئے نکاح کران مگر زناکار زانہ سیت یا مٹرک زانہ سیت۔ سیمہ زناکار زانہ چھنہ نیتھر کران مگر زناکار  
 مردس سیت یا مٹرک مردس سیت۔ یہ چھو حرام آمت کرنا با ایمان بیٹھ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ  
 الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یہ تم  
 لو کہ بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک دامن زنان توبہ کر نہ تم پیش ژور گواہ پنہ نس دعوی اس بیٹھ کس للیو  
 ہنہ تم لو کن شیتہ ڈرہ تھہ چھہ ونان حد قذیبہ مہ کروئہ معاملس اندر تہنر شہادت آیدہ زنہہ تہ قبول یہ تہ  
 چھو تہنہ حقہ اک حدہہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے کیاہ گئے فاسق۔ تمں آسہ آخر تس منزہ سزافاسق  
 تہ نافرمان آسہ مو کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مگر تم  
 لو کہ توبہ کرن امہ تہمت لاگنہ پتہ خدائس بروئہ کتہ بیہ سنبھالن پنن حالت، تھہ صورتس اندر چھو اللہ  
 تعالیٰ بیشک سنبھاہ مغفرت کرہوں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 یہ تم لو کہ ہانزہ لاگن پنہ نین منکوہہ زنان بدکاری ہنز توبہ آسکھ تھہ بیٹھ ژور گواہ کینہہ تہ فَشَهَادَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کس چھہ تمموا اندرہ پریتھہ اک سز گواہی بیٹھ کہ سوڈہ ژورہ

## وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرُوْنَ أَعْمٰهُنَّ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ

پھر ہر خدیجہ سیدہ قسم ہاوت کہ بیشک سو چھو پنے نس دعوائے اس اندر ہر زیور وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ ونہ بیخودمہ لہ کہ بیشک چھہ تہس پیٹھہ خدیجہ سز لعنت ہر گاہ سو لہز ونہ ونیو آندرہ چھو وَيَدْرُوْنَ أَعْمٰهُنَّ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ سپدہ نس زنانہ نشہہ نس ہانژھہ آس آمز لاگنہ عذاب یعنی سزائے جس، یا حد زنا و دوریلہ سو ژورہ پھرہ قسم ہاوت گواہی دہ کہ یہ مرد چھو یقینا لہز ونان وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ ونہ سو زنانہ پیژومہ لہ کہ بیشک چھو غضب خدا نس پیٹھہ ہر گاہ یہ مرد پوزونان چھو۔ امہ طریقہ ونہ ناوس چھہ ونان لعان یہ لعان چھو سپدان تھہ صور نس اندر کہ خاوند لاگہ تہمت پنے زنانہ زنا و ج۔ جس متعلق ونیس یہ چھو ی نہ میون۔ پنے منکوحہ زنانہ تہمت زنا و لاگنہ سیت ین خاوندس نشہہ ژور گواہ ممکنہ۔ ہر گاہ تم ژور گواہ پیش کر تیلہ بیہ زنانہ پیٹھہ حد زنا جاری کرنہ۔ اگر ژور گواہ بیچنہ تم پیش کر تھہ تیلہ بیہ ونہ نس تہ کہ تم الفاظ بیان۔ ہر گاہ تم تم الفاظ بیان کرنہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس بیہ ونہ کہ یا کر تہ پنے نس ایزور آس اقرار تہ ون تم الفاظ۔ ہر گاہ تم پنے نس ایزور آس اقرار کور تیلہ بیہ نس حد کذف ونہ۔ ہر گاہ تم تم الفاظ ون تیلہ ین زنانہ نشہہ تہ دویمہ قسمک الفاظ ونہ ناونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نشہہ انکار کرہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس پیٹھہ بیہ جبر کرنہ کہ یا کر تہ مردس تصدیق یا ون تم الفاظ ہر گاہ تمہ مردس تصدیق کور نس بیہ تیلہ حد زنا ونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نس پیٹھہ راضی سپز تیلہ ین تم الفاظ تسندہ چاہنہ ونہ ناونہ۔ تیلہ مردن تہ ون تم الفاظ تم نس ون آس، زنانہ تہ ون تم الفاظ یم نس ون آس تمن دون منر سپد لعان واقع، تہمت نکاح ژھیون۔ اہس مردس چھونہ جائز اہس زنانہ سیت صحت کرن یا تھپ کرن۔ تم ساری چیز سپد اہس پیٹھہ حرام تو پتہ ہر گاہ اہس زنانہ طلاق دیہ تہ گوجان۔ ورنہ کرہ قاض تمن دون منر تفریق یعنی جدائی ہند حکم۔ امہ جدائی ہند حکم چھو طلاق بائن۔ اہس مردس چھونہ اہس زنانہ سیت زانہ نکاح کرن جائز مگرے ونہ مرد کہ مہ وون لہز تیلہ لیہ اہس مردس حد

## مِنَ الصِّدِّيقِينَ ۹) وَكَوَلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۱۰) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا

کذف دینہ۔ تمہ پتہ چھو تمہن دون پانہ وان نکاح کرن جائیز۔ وَكَوَلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بیہ ہر گاہ نہ توہمہ پیٹھ خدایہ سُنْد فضل تہ رحمت آسما، سُونر اوہ ہا حقیقت حال۔ تم کر پتہ فضل و رحمتہ سیت توہمہ پردہ پوشی۔ پھر پیاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ توہہ قبول کرہ ون، سیٹھاہ حکمتہ و ول إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ پھر پاٹ تم لو کہ نیو لوی اُپڑ ہیتھ آئی، یعنی ہانڑھہ لاجھہ پاکہ سندر پاک وجودس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تم لو کہ تہ چھہ توہی اُندرہ اکھ لوکت جماعتھاہ تمہن ہند تعداد کل ژور اوس تمو اُندرہ اوس اکھ مولیٰ شریہ۔ باقی آس تمسندی تابع۔ امہ قصک خلاصہ چھوئی زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلہ جنگ بنی مصطلقہ نغیرہ والہس آئے لہس جنگ شہ (۱) ہجر لہس منز سُنْد مت چھو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تہ آس اتھ سفرس منز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت۔ تمہ آسہ الگ اگس اوٹس پیٹھ سوار۔ اگس وونٹس پیٹھ اوس عماری یعنی ہودج یوان تھاوانہ۔ تھہ عماری آس پردہ یوان تروانہ توپتہ آس تشریف تھاوان تھہ منز حضرت ام المؤمنین۔ امہ پتہ آس وونٹہ وال یوان تہیہ عماری تلمان توپتہ وونٹس پیٹھ تھاوت گمان۔ اکھ دوہہ اوس قافلہ اگس مقاس پیٹھ ٹھہرت۔ قافلہ کہ رواگی بروٹھ پھن پیہ حضرت ام المؤمنین قضاى حاجت ضرورت۔ تم درلیہ عماری منزہ ہناہ دور پھن قضاى حاجت کرنہ خیطرہ اتفاق سُنْد متہ کہ اہنزہ ہٹہ چہ مالہ ژھیون ہن تہ سہ آیہ چھکر اونہ۔ تموہیت تمک دانہ سونبر اون۔ اتھ سیت لوگ تمہن وقت توپتہ یلہ تم والہس آئے قافلہ اوس درامت۔ امہ جلیہ نغیرہ خبر کوت وونٹمت۔ وونٹہ وال آس آمت تمو آس۔ ہنز عماری چھو سمہ خیالہ کہ ام المؤمنین آس اتھ منز کیا زہ تہند بن اوس تمہن دوہن کمی بیہ اوس تہند جسم تہ لوٹہ۔ بدن اوس نجیف۔ وونٹہ والین اوس نہ تہند گوہیر زیادہ کینہہ لگان۔ چنانچہ تمو ٹل تہند ہودج یہ خیال کرت کہ یم آسن اتھ منز توپتہ تھو وک اہندس وونٹس پیٹھ بند کرتھہ۔ حضرت ام المؤمنین یلہ چھہ قافلہ درامت، تم ژور اتس اتھ جلیہ تمو وپ یلہ تم گنہ جلیہ واتھہ مہ لہن نہ خود بخود واتن مہ ژھانڈان ژھانڈان والہس پتھہ جلیہ لہذا پڑہ پتھہ جلیہ قرار کرن۔ کینہہ کالاہ گڑھت کھوہ تمہن بندر توپتہ شو نگ تم آتھہ۔ حضرت صفوان بن معطل صحابہ صابو اُندرہ اکھ صاحبہ، تم آس

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَئِذَا أُقْرِبُ مِنْكُمْ فَأَنْصَبُوا بِهِنَّ يَدَهُنَّ لِتَكْفِيَهُنَّ ذَلِكَ لَئِنْ لَمْ يَنْصَبُوا بِهِنَّ يَدَهُنَّ لَفِي شَرٍّ لَّكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا تَفْتَكِرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
 مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا  
 إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

تافلِس پتہ پکان۔ کیا زہ قافلِس ما آسہ کانہہ چیزاہ وُس بیومت تم آس سو چیز تلمان۔ تم بلکہ اتھہ جایہ وات بیتس ام المؤمنین شوگت آس تمن آو بوزنہ اکھ انساناہ شوگت، نزدیکہ یلہ وات اہندس تھس پیٹھ پیٹھ نظر سمو پرزہ تا تو پتہ پور تمو بڈہ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ پرنہ سیت گیہ تم ہیشار۔ و پھکھ صفوان بن مَعطل۔ سر مبارکس پیٹھ تر وکھ ر دای مبارک۔ یہ صفوان بن مَعطل زانما تمن پر دُک حکم نازل سپدنہ بروٹھ۔ چنانچہ تمو کور پیش ہن ووتھ۔ عرض کور، بھہ تہہ سپد و حض اتھ پیٹھ سوار۔ امہ پتہ اولن تمو ہن ووتھ سو بہہ نوو کھ ام المؤمنینس بروٹھ کنہ تمہہ سپزہ تھہ پیٹھ سوار پردہ کر تھ۔ ووتھ سنز رزٹ صفوان بن مَعطل اتھس منز، تو پتہ ہیو پھکھ بروٹھ بروٹھ پکن یوتان قافلِس نشہ وات۔ عبداللہ بن ابی اُس منافق خمیث، دشمن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس تمن حج یہ کتھاہ اکھ اتھس منز۔ تم ہیوت وای تباہی وورن۔ بعضی سیدین ساڈن مسلمانن پیٹھ تہ سپد تمسہہ وورنگ اثر۔ تمو تہ ہیوت امیک تذکرہ کزان مثلاً حضرت مسطح تہ حضرت حسان مرد و آندرہ، حضرت حمزہ زانانو آندرہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بہ سارنی مسلمان صحابہ صابن، بہہ خود بذات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپد امیک سخت صدمہ۔ اگس ریتس تان زود یہ قصہ تھکے پاٹ، اکہ ریتہ پتہ سپد تم آیات کریمہ ام المؤمنینہ سدس براءتس اندر نازل۔ اے مسلمانو لَّا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ تھنہ یہ اہڑ واقعہ تہہ زانو پتہ خیطرہ پیچھ تہ ناکارہ بلکہ چھویہ تہندہ خیطرہ رت تہ بہتر باعتبار انجام تہندہ خیطرہ چھونہ تھہ اندر کانہہ ضرر البتہ امیک چرچہ کرہ وین چھو ضرور امیک ضرر لَئِذَا أُقْرِبُ مِنْكُمْ فَأَنْصَبُوا بِهِنَّ يَدَهُنَّ لِتَكْفِيَهُنَّ ذَلِكَ لَئِنْ لَمْ يَنْصَبُوا بِهِنَّ يَدَهُنَّ لَفِي شَرٍّ لَّكُمْ أَكْبَرُ مِمَّا تَفْتَكِرُونَ ۝ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا مشہور کرن والین زیادے گناہ۔ بوزن والین دلہ سیت بدگمانی کرن والین پتہ پتہ مقدارہ موجب پر تھہ اگس امیک گناہ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ یہ تم شخصن اتھ منز بوڈ حصہ ہیوت تہندہ خیطرہ چھو بوڈ عذاب سو گو منافقن ہند زبٹھ عبداللہ بن ابی۔ تم یہ اپز خبر پھیلا و تس اندر سخت کوشش کر، تہندہ خیطرہ چھو سزاع نار جہنم لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا



هَذَا فَكُ مَبِينٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  
 بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِلُفُوهِكُمْ مَا  
 لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَ  
 لَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ

هَذَا فَكُ مَبِينٌ توہمہ یلہ یہ خبر بوزلیوہ ایمان مردوتہ ایمان زمانو کونہ نیو دہ پانہ وان پنہ ختہ رت گمان ہیہ  
 کونہ دہیو و تمویہ ہجو صرتح تہ نون لہز لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ ہیہ کونہ آئی تم ہانژہ لاگہ و ن  
 ژور گواہ ہیہہ ہس اثبات زناء خیطرہ شرط ہجوہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ہس یلہ  
 نہ تم ژور گواہ ہیہہ آئی۔ لہذا جہہ تہ شریعتہ کہ قاعدہ موجب خد اہس نغیرہ اپزیر و لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہیہ ہر گاہ تہ خد لہ سہ فضل تہ رحمت  
 توہمہ پیٹھہ دنیاء س تہ آخرتس منز آسہا، ای حسان، ای مسطح ای حمنہ۔ توہمہ رطہ ہاضر و اتھہ کامہ منز  
 اژنہ خیطرہ اتھہ منز شمولیت کرنہ خیطرہ بوڈ عذاب إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِلُفُوهِكُمْ مَا  
 لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ یلہہ ہنہہ اکھ اکس و نان آسوہ پنہ نیوز یووسیت، تی اوس ہنہہ یو چائٹو نیر ان تج  
 نہ توہمہ خبری آس وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ہیہ آسوہ ہنہہ زمانان سہلی کتھاہ لو کٹوی معاملہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ  
 حالانکہ سوہجو خد اہس نغیرہ سیٹھاہ بوڈ چیز یعنی گناہ کبیرہ۔ کیا زہ پاک زانہ ہمت لاگن ہیہ ہجو گناہ کبیرہ۔  
 و ن لاگن ہمت نبی کریمہ سزہ ہخرم گرواجنہ ہیہ کوتاہ گناہ ہجوہ۔ تمہ علاوہ سیدہ ہیہ سبب اذیت نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہیہ واریاہ چیز سپد گناہن ہند باعث و لَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ  
 بِهَذَا ہیہہ ساتہ توہمہ ہیہ بوڑوہ گوئی تی ساتہ کونہ نیو دہ توہمہ کہ آسہ پزہ نہ پڑھہ کھہ کرن سُبْحَانَكَ هَذَا  
 هَيْتَانَ عَظِيمٌ خد اوند اژہ چھوک منزہ تہ پاک۔ ہیہ واقعہ ہجوہ بالکل لہز تہ سیٹھاہ بوڈ ہستان یَعْلَمُ اللَّهُ

هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ۱۶ يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْمَثَلَةِ أَبَدًا إِنَّ  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۷ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۸  
 إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۱۹  
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ۲۰  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ  
 الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اَنْ تَعُوذُوا بِالْمَثَلَةِ اَبَدًا اللہ تعالیٰ بھو توہم نصیحت کران بھتہ دُوبارہ بڑھ کتھ آسو کران اِن کُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ چھوے تہہ با ایمان وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ و بڑھ  
 ناو تھ توہم احکام بیان کران۔ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سو زوی بوزہ دن سیٹھا حمتہ وول۔ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ  
 اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ہر پاٹ تم لو کہ تم واضح آیات  
 نازل سپدنہ پتہ تہ خواہش چھہ تھواو ان کہ بچھہ تھہ گڑھ پھیلنہ تہ شائع سپدنہ مسلمان اندر تہمدہ خپترہ چھو  
 دُنْيَا س اندر تہ آخر تس آندر دوو تہ دگ تلہ ون عذاب وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
 سو زوی زانہ ون، تہہ چھوہ نہ زانان وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بیہ نے خدایہ سُنْد فضل تہ  
 رحمت توہم پیٹھ آسما وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ بیہ نے اللہ تعالیٰ مہربان تہ رحمتہ وول آسہما تہہ چھہ ہونہ  
 تہمدہ عذابہ نشہرہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ای با ایمانہ چھو  
 شیطانہ سزہ و تہ قدم بقدم تس پتہ پتہ۔ کیا زہ بس شیطانہ سزہ و تہ پتہ پتہ تس پتہ پتہ قدم بقدم فَإِنَّهُ يَأْمُرُ  
 بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ شیطان بھو پز پاٹ پر تہہ کانہہ بچھہ کاٹن تہ بے حیائی ہند امر کران سیمہ سیتہ شخص  
 تباہ و بر باد گھوا ان بھو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا بیہ ہر گاہ نے خدایہ سُنْد

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن  
يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

فضل سے رحمت تو بہ پیٹھ آسہ ہا تو بہ اندر سپدہ ہانہ کانہ اکھاہ زانہ تہ پاک تہ صاف گھونشہ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لیکن اللہ تعالیٰ چھو تو بگ توفیق دت پاک و صاف کران بس یرتہ تہ  
نس۔ اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا  
أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ مہ ہاون قسم تو بہ اندرہ دینی فضیلتہ وال تہ  
دنیوی وسعتہ وال، تم کیا آسن نہ مال پن دو ان آشناؤن تہ مسکین بیہ مہاجر تہ سمو خدا یہ سنزہ وتہ اندر  
ہجرت کر مژ آسہ امہ اندرہ چھو مراد حضرت ابو بکر صدیق تریغیب دین کہ تم بس امداد پنہ نس آشنا  
حضرت مسطحس دو ان چھہ سو تھاوان جاری۔ امہ قصورہ موکھہ مہ کرن سوبند۔ تمس کرن قصور معاف  
وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا تہند گزھہ معاف کرن در گزر کرن تہند قصور أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ کیاہ جہہ چھوہ نا پسند کران کہ اللہ تعالیٰ کیا کرہ تہندین گنہن مغفرت۔ تیلہ آسوتہ تہ تین  
ہند قصور معاف کران۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہر تم کرہ ون إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ  
الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پزپاٹ تم لوک بدکاری ہنز ہانزہ لا گن پاک تہ  
بے خیر با ایمان زنان تم بیہ لعنت کرنہ دنیاءس تہ آخرتس اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھو  
تہندی خیطرہ بوڈ عذاب يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَجْجِلُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تہہ ہڈس عذابس  
گروہن گرفار تمہہ دوہہ سیمہ دوہہ گواہی دن تم خلاف زیوہ تہنہ بیہ تہہ تہندی کھور تہندی تم سارنی

أَلَسْتُمْ وَايْدِيَهُمْ وَأَجْلُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمْ  
 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٣﴾ الْخَبِيثَاتُ  
 لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
 لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
 وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا  
 فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

کائین ہنزیں تم لو کہ کران آس یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وبعلمون ان اللہ هو الحق البین تمی  
 دوہہ ہیر تمین اللہ تعالیٰ واجبی بدلہ۔ ہیر زان تم تمی دوہہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پوز فیصلہ کرہ ون پوز  
 پزراہ ون پریتھ تھ ہنز حقیقت نراوہ ون الخبیثات الخبیثین والخبیثون للطیبین والطیبون للطیبین  
 والطیبون للطیبین ناپاک زنانہ چھ ناپاک مردن ہندہ خیطرہ، ناپاک مرد چھ ناپاک زنانہ ہندہ خیطرہ  
 پاک زنانہ چھ پاک مردن ہندہ خیطرہ پاک مرد چھ پاک زنانہ ہندہ خیطرہ اولیک مبررون  
 متایقولون تم پاک مردتہ پاک زنانہ چھ بالکل بری تموتھوتہ ہنز ونسیرہ سمہ تھ لوک ونان لہم  
 مغفرۃ وریق کریم تہندہ خیطرہ چھو یوم مغفرت ہیر عزتک رزق۔ یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتنا  
 غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا اکی باایمانوہ آسوا ازان عنہ گرس منز پنہ نیو گزورای  
 یوتان نہ گوہ اجازت آسویوان ہیر یوتان نہ سلام آسویوان گروالین پیٹھ ذلکم خیر لکم لعلکم  
 تذکرون ہیر چھو تہندہ حقہ سیٹھا رت ہیر تہہ زتیس تھاووہ فان لکم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها ہر  
 گاہے تہہ گران اندر کانہہ شخصہہ لیون توتہ مہ آسوتہہ تمین گران منز ازان حتی یؤذن لکم یوتان نہ  
 توبہ اجازت آسہ یوان ونہ وان قیل لکم ارجعوا فالرجعوا هو اکی لکم ہیر ہر گاہ توبہ ونہ آسہ یوان

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ  
 وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
 فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۴۰﴾ وَقُلْ  
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا

و کھنس چھونہ موقعہ ملا تا تک وانہں گدھو تیلہ گدھہ وانہں گدھن تی چھو تہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہند  
 باعث واللہ بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوتہ سوزوی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ اگر خلاف حکم کانہہ  
 کاماہ کردتہ پیٹھ کھو سزا لیسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ توہہ چھونہ  
 کانہہ گناہ ہر گاہ تہہ اژدھن گزن اندر تھن منز نہ لو کہ عیال ہیتھ ہسان آسن تھن منز آسہ تہند کانہہ  
 سامانہ۔ سوگو مسجد، مدرسہ، سرای، ہوٹل ہیو اچھن مکان اندر بلا اجازت اٹھن چھونہ کانہہ خرچ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زانان یہ سوزوی یہ تہہ نر اوان چھوہ ہیہ نہ کھتھ تھادان  
 چھوہ پریتھ حاکس منز گدھہ کھو ژن خدا لیس قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
 ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ فرماووتہہ یارسول اللہ بالیمان مردن تم وکن اچھہ پنہ، دوہر زانن کن نظر دینہ نشہ ہیہ  
 کرن راچھہ سترہ چن جاین پنہ نین دوہر زانن غیر منکوحن سیت یا لو کٹھن سیت بدکاری کرنہ نشہ۔ نی  
 چھو زیادہ مفید تہندہ خیطرہ لَئِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ہمزپاٹ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تمہہ سارچی یہ تم  
 کران چھہ۔ سو دیوہ یشھن پیچھ کاین پیٹھ سزا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
 ہیہ فرماووبا ایمان زانن کہ تمہہ تھوٹھن اچھہ پنہ دوہر مردن کن نظر دینہ نشہ ہیہ گزن راچھہ پنہ نین سترہ  
 چن جاین بدکاری نشہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہیہ نہ نراون تمہہ پنہ زینتہ چہ جاییہ مگرے تے  
 جاییہ سو اندرہ ہیر کن آسن، مجبوری آسہ تمہہ جاییہ نراونہ سوگو بچھ اتھہ زہ ۲ تہ کھورزہ ۱ وَلْيَضْرِبْنَ

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بَعُولَتَهُنَّ أَوْ آبَائَهُنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتِ إِمَائِهِنَّ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ  
 أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

پھر وہ علیٰ جیڑھوت بیہ کزن تمہ کلہ تہ سینہ پوشیدہ تھاوچ سیٹھاہ کوشش۔ تھہ سلیکس منزہو لازم  
 تمن کہہ پوژتہ سرژاؤر تراون تمہ پنہ تمن نالن تہ گریبان پیٹھہ یمہ سیت ہٹس تہ سینس آسہ ستر سپدان  
 وکلا یبڈین زینتہنن الا بعلوتہنن بیہ مہ نر اون گچھہ جاپہ پنہہ مگر پنہ نین خاندان نشہ اولایہون یا پنہ  
 نین مالین نشہ اولایہ بعلوتہنن یا خاندان ہندین مالین نشہ یعنی ہسہرن نشہ اولایہون یا پنہ نین  
 پچوین نشہ اولایہ بعلوتہنن یا خاندان ہندین پچوین یعنی وورہ پچوین نشہ اولایہونن یا پنہ نین باین نشہ  
 اولایہونن اخوانہنن یا باپہ تھرن نشہ اولایہونن یا بنتھرن نشہ اولایہونن یا پنہ نین  
 زنانن نشہ یعنی ہمہ مسلمان زنانہ یوان گوہان آسن بشر طیکہ بد چلن آسن نہ۔ کافر تہ غیر مسلم زنانہ گچھہ  
 وورہ مردس برابر۔ تمن نشہ تہ گوہہ ستر کزن۔ تھہ پاٹ دوپر مردس نشہ ستر کزنہ یوان ہجو اولایہونن  
 ایمائہونن یا پنہ نین کینرن نشہ اولایہونن غیر اولی الاربہ من الرجال تمن خدمت کڈارن نشہ تمن  
 نہ حاجت آسہ زنانن ہند، مردو آندرہ، تمن آسن نہ حواس بجاتی آسکھہ نہ زنانن کن رغبت تہ توجہ  
 اولی الطفل الذین لکم یظہروا علی عورت النساء یا تمن لو کئین نشہ تمن نہ و نہ وقت آسن خدمت زنانن  
 ہندین پوشیدہ معاملاتن پیٹھہ، یعنی نابالغ لوکٹ یین سارنی نشہ ہجو جائز ہتھہ تہ اتھہ کھور نر اون  
 خاوندس نش گوہہ نہ بدنگ کا نہہ حصہ پوشیدہ تھاون اگرچہ خاص جای وچھن چھہ خلاف ادب وکلا  
 یضربن بأرجلہن لیکلمہ ما یخفین من زینتہون بیہ گوہہ زنانن ہند پر دک یوت خیال تھاون کہ پکان

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾  
وَلَيْسَتَّعِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا  
تَكْرَهُوا قِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ ۖ لَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ

پکان گمہ سن نہ کھور زورہ تراون پٹھ تمہہ زیورچ آوازو پر مردن ہندین کن گٹھہ نس زیور تمہہ پوشیدہ  
تھاوان چھہ یعنی پانزیب وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اِيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بیہ کرو توبہ تہہ ساری اللہ  
تعالیٰ اس گن ای با ایمانو تو ہے کینہہ کوتاہی آسہ گمہ احکامن اندر پٹھ تہہ کامیاب سپدور نہ مصیبت چھہ  
مانع کامیابی سپدان وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ بیہ کرو پٹھ تہہ تم توبہ اندرہ پٹھہ ورائی تہ بے نکاح آسن۔  
ادہ تم مرد آستن یازنانہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ بیہ تم نکاح کرئس قابل آسن تہہم یو غلامو  
آندرہ بیہ کینز و آندرہ۔ بیہ گٹھہ یاد تھاوان کہ پنہ نس عزیز یا پنہ نس عزیزہ سندس خاوندہ سند فقیر آسن  
گٹھہ نہ مانع سپدن تمن ہندہ نکاحہ نشہ کیاہہ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہر گے تم فقیر تہ  
محتاج آسن اللہ تعالیٰ کرہ تمن پنہ فضلہ سیت مالدار نکاح کرنے پتہ یلہ تمن اندر روزی کمادچ قابلیت  
آسہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ پٹھو وسعتہ وول۔ سوئس پٹھہ تس کرہ رزقس اندر وسعت۔ سو پٹھو  
سوروی زانوں سارنی ہند حال پٹھو تس معلوم وَلَيْسَتَّعِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ بیہ روزن پاکدامن تم کو کہ تم نہ پٹھہ ہیکان چھہ تنگدستی ہندہ سببہ یوتان اللہ تعالیٰ مالدار  
کرہ تمن پنہ فضلہ سیت وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا بیہ  
تم خواہش مند آسن مالس بدل آزاد سپد تک، تہہم یو غلامو یا کینز و آندرہ تم بنا یو کہ کتاب تب ہر گاہ توبہ تمن  
منزگنہ خوبی و بہتری ہند آثار و علامت لبندین وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بیہ آسو تمن امداد

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الأَبْصَاحِ فِي رُجَاةٍ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

کران، خدایه سنده تمه ماله منزه کینهه دوان نِس مال توبه تمی عطا کورمت چهو ولا تَكُومُوا قِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ  
 لَنْ أَرَدَنْ تَحْصُنَا لَتَبْتَغُوا عَرْضَ السَّيْلِ الدُّنْيَا بیه مه کر یو که مجبور بنه کینهه بدکاری پیٹھے هر گاه تمه یز حسن  
 تمه نشه چن تپاک و پاکیزه روزن کیا هتمه چهو بیه بیچھ کام کره ناوت ژهانڈان دنیا چه ناپا سیدار زندگی  
 هند سامانه وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیه نِس تمن یه بیچھ کوم کره نِس  
 پیٹھے مجبور کره، اللہ تعالیٰ کره تمن مجبور کره پته مغفرت تهر حم۔ مجبور کره و نِس کره سخت عذاب نِس گرفتار  
 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بیه پناٹ بیه  
 کمر آسه نازل نهنده هدايته خيتره بيته سوره شريف منزر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنده ذریعہ توبه  
 گن ای مسلمانان آیات تہ احکام، بیه کینهه مثالہ، مختصر حالات تمن لوکن هند تم توبه بروٹھ گذر سمیت  
 چھه۔ بیه بد نصیحت کھوژوہونین تہ پر ہیز گارن ہندہ خيتره اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اللہ تعالیٰ ای  
 چھو نور هدايت عطا کره و ن تمن سم آسمان منزر روزه و ن چھه بیه ہم زمین منزر روزون چھه۔ یعنی  
 آسمان وز زمین منزر یمن هدايت سپد تمن سارنی کور هدايت اللہ تعالیٰ نی۔ آسمان وز زمین منزر چھو مراد  
 سوزی عالم۔ نِس سم مخلوقات آسمان وز زمین نشه نیر چھه مثلاً حاملان عرش وغیرہ تم ساری سپد اتھ منزر  
 شامل۔ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ تهنده نور هدايت عجیب حالت چھه تروچی کبہ نهه زانتو اکھه طاقتہ  
 ہناہ تھه پیٹھے چھو اکھ ژونگاہ الأَبْصَاحِ فِي رُجَاةٍ سؤی ژونگ چھو اتھه طاقتس پیٹھے اکس شیشوسی  
 قدیس منزر الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ بیه شیشو قدیل چھو بیٹھه صاف زن سوتارہ چھو زوتان



مُبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَاغْرِبِيَّةٍ لِيَكَادِزِيَّتَهُ يَأْيُضِيُّ وُلُوُّ  
 لَمْ تَمَسُّهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يُهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ لَمْ يَضْرِبْ  
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ فِي بَيِّنَاتٍ لِّأَنَّ  
 اللَّهَ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۱۱﴾

یُوَقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَاغْرِبِيَّةٍ سُوْرُوْنِکَ چھوڑالہ یوان الہ مفید تہ با برکت  
 کلہ کہ تیلہ سیت سُو کل گودرخت زیتون بس نہ مشرق فس کُن چھوڑنہ مغربس کُن بلکہ چھوڑتھہ جلیہ ییتہ  
 کس تھہ پٹھہ دوی دوہس تاپ چھوواتان۔ تھہ درخت زیتونک تیل چھو آسان زیادہ لطیف تہ صاف  
 یِکَادِزِيَّتَهُ يَأْيُضِيُّ وُلُوُّ لَمْ تَمَسُّهُ نَارٌ تمیک تیل چھوڑتاتان تہ نہ پتہ نہ کران اگرچہ تھہ متہ اتین نارہ  
 سیت تھہ ڈنہ۔ ادہ یلہ تھہ نارہ سیت تھہ تہ ایہ ڈنہ تیلہ سپدہ تمیک گاش دوگن سُو سپدہ نُورٌ عَلَى نُورٍ  
 اکس نورس پٹھہ بیا کہ نور۔ اکھ اوس یہ تیل بذات خود روشن بہ یلہ نارہ سیت آس تھہ ڈنہ ایچ روشنی  
 گنیہ تیز مثال گنیہ ختم۔ تھہ پاتھہ یلہ اللہ تعالیٰ چھو با ایمانہ سندس دس اندر ہدایتک نورواتوان تمس چھو  
 دوہہ خونہ دوہہ قبول حقہ خیطرہ دل موزنہ یوان۔ پر تھہ وقتہ چھو احکام الہی بجاننہ خیطرہ تیار روزان۔  
 نور علم حاصل سپدہ پتہ چھو اوس نور عمک تہ حاصل سپدان۔ تہ زہ نور یلہ جمع سپداتھہ پٹھہ آو صادق نور  
 علی نور یهدی اللہ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پتہ کس نور ہدایتس کُن تھہ ہوان کس پڑھان چھو  
 کس۔ یہ چھہ بڈمنت ہدایت لہ وین پٹھہ اللہ تعالیٰ سپدہ طرفہ۔ تہندی توفیقہ سیت بنیو تہن ہدایت  
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ تھہ پاتھہ ہدایتیہ مثال اللہ تعالیٰ ان بیان فرماتھہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ لوکن  
 ہمدہ ہدایتہ خیطرہ مثالہ بیان کران تھہ لوکن پورہ فجر تھہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزہ  
 پورزانہ ون۔ فِي بَيِّنَاتٍ لِّأَنَّ اللَّهَ أَنْ تَرْفَعَهُ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمَهُ تہن اللہ تعالیٰ ہدایتک نور عطا کران چھہ تم  
 چھہ تہمز عبادت کران۔ تہن گرن اندر تہن گرن ہند بلند کر تک اندر تہندہ نام پاتھہ یاد کر تک اللہ تعالیٰ  
 ان فر موومت چھو، تم گرہ گئے مسجدہ۔ تہن گرن ہند پزہ سیٹھہ تعظیم واحترام کرن۔ توت گدھہ نہ اٹن

رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾  
 لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بے غسلن سے حیصہ واجہ نین زنان ہند۔ توت گڑھ نہ واتاوان کانہ ناپاک چیز۔ تہ گڑھ نہ لاکن عنہ  
 قسمگ شور تہ کر یکہ ناد۔ تہ گڑھ نہ کرنہ دنیوی تھہ **يَسْتَعْرَبُ فِيهَا الْغَدْوَىٰ وَالْأَصْلَٰ** پھکی جھہ پانژن  
 وقن یاد کران تین گرن اندر نماز پر نہ سیت، صمک تہ شامس صمک جیہ صمخ نماز آصا کس اندر آی باقی  
 ژور وقت۔ پشٹن، دگر، شام تہ ہفتن کیا زہ اصل تہ آصال جھہ ونان دو پیرہہ آفتاب ڈلنہ پتہ ساری  
 رائس تان **رَجَالٌ لَا تُلْمِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ** تہ مرد تین نہ آور  
 جھو کران خدا یہ سبہ یادہ نشہ، نماز قائم تھوانہ نشہ، زکوٰۃ ادا کرنہ نشہ، کانہ کار و بارانہ کانہ تجارتانہ۔  
 امہ اندرہ جھو معلوم سپدان کہ مردن ہنز گڑھہ مسجدن اندر نماز پرین۔ زنان ہنز گڑھہ نماز پرین گرنی  
 اندر۔ حدیث شریفس اندر جھو امت زنان ہنزہ گری نماز پرئس واریاہ فضیلت تہمدہ خیرہ چھہ گرے  
 مسجدہ **يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** ہم لوک چھہ کھو ژان حمہ ڈہہ کس رنہ نس تہ  
 گڈئس سمہ دوہہ تلک پیٹھ سپدہ بعضی لوکن ہندین دن تہ اہتن دہشت و خوفہ سیت۔ **لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ**  
**أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ** انجام تین لوکن ہند آسہ کہ اللہ تعالیٰ دیہ تین رت بدلہ تہمز ن  
 رژن عملن ہند۔ سمہ عملہ تمو کر عوہ آسن۔ بیہ ہرہ راو کیہ مزور پندہ فضلہ سیت۔ **وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ**  
**بِعَٰدِ حِسَابٍ** اللہ تعالیٰ جھو عطا کران نس یژھان جھو نس حسابہ روستوی۔ یوتان آو بیان کرنہ  
 ہدایتک تہ اہل ہدایتن ہند حال۔ امہ پتہ جھو اللہ تعالیٰ فرماوان اہل ضلالتن ہند حال تہ مثال۔ اہل ضلالت  
 یعنی کافرن جھہ زہ قسم اکھ گے تم تین قیاق پڑھ جھہ۔ تین جھو جزاء و سزاءک تہ خیال یہ مثال جھہ  
 تہزنی **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّالِمَاتُ مَاءً** یہ تم کافر جھہ تہمز ن عملن ہنز

بِقَيْعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّانُّ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ  
 وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝  
 كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لَيْحِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ  
 سَابُ ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ  
 يَرَهَا وَمَنْ لَمْ يُجْعِلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝  
 اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ

مثال چھ تمہے سے ہنر مثال یوسف کے میدان میں آسہ نہیں تاپہ سمیت زوتان و چھو آسان، تریشہ ہوت  
 چھو دورہ و چھت تھ سے چھ آب خیال کران تو پتہ چھو تھ کن دوران حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا  
 تا اینکه یوسف تھ خیالی آس پیٹھ و اتان چھو، سو چھو نہ آس لبان کہی آس چھو جسائی و روحانی صدہ  
 و اتان تہ چھوات تھی تریشہ تریشہ کران مران وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ بلکہ چھو یہ لبان خدلیہ سندس  
 حکم سے تھ چاہے یعنی مر جس حکم۔ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ نہیں چھو اللہ تعالیٰ اسنہ عمرہ  
 ہند حساب پورہ کران یعنی یہ چھو ختم ہند ان اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب مولا وون اَوْ كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لَيْحِي  
 یغشاهہ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَابُ ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ دو سہہ قسمہ کین کافر ان ہنر  
 مثال چھ تمہ انہ کن ہنر سہہ سنن سمندر ان منز آسن۔ یمن پیٹھ ولنہ پیٹھ اکہ موج تھ پیٹھ آسہ بیاکھ  
 موج تمہ پیٹھ کن آسہ ابر تہ۔ امی آسن جمع گمہ واریاہ آسہ کہہ اکہ آس پیٹھ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا  
 ہر گاہ آتھ حاکس منز شخص تمہ انہ کن منز سمندرہ کس زکس تل پن اتھ نہر کڈہ سوی ہنہ و چھن سو  
 بیسہ نہ تھ پنہ نس آتھس تہ و چھت تہ آسہ آسہ کہہ وَمَنْ لَمْ يُجْعِلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ بیہ سمس  
 نہ اللہ تعالیٰ پن نور ہدایت عطا کرہ کس بیسہ نہ بنت کینہہ تہ نور تہ روشنی اَلَّذِينَ لَمْ يَسْبِغْ لَهُمْ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ کیاہ ژہ و چھت نا، ژہ سپدی نامعلوم امی انسانہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس  
 چھہ پیاکی یاد کران تم ساری مخلوق تم آسانن تہ زمین منز چھہ بیہ وڈہ وون جانور تم پنہ چھہ مورا و تھ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ وَبَلَّوْا مُلْكَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا مُمًّا  
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ  
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ  
يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

چھہ وڈان تہ پتھر ان۔ یہ چھہ وجود صاف نسیں پیٹھ عجیب دلیلاہ۔ کیا زہ تمہن جانورن ہندین جسمن ہندہ  
تھلکہ کہ باوجود چھہ تمہ ہوا وس پیٹھ معلق روزت اورہ یور پتھر ان کل قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ پر چھہ  
اکس تمہ جانور و آندرہ چھہ پن نمازت دُعَا۔ پن پن تسبیح تہ وظیفہ، الہام خدائی سیت معلوم۔ باوجود آل  
چھہ کیہنہ لوک خدایہ سیدس توحیدس انکار کران وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ چھہ پورہ زانان تم  
ساری چیز تم تم کران چھہ۔ سو دیہ تمہن تمہ انکار و اعتراض پیٹھ پورسزا وَبَلَّوْا مُلْكَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ سزوی چھہ پادشہت تہ حکومت آسمان تہ زمین منز۔ ازتہ بیہ  
برونٹھ تہ سارنی چھہ پتولا کہ وائٹن کس نشہ۔ سو دیہ سارنی پنہ نین کامین ہنز مزور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ  
سَحَابًا مُمًّا يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ کیا زہ چھہ ناخبر کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پکہ  
ناوان ابرس توپتہ چھو ملناوان تمہ اکہ اکس سیت۔ وارنہن ژر ٹین چھو کنوی کران توپتہ چھو تمہ اکہ  
اکس پیٹھ تھوان۔ اتی چھو کہ زہ وچھان رُودنیر ان تمہ آندرہ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ بیہ  
چھو اللہ تعالیٰ والان ابرہ منزہ تمہ کیو تمہو بڈیو حصو منزہ ہم کوہ ہی چھہ ڈوٹھ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ توپتہ چھو سو ڈوٹھ تراوان کانسہ ہندس زوس پیٹھ یازر انٹس پیٹھ یا باغس پیٹھ  
کس سو پشھان چھو۔ کانسہ چھو پچر اووان تمہ ڈوٹھ نغیر۔ کس شخصہ سُنْدُ زُو، زراعت تہ بارغ چھو محفوظ  
روزان۔ ایتہ لیسند سو پشھان چھو یکاڈ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تمہ ابرہ منزہ چھہ نیر ان توہی و زملہ  
کہ قریب چھو سپدان تمہن و زملن ہند گاش مانیہ اچھن ہندس گاش۔ کیاہ قدر تہ وولہ چھو آہ منزہ چھو

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾  
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ  
 مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا  
 يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ  
 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَيَقُولُونَ امْتَنَّا  
 بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ  
 ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ناره و زم له کدان۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ای چھو پھر ان تہ بدلاوان دوہس تہ راس لائن فی  
 ذلک کعبۃ لاو لی الابصار بیشک تمہ راتہ کس یس گوہس اندر چھہ عبرت تہ قدر تہ چہ مجہ دلیلہ عقلہ  
 والین ہمدہ خیرہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء بیہ چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت پریتھہ حرکت کرہ و ناہ  
 آہہ نیشہ فینہم من یشی علی بطنہہ ہمدہ اندرہ چھہ بعضی تم پکان چھہ پنہہ ید سیت وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي  
 عَلَى رِجْلَيْنِ بیہ چھہ ہمدہ اندرہ بعضی تم پکان چھہ دویدہ کوروسیت وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ بیہ چھہ  
 ہمدہ اندرہ بعضی تم پکان چھہ ژور و کوروسیت یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران بیہ یشھان چھو  
 ان اللہ علی کل شئی قدیور ہمز پات اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ چیزہ پیدہ کرئس پیٹھہ قدر تہ دول لَقَدْ أَنْزَلْنَا  
 آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ہمز پات اسہ کر نازل تم آیات تم سوروی  
 نتر وہ و ان چھہ مگر اللہ تعالیٰ یعنی یشھان چھو تمنی چھو و تھ ہاوان راہ راستس کن وَيَقُولُونَ امْتَنَّا بِاللَّهِ  
 وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا بیہ چھہ ونان منافق کوکھ اسہ کر پڑھ خدا یس بیہ پیغمبر خدا یس۔ بیہ مون اسہ ہمدہ حکم  
 ولہ سیت ثُمَّ تَوَلَّىٰ فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ مگر تو پتہ چھہ ہمدہ اندرہ اکھ جماعتھہ چھہ پھر ان  
 روگردانی کران خداور سولہ سدس خمس وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ چھہ تم کوکھ با ایمان وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ نَبِيٌّ أُوتِيَ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَخْفَى عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَائِزُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُوبًا

اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ یہ یہ تین نادہ جو یوان دینہ خدا کیس سے تہندس پیغمبرس کن بیٹھ تم فیصلہ کرن تہن منز۔ الی ہجھ اکھ جماعتھاہ تمو اندرہ ہجھ پھران تہندہ ہجھہ نغیرہ وان یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین توپتہ ہر گاہ فیصلہ تہندہ حقہ آسہاسیلہ یہن نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نغیرہ کارنور اوت آفی قلوبہم مرض امارتابوا میں ماچھ وکن منز کانہہ بیماریاہ۔ کنہ تم ہجھہ شجھہ کران امر یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کنہ کھوژان ہجھہ کہ خدا تہ تہند پیغمبر ماکرہ بے انصافی۔ تم کیا زہ کرہ ہن بے انصافی بل اولیک ہم الظالمون بلکہ ہجھہ تے مناقع، سخت ظالم تہ بے انصاف إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا باایمان ہند قول ہجھونہ سہمہ ساتہ تہن خدا کیس سے تہندس پیغمبرس کن تہن منز فیصلہ کرنہ خیطرہ نادہ جو یوان دینہ گمراہ زہ تم ہجھہ وان بخوشی بوزاسہ حکم تہوند مون اسہ فیصلہ تہند اولیک ہم المفلحون تے ہجھہ کامیاب تہ رستگار سپدہ ون۔ اسہ نغیرہ جھو قاعدہ گلیہ کہہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَائِزُونَ یہ یہ کیس حکم مانہ خدا یہ سہند یہ تہندس پیغمبرہ سہند، یہہ کھوژہ خدا کیس یہہ چہ تہندہ مخالفت نغیرہ، کیس تے لوک ہجھہ مطلبس تہ مرادس واتہ ون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ یہ یہ

تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ  
 مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى  
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ  
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

چھہ منافق زور دار قسم ہاوت خدایہ سند، ونان کہ ہر گاہ تہہ اسمہ کرم کروگرہ بارہ منزہ نیرنگ، ضرور  
 کروآس تہہ حکم تقیل گره بار تراوتہ تیر و قُلْ لَا تُقْسِمُوا تہہ فرماوید کہ ای منافقو قسم نہ ہاوو  
 طَاعَةً مَعْرُوفَةً اسمہ چھہ تہزہ فرمانبرداری ہنز حقیقت معلومی إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ پز  
 پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پور زانان تہ سو روی تہ چہہ کران چھوہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تہہ فرماوید کہ یارسول اللہ تھو سیت و سہ نہ تکھ کینہ تہ۔  
 فرمانبرداری کرو خدایہ سزہ بہ کرو فرمانبرداری پیغمبر خدایہ سزہ۔ کس ہر گاہ تمہو منافقو روگردانی کر، کس  
 چھوہ پیغمبر س تمیک کانہ ضرر، کیاہہ تمہ چھوہ تمہ تبلیغ کزن سمیک بار تمہ پیٹھ کھارنہ آمت چھوہ۔  
 توہہ چھوہ تمہ تقیل احکام تہ طاعت کزن سمیک بار توہہ پیٹھ کھارنہ آمت چھوہ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا  
 ون اگر چہہ کس پیغمبر برحقہ سزہ فرمانبرداری کرو۔ تیلہ پو تہہ ہدایت و ت۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ  
 الْمُبِينُ بیہ چھوہ پیغمبر س پیٹھ مہ مگر خدایہ سند کرم صاف صاف تہ تراوت لوکن و تہ تاون وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ای ساروی  
 آیتہ، توہہ آندرہ ہم ایمان اُن تہ رتہ کامہ کزن، ہدایت پور پیروی کزن، تمہ چھوہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماوان  
 کہ امہ اتباع کہہ برکتہ کرہ سو تمہ ز مینس اندر حکومت تہ سلطنت عطا۔ تہہ پاٹھ تمہ برو تہہ اہل ہدایت  
 لوکن عطا کر مش آس وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ بیہ حکومت و سلطنت دنہ آندرہ چھوہ مقصود

مَنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمَّا يُعْبُدُونَنِي لِأَشِيرُ كُونَ فِي شَيْئًا وَمَنْ  
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا نَارٌ وَلِبَاسٌ  
 الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ

کہ نئس دین اللہ تعالیٰ ان جہدہ خیرہ ہند کورتھ دیہ قوت تہندہ آخریکہ نفعہ خیرہ تہندہ توہہ پیٹھ کاسل  
 رحم کرنہ بیہ۔ وَلِبَاسًا لَّكُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّا بِیہ بدل اوہ ضرور تہند خوف تہ بدامنی امن و امانس  
 سیت۔ یَعْبُدُونَنِي لِأَشِيرُ كُونَ فِي شَيْئًا بشر طیکہ ایمانہ سان کرن میان عبادت شریک ٹھہر او نم نہ  
 کانہ چیز اہنہ چیز س اندر۔ یعنی نہ کرن شرک جلی نہ کرن شرک خفی یعنی ریاء وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وون نئس اکھاہ سمو وعدو تہ احسانا تو پتہ تہ ٹھہر ان نعت گرہ تے لوک جھہ فاسق  
 تہ نافرمان۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ای مسلمانو توہہ یلہ معلوم سپد  
 ایمان و عمل صالح کیا نتیجہ چھو، لہذا لہزہ توہہ پابندی سان نماز پرن، ماچ کوز کوزہ او اکرن بیہ باقی احکامن  
 اندر تہ کھم ہان پیغمبر برحقہ سہند تہندہ توہہ پیٹھہ رحم بیہ کرنہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا نَارٌ وَلِبَاسٌ الْمَصِيرُ ای مخاطب ژہ منہ گر خیال کہ کافر کیا ممکن اہہ عاجز کریتھ تہ  
 ہارہ ناوت زمینس منزعمہ طرفس گن ثرت تہ سانہ قرہ نغیرہ کیا ممکن تم پحت، بلکہ ہارن تے۔ بیہ سپدن  
 تم مغلوب تہ مقہور آخرتس اندر چھہ تہنز جای نار جنم۔ سو چھہ سیٹھاہ چھہ جای یوت تم واتن۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  
 ای با ایمانو توہہ نشہ بیہ خیرہ آسن اجازت ہیوان تہندہ نوکر تہ غلام بیہ سم نہ بالغ آسن ونہ سپدمت تہندہ یو  
 لوکیو اندرہ ترین وقتن مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ



قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بِعُضُكُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾  
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي

العشاء آگہ صبح نمازہ بروٹھ، بیہ ڈیہرس یلہ تہہ گرمہ سبہہ پلو آسو کڈان بیہ خشن نمازہ پتہ ثلث  
 عورت لکم سم جھہ ترہ وقت تہہ پرڈہ کرنک وقت تمکن وقتن جھوہ تہہ آرام واستراحت کران۔ تمکن  
 وقتن جھوہ تہہ بے تکلفی ہندس حالتس منز روزان لہذا گروہن ہن غلام تہہ نابالغ لوکت وارہ بوزہ ناون کہ اطلاع  
 دنہ وراہ تہہ اجازت ہینہ وراہ گروہن تہہ نہ نشہ اژن۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن سمو  
 تریو و توپتہ جھو نہ نہ توہہ نہ نہ حرج نہ جھو تمکن کانہہ حرج بلا اجازت توہہ نشہ نیس اندر طوفون  
 علیکم بعضکم علی بعض تم جھہ گرہ گرہ توہہ نش اوہ ون گھہ ون۔ توہہ اندرہ تہہ جھہ اڈاؤین  
 نشہ اوہ ون گھہ ون کذالک یبیین اللہ لکم الآیات واللہ علیہم حکیم تہہ پاتھ جھو اللہ تعالیٰ ویشہ  
 ناوٹھ توہہ بیان کران احکام۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ جھو بندن ہنزہ سارے کامہ زان ون، سیٹھاہ حمہ وول  
 وَاِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِیہ یلہ  
 جہہ لوکت بالغ آسن سڈان لعل آسن تم تہہ زنانن نشہ اژنہ خیطرہ اجازت حاصل کران تہہ پات تمکن ہند  
 زٹھ بالغ مرد اجازت ہوان جھہ کذالک یبیین اللہ لکم آیتہ واللہ علیہم حکیم تہہ پات جھو اللہ

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
 شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ  
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى  
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ  
 وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

تعالیٰ و پيشه ناولت پنن آيات بيان کران توہمہ ای مسلمانو! اللہ تعالیٰ چھو سوزوی زانہ ون سبھاء حممتہ  
 اول۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ  
 غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ بپہ مجہ زانہ یمن نہ نیتھرج تہ پرنج برانتھاء کینہہ آسہ۔ تمن چھونہ کانہہ حرج ہر گاہ  
 تمہہ سترک پلو مثلاً برقعہ وغیرہ تلت پکان آسن مگر شرط چھو کہ نثر او وہہ آسن نہ تمہہ پنن کانہہ گنہہ وَاَنْ  
 يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بپہ ہر گاہ تمہہ نشہہ تہ پتھی روزن، تی چھو تہنہہ خپترہ زیادہ  
 بہتر۔ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی بوزہ ون، سوزوی زانہ ون لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ  
 حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ چھونہ آس کانہہ حرج بیہ نہ لگس کانہہ حرج، بیہ نہ پھاس کانہہ حرج کہ  
 تم کپاہ کھنن غذا کاشدارن سبت، ارین انسانن سبت، تندر ستن سبت وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ بپہ چھونہ توہمہ پانس تہ کانہہ حرج ہر گاہ تہہ کھیو پندی گرو منز پاندہ نن  
 مالن ہندن گرن منز أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْدِيَكُمْ

أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ  
 مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَوْ شَتَاتًا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  
 فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ  
 طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ

یا پنه نین ما جن ہند یو گرو منر، یا پنه نین با بن ہند یو گرو منر، یا پنه نین بن بن ہند یو گرو منر، یا پنه نین  
 پترن ہند یو گرو منر، یا پنه نین پو پھن ہند یو گرو منر، یا پنه نین ما من ہند یو گرو منر۔ یا پنه نین ما سن  
 ہند یو گرو منر یا تمو گرو منر۔ تم ن ہزن کوزن ہند جبہ مالک آسو یا یازن دوسن ہند یو گرو منر  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَوْ شَتَاتًا کانہ حرج پھونہ تو بہ ہر گاہ طعام کھوان  
 آسویکہ و نہ یا الگ الگ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ کس بلہ جبہ ای مسلمانوں نے گرس اندر اثر نلگ ارادہ آسو کران، تمہ وقتہ آسو سلام  
 کران پنه نین لوکن پیٹھ۔ ساری مسلمان چھ اکوی نفس اکوی ذات ہیوسوی سلام یوسہ اللہ تعالیٰ سندہ  
 طرفہ باہرکت نہ تر سلام بہتھ۔ سوگو السلام علیکم کَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  
 پیٹھ پاٹھ پھو اللہ تعالیٰ تھ نہ و پڑھہ ناو تھ ہن ہدایات بیان کران، پیٹھ تو بہ فجرہ خبرہ تہ تہ کرو  
 عَمَلِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ با ایمان گئے تے سمو پڑھ کر معبود برحقس  
 بیہ تہندس پیٹھ برس۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا بیہ بلہ تم با  
 ایمان پیٹھ برحقس سیت نہ تڑھہ کامہ خیطرہ سمت آسن پیٹھ کامہ اندر تہند جمع آسن ضروری آسہ، تم

الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ  
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ  
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

با ایمان لوک ہجھہ تمہ مجلسہ منزہ نیران توتان یوتان نہ پیغمبر برحقس اجازت ہجھہ ہوان۔ اِن  
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پڑپاٹ تم لوک توہہ اجازت ہجھہ ہوان  
یا رسول اللہ تعی کیاہ ہجھہ ایمان اتان خدا کس نہ تہندس پیغمبر برحقس حقیقتہ پاٹ قَاذَا اسْتَاذِنُوکَا  
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ کس یلہ تم اجازت منگان آسن توہہ یا  
رسول اللہ ہجھہ عنہ ضروری کامہ خیطرہ کس آسوہتہ اجازت دووان تمو آندرہ کس یڑھان آسوہتہ کس۔ ہیہ  
آسو اللہ تعالی اس تہندہ خیطرہ مغفرت مگن کیا زہ دنیاء ج کام زان تمو مقدم دینچہ کامہ پیٹھہ ارج تلافی  
سپدہ تم تہندہ استغفارہ سبت۔ اِن اللہ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ جھو سیٹھہ مغفرت کرہ ون،  
سیٹھہ رحم کرہ ون لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ای مسلمانوہ آسور رسول  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ نادین یلہ تم توہہ عنہ اسلامی ضرورت خیطرہ جمع سپن فرمان، معمولی  
نادین زانان۔ ہتھ پاٹ ہتھ اکھ کس پانہ وان نادو پوان جھوہ سن نہ نہ نین زانہو برابر ی بلکہ جھو تہندس  
نادس اجابت کرن واجب۔ یا گو معنی کہ مہ آسو خیال کران تہند دعائے خیر کرن توہہ منز ممولی کتھہ۔  
ہتھ پاٹ ہتھ اکھ کس دعائے خیر کرن جھوہ بلکہ جھو تہندس دعائے خیر کر کس اندر سیٹھہ خیر و  
برکت۔ تہند دعائے جلد قبول سپان۔ یا گو معنی کہ مہ آسو ہتھ تم کس آکو دووان تھہ پاٹ ہتھ پاٹ ہتھ  
پانہ وان اکھ کس آکو دووان جھوہ ناہتھ۔ بلکہ آسو تم کس آکو دووان بعدہ رسالت، یا بعدہ نبوت۔ ونان  
آسویار رسول اللہ نہ یانہی اللہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اللہ تعالیٰ جھو زانان تم

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ الْآلَاتُ لِلَّهِ مَا  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ  
 تَرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

لو کن ہنزہ حر کریم توہمہ اندرہ ژورہ ژورہ تمہزہ مجلسہ منزہ نیرنج بلا اجازت کوشش کران ہجہ۔ تمن  
 وید اللہ تعالیٰ سزا بلہ یہ تہہ توہمہ معلوم سپرکہ اللہ تعالیٰ اس چھو معلوم **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ  
 أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** نہس چھو ژن تم کوک سم مخالفت ہجہ کران رسول  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہدہ حج، سمہ تہہ نشیرکہ تمن ولتہ کانہہ بذ آفاه ونباءس اندریاواتیجہ دودودہ  
 ون عذابہ آخترس اندر **الْآلَاتُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** وارہ یوزوئیہ یاد تھا ووپزپاٹ اللہ تعالیٰ  
 سزوی چھوئیہ سوزوی یہ آسماننہ زمین اندر چھوئس چھوئس ساری پیٹھ پورہ اختیار۔ **قَدْ يَعْلَمُ  
 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ** یقیناً چھوئس معلوم ہند سو حال چھہ حالس پیٹھ ہجہ چھوہ **وَيَوْمَ تَرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ  
 بِمَا عَمِلُوا** بیہ سمہ دہنہ تم تس ن واناونہ ین سوئیجہ تہ سوزوی یہ سم کران اس **وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**  
 اللہ تعالیٰ چھو پریت چیزاہ پور زانان۔



## سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝۱  
 الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ  
 لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَاَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا ۝۲  
 وَاَتَّخَذُ وَاوَمِنْ دُوْنِهٖ الْهٰهٗ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ  
 وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا  
 یہ قرآن مجید نہیں پڑس تہ آپڑس منز فرق کرہ وں چھو پنہ نس بندہ خاص پیٹھ یعنی حضرت محمد  
 پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹھ سو بندہ خاص سپدہ، عالمین، جن تہ انسان ہند خیرہ، کھوڑہ ناوہ وں خدا  
 سپدہ عذابہ نشہ۔ بیہ نیم کرہ وں تمن تم نہ ایمان اُن تہ پڑھ کرن کس خدا نس لِلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کس ذات پاکہ سنز پادشہت تہ سلطنت چھ آسمان تہ زمین اندر وَّلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا  
 وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ بیہ چھو نہ تم قرار ڈیہمت کانہ اکھاہ پن اولاد بیہ چھو نہ تس کانہ اکھاہ  
 شریک حکومت تہ سلطنتس منز وَاَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا بیہ تم پریت چیزاہ پیدہ کور۔ توپتہ  
 کوزن پریت چیزک الگ الگ اندازہ۔ کہ چیزک خاصیت کوزن اکھاہ بیہ چیزک بیاکھ وَاَتَّخَذُ وَاوَمِنْ دُوْنِهٖ  
 الْهٰهٗ پیٹھ صاحب کمال خدا آتھ ترود مشر کو تسد توحید۔ توپتہ بناو کہ تس ورا ای بے چیز پن مغبود  
 تم نہ نمہ صور تس اندر مغبود آس قابل چھہ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ  
 لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا تم نہ کانہ چیز پیدہ ممکن کر تہ کیاڑہ تم چھہ پانہ پیدہ کرنہ آمت بیہ چھو نہ

وَالْحَيَوَةُ وَالْأَنْشُورُ ۳ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
 إِفْكُ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا  
 ظُلْمًا وَزُورًا ۴ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۵ اکتبہا فی  
 ثَمَلٍ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۶ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۷ وَقَالُوا

تمن اختیار پنہ نین پانن ہندہ خیطرہ نمہ ضرر کہہ تہ نقصانکہ دور کر ٹک تہ کانہہ نفعانہ تہ فاندہہ حاصل  
 کر ٹک وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیوَةً وَلَا أَنْشُورًا بیہ چھونہ تمن اختیار کانہہ ہندہ مار ٹک یعنی کانہہ  
 جاندارس کیا یکہ ہن زوکڈت، نہ کانہہ ہندہ زندہ تھاو ٹک یعنی کانہہ بیجانس کیا یکہ ہن جاندار بناوت  
 نہ قیامتگ دوہ نہ مرنہ پتہ بیہ زندہ کر ٹک۔ امہ سارہ گوئی اختیار چھو اللہ تعالیٰ اس معبود آسیک لوازم  
 چھہ تے چیز۔ بس منز تم چیز چھہ، سوئی شو بہ معبود، بس منز نہ تم چیز چھہ سو چھونہ ہرگز معبود آس  
 قابلِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ بیہ دون کافر وہ تہ  
 مُشْرِکُو قُرْآن مجیدس متعلق کہہ بیہ چھو بالکل اہز۔ بس تم، یعنی ام پیغمبرن پانے ٹھہر وومت چھو۔ بیہ لو کو  
 اس پیغمبرس بیہ اہز ٹھہر وئس اندر مدد کورمت۔ یعنی تمواہل کتابو تم مسلمان سپد مت آس، یا تم اہل  
 کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یوان گوشان آس فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا بس تحقیق  
 یژہہ سٹھ ونہ سیت کور سمو کافر و بوڈ ظلم بیہ وولچھہ سیٹھاہ بوڈ اہز وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اکتبہا  
 اتھہ سیت چھہ یم کافر بیہ سٹھ تہ دنان کہہ بیہ قرآن مجید چھو بے سند تھہ سمہ برو ٹھین لوکن نشہ نقل چھہ  
 یوان کرنہ۔ بیہ لیٹھناومزہ چھہ امی پیغمبرن عمدہ عبارئس اندر اتھہ وارہ سوچتھہ سکتھہ صحابہ صائن ہندہ  
 اتھہ فَهِيَ ثَمَلٌ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بس چھہ تے سٹھ لیٹھناونہ یوان تمن نشہ محس تہ شامس قُلْ أَنْزَلَهُ  
 الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تمہ فرماو یو کہہ یارسول اللہ کہہ بیہ قرآن مجید کورنازل تم  
 پروردگارن بس زانان چھو ساری پوشیدہ تھہ۔ ادہ تمہ تھہ آسمانن منز آستن یازمینن منز آستن۔ تمی

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ  
لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُلْقَى  
إِلَيْهِ كَذِبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ  
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ الَّذِي  
إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِدَّتْ تَجْرِبِي

سببہ پھو یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغتس منز ممتاز۔ اتھ ہجو کلام پیش کرنس اندر ہجہ جن سے انسان عاجز۔ اتھ کلامس نسبت ہنجزہ سمہ بچھ تھ ونہ موکھ شوبہ ہاتھوہہ سخت سزادین مگر لائے کان عَفُورًا دَحِيمًا بیشک سو پھو سیٹھاہ رحم کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ سو پھونہ جُرْمَن سیتی سزادوان۔ مگر یہ رحم و مغفرت پھوئہ خاص و قس تان۔ سو وقت کڈر تھہ من امہ فسچھ تھہ کرن وال غذاہس گرفتار کرنہ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ ہجہ سم کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ ونان کہہ تمس پیغمبرس کیاہ سید، یہ پھو سانی پاٹھ غذاہ کھیوان بیہ پھو معاہل انتظام کرن خیطرہ بازرو منز پھیران لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا تمس سیت کونہ آوسوزنہ کانہہ ملاہ۔ سو تہ آسہ ہاتمس سیت روزت لوکن خداہ سندر عذابہ نغیہ کھوڑہ ناوان سے بیم کران اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَذِبٌ سے کونہ آوتراونہ تمن کانہہ خزاناہ سمہ پیٹھ تم خرچ آسہن کران۔ فخر معاہل روزہ ہانہ ضرورتھی اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا سے کونہ پھو تمن سیت کانہہ میوہ باغاہ تمی منزہ آسہن تم کھیوان وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا بیہ ہجہ ونان تم ظالم کافر با ایمان، جہہ چھوہ نہ پتہ پتہ پکان مگر تمہ سی اگس شخصس بس پیٹھ بحر سے جود کرنہ آمت پھو بیہ سیت ہنجزہ عقل بحال چھنہ روز مرث أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ وچھو تھہ پاٹھ سم کافر توہہ پیٹھ عجیب عجیب مثالہ بیان کران فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تمن ہجہ پانس تھہ راومرٹس چھنہ بیان تم



مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوا  
 بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱  
 إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبَحُوا لَهَا تَعْتِيًا وَزَفِيرًا ۝۱۲  
 وَإِذَا الْقَوْمُ مِنهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُّقْرِنِينَ دَعَوْا هُنَا لَكَ  
 ثُبُورًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا  
 كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَدْلِك خَيْرًا مَّجَنَّةً الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

و تھ لہ تھ۔ تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَدَّتْ تَعْرِفِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْاَنْهَارُ عام چھہ برکت تَس پروردگارہ سز سیٹھاہ تھو دھتھو جھند شان۔ نَس ہر گاہ سو تھہہ ہالہہ بائچ گیاہ  
 چھہ تھی بیشار امہ خوبترت رت باغ گرہ ہاتوہہ عطا سمومنز جو یہ پکان آسکن وَّيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا  
 بیہ کرہ ہاسو تھہہہ خیطرہ تمن باغن منز کمہ جلیہ نہ مکان تیار مگر بعض جتن کن نظر کرت یو تھ نہ تہ  
 اللہ تعالیٰ ان۔ تھ آسنہ ضرورت تہ۔ کیا زہ آس چھہہ مجبور سمہ تھہہ ہند کہ تھ فرمائش کافر کرن تہ کیا  
 گز و آس پورہ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ اصل تھہہ چھہہ یہ کہ سم کافر چھہہ قیاس لہز زانان۔ تمی چھہہ تم  
 بے فکری سببہ امہہ قسچہ تھہہ کران۔ یہ یوتھ یوان چھو کہ تہ چھہہ دوران وَّاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ  
 سَعِيرًا آسہ تہ چھو تیار تھوومت قیامتہ کین مُعْرَن ہندہ خیطرہ ذرہ و ن نار۔ کیا زہ قیاس انکار کرنہ  
 سیت چھو لازم یوان خدا نَس تہ پیغمبر خدا نَس انکار کرن۔ سو چھو اصلی سبب جھنم ن اندرو اتنگ اِذَا  
 رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبَحُوا لَهَا تَعْتِيًا وَزَفِيرًا یلہ سونارو چھہہ تمن مُعْرَن دوری یوزن تم تمیک  
 خشمہ ہوت گریہ و ن بیہ تھہہ ناگہ وَاِذَا الْقَوْمُ مِنهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُّقْرِنِينَ تو پتہ یلہ تروانہ یں تم تمہہ  
 منزہ نئہ تنگ جلیہ منزاکہ اکس سیت گنڈ پھر تھہ یا تھہہ کھور گردنہ سیت کنڈت دَعَوْا هُنَا لَكَ ثُبُورًا  
 تھانڈن پنہ خیطرہ ہلاکت تہ موت پانس کرن لیلہ تہ انفس لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا  
 ثُبُورًا كَثِيرًا ونہہ پیکھہ ای کافر و اکی پھر ہمہ تھانڈوتہہہ اُنہ پنہ خیطرہ موت بلکہ تھانڈ و اورا یہہ پھرہ

الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيبًا ۗ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 خَالِدِينَ ۗ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدٌ مَّسْئُومًا ۗ وَيَوْمَ يَجْشُرُهُمْ  
 وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ  
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۗ قَالُوا سُبْحٰنَكَ  
 مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ  
 لَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

قُلْ اذٰلِكَ خَيْرٌ اَمَّ جَنَّةِ الْخٰلِدِيْنَ وَعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ ای کافر ویہ  
 افسوسناک حالت چہار ژ کینہ سو ہمیشہ روز نک جنت چھو بہتر سمیک وعدہ آو کرنہ، پر ہیز گارن،  
 خدائس کھوژہ ونین۔ کانت لہم جزاء و مصیبا سو جنت آہہ تہندہ خیرہ ر ژان عملن ہنز مزور۔ بیہ  
 آہہ تمن پتولا کہ اتھ جنس منز و اثن لہم فیہا ما یشاءون خلدین تہندہ خیرہ آہہ تھہ جنس منز تہ  
 سو زوی بیہ تم یڑھن، ہمیشہ روزہ ون اسن تھہ جنس منز کان علی ربک وعدہ امسؤلا تمن پر ہیز  
 گارن ہند اتھہ جنس منز و اثن چھو اکھ وعدہ ائس بطور فضل و عنایت مٹہ چھو تہندس پروردگار س پیٹھ۔  
 بیہ چھویہ وعدہ قابل در خواست ویوم یجشرہم وما یعبدون من دون اللہ بیہ پاو تمن ژ تیس  
 سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن بیہ تہندین معبودان باطلن تمن ہنز پرستش تم معبود بر حقس  
 و رای کران آس جمع کرہ پائس بروٹھ کنہہ فیقول ءانتہم اضللتہم عبادی ہؤلآء امہم  
 ضلوا السبیل تو پتہ پر ژھہ تمن معبودان باطلن کیاہ توبی ڈالو کہ تم میان ہندہ سیزہ وتہ نشہ۔ کنہہ تم  
 ڈل پائے راہ راستہ نشہہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء تم  
 ذہن پروردگار اژہ چھو کہ منزہ تہ پاک۔ سون کیاہ طاقت اوس اس کیاہ کرہ ہون ژہ و رای بیہ کانہہ کار  
 سازاہ مقرر۔ آدہ تم آس آہہ ہو یا بیہ کانہہ یلہ اس یقین چھہ زمان کہ معبود چھو ک ژی یوت بیہ نہ  
 کانہہ۔ اس تھہ پات ہیچہ ہو لو کن شرک امر کرت یا تھہ پیٹھ رضا مندی ظاہر کرت ولکن متعتہم

بُورًا ۱۸ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا  
 وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۱۹  
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ  
 الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۲۰

وَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ تَسْمُوا الذِّكْرَ لیکن تم سپہ پائے گمراہ۔ سمو کور شکران نعمت بدل کھران نعمت۔  
 حقیقت ہتھ بیہ کمرہ ٹناو تھکھ تم بہر تہمد مال بدب مال ذنیاعک تتع یوتان تم نفسہ جن خواہش تہ  
 لذتن اندر بوڈت گئے۔ تیوت کہ چون یادی مٹرو دکہ وکانوا قومًا بُورًا تم سپہ پائے برباد تہ ہلاک  
 فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ای کافر و پڑپاٹِ تم معبودان باطلن ہنز جنہہ پر ستش کران آسوہ، تمو  
 دژہ قرار ہنزہ سارے تھہ ایزہ۔ تمو تہ کورنہ توہمہ کانہہ مدد۔ توہمہ پیٹھ چھو کھسان پورہ پاٹِ جرم قما  
 اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا کس میکو تہ جنہہ پاسِ نعرہ عذاب دور کمر تھہ نہ میکوہ توہمہ کانہہ شخصہ مدد  
 کمر تھہ وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا بیہ کس توہمہ اندر نافرمان یعنی مٹرک آسہ  
 سوز تہہ ناوون اس بوڈ عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ  
 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ تم پیغمبر اسہ سوز توہمہ برو تھہ یار سول اللہ تم ساری آس غذائہ کھیوان بیہ  
 آس باز رومنز معاش تلاش کرنہ خیطرہ پکان تہ پھیران۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ای  
 پیغمبر کریم، ای پیغمبر کریمہ سند یوتانو تھہ جنہہ کافرن ہنز و تھہ سیت غمگین آسوسپدان۔ کیا زہ اسہ  
 جھوہ جنہہ ساری کمر مت آکھ آکندہ خیطرہ آزمائش۔ حضرات انبیاء کمر اسہ لوکن ہنہہ خیطرہ آزمائش  
 کہ کم لوکھ کرن تہندس بشر آسکس کن نظر کرت تم انکار تہ کم لوکھ کرن تہندین نبوتہ کین کمالاتن  
 کن نظر کرت تم پڑھ تہ تصدیق أَتَصْبِرُونَ جنہہ تہ کمر و صبر یعنی تہند گڑھہ ضرور صبر کرن وَكَانَ  
 رَبُّكَ بَصِيرًا یہ تھہ جھہ یقینی کہ تہند پروردگار تھو سارنی ہند حال و چھان۔ مقررہ و قس پیٹھ دیہ سوز

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ  
 الْمَلٰٓئِكَةَ يُنزِلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَقَالِیۡمَ ۚ اَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ  
 اٰنۡفُسَهُمْ فِیۡ سَآءِ مَا يَدْعُوۡنَ ۚ وَتَوَعَّدُوۡنَهُمْ  
 بِكِبَرٍ ۙ اَلَمْ یَیۡمِنُوۡۤا اَنَّ اَللّٰهَ لَیۡبۡشُرِیۡ یَّوۡمَیۡذِیۡنَ  
 الْمُجۡرِمِیۡنَ ۚ وَ یَقُوۡلُوۡنَ حِجۡرًا مَّحۡجُوۡرًا ۙ وَ قَدِیۡمًا  
 لِّیۡ مَا عَمِلُوۡۤا مِنْ عَمَلٍ ۚ فَجَعَلْنٰهُ هَبٰٓءًا مِّنۡنۡوٰرًا ۙ اَصۡحٰبُ الْجَنَّةِ  
 یَوْمَیۡذِیۡنَ خَیۡرٌ مُّسۡتَقَرًّا ۙ وَ اَحۡسَنُ مَقِیۡلًا ۙ وَ یَوْمَ تَشۡقُقُ  
 السَّمَآءُ بِالۡغَمَامِ وَ نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

تمن ضرور سزا۔ لہذا کیا زہ چھوہ نہہ غم کیوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ يُنزِلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَقَالِیۡمَ ۚ اَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ اٰنۡفُسَهُمْ فِیۡ سَآءِ مَا يَدْعُوۡنَ ۚ وَ تَوَعَّدُوۡنَهُمْ بِكِبَرٍ ۙ اَلَمْ یَیۡمِنُوۡۤا اَنَّ اَللّٰهَ لَیۡبۡشُرِیۡ یَّوۡمَیۡذِیۡنَ الْمُجۡرِمِیۡنَ ۚ وَ یَقُوۡلُوۡنَ حِجۡرًا مَّحۡجُوۡرًا ۙ وَ قَدِیۡمًا لِّیۡ مَا عَمِلُوۡۤا مِنْ عَمَلٍ ۚ فَجَعَلْنٰهُ هَبٰٓءًا مِّنۡنۡوٰرًا ۙ اَصۡحٰبُ الْجَنَّةِ یَوْمَیۡذِیۡنَ خَیۡرٌ مُّسۡتَقَرًّا ۙ وَ اَحۡسَنُ مَقِیۡلًا ۙ وَ یَوْمَ تَشۡقُقُ السَّمَآءُ بِالۡغَمَامِ وَ نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

تمن ضرور سزا۔ لہذا کیا زہ چھوہ نہہ غم کیوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ يُنزِلْنَ عَلَيْهِمُ الْمَقَالِیۡمَ ۚ اَلَمْ يَرَوْۤا اَنَّ اٰنۡفُسَهُمْ فِیۡ سَآءِ مَا يَدْعُوۡنَ ۚ وَ تَوَعَّدُوۡنَهُمْ بِكِبَرٍ ۙ اَلَمْ یَیۡمِنُوۡۤا اَنَّ اَللّٰهَ لَیۡبۡشُرِیۡ یَّوۡمَیۡذِیۡنَ الْمُجۡرِمِیۡنَ ۚ وَ یَقُوۡلُوۡنَ حِجۡرًا مَّحۡجُوۡرًا ۙ وَ قَدِیۡمًا لِّیۡ مَا عَمِلُوۡۤا مِنْ عَمَلٍ ۚ فَجَعَلْنٰهُ هَبٰٓءًا مِّنۡنۡوٰرًا ۙ اَصۡحٰبُ الْجَنَّةِ یَوْمَیۡذِیۡنَ خَیۡرٌ مُّسۡتَقَرًّا ۙ وَ اَحۡسَنُ مَقِیۡلًا ۙ وَ یَوْمَ تَشۡقُقُ السَّمَآءُ بِالۡغَمَامِ وَ نَزَّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

تَنْزِيلًا ۲۵) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى  
 الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۲۶) وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ  
 يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۲۷) يُؤِيلَتِي لَيْتَنِي لِمَ  
 اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ۲۸) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ  
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۲۹) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ  
 إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۳۰) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

یعنے جنت آسہ تہندہ قیام کرئج جای، آرام کرئج جای۔ تمہ کس رت آسس ہجھونہ ونوی کینہہ۔ ویوم  
 تَشَقُّقِ السَّمَاءِ بِالْغَمِّ وَمَنْزِلِ الْمَلِكَةِ تَنْزِيلًا ۲۵) بیہ سمہ دوہہ آسمان اکہ بڈہ ابرہ سمیت پھٹہ، بیہ من والنہ  
 سارنی آسمان ہند ملائک پتس پتھ ز مینس پیٹھ بکثرت تمی وقتہ کرہ اللہ تعالیٰ حساب و کتابہ خیطرہ ہن  
 تجلی۔ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۲۶) تمہہ دوہہ آسہ سوڑوی ملک ہقیقتہ پاٹھ حضرت رحمانہ سوڑوی۔  
 یعنی حساب و کتاب تہ جزاء و سزاء س منز آسہ نہ کانہہ ہند دخل۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا  
 بیہ آسہ سوڑوہ کافرن ہندہ حقہ سیٹھاہ کڈرتہ کریوٹھہ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ۲۷) بیہ ہیہ تمی دوہہ ظالم  
 تہ تا فرمان اتھن پنہ نین ثرپ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۲۸) بیہ تمی دوہہ ظالم، ای  
 کاش کیاہ رت گھہہ ہامیانہ حقہ ہر گاہہ رٹھہ آسہ رسول خدا نئس سمیت روزت دینج و تھہ يُؤِيلَتِي لَيْتَنِي  
 لِمَ اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ۲۹) افسوس، کاشکے مہ آسہ ہانہ فلان بدیارس سمیت دوستی لاجنہہ لَقَدْ أَضَلَّنِي  
 عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ ۲۸) ہنرپاٹ تمی کم خٹن ڈوکس بو قرآن مجیدہ کین احکامن پیٹھ عمل کرنہ نشہ،  
 تم احکامنہ نشہ واتھہ۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۲۹) شیطان مجھو انسانس عین مؤقس پیٹھ مد  
 کرنہ نشہ پتھ ثلان وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۳۰) بیہ فرماؤن تمہہ دوہہ  
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ای میانہ پروردگارہ، ہنرپاٹ میان تم قومن زون یہ قرآن مجید نئس  
 واجب العمل اوس، بیہ ہودہ کلاماہ یاروڈ تم امہ نشہ دور، امہ موجب کرکھ نہ کانہہ عملہا، بیہ کوزکھ بالکل

نَبِيِّ عَدُوٍّ مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۳۱﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  
 وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۲﴾  
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۳﴾ الَّذِينَ  
 يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَانًا وَأَضَلُّ  
 سَبِيلًا ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

نظر انداز، اتھ کو رکھ نہ کا نہ التفاتہ، عمل کرنا چھنہ تھی وکذلک جعلنا لکل نبی عدا وامن المجرمین  
 بیتھ پاٹ ایم لو کہ چھ تھند دشمن بیتھ پاٹھ کمر اسہ نافرمانو اندرہ پریتھ پیغمبر سند دشمن، یہ نوکٹاھ چھنہ  
 کینہہ۔ تمو پیغمبر بیتھ پاٹ صبر کوریتھ پاٹھ کمر وچہ تہ صبر وکفی بریک ہادیان نصیرا بس چھو توہہ  
 پن پروردگار ہدایت کرہ ون۔ کافر وچہ ہمیشہ پیغمبرن ہنز مخالفت کمر مثر، لہذا گروہہ نہ امیک کا نہہ غم  
 کھیون۔ اللہ تعالیٰ سمسندہ چھ ہدایت یرھہ تس کرہ ہدایت، بس ہدایتہ نغمہ محروم روزہ توپتہ ہیہ سو توہہ  
 ایذا تہ تکلیف واتہ ناون۔ دوشون حان اندر چھو اللہ تعالیٰ تھند رت، توہہ کافی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۗ بیہ چھہ دپان کافر یہ قرآن مجید کونہ آو نازل کرنہ  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی پھرہ کذلک اسہ کور نازل یہ ہنہ ہنہ، آہستہ، آہستہ۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ  
 فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا بیتھ در را ووا اس امہ سیت تھند ول۔ امی موکھ کور قرآن مجید اسہ نازل وارہ  
 وارہ و لایاتونک بمثل الاچنک بالحق و احسن تفسیرا بیہ چھنہ سم دشمن توہہ نغمہ کا نہہ کٹھاہ یا مثالاہ  
 توہہ بیٹھ یا قرآن مجیدس بیٹھ طعنہ زنی خیطرہ پیش کران۔ مگر اس چھہ تھندہ بدل تمن تھن ہند پوز  
 جواب بیہ تمہ خونہ رت معنی بیان کمرت توہہ نغمہ واتاوان۔ یہ گو قوی جواب۔ وون بس عملی جواب لیہ  
 ونہ تمن سو گو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا سم گئے تے  
 لوک ایم کلمہ وکر من کمرت بیتھ کھکھرہ من پکاناونہ تہ سونہراونہ تہتمس گن۔ تم آسن جاہہ کن سیٹھاہ ہد تر

وَزَيْرًا<sup>(۳۸)</sup> فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَمِّرْ لَهُمْ  
 تَدْمِيرًا<sup>(۳۹)</sup> وَقَوْمٌ نُوْحٌ لِّمَا كَذَّبُوا الرَّسُلَ اَعْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ  
 اِيَةً<sup>(۴۰)</sup> وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا<sup>(۴۱)</sup> وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّ  
 اَصْحَبَ الرَّيْسِ وَقُرُوْبًا يَنْ ذٰلِكَ كَثِيْرًا<sup>(۴۲)</sup> وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ  
 الْاَمْثَالَ وَّكُلًّا تَبَّرْنَا تَتِيْرًا<sup>(۴۳)</sup> وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي  
 اُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرْوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا

وہ کن سیٹھاہ ڈلتہ ولقد آیتنا موسیٰ الکتب وجعلنا معة اخاه هرون وزييرا تحقيق بيه كمر اسه عطا موسى  
 عليه السلام كتاب يعنى تورات۔ بيه كمر اسه سنو كتاب عطا كرنه بروئھ بوى ئھند ہارون عليه السلام تسند  
 وزيرتہ مدگار قُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا تمہ پئے كور كُحْم اسه تمن دوشون كه گمہ جوئھ  
 دوشوے تبلیغ و ہدایت كرنه خيتره تمن كوكن نشہ سموا پوزان سان توحيدك آيات توپتہ گئے تم  
 دوشوے صاحب، كور كه فرعونس تہ ھندس قومس تبلیغ مگر تمو مون نہ كينہہ تہ۔ قَدْ ذَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا  
 ادہ گال تم اسہ مولہ مونجہ۔ چنانچہ ئھند غرق پدن چھو مشهور و معروف وَقَوْمٌ نُوْحٌ لِّمَا كَذَّبُوا الرَّسُلَ  
 اَعْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ اِيَةً بيه يلبہ حضرت نوحہ سند قومس انكار كر پينبرن اسہ پھاؤ تم اس اندر بيه  
 بناؤ اسہ تم لوكن ہندہ خيتره اكھ نشاناہ بيه گو دنيا س اندر وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا بيه چھو اسہ  
 تيار تھوومت آخرتس اندر تمن ظالمن تہ نافرمان ہندہ خيتره كڈر عذاب وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّاصْحَابَ  
 الرَّيْسِ وَقُرُوْبًا يَنْ ذٰلِكَ كَثِيْرًا بيه كور اسہ ہلاك قوم عاد، بيه قوم ثمود بيه كير وال (ر)س چھہ ونان عربى  
 پاٹ كيرس) بيه تمن منز باگ سمہ وارياہ نافرمان اُسو اسہ وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْاَمْثَالَ وَّكُلًّا تَبَّرْنَا  
 تَتِيْرًا بيه كمر بيان اسہ تمن سارنى ہندہ ہدایتہ خيتره عجيب عجيب تہ موثر مضامين۔ مگر يلبہ نہ تمو كينہہ  
 تہ مون ادہ گال اسہ تم سارى وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ پزپاٹ بيه پك تہ گذرے  
 سم مشر كين عرب شامہ كس سفرس منز تمہ شہرہ كن تھہ منز قوم لوط بسان آس۔ تھہ شہرس اوس ناؤ





أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۴۲﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ  
 جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿۴۳﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۴۴﴾  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ  
 النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۴۵﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ  
 رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۶﴾ لِنُنْحِيَ بِهٖ بَلَدَةً

پرستش گران آمد محاسب آن اکثرهم یسعون اَوْ یَعْقُلُونَ کہ نہ تو بہرہ چھو کہ بہرہ گمانہ زہ تموا ندرہ کیاہ  
 چھہ زیادہ بوزان ٹھہند کلام شریف یا کیا چھو کہ سو فخرہ تران کینہہ۔ سو کماے مہ کمر و ٹہہ۔ اِنْ هُمْ إِلَّا  
 كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا تم چھہ مگر چار پاء ہی بلکہ چھہ تھے چار پاء ان ہندہ خو تہ بیڑہ ڈلت و تہ  
 نغمہ اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا کیاہ ژہ و چھت نا ای و چھوہ پنہ نس  
 پروردگارہ سندس قدر تس کن کہ تھہ پاٹھ چھو ز شھر او ان سایہ، یلہ آفتاب چھو کھسان، تمہ ساتہ چھو  
 تم سارنی چیزن ہند سایہ زیوٹھ آسان تم چیز و تھہ نہ آس۔ ہر گاہ سو یڑھہ ہاتھ سائس تھاوہ ہا کہسی  
 جلیہ ٹھہراوت ٹم جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا تو پتہ کورایہ آفتاب امہ سایگ ظاہری علامت۔ آفتابہ  
 سیتی چھو بوزنہ یوان امہ سایگ ز ٹھٹھن تہ ژھوٹھن۔ آفتاب نے آسہایہ پیہ ہانہ بوزنہ نُورًا قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا  
 قَبْضًا يَسِيرًا تو پتہ چھن آس سو سایہ پانس کن رٹان ہتہ ہتہ۔ بالاخر چھو سو سایہ معدوم سپدان  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا بیہ گو سو ہر و دگار سو ی تم رات  
 کمر ٹھہندہ خیطرہ پر دک چیز، بیہ یم نندر کمر راحت و آرامگ چیز۔ بیہ تم دوہ کور زندہ سپد ٹک تہ اورہ  
 یور کرہ ٹک وقت وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بیہ گو سو پروردگار سو ی۔ نس  
 واو تراوان چھو خو شجر ہتھ پنہ رحمتہ بروٹھ یعنی رُود تراونہ بروٹھ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بیہ  
 تراوایہ آسانکہ طرفہ آب نس پاک و صاف کرہ ون چیزہ چھو لِنُنْحِيَ بِهٖ بَلَدَةً مَیْتًا بیہ آس زندہ

مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۝۵۱ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَتْ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْكُفُورًا ۝۵۲ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝۵۳ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۵۴ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُورَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝۵۵ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

کرون تمہ آہ سیتِ مومت زمین و نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا بیہ چادو کہ سو آب پنہ نیو مخلوق آندرہ واریاہ چارپاء بیہ واریاہ انسان و لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَّكُرُوا پنہ پات اسہ کور تقسیم سو آب تمن لوکن منز بقدر مصلحت بیٹھ تم غور تہ فکر کرن کہ تم چیز چھہ کانہہ قدر تہ وال سندس اختیار س اندر نیس سز او ار عبادت چھو۔ تمسزہ نعمہ تریس پات کرن شکر گذاری قَابِ اَكْثَرِ النَّاسِ اِلَّا الْكُفُورًا مگر اکثر لو کو کور نہ کینھ تہ کفران نعمت و رای و لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا بیہ ہر گاہ آس بیٹھہ ہو آس سوزہ ہون پر بیٹھہ شہر س اندر اکھ اکھ پیغمبرہ مگر اسہ سوزہ کانہہ پیغمبرہ کیازہ ٹہہ سوزہ اسہ یار رسول اللہ سارسی عالمس کن گنی صاحب قیاس تان۔ بیٹھہ توہہ پورہ امیک ثواب حاصل سپدہ امہ نعمتک شکرانہ چھو کہ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٹہہ گزہ سن نہ مانہہ کافر ہنزہ کھہ۔ تہنز خواہش چھہ کہ تبلیغ اسلام گزہہ نہ سپد نو ی یا گوژہ کم کم سپدن مگر تہنز گزہہ سن نہ مانہہ تمن کافر ہنزہ کھہ بلکہ گزہہ تمن سیت ای قرآن مجیدہ سیت زبردست مقابلہ کرن وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بیہ گو سو پور در گار سو ی سیم ملہہ ناؤ مختلف زہ دریا ہذا عَذْبٌ فُورَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ائمہ دریاؤک آب چھو سیٹھاہ میو ٹھہ تہ تسکین بخش۔ بیگ آب چھو نون سیٹھاہ تروش تہ ٹیوٹھ باوجود اختلاف ظاہری چھو ہئے آب پنہ نس حاکس پیٹھہ بیہ بیہ آب پنہ نس حاکس پیٹھہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا تمن دوآن دریاؤن منز کور اللہ تعالیٰ ان اکھ ٹھورہ نیس نہ تمن اکھ اکس سیت رلہ



وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ  
 بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۱۱۱ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ  
 بِهِ خَبِيرًا ۝۱۱۲ وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا  
 الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۱۱۳ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝۱۱۴  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُرَ

سنوی آس بس میان مُزور و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یہ کمر و جہہ اعتمادتہ ذکرتھہ تہلیف کلمہ  
 اندر تس زندس پیٹھ نُس نہ زانہ مرہ و سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا یہ کمر و یاد جہد  
 پاکي۔ بے دیوس حمد۔ سو مٹھوپنہ نین بدن ہندین گنہن ہند پور واقف تہ خبردار لَالَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ہم پروردگارن آسمانہ تہ زمین بے یہ تمن منز مٹھوپیدہ  
 کور شیلن و ہن ہندس مد تس اندر کُتْمَا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تم پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تھہ پاٹھ  
 تھہ پاٹھ جہدس شانس سز او ار مٹھو الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا سو مٹھوسیتھارحم کرہ ون۔ نُس پر تھہ  
 تھہ شان جہد کانسہ زانہ و نُس سو باوی تھہ ہنز رحمت کا تھہ مٹھو وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا  
 وَمَا الرَّحْمَنُ بے یلہ ونہ یوان مٹھو تمن کافر ن دیوسجہہ اُس رحمتہ و اُس خدانس۔ دپان جھہ تم  
 رحمان کیاہ گو اَنْسَجِدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیاہ آس و موہ سجہہ تس، نُس تھہ دپٹوسجہہ دمن۔ تمن  
 مٹھوپیدہ و نَزَّ زِيَادَةٌ دُور كِرَان۔ بے بوزنہ سیت چھ تمن زیادہ تھر کھسان تھر و عنادس اندر۔ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سیتھارہا برکت تہ عالیشان مٹھوسو ذات پاک  
 ہم آسمان منزہ باہ ہرج پیدہ کمر۔ بے کرن آسمان اندر آفتاب تھوگ۔ کیاہ تھہ منز مٹھونور تہ، گرمی تہ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۱۳ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
 هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۱۴ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ  
 لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۱۵ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا  
 عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۱۶ إِنَّهَا سَاءَتْ  
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۱۷ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
 يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۱۸ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

بیہ کرن زون نپہ نہیہ کرہ ون۔ تھہ منزوری یوت گرمی وراى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً  
 يَمْنًا آدَانِ يَدُكُورًا أَوْ أَرَادَ شُكُورًا بیہ گوسو پروردگار سوسی تم رات تہ دوہ کورا کہ اکس پتہ اوہ ون تہ  
 گوہہ ون خمس شخصہ سدہ فخرہ ترہ خیطرہ ہئس شخص فخرہ تزن یشہہ یا یشہہ امس قدر تہ والس مُعْتَم  
 حقیقیس بین نعمون پیٹھ شکر دین۔ امہ قسمک لوکھ گے عباد الر۔ جن۔ امہ پتہ ہجہہ تہمد صفت بیان  
 یوان کرنہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا حضرت رحمانہ سدہ خاص بندہ گے تمے تم  
 پکان چھ زعیہ پیٹھ نرمی سان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بیہ یلہ تمین سیت جاہل تہ نادان لوک  
 گفتگو کرنہ لگان چھہ تم جھک پندہ طرفہ سلام کران۔ تہزن ناشایان تھن ہند ہجہہ تم کانہہ جواب  
 دوان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بیہ تم رات گذاران چھہ پندہ ہئس ہر وردگار سئ سجدہ  
 دوان تہ وو تھندہ روزان یعنی نمازہ پران، باوجود آل چھہ پروردگار س کھوژان وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
 اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ بیہ تم کھوژنہ منوکھ دعا چھہ کران ای سانہ پروردگارہ دور کر اسہ ہئشہ  
 جہنمک عذاب إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ہنز پاٹ تمیک عذاب چھو تہای تلمہ ون، لارت گوہہ ون  
 إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ہنز پاٹ سو جہنم چھو سیٹھاہ پچھہ جای۔ روزنہ خیطرہہ بیہ بسنہ خیطرہہ  
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بیہ تم لوک تم یلہ خرچ کران  
 چھہ مال ہئن تھہ منزنہ چھہ زیادتی کران نہ چھہ کی کران بلکہ چھو تھند خرچ کرن آسان تمین دون حالتن

مَعَ اللّٰهِ الْهٰ اٰخِرًا وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اٰثَمًا ۙ ﴿۶۸﴾  
 يُضَعَفُ لَهٗ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ۙ ﴿۶۹﴾ اِلَّا مَنْ  
 تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ  
 حَسَنٰتٍ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ ﴿۷۰﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صٰلِحًا  
 فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۙ ﴿۷۱﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَّ

منزباگ برابر برابر افراط و تفریط و راکب و الذین لایدعون مع اللہ الہا آخر یہ ہم عبادت تہ پرستش  
 بہنہ کران خدا جس سیت بہی کانسہ معبودہ سز و لا یقتلون النفس الی حرم اللہ الا بالحق یہ ہم  
 ناحق کانسہ شخص ماران تہ قتل بہنہ کران سمند مارن خدا من حرام کورمت و چھو مگرے کانسہ شخصہ  
 تہہ مستحق آسہ سو چھ بادشاہ وقتہ سز کوم، عام لوکن ہنزگوہ نہ سو پنے نس اٹھس منزبن۔ ولا  
 یزنون یہ ہم زنا بہنہ کران و من یفعل ذلک یلقی اثمًا نس اکھاہ سمسہ کانسہ کرہ یعنی شرک  
 بخدا نہ، بہی قتل ناحق کرہ بہی زنا کرہ، چھ پاٹ منک مفرک کران آس سوتلہ تمیک سزا یضعف لہ  
 العذاب یوم القیامۃ و یخلد فیہ مہانا دو گناوندہ یہ سندرہ خیرہ عذاب قیامتک دوہ، بہی روزہ سوتہ  
 عذاب نس اندر ہمیشہ خوار تہ ذلیل۔ الا من تاب و امن و عمل عمل صالحا مگر ہم شرک و معاصی نیشہ توبہ  
 گرن، ایمان انن، تویپتہ گرن رثہ عملہ فاولیک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات نس تمن لوکن بدلا وہ اللہ  
 تعالی گناہ جہنہ نیکن سیت و کان اللہ غفوراً رحیماً اللہ تعالی چھو مغفرت کرہ ون۔ تمہہ موکھ مہانوان  
 جہنم گناہ۔ سینہاہ رحم کرہ ون تمہہ موکھ چھن تمن گنہو بدل نیکی۔ یہ اوس اوتان تمن لوکن ہندہ خیرہ ہم  
 گھرہ نیشہ توبہ کرن۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالی فرماون ہم با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرن جہنم حال و من تاب  
 و عمل صالحا فائے یتوب الی اللہ متاباً یہ نس با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرہ، خدا نس ن رجوع عمرت  
 رثہ عملہ گرہ یعنی آیندہ روزہ گنہو نیشہ چھ، سوتہ روزہ عذابہ نیشہ محفوظ۔ کیا زہ سوشخص چھو پھیران،

إِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِمْرُ وَإِكْرَامًا ﴿۴۲﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ  
يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا  
مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۴﴾  
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿۴۵﴾

مُتَّوَجِّهٍ سِدِّ انْ خَدَائِسُ كُنْ - خَاص طَرِيقَهُ وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ الزُّورَ بِهِ تَمَّ شَامِلٌ بِجَهَنَّمَ سِدِّ انْ اِزِينَ تَه  
بِهِوَدَه مَعَامِلُن تَه كَتْمُنْ اَنْدَرِ لَعْنِي تَمَّ نَه اِز وَتَانِ بِجَهَنَّمَ - نَه اِزْ كَوَانِي دَوَانِ بِجَهَنَّمَ كَجَمْعِن - نَه لَبُو الْعَجْمِن تَه خَلَاف  
شَرَع مَجْلِس مَنزْ كَوَهَانِ بِجَهَنَّمَ وَ إِذْ أَمَرُوا بِاللَّغْوِمْرُ وَإِكْرَامًا بِهِ تَمَّ اتِفَاتًا، بَلَا قَصْدَ، لَهْوِ لَعِبَ، فَضُولَ كَامِيو  
كُنْ كُذِّرَانِ بِجَهَنَّمَ تَمَّ سَا تَه بِجَهَنَّمَ كُذِّرَانِ شَرِيفَانَه طَرِيقَس مَنزُ كُنْ التَّفَاتِ تَه خَوَاشِ كَرْنَه وِرَايَ - وَالَّذِينَ  
إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا بِهِ يَلِهَ تَمَّنْ پِنَه نَسْ پَرُورْدْ كَاه سِنْدِيو آيَا تَوَسِيَتِ  
نَصِيحَتِ كَرْنَه پِيوَانِ بِجَهَنَّمَ تَمَّ سَا تَه بِجَهَنَّمَ تَمَّ زِرَه اِنْ هِي وَسْ پِيوَانِ بَلَكَه بِجَهَنَّمَ بِكُوشِ وَ هَوْشِ وَارَه بوزَانِ  
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ بِهِ بِتَهه پَاثَه تَمَّ پَانَه وَانِ اِسْلَامِكِ  
شِيدَانِي بِجَهَنَّمَ بِتَهه پَاثِ بِجَهَنَّمَ يَزْهَانِ سَانِ خُرْ بَاثَه تَه كَرَههه دِيَنَكِ عَاشِقِ بِنِ - چِنَانِچَه دُعَا بِجَهَنَّمَ مَزْكَانِ اِي سَانِه  
پَرُورْدْ كَاه عَطَا كَرَسِههه بِهِ پِنَه نِيْنِ زَنَانِ هِنْدَه طَرَفَه تَه اَوْلَادِ كِنِ هِنْدَه طَرَفَه سُوْ چِيْزِ سَمِيَه سِيَتِ سَانَه اَهْجَهه  
شِيَهْلِنِ تَه قَرَارِ رُكْنِ لَعْنِي تَمَّ تَه كَرِ بِجَهَنَّمَ دِيَنَادِرَ، عِبَادَتِ كَذَارَتَمَّه سَانِه اَهْجَهه شِيَهْلِنِ تَمَّ وَهَجْتِ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا بِهِ كَرْتَه اَسِه پَرِهِيْزْ كَارَنِ هِنْدِ زِيَهْهه - بُوِيلَه پِنَه كَرُوكِ زِيَهْهه كُورْ تَمَّسِ مِيَانِه كَرُوكِ بَاثِ  
كَرِ بِجَهَنَّمَ مُتَشِي تَه پَرِهِيْزْ كَارِ بُوَسْپِدَههه پَايَه مُتَّقِيْنِ هُنْدِ لَامِ تَه زِيَهْهه - اُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ  
فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا بِمَنْ لُوكُنْ پِيَه مُرُورْدَنَه جَنَّتْ هَدِ بَنَكَه - دُنِيَاعِ سِ اَنْدَرِ دِيْنِ وَاطَا تَمَّسِ پِيَهْهه صَبْرِ كَرُسِ  
تَه ثَابِتِ قَدَمِ رُوْزِ نَسْ بَدَلِ بِهِ آسِيَكَه تَمَّنِ جَنَّتِنِ مَنزِ مَلَاكِنِ هِنْدَه طَرَفَه تَعْظِيْمِ تَه سَلَامَه كَرْنَه پِيوَانِ  
خُلْدِيْنِ فِيهَا تَمَّنِي جَنَّتِنِ اَنْدَرِ رُوْزِ كِنِ تَمَّ بِهِيْشَه حَسَدَتْ مُسْتَقْرًا اَوْ مَعَامًا كِيَاه رَزْ جَايَاهِ بِجَهَنَّمَ جَنَّتِ رُوْزِنَه

خَلْدَيْنَ فِيهَا حَسَدَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ﴿۶۷﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ  
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۶۸﴾

خپیڑہ تہ بسنہ خپیڑہ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ تہہ فرماو دو عام سارنی لوکن کن یار رسول اللہ  
میون پروردگارہ کرہ نہ سمنہ قسمہ کا نہہ پروا ہر گاہ تہہ تسنن عبادت کثرونہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ تھتھق توبہہ کورہ  
احکام الہین تم اپوزانت انکار فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا وون ووجھو برو نھہ پکن، سوانکار تہہ تہہ توبہہ  
زلکن ولنہ یعنی تمیک سزایہ توبہہ ضرور دنہ۔





## سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طَسَّ ① تَلَّكَ اَيْتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ  
 نَفْسِكَ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ اِنْ تَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ  
 مِّنَ السَّمَاءِ اَيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④  
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ اِلَّا كَانُوا عَنْهُ  
 مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوْا فِىْ اَنْفُسِيْათِهِمْ اَنْبُوْا مَا كَانُوْا بِهٖ

طَسَّ سَمِ جَهْرٌ حُرُوفٌ مُّقْتَطَعَاتٌ سَمْنٌ بَعْدَ مَعْنَى زَانِبٍ بِأَنَّهُ خُذَا تَلَّكَ اَيْتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ سَمِ  
 مَضَامِينِ سَمِ تَوْبَهُ يَبِيْطُهُ نَازِلٌ سَبْدَانِ جَهْرٌ، سَمِ جَهْرٌ اَيَاتٌ تَمَّهَ كِتَابِهِ بِهٖ يُوَسِّهَ سُوْرُوْى نَرَاوَهُ وَاَنْ جَهْرٌ،  
 يُوْزَكِيَاهُ جَهْرٌ اِهْرُزْ كِيَاهُ جَهْرٌ - تَمِ لُوْكَ سَمِ بَرْزْ جَهْرٌ كِرَانِ، مَتَّ كَمْرَتِنَ - نَهْرٌ كِيَازُهُ جَهْرٌ يُوْتِ غَمَلِكِنِ سَبْدَانِ  
 لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ اَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شَائِدٌ نَهْرٌ مَاتَرَاوِيُوْنَ هَزْرَتْ نَهْرٌ پَانِ سَمِ غَمَّ سَمِيْتِ كِمِ  
 كُوْنَهُ جَهْرٌ اِيْمَانِ اِنَانِ يَتَّهَ قِرْآنِ مَجِيْدِسَ - نَهْرٌ مَهْرُ كَهْبِيُوْ اَمِيْكَ غَمِّ اِنْ تَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ  
 اَيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ هِرْگَاهِ اَسِ يَهْرُوهَ تَمِ كِرُوْكَ جَبْرًا مُسْلِمَانِ يَتَّهَ پَاثِ كِمِ اَسِ  
 سُوْرُوْ تَمِ يَبِيْطُهُ اَسْمَاكِهِ طَرَفُهُ اَكْ نِغَاثَانِ سَمِ سَمِيْتِ تَمِنِ اَخْتِيَارِىَ سَلْبِ سَبْدِهِ - تَهْرُزُهُ گِرْدَنُهُ تَمِنِ يَمُوْنِ كُنِ -  
 چَاْرَهُ لِحْكِهِ نَهْ كِيْنَهٗ تَهْ اِيْمَانِ اِنْدِ وِرَاى - مَگَرِ اَسِ گِرُوْنَهٗ تَهْ - كِيَازَهٗ تَهْ كِرْنَهٗ سَمِيْتِ چَهْوَنَهٗ اَزْمَا كِيْشِ تَهْ اِمْتِحَانِ  
 باقى روزان مگر تمن ہنز حالت جہر کہہ وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه  
 معرضين جہرہ واتان تمن نشہ حضرت رحمانہ سدہ طرفہ کانہہ لصحناہ و عطاہ، نووتہ تازہ مگر تم جہرہ  
 تمہہ نشہ جہرہ بھر ان فَقَدْ كَذَّبُوْا فِىْ اَنْفُسِيْათِهِمْ اَنْبُوْا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِوْنَ چنانچہ یوت بیٹھہ واژ  
 نوبت کہہ سہو وون قرآن مجید جہو اہز لیس اعراضک ہیر سہم درجہ جہو - اتھہ کُنِ نظر کرتِ دو جہرہ یہ

يَسْتَهْزِءُونَ<sup>①</sup> أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 ذَوْجٍ كَرِيمٍ<sup>②</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>③</sup>  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>④</sup> وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>⑤</sup> قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْأَيُّقُونَ<sup>⑥</sup> قَالَ رَبِّ  
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدَ بُونُ<sup>⑦</sup> وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي  
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ<sup>⑧</sup> وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ<sup>⑨</sup>

مُحُو ایز۔ امہ علاوہ کمر کہ اتھ قرآن مجیدس ٹھٹھ۔ وون وایہ تمن نشہ خبر تمہہ حقیقتتھ سم ٹھٹھ  
 کران آس یلہ عذابس گر فاردوھن اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ کیاہ  
 سمو وچھنایت زمیںس کن کہ کاتیاہ رتین رتین گلین ہند قسم کھا راسہ امہ زمینہ منزہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً  
 بیشک چھہ اتھ منزسانہ قدر تک نشانہ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ مگر سمو اندرہ چھہ اکثر سم نہ پڑھی  
 کران چھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہنر پات ٹھند پروردگار مُحُو سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحمتہ وول  
 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ تمن لوکن فرماو و تمہہ و تک قصہ یٹھ تم عبرت رٹن۔ یئلہ آلو ذیت ٹھند  
 پروردگارن موسیٰ کلیم اللہس اِنَّ اَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ تبلیغ کرنہ گدوھنا فرمان قوس قَوْمَ فِرْعَوْنَ  
 یعنی فرعونہ سندس قوس الْأَيُّقُونَ کیاہ کھوژان چھنا تم سانس قہرس تہ غضبس۔ کیاہ پٹھ روزن  
 تا تم سانہ نافرمانی نشہ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدَ بُونُ حضرت موسیٰ ان دوپ خدایابو مُحُو س گدوھنہ  
 خیطرہ تیار مگر بیم چھم زہ تم مازن مہ ایزویور وَيَضِيقُ صَدْرِي سیمہ سیت سپدہ تنگ دل میون و لا  
 يَنْطَلِقُ لِسَانِي مہ پھورنہ زیوہ کنہی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ مہس سوز کھناژہ وحی میانس برادر ہارونس۔  
 سوتہ کرہ ہن پیغمبر تو پتہ پچہ ہا سوتہ مہ سیت۔ ہر گاہ تم ایزویور زانہ ہن سو کرہ ہامہ تصدیق وَلَهُمْ عَلَىٰ  
 ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ بیہ مُحُو مہ بیا کہ عرض کہ مہ پیٹھ مُحُو ٹھند اکہ جرماہ۔ مہ مُحُو خطرہ گدوھان  
 تمہہ مو کہ مازن تم مہ قَالَ كَلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ ان فرموس تہ بہ نہ ہر گز۔ ژہ بیکی نہ اتھہ لاگت کانہ۔

قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ  
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أُرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
قَالَ أَلَمْ نُزِقْكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۷﴾  
وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾ قَالَ فَعَلْتَهَا  
إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۱۹﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي  
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ

اسہ کمر عطا ہارون علیہ السلا مس یغبری فاذھبا بایتنا انا معکم مستمعون پس گدھو توہیہ دوشوے  
میان آیات ہتھہ آس تہ چھہ نصرت و امداد کرنہ خیطرہ توہیہ۔ سیت بوزان تہند گفتگو فاتیافرعون  
فقولانا رسول رب العالمین نھس واتو تہند دوشوے فرعونس نشہ۔ توپتہ ڈیوس اس دوشوے  
چھہ ژہ گن یغبر پروردگار عالینہ سدہ طرفہ دعوت توحیدس سیت یہ حکم ہتھہ آمت کہ ان ارسیل معنا  
بنی اسرائیل آزاد کر کہ ژہ بنی اسرائیل ظلمہ نشہ بہہ وہ ژہ تمن اصلی وطن شامس گن اسہ سیت  
گرھہنہ۔ تم دوشوے گئے فرعونس نشہ۔ تس واتو وکھ یہ پیغام۔ فرعون بوزہ یہ سارے تھہ توپتہ  
دو تھہ موسیٰ علیہ السلا مس گن اوہ ہو۔ تہہ چھوہ حض آمت۔ قَالَ أَلَمْ نُزِقْكَ فِينَا وَلِيدًا وَ لَبِثْتَ فِينَا  
مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ فرعون دو ٹھس ژہ ماچھگ سوی ٹھس اسہ زیوہ ونہ پانہ پیٹھہ پرورش کمر مڑ چھہ۔ بہہ  
رود کہ ژہ اسہ نش ہنہ عمرہ ہندین وارہین و رہن و فَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہہ  
کوڑت ژہ سو بڑم ٹھس ژہ کوڑتھہ (یعنی اکھ قبطی، سانہ قومگ اکھ شخص مور تھن) بہہ چھھہ ژہ توپتہ تہ  
گھر ان نعمت کرہونیو اندرہ سان احسانات چھی نہ یادے۔ بہہ چھو کہہ از آمت مہ پٹن تابع بناونہ خیطرہ  
قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسیٰ علیہ السلا من دو ٹھس واقعی مہ کمر سو حرکت، مہ گنیہ سو  
غلطی۔ عمد اکورنہ مہ سو شخص قتل بلکہ کر یومہ تس تہزہ غلطی پیٹھہ تہنہہ مگر سو موڈ تھی سیت۔ قصد  
مورنہ مہ سو فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ بلہہ توہیہ

۲۳ ان عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۲۴ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۲۵  
 قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۲۶  
 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۲۷ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  
 الْأَوَّلِينَ ۲۸ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۲۹  
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۳۰

کھوڑس یو ڈولس توہمہ نشہ۔ بس کرمہ عطاہن پروردگارن عقل، علم تہ دانشمدی بیہ کورس یو پیغمبر و  
 اندرہ وِتِلْكَ نِعْمَةٌ كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِنَّ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كِيَاہِیہ جھاگانہ نعمتھاہ سمیک ژہمہ پیٹھ احسان  
 جھو کہ تھاوان کہ میون قوم بنی اسرائیل بنو تھن ژہ بن غلام۔ تم تھاو تھکھ ژہ بدس ذلتس تہ ظلمس  
 اندر۔ تھندین لوکھن اوسکھ ماران۔ تمی موکھ ترودھس یو صندوقس منز دریاؤس اندر۔ ژہ برو تھکھن بلہ  
 یو پوگس ژہ کھور تھس یو تہ پتہ کمر تھم پرورش۔ امہ پرورشہ ہند اصلی وجہ جھو چون ظلم۔ امہ پرورشہ  
 ہند کیاہ جھو کہ ژہمہ پیٹھ احسان تھاوان۔ بلکہ پڑہ ہی ژہ پنہ نین ناشایستہ حرکاتن تہ پچھ کاہن پیٹھ نادم  
 تہ پشیمان سپدن۔ جھہ خبر کا تیاہ لکھت مار تھکھ ژہ کوتاہ خون ناحق کوز تھ ژہ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ  
 الْعَالَمِينَ تھہ ڈالتھ دون فرعون سورت العالمین جہہ گوی۔ سمسدہ طرفہ جہہ سوزنہ آمت جھوہ قَالَ  
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ موسیٰ علیہ السلامن دوہس سوگو آسمانن تہ زمینن بیہ  
 تمہ سارگوی پروردگارہ تمن منز باگ جھو۔ ہر گاہ توہمہ یقین کرن جھوہ تیلیہ جھوہ کافی پتہ رب العالمینہ  
 سُنْد قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ فرعون لوگ ونبہ تمن لوکن سم سم آتد پک آس بہت جھوہ ناؤ زان  
 بیہ شخص کیاہ جھو میانہ سوالک جواب وانان۔ میون سوال جھو کیاہ تال، جواب جھو کیاہ تال۔ قَالَ  
 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ موسیٰ علیہ السلامن دوہس سو جھو تھند تہ بیہ تھندین مالین بدین ہند  
 پروردگار۔ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ فرعون لوگ دہنہ پنہ نین حاشیہ نشین کن  
 طعنہ دوان کہ بیہ تھند پیغمبر بس توہمہ کن سوزنہ آمت جھوہ جھو پز پاٹ موت تہ دیوانہ قَالَ رَبُّ

قَالَ لَیْنِ اتَّخَذَتِ الْهَاطِیْرُی لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ ۝۲۹  
 قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ ۝۳۰ قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الصّٰدِقِیْنَ ۝۳۱ فَآلَفَى عَصَاهُ فَاذَاهِی تَعْبَانُ مُبِیْنٌ ۝۳۲ وَتَزَعَّیْدَا  
 فَاذَاهِی بَیضَا لِّلظُّیْرِیْنَ ۝۳۳ قَالَ لِلْمَلَاحِوْلَةِ إِنْ هَذَا السَّحْرُ  
 عَلَیْكَ ۝۳۴ یُرِیْدُ أَنْ یُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ ۝۳۵ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ۝۳۶  
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حٰثِرِیْنَ ۝۳۷ یَا تُوَكَّلِ بِحَلِّ

الْمَشْرِقِی وَالْمَغْرِبِی وَابْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مُوسَىٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَدُوْنُ سُوْحُوْهُ مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ بِیْه  
 تَمَّ سَارُكُوْی بِیْه تَهَّ دَرْمِیَانِ وَهُوَ پَرُودَرْدَاگَر - هَرگَاه تَوَهَّ عَقْلُ هَهَّ - تَمَّی عَقْلَه سَبِیْتِ مَالُوْیَه تَهَّ قَالَ لَیْنِ  
 اتَّخَذَتِ الْهَاطِیْرُی لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ فَرَعُوْنَ وَوَتَهَّ مُوسَىٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ سُنْ هَرگَاه تَهْمَه وَرَاى  
 بَیَاكُه مَعْبُوْدَاهُ طَهْرَاهُ هُنْ تَمِیْلَه سُوْرَتِ بُوْرَه قَیْدِ خَاسْ اَنْدَر - تَمْسُدُ قَیْدِ خَآنَه اَوْسِ سَیْطَاهُ مُشْكَل - زَمِیْنَس  
 مَنَزِ اَوْسِ اَكُه سَرُوْنَ هَجْمَا - تَهَّ مَنَزِ آسِ دُوَاوَانِ بَرْتَه قَیْدِ س - حَتَّیْ اَوْسِ سُوْمَرْ تَهَّ كَهَارَنَه یَدِ اِنْ قَالَ  
 أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ مُوسَىٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ دُوْمُسْ كِیَاَه بُوْءَیْ تَه پَه نَسْ بُوْتَسْ پَیْطَه سُنْ دَلِیْلِ پِشْ گَرَه  
 تَوَهَّ تَهْوَكَه تَه مَه قَیْدِ خَاسْ مَنَزِ قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ فَرَعُوْنَ دُوْجَه هَرگَاه تَهْمَه  
 پُوْرُوْنَه وَنَبُوْا اَنْدَرَه هَجْوَه كَمَرْ وَتَمِیْلَه دَلِیْلِ پِشْ فَآلَفَى عَصَاهُ فَاذَاهِی تَعْبَانُ مُبِیْنٌ اَتَى تَرَاكُه هِنْ لَوْرَه هِنْ  
 هَجْمَرْ - كِیْدَمِ سَیْدُ تَهَّ وَارَه كَارَه بُوْذَا اَرْدَبَا - وَتَزَعَّیْدَا فَاذَاهِی بَیضَا لِّلظُّیْرِیْنَ بِیْه كُوْذَكُه نَالَه مَنَزَه هِنْ  
 اَهْمَه - اَتَى اَدُوْ بُوْرَه سَارِنِی وَهَجْمَه وَنِیْنِ نَچَه نَچَه كَرَه وُنْ - لُوْكُ تَهَارَه سَه تَرْ لِ قَالَ لِلْمَلَاحِوْلَةِ إِنْ هَذَا  
 السَّحْرُ عَلَیْكَ فَرَعُوْنَ لُوْگُ وَنَهَّ پَه نِیْنِ حَاشِیَه نَفْسِیْنِ، اَهْلِ دَر بَارَزَنْ، بَیْشَكِ بِیْه هَجْوَه ضُرُورِ سَیْطَاهُ مَاهِرِ سَآجِرِ  
 یُرِیْدُ أَنْ یُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ اَمْسُدُ اِرَادَه هَجْوَه كَه تَهْمَه كُذُوْه بِیْه پَه نَه وَطَنَه مَنَزَه هِنْ كِیَاَه  
 هَجْوَه تَهْمَه مَشُوْرَه قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حٰثِرِیْنَ تَمُوْدُ دُوْمُسْ مَهْمَلَتِ دَه تَه اَمْسُ یَعْنِیْ مُوسَىٰ  
 عَلَیْهِ السَّلَامُ بِیْه اَمْسُدِ سِ بَابِیْس - یَهْمِدِ سِ مَارَسْ یَا قَیْدِ كَرَسْ اَنْدَر مَه كَرَه جَلْدِی - تَه سُوْرَتِ پَه نِیْنِ

سَحَارِ عَلَيْهِمْ ۖ فَجِئِمَ السَّحَرَةُ لِبَيِّنَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ  
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۗ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا  
 لِنَأْتِيكِ إِنَّا نَحْنُ الْمُقَرَّبِينَ ۗ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۗ  
 فَالْقَوَا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ  
 الْغَالِبُونَ ۗ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ

مسلخته کین مختلف شهرن کن اک جماعتها سم ساحرن ته جادوگرن سونبرن ته جمع کران یا تولا ک بچل  
 سحره علیه تم واتاون ژه نغمه ساری مملکت سار ته جادوگر فجیمة السحرة لیبیقات یوم معلوم تو  
 پته آی سونبرنه ساری جادوگر تمه دوهه کس و نفس پیٹھ نیس مقرر کر کنه اوس آمت۔ سوگو کاجک وقت۔  
 ۱۰ المحرم روز عاشورائیس تمن یوم الزینته، عید ہند دوه اوس وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ بیہ آدونه  
 مصره کین لوکن فرعونہ سندہ طرفہ کیاہ تجہ ته سپد یوہ جمع اتھ مجتعمس سیت لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بیٹھ آس فیصلہ کثرت جادوگرن ہنز پیروی کر وہ ہر گاہ کے غالب سپد فَلَمَّا جَاءَ  
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اده یلیہ سار آی تم لگ ونہ فرعونس۔ اِنَّا لَنَأْتِيكِ إِنَّا نَحْنُ الْمُقَرَّبِينَ  
 کیاہ اسہ میلیا ضرور مزور ته انعام ہر گاہ آس غالب سپدو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّمَا أَنتُم مُّقَرَّبُونَ فرعون  
 دو پکھ اکھ مزور، بیہ سپد ونہ میانو مقر بوندردہ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ حضرت موسیٰ  
 ان دوپ تمن سارن تراو و کیاہ مجھوہ توہم تراوان فَالْقَوَا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا  
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ توپتہ تراوہ تمو پنتہ رزہ ته پنتہ لورہ۔ سمہ جادہ کہ اثرہ سیت سرف، ہی معلوم سپدان  
 آس۔ بیہ لگ پنتہ فرعونہ سندہ اقبالک مجھوم قسم کہ اسی چھ زورس منز۔ فتح آسہ سانی فَالْقَى مُوسَى

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ<sup>(٣٧)</sup> قَالُوا أَمْثَابُ رِبِّ الْعَالَمِينَ<sup>(٣٨)</sup> رَبِّ مُوسَى  
 وَهَارُونَ<sup>(٣٩)</sup> قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي  
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ<sup>(٤٠)</sup> هَلْ أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
 مِنْ خِلَافٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ<sup>(٤١)</sup> قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا إِنَّا إِلَى  
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ<sup>(٤٢)</sup> إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ  
 الْمُؤْمِنِينَ<sup>(٤٣)</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي<sup>(٤٤)</sup> إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ<sup>(٤٥)</sup>

عصاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تُوپتہ تر و موسی علیہ السلامن پین عصا حکم خدا اتی ہیوت تم  
 تراوان تراوانی نیجھہ لاوان تہ سوزوی یہ تموتیار کورمت اوس فَأَلْقَى السَّحْرَةَ لِسَاجِدِينَ یہ وجھتہ پئے  
 جاوگر و سٹھ سجدہ کس حاکس اندر قَالُوا أَمْثَابُ رِبِّ الْعَالَمِينَ دپنہ لنگ اسہ کمر پڑھ رب العالمینس۔  
 فرعون دوپک یہ چھو توہمہ میونوی ونان تمودوہس رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ حضرت موسیٰ تہ حضرت  
 ہارونہ سندس پروردگار س قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  
 فرعون دوپچھ توہمہ چھوہ پڑھ کمر مرث حضرت موسیٰ اس میانہ حکم دنہ بروٹھی۔ پزپاٹ یہ چھو ٹھند  
 بوڈسار۔ تم ٹہہ تہ پچھہ نامت چھوہ بحر۔ وڈن سپدہ توہمہ معلوم توہمہ کیاہ بوہه لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ بوڈٹ ٹھند اتھہ تہ کھور پھرت یعنی دچھن اتھہ تہ  
 کھور کھور۔ ہیہ دم و وہ ٹہہ ساری پھہہ قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا تم و ساجد و دوہس اسہ چھونہ تھہ اندر کانہہ  
 نقصان تہ ضرر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اس چھہ بیشک پنہ نس پروردگار س نشہ واتہ ونان إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ  
 يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس چھہ یقینا امید تھاوان کہہ اسہ کرہ مغفرت پروردگار سون،  
 سائین سارنی گنہن۔ کیا زہ اس چھہ گوڈی پڑھ کرہ ونان نس معبود برحقس۔ فرعونہ سندہ جماعتہ منزہ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تُوپتہ سوز اسہ حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ نیر ورات  
 گیت میان بندہ ہتھ یعنی بنی اسرائیل۔ پزپاٹ توہمہ ہیہ پتہ ڈورنہ قَالَسَّالُ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ

فَارْسَلْ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ  
 قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿۵۶﴾  
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَدَّتِ وَعْيُونِ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ  
 وَأُورِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۹﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَاءَى  
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمُدْرِكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ  
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۶۲﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

حَاشِرِينَ توپتے سوز فرعون شہر نہ گام نہ کن کہ جماعتھاہ لو کہ سونبر نہ خیطرہ تے تھے فوجس منز بھرتی  
 کرنہ خیطرہ۔ زبان اوسکھہ لائن ہوا لکڑمہ قلیون \* وانہم لنا لغایظون یہ موسیٰ علیہ السلامہ سنز  
 جماعت ہتھہ سائین لوکن نسبت سیٹھاہ کم جماعتھاہ تھے ہتھہ اسہ تنگ کران تھہ کھاران۔ وانا لجمیعہ  
 حذرون یہ ہتھہ اس ساری سلاح سامانہ پیرت کہ فوجاہ اللہ تعالیٰ فرماوان فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَدَّتِ اسہ  
 تم یعنی فرعون تہ تہنزہ لشکر مِّنْ جَدَّتِ وَعْيُونِ کمو کمو باغو تہ ناگہ راڈو منزہ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ  
 یہ کمو کمو خزانو منزہ یہ نفیس نفیس لریو جایو اندرہ کذالک کہ گویہ وَأُورِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ بناؤ  
 تمن لرین جائن تہ باغن ہند مالک بنی اسرائیل فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ چنانچہ فرعون تہ تمسز جماعت  
 تہ لشکر دورے یہ تمن پتہ توپتہ وات تمن رتھہ آفتاب کھتھہ وقتہ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعُ توپتہ یلہ  
 دوشون جمائون کہ اکس پیٹھہ نظر یہ یہ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمُدْرِكُونَ دہنگ موسیٰ علیہ السلام سہ  
 لو کہ اس آی تھدس اتھس اندردون کیاہ بنہ قَالَ كَلَّا موسیٰ علیہ السلامن دوکھہ تہ بنہ نہ ہر گز ٹہ  
 صور ٹس اندر۔ اسہ ہیکن نہ تم ہر گز رتھہ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ پنز پات مہ سیت مٹھو میون پروردگار  
 سوا ہاوہ مہ امہ دریاوہ اندرہ نیرنج وتھہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ مٹھو سوز اسہ لحم  
 موسیٰ علیہ السلامس کہ تھہ لایوہ اورہ سیت دریاوہ کس آٹس ٹنڈ۔ اتی لای تموتنڈ دریاوس فَاثَلَّتْ فَكَانَ  
 كُلُّ فِرْعَوْنَ كَالْقَوَدِ الْعَظِيمِ اتی سپد دریاوس باہ حصہ۔ پرتھہ حصاہ اوس یوڈ یوڈ کوباہیو۔ وَأَزَلَّمْنَا



فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۳۶﴾ وَاَزْلَمْنَا ثَمَّ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۳۷﴾  
 وَاَجْبِنَا مُوسٰى وَمَنْ مَعَهٗ اَجْبَعِيْنَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۳۹﴾  
 اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لٰآيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۴۱﴾ وَاَتٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ ﴿۴۲﴾ اِذْ قَالَ لِاِبْنِيْهِ  
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۴۳﴾ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَاَنْظِلْ لَهَا عَافِيْنَ ﴿۴۴﴾  
 قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿۴۵﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يُضُرُّوْنَ ﴿۴۶﴾  
 قَالُوْا بَلِ وَّجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۷﴾ قَالَ اَقْرَبِيْتُمْ مَّا

الْاٰخِرِيْنَ تُوپتے وائتے تاواسطہ ہجھہ تو تھنھی بیا کہ جماعت یعنی فرعون تہ تہنز لشکر وَاَجْبِنَا مُوسٰى وَمَنْ مَعَهٗ  
 اَجْبَعِيْنَ بیہ ڈیت اسمہ نجات موسٰی علیہ السلام تہ بیہ تم تمن سیت آس تمن سارنی تم اَغْرَقْنَا  
 الْاٰخِرِيْنَ تُوپتے پھا تو اسمہ دو تم جماعت یعنی فرعون تہ تہنز لشکر اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لٰآيَةً پنز پات اتھ منز  
 ہجھو خدایہ سندہ قدر تک بوڈ نشانہ تھہ پات گو غرق فرعون تہ تہنز جماعت وَاَمَّا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ  
 آسنہ تموزہ زیادہ با ایمان وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تھند پروردگاری ہجھو سیٹھاہ رحمتہ  
 وول، سیٹھاہ غالب گر فقاہ ہجھونہ کران مگر پنن دلیل تہ جتت پورہ کتر تھہ وَاَتٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ بیہ  
 بوزہ تاویو کہ حض تم کافر حضرت ابراہیمہ سند قصتہ اِذْ قَالَ لِاِبْنِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ یلیہ تمو ڈوپ پنہ  
 نس ماسل بیہ پنہ نس قومس بیہ تھہ ہجھوہ تھہ پرستش کران قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَاَنْظِلْ لَهَا عَافِيْنَ تموزہ  
 دوئس آس ہجھہ عبادت کران پوتلین ہنز تُوپتے ہجھہ تمنی برو تھہ کنہ عبادتس منز دوہ کڈ اران قَالَ هَلْ  
 يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ابراہیم علیہ السلام دو ہجھہ کیاہ تم ہجھا تھند بوزان یلیہ تھہ تمن کینہہ منگان  
 ہجھوہ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يُضُرُّوْنَ کیاہ بیہ چھا تم تو ہر پرستش کر نس پیٹھ کا نہہ نفعاہ وائتے تاوان با پرستش نہ  
 کر نس پیٹھ کا نہہ ضرراہ وائتے تاوان۔ تمو دو پگ بیہ تھہ ہجھہ کہ یم کیاہ ہجھہ کینہ بوزان۔ یا نفع تہ ضرر

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٤٥﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٤٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ  
 لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٤٨﴾ وَ  
 الَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٤٩﴾ وَإِذَا أَرْضَتْ فَأُوَشِّفُنِي ﴿٥٠﴾  
 وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٥١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي  
 خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٥٣﴾  
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ

واتناوان۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہ وجہہ آسہ بن مال بڈبب پتھے پاتھ تمن پرستش  
 کران قال اقریبتم ما كنتم تعبدون \* انتم و اباؤكم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامں دو گھہ تہہ و چھوہ  
 تمن ہنز حالت بغور تمن تہہ پرستش کران چھوہ بیہ تمن ہنز پرستش تہند مال بڈبب کران آس۔ تم  
 ماہجہ کنہ نفع و ضررک اختیارہ وال فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ بیشک تم معبودان باطل ہجہ  
 میانہ حقہ باعث ضرر تہ نقصان۔ تہندہ حقہ تہ ہجہ تم باعث ضرر تہ نقصان۔ غرض تہنز عبادت نیس  
 کرہ تسدہ حقہ ہجہ تم باعث ضرر مگر نہ عالمین ہند پروردگار۔ سو چھو پتہ نین عبادت کرہ و نین ہند  
 دوست۔ تہنز عبادت کران ہجہ باعث نفع تہ فائیدہ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ تم بُو پیدہ کورس  
 بیہ تم ساری پیدہ کورسوی چھوہ میانین مصلحت کن و تہ ہاوان وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ بیہ نیس  
 مہ کھیوان تہ چاوان چھوہ وَإِذَا أَرْضَتْ فَأُوَشِّفُنِي بیہ یلہ بُو بیار پیوان چھوس سوی چھم ہراوان تہ  
 شفا دیوان وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ بیہ نیس مہ اہدہ دہنہ مارہ تو پتہ کریم دوبارہ بیہ زندہ قیامتک دہہ  
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خِطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ بیہ چھہ تمسنز مہ سیٹھا امید کہ سوکرہ مہ مغفرت  
 میانین گو نمن قیامتہ کہ دہنہ۔ تم صفات و کمال خدایہ سند بیان کران کران سپدا ابراہیم علیہ السلامں  
 حضورک مقامہ حاصل تو پتہ ہیو چھہ مناجات کران رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ای میانہ  
 پروردگارہ عطا کر مہ کمال علم بیہ کمال عمل۔ بیہ ملناومہ قر بہ کن تہندین مقامین اندر۔ نیوکار ہندن

وَرِثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۸۷﴾ وَأَغْفِرْ لِي رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ ﴿۸۸﴾  
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۹﴾ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا  
 مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۹۰﴾ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۱﴾  
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ﴿۹۲﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّمَاكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۹۳﴾  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَبْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصَرُونَ ﴿۹۴﴾ فَلَئِكَ بَوَّأْنَاهَا  
 هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿۹۵﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سیت، عالیشان انبیاءان سیتِ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْآخِرِينَ بیہ تھا ویوں ذکرِ خیر پتہ اودہ  
 ونین اندر بیہ تم میان متابعت کرن، میانی و تہ یکن۔ مہ بہ تہ سیت زیادہ ثواب وَأَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ  
 جَنَّةِ النَّعِيمِ بیہ کرمہ نعمتہ کین جنن ہند یو وارثو آندرہ وَأَغْفِرْ لِي رَبِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ بیہ  
 کر مغفرت میانس ماس ایماٹک توفیق دت کیاز سو چھو بیشک گر ہو آندرہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
 بیہ مہ مندہ چھادمہ قیامتجہ دوہہ سیمہ دوہہ ساری یکن بیہ زندہ کمرت قبر و منزہ تلمنہ۔ تمہہ دوہے مول میوں  
 کافر ن سیت ووتھہ، جہنم سوزنہ بیہ سو چھہ میانہ خیطرہ سخت بے عزتی يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  
 سیمہ دوہہ نہ کانہ نفع تہ فاسیدہ دیہ نہ مال تہ نہ خُر مجر إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر فائدہ بہ تہ تس  
 ئس بیہ بیہ اللہ تعالیٰ اس بروٹھہ کن اور وللاہ، ئس دل، شر کہ نشہ، بگھر نشہ، نفاقہ نشہ تہ خلاف شرع  
 بیچھ عقاید و نشہ پاک آسہ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بیہ سیمہ دوہہ بیچھ بیہ انہ جنن پر ہیز گارن نشہ  
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ بیہ سیمہ دوہہ نیہر کڈنہ بیہ جہنم کمر ہن تہ کافر ن ہندہ خیطرہ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّمَا  
 كُمْ تَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللَّهِ بیہ ایہ وننہ تہن کتہ چھوہ تم معبودانِ باطل سمن ہنز چہہ پرستش کران  
 آسوہ خدا ئس و رای هَلْ يَبْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصَرُونَ کیاہ تم ہیچہ کوہ توہہ از کینہہ مدد کمر تھہ یا توہہ سیت  
 رُوِزَتِ يَلْيَأْسُ بیچنہ کانہہ فائدہ و اتا و تھہ، چُن پان بیچنہ بچاوت فَلَئِكَ بَوَّأْنَاهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ توپتہ یکن  
 بیچھ کن تراونہ تم معبودانِ باطل تہ تم گمراہ لوکھ تہ تم تہنز پرستش کران آس نار جہنم اندر وَجُنُودُ

يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۶﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۷﴾ اِذْ سُوِيْكُمْ بِرَبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾ وَمَا ضَلٰكُنَا اِلَّا الْبُجْرُمُوْنَ ﴿۹۹﴾ فَمَا لَنَا مِنَ الشُّفْعٰعِيْنَ ﴿۱۰۰﴾  
 وَلَا صِدْقٍ حٰمِيٍّ ﴿۱۰۱﴾ فَلَوَ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۲﴾  
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلٰلِهٰرُسَلِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ  
 اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۰۷﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

اِبْلِيسَ اٰجْمَعُوْنَ بے پیر تراونه جہنمس اندر ابلیسہ سز ساری لشکر قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ دین تم  
 کافر یلہ تم نار جہنمس اندر پنہ نین معبودان باطلن سیت آسن گفتگو تہ ہرہ ہر کران تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي  
 ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ قسم خدا پڑ پاٹ آس آس نہ گمراہی پیٹھ اِذْ سُوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ یلہ اسمہ عباد آس منز  
 پروردگار عالمین سیت توہہ برابر تھاوان آس وَمَا ضَلٰكُنَا اِلَّا الْبُجْرُمُوْنَ آس کمر نہ گمراہ مگر سمو بڈیو  
 جرموسم اصل پاٹ گمراہی ہمد بائی آس فَمَا لَنَا مِنَ الشُّفْعٰعِيْنَ \* وَلَا صِدْقٍ حٰمِيٍّ وون چھو نہ سائہ خیطرہ  
 کانہہ شفاعت کرہ وناہ ئس اسمہ موکلاوہ ہا۔ بے نہ چھو اسمہ کانہہ وئی دوستاہ ئس سون غم کھیہ ہا شریک غم  
 سپدہ ہا۔ فَلَوَ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وون ہے اسمہ بے دنیاء س گن وا ئس سوزہ بن آس بہ ہو با  
 ایمانواندرہ یوتان گو ختم ابراہیم علیہ السلامہ سند تقریر۔ اسمہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ  
 لَاٰيَةً پز پاٹ پیٹھ قصص منزتہ چھو یوڈ نشانہ خدا یہ سندہ قدر ٹک پیہ بڈ عبرت حق ژھانڈہ و نین ہمدہ  
 خیطرہ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ بے آس نہ تمو مکہ کیو کافر و آندرہ زیادہ لوک با ایمان وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بے چھو یقینا ٹھنڈ پروردگار سیٹھاہ زبردست تہ غالب۔ تمن بیجہ ہاسو گر قنار عذاب  
 کمر تھ۔ سیٹھاہ رحمتہ وول تہ چھو۔ تمی چھو مہلت ودان۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلٰلِهٰرُسَلِيْنَ ساری پیغمبر  
 پز زانتہ کورا انکار نوح علیہ السلامہ سند قوم سنہ (اکس پیغمبر س انکار کزن گوساری پیغمبر س انکار کزن)  
 اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ یلہ تمن وون بائی بن نوح علیہ السلامن، کیاہ ٹہہ چھوہ نا کھو ژان

أَطِيعُونَ ﴿۸۸﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۸۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۹۰﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  
 الْأَرْذَلُونَ ﴿۹۱﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۲﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ  
 إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۹۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾ إِنْ أَنَا  
 إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۹۵﴾ قَالُوا لَيْنَ لِمَ تَنْتَهُ يَنُوحٌ لَتَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۹۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿۹۷﴾

خدا نَسِ اِنِّي لَمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ بيشک بو چھوس توہہ کن امانتدار بنیمبر۔ خدایہ سُنْد پیغام چھوس بو توہہ  
 و اتناوان پورہ پورہ کی زیادتی وراى۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَسِ کھوژ تو خدا نَسِ بیہ مائو میون حکم تھہ  
 منز تھہند فائیدہ چھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو چھوس نہ توہہ منگان تبلیغہ خیطرہ کانہہ مزوریہ اِنْ  
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھہ کانہہ مٹہ رب العالمین وراى فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 بیہ چھسورہ و نان کھوژ تو خدا نَسِ بیہ مانو میان تھہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ تمولو کو دو و نَسِ کیاہ  
 اَسِ کرو یہ ژہ پڑہ۔ حالانکہ چان پیر و چھہ کینہہ لو کہ۔ شریفن چھو عار گنہہان تمن سیت موافقت  
 کر نَسِ اندر قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت نوحن دو چھہ مہ کیاہ چھہ خبر تمن ہنز کام نہ  
 کاروبار کیاہ چھو۔ دینس اندر چھہ شریف نہ کمین برابر اِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ تمن نشہ  
 حساب ہیون چھہ میانس پروردگارہ سنز گوم۔ کیاہ رت گنہہ ہاہر گاہ توہہ زائن چھہ ہا وَمَا أَنَا  
 بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ بوہہ ککنہ ہر گز پانس نشہ دور کمرت با ایمان تہہ اَسُو يَامْتَهُ اِنْتُو اِنَا اِلَّا نَذِيرٌ  
 مُبِينٌ بو چھوس صاف صاف نئن پانہہ بیم کرہون میون فرض منصبی چھو پورہ سپدان۔ تہہ و چھو پانہہ  
 پئن نفع و نقصان قَالُوا لَيْنَ لِمَ تَنْتَهُ يَنُوحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تمود و نَسِ ای نوح ہر گاہ ژہ  
 پتہ روز کھنہ سمو کھون نشہ تیلہ پچہ ژہ ضرور سنگسار کرنہ۔ تو پتہ یلہ واریاہ کال گو تمن تھہ پاٹ اصرار  
 کران گھر و انکار س بیٹہ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ حضرت نوحن کور دُعای میانہ پروردگارہ

فَاقْتَمَرَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ اغْرَمْنَا بَعْدُ  
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَ  
 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ  
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

میون قوم چھونہ میون کینہہ تہ مانان فَاقْتَمَرَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا نہس کرژہ مہ منزتہ تمن منز کانہہ فیصلاہ۔ یعنی تم کہہ عذابس گرفتار وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمہہ عذابہ نشیر دہہ نجات بہہ تمن لوکن تم مہ سیت چھہ بایمانواندرہ فَاانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ نہس کوراسہ ہندس دُعاس اجابت۔ نجات ڈیت اسمہ نوح علیہ السلامس بہہ تمن تم تمن سیت آس تھہ ناوہ اندریوسہ ، لوکو، حیوانوتہ جانوروسیت ہرت آس ثُمَّ اغْرَمْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ توپتہ پھاٹواسہ باقی ساری اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک تھہ واقفس منزتہ چھہ ہڈ عبرت باوجود آل آس نہ تمو مکہ کیوکافرواندرہ زیادہ بالیمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو تو ہندوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیحہ ہاتمن گرفتار کثرت تہ سزاوت مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ تھی چھو سو تمن مہلت ودان كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ قوم عاذن تہ کور انکار۔ سارنی پیغمبرن۔ تم اپزیران تھہ۔ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن فرموو بای پین ہود علیہ السلامن، کیاہ تہہ چھوہ نا کھوژان خدا نہس پز پاپٹ بوچھوس توہہ گن پیغمبرہ امانت دار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نہس کھوژو تہہ خدا نہس بہہ کمر و میان فرمانبرداری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بوچھو سونہ مکان توہہ امہ خیطہہ کانہہ مزوریہ یا کانہہ عوضاہ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھنہ کانہہ مکہ رب العالمینس ورا۔ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً يُعْبَثُونَ کیاہ توہہ چھوہ پرستھہ تھزہ جایہ پیٹھہ اکھ عمارتہ تہ

الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۷﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ  
 تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ  
 جَبَّارِينَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا  
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ﴿۱۳۳﴾ وَجَدَّتْ وَعْيُونِ ﴿۱۳۴﴾ إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ  
 أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَمَا

یادگارہ بناوان یہ چھوہ اھ بہبودہ کاہہ کران سمیگ نہ کانہہ فاندہ چھو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یہ چھوہ چیرہ چیرہ کرہ لہدان حالانکہ امہ خونہ کم جاین بیکہہ ہاتوہہ آرام حاصل سیدت، زن توہہ ہتھہ ذنیاع سی اندر ہمیشہ چھوروزن وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ جَبَّارِينَ یہ یلہ توہہ کانہہ بیٹھ اٹھ تراوان چھوہ تیلہ چھون سوزان ظالمانہ تہ جابرانہ، چونکہ شرک تہ بیچہ اخلاق چھہ خدائس ناپسند۔ سمو چیزوسیت سپد یونہہ عذابس گرفتار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لیس کھوژو خدائس یہہ ماؤمیون، کیاڑہ بوچھوس تھہہ پیغیر۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ یہہ کھوژوٹس خدائس سم توہہ مدد کورودہ سمو چیزوسیت سم تھہہ زانان چھوہ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ \* وَجَدَّتْ وَعْيُونِ مدد کورونہہ چارپاءوسیت، اولادوسیت یہہ باغو تہ ناگہ رادوسیت۔ نعمو عطا کرہون لیس آسہہ ہنژرگدھہ فرمانبرداری کرن تھہدین حکمن گڑھہ نہ مخالفت کرن إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مہ چھو خوف تہ اندیشہ تھہدہ حقہ کہ ہرگاہ تھہہ پتھہ روزونہ نافرمانیویشہ اللہ تعالیٰ کردہ تلہہ گرفتار بڈہ دُخَس عذابس سوگو قیامتک دودہ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ تمولوکوڈو پھس جواب آسہہ نشہہ چھو دوشوے تھہہ برابر۔ ژہ وعظ پرتہ یا متہ پرتہ۔ آس روزونہ پنہ نیو کامیویشہ پتھہ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ یہہ وعظ و نصیحت کمر تھہ کھوژہ ناؤن۔ یہہ چھونہ مگر برو تھہمین لوکن ہند عادت۔ پرتھہ و قس منز آی لو کہ ہنوٹک دعوائے دتھہ تہہ تھہ دنان۔ ژہ چھوک آسہہ عذابس کھوژہ ناوان وَأَنْعَمُ بِمَعْدِيَيْنِ آسہہ لیونہ ہرگز عذاب

فَنُحْنُ بِعَدْبَيْنَ ۱۳۸ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ط  
 مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۳۹ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۱۴۰  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۱۴۱ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ ضَلِحُ الْآتِقُونَ ۱۴۲  
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۱۴۳ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۱۴۴ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۴۵ أَتُرْكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَ  
 مِينِينَ ۱۴۶ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوِينَ ۱۴۷ وَذُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعُهَا هَضِيمٌ ۱۴۸  
 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۱۴۹ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۱۵۰

کرنہ کیہنہ تہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ نہں زون تموسو یعنی ہود علیہ السلام اپز زیور۔ ادہ گال اسہ تم لوکھ  
 عذاب صرصرہ سیتہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک آتھہ معالس منز چھہ  
 بڈ عبرت کہ احکام الہین منز مخالفنگ انجام کیاہ چھو آسان۔ باوجود آن آس نہ مکہ کیو کا فر و آندرہ زیادہ  
 ایمان نہ ون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیہ چھو پز پات ٹھندوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیمہ ہاتمن  
 عذابس گرفتار کر تھہ۔ مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کر ہون۔ تمی چھو مہلت دوان۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  
 قوم ثمودن تہ زان پیغمبر اپذیر۔ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ ضَلِحُ الْآتِقُونَ یلہ تمن وون ہای پن صالح علیہ  
 السلامن کونہ چھو کھوژان خدائس۔ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ہنز پات بو چھوس ٹھند امانتدار پیغمبر  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نہں کھوژو خدائس بیہ مانو میون وعظ و نصیحت۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  
 بو چھوس نہ توبہ منگان وعظ و نصیحت کر نس پیٹھ کانہہ مزدریاہ تہ عوضاہ۔ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 میان مزدور تہ عوض چھونہ کانہہ پیٹھ مگر رب العالمئس وراے۔ أَتُرْكُونَ فِي مَا هُمْ بِأَمِينِينَ کیاہ ٹہہ ایوہ  
 تراونہ دنیاء کین چیزن اندر بے فکر۔ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوِينَ یعنی باغن تہ ناگہ رادن منز۔ وَذُرُوعٍ وَنَخْلٍ  
 طَلَعُهَا هَضِيمٌ بیہ زراعتس تہ خضر باغن منز تمن ہند میوہ چھو لطیف۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا



وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَارُ اللَّهِ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾ وَلَا تَسْهَوْا بِسُوءِ مَا خَذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾ فَعَقَّرُوهَا فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْلِنَا ﴿۱۵۷﴾ فَخَذَهُمْ

فِرْهِينَ یہیہ ہجھوہ کھن کھن کو ہن منزہ نہہ گرہ ہناوان، خوش پاٹھ، تھکیان تھکیان۔ توہہ ہجھوہ خبر یوہیہ حال روزہ ہمیشہ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَس کھوڑو خدا نَس یہہ مانو میون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ یہہ مہ یوزو تمن لوکن ہنزہ کتھہ تم نافرمانی اندر حدہ ڈلت چھہ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ تم زم زمینس پیٹھ تباہی چھہ کران، مگنہ قسمہ اصلاح چھہ کران قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تم کو کافر و دوہل اسہ ہجھو تران فخرہ ژہ ہجھوی جو دکر نہ آمت۔ سمہ سیت عقلہ اندر فتور ہجھوی آمت۔ پیغمبری ہند دعوے ہجھو کہ کران مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ژہ ہجھو کہ نہ مگر آس ہبوا کہ انسانہ۔ انسان چھا پیغمبر آسان قَاتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ادہ ہاوتہ اسہ کانہہ نشانہ ہجھو گے ژہ یوزونہ و نیواندرہ قَالَ هَذِهِ نَارُ اللَّهِ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ صالح علیہ السلامن دوہجھہ یہ وونن یوسہ ٹہنزہ خواہشہ مطابق میانہ دعاء سیت خدا ن کہ پلہ منزہ پیدہ کمر۔ یہ ہجھو میانس پیغمبر آس پیٹھ بوڈ نشانہ تہ دلیل۔ اسندین حقون ہند کمر زہ خیال۔ اسندہ خیطرہ ہجھہ اکہ دوہہ تریش چنچ وار۔ یہہ گنیہ ٹہندین جانورن ہندہ تریش چنچ وار۔ یہہ دوہہ وَلَا تَسْهَوْا بِسُوءِ مَا خَذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہہ گنہنہ ٹہند گنہ قسمگ تکلیف واتاوانہ خیطرہ نَس اتھہ تہ لاگن۔ ہر گاہہ کورودہ توہہ تیلہ رُؤہ توہہ اکہ ہڈہ ہگ عذاب۔ تمونہ کور تہندہ رسالتگ تصدیق نہ کور کہ اس وونٹہ ہند کانہہ رعایت فَعَقَّرُوهَا بلکہ مارتمو سنوونٹن نکہ نارژٹھ۔ توپتہ سپد تمن آثار عذاب ظاہر فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْلِنَا تم وچھت سپد تم نام تہ پشیمان۔ فَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تمہ پتہ رٹ تم عذابن تمیک تمن وعدہ تھاونہ اوس آمت۔ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾  
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَ  
 تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾  
 قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۷﴾ قَالَ إِنِّي

پزپاٹ بیٹھ واقس منزتہ پتھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل اُون نہ ایمان مکہ کیو  
 اکثر لوگو وَلَئِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پزپاٹ تہند پروردگار پتھو سیٹھاہ غالب۔ سنوی یڑھہ  
 ہاتمن سارنی کرہ ہاعدائس گرفتار۔ سو پتھو سیٹھاہ رحمتہ وول تمہ سببہ دژان تمن مہلت كَذَّبَتْ قَوْمٌ  
 لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قوم لوطن تیزان پیغمبر ایززیر۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن ڈوپ  
 ہن ہای لوط علیہ السلام کیا تہہ پتھوہ ناخداائس کھوژان إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بیشک بو پتھوس تہند  
 مانندار پیغمبر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا تہس کھوژو تہہ خداائس بیہ سکر و تہہ میان اطاعت نہ  
 فرمانبرداری۔ میانبو ہدایا تو موجب پتھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو پتھوسنہ منگان توہہ امہ وعظ و  
 نصیحتہ خیطرہ کانہ مزور۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور پتھنہ ملہ کانہہ رب العالمین  
 ورا۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تہہ چھوہ ساری دنیا منزہ مردن نکھ ییت ہن شہوت پورہ  
 کران وَ تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بیہ چھوکھ تہہ پننہ زنانہ سمہ تہند پروردگارن تہندہ خیطرہ  
 پیدہ گرہ مرہ پتھہ نظر انداز کران بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ تہہ پتھوہ واقعی حد انسانیتہ نشہ ڈلہ ون قوماہ قَالُوا

لِعِبْلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۸﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي وَمَن يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَجَبَّيْنَاهُ وَ  
 أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ دَرَمْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۴۲﴾  
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿۱۴۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾  
 كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۶﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا  
 تَتَّقُونَ ﴿۱۴۷﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۸﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرًا

لَئِنْ كُنْتُمْ تَتَّقُونَهُ يَلُوطُ التَّكْوِنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ بِه لکس دہنہ تم لو کہ اے لوط ہر گاہ نے ژہ پتھ روز کہ اسہ نصیحت کرنے نشہ تیلہ کچھ ژہ ضرور سمہ شہرہ منزہ نمبر کڈنہ قَالَ لوط علیہ السلام دو پچھ بو چھوس نہ تہنہزہ امہ دھمکی سبہ توہہ نصیحت کرنے نشہ پتھ روزہ ون کیا زہ اِنِّي لِعِبْلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ بو چھوس ضرور تہنہزہ سمہ پچھ کامہ ہند سخت دشمن۔ مہ چھو خطرہ خبر تھہ بلا یہ گوہو تہہ گرفتار۔ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي وَمَن يَعْمَلُونَ ای میانہ پروردگارہ مہ تہ میانین خاص متعلقین وہ نجات تمہ پچھ کامہ ہند سزاء نشہ یوسہ یم کزن۔ فَجَبَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ ہس ڈیت اسہ نجات لوط پتھہس بہ تہندین خاص متعلقین سارنی اکس مجہ زنائہ ورا یوسہ ات روزوزن والین منز۔ یعنی لوط علیہ السلامہ سزہ آشین ثُمَّ دَرَمْنَا الْأَخْرِينَ تو پتہ گال اسہ باقی ساری وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا بہ تراوہ اسہ تمن پیٹھ کنہ رودک پاٹھ فَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ہس کوتاہہ پچھ اوس تمن لوکن ہند رود تمن گوڈہ خدایہ سدہ عذابک بیم کرنے آیو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ہنر پات اتھ واقفس منز تہ چھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ باوجود آل اون نہ ایمان مکہ کیوا اکثر کافرو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بہ چھو ہنر پات تہندوی پروردگار سیٹھاہ زور آور۔ سُوہیمہ ہاتمن سارنی گرفتار عذاب کسرت۔ سُوہ چھو سیٹھاہ رحمتہ دول تمہہ موکھہ وژ کھ مہلت۔ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اپوزان ایلکہ والیوتہ پیغبرہ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن دُپ شعیب علیہ السلامن تہہ چھوہ ناخدا ہس کھوژان اِنِّي لَكُمْ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۰﴾  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزُونُوا بِالْقِسطِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَيَلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾  
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا  
 وَإِنْ نَطَّلُكَ لَكِنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ  
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ

رَسُولٌ آمِينَ ہز پات بو چھوس تہد امانتار پیغمبر فاتقوا اللہ واطیعون کس کھو ژو خدا کس بیہ مارو  
 میون و عظ و نصیحت و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ بو چھسوہ نہ منگان توہم اتھ پیٹھ کا نہ مزوریاہ تہ ہد لاه  
 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھنہ کا نہ مزور رب العالمین وراى اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا  
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ بو چھسوہ توہم دنان تہہ آسو پور بینان۔ ہرگز مہ آسو لوکن چھون مینتھ  
 نقصان و اتانوان و زُونُوا بِالْقِسطِ الْمُسْتَقِيمِ بیہ آسو رت پاتھن زکرہ سیت ٹولان۔ ڈنجہ  
 مہ آسو ماودوان۔ ہرمانہ مہ آسو چھن تھوان و لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بیہ مہ آسو لوکن ہندین چیزن  
 منزکی کران و لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بیہ مہ آسو تلخان ملکس منزقنتہ تہ فساد و اتقوا الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ وَالْحَيَلَةَ الْأُولَىٰ بیہ آسو کھو ژان کس خدا کس سم تہہ تہ پیدہ کر ڈہہہ تم ساری لو کہ تم  
 توہم برو تھہ آس قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تمولو کو ڈو پکس ای شعیب ژہ پیٹھ چھو بو ڈجوڈ کرنہ  
 آمت۔ سمہ سیت چانہ عقلہ چھو قور آمت تمی چھو کہ کران نبوتک دعولے۔ ژہ کیاہ خصوصیت چھہ  
 سانہ خوتہ و مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطَّلُكَ لَكِنَّ الْكَاذِبِينَ ژہ چھوک اسی ہیو اکھ انساناہ آس چھت  
 ژہ زانان ضرور اپزونہ و ہواندرہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کس تراوہ ناوتہ

فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾ وَإِنَّهُ لَنُنزِلُ رُبَّ الْعَلَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ  
 الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ لَبْسَانٍ  
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۹۴﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُجُرِ الْأُولَىٰ ﴿۱۹۵﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَأْتِيَ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا تَرَكُنَّ بِيَاقُوتِ الْأَجْمِينَ ﴿۱۹۶﴾

اسم پیٹھ آسمان اگھ جھلاہ جھو کے ڈھ پوزونہ و نیو آندرہ۔ اسم سپرہ معلوم کہ واقعی جھو کہ ڈھ پیٹھ۔ قال  
 رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرت شعیبن دو جھ میانس پروردگار س جھ پور خبر تہنزن ساری کامین ہنز  
 کلا بوجہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ کس یلہ تمو حضرت شعیب علیہ السلام تہ زون اپز پورا و رث تم  
 سانبانہ کہ دوہک عذابن۔ ابرس اکس تل آی ولنہ تمی منزہ پوتن پیٹھ نازک نرود تمی سیت دد تم  
 ساری إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ اوس لہ بڈہ ڈبک عذابہ تمن پیٹھ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ہنز پات  
 اتھ منز جھ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل کرنہ مکہ کیوا اکثر لو کو پٹھ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک جھو تہند پروردگار سیٹھاہ غالب۔ سوئی یڑھہ ہاتمن محہ کین لو کن تہ گاہا۔ سو  
 جھو سیٹھاہ رحمتہ وول۔ تمی ڈر لکھ مہلت وَإِنَّهُ لَنُنزِلُ رُبَّ الْعَلَمِينَ یہ جھو بیشک یہ قرآن مجید  
 پروردگار عالیہ سہہ طرفہ نازل کرنہ آمت نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ یوہے ہتھ ووتھ امانتدار ملکھاہ  
 اگھ سانہ حمہ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تو پتہ تروون تہند س دس پیٹھ ہتھ توہہ سپر یوہہ بیم  
 کرہ و نیو آندرہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یوہے قرآن مجید جھو صاف عربی زبہہ فصیح و بلیغ وَإِنَّهُ لَفِي  
 زُجُرِ الْأُولَىٰ بیشک یہ جھو آمت امہ قرآن مجید ک مذکرہ کرنہ بو ٹھین کتامن اندر أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَأْتِيَ بَعْضُ الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا تَرَكُنَّ بِيَاقُوتِ الْأَجْمِينَ کیاہ تہندہ خیطرہ جھنا یہ تھہ بو ڈر نشانہ تہ بڈر لیل کہ زانان جھہ اتھ قرآن  
 مجید س یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلن ہند عالم وَاكُوْنُوْنَ لَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَجْمِينَ \* فقراہ

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۰﴾ لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ يُرَوِّعَ آبَ الْأَلِيمِ ﴿۳۱﴾ فَبَيَّنَّا لَهُمْ  
 بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿۳۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۳۳﴾  
 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۴﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبِيهِ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿۳۸﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بیه ہر گاہ نازل کرہ ہوں اسی یہ قرآن مجید کانسہ عجمی شخص پیٹھ سوی یلہ  
 سمن پیٹھ ہر ان آسہا س تہ انہ ہن نہ سم لوکھ ایمان عبادہ منوکھہ۔ کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ سٹھ پاٹ ہتھو آسہ انکار پکہ نوومت نافرمان ہندین وکن اندر لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ  
 يُرَوِّعَ آبَ الْأَلِيمِ تم کرن نہ پڑھ تھہ قرآن مجیدس یوتان نہ ڈیشن کڈر عذاب مرنگہ وقتہ یا عالم  
 برزخس منزیا آخرتس اندر فَبَيَّنَّا لَهُمْ بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ سوی عذاب پیکھ واتھہ ہتھہ تہ معک۔ تمن  
 ترہ نہ فخری یہ عذاب کتہ آوتہ کپار آؤ۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ تمہ ساتہ ڈپن کیاہ آسہ بیہ  
 نامہلتھہ ونہ۔ مگر تمہ ساتہ نہ آسہ وقت مہلتگ نہ قول ایمانگ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیاہ سم  
 چھاسانس عذابس جلد ڈھانڈان سمیک مطلب ہتھو انکار کرن أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ژری ونہہ آئی بوزونہ ہر گاہ آس سمن مہلتس وت فاندہ ٹٹناووکھ وارینکن ورن تہ تو  
 پتہ ولتہ تمن سو عذاب سمیک تمن وعدہ تھاونہ اوس یوان مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ کیاہ نفع دیہ تمن  
 کنیون ورن سمن ہند فاندہ ٹٹناون۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبِيهِ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ بیہ کمر نہ آسہ کتہ شہرک لوک  
 ہلاک۔ مگر گوڈہ آئے تمن نفعہ بیم کرنہ خیطرہ پیچبر۔ یلہ نہ تمومون آدہ آو تمن عذاب سوزنہ ذِكْرَىٰ  
 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ تمن لوکن ژتیس پاونہ خیطرہ۔ آس آس نہ کانسہ نسبت ظلم کرہ وان وَمَا تَزَكَّىٰ بِهِ  
 الشَّيْطَانُ \* وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ بیہ سپدنہ یہ قرآن مجید ہتھہ نازل شیطان ہم کائن نفعہ یوان

ظَلِيمِينَ ﴿٢١٩﴾ وَمَا تَزَكَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا  
 يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٢١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ ﴿٢٢٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ  
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  
 الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٢٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٥﴾  
 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِمَىٰ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ  
 الرَّحِيمِ ﴿٢٢٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٢٨﴾ وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢٢٩﴾

چھہ نہ ہرہ تمہن کہ یہ کتاب ہتھہ کیاہنہ یہ کتاب چھہ ہیرہ پیٹھہ ہون تان ہدایت۔ شیطان چھہ ہیرہ  
 پیٹھہ ہون تان ضلالت و گمراہی۔ اتھہ چھونہ تمہن سیت و اٹھہ کاہنہ۔ نہ ہنہن تم یثہ کتاب ہتھہ دستھہ  
 اِنھم عن السمع لمعزولون کیاہہ تم چھہ یہ قرآن مجید ہوزنہ نشہ دور آمت تھانہ۔ تمہن چھو امہ نشہ  
 تھور آمت کرنہ۔ لہذا چھو یہ قرآن مجید خدایہ سندی طرفہ توہہ پیٹھہ نازل آمت کرنہ یارسول اللہ  
 فلا تدع مع اللہ الہا اخر فتکون من المعذبین کس مہ حض کمر و عبادت تہہ معبود بر حق  
 سیت ہیرہ کانہہ معبودہ سنز۔ تمہہ سیت ایوہ توہہ نہ عذاب کرنہ حالاحہہ توہہ اندر چھونہ نعوذ باللہ نہ  
 شرکگ احتمال نہ عذابگ۔ مگر ہر گاہ بفرض محال توہہ نسبت یہ حکم آو کرنہ ہنہن ہنز چھہ کتھہ کانہہ  
 و انذر عشیرتک الاقربین ای موکھہ کمر و تہہ نیم گوڈہ چھہ آشناؤن پنہ نین و اخفض جناحک  
 لمن اتبعک من المؤمنین ہیرہ نمر او تہہ شفقت و مہربانی ہنز چھہ تمہن لوکن ہمدہ خیلرہ سمو تہنز  
 متابعت کمر بایمانواندرہ ادہ تم آشنا آستن یامتہ آستن **فان عصوا فقل انی برمی مما تعملون** ہر گاہ تم  
 لوکہ تمہن توہہ نیم کوروہ تہنز نا فرمانی کرن ادہ تم تہہ آشنا آستن یامتہ آستن تہہ فرماو کھہ یو چھوس  
 تہنز ہ کامہ نشہ سیٹھاہ ہیزار۔ مہ چھونہ توہہ سیت کانہہ لین دین نہ تعلق **وتوکل علی العزیز الرحیم**  
 ہیرہ کمر و تہہ اعتماد نہ توکہ کس پروردگار س پیٹھہ کس سیٹھاہ غالب نہ سیٹھاہ رحمتہ و ول چھو۔ تہہہہ تکلیف  
 و اتناو ک مہ کمر و کانہہ اندیشہ **الذی یریک حین تقوم** کس پروردگار توہہ و چھان چھو نمازہ ک

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۱﴾  
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۲﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۲۳﴾  
وَالشَّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ  
يَهَيِّمُونَ ﴿۲۵﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۶﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

ووتھم وقتہ وَقَلْبِكَ فِي السُّجُودِ بِہم سمہ ساتھ تہہ نماز پر وہ وین سیت کھسان وسان جھوہہ رُکوع و  
بجود کران جھوہہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک ہنر پات اللہ تعالیٰ جھو سو روی بوزہ ون، سو روی زانہ ون  
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ای لو کو کیاہ بو کر وہ توہہ خبر شیطان کس پیٹھ جھو وسان تَنَزَّلُ عَلَىٰ  
كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وارہ بوز تو تم جھہ وسان تمہی پیٹھ تم گوڈہ پیٹھہ اپزیرہ تہ بدکار آسن يَقُولُونَ السَّمْعَ  
وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ سم شیطان ہمدہ خبرہ وسمکہ وقتہ کن دار تھ جھہ تمہ کتھ تہ خبرہ بوزان۔ تو پتہ  
لو کن تمہ خبرہ وسمکہ وقتہ پنہ طرفہ واریاہ اپز مملہ ناوت تمہ کتھہ ونان۔ نبی کریمہ سُنَدَات بابرکات جھو  
تمہ نغمہ مہر انتہ پاک۔ امہ سیت سُد تمہ نغمہ کما تگ خبہ دُور۔ پتھ رود شاعر تیک خبہ تھہ مُتَعَلِق جھو اللہ  
تعالیٰ فرماوان وَالشَّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بیت ونن والین ہنزہ وتہ جھہ پکان تہہ سم وتہ ذلمت  
آسن۔ یعنی بیت تہ خیالی مضامین ون، با تہ پاتھہ یا عمارتس اندر یعنی نظم یا نثر ون جھو تم لو کن ہند کار۔  
سم تھتھہ ورا ی خیالی مضامین ونان آسن۔ تم مضمون نہ واقف سیت کا نہ تعلق آسہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ  
فِي كُلِّ وَادٍ يَهَيِّمُونَ ژہ جھہ کھنا و چھان اے مخاطب تم شاعر جھہ خیالی مضامین ہندس پر تھہ میدانس  
منز حیران۔ کھونت کھیوان مضمون تلاش کرنے خیطرہ۔ بلہ تم کا نہ مضموناہ بنان جھو، چونکہ سو جھو  
آسان اکثر خلاف واقع وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تمی سببہ جھہ تم ونان تی یہ نہ تم کران جھہ۔  
مضامین قرانیہ تھہ تھہ بآس متعلق آسن تم ساری جھہ محقق۔ خیالی ہرگز جھہ نہ تم۔ لہذا نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم شاعر ون۔ یہ گو محض جنون تہ دیوانہ گی۔ اللہ تعالیٰ ان دژ نہ سانس نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم منظوم کلام کر کس پیٹھہ قدر تھی۔ چونکہ تمہن آیات کریمن منز آیہ شاعر ان ہنزمہ مت



وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۸﴾

کرنہ تھہ منز آی ساری شاعر۔ چونکہ بعضی شاعران ہند کلام چھو عینِ حجت، بیہ پور محقق۔ تمہہ موکھہ  
سکر اللہ تعالیٰ ان تم مستحق فرموان اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر نہ تم شاعر سمو خدا بس پڑھ  
سکر تھہ رزہ عملہ گره وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا بیہ کز کہ یاد معبود برحقہ سُد بکثرت وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا بیہ ہیوت تمو بدلہ کافر نیشہ پنہ نیوشعر وسیتِ تمن پیٹھ ظلم سپد نہ پتہ۔ کیا زہ کافر و اوس  
تمن رنگارنگ ظلم و اتناومت لہذا ہیو تک تمو تمیک بدلہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ  
برونٹھ مکن زان ظالم سمو خدایہ سُد نہ پیغمبر خدایہ سُد حق یا حقوق العباد ظلم کمرت ضایع کمر کہ تھہ  
انقلابہ چہ جایہ بن تم و اتناونہ، مرنہ پتہ۔ سہو جای گنیہ نار جہنم۔



## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طَسَّتِ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
 زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤

طَسَّسَ تم چھہ حروفِ مُقطعات یکن ہند معنی زمانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ تم آیات توہمہ پیچھے نازل کرنے آئی۔ تم چھہ آیات کریمہ قرآن مجید کہ تہ واضح کتابہ ہند هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ تم آیات چھہ بوڈ ہدایت تہ بذبشارت بالایمان ہندہ خیرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تم لوکن ہندہ خیرہ تم نماز چھہ برپا تھاوان یوسہ بدنی عبادت تو آندرہ ہند عبادت چھہ، بیہ تم زکوٰۃ چھہ ادا کران یوسہ مالی عبادت تو آندرہ ہند عبادت چھہ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بیہ چھہ تم آخر تک پور یقین تھاوان نئس تریواصولو آندرہ اکھ اہم اصول چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بیشک تم لوکہ پڑھہ چھنہ کران آخر کس تہنزن چھہ کابین دیت آسہ زینت تمی چھہ تم گمراہی منر بوڈ مت، حیران سپد مت۔ نہ چھہ تہند عقائد درست نہ اعمال۔ تمی چھنہ تم قرآن مجیدس تہ مانان تہ پڑھہ کران۔ لہذا تہہ پاٹھ قرآن مجید چھو بالایمان بشارت دوان تہہ پاٹھ چھو کافر ن وعید بوزہ ناوان أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ تہہ لوک گئے تم یہندہ خیرہ پیچھہ عذاب چھو دنیا س اندر مرچہ وقتہ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ بیہ آسن تہہ

وَإِنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۖ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ  
 لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا اسأتیکم منہا بخبرٍ أو ایتکم بشہابٍ قبسٍ  
 لعلکم تصطون ۚ فلما جاءها نودی أن بُورک من فی النار  
 من حولها وسبحن اللہ رب العالمین ۘ یومسی انہ انا اللہ

آخر کس اندر سے زیادہ تاوان زد۔ کیا زہ تم واثن نار جہنم اندر سے منزه نہ زانہ سے موكه لن۔ وَاِنَّكَ  
 لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بیشک تو ہمہ نفسہ چھو یہ قرآن مجید سے سیٹھاہ حمتہ والہس خدایہ  
 سہہ طرفہ و اتاوندہ یوان۔ امہ نعمتہ کس سرور سے اندر منہ سپد و نہہ ہرگز نمکین اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي  
 آنستُ نَارًا شریس پاو و تمہہ و تک قصہ یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنہ نس عیاس یلہ تم شہر مدینہ  
 پیٹھہ و اہل یوان آس تو پیہ وات کوہ طور سے قریب آس جایہ سردی ہمدہ وقتہ یلہ تمن مصریح و تھہ اتھہ  
 آس نہ یوان۔ دو پیک واقعی مہ و چھہ کوہ طورہ طرفہ ناراہ اکھ زواتان سأتیکم منہا بخبرٍ أو ایتکم بشہابٍ  
 قبسٍ لعلکم تصطون نہہ ٹھہرو۔ بوگڑھہ تو ٹھس۔ یو یوودہ و تہ ہنز کانہ خبراہ ہیٹھ۔ تہہ تموودہ  
 یوانہ رہاہ ہیٹھ نہ زن پچہ پیٹھہ۔ تھہ نہہ تہو تہ و شیر کھرو فلما جاءها نودی کس یلہ تم اتھہ نارس بھہ  
 تلہ وات، تمن گنیہ خدایہ سہہ طرفہ آواز أن بُورک من فی النار و من حولها ییہ آواز کہ تم اتھہ نارس  
 منز چھہ ملا نیکو آندہ تمن پیٹھہ تہ آسن برکت، تم اتھہ نارس آندہ پک چھہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمن  
 پیٹھہ تہ بوئن برکت یہ چھو دوعا بطور تحیت و سلام ہیٹھہ پاٹھہ انہ وول، یا کس نفسہ یوان چھہ، سو چھو سلام  
 کران۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اوس نہ معلوم کہ یہ نور چھو انوار الہی۔ تمہہ مٹوکھہ ہیوک نہ تمو  
 تعظیم بجائت۔ اللہ تعالیٰ سہہ طرفہ سپدہ تہندہ آنسہ خیطرہ سلام و دوعا ارشاد و سبحن اللہ رب العالمین  
 منزهہ تہ پاک چھو معبود برحق، عالمین ہند رب، حدود و نشہ، مقدارہ نشہ، رگ و نشہ۔ یہ نور کس  
 نہہ و چھان چھوہ، یہ چھو تمو قیود و سیت مقتید لہذا چھونہ یہ ذات باری تعالیٰ۔ یومسی انہ انا اللہ  
 العزیز الحکیم ای موسیٰ بو چھو سے معبود برحق۔ کس کلام کران چھو بے کیف، سیٹھاہ عزتہ وول

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۰) وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  
وَلِيٌّ مُدْبِرٌ أَوْلَمْ يَعْقِبْ يَهُوسَى لَاتَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ  
الرُّسُلُونَ ۱۱) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي  
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۲) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِمَّنْ  
غَيْرِ سُوءٍ إِنِّي تُسْعِرُ الْآيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
قَوْمًا فَاسِقِينَ ۱۳) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

سیٹھاہ رحمتہ وول وَالْقِ عَصَاكَ ای موسیٰ ژہ ترا وحض بن لورہ بن پتھر۔ سمویان سو تراؤ پتھر تہہ  
بنیو تراؤ دھا فلما رآھا تہتز کأناھا جانُّ ائی یلہ تہہ لورہ گن وچھ تمو، سمو وچھک حرکت کران سرفہ  
سدپاٹ۔ وَلِيٌّ مُدْبِرٌ أَوْلَمْ يَعْقِبْ حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت۔ پوت نظر تہہ ڈرکھ نہ۔ اللہ تعالیٰ  
ان فر موسیٰ یہوسی لَاتَخَفْ اے موسیٰ کھو ژمہ آسہ کبریٰ ژہ عطا پیغمبری اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ  
الرُّسُلُونَ خلعت پیغمبر عطا سیدت چھنہ مہ بروٹھ کنہ پیغمبر آھن چیزان، یم تہنہ نہ نبوت ورسالتہ  
دلیلہ آسن، کھو ژان۔ یعنی کھو ژان لکھ نہ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ  
مگرے کانہ ہندہ دستہ کیہنہ قصور تہ لغزش لبہ آمر آسہ تس پیہ یاد سولغزش توپتہ کھو ژہ، تہہ چھو نہ  
کانہ مضائقہ۔ لیکن تہہ متعلق تہہ چھو یہ قاعدہ کہ اگر کانہ ہندہ طرفہ کانہہ قصور لبہ ایہ توپتہ بدلاوہ  
سو تہہ کنہ نیکی تہہ ژہ کامہ سیت یعنی گناہ کثرت کرہ توبہ بو چھوس تہند توبہ قبول کران تہندین گنہن  
مُحْسِنٌ کران۔ کیا زہ بو چھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ای موسیٰ اتھ عصاء کس  
مُجْرَسٌ سیت چھوسے بو بیا کھ مجزہ تہہ ژہ عطا کران سو گو کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِمَّنْ  
غَيْرِ سُوءٍ ژہ ترا اتھ پٹن پنہ نس ناس منز، سونیری توره سفید پتہ نہ کرہ ون عنہ قصورہ تہہ بیماری  
ورای اِنِّي تُسْعِرُ الْآيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ تم دو شوے مجزہ چھہ تمو نو و مجزہ واندرہ تم بیتہ تہہ سوزنہ  
یوان چھوہ فر عوس تہہ تہدس توس گن۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ کیا زہ تم چھہ حدہ ڈلہ و نیو لو کو

سَحْرُ مَبِينٌ<sup>(۱۳)</sup> وَحَدُّ وَايِبَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ<sup>(۱۴)</sup> وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ  
سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>(۱۵)</sup> وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا  
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينُ<sup>(۱۶)</sup>  
وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوزَعُونَ<sup>(۱۷)</sup>

آندره فَاكْتَبَا لَهُمُ الْيَتْمَانَ مَبْرُورَةً أَدْعِيهِ وَاتَّخَذَ مِنْ نِسَاءِ سَانَ آيَاتٍ مِّنْ مُّجْرَمَاتٍ سَمِعَتْ تَمِيمَ أَمْرَهُ  
مُورَنَةَ آيَةٍ قَالُوا هَذَا سَحْرُ مَبِينٌ دِينِ لَكِ يَهُودُونَ بَرَاهُ تَجَوَّاهُ وَحَدُّ وَايِبَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا  
أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا بِيَهُ كُورْتَمُومَن سَانِينَ آيَاتِنَ انْكَارَ - حَالِجِهِ يَفِينِ آسِ كِرَانِ تَهْمِدِ پَانِ كِه آيَاتِ  
بِهْمِ وَاقِعِي خَدِيهِ سِنْدِي طَرَفِ - مَكْرَ ظَلَمَهُ كَرَنَ تَه تَكْبَرَهُ كَرَنَ آسِنَهُ اِقْرَارِ كِرَانِ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ نَهْسِ وَهَجُوجُهُ كِيَاهِ آسِهِ بِيَجْهِ اِنْجَامِ مُفْسِدِنَ بِنْدِ - دُنْيَاءِ سِ اَنْدَرِ سَزَاءِ عَرْقِ، اَنْخَرْتِ اَنْدَرِ  
سَزَايِ حَرْقِ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا پَزِ پَاثِ بِيَهُ كُورَ آسِهِ عَطَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَهْ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ شَرِيْعَتِ تَه پَادِشَاهِي بِنْدِ بُوْدُ عِلْمِ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ تَمُو  
دُو شَوِي دُو پِ شُكْرُ وَشَا تَه حَمْدُ يُوْنِ نَسِ مَعْبُودِ بَرِ حَقْسِ تَمِ آسِهِ فَضِيْلَتِ دُو يَتِ پِنْدِ نَبُو بِنْدِ وَآنْدَرَهُ وَارِيْمَنِ پِيْطِيهِ  
وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَانِشِينَ سِ پِدِ سَلِيمَانَ  
عَلِيهِ السَّلَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهْمِدِهِ اِنْتِقَالِهِ پِيْتَه - بِيَهُ دُو پِ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اِي كُو كُو آسِ آيِ پَكْجَهْنَا  
وَنَه تَهْمِ جَانُورِنَ هَنْزَه بِيَهُ آمِهْ وَرَايِ تِنِ پَادِشَهِنِ مِيْسَرِ پِدِ - بِيَهُ آوَا سَهْ عَطَا كَرَنَهُ تَمُو سَارُوِي چِيْزِ وَآنْدَرَهُ تَمِنِ  
هَنْزِ آسِهِ ضَرْوَرَتِ آسِ، مَثَلًا فَوْجِ، لَشْكَرِ، مَالِ وَدَوْلَتِ، آلَاتِ حَرْبِ وَغِيْرَه إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينُ  
پَزِ پَاثِ بُو بَهْ كُو اللّٰهُ تَعَالَى سُنْدُ نُونِ فَضْلِ وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوزَعُونَ  
بِيَهُ بُو سَهْ لَشْكَرَاهُ جَمْعِ آيِهِ كَرَنَهُ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِنْدِ خَيْطِرَه تَهْمِ الشُّكْرَهْ مَنزِ آسِ جِنِّ، اِنْسَانِ تَه جَانُورِ تَمِ

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سَلِيمٌ وَجُودَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾  
 فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ  
 الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

نہ بیہ کانسہ پادشہس مخر کر نہ امت آس۔ تھے آس قاعدہ موجب وارہ وارہ ٹھہر او ٹھہر اویوان پکناوہ  
 ہتھ تم تہ واتن برو ٹھہمن سیت حَتَّىٰ إِذَا تَوَاعَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ حتی کہ بلہ واژسٹو لشکر یہ میداں اندر  
 قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ٹھہر یہ ڈوپ ہاریو، جلد آڑوپنہ نین آلین منز لَا يَحْطِبَنَّكُمْ  
 سَلِيمٌ وَجُودَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٹھہنہ سلیمان علیہ السلام تہ تہنز لشکر بجزی اندر تو بہ ماڈہ لہہ مونجہ  
 گرہ۔ یہ نوز سلیمان علیہ السلام۔ فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا تمولما وڈٹھ بیہ اوسکھ اس رہ ہنزہ یہ  
 تھ وٹہ سیت۔ بیہ کوزک تجب اس رہ ہندیوت لوکٹ جسم آتھ امہ قسچی ہشیاری تہ گائہ جازک۔  
 چنانچہ پن فوج روٹھ پتھ یوتان سارے رہ ژا لیہ آلین منز۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ سلیمان علیہ السلام سدا احساس امہ نعمت کہ یووزہ نوس اللہ  
 تعالیٰ ان رہ ہند کلام۔ یہ نعمت تہ امہ ورا ی بیہ نعمہ شتیس پیتھ مونگھ ڈعا کہ ای میانہ پروردگارہ توفیق  
 وہمہ بوکیاڈہ چانین نعمون ہند شکر ہمیشہ۔ سمہ نعموڑہمہ عطا کر تھ بیہ میانس مالس ماجہ وَأَنْ أَعْمَلَ  
 صَالِحًا تَرْضَاهُ بیہ دم توفیق ہمیشہ رڑہ عملہ کرنگ تکن پیٹھ ژہ راضی سپد کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي  
 عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ بیہ واتناومہ پنہ رحمتہ سیت پنہ نین نیکو کار ہندن منز یعنی حضرات انبیاء ان منز  
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ بیہ کورامہ دوہمہ معاینہ سلیمان علیہ السلام جانورن ہند تمہ ساتہ اوس سہ شت غیر  
 حاضر۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ هَذَا دوٹھ مہ گس چیز سپد مان کہ بوٹھسن نہ سہ شت وچھان حاضر کیہہ

لَأَعَدِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوَّلًا أَدْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحْطِ بِهٖ وَ جِنَّتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يٰقِيْنُ ﴿۲۲﴾ اِنِّى وَجَدْتُ اِمْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَرِيْنُ اِمْمِ الشَّيْطٰنِ اَعْمَالُهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾ اَلَا يَسْجُدُوْنَ لِلّٰهِ الَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

تہ کہ کان من الغائبین کنہ واقع ہجو سو غیر حاضر لَأَعَدِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا بُو کرہ تہس امہ غیر حاضری خیرہ سخت عذاب (تیرہ کدس لہمت) اَوَّلًا اَدْبَحْتَهُ تہہ کر س کھش اَوَّلًا لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ تہے پیش کرہ مہ نشہ پنہہ غیر حاضری ہند معقول عذراہ تیلہ کروس درگذر فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ تہس رُود تم اتھہ حاکس منزکمہ سئی کالس کہ اُوستہ تہت۔ پُرژہہ ہس ژہ کیاژہ اوسکھ غیر حاضر بلا اجازت فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحْطِ بِهٖ دوہن بو آس سوئی تھہ معلوم کتر تھہ یوسہ نہ توہہ معلوم سپز مژہہ۔ وَجِنَّتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يٰقِيْنُ بو آس شہر سبا پٹھہ آکھ تھقی خبراہ ہیتھ اِنِّى وَجَدْتُ اِمْرَاةً تَمْلِكُهُمْ سیمک تفصیل چھو پٹھہ پاٹھہ کہ مہ وچھہ زاناہ آکھ تمہہ شہرہ کین لوکن حکومت کران۔ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تہس چھو حکومتہ کیولوازموا ندرہ سوڑوی کینہہ عطا کرنہ اُمت وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ بیہ چھوس تختاہ آکھ سیٹھاہ پڑہ بوڑوی لعل وجواہر وسیت جہر تھہ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بیہ وچھہ مہ سوزناتہ بیہ تھہم قوم آفتابس سجدہ دووان تہہ پرستش کران خدا بس وراى وَرِيْنُ اِمْمِ الشَّيْطٰنِ اَعْمَالُهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ بیہ چھو زینت وُسمت شیطان تہزن لُغرہ چن کا مین تہن چھہ پنہہ بچھہ کامہ رژہ بوزنہ یوان۔ تم چھہ پٹھہ رٹمت شیطان سیزہ وتہ نشہ چھہہ تم پڑہ وتہ

وَمَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ الْحَجَّةُ  
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ إِذْ هَبَّ بِكَيْتِي  
 هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ  
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤْتَىٰ أَلْقَىٰ إِلَىٰ كَيْتِكَ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ  
 إِنَّهُ يَكْتُبُ الْغَيْبَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤْتَىٰ أَفَتُوْنِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

بیش پیکان آلیس جدد و الله الذی یخبر الخب فی السموت و الارض تا اینکه تم بجهنم سجده دوان تس  
 معبود بر حقس نیس سیماها قدرته وول بهو۔ نیس آسان وزینه کین پو شیده چیزان نبر کڈان چھو و یعیکو  
 ما تخعون و ما تعلقون بیه چھو سوی زمانان تم چیز تم تبه و لن منزه کھنان چھو بیه تم چیز زیوسیت ته  
 تا نو سیت ظاهر کران چھو الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله تعالی ای چھو نیس و رای نه  
 کانسه هنر عبادت گره بهی کران تس و رای چھونه معبودی کانسه۔ سوی چھو عرش عظیمک مالک قال  
 سننظر اصدقت ام کنت من ال کذبین سلیمان علیہ السلامن دوپ بیه یوزت سه نفس اس و چھو ون  
 ژه و ونته پوزنه ژه چھوک اپوزنه و نیو آندره اذهب بکیتی هذا فالقه الیهم اوه ژه گره به بیه میون خط بیته  
 سوی ترا و تمن نشه تم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون تو پته دل ژه تمن نشه اوگن بکن۔ بکس و چھه ژه تم  
 کیا تبه بات کران پانه وان قالت یا ایها الملأؤتای القى الی کیتک کریم تمه زنانه یوسه تمه ملک پادشاه  
 آس دوپ پنه نه قومه کین سردارن، ای معزز لوکو، پز پاش مه گن آو ترا و نه مهر کمرت اکھ با و قعت  
 عظیم الشان خطاه اکھ انه من سلیمان و ان الله الرحمن الرحیم سوی خط چھو سلیمان سده  
 طرفه۔ تبه منزه چھو بیه مضمون لی بھت بسم الله الرحمن الرحیم ال اتعلا و اعلى و اتو نى مسلیمن تو پته چھو  
 خطک مضمون ای تمه سر کشی مه کمر و تبه لوک۔ یعنی بیه زنانه بلیقیس بیه تهنه اعیان سلطنت بیه ساری عام  
 لوک، بیه سپد و حاضر تبه مه نشه، فرمانبر دار بنت۔ قالت یا ایها الملأؤتای القى الی کیتک کریم و نه لکجه ای



حَتَّى تَشْهَدُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا لَنْحْنُ أَوْلَاقُوتَةٌ وَأَوْلُو آبَائِ شَيْبِيَّةَ  
وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مِمَّا ذَاتَا مَرِيْنِ ﴿۳۳﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ  
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَوَكُنَّ  
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَيْنِهِ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْنَا نَبِيًّا بِالْمَالِ فَمَا

معرز لو کو تہہ وید مشورہ مہ یتھ میانس معاملس اندر۔ میون کیاہ گدھہ سلیمان علیہ السلا مس سیت یتھ  
معاملس اندر کرن ماکنت قاطعہ امر اخی شھدون بو جھس نہ زانہ نہ ئنہ معاملک فیصلہ  
کران یوتان نہ تہہ مشورس شامل آسو قَالُوا لَنْحْنُ أَوْلَاقُوتَةٌ وَأَوْلُو آبَائِ شَيْبِيَّةَ تمودوئس اس  
چھہ پنہ طرفہ پر یتھ وقتہ حاضر۔ ہر گاہ مقابلہ نہ جنگ کرنگ تجویز آسہ عمہ خیطرہ تہ چھہ اس تیار۔  
اس چھہ طاقتہ وال بیہ سخت قوتہ وال مقابلس اندر وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مِمَّا ذَاتَا مَرِيْنِ مگر اختیار  
چھو ژی اٹھہ۔ ژی وچھہ کیاہ گدھہ جان۔ ئس حکم ژہ کر کھہ آسہ اس چھہ تھہ حکمس کرنہ خیطرہ تیار  
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً تمہہ بلقیسہ دوئھہ، یہ چھو  
پوز، مگر یتھ منزتہ چھونہ کانہہ شھہ کہ پادشاہ یلہ کئہ شہرس منز فاتحانہ ازان چھہ تم چھہ شہرس تباہ  
کران بیہ چھہ تہہ کین معرزلو کن ذلیل کران، ذلیل لو کن بارس اتان۔ اسے تمن سیت مقابلہ کور۔  
ممکن چھو تہہ گدھن آسہ پیٹھہ غالب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ سم لوک تہ کرن تی۔ لہذا چھہ مصلحت یہہ کہ  
تان تھاو و اس جنگ کرن ملتوی۔ ویکئس چھومہ بوزنہ یوان کہہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَيْنِهِ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میان رای چھہ واتان کہہ بوسوزہ تمن نغہہ کینہہ تحفہ۔ تو پتہ وچھہ بوتیمک جواب  
کیاہ ہتھہ بین تم شخص سمن اٹھہ اس سو ہدیہ سوزو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْنَا نَبِيًّا بِالْمَالِ تو پتہ یلہ  
قاصدوت تم تحفہ ہتھہ سلیمان علیہ السلا مس نغہہ۔ سلیمان علیہ السلا من دوئس کیاہ تہہ چھوہ پنہ مالہ  
سیت مہ مد کرن یڑھان فَمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا آتَيْتُمُ مہ چھنہ تج ضرورت کینہہ تہ کیاہ مہ یہ کینہہ ہاہ

اِنَّ رَبَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَكْفُرُونَ ۱۷۰ بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْدَاتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۱۷۱ اِرْجِعْ  
 اِلَيْهِمْ فَلَنْ نُنَبِّئَهُمْ بِجُنُودٍ اَقْبَلَ لَهُمْ بِهَا وَكُنْخُرَجْتَهُمْ مِنْهَا  
 اِذْ لَآءٌ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۱۷۲ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْمُنُ يَا أَيُّهَا الْعَرْشِهَا  
 قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ۱۷۳ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْتُكَ  
 بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ ۱۷۴

اللہ تعالیٰ اُن عطا کورمٹ، جھوٹہ، جھوٹا سنیٹھا بہتر تمہے خوتیہ توبہ دہیشت و جھوٹہ۔ توبہ جھوٹہ دہیشت  
 حکومت و دولتی بوث، مہ جھون عطا کورمٹ نبوت و سلطنت۔ توبہ نفعہ جھوٹہ دنیاہ نفعہ جھوڈین تہ۔  
 بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْدَاتِكُمْ تَفْرَحُونَ بلکہ جھوٹہ توبہی پتہ تحفہ سیت خوش (ویژان، جھوٹہ نفعہ) اَسْمَ نَعْمَ جھوٹہ  
 سمن چیزن اعتبار کینہہ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ ای قاصد و اہل گروہہ تمنی نفعہ سمو سوز کہ تم ساری تحفہ دکھ  
 پھیرت فَلَنْ نُنَبِّئَهُمْ بِجُنُودٍ اَقْبَلَ لَهُمْ بِهَا ہر گاہ تم اَسْمَ نَعْمَ فرمانبرداری سان حاضر سپن تہ گوجان  
 ورنہ و اتو اَس تَمَن نَعْمَ سکو لشکر ہتہ سمن سیت مقابلہ کر ٹک تَمَن طاقھی آسہ۔ وَكُنْخُرَجْتَهُمْ مِنْهَا اِذْ لَآءٌ  
 وَهُمْ صَاغِرُونَ بیہ کڈو کہ تم تمہہ شہرہ منزہ ذلیل کثرت تہ خوار گروہت، تم قاصدن یلہ تم تحفہ واپس  
 واتہ ناویہ باون سوزوی حال بھیس نفعہ۔ سمو سوز سلیمان علیہ السلام سند یو کمالا تو سیت کافی متاخر، بیہ  
 سپدس یقین جہدہ پیغمبر آسک چنانچہ ارادہ کزن سلیمان علیہ السلام نفعہ حاضر سپدنگ، سلیمان علیہ  
 السلام سُد معلوم وحیہ سیت یا بیہ نفعہ ذریعہ کہ سمو سوز روانہ تَمَن نَعْمَ حاضر سپدنہ خیرہ قَالَ  
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْمُنُ يَا أَيُّهَا الْعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ سلیمان علیہ السلام فر مو پتہ نین معزز  
 کو کن اہل دربارن، توبہ اندرہ کہہ اکھا دیہ مہ نفعہ واتہ ناوت تسند تحت، تمندہ فرمانبردار سپدت مہ  
 نَعْمَ واتہ بروٹھے۔ قَالَ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَك قوی ہیکل جن اک دُوب اَنَا اَتِيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ  
 مِنْ مَّقَامِكَ بودن سو تحت توبہ نفعہ انت، تمندہ دربارہ نفعہ ووتھنہ بروٹھے وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ  
 مہ جھوٹھہ ٹٹنگ کافی طاقت۔ بو واتہ ناون سو توبہ نفعہ امانتداری سان۔ سلیمان علیہ السلام ن دو ٹھس۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ  
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ  
 هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
 شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ  
 كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾ قَالَ نَكُرُوهُمَا وَعَرُّشَهَا نُنظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ  
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَلْكَذَا

امہ خود جلد پہن گوڑھ سوواتن قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اگہ شخصہ اوس تہم نشہ آسانی  
 کتابین ہند علم اوس۔ سوگو آصفت بن برحیاء۔ تمودوپ اس جنس بس چون طاقت مہاتوی انا آتیک  
 پہ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ بوواتاون سوتخت ژہ نغمہ اس اچھہ ٹیٹھ اندر۔ بعضیہ فرمودہ الذی  
 عنده علم من الكتاب۔ امہ آندرہ چھومر ادپانہ سلیمان علیہ السلام۔ تموی واتوسوتخت اس اچھہ ٹیٹھ  
 اندر پنہ روحانی طاقتہ سیبت فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي چنانچہ بلہ تمو چھ  
 سوتخت پانس بروٹھہ کنہ، شکر دپان دوچھہ بہ چھو میانس پروردگارہ سُدوڈ فضل تہ مہربانی لِيَبْلُوَنِي  
 ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ بیٹھ سومہ امتحان تہ آزمائش کرہ کہ آیا بوکر اتمسز شکر گزاری کہ نعوذ باللہ لو کرہ کفر ان  
 نعمت وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ یہ کتھ چھ ظاہر کہ بس شکر گزاری کرہ۔ بس چھونہ تمیک  
 فائدہ مگر پانی۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ تمیک کانہ نفع وَمَنْ كَفَرَ بیٹھ پاٹ بس کفر ان نعمت کرہ۔ بس  
 تہ چھو تمیک نقصان پانی۔ اللہ تعالیٰ اس چھونہ تمیک کانہ نقصان فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ کیا زہ  
 میون پروردگار چھو بے نیاز لو کن ہندہ شکر گزاری نشہ۔ سو چھو کریم ناشکر می عطا کرہ وین تہ چھو عطا  
 کر ان سو۔ قَالَ نَكُرُوهُمَا وَعَرُّشَهَا نُنظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ کور  
 سلیمان علیہ السلامن تجویرہ اتھ تخلص تمسہس بدلاو صورت۔ اس کرو تمسزہ عقلہ امتحان۔ اس  
 وچھو تمس بیواوتھ پئن تخت پرزہ ناو بس کن۔ کہنہ سوچھہ تمو لو کو آندرہ یکن نہ کانہ اتھ وقاہ چھہ یوان

عَرَشِكَ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ  
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط  
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۲۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ط  
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ط قَالَ إِنَّهُ

بے عقلی سبب۔ فلما جاءت قيل اهلکذا عرشک تو پتہ یلہ سو بلقیس آیہ۔ ونہ آس بیٹھوی  
 چھا چون تحت قالت کائنہ هو دوہن زن نہ سوی ہتھو وأوتینا العلم من قبلھا و کنا مسلمین  
 بیہ دوہن اسہ اوس یہ معجزہ و ہجھنہ بروٹھی ٹھنڈہ پیغمبر آسک تصدیق سپد مت بیہ آس مطع و فرمانبردار  
 سپد مت۔ یلہ اسہ قاصدہ سندہ ذریعہ ٹھنڈ کمالات معلوم سپد مت آس۔ سیمہ معجز ج آس نہ چندان  
 ضرورت روز مشیہ معجزہ و ہجھنہ بروٹھ ٹھنڈ تصدیق کرن ہتھو دلالت کران تمسند کمال عقل و گاہ  
 جارس پیٹھ۔ تمی موکھ کور اللہ تعالیٰ ان پتہ تسند س گاہ جارس تا سیدیہ فرمانہ سیت کہ و صدھا  
 ما کانت تعبد من دون اللہ سیمہ آسہا ایمان اونمت۔ مگر سو آس پتھ رٹھو ایمان انہ نشہ تمو  
 چیز و سمن چیزن ہندہ پرستش کرنک خدا بس و رای عادت اوس سپد مت۔ سو عادت کیا زہ اوس  
 سپد مت انھا کانت من قوم کفرین کیا زہ سو آس کافر قومہ منزہ۔ تمہ پتہ یوٹھ سلیمان علیہ  
 السلامن کہ اس بلقیسہ ہا و اوس معجزہ نہ شان نبوت ہاونہ پتہ پنہ سلطنتک شان نہ۔ تا ایچہ ہتھہ سو  
 زانہہ دنیا ہمہ اعتبارہ پن پان زانہ بوڈ۔ چنانچہ تمو ہنوا کہ عظیم الشان شیشہ گراہ۔ ہتھہ پر ہتھہ طرفہ لاگنہ  
 آمت آس شیشہ شیشہ۔ تمہ کس صحنس منز اوس اکھ تلاواہ آمت بناونہ تھہ منز اوس آب صاف۔ بیہ  
 گاہہ تراونہ آمرہ۔ پیٹھ اوس ہتھہ تلاوس فرش ونہ آمت صاف و شفاف شیشہ ہند۔ ظاہرہ پاٹ آس نہ  
 تم شیشہ بو زے یوان۔ سو تلاو اوس آگنسن منز۔ سیمہ پیٹھ شیشہ مجلس منز اثر نہ خیطرہ ضرور پن اوس  
 یوان قیل لھا ادخلی الصرح فلما رأتہ اس بلقیسہ آونہ اثرہ سیمہ آگنہ منز ہتھہ کرس اندر۔  
 یوہے کرہ ما کر کہ ژہ پند پنہ قیام گاہہ خیطرہ۔ بس یلہ تمہ سو آگن و چھ اندر اثرت حسبتہ لجة

صَرَ مُسْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرُهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ  
 أَسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى  
 ثَمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِيحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ  
 يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۴﴾ قَالَ يُقَوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
 الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾

آجھہ کس تلاوس گوس خیالیہ باھجو دریاواتھ آگنسن منز وکشفنت عن ساقیہا نمی موکھہ کھارتمہ  
 ایزارنر گروزونشہ تھود۔ گروزہ تھاوین یعنی ہتھ پانھ آس منز وسنہ خیرہ کانہ تھاون چھو۔ قال  
 سلیمان علیہ السلام دوئس یلہ تمن نظر پیہ اتھ پیہ اناہ صرہ مسرد من قواریر ای بلقیس یہ چھو  
 سوزوی محل۔ آگن ہتھ چھو فرش کرنہ آمت شیشوسیت۔ تمہ ساتہ سہ معلوم بلقیسہ کہ یہ ہتھہ ذنیوی  
 عجایب چیزتہ تمہہ قسک سم نہ مہ از تام و ہتھمتی چھہ۔ چنانچہ تھمدس دس اندرسپز پرتھہ طریقہ  
 سلیمان علیہ السلام سز پوروقعت تہ عظمت پیدہ قالت رب انی ظلمت نفسی تمہ ساتہ دوسپ تمہ  
 پروردگار مہ کور ظلم پان پانس کھرہ تہ شر کہ سیت از تام و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین  
 از چھس یوسلمان سپدان۔ ایمان اتان سلیمان علیہ السلام سیت یعنی تھمدہ طریقہ موجب چھس پٹھ  
 کران نس معبود بر چھس بس عالمین ہند رب چھو بیٹے گویہ بلقیس۔ چنانچہ سلیمان علیہ  
 السلام کور توتہ تمن سیت نکاح ولقد ارسلنا الی ثمود اناھم ضلیحان اعبدوا اللہ پز پانہ یہ  
 سوز اسہ قوم ثمودس کن یوی تھمد صالح علیہ السلام یوسے پیغام ہتھہ کہ شرک تراوت کھرو تھہ عبادت  
 معبود بر حقتہ سز۔ تمن پزہ ہاساری انہ من تم ایمان فاذا هم فریقین یختصمون ہس سپزہ تم زہ  
 جاثربا ایمان تہ کافر تھے آس پانہ وان ہرہ ہرہ تہ قضیہ کران۔ تھمد قضیہ یلہ ووت صالح علیہ السلام  
 نعتہ تمودیت فیصلہ با ایمان ہندہ حقہ۔ کافر لگ ونہ سمہ عذابک نیم تھہ اسہ کران چھوہ سوعذاب  
 اوجہد قال یقوم لہم تستعجلون بالسئیة قبل الحسنة تمودوپیک ای لوکو تھہ کیازہ چھوہ توبہ

قَالُوا الظَّالِمِينَ يَا بَنِي آدَمَ مَن مَّعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ  
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ ﴿۴۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ لَمَنبِتَتُهُ وَ  
 أَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۴۹﴾

کرنے سے ایمان آئے۔ بروٹھ لیس رُت چیزاں جھٹھو، عذاب ڈھانڈان۔ لیس پیچھ چیزاں جھٹھو۔ توہہ پڑہ ہاکہ  
 عذابک و عید بوزت ایمان اُنن تہ پڑھہ گرن۔ تھہ برعکس جھوہ تہہ عذابہ کوی درخواست کران۔ یہ  
 گو سیٹھاہ بے ہر والاگن۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اتھہ بدل کونہ جھوہ تہہ اللہ تعالیٰ  
 اس گھرہ ہجھہ مغفرت منگان دیو توہہ پیٹھہ رحم ایہہ کرنہ۔ عذابہ ہجھہ ایہہ ہو جھوٹا تھاوہہ قَالُوا الظَّالِمِينَ  
 وَيَمَنُ مَعَكَ تھو ڈوپ ہس اس جھت تہہ یہہ تم تہہ سیت جھہ پھیل زانان کیا زہہ پٹھہ توہہ یہہ  
 نو ذہب کوڈوہ، تھنزیہ نو جماعت پیدہ سہز پٹھہ سہز قومس منز بے اتھاقی۔ نا اتھاقی ہنزہ سمہ خرابیہ  
 جھہ تمہہ سہزہ سارے ظاہر۔ لہذا جھوہ توہی تم خرائین ہندہ ذمہ دار قَالِ صَاحِبِ السَّلَامِ  
 فَرَمَوْكَ طَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تھہہہ نحو سگ سبب جھو اللہ تعالیٰ اس معلوم۔ تھنزیہ کھر چہ نہ شرکہ کامہ  
 جھہ اللہ تعالیٰ اس معلوم۔ سمہ تخلیہ جھہ یعنی کاین ہندہ شامتہ توہہ واتان۔ چنانچہ سنوی نا اتھاقی جھہ  
 پیچھہ نہ مذموم یوسہ ہزس تہ حفس خلاف کرنہ سیت سپدہ۔ لہذا سپدہ نہ امیک الزام با ایمان پوٹھہ بلکہ جھو  
 امیک الزام کافرن۔ ونہ کوت واتوہہ تہہ۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْتَنُونَ بلکہ جھوہ تہہ تم لوک تم امہ کھرہ  
 سببہ عذابس گرفتارین کرنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ تھہہہ پٹھ  
 آس اتھہ شہرس اندر کافرن ہنز کثرت۔ لیکن تھہہہ سر غنہ آس اتھہ شہرس اندر نو جماژ سمہ ملکس  
 منز تباہی کران آسہ۔ جھہہہ قسمہ سنبھالان آسہ نہ۔ بلکہ آس فسادی فسادی کران۔ چنانچہ اکہ پھر کوزکھ  
 یہ فساد کرک ارادہ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ ونہہ لگ پانہ وان کہ تہہہ ساری کھر و قسم خدایہ سُنَد تھہہہ پیٹھہ  
 کہ لَمَنبِتَتُهُ وَ أَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ آس گھوہرات میت تو پتہ گرو جملہ صاحب

وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَانظُرْ كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۚ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿۵۲﴾ فَمَا تَلَكَ  
 بِيَوْمِهِمْ خَاوِيَةٌ ۚ بَمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۳﴾  
 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۴﴾ وَلَوْ طَآ اذْ قَالَ  
 لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكُمْ

صمیس پیٹھ۔ تھ اندر مارون سو بیہ تھند اہل و عیال بیہ تھنز ساری جماعت۔ تمہ پتہ ہر گاہ تحقیق تو بت  
 آئیہ اُس و نو، تمہ س و لیس تہ تھندین وارثن، اُس آس نہ شامل اُس تہ اسدہ عیالہ کس مار اُس اندر  
 وَاِنَّا لَصَادِقُونَ سیت و نو اُس چھہ واقعی پوزونہ ون۔ اتھ پیٹھ آسہ نہ اسہ اختلاف موعک کا نہ گواہہ۔  
 معاملہ دیہ بتہ تھے۔ تو پتہ درای تم کہ شبہ یہ کوم کرنہ خیطرہ و مکر و امکر و امکرنا مکرنا و ہم لا یشعرون  
 تم آس پنہ جاہی امہ قسمک تدبیر کران۔ اُس تہ آس پنہ جاہی تھندہ گالنگ تدبیر کران۔ تمن روز نہ تج  
 خبری۔ سو گواہی کہ تم بلہ یہ کوم کرنہ خیطرہ پگان آس کہہ کو بہ پیٹھ گواکھ بوڈ پلاہ ڈلہ لہے پیو سیو  
 دینی پیٹھ۔ تھ تل گھو ہتھہ مود ساری۔ فَا نْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اُس وچہ ژہ ای وچھونہ کہ  
 تھندین تدبیرن ہند انجام کیاہ پد۔ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ سو گو مئی زہ اسہ گال تمہ تھند قوم  
 سو زوی امہ علاوہ آسمانی عذابہ سیت فَمَا تَلَكَ بِيَوْمِهِمْ خَاوِيَةٌ کیا چھہ گرہ تھند دیہ بیٹھمت، ویران گمت  
 بِمَا ظَلَمُوا تھندہ ظلمہ یعنی کفر تہ شرک کہ بچہ سبہ۔ چنانچہ منک لوکھ چھہ شام گڑھ چھہ و تہ اندر تمہ  
 جاہی وچھان اِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پتر پاٹ اتھ منز چھہ ہڈ حیرت زانہ و نین لوکن ہندہ  
 خیطرہ و اَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بیہ دیت اسہ نجات تمن لوکن سمو ایمان اُون بیہ آس  
 خدا اُس کھو ژان۔ پتھ روزان شرک و کفر ہ نشہ۔ تمہ قتلہ نشہ تہ تمیک تمو مشورہ کریوہ۔ بیہ امہ قہری  
 عذابہ نشہ تہ۔ وَا لَوْ طَا بیہ سو زاسہ لوط علیہ السلام پنہ اُس قومس ن۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ  
 الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ بلہ تمود و پ پنہ اُس قومس کہ کیاہ تھہ ہچھوہ یہ بچھ کام کران۔ حال بچہ

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ  
لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  
إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا  
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ  
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

نہہ جھوہ وچجان یہ کہوہ پیچہ کام ہجھہ۔ ایتکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء کیاہ نہہہ  
جھوہ مردن نعمہ یوان بن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ تراوت تسمہ تمی خیطرہ ہجھہ پیدہ کرنہ  
آمرہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ جھوہ نہہہ قومہ جاہل۔ خبری جھوہ نہ امیک نتیجہ کیاہ نہہہ  
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا پس اوس نہ تمن لوکن ہند جواب کینہہ تہ مگر ای زہ ڈوپ تمویانہ  
وإن کمہ أَخْرِجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ کڈیوں لوط علیہ السلامہ سڈائل و عیال  
لوط علیہ السلام ہیتہ پنہہ شہرہ منزہ کیاہہ تم ہجھہ پانس شانت زانان۔ یلہ اوت پیٹہ کام واژاسہ کورتہہ  
تومس پیٹہ عذاب نازل فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ہس ڈیت اسہ نجات  
لوط علیہ السلامس ہیہ تمسیرس عیالس تہنزہ ہ آس زنانہ ورا ی یوسہ اسہ ازہ مقرر کمر مژ آس ات  
روزت عذابس گرفتار سیدہ و نیو آندرہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا توپتہ تر وواسہ تمن پیٹہ عجیب قسمگ  
زوداہ ہتہ منزکنہ اسہ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ہس اوس سیٹھہ پیچہ تمن ہیم کرنہ آمتین ہند سوزود قُلِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ دپو حمد نہہہ خدا ہس نافرمانس ہس ہلاک گرو ہنس پیٹہ۔  
ہیہ یوین سلامتی ہمیشہ خدایہ سندین تمن بدن پیٹہ سم تم ژار تہ برگزیدہ کمرن اللَّهُ خَيْرٌ  
مَّا يَشْرِكُونَ کیا خدا معبود برحق۔ تمسیر احسانات بیان کرنہ آی چھا بہتر، کنہ تم معبودان باطل۔  
تمن تم خدایہ سند شریک ہجھہ ٹھر او ان۔ امیک تفصیل جھوہ ہتہ پانچہ کہ ای لو کو نہہہ کمر تو خدایہ سندین





وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ  
 قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾ ۚ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْ  
 بَحْرِ ۗ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعَلَّى اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۳﴾ ۚ أَمَّنْ يَبْدَأُ  
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قُلُّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۴﴾

المُضْطَّرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۗ كِنْدَةُ سُؤذَاتِ پَاك ۛ ھُو ۛ مَہْتَر ۛ نِس ۛ بَیقرار تہ لاچارہ سندس مچھ نَس  
 اجابت ۛ ھُو ۛ کران۔ ۛ یلہ سُوئَس ۛ مَنگان ۛ ھُو۔ ۛ بیہ نِس مُصِیبت تہ سختی ۛ ھُو ۛ دُور ۛ کران ۛ وَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ  
 الْأَرْضِ ۛ بیہ نِس تُوہہ ۛ ھُو ۛ کران ۛ ز مینس اندر صاحب تصرف تہ جائشین ۛ عَالِه ۛ مَع ۛ اللہ ۛ بیہ بُوڑت ۛ ونو  
 تہہ اللہ تعالیٰ اَس شریک عبادت آسَس لایق ۛ ھَما بیہ ۛ کانہ معبود (ہرگز نہ) ۛ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ  
 مگر سیٹھاہ کم ۛ ھُو ۛ تُوہہ امیک خیال تہ سمہ تھہ یاد تھاوان۔ ۛ وَاَنْ بُوڑو تھہہ بے کمالات تو پتہ ۛ ونو تہم  
 معبودان باطل ۛ ھَما عبادتس سزوار ۛ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۛ كِنْدَةُ سُؤذَاتِ پَاك ۛ ھُو  
 سزوار نِس تُوہہ ۛ و تھہ ۛ ھُو ۛ ہاوان ۛ خشکی تہ تری ہنزن گٹن اندر ۛ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدَيْ  
 رَحْمَتِهِ ۛ بیہ نِس سوزان ۛ ھُو ۛ واوس پتہہ رحمتہ یعنی باران رحمتہ برو تھہ خوشخبری ہتھہ۔ ۛ بیہ بُوڑت ۛ ونو  
 عَالِه ۛ مَع ۛ اللہ ۛ باوجود آس ہیکھا تَس سیت کانہ معبوداہ، شریک ہنت عبادتس اندر۔ ۛ ہرگز نہ۔ ۛ تَعَلَّى  
 اللہ ۛ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۛ بلکہ ۛ ھُو ۛ اللہ تعالیٰ تھہہہ شریکہ ۛ نِسہ سیٹھاہ بالا تہ ھُو۔ ۛ تَس معبود برحقہ سند بے  
 کمالات بُوڑت ۛ ونو تہ سم معبودان باطل چھہ بہتر۔ ۛ اَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۛ كِنْدَةُ سُؤذَاتِ  
 پَاك ۛ ھُو ۛ بہتر سم ساری مخلوقات گنُوڈہ پیدہ کمر تو پتہ کر کیکھ سُوٰی دُوبارہ بیہ پیدہ ۛ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۛ بیہ نِس تُوہہہ رزق ۛ ھُو ۛ عطا کران آسماہہ طرفہ رُود تراوتھہ تہ زیمچہ طرفہ غلہ تہ کل  
 کھارت۔ ۛ بیہ بُوڑت ۛ ونو ۛ عَالِه ۛ مَع ۛ اللہ ۛ کیاہ معبود برحقس شریک عبادت آسَس لایق چھابہہ کانہ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۶۵﴾ بَلِ الْأَرْكَانَ عَلَيْهِمْ فِي  
 الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿۶۶﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَايِبًا  
 لِّمُخْرَجُونَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَالْآبَاءُ وَنَا مِنْ

معبودا۔ ہر گاہ تم یہ یوزت و سن کہ تہند معبودتہ چھہ مستحق عبادت قُلْ مَا تَأْتُوا بِهِ حَتَّىٰ يُدْعَىٰ كِتَابُ اللَّهِ فَيُنزَّلَ فِي حُجْرٍ مُّسْتَوِيَةٍ تَوَجَّهَ فِيهَا الْقَائِلُونَ ۚ فَيَأْتِيهِمْ مِنْهَا السَّمَوَاتُ فَغُلَّظَ ۚ فَيُخْرِجُهُمْ مِنْهَا مُنْقَلِبًا يُغْنِيهِمْ ۚ فَيَرْجِعُهُمْ فِيهَا مُغْدِبًا ۚ إِنَّ لَهُمْ فِيهَا عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۶۵﴾  
 صِدْقِينَ تمہ فرما یو کہ۔ یار رسول اللہ انو تہ پیش کمر و سہو دلیل چھوے تہہ پوزونہ ون۔ تم کو کہ  
 قیامتک وقت معین پاٹ نہ وننہ سبہ قیامتس انکار کران چھہ تمن و نو تہہ جواب کہ تہندیہ ون چھو غلط  
 کیا زہیہ قیامتک مسئلہ چھو غیبیہ چو کتھو آندرہ۔ تہ تم مخلوقات آسمان وز مینس منز چھہ، تمو منزہ چھونہ  
 کانہہ تہ غیبیہ چہ کتھہ زانان خدائس و رای۔ ہر گاہ مہ نشہ تہ توہہ نشہ قیامتہ کہ وقوعک علم پو شیدہ رودیہ کیاہ  
 کتھہ چھہ۔ تمام عالمس منز تم مخلوق چھہ تمن نشہ چھہ امہ و رای تہ بیہ کاژا کتھہ پو شیدہ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تُوہ فرما یو کہ یار رسول اللہ آسمان تہ زمین منز تم چھہ تمو آندرہ زلنہ نہ کانہہ  
 اکھاہ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ غیب خدائس و رای وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بیہ چھنہ لو کن کینہہ تہ  
 خبر کہ کرین تم بیہ زندہ کرنہ تہ قبر و منزہ ٹکنہ بَلِ الْأَرْكَانَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بلکہ سپد ختم تہند  
 علم آخرتس متعلق توپتہ وات نہ تم ٹنچس پیٹھ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا چنانچہ تم چھہ ونہ تمکہ چھہ  
 شمعہ سی منز بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ چھہ تم تمکہ حقہ ان تہ نابینا۔ کیا زہ تہتھہ پاٹھ انس چھنہ و تھہ  
 در نیٹھی یوان تمسند مقصدس و اتن چھو د شوار، تہتھہ پاٹھ واتن نہ تم تہ مقصدس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَايِبًا لِّمُخْرَجُونَ بیہ دوپ تجہ کن تمولو کو تموا انکار کو قیامتس کیاہ اس تہ  
 بیہ سان مال بدب، یلہ اس میزہ سیت میزہ آسوگمت، توپتہ بیوہ اس قبر و منزہ بیہ کڈنہ لَقَدْ وَعَدْنَا  
 هَذَا نَحْنُ وَالْآبَاءُ وَنَا مِنْ قَبْلُ ہنر پاٹ اسہ سیت بیہ سائین مالین بد بن سیت چھہ تہتھہ وعدہ برو تھہ

قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ قُلْ سِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٩﴾  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٤٠﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ قُلْ  
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٤٢﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

تہ کرنے آمت، کیا زہ ساری انبیاء آئی ہوئے وعدہ کران مگر نہ سید از تام سو وعدہ پورہ، نہ وون کانسہ کہ  
 کر آسہ سو قیامت۔ امہ اندرہ چھو معلوم سپدان کہ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سمہ چھہ بے  
 سزہ تھہ سمہ برو تھمین نشہ نقل کرنے یوان چھہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ بلہ قیامتہ کس ایمکاس پیٹھ عقلی دلیلہ تہ تمہہ کس وقوعس پیٹھ نقلی دلیلہ وارہین  
 جائن تہہ آدہ بوزانانہ توہہ پزہ نہ انکار کرون۔ ورنہ بہہ توہہ سوی حال نُس بین مُکرن۔ بنیومت چھو۔ ہر گاہ  
 تمہن تھہ اندر شک چھو تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ ای مُکرو، تہہ پھیر تو مُکَرِ قَوْمِن ہندین مُکرن اندر تو پتہ  
 و چھو تمہن مُکرن نافرمان ہند انجام کیاہ چھو سُدُمت، تم تھہ پاٹ چھہ عذابو سیت گالہ آمت ہر گاہ  
 باوجود سمو موثر لیفحتو تہہ و عظو تم توتہ تہندس مخالفتس پیٹھ کمر گنڈ تھی روزن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تہہ مہ حض ہیو تہند غم یارسول اللہ بیہ یہہ شرارتہہ کامہ تم کران  
 چھہ تمو سیت مہ سپدن تہند دل مبارک تنگ۔ بین انبیاء ان سیت تہ چھو یوہے معاملہ سُدُمت  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ تم مُکَرِ مُسلمان ونان، کتہ چھو سو عذاب  
 سمیک وعدہ تھانہ یوان چھو، ہر گاہ تہہ پزہ چھوہ۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
 تَسْتَعْجِلُونَ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ، دیوہ جلدی وائہ توہہ نش تمہہ عذابک اکھ حصہ سمہہ جلد وائتک  
 تہہ مطالبہ کران چھوہ و نیک تان نُس تھہ منز تاخیر سُدُمتیک وجہ چھو کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

يَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٣﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٧﴾

التاس ولكن اكثرهم لا يشكرون پنزا پات تهنه پروردگار چھو لو کن ہمدہ چھہ فضلہ وول۔ مگر اکثر لوک چھہ شکر گذاری کران۔ عذابہ کس تاخیرس تہ نمہلتس چھہ غنیمت زانان۔ اتھہ نمہلتہ کس وقس شوبہ ہاتمن حق ژھانڈن، حق قبول کرن، تہ سپدہ ہاباعث تهنہہ نجات ابدیک۔ تھہ بدل چھہ انکار کران تہ عذابک معاملہ ٹھٹھہ زابت تھہ منز جلدی ژھانڈان۔ لہذا منہ زان تم کہہ یکن تھن پیٹھہ کیا پیہ نہ تم ستر ہی دنہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ پنزا پات تهنہہ پروردگار چھو پور زانان تہ سوزوی پیہ تم لوک پنہ نین سین تہ ولن منز کھیت تھوان چھہ، پیہ تہ سوزوی پیہ نمنر وان چھہ۔ اللہ تعالیٰ اس کج خبر پور آسجہ علاوہ چھو ظاہری طور تہ باضابطہ دفتران اندر درج یوان کرنہ۔ تهنزن کامین ہنزی چھہ کینہہ خصوصیت وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُّبِينٍ بلکہ چھونہ کانہہ پوشیدہ چیزہ آسمان تہ زمین منز، نس نہ درج چھو نہ کتابہ اندر یعنی لوح محفوظ اندر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پنزا پات پیہ قرآن مجید چھو فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پیٹھہ وار یکن تم چیزن منز تم اندر تم اختلاف کران چھہ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک قرآن مجید چھو ہایمان ہمدہ خیطرہ خاص ہدایت پیہ خاص رحمت۔ ہدایت باعتبار طاعات و اعمال۔ رحمت باعتبار ثمرات و نتائج اِتِّبَ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یلہ نہ تمومون عقلی تہ شرعی

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٩﴾  
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا  
 وَكُوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ  
 إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ وَ  
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

فیصلہ، بیشک وؤن کرہ تہندہ پروردگار عملی فیصلہ تمن اختلاف کرہ و نین منز پنہنہ لحمہ سیت قیامتک  
 دوہ۔ تہی دوہہ سپدہ تمن معلوم ہوز کیاہ اوس تہ اپز کیاہ اوس۔ سو پروردگار جھو غالب تہ زبردست۔  
 سوزی زانہ ون۔ تس نش جھونہ پوشیدہ کہنی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین بس  
 کمر و تہہ توکل تمس معبود برحقس پیٹھ۔ بیشک تہہ جھوہ نئس پزس پیٹھ۔ پز زیارین جھو اللہ تعالیٰ مدد تہ  
 یاری کران إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَكُوا مُدْبِرِينَ بیشک تہہ بیکیو کہ  
 نہ بوزہ ناوتھ مردہ، بیہ بیکیو کہ نہ بوزہ ناوت ہن آلو زندہ خصوصاً یلہ تم توہہ کن تھر کمر تہ لان آسن  
 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ بیہ بیکیو نہ تہہ انین تہ نایمناع ان عمرانی نعرہ بچاوت، و تھ  
 ہاوتھ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ تہہ بیکیو کہ نہ بوزہ ناوت مگر تہ تم  
 سائین آیتن پڑھ تہ یقین کران آسن۔ تہی لوک چھہ سان حکم مانہ ون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ  
 عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ بیہ یلہ وعدہ قیامت لوکن پیٹھ پور سپدہ ون آسہ۔ یعنی  
 قیامتک وقت یلہ نزدیک سپدہ اس کڈون تہندہ خیطرہ عجیب جانور اھ کہ زمینہ منزہ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ سؤی جانور کرہ لوکن سیت تھہ۔ دپچھ کافر لوک جھہہ سائین آیتن یقین  
 کران خصوصاً تمن آیتن سم قیاس متعلق چھہ۔ وؤن واثر قیامت نزدیک۔ چنانچہ اھ علامت اوس  
 تمیک میون ظاہر سپدن۔ چنانچہ اتھ کرن ساری تصدیق۔ پیغیر آسجھ فرماوان، تمن آس تکذیب

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ  
 بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾  
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾  
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْآيَةَ لِيَسْكَنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ

کران۔ دینتہ الارض یلہ نیرہ اہس کرن تصدیق۔ مگر اہمہ سائہ تصدیق کرنس آسہ نہ کانہ اعتبار و یومہ  
 نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ بیہ پاوونہہ ژئیس لوکن سو  
 دوہ یمہ دوہہ آس پریتھہ ائمہ منزہ آکھ آکھ جماعتھہا جمع کرون تمین لوکن ہنزہم سائین آیاتن لہز زانان  
 آس۔ تو پتہ ین تم الگ الگ تھاونہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا  
 أَمَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تالینکہ یلہ تم خدائس برونھہ کن واتن سو پڈ ژھیک کیاہ توہہ زانہ دوکھ میان  
 آیاتن اپز۔ حالانکہ توہہ اوسوہ نہ تمین آیاتن ہند پور علم کینہہ تہ۔ تمین کن کوروہ نہ توہہ تدبیر۔ تہ فخر کرنہ  
 ورا ی کوروہ توہہ انکار تہ تکذیب تمین آیاتن بلکہ پاویو توہہ ژئیس ائمہ علاوہ کہ کہہ کہہ کامہ کوروہ توہہ۔  
 مثلاً انبیاءن تہ بایمان آسوہ دوران تکلیف۔ بیہ آسوہ مفرہ کین عقائدن تہ اعمالن منز بیتلا۔ نتہ ونوتوہہ  
 کیاہ آسوہ کران خدائس تہ جہدین آیاتن انکار کرنہ ورا ی وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع سپڈ  
 تمین پیٹھہ عذابک حکم تہدہہ ظلمہ مٹوکہہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ لہس ہمکن نہ تم تھہ کمرت۔ مرنہ پتہ بیہ  
 زندہ سپدنہ پتہ جھہ نفلی دلیلن ہدہہ علاوہ عقلی دلیلہ تہ مثلاً أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْآيَةَ لِيَسْكَنُوا فِيهِ  
 وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیاہ وچھان چھہا تم سائہ قدر تک نوڈ نشانہ کہہ  
 بیشک آسہ کمر رات گھٹ یٹھہ لوکھ تھہ منز آرام کرن۔ بیہ کمر آسہ دوہ روشن یٹھہ تھہ منز لوک کوم گھٹ  
 کرن راتس منز آرام کرن تہ شوگلن۔ اتھہ چھو تشبہہ موتس سیت۔ دوہلہ وٹھن اورہ پور کرنن اتھہ

فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ ۝۸۷ وَتَرَى الْجِبَالَ  
 تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ طَنَّ اللَّهُ  
 الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝۸۸

چھو تشبیہ مر نہ پتہ بہ زندہ سپدس سبت بیشک باایمان ہندہ خیرہ ہتھ اتھ منزجہ بحر دلیلہ و یومہ  
 یُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہ پاور لوکن  
 تریس تمہ دہک ہیبت سمہ دہبہ پھو کھ دنہ پیہ پو غس منز تو پتہ گارن تہ باہرن۔ یس تہ ہوش۔ روزہ  
 نہ تم سارنی تم آسمان تہ زمین اندر ہتھ۔ ملا ہو تہ انسانا آندرہ مگر نہ تم سین ہند اللہ تعالیٰ یشہ۔ تم  
 روزن پتہ ڈنجہ ہیمن تہ حواکن اندر۔ حدیث شریف منز چھو، تم گئے جبریل امین میکائیل، اسرافیل  
 تہ عزرائیل بیہ حاملان عرش و کُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ تو پتہ ین ساری خدا یس برو تھکن عاجز تہ ذلیل  
 سپد ت۔ دنیاس منز چھو دستور کہ کھوژنہ وزہ چھو شخص زلان مگر تمہ دہبہ ہیجہ نہ کانہ اکھاہ تہ جاہ  
 ثلث۔ چنانچہ تم زندہ آسن تم مرن، تم موت آسن تم سپدن بیہوش یعنی تہند روح۔ یہ حال سپدہ  
 جاندارن۔ بے جان چیزن ہند حال چھو فرماوان اللہ تعالیٰ امہ پتہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا  
 وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ یہ چھو کہ وچھان ژہ ای وچھہ ونہ گمان چھو کہ کران کہ تم کوہ چھہ آسی  
 جاہ بند۔ تھہ پاٹھ تہ اتھہ حالسی پیٹھ ماروزن ہمیشہ مگر تحقیقس منز آسن تمہ دہبہ تم کوہ ابرک پاٹھ ادرہ  
 یورپکان۔ سترک پاٹھ آسن دوندہ امت صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتھ پیٹھ گڑھہ نہ کانہ  
 تعجب کرن۔ کیا زہ یہ چھہ خدایہ سنز کام تمیم ساری چیز مضبوط تہ محکم کمر۔ ابتداءس منز آسن نہ کھ  
 چیزس منز مضبوطی۔ سو چیزیلہ تم قدر تہ وال پیدہ کور ادرہ کرس مضبوطی عطا۔ یم پرودگارن سو چیز  
 پیدہ کور تو پتہ وژس مضبوطی سو پیجہ کس نشہ سو مضبوطی زائل کمر تہ بلکہ سو چیز ی یکدم ختم کمر تھ  
 إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ یہ چھہ یقین تھ کہ اللہ تعالیٰ اس چھہ تہنر سارنی کامین ہنز پور خبر۔



مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَّدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ مِمَّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ نِس اڪھا ٻيٽي تَس رُشِي نِيڪي يعني ايمان ٻيٽه تسديه خيٽه هجھو تمهه خوته زت بدلہ۔ يعني ايمان انه نس ٻيٽه سمه مزوره بند سو مستحق اوس تمهه مزوره خوته بهتر مزورته بدلہ ليه نس عطا ڪرندہ ٻيٽه آسن تم تمهه دوہڪه خوفه ته پریشاني نشه آس اندر وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ٻيٽه سم لوڪ خدا نِس رُشِي بدی ٻيٽه يعني ڪفر ته شرڪ ٻيٽه ين ٻيٽه ڪن تراوند نارس اندر۔ ونه اڪھ هل تجزون الاما ڪنتم تعملون توبه هجھون بدلہ يوان دنه مگر تمنی ڪا مين هند سمه ٺهه ڪران آسوه دنياس اندر۔ بے وجهه هجھون ڪانه عذاب يوان ڪرندہ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ عَبَّدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ٺهه فرمايو ڪھ حض يارسول اللہ مهه آوند ڪانه ڪهما ڪرندہ سمه ڪمه وراي ڪه يو ڪره عبادت سمه شهره ڪس مالڪه سنز سم اتھ شرس عزت ديت۔ گو ٽھس نابوتهنزي يا ٻاٺ عبادت ڪرڻ۔ تمس خدليه سئد هجھو پر ٻيٽه جيزاه۔ وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٻيٽه آوميه ڪم ڪرندہ ڪو آسه فرمانبر دار واندره وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ٻيٽه آوميه ٻيٽه ڪم ڪرندہ ڪه بو بوزه ناووهه ٺهه لوڪ قرآن مجيد يعني بو ڪرووه توبهه تبليغ احڪام نِس نبوتس لازم هجھو مِمَّنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ نِس نِس قرآن مجيد يو زت ميانه تبليغه سميت دته ٻيٽه ٻيٽه سو ٻيٽه پنہ ني پانه ڪه فايده خيٽه۔ يعني نس هجھو تميك فائده پانس۔ ٻيٽه نِس وتہ رُشِي ٺله نس هجھو تميك ضرر پانس۔ ٺهه فرمايو ڪھ يو هجھوس نه مگر نيم ڪره ونيواندره۔ اڪھ نيم ڪره وناه، يعني ڪم بوزه ناوه ونيو ٻيٽه واندره وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ٻيٽه دوساري تعريف شو بن خدا نِس

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

یُوت۔ مہ یہ کنیوہاہ منہ اوس تہ وول مہ مجھ۔ اللہ تعالیٰ ہاوہ توہہ پن نشانہ پانے یعنی قیامتک واقعات  
نہس ترہ توہہ پائے فخرہ قصہ کیاہ چھو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ ہرگز ٹھہد پروردگار بے  
خبر تمکو کامیونشہ یمہ ٹہہ کران چھوہ۔ لہذاویہ سوبا ایمان پنہ نین عملن ہند رت جزاء۔ کافرن تہ مکران  
دیہ بچھ کامین ہند پور سزا۔



## سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طسّم ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ  
 مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ  
 عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً  
 مِنْهُمْ يُدَبِّرِ الْأَمْرَ ④ وَتَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ  
 الْمُفْسِدِينَ ⑤ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا

طسّم اسم چھہ حروف مقطعات۔ سمن ہند معنی زائد پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اسم مضامین  
 اسم توبہ پیٹھ بطریق وحی چھہ سوزنہ یوان، اسم چھہ سمر کاتبہ ہند آیات۔ سمک معانی بالکل واضح تہ  
 صاف چھہ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سمو آیا تو منزہ ہتھ موقعس  
 پیٹھ آس موسیٰ علیہ السلام تہ فرعون سہ قصہ آندرہ اکھ حصہ توبہ پیٹھ ہر ان چھہ۔ پزپاٹ تمن لوکن ہند  
 نفعہ خیلرہ اسم پڑھ کرہ ون چھہ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بیشک فرعون اوس کوپ لودمت مصرہ  
 کس سرز مینس منز وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا بیہ آرن تہ کیمن لوکن مختلف قسم کمر مت۔ قبل آرن باعزت  
 تھاومت۔ سبطی یعنی بنی اسرائیل آرن بے عزت کمر مت۔ سمیک تفصیل بیہ بیان کرنہ بروئٹھ  
 یَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ کمزور تہ پست اوس زانان تمواندر اکس جماعتس یعنی بنی اسرائیل ہتھ  
 پاٹ کہ یُدَبِّرِ الْأَمْرَ وَتَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ کھش اوس کرہ ناوان جہندین پنچون اسم لوی زیوان آس  
 مارہوا تلن ہندہ آتھ۔ زندہ اوس تھاوان تہنزن زانن، یعنی کورین ہتھ تمن آتھہ خدمت کرہ ناوان۔ بیہ  
 اوسکھ نہ کورین ہند خوف تہ خطرہ تہ کہئی۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بیشک اوس سوتاہی کرہ ونبو  
 آندرہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا سون ارادہ اوس دینی ونبوی احسان کرن تمن لوکن پیٹھ اسْتَضَعُوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝  
 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۖ ۝<sup>۶</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَرْضِعِيهِ ۖ فَاذْخِفْتِ عَلَيْهِ فَإِنِّي فِي الْيَمِينِ وَلَا تَخَافِي ۖ وَلَا  
 تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَأَوُوهَ الْيَتِيمَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝  
 فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم کزور زانند یوان آس اتھ ملکس یعنی سر زمین مصرس منز بیہ بناو دکھ آس تم دینک پیشوا۔ بیہ کرو دکھ تھے دنیا اس اندر سلطنتک وارث وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بیہ دمو اس موقعہ من اتھ ملکس اندر حکومت کرنک وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ بیہ ہاؤوا اس فرعونس تہ ہا اس بیہ تمزہ لشکرہ بنی اسرائیلن ہندہ اتھ سو چیز تھ تم کھوژان آس۔ تفصیل امیک چھویہ کہ یلہ موسیٰ علیہ السلام اتھ خطرناک زمانس منز پیدہ سہدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسہ ترووالہام موسیٰ علیہ السلامہ سہدس والدس کہ تہ چاون بیہ فرزندود۔ ایس کالس تہ بیہ فرزند پو شیدہ بیہ کن تھاوت فَاذْخِفْتِ عَلَيْهِ فَإِنِّي فِي الْيَمِينِ ادہ یلہ تہ کھوژک تمسندہ تھہ کنہ تکلیف تہ تروان تہ سو دریای نیلس اندر صندوقس منز تھاوت وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي بیہ تھہ تہ کھوژک تمسندس پھٹس یا کانہ غم برکھ تمزہ جدائی ہند إِنَّا رَأَوُوهَ الْيَتِيمَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آس واتاودن سو فرزندواہلس تہ نشہ۔ بیہ کرون آس سو پنہ نس ونس بیٹھ پیغمبر واندرہ۔ تو پتہ روز سو تھن دودودوان ادہ یلہ اندیشہ سہد کہ کہ راز سہدہ فاش تو پتہ تھاو کہ اس صندوقس منز۔ اتی ترو دکھ دریای نیلس منز خدایہ سند ناوہتھ۔ امہ دریای نیلگ اکھ شاخ اوس فرعونہ سند یوشاہی علا قومنز پکان۔ بیہ صندوق ووت تپاری فرعونہ سندین علاقن اندر فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو پتہ روٹ بیہ صندوق فرعونہ سند یولو کو۔ گھر

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ  
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ  
 عَلَيَّ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾  
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوِينَ كَأَدَّتْ لِجَنبِئِي بِهِ  
 لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّىٰ قَلْبَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَقَالَتِ لِحُوتِهِ قُصِّيهٖ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ

وایوب بی بی آسیہ بن سہولتہ ہاموئی علیہ السلامس پو پھہ کہ قولہ موجب بیٹھ سپدہ موتین لوکن ہندہ خیطرہ دشمن بیہ  
 نمگ تہ پریشانی ہند باعث اِن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ پتر پات فرعون تہ ہامان  
 بیہ تہنز لشکر آس پنہ حقہ سخت غلطی کرہ ون۔ ہن دشمن رچھکھ پنہ کچھ کیتھ وَقَالَتِ امْرَأَتُ  
 فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ توپتہ وون فرعونہ سزہ آخینہ، آسین، فرعونس بیہ فرزند چھو میانین تہ  
 چائین اچھن ہند گاش۔ بیہ وچھنہ سمیت آسیہ سون دل بھولان لَا تَقْتُلُوهُ یہ متہ مارتون عَلَيَّ أَنْ  
 يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دیوہ بیہ آسہ بڈتھ فایدے واتا وہ۔ بلکہ بنا وون آس بیہ ہن  
 چو۔ کیا زہ آس چھہ لا ولد۔ تھن آس نہ اوہ ونہ چانچ خبری کینہہ کہ بیہ چھو سوئی فرزند سمہ سہہ اتھہ  
 فرعونہ سزہ سلطنت ختم سپدہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوِينَ بیار سپہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ والدہ  
 سہ دل سخت بیقرار۔ اِن كَادَتْ لِجَنبِئِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّىٰ قَلْبَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 قریب اوس کہ سہو کرہ ہا ظاہر ساری نشہ بیہ سو زوی حال، آسے تھسند دل گدت تھاوت مضبوط کرہ  
 ہو بیٹھ سو آسہ پتہ کینہہ کالا گاہ گزشتہ اطمینان تہ یقین کرہ و نیو آندرہ ہنہ۔ وَقَالَتِ لِحُوتِهِ قُصِّيهٖ  
 فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تمہہ پتہ ڈوپ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ والدن تہنزہ پینہ  
 حضرت کلھو مس ووتھ ژہ کر تھسند حال دریافت۔ توپتہ درایہ سو۔ واتان واتان واثر فرعونہ سہ گہرہ۔  
 تیتہ روز سو وچھان اہس وپرازی پات کہ تھن لوگ نہ پتھی زہ بیہ چھہ اہس چہ سزہ پینہ۔ وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِ

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَكُمْ نَصِاحُونَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳  
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نُجَزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۴ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

الْمَرَاضِعِ مِنْ قَبْلُ ۝۱۱ اُمّ اوس بياکه تدبير کورمت۔ اُمّ آسہ رجموہ برو نھی پتھ موسیٰ علیہ السلام س نے غیر دود ووه و نه زنانہ۔ تموروت نہ کانسہ زنانہ ہند دود۔ یہ حال وھتھت زون تمسزہ ہمشیران موقعہ غنیمت فقالت هل ادلکم علی اهل بیت ینکفلونہ لکم وھم لکم نصیحتون کیاہ بونودوہ توہمہ اکہ گرک پتہ۔ تم اس فرزندس ذمہ داری سان زہن۔ تم آسن آسند سیٹہاہ خیر خواہ۔ دوپ ہس جلد ہن گر تہ کنیوہاہ۔ سووژھہ تہ آن بہنز والدہ ماجدہ۔ تمونٹھوی پستان ہن تھندس آس منز ترو۔ تان ہیوت تمودود چون۔ تمہ دوپ بونھن یہ گرہ۔ تھت رچھن۔ تموکوزس تسلیم۔ فرددنہ الی اُمّہ کی تقرأ عینہا ولا تحزن ۝۱۲ اہس سوزاہہ و اہس موسیٰ علیہ السلام پنہ نس والدس نےہہ شہلن تہنزہ اھجہہ یہہ ہدن نہ تم فراقہ کس غم اس اندر بتلا ۝۱۳ ولتعلمن ان وعد اللہ حق و لکن اکثرہم لا یعلمون یہہ ہتھ سوزانہ کہ اللہ تعالیٰ سوندوہہ وھو حق تہ ہوز آسان۔ لیکن افسوس کہ واریاہ لوک یعنی کافر چھہ یہ کتھہ زنان۔ اتھ تھہ یقین کران و کتابلگہ اشدہ و استوی اتینہ حکما و علما توپتہ ملیہ موسیٰ علیہ السلام ووت پنہ طاقت و قوتیہ وانسہ یہہ ہد پورہ جوان۔ قوت جسمانی تہ قوت عقلی تھہ سپد محمل، عطا کوراسہ تمن گاہہ جار تہ علم۔ فہم سلیم۔ عقل مستقیم، نبوتہ برو نھہ و کذلک نجزی المحسنین اس چھہ نیکو کارن ہتھ پات رت بدلہ عطا کران۔ اُمّہ اندرہ سپد معلوم کہ فرعونہ سوند مشرب اوس نہ تمونٹہ وقتہ اختیار کورمت بلکہ آس تمہ نےہہ تقرأ۔ امی زمانک اھہ واقعاہ سپد کہ موسیٰ علیہ السلام آس اکہ دوہہ

أَهْلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ<sup>(۱۵)</sup> قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>(۱۶)</sup> قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْلَّجُورِ مِنَ<sup>(۱۷)</sup> فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا

شہرہ نیہر۔ تو پتہ یلہ وائس آئے و دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تو پتہ ژاے آتھ شہر س منز تھمہ وقتہ یلہ اتک لوکھ آس بے خبررات کیت شو تھ یا دپہرس قیلولہ کران فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ تو پتہ وجھہ تمواتھ شہر س اندرزن جوراہ ہر ہر کران هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اکھ اوس سمو منزہ تہندہ جماعتک یعنی نبی اسرا نیلو اندرہ بیاکھ اوس تہند یو دشمنو اندرہ یعنی فرعونہ سند یو متعلقو اندرہ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کس موگک مدد تم شخص کس تہنزہ برداری ہند اوس کس شخص پیٹھ کس تہند یو دشمنو اندرہ اوس۔ گوڈہ کرے ہس تموزبانی فہمائش۔ یلہ نہ تم کینہہ مون فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ کس لائے کس موسی علیہ السلام اکھ مکھالہ اتہ اتفا تاسپد سو ختم۔ یعنی سو مود تمی اکھ مکھالہ سیت۔ اگرچہ مارنکھ قصدہ لائے نہ تموسو مشقت بلکہ اوس غرض کس تہبہ کردن زہ سیتی سپد تہن امیک احساس۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دوکھ یہ گنہیہ شیطانہ سز کوم۔ یہ کورنہ مہ جان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بیشک سو جھوٹراہ کرہ و ان دُشْمَنِ انْسَانٍ سُد۔ تھہ پاٹھ جھو سو اناس غلطی منز تراوان۔ چنانچہ خدا کس کورکھ رَجُوعِ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ دوکھ ای میلہ پروردگارہ کو ظلم پان پان کس کر تھہ مغفرت ہس کرکھ تہ مغفرت إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ مغفرت کرہ و ان سیٹھاہ رحم کرہ و ان قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْلَّجُورِ مِنَ یہ دوکھ میانہ پروردگارہ چونکہ تھ کرت پتہ نعمت مہ عطا ہذا سپد نہ بوہرگز کانسہ

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ  
 لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ<sup>۱۸</sup> فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ  
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي  
 كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ<sup>۱۹</sup> وَجَاءَ

جُرم سُنْد مددگار۔ امہ واقفک سُد شہرس منز چرچہ۔ مگر یہ آس نہ کانسہ خبر کہہ یہ قتل کم ہتھو کورمت۔  
 صرف آس خبر اسرا نیلیس۔ سمسن حمایت موسیٰ علیہ السلام کر۔ راتس اوس موسیٰ علیہ السلام  
 اندیشہ سی اندر فاصبح فی المدینۃ خایفًا یترقب پگاہ صمسن ووتھ موسیٰ علیہ السلام آتھ شہرس اندر  
 خوف ووحشتہ کس حالس اندر تہ پیاران اوس خبر چھاوون کیاہ بنہ۔ **فَاذَ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ**  
**يَسْتَصْرِخُهُ** اتی آکھ بیہ سور امگ شخص نیس مدد منگان اوسکھ کر یکہ نادران مدہ خیطرہ **قَالَ لَهُ مُوسَى**  
**إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ** موسیٰ علیہ السلام فر موو تمس ژہ چھو کہ پنز پاٹ بالکل ویتہ نشہ ڈولمت۔ دوہے  
 ہتھو کہ ژہ لوکن سیت لڑایہ کران۔ موسیٰ علیہ السلام سُد قرایو سمیت معلوم کہ ہتھ از کس قضیس  
 منز بہ ہتھ صاف فرعون سندی طرفہ زیادتی **فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا** امہ  
 پتہ یلہ ارادہ کور تموتس شخصہ سہدہ رفنگ نیس سمن دوشون ہند دشمن اوس یعنی قبلی۔ اسرا نیلیس  
 گوگمان کہ زبانی کور حضرت موسیٰ ان مہ پیٹھ اظہار ناراضگی۔ وون مائل تمو عملی سزاو نہ خیطرہ مہ پیٹھ  
 دست مبارک **قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ** سولوگ ونہ ای موسیٰ  
 کیاہ ٹہہ ہتھو یژھان مہ تہ مارن ہتھ پاٹھ یوہ توہہ آکھ انسان مورہ ون **إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي**  
**الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ** معلوم ہتھو سپدان ٹہہ چھوہ نہ یوہان مگر زبردست  
 بن۔ لوکن اندر اہرہ بہہ ناون۔ ٹہہ چھوہ نہ ہرگز یژھان اصلاح کرہ ونیو آندرہ آسن۔ یہ لفظ یلہ یوزام  
 قطن۔ پیارکن اوس تمس راتہ کس قبلی سہدہ قتلگ شور و تھمت۔ قاتلس اوس ژھانڈ و لوگمت۔ سو



رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ  
يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٠﴾  
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾  
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ  
النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ

گویند بهتره فرعونس خبر دونه خيتره۔ تم کتر جمع مشوره خيتره هين دربار۔ دربارس منز سید طے که موسی  
عليه السلام گوهه قتل من کرنه۔ وَّجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ امه جملہ اندره ووتھ اکھ  
شخصه نوس موسی عليه السلامه سند یو مجبو اندره اوس شهر که به انده پیٹھ یه به مشوره سپدان اوس اوسو  
نزدیک کوچو منز دوران دوران موسی عليه السلامس نعره قَالَ يُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ  
فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ تمی شخصن دوپ ای موسی پز پاپٹ فرعونه سُد دربار جهو مشوره کران  
نہندہ مارنه خيتره لہذا نیر ونہہ سمہ شہرہ منزہ جلد بہن۔ پز پاپٹ یو جهوس نہندہ خيتره رت یژھہ ونیو  
اندره فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ یہ یوزت در او موسی عليه السلام امه شہرہ اندره کھوژان کھوژان،  
اندیشہ کران زہ پتہ ما آسیم کانه سپاہ لاران قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیر به وقتہ کوزک دعای  
میانه ہرورد گارہ نجات دہمہ سمن ظالم لوکن نعرہ کنہہ انچہ جلیہ وانوات وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ  
عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ تو پتہ یلہ تم شہر مدینس کن متوجہ سید خبر آسکھ نہ بوکوت جهوس  
پکان دوپکھ دیوہہ ہن پروردگار انچہ جلیہ کن سیز و تھ ہاوہ۔ چنانچہ تی سید وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ثُمَّ  
پتہ یلہ اٹھہ دوات شہر مدینہ کس اگس کر برس پیٹھ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ تَتَرَقَّبُ  
وہجھکھ پہلین ہنزاکھ جماعتھہ چارواين تریش چاوان۔ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ یہ  
وہجھکھ تم لوکن وراي الگ اکس طرفس کن روزت زمانہ جوراہ پنہ نین چارواين تریش چنہ نعرہ بہتھ



فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَخَفُ نَحْوَتٍ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَعْدِي وَإِنْ

موجب اہلس سیت۔ و تہ پکان فر مووموسی علیہ السلامن اہلس دید صابہ زہ پکھ مہ پتہ پتہ۔ یو پکھ زہ بروئھ بروئھ۔ یو چھوس پیغیر زادہ۔ ابراہیم علیہ السلامہ سند یو اولادو آندرہ۔ اسی چھنہ دوہر زانہ کن بلا ضرورت قصد انظر دین ہند کران۔ چنانچہ تھے پاتھ وات تم بہندس بابہ صائس نشہ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نحوت من القوم الظالمين اده ملہ موسی علیہ السلام آوتہندس بابہ صیس، شعیب علیہ السلامس نشہ توپتہ کورکھ تم نشہ ہن سورئ قصہ بیان تمود ہنک تسلی۔ ڈوپیک ڈون مہ بر وکانہ غم۔ تہ لبو نجات ظالم لوکن نشہ۔ یوت ہنک نہ تم واتھ۔ کیا زہ یہ شہر چھنہ فرعونہ سزہ عملدار سی منز شامل۔ قالت احدهما يا بتي استاجرته سمود یو زانو آندرہ ڈون اکہ زانہ شعیب علیہ السلامس ای میانہ بابہ صابہ توہہ چھہ ملازم رٹہ فخر ضرورت۔ اسی بڑے یہ ون سون چار واین سیت تریش چاوانوہہ خیلرہ ٹیرن چھونہ ون مناسب۔ یہ رٹن پزہ تہہ ملازم ان خیر من استاجرت القوی الامین ہنر پات سم زہ ملازم رٹہ بچھہ تمواندرہ چھو بہتر کس طاقتورہ مانندار آسہ۔ سم ڈوشوے صفت چھہ تمکن اندر موجود قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہتین علی ان تاجرنی ثمنی حبیج شعیب علیہ السلامن ڈوپ حضرت موسی اس یو چھوس یشہان بوکرہ توہہ نکاح سمو پنہ نیو دو یو صا جزا دیو آندرہ اہلس صا جزا ہہ سیت یوسہ تہہ ہند کریون ہتھ شرطس پیٹھ کہ آٹھن ورین روزومہ نشہ ملازم فان اتمت عشرا فمن عندک توپتہ ہر گاتہہ پورہ دہن ورین روزو سو چھہ تہنز مہربانی۔ میانہ طرفہ جبرتہ زور چھونہ۔ وما ارید ان اسئک علیک یو چھوس نہ یشہان توہہ پیٹھ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ  
 قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۱۹﴾  
 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ  
 الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَعْلَمُ أَيُّكُمْ  
 مِمَّنَّهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۲۰﴾  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْا مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۱﴾

بیتھ معاملس اندر د شوری تہ مشقت تراون سجدتی ان شاء الله من الصالحین تہہ لنبومہ انشاء الله  
 رتبولو کو منزہ، رُت معاملہ کرہ و نیو اندرہ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تمودو پھہ یہ سُد توبہ تہ مہ منز بختہ  
 معاہدہ مگر ایما الاجلین قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ مہ چھو اختیار سمودو یومد تو اندرہ کس مدت بو پورہ  
 کرہ۔ مہ پیٹھ بیہ نہ کرنہ کانہہ زیادتی تہ جبر وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ الله تعالی چھو سانہ سمہ  
 معاہدک گواہ کافی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تمہ پتہ یلہ موسیٰ علیہا السلام ملاننگ  
 مدت پورہ کور در اولتہ شعیب علیہ السلام اجازت بیتھ پن عیال بیتھ مصرس کن یا شمس کن گوہہ  
 خیطرہ آنس من جانب الطور نارًا وتہ پکان لچھ اکھ تیر بیہ آکھ نہ لہ گتہ ہندہ سبہ وتہ اتھہ۔ اتی  
 وچھتھ کورہ طور کہ طرفہ نارہ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَعْلَمُ أَيُّكُمْ مِمَّنَّهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ  
 النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ باژن پنہ نین فر موؤک تہہ ٹھہر ویتہ تھی۔ مہ وچھہ نارہ۔ بوگڑھہ تھہ  
 نارس نشہ۔ دیوہ یوموہ وتہ ہنز کانہہ خبرہ بیتھ یانارہ تیو نگلاہ بیتھ تہہ پان وشناو تمہ نارہ سیت  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْا مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ تو پتہ یلہ موسیٰ علیہ السلام اتھ نارس کتھ تل وات امہ میدانہ وچھنہ طرفہ بابرکت جلیہ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۱﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُهُمْ نَبَّأْنِ مَنْ رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِ ﴿۳۳﴾

پیٹھ اکہ کلہ منزہ گوکہ آلو زہ ای موسیٰ بیشک بوی پھوس معبود برحق۔ عالین ہند رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ بیا کہ آلو گو کہ کہ لورہ ہن پن تراود پتھر فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لورہ پتھر تراوتھ یلہ وچھکھ سنو لور زاولس سرفہ سہ پاٹھ ضر ضر کران۔ تہ وچھت تھارے تہ کھوژ۔ تھر پھرت ہیو چکھ ژلن۔ عیالسن ہیو چکھ گھوٹن۔ پوت نظر تہ ڈتھ کہ نہ۔ اللہ تعالیٰ اَن فر موسیٰ یَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ای موسیٰ بروٹھ پچھ کھوژ تہ بیشک تہہ پچھوہ امنس منز روزہ و نیو آندرہ۔ توہہ والیہ نہ کانہہ تکلیف۔ یہ پچھنہ کانہہ کھوژ پچھ کتھاہ۔ بلکہ پچھوہ تہہ نہہ مَجْرَہ۔ بیا کہ مَجْرَہ پچھو تہہہ اَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تراود تہہ اتھ پچھ ناکس پنہ نس منز۔ تو پتہ کڈ و سنو اتھ نیرہ سفید نہہ نہ کہہ و ن۔ کڈہ بیماری ورا کی۔ وَاضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اگر تہہ عصاء س اژدہا بنہ سیت خوف پیدا سپدہ سو دور کرنہ خیطرہ ملنا وویہ پچھ اتھ پنہ نس گھوہس سیت سو سپدہ ہیہ تنھوی تنھہ اوس اصلی حالتس اندر تمہہ سیت ڈلہ توہہ خوف تہ کھوژن فَذُنُوبُهُمْ نَبَّأْنِ مَنْ رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ سبے زہ چیز لور تہ سفید اتھ یعنی بد بیضاء پچھ زہ بچہ دلیلہ تہہہس پروردگارہ سپدہ طرفہ فرعونس تہ تہہہ سن وزیرن تہ امیرن بشہ گھہنہ خیطرہ سمیک توہہ لحم کرنہ یوان پچھو اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیشک تم پچھہ جماعتاہ سخت نا فرمان قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِ موسیٰ علیہ السلامن ڈوپ، ای میا نہ ہروردگارہ بوی پچھوہس گھہنہ

وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا  
يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ۝۲۲ قَالَ سَنَشُدُّ  
عَضْدَكَ بِإِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمُاسُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ  
إِلَيْكُمْ بِآيَاتِنَا ۚ أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ ۝۲۵  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ  
مُفْتَرًى وَمَا سَعِينَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى ۝۳۷ وَقَالَ  
مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ

خیطر ہچانس کھمس تعمیل کرنے خیطر ہ تیار۔ مگر زہ پچھے خبری کہ مہ ہتھو مورمت ٹہند اکھ شخصہ لہذا ہتھو  
مہ خطرہ گڑھان کہ تم مازن تہند ہ بدل مہ۔ تبلیغ کر نگ ایہ نہ موقعے ۛ اِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي  
لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي مہ ہتھو گڑھان پھمیر زیوہ منز۔ میون بوی ہارون ہتھو میانہ خوتہ  
فصیح زیوہ کن۔ سوتہ سوزن مہ سیت مددگار۔ سوکرہ ہامیانس تقریرس تائیدتہ تصدیق مفصل پاٹ ونہ  
ہاسو تمین میان تھہ۔ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون کیا زہ بوجھوس کھوژان تم گڑھہ نہ مہ اپن بوزان  
قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِإِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمُاسُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان  
فرموس کہ واقعی ضرور کرو اس مضبوط ٹہنز۔ نر ٹہندس بای سندہ سیت بیہ دمووہ توہہ دوشون اکھ  
خاص شوکتھہ نہ ہیئتھہ۔ بیہ سوطاقتھہ سمہ سیت نہ توہہ تم کانہہ تکلیف نیکن واتہ ناوت۔ بِآيَاتِنَا  
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ کس گڑھو سان آیات نہ معجزات ہیئتھہ ڈوشوے بیہ سم ٹہنز پیروی  
کرن۔ رُوذو ضرور تمین پیٹھہ غالب۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُفْتَرًى  
وَمَا سَعِينَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى توپتہ یلہ آو تم نیشہ موسیٰ علیہ السلام سان واضح تہ ن آیات ہیئتھہ،  
تم لگ ونہ بیہ ہتھو نہ مگر جوداہ، خداکس پیٹھہ خواجوا ٹھہراونہ آمت۔ اسہ ہتھنہ سمہ کتھہ بوزہ مڑوے پنہ

لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ  
يَأَيُّهَا الْمَلَأَمَ عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي  
يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجَعَلُ لِي صَرَخًا عَلِيًّا أَظْلَعُ إِلَى  
إِلَهٍ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكْظِمُهُ مِنَ الْكَذِبِ بَيْنَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكْبَرَ  
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا  
لَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

نہیں بروٹھمیں مالدین بڑھن لے۔ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ  
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ امیک جواب۔ میانس پد وردگار س  
چھو پور معلوم کہ کہہ آوٹس لے یو ڈہدایت ہتھ۔ بیہ ہتھ اللہ تعالیٰ سی پور خبر گس شخصس سپدہ انجام بخیر  
ذنیاس اندر، بیشک ظالم، تم نہ ہدائیس نہ صحیح دینس پیٹھ آسن تم سپدن نہ ہرگز کامیاب نہ ذنیاس  
اندر، نہ آخرتس اندر۔ فرعونس سپد اندیشہ، تم بوزہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ دلیلہ کہ خبر چھامیان  
لو کہ ماسپدن مائل موسیٰ علیہ السلامس گن تم نہ کرنا ودر بارک لو کہ جمع وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا الْمَلَأَمَ  
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي تمن لو کن ہیوئن وئن ای امیر و نہ وزیر و بو چھوس نہ زانان پانس و رای  
تھندہ خیطرہ کانہ معبودہه فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجَعَلُ لِي صَرَخًا عَلِيًّا أَظْلَعُ إِلَى إِلَهٍ  
مُوسَى آے ہامان ژہ وہ نار سیرہ کویدہ تو پتہ بناو میانہ خیطرہ پوختہ سیرین ہنزا کہ تھنر۔ عمارتھہا تمی پٹھہ  
دہمہ بو نظر حضرت موسیٰ سندس خدائیس گن وَإِنِّي لَأَكْظِمُهُ مِنَ الْكَذِبِ بَيْنَ لُو چھسن زانان سو اپزونہ  
دنیو آندہه وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ سبجہ نہ  
غزورہ کن آس فرعون نہ تھنرہ لشکرہ ہاتق سر بلندی ہنوز مرز کرن۔ تم آس زانان کہ تمن چھونہ ذنیاس  
منزہ نیرت اسہ لے و ایٹوی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اتھہ تکبرس نہ غرورس پیٹھ  
سزادہ خیطرہ روٹ اسہ فرعون بیہ تھنر لشکر۔ تو پتہ دت برت دریا و اس منز تو پتہ چھا لوسو اسہ تھہ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً  
يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾  
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرَ  
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾  
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

منزل۔ فَاظْهَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ جس وچھو کیتھ پیچھ انجام سپد من ظالمن ہند وَجَعَلْنَاهُمْ  
آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ تم آس آسہ بناومت رئیس تہ زٹھ تم لوکن نادودان آس نارس کن وَيَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامتک دوہ آسن تم بالکل بے بس تہ بے گس کانہہ تہ کرہ نہ تہمن کانہہ مددہ  
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً پتہ تھاوا آسہ تہمن لوکن پیچھ دنیاس منز تہ لَعْنَتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامتک دوہ تہ آسن تم بد حال لو کو آندرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن  
بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
پہر پات آسہ کمر عطا موسیٰ علیہ السلام کتاب (یعنی تورات) بروٹھم نافرمان اقوام، قوم نوح، قوم عاد،  
قوم ثمود، ہلاک کرنہ پتہ۔ پیچھ کتابہ منز تہمن لوکن ہندہ خیرہ آسہ جہ دلیلہ بیہ یوڈ ہدایت بیہ ہند  
رحمت۔ پیچھ تم نصیحت حاصل کرن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا  
مِنَ الشَّاهِدِينَ بیہ آسونہ تہہ یارسول اللہ کوہ طور کہ مغربہ کی طرفہ پتہس آسہ موسیٰ علیہ السلام  
احکام یعنی تورات عطا کر۔ حکم کوزس فرعونس نشہ پیغام واتہ ناوٹک۔ بیہ آسونہ تہہ تمہ وقتہ کیو لو کو  
آندرہ کہ پانہ کیاہ آسہوہ حالاتن ہند مشاہدہ کورمت وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْعُمْرُ بَلْ كَر



كُنْتَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿۳۸﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ  
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا  
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۹﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا  
 وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ  
 مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ  
 مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا إِنَّا إِلَهُ آرَسَلْتَ  
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا

پیدہ آسہ واریاہ قوم موسیٰ علیہ السلامس پتہ۔ تهنزے عمرہ سپرہ تمن پیٹھ زہجھہ۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي  
 أَهْلِ مَدْيَنَ بیه آسوه نہ توہہ شہر مدینہ کین لوکن منزلسہ وَان تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا  
 مُرْسِلِينَ تا اینکه ہر دو تہہ تمن لوکن پیٹھ سان آیات بلکہ آس آس توہہ پیغمبر ہلوت سوزہ ون۔ اسی سوز  
 توہہ گن تم حالات و واقعات ادہ ہیکوہ توہہ تم حالات و واقعات بیان کرت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ  
 نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیه آسوه نہ تہہ کوہ طور کہ طرفہ موجودیلہ آسہ آلودیت (یا موسیٰ انی انا اللہ رب العلمین) لیکن بیه تہہ  
 تہہ دس پروردگارہ سوز تہہ ہہ حقہ ہڈ مہرانی کہ تہہ کمر نوہ نعی آخر الزمان۔ بیه کر نوہ باخبر تمو  
 واقعاتوسیت تہہ تہہ نیم کمر و تمن لوکن تمن نشہ نہ توہہ ہر دو تہہ کانہہ نیم کر و ن پیغمبر اہ امت ہتھو دیوہ  
 تم نصیحت رٹن وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا إِنَّا إِلَهُ آرَسَلْتَ إِلَيْنَا  
 رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آس سوز ہونہ گن گن پیغمبر۔ ہر گاہ تے بے تہہ آسما کہ یلہ  
 تمن کانہہ مصیبت تہہ بلایاہ و لہہ ہاپنہ نین تمن تہہ کاٹین ہندہ سببہ تہہ تہہ یو اتھو برو تہہ گن سوز مژہ  
 آسگن اتی دیہ ہن تمہہ سانہ خدایا تہہ کو نہ سوز تھن آسہ گن کانہہ پیغمبر اہ ہن آیات تہہ آس کرہ ہو تمن

جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ  
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا ۖ وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكٰفِرُونَ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ  
 إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا  
 يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

چاین آیان هنز بیروی۔ بیہ آسہو اس با ایمانوں اندرہ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا  
 اوتی مثل ما اوتی موسیٰ ووان یلہ تمن لعمہ ساند طرفہ امر حق یعنی رسول برحق بیہ دین حق ووت  
 دینہ لگ تم اس پیغمبرس کونہ آیہ توشہ کتاباہ عطا کرنا اڑہہ موسیٰ علیہ السلا مس عطا کرنا آیہ یعنی ا کہ  
 وٹہ ساری کتاب اکی ساتہ ا و ل م ی ک ف ر و ا ب م ا ا و ت ی م و س ی م ن ق ب ل ک ی ا ہ ت م و ک و ر ن ا ن ک ا ر ت ت ہ ک ت ا ب ہ  
 یوسہ عطا کرنا امر آس بروٹھ موسیٰ علیہ السلا مس۔ سوی یکہ وٹہ اکی ساتہ نازل کرنا امر آس۔  
 ق ا ل و ا س ح ر ن ت ظ ا ه ر ا ۖ و ق ا ل و ا ن ا ک ا ب ک ل ک ف ر و ن ﴿ ۳ ۸ ﴾ (قرآن مجید تہ تورات) ہجھہ بحر تہ  
 جو دا کہ اس موافقت کران۔ و ق ا ل و ا ن ا ک ا ب ک ل ک ف ر و ن ﴿ ۳ ۸ ﴾ بیہ آس دپان اس ہجھہ دو شون کتابن انکار  
 کران ق ل ف ا ت و ا ب ک ی ت ب م ن ع ن د ا ل ل ہ ہ و ا ہ د ی م ن ہ م ا ا ت ب ع ہ ا ن ک ن ت م ص د ق ی ن ہجھہ فرما دیو کہ  
 یار سول اللہ، ای مکر وٹھہ کمر تو پیش خدلیہ سدہ طرفہ کتاباہ یوسہ زیادہ و تھ ہادہ و ان آسہ سمود دیو کتابو  
 خوتہ یوتہ کرہ تلمہ تمہہ چی بیروی ہجھوے تہہ یہ کٹھہ پز وٹہ و ان کہ سمہ زہ کتابہ ہجھہ بحر تہ جو د و ان ل م  
 ی س ت ج ی ب و ا ل ک ف ا ع ل م ا ن ہ ا ت ت ی ب ع و ن ا ہ و ا ہ ہ م ہر گاہ نہ تم یہ کمر تھہ میکن پس زانو کہ تم ہجھہ کٹھہ  
 پز بچ بیروی کران بلکہ ہجھہ تم پنہ نین نفسہ چین خواہن ہنز بیروی کران و م ن ا ح ز ل م م ن ا ت ت ب ع  
 ہ و ہ ب ع ی ر ہ د ی م ن ا ل ل ہ کہہ اکھا ہجھو گراہ اس شخصہ سدہ خوتہ پس پنہ نفسیہ خواہیہ ہنز بیروی  
 کرہ خدلیہ سدہ طرفہ کٹھہ ہدایہ و رای ا ن ا ل ل ہ ل ا ی ہ د ی ا ل ق و م ا ظ ل ی ی ن پز پات اللہ تعالیٰ ہجھو نہ

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾  
 وَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ  
 اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أُتِيَ عَلَيْهِمْ  
 قَالُوا الْمَنَابِئَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾  
 أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيْدُرَعُونَ  
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنَّا رَنَ قَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا  
 اللُّغَا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

و تھ ہاوان پتھین ظالم لوکن تم ہوزواضح تہ نون سپت گمراہی نشہ بازی نہ ولقد وصلنا لهم القول  
 لعلهم يتذكرون بیشک اسہ واتو تہن لوکن پٹن کلام یعنی قرآن مجید پوٹس پتھ پتھ تم لو کہ بار بار  
 تازہ تازہ بوزنہ سیت نصحت رٹن۔ یعنی آس ہیجہ ہواکی ساتہ اکہ و تہ سوزت مگر اسہ سوز سوزوارہ وارہ  
 تھدی فاندہ خیطرہ آلکنین اتینہم الکتب من قبلہ ہم بہ یؤمنون تم لو کہ سمن اسہ سیمہ قرآن  
 مجید ہزونٹھ کتاب عطا کر تہن اندرہ تم حق شناس چھہ تم ہجہ پتھ قرآن مجید س پڑھ کران ولذا ایتلی  
 علیہم قالوا المنابئہ انہ الحق من ربنا اننا کنا من قبلہ مسلمین یلہ تم ن پتھ یہ قرآن مجید پھو پرنہ  
 یوان، تم ہجہ پڑان اسہ کتر پڑا تھ۔ بیشک پتھویہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ۔ آس آس اکہ نازل  
 سپنہ بروٹھی اتھ تسلیم کرہ وان اولئک یوتون اجرہم مرَّتین بما صبروا ویدرعون بالحسنۃ  
 السَّیئۃ و منارن قنہم ینفقون امی قسمہ کین لوکن کیا لیہ دوگن مزدور عطا کرنہ تھندہ صبر کرنہ  
 خیطرہ یہ ہجہ تم لو کہ نیکی سیت بدی ہند مقابلہ کران یہ ہجہ خرچ کران تھی منزہ ٹس اسی تم ن عطا کور  
 خدایہ سنزن وتن اندر ولذا اسمعوا اللغوا عرضوا عنه یہ یلہ تم بوزان ہجہ پانس نسبت کا نہہ پچھ  
 کتھاہ مخالفین نشہ بے توجہ ہجہ سپدان تمہ نشہ زن نہ بوز کھوی وقالوا لانا اعمالنا ولکم اعمالکم یہ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَأَنْبَتَنِي الْجَاهِلِينَ ۝۵۵ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ  
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝۵۶ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُحْطِفُ  
 مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ فَشَرَّتْ  
 كُلُّ شَيْءٍ رِسْرًا قَائِمٌ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷  
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبِتْلَكَ مَسْكِنُهُمْ

چھہ دیاں تم اسہ ولتر پنے نین عملن ہنز مژور توہہ تہ چھوہ پنے نین عملن ہنز مژور۔ اسہ پیہ بروئھہ تیہ  
 اس گرو۔ توہہ پیہ بروئھہ تیہ تہہ کمر و سَلَّمَ عَلَيْكُمْ میانہ طرفہ چھوہ سلام۔ اس گروہ توہہ مقابلہ تھہ  
 تھوہ سیت لَأَنْبَتَنِي الْجَاهِلِينَ اس چھہہ جاہلن سیت تھی کر ان اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ  
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ہنز پاٹ تہہ نہ حض ہیکون نہ وتہ پیٹھ اَنھہ سوئس توہہ خوش کرہ ہا۔ بلکہ اللہ  
 تعالیٰ بس یرھہ تہس گرہ ہدایت تہس اَنہ راہ راستس پیٹھ۔ ہدایت کرہ تہ قدرت چھہہ کانسہ خدائس  
 وراہی۔ ہدایت چھہہ تھی یہ تہ چھونہ کانسہ معلوم کہ کس بنہ ہدایت تہ کس بنہ نہ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  
 بلکہ چھوہ سوئی زیادہ زانہ ون کہ ہدایت تہ تھہ بہ وان کم چھہہ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُحْطِفُ  
 مِنْ اَرْضِنَا بیہ چھہہ بعضی کافر و دان ہر گاہ اس تھہ نہ ہدایت پیروی گرو، دین اسلام قبول گرو تیلہہ سمو  
 اس پنے شہرہ منزہ چوب دت نہیر کڈنہ۔ تھہ بے وطنی ہند تکلیف تلو۔ بیہ سپدہ معاش تہ پریشانی اوکھ  
 نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ فَشَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِسْرًا قَائِمٌ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ ون  
 یہند چھوہ محض لغو کیا زہ اسہ چھہنا جای و تڑم تھہ حرمس منز تھہ منز امن و امان سان روزت چھہہ۔ کیاہ  
 ایمان اُبت سپدیا تھن پیٹھہ بد امنی ہر گز نہ۔ تھہ خر مس ن و اتاوندہ چھوہ یوان پر تھہ تھہ قسمک میوہ۔ رزق  
 چھہہ عطا کر ان اس تھن پنے طرفہ کانسہ ہند ویتہ وراہی۔ مگر تمہو اُندرہ چھہہ واریاہ لو کہ یم نہ سمہ تھہ زانان  
 چھہہ۔ تھن ہند چھہہ خیال کر ان۔ بیا کہ سبب چھوہ تھہدہ ایمان نہ انہ نگ کہ تم چھہہ پنے خوش عیشی پیٹھہ ناز





كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۳﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۴﴾ فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهَمَّ لَا  
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۵﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا  
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

تَبَّأًا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُعْبُدُونَ آسِ چھہ ژہ بروئھ كئہ دست برداری وڈان۔ سم آس نہ آسہ  
 عبادت کران۔ تمن اوس نہ آسہ سبتِ كانہ تعلق وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ قَدْ عَوْهُمْ فَلَمْ  
 يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ بیہ تمن مشرک وند۔ ویو آلو تمن  
 باطل معبودان تم شریک آسوکھ ٹھہراوان معبود برھس۔ توپتہ دیکھ تم آلو۔ تم دیکھ نہ تورہ کانہ  
 جواباہ۔ توپتہ پکھ نظر عذائس پیٹھ۔ ذہنہ لگن ای کاش کونہ آس آس ذنیاءس اندر سیزہ و تہ پیٹھ۔ پتھ  
 عذابس ماسپدہ ہو گرفتار۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ بیہ سمہ دوہنہ تھدہ  
 آلود تھ پر ٹھیکھ اللہ تعالیٰ ای لوکو توہم کیاہ جواب دژوہہ ذنیاءس اندر میانین پیغمبرن فَعَبَّيْتُ  
 عَلَيْهِمُ الْآنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهَمَّ لَا يَتَسَاءَلُونَ ہس گڑھس ٹھہز و ذہنہ لغہ ساری مضمون مشرت۔ نہ اپیکھ  
 پنہ نین دماغن منزیاد کینہہ تمہ دوہنہ نہ پیکھ یادی پیغمبر کیاہ آس آسہ ونان نہ ہیکن اکھ اکس پر ٹھت کیاہ  
 ساری آسن پریشان فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ وڈان تم  
 اکھ ٹوبہ کور ذنیاءس اندر بیہ اوئن ایمان بیہ کرین رژہ عملہ تمن لوکن چھہ امید کہ تم آسن آخر تس  
 منزستہ گاروتہ نوزو فلاح لبہ و نیو اندرہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ٹھہد پروردگار چھو کئی کمالہ  
 کیو صفتوسبت مہفف۔ چنانچہ سوئتھ چیزس پیدہ کرن یژھان چھو تھ چھو پیدہ کران۔ تکوینی اختیار چھو  
 تنس یوت۔ ہس حکم سو یژھان چھو تہ پسند چھو کران سوئی چھو انبیاءن ہبہہ ذریعہ نازل فرماوان۔  
 تشریحی اختیارہ چھو تس یوت یعنی کینہہ چیز شریعت مقرر کرن مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تمن لوکن چھو نہ

مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿۳۹﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طُكُّهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۰﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبَيْلَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۴۱﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا

احکام تجویز کر تک کا نہ تھا۔ بس لحم سویشہ سوی کرہ جاری۔ سم مشرک چھہ پنہ طرفہ شرک  
 جائز کر ان مگر سبحان الله وعلی غایتیرون سو چھو منزہ تہ پاک بالاو برتر تھن لوکن ہند یو ساروی  
 شر کو نشہ وربک یعلم ما تکن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ تھند پروردگار چھو تیتھ کامل علمہ وول کہ سو  
 چھو زمانہ تہ سو روی یہ تھند دل پوشیدہ تھاوت چھہ بیہ تہ سو روی یہ تم نراوان تہ ظاہر کر ان چھہ  
 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طُكُّهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بیہ چھو سوی معبود  
 برحق بس ورا ی نہ کا نہ معبوداہ چھو سوی چھو حمدس سزاوار دنیا اس منزہ آخرتس منزہ کیا زہ تھند  
 نصرفات چھہ دشون عالمن اندر تنھی سم دلالت چھہ کر ان تھندس کماس پیٹھ تھہ دار ودار چھو  
 حمدس سزاوار آسن بیہ چھہ تھنزی حکومت دنیا و آخرتس منزہ بیہ چھو قوت تہ وسعت تھندہ سلطنت  
 تھوی سم چھہ ساری ایو تس کن واتاوند۔ چھہ بیكونہ تس ورا ی بیہ کاسہ کن گڑھت۔ یو ہے چیز چھو سو سمہ  
 سیت تھنزی الوہیت ثابت سہان چھہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبَيْلَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ فرماؤ کہ چھہ یارسول اللہ ای لو کو تلامہ و نتو چھہ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ توہہ ہمیشہ خیطرہ تھاوہ راتھے قیاس تان معبود برحقس ورا ی چھہ معبود بیچہ توہہ نیش آنت دہک گاش  
 بس چھو سوی قدرتس اندر تہ یکتا۔ بس چھوہ ناچہ توحید چہ سمہ صاف دلیلہ یوزان قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ



تُبْصِرُونَ ﴿۴۱﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  
 فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَوْمَ  
 يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۳﴾  
 وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا افْقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  
 فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۴﴾

ای اظہارِ قدرتِ خیرہ فرما دیو کہ تمہ ایک برعکس تمہ تلامہ و بنو ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہم پیٹھ کرہ سوزوی  
 وقت دہی دودہ ہمیشہ خیرہ قیاس تان۔ معبود برحق و راکی تمہ معبود ہیجہ توہم نشہ رات آنٹھ ہیٹھ منز  
 تمہ آرام و قرار ہیجہ کمرت۔ کیاہ تمہ ہجوہ ناخداہیہ سنزیہ بذقت و دارہ و چجان۔ تمسند قدرتس اندر  
 کنوی آسن ہجوہ منگان الوہیتس اندر تہ کنوی آسن۔ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  
 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سو مہم ہجوہ تنہوی کہ یہ ہجہ ہمزہ رحمت تہ مہرانی کہ تم  
 کمر تمہدہ خیرہ رات تہ دودہ پیدہ۔ ہیٹھ تمہ راژ منز آرام کمر وہیہ ہیٹھ دوس منز تمہد رزق ژھاہٹو۔ ہیہ  
 ہیٹھ تمہ ہمزہ تمن دوشون نعمون پیٹھ شکر دپو۔ ہس اتھ انعامس اندر تمسند کنوی آسن تہ ہجوہ منگان  
 تمسند معبود آسس منز کنوی آسن۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ہیہ  
 سمہ دودہ اللہ تعالیٰ مشرک بڈہ آلودت فرماوہ ہیٹھ بے لوکہ تہ ہمزہ رسوائی بوزن۔ ای مشرک کوگوت گوہ  
 تم معبودان باطل تم تمہ میان شریک زانان آسوکہ وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہیہ انون آس  
 بروٹھ کن پر ہیٹھ ائمہ منزہ اکہ اکہ گواہا یعنی تمہ اٹک پیغمبر ہس ہر و نا فرمانی ہمد سوزوی حال بیان کرہ  
 فَعَلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو پتہ و نو آس ساری امتن ہندین مشرکن کہ اے مشرک تو تلاش سیکہ جواز ج  
 کا نہ دلیلاہ کمر و پیش فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تمہ ساتہ زانن تم کہ پوزاوس خداہیہ سندوی فرماون ہس تم  
 پیغمبرن ہمدہ ذریعہ و اتا دیو۔ یعنی توحیدک پوز آسن تہ شرکک باطل آسن سپدہ تمن معلوم وَضَلَّ  
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تمہ سارے اپڑہ تمہ گروہن نا بود تہ ضائع تمن نشہ سمہ تم دنیا س اندر

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ  
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ  
 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۵۱﴾  
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

ٹھہراوان آس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ  
 قارونہ سُد حال وچھو کہ تمس گس پھس آؤکھرہ تہ نافرمانی سببہ۔ تَس دیت نہ کا نہ نفع تہ فائدہ مال و  
 متاعن بلکہ سُد ٹھہر مال و متاع تَس سیت تباہ و بُر باد۔ ٹھہر مختصر قصہ جھو ہتھہ پاٹھ کہ سُو اوس یقیناً  
 حضرت موسیٰ سیدہ قومہ منزہ یعنی بنی اسرائیلو منزہ۔ بلکہ اوس موسیٰ علیہ السلامہ سُد پتر یوی سوی  
 لوگ مال و دولت زیادہ آسنہ موکھہ پنہ تَس قوس پیٹھ ظلم کرنہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  
 لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ مان زیادتی آس تَس تیدہ کہ آس تَس حیت خزانہ مالک عطا کر مت کہ  
 تمن خزانہ ہنزہ گونزہ آسہ گوبراوان تہ تھکر اوان بدس جماعتس، سم قوتہ وال آس۔ تمن زور پیوان  
 اوس لاگن تمہ گونزہ تلمنہ خیطرہ۔ وکن یلہ گونزہ ایڑہ آسہ۔ پائے گھہہ زانن تم خزانہ کیت آسہن۔ یہ  
 محبترہ غرور نر و تم تمہ ساتہ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یلہ تَس دون ہن  
 قومن نہمائش کر بچہ طریقہ۔ اکی قارون خوش مہ گھہہ تھیکان مہ آس دُنیا کہ مال و دولتہ سیت۔ پتر  
 پاک اللہ تعالیٰ جھونہ ہسند کران مال دُنیا سیت خوش گھہہ و نین تہ تھیکہ و نین وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ  
 الدَّارَ الْآخِرَةَ بیہ و تَس ہن قومن یہ ژہ اللہ تعالیٰ ان مال و دولت عطا کور مت جھوی امہ مال و دولتہ  
 سیت کر ژہ حاصل آخر تک گرہ تہ یہ مال آس کران خرچ تھندہ رضا خیطرہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
 الدُّنْيَا بیہ مہ مثر اوڑہ دُنیا منزہ ہن سوجہہ تَس کھینہ چنہ تہ لباسہ خیطرہ ضرورت پیہ وَأَحْسِنْ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کر ژہ تہ احسان نین لو کن نسبت ہتھہ پاٹھ احسان کور اللہ تعالیٰ ان ژہ نسبت

الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۰﴾  
 قَالَ إِنَّمَا أوتيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ  
 جَمْعًا وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۱﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ  
 فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَاتٍ لَنَا

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ بِهِ مَهْ زھانڈ تباہی تہ بُردبادی ز مینس منز خدایہ سزنا فرمانی کرنہ  
 سیت بہ تسدس پیمرہ سز مخالف ت کرنہ سیت۔ بہ امہ مالک واجب حقوق ضائع کرنہ سیت۔ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ ہنر پاپ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران تباہی یزھن والین قَالَ إِنَّمَا أوتيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ  
 عِنْدِي ۗ بہ بُوز ت لوگ ونہہ قارون بہ مال و دولت چھومہ حاصل سپد مت پتہ چکنہ سیت تہ ذاتی  
 ہنر مند ی سیت۔ یعنی مہ چھہ تم تدبیر نگان سموسیت مال و دولت کمانہ دیوان چھو۔ تم سیت چھومہ بہ  
 سوزوی جمع کورمت۔ میون چھین چھو بجا۔ مہ چھونہ پتہ منز کانہہ غیبی احسانا وہ و تمنت نہ چھو کانہہ ہند  
 اتھ اندر کانہہ چھاہہ چھومہ پتہ نیو اتھو جو کھمت زیومت۔ أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ  
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا ۗ اتھ اسدس ونہ نس چھو اللہ تعالیٰ رد کران۔ فرماوان کہ  
 کیاہام قارون چھہ بیشار لوکن ہندہ ذریعہ بہ کتھہ بوز مرکہ ہنر پاپ اللہ تعالیٰ ان چھہ گالت اس بروٹھ  
 تم تم قوم ہم تمسدہ خود زیادہ سخت آس قوتہ کن یعنی نوکرو چا کروکن بہہ آس زیادہ مال و دولتہ کن۔  
 ستوی یوت سپد نہ تہندہ چھہ کہ تم کیا آئے ہلاک کرنہ بلکہ تمن ایہ آخر نس اندرتہ ہر ڈھنہ و رای عذاب  
 کرنہ وَلَا يَسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ تمن گناہگارن نس یہ نہ سوال کرنہ نہ پر ڈھنہ۔ تمن ایہ  
 پر ڈھنہ سزا ونہہ کیا زہ تمن آسہ سز آس مستحق آسک علامت لحت۔ وونے تمن نشہ پتہ وقتہ سوال کرنہ  
 ایہ سو آسہ تہنر ز سوالی تہ خجالت نرا ونہہ خیطرہ چھو بہ علی قوماہ فی زینتہہ اکہ دوہ سپد اتفاق کہ  
 قارون در اوپنہ نس قومس بروٹھ کن سخت آرائش تہ ٹیٹھ کمر ت شیرت تہ پارت اکہ شانہ قَالَ الَّذِينَ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا  
 كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ  
 الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ  
 وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تَمَسُّهُ بَرَادِرِي مَنْزِهِ بَعْضُهُ لَوْ كَوَّمَهُ بِالْإِيمَانِ اسْتَهْتَبَهُ آسُ دُنْيَا زَهَائِدَانِ - تَم لَبَّ  
 وَنَبِيَّاتٍ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ اے کاش اُسہ تے آسہاں تھ مال تھ قارونس عطا آؤ کر نہ لائے  
 لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ بیشک سو چھو یو ذو نصیبہ ڈول یہ ونہ سبت سپہ نہ تہنہس ایمانس کانہہ خلل تھہ پاتھ  
 ازہہ کاتیاہ مسلمان بین غیر مسلم قومن ہنز ترقی و پھجت تمننا تھہ کر ان تمن تھہ لوجی فخر آسان - وَقَالَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنُ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تمن لو کن خدایہ سہہ طرفہ علم و فہج  
 دولت ونہ آس آمز تمو ڈوپ تمن حر یس نہ طالع لو کن کہ افسوس تمنہہ تھہ خدایہ سہہ ثواب تھو بہتر  
 نہ رت امہ مال دُنیا خوتہ نِس عطا کر نہ بیہ تمن لو کن تموا ایمان اول بیہ کر کیہ رتہ عملہ وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا  
 الصَّابِرُونَ یہ ثواب چھونہ کامل طور عطا یوان کر نہ مگر صبر کرہ ونین - تم مال دُنیا کہ حرص و طمع  
 نَشہ صبر کرہ وان آسن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ نِس ڈول اسہ سو قارون بیہ تمسزہ کرہ جایہ زمینس  
 تَل فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ نِس آس نہ نِس کانہہ  
 جماعتھاہ یوسہ تس مدد کمرت ہیجہ باخدا نِس وراہی - نہ ہیوک تم ہن پان پجات کانہہ ہند مدد حاصل  
 کمرت حال ہیجہ تمس سبت آس ہنڈ جماعت مگر کانہہ تہ پوگس نہ برو تھہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسَّوْا مَكَانَهُ  
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ پگا صبحس تمسہہ خسف واقعہ و پھجت دون تمو لو کو تم امہ برو تھہ ہن تمننا آس کر ان  
 قارونہ سہہ مال و دولتک بیہ نِس ہیو بنہ نیک وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ لَأَيُّكُمْ لَا يُفْلِحُ  
 الْكُفْرُونَ ﴿٨٦﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٧﴾  
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا  
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾  
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ

تجربہ چھو کہ اللہ تعالیٰ چھورز قس اندر وسعت کران پنہ نیوبندو آندره تمن تمن یشھان چھوبیہ چھو  
 سوی تنگی کران رز قس اندر تمن تمن یشھان چھو۔ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ لَأَيُّكُمْ  
 لَا يُفْلِحُ الْكُفْرُونَ ہر گاہے اللہ تعالیٰ اسے پیٹھ متت تھاوہ ہاسے تہ نیہ ہاز مینس تل والست مال دنیاء  
 کہہ جس وطمعہ مچو کہ۔ تجب چھو کہ کافر زانہ کامیاب سپدن نہ۔ ہر گاہ کینہہ کالاہ دنیاءس منز عیش تہ  
 گرن مگر پتولا کہ چھو تمن تاوأس تہ خسر أس گرفتار سپدن۔ فلاح و کامیابی چھہ مخصوص بالیمان ہندہ  
 خیر ہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا یہ عالم آخرت  
 سمجھہ ثواب مقصود اسن بیان آو کر نہ۔ ثواب اللہ خیر و نہ سیت سو چھو اسے خاص مقرر کورمت تمن  
 لوکن ہندہ خیر ہ سمہ دنیاءس اندر مالی اعتبارہ لوڈ مین یشھان چھہ نہ۔ یہ چھہ فساد تباہی تہ بر بادی  
 یشھان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ رت انجام تہ رت نتیجہ چھو خدا بس کھوڑہ و نین ہندہ خیر ہ تم ترک نوابین  
 سیت امتثال اوامر تہ اسن کران مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا قیامتگ دوہ بس اکھاہ خدا بس نشہ  
 نیکی بہتہ یہ سہہ خیر ہ چھہ سوکی مزدوریو سہہ تمہ خو تہ رث اسہ استحقاقہ خو تہ زیادہ اسہ وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بس اکھاہ بس نشہ تمہ دوہہ بدی  
 بہتہ یہ بس یہ نہ چھہ کاماہ کرہ و نین کانہ مزدور تہ سزاونہ مگر تمنی کامین ہنز تم تم گرہ و ن اسن زیادتی  
 ورا ای إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ تجبہ کمر وہ دشمنو تکلیفات و اتاوانہ سیت

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ قِي ضَلِيلٍ  
 مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ  
 إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾  
 وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ  
 وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾

سخت ہدیشان۔ یہ تھ اندر توہم پیوہہ مجبور سہت ترک وطن کرن۔ سمجھہ مفارقت وجدانی ہند توہم سخت  
 صدمہ چھو۔ توہم سپدن تسلی سمہ کتھہ سیت کہ بیشک ہم پروردگارن توہم پیٹھہ یار رسول اللہ قرآنی  
 احکامن ہند تعمیل تہ تبلیغ کرن فرض کور سواتاودہ توہم ضرور پنہ نس وطن اصلیس یعنی مٹھ شریض  
 منز۔ تمہ ساتہ آسوتہہ آزاد تہ غالب۔ بیہ آسوتہہ صاحب سلطنت قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ  
 وَمَنْ هُوَ قِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہم لوکھ توہم زانان چھہ غلطی پیٹھہ تہ پانس چھہ زانان پزرس پیٹھہ تہن  
 فرماو تہہ یار رسول اللہ کہ میون پروردگار چھو پورہ زانہ ون کہ کبہ آوتہندہ طرفہ پوزدین تہ یوڈ ہدایت  
 پیٹھہ۔ بیہ چھو سنی زانان کہ کبہ چھو بتلانہ مگر انہی اندر۔ تہنزد دولت نبوت چھہ محض خدایہ سزنی مہربانی  
 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ  
 توہم آسہ نہ پنہ کتھہ پیٹھہ برہنہ بروٹھہ کانہہ امید کہہ توہم کن کیا ایہ نازل کرنہ بیہ عظیم الشان کتاب یعنی  
 قرآن مجید۔ مگر سہز یہ کتاب نازل توہم پیٹھہ محض خدایہ سزہ مہربانی سیت۔ کس مہ آسوتہہ مددگار  
 بنان کافرن ہمدہ خیطرہ تہنزن کھن تاسید کرنہ سیت۔ یہ تھہ پاٹ ازتان تہہ تہن نشہ الگ رُووہہ تھہ پاٹ  
 گوٹھہ آیدہ تہ الگ روزن۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ بیہ یلہ خدایہ سہد  
 احکام توہم پیٹھہ نازل سپد۔ وئن مہ این لبہہ ترشہ کتھہ کہ ہم لوک کیارن توہم پیٹھہ سموا حکامو نشہہ وَأَدْعُ  
 إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تہہ رُووہہ دستور لوکن پنہ نس پروردگارہ سندس دیش کن  
 نادروان۔ بیہ تھہ پاٹ ازتام توہم مٹھ کن سیت کانہہ تعلق تھووہہ نہ تھہ پاٹ مہ تھاووکانہہ تعلق تہن

# وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

سیت آئندہ تہ۔ یہ منہ سپد و شامل تہہ مُشرک سیت۔ بلکہ ہتھ پاٹ از تام تہہ شر کہ نغمہ معصوم تہ پاک  
رودوہ ہتھ پاٹ رُو زو ہمیشہ پاک تہ معصوم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ منہ دو تہہ ناد خدا ہنس سیت یہ  
کانسہ معبودس لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیا زہ کانہ معبوداہ وچھونہ تَس ورا ی كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ  
پر ہتھ چیزاہ وچھو ہلاک گوہہ و ن تسنہ ذات پاک ورا ی۔ معصوم تہ نایو د سپن وچھو دلیل سیمہ تھہ ہنز  
کہ سُو وچھونہ قدیم او سمت ییہ تھہ دلیل واجب الوجود نہ آئج۔ متحق عبادت آسنگ شرط وچھو واجب  
الوجود آسُن یلہ نہ سُو واجب الوجود وچھو لہذا ایچہ نہ سُو ہرگز متحق عبادت آتھہ تمی وچھو مضمون لالہ  
ثابت لَہُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حکومت ہتھہ تہننز سیمک کامل ظہور سپدہ قیامتگ دوہ۔ تَس کُن  
ایو تہہ ساری وائس واتاوند۔ سارنی پیہ پنہ سکر تیک سزاوند۔ سمو آیا تو سیت وچھو مطلب کافر تہ مُشرک  
نامید کرن تمہہ در خواستہ نغمہ نِس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خد تَس منز پیش کران آس  
کہ تہہ پھیر تو سانہ سی وینس کُن۔ اصل وچھو روی سُن یمن آیات کریمن منز تمنی مُشرک کُن کہ ای  
مُشر کو تہہ وچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلمن در خواست کران پنہ نِس دینس سیت موافقت کرہ نگ۔ آتھہ  
منز سپدوند تہہ ہرگز کامیاب۔ مگر عادت وچھو یلہ کانسہ پیٹھ ڈکھ، بیزاری تہ غمہ وچھو آسان تمہ ساتہ  
وچھونہ یوان تَس کُن روی سُن کرنہ۔ بلکہ ہتھ تھہ یوان تَس واتاوندہ بیس کُن لا ایت۔ تیس وچھو تمی طریقہ  
آمت کرنہ۔ پنہ نِس محبوب خاص کُن و تھہ وچھو مُراد تَمن دشمن تھہ واتاوندہ تم یہ در خواست کران  
آس۔ کیا زہ تم یلہ اللہ تعالیٰ اِن سُو زینن لو کُن ہزس دینس کُن نادوہ خیطرہ یہ تھہ پاٹھ وچھو ممکن کہ تم  
کیا سپن نعوذ باللہ پانہ عفر وشر گس کُن مائیل۔



## سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  
 يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ  
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ مَنْ كَانَ  
 يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللَّهُمَّ جھہ حروف مقطعات یمن ہند معنی زاند پانہ خدا أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بعضے مسلمان جھہ کافر نہ ہند یو تکلیفویت گابران تہ بانبران۔ کیا تم لوکن چھا تمنا کہ تم کیا بین زبوتہ سبت آزمائشہ وراکی تراونہ۔ یعنی تہ بنہ نہ۔ بلکہ امہ قسمک امتحانات تہ آزمائشہ بین ضرورتہن پیش وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ پیزپاٹ امہ جھہ تھوے واقعاتو سبت آزمائش کمر مژتمین لوکن تہ سم یمن بروٹھہ جھہ کڈر سمیت مسلمان بروٹھمین اتن اندر۔ جھہ اللہ تعالیٰ تزاوہ تمین لوکن ہند ایمان تم پیز زبیر جھہ ایمان انہ نس اندر بیہ تزاوہ سوتیمین لوکن ہند ایمان تم ایمان انہ کس دعوائے اس منز پیز زبیر جھہ۔ چنانچہ تم لوکھ وڈھہ واخبرہ ایمان اتان جھہ تم جھہ امتحان اندر ثابت روزان بلکہ جھوٹھند ایمان جھہ سپدان۔ و سن تم لوک وٹھ کئے جھہ ہران تم جھہ امتحانہ وقتہ اسلام تراوان بیہ کفر س کن پھیران۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا کہنہ گمان جھہ کران تم لوک تم جھہ کامہ جھہ کران (شرک تہ نافرمانی، مسلمان تکلیف رسائی) تم کیاہہ یکن ثلث امہ نشہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ خیال کران تھند جھوٹھہ سیٹھاہ بے ہودہ تہ جھہ۔ تم کافرین بیہ ضرورتہ امیک بدلہ ہند۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ



وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾  
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ  
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَى

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کس شخص پس پورا امید آسہ آخرتس منز خدا بس سیت ملاقات کرچ تمند گروھہ نہ  
 یتھیو حادثا تو سیت پریشان سپن بلکہ گروھہ تمسنز تیج تیاری کرن۔ خدا بس سیت ملاقات کرنگ وقت  
 چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو وقت چھو ضرور پنے نس موقس پیٹھینہ دول سمہ سیت ساری غم دور سپن۔  
 سو چھو سو روی بوزہ ون سو روی زانہ ون۔ تس نشہ چھونہ کانہ چیز پو شیدہ۔ نہ کانہ تھہ، نہ کانہ گوم۔  
 پس دیہ سو توہہ پریتھہ رثہ تھہ تہ پریتھہ رثہ کامہ ہند عوض تہ بدلہ۔ سمہ سیت ساری غم تہ غصہ دور  
 سپن **وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** یہ گروھہ تھاون یادکہ آس  
 بس توہہ محنت تہ مشقتن برداشت کرنگ ترغیب دوان چھہ اتھہ اندر چھونہ آسہ کانہ مفادہ۔ بلکہ بس  
 محنت چھو کران خدایہ سد احکام بجانہ نس اندر سو چھو محنت کران پنہ پانچہ فاندہ خیطرہ۔ ورنہ ہنر پات  
 اللہ تعالیٰ چھو ساروی لوکو نشہ بالکل بے نیاز۔ سو چھونہ کانہ گن محتاج **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** یہہ سمولو کو ایمان اولان  
 یہہ کرکھہ رثہ عملہ آس گرو ضرور مغفرت تھند من گنہن یہہ دموتمن استحقاقہ خوتہ زیادہ رت تہ زیادہ  
 بدلہ۔ تمن رثن کاین ہند یہہ کران آس تم دنیا س اندر **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا** یہہ  
 کور آسہ حکم انسانس ماس ماجہ نسبت رت سلوک تہ احسان کرنک۔ سیت ونس یہہ تھہ تہ کہہ **وَإِنْ  
 جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** ہر گاہ مول موج زور گرہ لے سو چیز میون  
 شریک ٹھہراونہ خیطرہ سمسدس معبود آسکس پیٹھہ ژہ نشہ کہی دلیل چھنہ بس چھنہ ژہ تھند مالکھ کنس

مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۶﴾ وَمِنَ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ  
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ  
لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ  
الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

خدا ایس شریک ٹھہراو کہ اِلٰی مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے اُن جھو توہمہ سارنی رُجوع  
کرنے سے واپس من پس کر دوہ یو توہمہ خبر تمہہ سارچی یہ جُہہ کر ان آہوہ رُت یا پیچہ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ توہمہ آندرہ سمولو کو ایمان اون سے رثہ عملہ کر کیکہ تم  
واتنا دو کہ اُس ضرور نیکو کارن سیت جشس۔ پیچہ پاٹ سم لو کہ پیچہ کامہ کرن تمن پیہہ سزا دنہ۔ لہذا ایس  
اکھاہ مالس ماجہ ہنزا اطاعت مُقدم تھاوہ خدایہ سندس اطاعتس پیچہ ٹس تہ پیہہ سزا دنہ یہ آہہ کریم جھو  
نازل سپد مت حضرت سعد بن ابی وقاصہ سندہ حقہ۔ تمن آس موج اسلامہ نغمہ پھیر ٹس پیچہ مجبور  
کر ان وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ بِہ  
جھہ لو کو آندرہ بعضے تم ونان جھہ آہہ اُون ایمان خدایس۔ تو پتہ ہر گاہ خدایہ سزہ وتہ اندر کا نہہ تکلیف  
واتان جھو کہ لوکن ہندہ طرفہ تہہ لوکن ہندس تکلیفس جھہ زانان خدایہ سُد عذاب ہند۔ یعنی سیٹھاہ  
پریشان چھہ سپدان وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو پتہ ہر گاہ ہندس پروردگارہ  
سندہ طرفہ مسلمان کا نہہ مدواہ واتان جھو تمہہ ساتھ جھہ دپان آسے تو ہی سیت آس اُولَئِیْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ جھنا پور زانہ ون تہہ ساری یہ عالمہ کین لوکن ہندس دن کن  
منز جھو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ اُس جھو تر اُون با ایمان ہند  
حال تہ۔ پیہہ جھس تر اُون مُنافق ہند حال تہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اَلَيْسَ بَيْنَنَا

الْمُنْفِقِينَ ۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِمُحْسِلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ  
 مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۱۲ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ  
 أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۱۳  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ  
 إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۱۴  
 فَانجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۱۵

وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ بپہ چھہ وان کافر بالیمان تہہ پجو دینس اندر سانہ وتہ۔ قیامتک دوہ تلو اس پائس پیٹھ  
 تہہد وبال تہ گناہ وَمَاهُمْ بِمُحْسِلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حالہم تم تلن نہ ہر گز تہہد یو گنا  
 ہو اندرہ اکھ زہہ تہ تمہہ طریقہ سمہہ سیت تم تمو ٹھہو نشہ آزاد سیدن۔ تم چھہہ یہ بالکل اپز ونان۔  
 وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم تلن سُرد  
 قیامتک دوہ پنہ نین گنہن ہند بور۔ بہہ تلن واریاہ بور پنہ نین بورن سیت۔ سو گو لو کن گمراہ کرہ عکین گنہن  
 ہند یور یہ بہہ تم سُرد پر ژھنہ قیامتک دوہ تین سارنی کھن ہند سمہہ تم پانے ٹھہراوان آس تو پتہ پیٹھ  
 سزا ونہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا بِہہ سوزاسہ نوح  
 علیہ السلام پیغمبر پنہ نس قومس گن۔ کس رود سو تین منز پنہو (۵۰) ہو کم آگس ساس (سازن نون شتن)  
 وِرہس تبلیغ کران تو حیدس گن نادووان۔ مگر تہ کثرت تہ اون نہ تمو ایمان بلکہ کوزکھ انکار تہ تکذیب  
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ادرہ رث تم سیلابن تہ پھاٹون در حالہتہہ تم آس بدہ ظالم۔ فَانجَيْنَاهُ  
 وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ کس دیت اسہ نجات حضرت نوحس بہہہ سم تہہزہ ناوہ  
 اندر کھتہمت آس امہ طوفانہ نشہ۔ بہہ تھو واسہ سو واقع اکھ نشانہ عبرتک عالمہ کین لو کن ہندہ خطیرہ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ

سمن نغمہ امہ واقع خبر و اثر تمن تور فخرہ ہر بس مخالفت کر نگ نتیجہ کیاہ چھو آسان و ابراہیمہ اذ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ یہ سوز اسہ حضرت ابراہیم پیغمبر بناوت یلہ تمو فر موو پنہ نس قوس سم بت پرست آس ای قوم عبادت کمر و تہہ معبود برحقہ سنز۔ یہ کھو ژوئس شر کہ نشہ روز و پتہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو ٹہندہ خیطر ہ بہتر ہر گاہ توہہ زان مجھ بخلاف شرک سو چھو بد طریقہ کیاہہ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا تہہ چھوہ معبود برحق تراوت پو تلین ہنز عبادت تہہ پر ستش گرہ و ن تم عاجز تہہ نالائیق چھہ۔ یہ چھوہ تہہ متعلق پائے ایزہ کتھہ ٹھہراوان کہ تہندہ سمیت سپدہ اسہ روزی روزگار س ترقی۔ یہ سوزوی چھو ٹھض اپز کیاہہ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سمن ہنز عبادت تہہ خدائس و رای کران چھوہ تم چھہ ہر گز مالک ٹہندہ کمنہ رزق۔ تمن اتھہ چھونہ رزق کانہہ اختیار ی۔ بلکہ چھو ٹہندہ روزیک مالک معبود برحق۔ نس ڈھانڈو تہہ تس نغمہ پن روزی تہہ رزق نس رزق مالک چھو۔ یہ یلہ رزق مالک چھو سوی تہزی کمر و عبادت۔ یہہ چونکہ از تام چھوہ تمی رزق عطا کورمت لہذا کمر و تہزی شکر گذاری۔ تو پتہ ابو تہہ ساری تنس ن نہ کانسہ ن و انس نہ۔ سو دیہ توہہ ضرور شرک و کفر کرہ نس پیٹھ سزاء وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ہر گاہ تہہ اپز یور زانو مہ پتھہ کتھہ اندر کہ میون دعوی کیا چھو کہ

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾  
 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ  
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾  
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۲۱﴾

خدایہ سنز عبادت کرن چھہ واجب تہس شکر دین چھو لازم مر نہ پتہ بیہ زندہ گزہن چھو حق تہ پوزیہ  
 نو کتھاہ کنہ چھہ۔ ہنر پاٹ توہہ برو تھہ تہ چھو وار بہو اوتو پنہ نین پیغمبرن تکذیب تہ انکار کورمت سمن  
 تھن۔ تہن پیغمبرن تمیک کیہنہ نقصانہ ووت نہ کیاہہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  
 پیغمبرس چھونہ منہ مگر صاف صاف پاٹھہ پیغام وانہ تاون۔ زورہ ماناون۔ تسز گوم چھہ۔ کس سپد ساری  
 انبیاء تبلیغ کمرت کامہ نشہ سبکدوش تھہ پاٹ سپدس یوتہ سبکدوش۔ تہیدہ نہ مانہ تک ضرر چھو توہہ پانس  
 اسہ امیک کانہہ ضرراہ چھونہ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ کیاہہ تم لو کہ چھنا  
 وچھان زہ اللہ تعالیٰ تھہ پاٹھہ چھو مخلوقن گوڈہ پیدہ کران۔ عدم محضہ نشہ بوجود اتان۔ توپتہ کرکھہ سومی  
 بیہ دوبارہ پیدہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیشک یہ تھہ چھہ اللہ تعالیٰ اس نش سبھاہ سہل تہ آسان۔  
 بلکہ چھو ظاہرہ پاٹ دوبارہ پیدہ کرن گوڈہ پیدہ کرنہ خوتہ زیادہ سہل۔ اگرچہ پروردگارس نشہ چھہ  
 دوشوے چیز برابر عجیب تھہ چھہ کہ سم لو کہ چھہ گوڈہ پیدہ کرنس اقرار کران مگر دوبارہ پیدہ کرنس چھہ  
 انکار کران قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
 الْآخِرَةَ تہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ اے لو کو تہہ پھیر تو تھہ ساری زمینس اندر توپتہ وچھو تھہ پاٹ  
 چھو اللہ تعالیٰ ان مخلوقات گوڈہ پیدہ کمرمت تھہ پاٹ کیاہہ کہہ اللہ تعالیٰ تہن دو تسمہ پھہہ قیامتک دوہہ بیہ  
 پیدہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ وول۔ يُعَذِّبُ

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسْؤُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ بیه دوباره پیدہ کمرت لیس خوش کر لیس تس کره عذاب۔ لیس خوش کر لیس تس کره رحم۔ اتھ تعذیب ورحم کره تس منز آسہ نہ بیه کانسہ دخل کیا زہ وایہ تَعْلَمُونَ تہہ ساری ابو تس گن بھر نہ بیه نہ کانسہ گن۔ امہ تعذیبہ نشہ چنہ خیطرہ میکیونہ تہہ کانسہ تدبیر کمرت وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ چنانچہ تہہ میکیون نہ خدا عاجز کمرت ز میس منز کھنیت روز نہ سیت نہ ڈر تھ آسمان کھسنہ سیت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیه مھونہ تو بہ خدا لیس ورا ای کانسہ سر پر ستاہ۔ نہ کانسہ مدد گارہ۔ لہذا میکیونہ تہہ نہ پتہ تدبیرہ سیت عذابہ نشہ پحت نہ کانسہ ہندہ حمایہ سیت وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسْؤُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیه سمولو کو انکار کور اللہ تعالیٰ سندین آیاتن بالخصوص تس سیت ملاقات کره تس تہ تس برو تھ کنہ استادہ سپدن تس لوک کیاہ سپدن قیامتگ دوہ میانہ رحمتہ نشہ نا امید نا تھس و لیس گڑھیک تسلی کہ تم جھہ رحمتہ نشہ مڑوم بیه مھو جھندی خیطرہ دگ تہ دود تھہ ون عذاب فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ حضرت ابراہیمہ سندہ امہ و عظ و نصیحتہ پتہ اوس نہ تھندہ قومگ جواب کینہہ تہ مگر ای زہ پانہ وان لنگ تم وینہ زہ یہ ماریون یا ز ایون نارس منز۔ چنانچہ کرھ تھندہ ز لنگ سامانہ تیار مگر اللہ تعالیٰ ان ڈیت تمن تھمہ نارہ نشہ نجات اِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پز پاپا تھہ واقس منز جھہ واریاہ دلیلہ متعدد لوکن ہندہ خیطرہ



وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَ لَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَسْبِقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۗ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ

عليه السلام وَ جَعَلْتَنِيْ ذُرِّيَّتَهُ الشُّبُوَّةَ وَ الْكُتْبَ بيه تھوو اَسْمہ جارى تھندسى ذُرِّيَّتْس تہ خاندانس اندر نبوت تہ کتابہ۔ یعنی توریت، انجیل، زبور، تہ قرآن مجید۔ وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا بيه کسر اَسْمہ تھن مزور تہ ثواب عطا دُنْيَا سى اندر وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ بيه اَسْن تھم آخِرْتَس اندر تہ نیک بندو اندرہ وَ لَوْ طَا بيه سوز اَسْمہ پيغمبر بناوت لوط عليه السلام اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ يله تمونہ نَس قَوْمَس دُوب پيشک تھہ جھوہ سيٹھاہ سخت بچھ کوم کران مَسْبِقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ توبہ بردنٹھ جھنہ يٹھ بچھ کوم کسر مشاعرلہ کيولو کوجتو تہ انسانو اندرہ کانسہ تہ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ کياہ تھہ جھوہ زنانہ تراوت مردن نيشہ قوت شہوانى تھورہ کرنہ خيترہ نزدیک يوان۔ بيه جھوہ امہ علاوہ وتہ پکھ وينن لوانان۔ بيه جھوہ پنہ نين مجلسن اندر بچھ کامہ کران۔ شراب چوان۔ ستياہ وايان۔ نعمہ تہ گيُون لاگان۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ کس اوس نہ کانسہ جواباہ تھندہ تومبھ طرفہ گمراي زہ دو پک اَنُو اَسْمہ پيٹھ خدايہ سُد عذاب جھوہ تھہ يہ تھہ ونہ نَس اندر پوزونہ وينو اندرہ کہ خدا جھو تھن تھن پيٹھ بيزار۔ بيه کيا جھوہ تھہ تھندہ طرفہ پيغمبر قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِيْنَ لوط عليه السلامن کور دُعَاے ميانہ پروردگارہ مہ کريارى تہ مدد تھن مفسد لوکن پيٹھ سوز پن عذاب، تھي سبت گالھ۔ توپتہ کور اللہ تعالٰى اَن تھندہ دُعَا قبول کرنہ پتہ



انصُرْتِنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۰﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ  
 الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا  
 لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنَنْجِيْنَهُ وَاَهْلَهُ  
 اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ  
 رُسُلُنَا لُوْطًا سِىِّءَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا وَقَالُوْا

عذابِ خبر دہ خیر ہ نہ خیر ہ ملائک مقرر۔ تمن ملائک تھاون بیاکھ کام تہ معنی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماوونہہ  
 بشارت اسحق علیہ السلام سندہ تولد سپدہ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى چنانچہ تو پتہ یلہ  
 آئے تم ملک تم امہ سوزمت آس، ابراہیم علیہ السلام کن فرزندہ سز بشارت و خوشخبری ہیہہ۔  
 قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ کتھن اندرون تمویہ تھہ تہ  
 تمن کہ بیشک آس چھہ ہلاک کرون سمہہ شرک لوکھ (شہر سدوک) کیا زہ امہہ شہرک تم لوکھ چھہ  
 سخت عالم تہ شریر قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ابراہیم علیہ السلام دو چھہ اتھہ شہر س منزے میون باپہ  
 تھر لوط علیہ السلام چھو قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا تمویلو دو چھہ امہہ چھہ پور خبر تھز بس تھہ  
 منز چھو لَنَنْجِيْنَهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ آس بچا دوکھ ضرور تم بیہ تھہ اہل و  
 عیال تھزہ آخیر وراکی۔ سہو آسہ مت روزت عذابس گر قارسدہ ونیو آندرہ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 لُوْطًا سِىِّءَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا ادہ یلہ سان سوزنہ امت ملک وات لوط علیہ السلام نشہ تم  
 سپد تھہہ انہہ سیت ناخوش تہ دل تنگ۔ کیا زہ تم ملک آس سیٹھاہ نحو بصورت لوکھن ہنزہ شگلہ۔ تمن  
 ملکن یلہ معلوم سپد کہ تم سپد سانہ بنہ سببہ تہ سخت پریشان وَقَالُوْا لَاتَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا  
 امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ  
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾  
 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِلَىٰ  
 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ  
 ارْحَبُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تمومو ملکو دو پیکر تہہ مہ ہز کھو ژو۔ تہہ مہ  
 بز و کانہہ غم۔ آس ہجہنہ انسان۔ آس ہجہہ عذابک ملک۔ آسہ ہجہہ ہلاک کران سمہہ شرک لو کہ آس  
 بچا و وہ تہہ تہہ تہہ عیال تمہہ عذابہ نشہہ تہہزہ آشیہ و راکی۔ سہو آسہ تہہ روزت عذابس گرفتار سپدہ  
 و نیوا ندرہ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ آس ہجہہ آسماہجہ  
 طرفہ سمہہ شہرہ کین لو کن پیٹہ عذاب نازل کرہ و ن۔ تمن پیٹہ کاین ہند سزا سمہہ تم کران آس۔ تو  
 پتہ کور آسہ تہہ شہرس تلک پیٹہ۔ پیٹہ ترا و کیکہ آسہ کنہہ ژودک پاٹہ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ ہنز پاٹ تہا و آسہ تمہہ شرک کینہہ نئن نغانہ باقی تمن لو کن ہندہ عبرتہ خیلرہ سم کاٹل آس۔  
 چنانچہ منک لو کہ آس شہر شامہ کس سفرس آندرا و ہن تہ گوشہ و ن تمن ویران کاٹن شہرن و چجان۔  
 تمن اندریم عقلمہ وال آس تم آس یہ و ہجہت نہیب کھیوان۔ کھو ژت آس ایمان اتان۔ و اِلَىٰ مَدْيَنَ  
 أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ ارْحَبُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
 بیہ سوز آسہ مدینہ کین لو کن کن یوی تہہد شعیب علیہ السلام پیغمبر۔ ہس دو پیکر تموا ی میناہ قومہ  
 عبادت تہہ پرستش کمر و معبود برہتہ سنزہ شرکہ نشہہ روز و پتہ۔ بیہ کھو ژو قیامتہ کس دو ہس۔ بیہ مہ  
 پھیلا و وز مینس منز تہا ی۔ حقوق اللہ تہہ حقوق العبادہ کمر و ضایع کھر و شرکہ نشہہ کم ٹولہ نشہہ، کم میندہ  
 نشہہ روز و پتہ۔ فَكَلْبُوهُ فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ہس زون تمومو

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جِثْمِينَ ﴿۳۲﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ  
 وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ  
 جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
 سَابِقِينَ ﴿۳۴﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ  
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

شعیب علیہ السلام اپز پور۔ بیہ رود نہ تم نافرمانیہ نشہ ہتھ۔ ادہ رث تم سخت ہنل۔ بس آس تم صبح  
 پنہ نین گران منز ہتھ کن پیٹھ موت۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ بیہ گال آسہ قوم  
 عاد تہ قوم ثمود۔ ہنز پات توہمہ آسہ وارہ نظرہ ہوان ای مکہ کیو لو کو تہند یو پچھہ وتہ منہم گامژ ولریو جالیو  
 منزہ۔ یلہ ہتھ ملک شامس کن سفر کران ہتھوہ تہندہ تہانی ہند حال۔ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ہنز حالت آس ییہ کہ شیطان اوس ہنز ن پیٹھ کائین  
 زینت دیو تہمت۔ ورنہ آس تم ہشیار۔ مجنون تہ بے عقل آس نہ۔ مگر تمو ہنوز نہ پنہ عقلہ کام وَقَارُونَ  
 وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ بیہ گول آسہ قارون فرعون تہ ہان تہندہ ٹکر تہ نافرمانی سببہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ تم ن تر شون نشہ آیو موسی علیہ السلام  
 نہ دلیلہ ہتھ مگر تمو کر سر کشی زینس اندر تو پتہ ہیکنہ تم سانہ عذابہ نشہ ٹرت فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ  
 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ أَخْرَقْنَا آسہ کور تمو پازو لہدرہ پر ہتھ اکھاہ گرفتار پنہ پنہ ہر مکہ عذابہ سبت۔ چنانچہ تمو آندرہ  
 بعضین پیٹھ سوز آسہ تیز واؤ۔ تمہ آندرہ ہتھو مراد قوم عاد۔ بعضے رث خوفناک کر یکہ تمو آندرہ ہتھو مراد

بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِئْتًا وَ  
 إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

قوم مُمود۔ بعضی فی اسہ والبت زمینس تکل تمہ اندرہ چھو مراد قارون۔ بعضی چھاو اسہ دریاء س منز تمہ  
 اندرہ چھو مراد فرعون تہ ہامان و ماکان اللہ لیظلمہم و لکن کانو انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ  
 اوس نہ ٹیہ تمہ سو کیا کرہ ہا تمین پیٹھ ظلم مگر تم آس شرارت تہ فساد کرنہ سیت پان پانس ظلم کران مَثَلُ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا بِئْتًا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 خدائس و رائے بیہ مخلوق زان پن دوست تہ مددگار اُکس زلر سز مِثَالُ لُس پنہ خیالہ اگہ گراہ چھو بناوان  
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ حالہجہ تہ تہ منز چھو نہ شکیہ ساروی گرو اندرہ چھو سست  
 تہ ضعیف گرہ زلر سز گرہ۔ تہ پائت زلر چھو پنہ خیالہ پناج جالے پن زال تیار کران لُس نہ حقیقتس  
 اندر کانہ پناہ بیکان چھو دت۔ تہ پٹھ پٹھ چھہ مٹرک معبودان باطن پنہ خیالہ پنہ پناج جالے زانان  
 واقس تہ حقیقتس منز چھہ تم کہنی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تم حقیقت حال زانہ پن تیلہ کرہ پن نہ خبر  
 کچر کامہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ہنر پائت اللہ تعالیٰ چھو زانان تم سارنی  
 چیزن ہندہ ضعف و سستی ہنز حقیقت تمین تمین ہنز پرستش کران چھہ تم معبود برہقس و رائے  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پانہ سارسی پیٹھ غالب۔ سو چھو سیٹھاہ حمہ وول۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ  
 نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوہجہ آس چھہ سارنی چیزن ہنز حقیقت پور زانان۔ لہذا چھہ آس مِثَالہ بیان کران  
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ تارنہ خطیرہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سمہ مِثَالہ تزن نہ فکرہ مگر عالمی حَلَقَ اللَّهُ

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾  
 أُنْتَلَىٰ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ ان کو آسمان و زمین پیدا کہ صحیح مصلحت خیرہ سمیک  
 تمن اقرار جوہو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک آتھ منزجھ جو دلیلہ بالایمان ہندہ خیرہ  
 تھمدس معبود برحق تہ مستحق عبادت آسئ پیٹھ۔ اُنْتَلَىٰ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ  
 الصَّلَاةَ اے پیغمبر چونکہ تھہ چھوہ پیغمبر برحق لہذا پیر و تھے سو کتاب یوسہ توہہ کن وجیہ پاشے  
 سوزنہ آیہ۔ بیہ تھاوو نماز برپا۔ تھہ بے لاکھ تھمز متابعت کمر تھہ پابندی سان نماز برپا تھاوان یعنی قولی  
 تبلیغ تہ کمر و قرآن مجید پر نہ سبت، فعلی تبلیغ تہ کمر و نماز پر نہ سبتے۔ دینچہ کامہ ہاؤکھ پانہ تمہ کامہ کمر تھہ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز چھہ پتھہ رٹان پیچھہ کامیوتہ ناجاز حرکتونہ۔ یعنی  
 بزبان حال چھہ نمازونان کہ کس معبود برحقہ سندیوت تعظیم تھہ چھگھ کران، تسدہ خیرہ چھہ تھہ  
 یون نماز تہ کلہ زمینس پٹھہ تھاوان پیچھہ کامہ کرنہ سبتے تسنز بے تعظیسی کرن چھہ سیٹھاہ نازیبا تہ ناروا تھہ  
 پاشے ییر تھہ کامہ نمازورائے چھہ تمہ گیہ یاد خدا کرن تمن پٹھہ تہ گڑھہ پابندی کرن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 بیہ چھہ خدایہ سندیاد سیٹھاہ یوڈ چیزاہ فضیلت وول چیزاہ لہذا گڑھہ تھہ پٹھہ تہ پابندی کرن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہ سوروی بیہ توہ کران چھوہ لہذا اٹھہ کوم کر یوتھہ لیو مزدور،  
 خیر کر یوتہ خیری، پیچھہ کر یوتہ پیچھے۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ مہ آہو اے  
 مسلمانو بحث کران اہل کتابن سبتے، مگر تہ طریقہ تہذیبہ سان۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر نہ

بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ  
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ  
 اتَّبَعُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ط  
 مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ  
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُءُ بِسِينِكَ إِذْ الْأَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ ﴿۳۹﴾  
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

تمن سیٹے یم تمواندرہ ظلم یت زیادتی کرن۔ تمن و لو جواب یتھ شو ییکھ یت تیکھ۔ تیکھ یتھنہ کانہ خرچ  
 و قولوا امنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم و احدی سبہ مہذب طریقہ گوئیو ہے  
 کہ تجے آسو تمن و نان کہ اسہ کمر پڑھ تیکھ کتابہ یوہ سہ اسہ کن نازل آیہ کرنہ بیہ تیکھ کتابہ یوسہ توہہ کن  
 نازل آیہ کرنہ بیہ ہتھوہ تجے یت یہ تیکھ تسلیم کران کہ سون معبود یت تہند معبود چھ گئے۔ و نحن اولہ  
 مسلمون اس چھ تہندی فرمانبردار۔ تہند سی کھمس گردن دارن۔ کیا زہ ایمانگ دار و مدار چھ تہ  
 کتابہ ہندہ خدا یہ سہ طرفہ منزل آس پیٹھ۔ سانہ کتابہ ہند منزل من اللہ آسن چھ ثابت تہزہ کتابہ  
 سیٹے یت۔ لہذا ہزہ توہہ قرآن مجیدس ایمان ان یت پڑہ کرن و كذلك انزلنا الیک الكتاب فالتین  
 کراسہ توہہ پیٹھ نازل یہ کتاب یار سول اللہ تیکھ پاٹھے برو تظہین پیغمبرن پیٹھ اسہ کتابہ نازل کرہ  
 اتبعتھم الکتاب یؤمنون بہ پس یمن لوکن اسہ توہہ برو تیکھ کتاب عطا کر تم چھ اتھ تہزہ کتابہ  
 پڑھ کران و من ہولاء من یؤمن بہ سہ مملکہ کیولو کو اندرہ یت چھ کینہہ مصنف مزاج تیکھ کتابہ پڑھ  
 کران و ما یجحد بالیتنا الا الکفرون دلائل واضح سپدہ یتہ چھنہ انکار کران سائین آیاتن مگر ضدی  
 کافر و ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطئہ بسینک اذ الارتاب المبطون تہہ آسہ نہ بیہ  
 کتابہ برو تیکھ کانہ کتابہ ہر تیکھ ہیگان نہ آسہ تہہ سو کتاب لیکن ہیگان پنہ اتھ سیٹے۔ ہر گاہ نہ آسہ ہاتیلہ  
 و رش آس ضرور شک یت تہہ کر چ گنجائش دشمن بل هوایت بیئت فی صدور الذین اوتوا العلم و ما

بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۶۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ  
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۷۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۷۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۷۲﴾

يَجِدُ بِالآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ چھ یہ کتاب بذات خود باوجودیکہ یہ چھ گنی کتاب چونکہ امیک پرستہ  
 حصاہ چھ مجڑہ تمہ اعتبارہ چھ یہ کتاب واریاہ واضح دلیلہ تم لوکن ہندین دلن اندر، یمن علم عطا آو  
 کرنہ، مگر باوجود ظہور اعجاز چھ یمن سائین آیاتن تہ دلیلن انکار کران مگر ضدی لو کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ  
 عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ بیہ چھ یم لو کہ باوجود اینکہ قرآن مجید چھ بوڈ مجڑہ فرمان محض عنادہ کن کہ تمس  
 پیغمبرس پیٹھ کونہ آئی نازل کرنہ تمہندس پروردگارہ سندھ طرفہ تم مجڑہ یمن ہنراس فرمائش چھ  
 کران قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ تمہ فرماو یو کہ یارسول اللہ مجڑہ چھنہ مگر خدائس اتھ،  
 تہندسی اختیارس منز، بوچھس نہ مگر ن پاٹھ خدایہ سندہ عذابہ نشہ بیم کرہ ون۔ یعنی بہ چھس پیغمبر، پنہ  
 نس پیغمبر آسس پیٹھ چھ مہ نشہ واریاہ دلیلہ۔ بذلیل چھ یہ قرآن مجید أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
 الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کیاہ تمہندہ خاطرہ چھنا کافی یہ بوڈ مجڑہ کہ اسمہ کرنازل توبہ پیٹھ یہ بذ کتاب یوسہ  
 تمس پیٹھ پر نہ چھ یوان۔ امہ خوتہ کہہ بوڈ مجڑہ چھ تم ژھانڈان إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ پزپاٹ اتھ کتابہ منز چھ بڈ رحمت بیہ بوڈ وعظ بالیمان لوکن ہندہ خاطرہ بڈ رحمت گیہ اتھ  
 منز چھ احکامن ہنز تعلیم، ہتھ منز نفی نفع چھ بڈ نصیحت گیہ اتھ منز چھو تر غیب وتر ہییب یہ تھ چھنہ  
 بین مجڑن منز یمن پزہ ہایہ غیبت زانتھ ایمان اُن تہ پڑھہ کرن۔ ہر گادون توتہ یم ایمان اُن نہ قُلْ  
 كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا تمہ فرماو یو کہ تیلہ یارسول اللہ آخری جواب۔ ادہ سائتہ مان تو میون اللہ  
 تعالیٰ چھ بس گواہ۔ میہ منز تہ توبہ منز میانس پیغمبر آسس پیٹھ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سہ چھ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾  
يُعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾

زاناں تہ سوری یہ آسمان تہ زمین منز چھہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایم لو کہ  
اپزن کھن پیٹھ یقین چھہ کران معبودان باطلن چھہ پڑھ کران معبود برحقہ سزن کھن چھہ انکار کران  
تے لو کہ چھہ تاوان زد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بیہ چھہ تم کافر لو کہ توہہ عذاب جلد واقع سپدنگ  
مطالبہ کران تہ عذاب نہ بیہ مو کہ تھندس نبوتس پیٹھ شک تہ خبہ کران وَكُلُوا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ  
الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہر گاہ نے عذابہ خاطرہ وقت مقرر کرنہ آسہ ہا آمت یمن آسہ ہا  
عذاب ڈیٹھ کنہ ووتمت سہ عذاب پیہ واتھہ تمن ہچھہ تہ معھہ تھے پانٹھ کہ تم ژینہ نے نہ تمیک سن  
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ایم چھہ توہہ نشہ عذاب جلدینک مطالبہ کران  
حالانکہ عذاب گہ نار جنم چھہ تمن کافرن پر تھہ طرفہ احاطہ کرتھہ سہ رظہ تمن ٹنہ تہ سائہ تہ یوم  
يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بیہ دوہہ عذاب تمن ولہ  
ہیرہ بونہ کلو پیٹھ کنے تہ کھوہ رو بونے گئے تہ فرماویچھہ اللہ تعالیٰ اے کافر وژ ہو تمن تھہ کاین ہند مزہ  
بیہ ٹہے دنیاس اندر کران اسوہ يُعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ای میانو  
با ایمان بندو، بیلہ تم کافر لو کہ توہہ دین حق اختیار کرنہ خیترہ بیہ احکام شریعت بجائنے خاطرہ ایذا چھہ  
دوان۔ پڑے پانٹھے میون زمین چھہ کشادہ تہ کھول۔ ہر گاہ تہ روز تھہ ٹہہ عبادت چھوہ نہ ہیکان کر تھہ  
رشتہ دارن تہ دوستن تہ وٹخ مفارقت دشوار سپدہ سؤ مفارقت چھہ اکہ تہ اکہ دوہہ سپدہ وٹے یکازہ۔



كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ الْيُنَاثِرُ جَعُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَٰكِن

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پریتھ شخص جسک کہتہ کہہ دوتہ کہہ مرہ نک مزہ ضرور ژہن تمہ ساتہ گڑھہ بہر حال جدائی تہر الیناثر جعون تو پتہ ہتھوہ توتہ سارنہ اسی نغہ وائن نافرمان آتھہ آتھہ نغہ وائس ہتھوہ سز اکھیک خطرہ ہر گاہ یہ ترک وطن سارہ رضامندی خاطرہ کرو تھہ منز سپد پونجہ سانس و عدس مستحق تہ سزوار سہ وعدہ گوئیوے کہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یمولو کو ایمان اون یہ کر کیکہ رتہ عملہ رتہ و عملو اندرہ گو ترک و وطن کرن ٹھر کہ شہرہ نشہ ہجرت کرن تمن دمواس جای جنتہ کین بالا خان اندر، یمو تیل جو یہ پکان آسن تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ۔ کیاہ رتہ مزور یاہ چھہ یہ جنت کام کرہ وین ہندہ خاطرہ۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یم گئے تے سمو دنیاس اندر اکھ تخمین پیٹھ، یمن منز ہجرت حتی تہ محسوب چھہ، صبر کرمیہ آس پنسہ پروردگارس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران۔ ہر گاہ کانسہ وسوسہ سپدہ کہ ہجرت کر تھہ بین شہرن منز گڑھہ ہتھہ کیاہ کھمو چیمو، تم کرن نظر وارہ ہتھہ پیٹھ کہ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ واریاہ جانور چھہ تم، یم نہ تلتھہ تھاوان چھہ پن روزی کئیہ جایہ۔ اللہ تعالیٰ ای ہتھہ تمن مفدہ رزق عطا کران۔ توتہ ہتہ چھہ سی مفدہ رزق وائتہ ناوان۔ ادہ بیتہ آسوتہ تہ ستہ۔

لہذا تمہ کرو تہہ امیک وسوسہ بلکہ کرو خدا کس پیٹھ پور بھروسہ۔ سہ چھہ یقیناً بھروسہ کرنس سزوار کیا زہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سہ چھہ سوروی بوزہ ون، سوروی زانہ ون۔ ہتھہ پاتھہ چھہ سہہ سارنہ صفتن اندر سیٹھاہ کامل لہذا کس کامل الصفات چھہ سہ چھہ بھروسہ کرنس قابل وَلَٰكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يَوْمَئِذٍ نَافِلٌ ﴿۱۱﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ  
 مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَئِن  
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ  
 مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يَوْمَئِذٍ نَافِلٌ ﴿۱۱﴾ تمہیں کافر ان پر ڈھو  
 آسمان سے زمین کم چھہ کورمت پادہ، بیہ کم لوگ کامہ آفتاب سے زون، ضرور دین تم اللہ تعالیٰ تمہیں  
 اقرار کرت کت چھہ پت پھر ان ژلان تم، نس یوت عبادت کرنے لغہ۔ یعنی توحید فی التکوین ماننے کونہ  
 چھہ توحید فی الالوہیت مانان۔ پتھہ پاتھہ خالق اللہ تعالیٰ، پتھہ پاتھہ رازق سے سی۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن  
 يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ چنانچہ اللہ تعالیٰ ای چھہ رزق اندر وسعت  
 کران۔ تمہیں پڑھان چھہ تمہیں پنے نیوہند و اندرہ۔ بیہ چھہ سنی رزق اندر تنگی کران۔ تمہیں پڑھان چھہ  
 تمہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سی چھہ پر پتھہ چیز ج پور خبر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
 الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ﴿۱۳﴾ بیہ ہر گاہ چھہ پر ڈھو تمہیں آسمان چھہ طرفہ کم ترورود، تو پتہ  
 کورن زندہ تمہہ رورودہ سیتے زمین تمہہ کہ مر نہ پتہ یعنی سر سبز کورن ہو کھنہ پتہ۔ ضرور دین امیک جواب  
 تہ کہ اللہ تعالیٰ ان ترورود، سوی چھہ زمینس مردہ گڑھتھہ بیہ زندہ کران یعنی خشک گڑھنہ پتہ سر سبز  
 کران قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾ چھہ دپو حمد معبود بر حقس۔ ایڑہ ہنہ تہ کور تموا اقرار مگر تم  
 لو کھہ چھہنہ مانان تہ تسلیم کران، بلکہ چھہ امہ خوتہ بیا کھتھہ کہ تمواندرہ چھہ اکثر تمہیں نہ زان تنگان چھہ  
 کینہہ تہ نہ امہ موکھ کہ عقل کیا چھہ کھنہ بلکہ چھہنہ تم عقلہ کام ہیوان تم چھہنہ اتھہ منز غور کران کہ بیہ  
 بیہ کامہ بیلہ خدای پوت کران چھہ، تس ورا ای شو بیابہ کانسہ ہنز عبادت کران۔ غور نہ کرنے موکھ چھہ  
 تمہیں لغہ بدیگی تہ ظاہر چیز خفی تہ پو شیدہ روزان۔ سہ غور نہ کرنک وجہ چھہ یم چھہ دنیا کین شغلن

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ  
لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا  
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ  
يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَّفُ النَّاسُ  
مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۶﴾

اندر حالانکه و مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ وَلَعِبٌ بیه چھنہ یہ دنیا ہی زندگی لہو لعبہ ورائے کینہہ تہ  
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی گیہ عالم آخرت زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تج  
خبر آسہا تم تیلہ کرہ ہن نہ ناپائیدار زندگی اختیار۔ کئہ وقتہ چھہ تم توحید الوہیت تہ اقرار کران۔ چنانچہ  
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہنزہ غیر مستقل مزاجی ہنزہ بیاکہ مثال چھہ، تم  
ییلہ سمندرس منز جہازن پیٹھ سوار سپد تھہ سفر کران چھہ تو پتہ چھہ ناوتہنز واوہ اولئس منز یوان، تمہ  
ساتہ چھہ تم خدایسی پیٹھ پور اعتقاد تھاوت نجات منگان، مگر دنیا چن کاہن اندر روزنہ سببہ چھنہ حال  
پوشان۔ چنانچہ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ حتمہ پتہ یلیہ سہ نجات دت نفس سُن واتہ  
ناوان چھہ، آتی چھہ بیه تس شریک ٹھراوان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ بیتھ کفران نعمت کرن تم تھہ  
نفس یوسہ تمن آسہ عطا کر وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بیه چھہ کینہہ کالادنیاس اندر تمتع تلن۔  
مگر بروٹھہ پئہن سپدیکھہ پائے معلوم آسہ ٹھران نعمتک انجام مین چھہ توحید قبول کرنہ نیشہ اکھ مانع  
دنیا س اندر بوڈن دیوم حیلہ چھہ یہ خیال کہ ہر گاہ اس توحید قبول کرو تیلہ مارن آسہ لوکھ بیتھ  
شہرس منز دن نہ آسہ بسہ ئے اُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا تمہو لو کو بیٹے  
کہہ کیو کا فرو چھنا کہ آسہ بچو ٹھہد شہر حرمہ وول شہراہ، امن واما نگ شہراہ تمن اندی کپے سم لوکھ چھہ  
تم چھہ یوان رٹھہ نہ تہ مارنہ، تم چھہ آتھ شہرس منز روز تھہ محفوظ اٹھہ مہربانی کر تھہ أَفَبَالْبَاطِلِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ  
لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ  
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

یَوْمُ مَنُونٍ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ حق سے پوزیوت واضح آتھہ چھایم ایزین معبودن پڑھ کر ان بیہ چھہ اللہ  
تعالیٰ سزین نعمون بے قدری سے انکار کران معبود برحقس ہھہ شریک ٹھہراوان شریک بخدا ان  
گو سخت ٹھہرا ان نعمت کرن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ  
بیہ ٹھہ اکھاہ ہھہ یٹھ ظالم سے ناانصاف ٹس شخصہ سہہ ٹو سے ہم ایز نو زود معبود برحقس پیٹھ بلا دلیل تس  
شریک ٹھہرا نہ سیتہ یازان اہڈ پڑ ٹھہ یلہ سوتس نعمہ واژ با دلیل الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ  
کیاہ جنم ہھہ نارونج جای تمن کافرن ہندہ خاطرہ۔ واقعی ہھہ بوڈسز ابدین مجر من ہندہ خاطرہ نار جنم  
وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سمو لو کو سائہ دینہ خاطرہ  
کوشش کر تکلیف برداشت کو ر تمن ہاؤ و اس ضرور پنہ قریبہ و نہ حقاوتھ پڑ پاٹھ اللہ تعالیٰ ہھہ سیت  
سیت نیکو کارن غلوصہ والین بدن ذنیاعس اندر سے آخر تس اندر سے



## سُورَةُ الرَّؤْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اللَّهُ ۱ غَلَبَتِ الرَّؤْمُ ۲ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ  
 عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۴ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ  
 قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۶  
 بِنَصْرِ اللَّهِ ۷ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۸ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۹  
 وَعَدَّ اللَّهُ ۱۰ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۱۱ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اللَّهُ ۱۰ بسم چھ حروف مقطعات۔ سمن ہند معنی زانہ خدا غَلَبَتِ الرَّؤْمُ \* فِي آدْنَى الْأَرْضِ رومک  
 نصاریٰ سپد اس قریب جلیہ پیٹھ مغلوب بیتس تم جنگ آس کران یوسہ جای فارسہ خوتہ ملک عربس  
 گھ تلمہ گھ تھہ جلیہ جھہ ناوازرعات تہ بصری یم شامس منزہہ شہر جھہ حکومت رومس ماتحت آسنہ موہ کھہ  
 جھہ رومہ کس زمینس سیت شامل۔ تھہ جلیہ سپد اہل روم یعنی نصاریٰ فارسہ کین لوکن مقابلہ تم آتش  
 پرست آس، مغلوب۔ سیمہ سیت عربک مشرک خوش سپد۔ یکمازہ تم آس نصاریٰ ان اہل کتاب آسنہ  
 موکھ مسلمانہ نے سیت زانال۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بَضْعِ سِنِينَ پنتہ  
 مغلوب سپد نہ پتہ سپدن تم رومی جلدے ضرور غالب اہل فار سن پیٹھ دو تمس مقابلس اندر کینون ورنن  
 تام۔ تریو رہو پیٹھ کون تام اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ یہ مغلوب سپدن تہ غالب سپدن جھہ  
 خدایہ سندس اختیارس منز۔ مغلوب سپدنہ بروٹھ تہ اوس اختیار خدایہ سے تہ خدایہ سی اٹھہ جھہ اختیار  
 گوڈہ تہ تہ پتہ تہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ تہ دوہن سپدن خوش با ایمان اللہ تعالیٰ  
 سہہ تمہ یاری تہ مددہ سیت يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ سہہ جھہ یاری کران کس یڑھان جھہ کس  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سہہ جھہ سیٹھہ غالب سیٹھہ رحم کرہ ون وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ  
 الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَ  
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكْفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بے چھہ خدا یہ سہہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ چھنہ بدل کر ان پنے نس  
 وعدس مگر اکثر لوکھ چھنہ تصرفات الہین زانان۔ تم چھہ صرف ظاہری اسبابن کن و چھتھہ قیاس آرائی  
 کران يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ایم چھہ زانان صرف دنیاچہ  
 زندگی ہند ظاہری حال مگر تم چھہ آخرتہ نشہ بالکل بے خبر۔ تمن چھنہ معلوم آخرتس منز کیاہ آسہ  
 تہند حال۔ کیاہہ تمن چھنہ کانہہ اندیشہ تمن چیزن ہند سمو چیز وسیت تم ہتہ عذابس گر قمار سپدن۔  
 مثلاً کھر شرک تہ نافرمانی خدا ورسول نہ چھہ تمن فخر تمن چیزن ہنز سمو سیت تمن نجات ہند ہا۔ سہ گو  
 ایمان تہ فرمانبرداری۔ تہزہ نظر چھہ فقط دنیا س کن أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کیاہ آخر چھہ صحیح تہ حق آسچہ دلیلہ بوزتھ چھنا یم  
 لوکھ پانس سیت غور تہ فکر کران کہ اللہ تعالیٰ ان کوریہ زمین تہ آسمان ہیہ یہ تمن دون منز باگ چھہ  
 پیدہ مگر سہ حکمتہ سے پیٹھ۔ بیہ اکہ معین مد تہ خاطرہ سہ مدت گروہہ ختم پتہ آسہ قیامت یمہ دوہ بہ  
 لوکھ خدا بس بروٹھ کن پیش من کرنہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكْفِرُونَ لیکن اکثر لوکھ  
 چھہ قیاس پنے نس پروردگار سیت ملاقات سپدن انکارے کران۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیاہ تم لوکھ چھناز مینس پیٹھ اورہ یور پھیرے مت۔  
 کیاہ تم چھنا گرو منز نیمہ درامت۔ ہر گاہ تم اورہ یور پھیرہ ہن تیلہ و چھہ ہن تم کہ کیاہ چھہ سپد مت انجام  
 قیامتہ گین تمن مکران ہند یم تمن بروٹھ آس۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَخَادُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ  
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ  
 أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠  
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ  
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ ١٣

اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جنم حالت آس کہ تم آس تمہدہ خود زیادہ قوت سے  
 طاقس اندر بیہ اوس تموز میں لوگمت بیہ اوسکھ سہ بیول ووتھ کرہ جایہ لد تھہ یہندہ خود زیادہ آباد  
 کورمت۔ تمن نشہ تہ ووت پیغمبر ہند ساند طرفہ ن منجرات ہیہ۔ مگر تمومون نہ کینہہ تہ توپتہ کھیو تمومو  
 تمہ نافرمانی ہند سزا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تہ ہند ہانہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ  
 کیاہ کرہ ہا تمن ظلم مگر تم اس کھر وشر کہ سیت پیغمبرن انکار کرنہ سیت پان پانس ظلم کران ثُمَّ كَانَ  
 عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ توپتہ سپد تمن چھ کامہ  
 کرہ و نین تہ پیغمبرن انکار کرہ و نین ہند انجام تہ چھگی کیاہہ تموزان اپزخدا یہ سند آیات بیہ آس تم  
 آیاتن ٹھہہ کران اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ مخلوقاتن گوڈہ تہ  
 پیدہ کران۔ تمہ پتہ کرکھ سے بیہ دوبارہ پیدہ تمہ پتہ ایونہہ نس گن واتاوانہ حساب و کتابہ خاطرہ  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بیہ سمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ نا امید تہ حیران سپدن تمہ  
 دوہہ کافر تہ نافرمان کانہہ تمہ ہیکن نہ تم کر تھہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ  
 وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ آسنہ بیہ تمن پنہ نیو شریکو اندرہ تمن تم عبادتس اندر خدا نلس

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۴﴾  
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ  
 فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿۱۵﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ  
 تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۷﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

شريك ٹھہراوان آس کا منہ سے شفاعت کرتے ہوئے کلاہ و ناہ۔ تم سہ دن تمہ وقت پانہ پنہ نین شریک (یعنی  
 تم شریک خدا زانان آس) مکر و یوم تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ یہ سہ دوہہ قیامت  
 قائم سپہ تمہ دوہہ سپہن لوکھ الگ الگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ  
 يُحْبَرُونَ سمولو کو ایمان لون یہ کرکھ رتہ عملہ تم آس جنتہ کس بائس منز سینٹھاہ خوش فرحت و سرورس  
 اندر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ یہ  
 سمو خدا ئس پا خدایہ سندس گن آس انکار کور یہ زانکھ اُزسان آیات یہ آخرتس اندر اسہ سبت  
 ملاقات کرہ ئس ئس بئن تم عذابس گرفتار کرنہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  
 بلہ تہہ ایمان و عمل صالحک فضیلت معلوم سپہ ئس کرو تہہ بہ پاکی یاد خدا یمہ ساتہ توہ شام کران چھوہ  
 یہ سہ دوہہ ساتہ توہ صبح کران چھوہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیازہ ئس شو بکن ساری  
 تعریف یم کرنہ یوان چھہ آسمانن سے زمین اندر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ یہ کرو تہہ ٹھندوی یاد  
 دیکھس ہتمس حصس اندر۔ یہ یمہ ساتہ توہ پیشہ کس و قس منز داخل چھوہ سپان۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سہ معبود برحق چھہ جان دارس کڈان بے جانس نشہ مثلاً لطفہ



مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
 تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ  
 وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

نشم انسان، ٹھولہ منزه جانورس۔ بیه ہجھہ بے جانس کڈان جاندارس نشہ۔ مثلاً لطف انسان نشہ  
 ٹھولس جانورس نشہ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ بیه چھو سؤی زمینس زندہ  
 تہ سبز و شاداب کران تممہ مرنہ پتہ یعنی خشک گڑھنہ پتہ۔ يتھہ پائھ بیو تھہ تہ قیامتک دوہ قبر و منزه ہمیر  
 کڈنہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ معبود برحقہ سبند یو قدرتہ کیو  
 نشائو اندر چھہ کہ تھہ کرنوہ پیدہ میوہ تو پتہ چھوہ تھہ انسان بٹھہ زمینس پیٹھہ چھہ کرنہ يتھہ پھیران۔  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بیه  
 چھہ تھندی قدرتہ کیو نشائو اندرہ ای زہ پیدہ کرین تھندہ خیطرہ تو ہی منزه تھنزہ زنانہ يتھہ تھہ قرار رٹو  
 تھن نشہ۔ بیه تروون توہہ دون باژن منر مجبت، شفقت تہ ہمدردی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ پز پات اتھ منر چھہ بڈ بڈ نشانہ غور و فکھ کرہ و نین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ تھندی قدرتہ کیو نشائو اندرہ چھہ آسمان و  
 زمینک پیدہ کرن۔ بیه تھنزہ زویہ یعنی لغت تہ تھندین بدن ہند رنگ مختلف آسن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْعَالِمِينَ پز پات اتھ منر چھہ بڈ بڈ نشانہ زان و الین تہ عاکن ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۳۴﴾  
وَمِنْ اٰيٰتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ  
دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَلَهُ مَنۢ فِي  
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَهُوَ الَّذِيۢ يَبْدَاُ

بِالْبَلِّ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ  
زیاده۔ بیه دہلہ سے تھمد تھانڈن تھمد فضل یعنی رزک تلاش کرن اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ  
يَّسْمَعُونَ پزپاٹ اتھ منزہہ ہڈ نشانہ توجہ سان بوزن والین ہندہ خیطرہ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بیه چھہ تھمدہ قدرتہ کیونشانو  
اندرہ کہ سہ چھہ توبہہ نیم کرنہ خاطرہ بیه امید نہ خاطرہ وزملہ ہاوان بیه آسمانہ طرفہ رُود تراوتھ  
موقس یعنی خشک گاقس زمینس زندہ سرسبز وشاداب کران اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ پز  
پاٹ اتھ منزہہ چھہ قدر تک ہڈ نشانہ عقلہ کام ہینہ والین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ اٰيٰتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ  
وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهِ بیه چھہ تھمد یو قدرتہ کیونشانو اندرہ کہ آسمان سے زمین چھہ قائم تھمدی حکمہ سے ارادہ  
سیت توبہہ چھوہ اکس خاص مقرر کرنہ آقس وقس تان زندگی بسر کرت زمینس اندر دفن کرنہ یوان۔  
ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ توپتہ بلہ سہ قیامتک دودہ توبہہ اکہ خاص قسمک آلو  
دیہ اتی نیر وجہہ ساری قبر ومنزہ وَلَهُ مَنۢ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ یم آسمانس سے  
زمینس منز مخلوق چھہ تم ساری چھہ تھمدی مملوک۔ ساری چھہ تھمد سی حکمس تابع سے فرمانبردار۔ امہ  
اندرہ سپد ثابت کہ۔ وَهُوَ الَّذِيۢ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ سہ پروردگار گوسوی یم  
مخلوقات گوڈہ پیدہ کرتو پتہ کرکھ سہ بیه دوبارہ پیدہ قیامتک دودہ۔ تمس نش چھہ دوبارہ بیه پیدہ کرن زیادہ

الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾ ضَرَبَ لَكُمْ  
 مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِن شُرَكَاءَ فِي مَارِزَقَاتِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ  
 كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَقِصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾  
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي

آسان قدرت بشریہ کہ اعتبارہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس مجھ تھہ صفت تہ  
 ٹھو دشان ٹس برابر تہ ٹس ہیو جھہ کانہہ تہ آسان تہ زمین اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سنی چھہ غلبہ  
 وول قادر مطلق جھہ وول ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ ان کور بیان توبہ شرک  
 مذموم تہ باطل آسن فخرہ تارنہ خاطرہ جھزے اکھ مثالا اکھ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارِزَقَاتِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ سُو مثال گیہ کیہ کہ وارہ  
 کرو جہ غور کہ کیاہ جہ چھوہ برابر مالک منہ قسمہ شریک تھہ ماس اندر ٹس اسی توبہ عطا کور مت جھہ۔  
 جہہ تہ جہہ غلام آسہ ہن تھہ ماس اندر برابر مالک۔ جہہ آسہ ہیو کھوژان تمن غلامن تھہ ماس منز  
 تصرف کر ٹس اندر۔ جھہ پاٹھ جہہ پانہ وان اکھ شریک بیس شریکس نچہ کھوژان چھوہ كَذَلِكَ نَقِصُّ  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ جھہ پاٹھ چھہ آس ویشہ ناو تھہ بیان کران ہن آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ  
 سمن عقل چھہ یعنی جہہ یلہ نہ پنہ حقہ غلامن مملوٹن ہند شریک آسن برداشت کران چھوہ خدایہ سند  
 مملوک کیاہ جھو کہ جھہ شریک زانان یہ جھہ بوڈ ظلم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 بلکہ کر سمو ظالمو منہ صحیح دلیلہ ورا ی پنہ نین خیالات فامد تہ نفسانی خواہش ہنز پیروی فَمَنْ  
 يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ سمس اللہ تعالیٰ اپزس اصرار کرنہ سبہ و تھہ راورہ ٹس جہہ اکھاہ بیسہ و تھہ تہ  
 ہدایت کر تھہ وَمَا لَهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ سمن گمر ہن یلہ عذاب بیہ کرنہ تمہہ ساتہ بیسہ نہ کانہہ تمن منہ قسمہ

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصَيْرِينَ ﴿۳۹﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ  
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۱﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا  
 دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۴۲﴾

ہدایت سے مدد کرتے تھے۔ لہذا چہرہ پر ہتھ اکس بوزہ ونس یوان دینہ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذہ سید  
 پر ہتھ باطل دینہ نغمہ الگ۔ تو پتہ کر تھے ہن رخ دین حقس کن فطرت اللہ الٹی فطر الناس علیہا  
 ذہ کرتا بتاعت سے بیروی تھے قابلتیس ہتھ قابلتیس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان ساری انسان پیدا کرمت چھ۔  
 مطلب امیک چھ کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ پر ہتھ شخصہ پیدا کرمت پر ہتھ اکس چھن استعداد عطا کرمت  
 کہ ہر گاہ سہ پرتھہ بوزن یٹھہ، فکرہ ترن یٹھہ، سہ بیجہ بوزت نس بیجہ فکرہ تر تھ۔ تھ متابت کرن گیہ  
 کہ تھ استعدادس سے قابلتیس ہیہ کام سہ ہتھ منگان چھہ تمہ موجب کرہ عمل لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
 خدایہ سندس اتھ پیدا کر قس چیزس، ہتھ پیٹھ تم ساری انسان پادہ کرمت چھ گدھہ نہ تغیر و تبدیل  
 کرن ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ہیہ ہتھ شیخ محکم و تھ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لو کہ چھہ  
 بوجہ عدم تدبیر زمان تمہ موکہ چھہ تمیک اتباع کران مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ای لو کو ٹہہ کرو رجوع نس خدایس کن بیہ کھو ژو نس۔ تھندس  
 مخالفتس سے مخالفت کس عذابس بیہ کرو دین اسلام قبول تو پتہ تھا و پر نماز پابندی سان بیہ مہ آہو  
 مشر کواندرہ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بیہ مہ آہو  
 مشر کواندرہ سمو چھہ کرہ و دینس پنہ نس سے بیجھہ واریاہ جہازاک رٹ اکھ و تہ ایزہ سے باطل و تہ چھہ واریاہ  
 سمو ترا و پوز تھ ایزہ سے باطل و تہ ترا و یکھ ای گو پنہ نس و دینس چھہ کر نہ اک رٹ اکھ و تھ، بے رٹ

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  
 آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ لِيَكْفُرُوا  
 بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعْتَبُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا  
 فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا  
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ لِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِنَا إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۴﴾

بیاکھ و تھ ائی سیت گیه واریاہ جمائٹ۔ اگر پڑھ و تہ پیٹھ روزہ مَن تسلیم آسہائٹی جماعت۔ باوجود آئہ یہ سارے و تہ چھ باطل تہ ازہ توتہ پٹھ جمل و نادانی کن تمواندرہ پرستھ اکھاہ پندرہ پندرہ و تہ پیٹھ ژینگان۔ خیال کران کہ بہ چھس صحیح و تہ پیٹھ حالانکہ یہ ام سہ خیال پٹھ بالکل غلط۔ سیز و تھ پٹھ توحید و تھ۔ پٹھ و تہ کن آس تمن نادوان چھ عام طور پٹھ تمن لوگن ہندہ حال و قالہ سیت ثابت سپدان کہ یوہے پٹھ دین حق۔ کیا زہ اضطرار کہ وقتہ پٹھ تم تہ اتھ دینس تسلیم کران۔ یہ اندرہ ثابت پٹھ سپدان کہ واقعی پٹھ یوہے دین فطرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پٹھ فرماوان **وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ**۔ بیلہ لوگن کانہہ سختیاہ و اتان پٹھ تمہہ ساتھ پٹھ بیقرار سپد تھ آلودوان پنہ نے حقیقی پروردگار س کن رجوع کر تھ توتہ پتہ یلہ سہ تمن پنہ رحمتک مزہ چھ ہاوان سوختی دور کرنہ سیت ائی چھہ تمواندرہ اکھ جماعت پنہ نس پروردگار س بیہ شرک انان **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** پٹھ گھران نعمت کرن تھ نفس یوسہ آسہ تمن عطا کرے یہ **فَتَسْتَعْتَبُوا** پس تل تموتحہہ کینہہ کالاہ **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** برونہ پن زانوپائے امیک مزہ **أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ** کنہ آسہ چھ تمن پیٹھ کانہہ دلیلاہ کانہہ کتابہ نازل کر مژ۔ سوی کیاہ پٹھ تمن دپان شرکچہ تھ تہ کامہ کرو **وَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا** یلہ اس لوکن پنہ مہربانی و رحمتک مزہ چھ ہاوان تمہ سیت چھ تم خوش گدھان۔ تمہ سببہ چھ غفلتس منز بوڈ تھ شرکچہ کامہ کران **وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ لِمَا قَدَّمْتُمْ آيَاتِنَا** توتہ ہر گاہ تمن و اتان پٹھ کانہہ سختیاہ تمن پیٹھ

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ  
 الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
 اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَتَّبِعْتُمْ مِنْ رَبِّبَالْيَرْبُؤِ  
 فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَتَّبِعْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

کامین ہندہ شامتہ سمہ جہندہ اتھ آمزہ چھ آسان اذامہ بیظون اتی جھہ تم نامید سپدان اولم  
 یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کیاہ تم چھناو چھان کہ پڑیاک اللہ تعالیٰ ای پھہ رزق  
 اندر وسعت کران بس یشھان چھہ۔ بیہ پھہ سنی تنگی کران رزق اندر بس یشھان پھہ تس لاک فی  
 ذلک لآیات لقوم مؤمنون بے شک اتھ منزتہ چھہ بڈبڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک تہ کن آسک  
 بایمان ہندہ خاطرہ فات ذالقربی حقہ و المسکین و ابن السبیل پس یلہ توحید چود لیلو سیت  
 معلوم سپد کہ رزق تنگی تہ وسعت پھہ خدایہ سی اتھ امہ سیت سز بیاکھ اتھ ثابت کہ نخل کرن پھہ  
 سیٹھاہ پھہ کیاہ امہ سیت مقدرس اندر زیادتی بیحہ نہ سپد لہذا چھہ نخل کرن بے فائدہ اے مسلمانو  
 جہہ مہ آسو بخل کران بلکہ آسو قرابتہ والین واتاوان جہند حق بیہ مسکین بیہ مسافرن ذلک  
 خیر للذین یریدون وجہ اللہ و اولیک ہم المفلحون ای پھہ بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ یم  
 ژھانڈان چھہ رضای خدایہ چھہ تے لوکہ رستگار تہ کامیاب۔ و ما تبتعتم من ربالیربؤ فی اموال  
 الناس فلا یربؤا عند اللہ بیہ بس چیز جہہ دنیا خاطرہ تہ خرچ کران چھوہ یمہ غرضہ کہ سہ چیز ولتہ  
 لوکن ہندس ماس اندر تو پتہ سمہ ساتہ تمن سہ چیز واپس کرنگ وقت ولتہ تمہ ساتہ واتہ امہ نشہ سہ چیز  
 رت تہ زیادہ سپد تہ پھہ پاٹھ و نبوی رسومن اندر عام طور کرنہ پھہ یوان اتھہ ہینہ و بس جھنہ اللہ اس  
 نشہ کانہ زیادتی سپدان کیاہہ خدایس نشہ پھہ سہ مال واتان نہ پھہ سہ زیادہ سپدان۔ بس نہ جہندہ رضا  
 خاطرہ آسہ ونہ آمت۔ چونکہ اتھہ ہینہ و بس منز پھنہ خدایہ سندہ رضایچ کانہہ نیت آسان لہذا چھہ نہ بیہ

فَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۱﴾ اللَّهُ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ  
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَبَتُ أَيْدِي  
 النَّاسِ لِيَدِيْقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا أَلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۳﴾  
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تہنہ، درگاہہ اندر قبول سپدان نہ مجھ اتھہ منز کینہہ زیادتی سپدان و مَا آتَيْتُمْ مِنْ ذِكْوَةِ فَرِيدُونَ  
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ مگر رئیس رقم تہہ دو ان چھوہ خدایہ سدہ خاطرہ زکوٰۃ ہش تہہ منز  
 ژھانڈان چھوہ تہہ خدایہ سدی رضا امہ قسمک لوکھ چھہ خدایس نشہ جمع کر تھہ ہن دہشت مال ہرہ  
 راوان زیادہ کران اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ معبود بر حق مجھ سہ  
 ذات پاک ہم تہہ پیدہ کروہ تو پتہ کورنوہ رزق عطا تو پتہ چھوہ سے ماران تو پتہ کردہ سے بیہ زندہ قیامتک  
 دودہ سہ مجھ امہ قسمک قدرتہ دول ہل من شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ توہ و نتو کیاہ  
 تہنہد یو شرک یواندرتہ چھاکانہہ تہتہ یس تمکو کامیواندرہ کانہہ کاماہ چھہ کر تھہ ہیگان سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ پس سپد ثابت کہ سہ مجھ منزہ تہ پاک بیہ بلند تر برتر۔ تمہہ ساری شر کہ نشہ یس شرک تم  
 لوکھ تس گن لاگان چھہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيَدِيْقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي  
 عَمِلُوا أَلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شرک و نا فرمانی ہند اثر چھہ تہتہ خراب کہ ظاہر سپز تباہی قسطہ و باع بیہ  
 طوفان خشکی اندرتہ تری اندرتہ یعنی ساری دنیا اس اندر لوگن ہنز و پیچہ علموسیت تہتہ اللہ تعالیٰ تمن  
 مزہ ژہناوہ تہنزن بھتے کائین ہندیہ تمو کرہ دیدہ تم پائس پین۔ تمو پیچہ کامیوانشہ روزن پتہ۔  
 ہر گاہ تمن مشرگن اتھہ اندر کانہہ شک مجھہ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
 الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ  
 يَصَّدَّ عُونَ ﴿۳۲﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ ﴿۳۳﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلِ نَبه فرمايو که يار رسول الله اى لو کو نهنه پھير تو سارے زمينس منز تو پتہ و چھتو کياہ چھو  
 سپدنت انجام تهن مشرک لوگن ہند سم توبہ برو نھ آس۔ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ تمواندرہ آس اکثر  
 مشرکے۔ نہہ و چھتو کہ تم تھہ پانٹھے آے گانہ عذاب آسمانی سبت یہ سبت صاف چھہ ونان کہ شرک  
 چھہ بوڈ گناہ۔ بیلہ شرکک پچھ آس ظاہر سپد پس اى مخاطب فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُونَ پس تھاوڑہ ہن نھہ سیود محکم و نيس اسلامس  
 نہ توحیدس گن تھہ پیٹھہ کر استقامت سہ دہہ بینہ برو نھہ۔ بھتھہ خدا یہ سہہ طرفہ ہتھہ برو نھہ ڈلن چھہ  
 بلکہ چھہ قطعاً تہیقیناً سہ دہہ اوہون تہی دہہ سپدن لوگن عملن ہندہ اعتبارہ زہ حصہ اکھ واتہ جتنس بیاکھ واتہ  
 جہنمس بھتھہ پانٹھہ کہ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ نيس شخص  
 مھر چہ کامہ کران آسہ تس چھہ تمن کاین ہند سزا کھیون بیہ یم لو کہ رزہ عملہ کران آس تم چھہ پنہ  
 نین پانن ہنزہ کامیابی ہند سزہ سامان تیار کران لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ  
 فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بھتھہ اللہ تعالیٰ پنہ فضلہ سبت رز مزور عطا کرہ تمن لوکن سموا ایمان اولن  
 بیہ کر بھتھہ رزہ عملہ کافر سپدن تمن بشرہ محروم کمازہ اللہ تعالیٰ بھتھہ پسند کران کافرن وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ  
 يُرْسِلَ الرِّيحَ بیہ چھہ پروردگارہ سہد یوقدرتہ کیونشاؤ اندرہ کہ سہ چھہ واوان سوزان رُود پنہ برو نھہ  
 رودج خوشخبری ہتھہ بیہ بھتھو تہہ ہادہ سوزہ پنہ رحمتک یعنی باران رحمتک مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ



الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا  
 عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ  
 فَتُنْفِثُ سَحَابًا مَبْسُوطَةً فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ  
 كَسَفًا تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

تَصَيَّبَهُ وَاجْتَرَى الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ بے ہتھ تمہ وادہ سیت چکن تہمدہ لحمہ سیت دریاؤن اندر جہ بجد ناوہ تہ  
 جمازہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ بے ہتھ تہمہ جہازن تہ ناؤن اندر سیر کر تھ تھانڈو تہ تلاش کرو تہمدہ فضل  
 یعنی روزی وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بے تہمہ شکر گذاری کرو تہمز۔ یہ نعمو آتھ تہ چھ مٹرک ناسپاسی  
 کران۔ شرک آنہ سیت، احکامن ہنز مخالفت کرنہ سیت پیغمبرن تہ باایمان ایذاونہ سیت مگر  
 تہمہ مہ سپد وادہ خاطرہ آزرہ تہ غمگین کیازہ اس بھموتمن نشہ عنقریب ایک انتقام تہمہ پاٹھ بروٹھ تہ  
 تہمہ واقعہ سپد مت چھ چنانچہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
 فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بے شک یلہ سوزاسہ تو بہ بروٹھ یار سول اللہ واریاہ پیغمبر پنے نین  
 قومن گن تو پتہ آئی تم پیغمبر تمن نشہ نن معجزات تہ منہ دلیلہ ہتھ مگر تموزان تم اپز۔ پس ہیوت اسہ  
 تمن لوکن نشہ سمو نافرمانی کر انتقام وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کیازہ اسہ پیٹھ اوس مہ  
 باایمان یاری کرن پندہ وعدہ موجب اللہ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُنْفِثُ سَحَابًا مَبْسُوطَةً فِي السَّمَاءِ  
 كَيْفَ يَشَاءُ معبود برحق چھہ ہتھ قدر تہ وول تہ حکمتہ وول بس ولسوزان تھہ۔ سہ وادہ تھہ ارس تلان تو  
 پتہ چھس آسمان کھارت نموہ راوان تہمہ پاٹھ سہ یژھان تھہ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ  
 مِنْ خِلَالِهِ تو پتہ چھس تھوان تہمہ بہ تہمہ تو پتہ چھکھ ژہ وچھان رود چھہ نیران تہمہ ابرہ منزہ  
 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ تو پتہ یلہ سہ رود اتناؤن تھہ پنے نیو

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۴۹﴾  
 فَانظُرْ إِلَى الشَّرْحَتِ اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾ وَلَئِنْ  
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومِ مِنْ أَعْدَائِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِنَّكَ  
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿۵۲﴾

ہندواندرہ تمن، سمن نشہ و اتناون یرھان چھہ آتی چھہ تم خوش گوھان تہ شادیانہ کران۔ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالہجہ تم آس یقیناً مہ رود کہ ینہ بروئھہ بالکل  
 نامید تہ مایوس سپد مت فانظُرْ إِلَى الشَّرْحَتِ اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجِي  
 الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پس وجھہ ژہ خدایہ سدہ رحمتک آثار تہ نتیجہ کھہ پاٹھ چھہ پنہ رحمتہ  
 سیت موتس یعنی خشک گاتس زمینس زندہ کران یعنی تروتازہ۔ بے شک یہ کھہ چھہ نعمت تہ دلیل  
 وحدت آسجہ علاوہ دلیل یمہ کھہ ہنز کہ اللہ تعالیٰ چھہ قدرت و ول لوکن ہدہ مرنہ پتہ تمن بیہ زندہ  
 کرنس پیٹھ۔ امہ سیت سپد ثابت کہ یوہے خدایچھہ یقیناً زندہ کران سارنہ مردن بیہ چھہ سی پرستھہ  
 چیزس پیٹھ قدرت و ول وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومِ مِنْ أَعْدَائِهِ يَكْفُرُونَ توپتہ ہر گاہ سوزو آس  
 ٹھندس زراعتس پیٹھ مضر ہوا یمہ سیت تم و چھن تھہ زراعتس زرد سپدت خشک گوھان یک دم بدلہ ٹھند  
 حال ٹمہ پتہ ین تم ٹھران نعمت کران۔ یمہ لغو سانہ روز نکہ نہ یادے۔ امہ سیت سپد معلوم کہ تم چھہ  
 محس تھندہ خاطرہ غم کیوں چھہ بے کار فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ  
 ٹھہ نہ حض ہیکیو کہ نہ یوزہ ناوتھ مردہ بیہ نہ حض ہیکیو کہ یوزہ ناوتھ زہین آلو۔ خصوصاً صلہ تم توہہ ٹھ  
 تھر پھر تھ توہہ نشہ دور ژلان آسن وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُيَيْنِ عَنْ صَلَاتِهِمْ بیہ نہ حض ہیکیو نہ ٹھہ و تھہ  
 ہاوتھ انین یلہ تمن و تھہ رادمز آسہ إِنَّ تَسْمِعُهُ الْأَمْنِ يُؤْمِنُ بِالْإِنْتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٹھہ ہیکیو کہ نہ

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمِيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ  
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۶﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۷﴾  
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ  
الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ذَهَابًا

بوزہ ناو تھ مگر یم پڑھ کر ان چھ سائین آیتن۔ تے چھ سائین حُسن گردن دارہ ون بیلہ یم لوکھ مشابہ  
چھ مردن تہ زرین کس مہ تھا و چھ توقع تہ بر انتھ ایمانج تین نشہ نہ مہ کھیو جنہدہ ایمان نہ انہ نلک کا نہ  
غم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا  
و شیبۃ مجود بر حق چھ سی ذات پاک یم چھ پیدہ کرنوہ کمزوری ہمدس حالتس منز سوگیہ انسانہ سزا بندائی  
حالتھ لوکھ چارچ حالتھ تو پتہ کورنوہ تمہ کمزوری پتہ قوت تہ طاقت عطا یجئے جوانی تمہ قوتہ پتہ کرنوہ بیہ کمزوری تہ  
بجز عطا یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر سہ یہ یڑھان چھ تہ چھ پیدہ کران۔ پریتھ تصرفس چھ  
سہ پور زمانہ۔ تھ تصرّفہ کس جاری تہ نافذ کرنس پیٹھ چھ پور قدرت تھاوان۔ سہ چھ سورے زانہ  
ون پور قدر تہ دول و یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ كذلك كانوا یؤفکون  
تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ کافر تہ نافرمان لوکھ ہاوان تمہہ ذہب ہولناک حالات و چھ تھ قسم کہ قیامت  
آیہ سیٹھاہ جلد۔ اس رودنہ قبرن اندر یعنی عالم برزخس اندر مگر اکس گرہ تہ اکس ساتس۔ تھ پاتھ اس  
نا تم دنیاہس منزہ ولہ پکان یعنی دنیاہس منزہ تہ آس تم لوکھ غلط خیالات و کن منز جماوتھ پھر چھ کھ  
کران وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث تمن جر من

يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَقَدْ  
 خَرَبْنَا النَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُ  
 بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

دن تم لو کہ یمن علم سے ایمان عطا کرنے آمت آسہ یعنی باایمان یمن شریعتہ کین چیزن ہند پتہ چھہ  
 اے کافر و جہہ ٹھہرے وہ قبرن اندر خدایہ سبہہ لیختہ سے مقرر کرتہ وقتہ موجب برابر قیامتہ کس  
 دوہس تان فہذا یَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا چھہ ازوارہ کارہ قیامتک دوہ مگر جہہ کہتہ  
 آسہہ یمہ ذہک یقین تھاوان بلکہ آسہہ تکذیب سے انکار کران تہی انکارہ کہ شامتہ چھوہ از پریشان  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس دیہ نہ تمہ دوہہ کانہہ نفع سے فائدہ  
 تمن لو کن یمو شرکہ سے ٹفرہ سیت پانس ظلم کور عذر کران نہ یہہ تمن نشہ عذر پیش کر ٹک سے توبہ کر ٹک  
 یا خدا پس راضی کرہ ٹک مطالبہ کرنہ کیا زہ تمیگ وقت آسہ گذر یومت۔ وَقَدْ خَرَبْنَا النَّاسَ فِي  
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بیہ کرہ آسہ بیان ہتھ قرآن مجیدس منز لو کن فکرہ تارہ خاطرہ بیہ تمن  
 ہدایت بنہ خاطرہ پر ہتھ قسمیہ مثالہ سے پر ہتھ قسمک مضامین یم پندہ کمال بلاغتہ سببہ مقتضی آس کہ یمن  
 کافرن بنہ ہدایت مگر نہایت بغض و عنادہ سببہ گورنہ تموسہ قبول۔ تہی سپندہ تمن کانہہ فائدہ حاصل۔  
 وَلَئِنْ جِئْتُمُ بِآيَةٍ تویپتہ ہر گاہ جہہ یار رسول اللہ تمن نشہ ابو تمو معجز و اندرہ کانہہ مجزواہ یمن ہنز تم  
 فرمائش چھہ کران لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ توتہ و ان ضرور کافر کہ جہہ ساری

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَاصْبِرْ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

چھوہ ازیار کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون سے پٹھ پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ نادان ہندین دلن  
 پیٹھ مہر کران یعنی روز بروز چھ تہندہ قبول کرنگ استعداوست سے ضعیف سپدان بغض و عنادک  
 قوت قوی سپدان فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ پس کروٹہ  
 یار رسول اللہ تہندس تکلیف سے ایذا س پیٹھ صبر پز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان کس یاری ہند وعدہ توہہ سیت  
 کورمت چھ سوچھ حق سے پوزیم منکرین قیامت مہ سپدان باعث توہہ بے صبری کرنس پیٹھ۔



## سُورَةُ لُقْمَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اللَّهُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْحَسَنِينَ ۝  
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
 يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝  
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝  
 وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ

اللہ ہم چھ حروف مقطعات۔ سن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ہم آیات چھ  
 محکم یہ مضبوط کتابہ ہند هُدًى وَرَحْمَةً لِلْحَسَنِينَ یوسہ کتاب بڈ ہدایت تہ بڈ رحمت چھ نیوکارن  
 ہندہ خاطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تم نیوکار گئے تھے  
 ہم نماز قائم تھاوان چھ یہ ہم زکوٰۃ ادا کران چھ۔ یہ ہم آخر تک پور یقین تھاوان چھ۔ اُولَئِكَ عَلَى  
 هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تھے چھ پنہ نس پروردگارہ سزہ سزہ و تہ پیٹھ۔ یہ چھ تھے  
 کامیاب تہ رستگار وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ چھ  
 لوکو اندرہ بعضی لوکھ تمہ قسمک ہم عملی چھ ہیوان قرآن مجیدہ نشہ اعراض کرتھ واپہیات تہ فضول  
 قصہ ہتھ لوکن تم ڈالن فضول تھہ دن دن خدا یہ سزہ و تہ نشہ نادانی سیت وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا یہ زانہ تھہ  
 اکھ ٹھٹھاہ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ تھے لوکھ گئے تم یہندہ خاطرہ خوار کرہ دن عذاب چھ۔

## فِي آذَانِهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابِ الْبُومِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَلِيدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

وَإِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ الْيَتْنَاوَالِي مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابِ الْبُومِ .  
یہ پر نہ یوان چھہ تمس پیٹھ سان آیات تھر پھر تھ چھہ ژلان سبھرہ سان زن نہ بوزنہ۔ زن تھندین  
کن دن زراوس۔ پس خبر دیوئس کڈرہ غذاخ۔ سمہ آییہ کر میک شان نزول چھہ کہ اکھ شخصہ اوس  
کافر ہند بوز ٹھیواندرہ کس نصر بن حارث ناواوس۔ سہ اوس گوشان ملک فارس گن تجارتہ خاطرہ  
تہ اوس تہ کین پادشہن ہند قصہ تہ تاریخ مثل ہیوان۔ توپتہ اوس قریش اندر بہتھہ ونان کہ محمد صلی  
اللہ علیہ وسلم چھہ توہہ ونان عاود شمود ہند قصہ ولوبہ بوزہ ناوودہ رستم اسفندیار بیہ عجمی پادشہن ہند  
قصہ۔ بعضے لوکھ آس دلچسپی سان تم قصہ بوزان۔ بیہ اس ام مثل ہر مژاکھ گیون واجن کینزہ۔ توپتہ یلہ  
وچھان اوس کانہہ شخص اسلامس کن مائل سپدان اتی اوس امس کینزہ تس نش سوزان۔ تس کینزہ  
اوس ونان زہ کھیوان چاوان بیہ شخص بیہ بوزہ ناوان پن گیون توپتہ اوس تس شخص ونان وچھان چھہ  
حال۔ ژہ ونہہ متھہ جھا لطف کنہ تھہ یچھہ گن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکن ناودوان چھہ۔ تم چھہ ونان نماز  
پر و، روزہ دار روزو، زو ژوڈونیس پتھہ چنانچہ اتھہ پیٹھ سپدیم آیات کریمہ نازل یمن آیات کریمن منز  
چھہ اللہ تعالیٰ ذکر کران تمن شقین ہنز حالتھہ ہم پنہ جہالت و شقاوتہ مؤکھہ قرآن کریمہ نشہ اعراض  
کر تھہ نزن گیون لہو وعب تماشہ وچھن یابیہ واہیات وخرافات بوزنس منز مستغرق آس تم چھہ کوشش  
کران کہ بین لوکن تہ ڈالن یعنی کامین سیت مشغول کر تھہ خدایہ سندہ وینہ نشہ وینہ چن کھن پیٹھ چھہ  
ٹھٹھہ تہ مذاق کران حضرت حسن بصری چھہ فرماوان لہوالحدیث متعلق کہ کس چیز ژہ ڈالی خدایہ سندہ  
عبادتہ نشہ مثلاً قصہ ونن یا بوزن ٹھٹھہ مسخری کران گیون تہ باجہ بوزن یہ سورے گووداغل لہوالحدیث  
منز شان نزول سمہ آییہ کر میک اگرچہ خاص چھہ مگر حکم چھہ عام۔ کس لہو وعب یا بوسہ کام دین  
اسلامہ نشہ یا حکام اسلامو نشہ پتھر نیک باعث سپدہ سہ چھہ حرام إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بے شک سمولو کو ایمان اون تہ رژہ عملہ کر کیکہ تھندہ خاطرہ چھہ نعمون ہند جنت  
خَلِيدِينَ فِيهَا تمنہ جنن منز روزن ہمیشہ۔ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا یہ چھہ خدایہ سند بوز وعداہ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأُفُقِ  
 فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ②  
 هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ  
 الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ  
 لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سہ پٹھہ غالب تہ حمیتہ وول خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تہی  
 پروردگار آن کر پیدہ آسمان تھو وراوی۔ اُس جُہہ تہ وچھان چھوہ وَالْأُفُقِ فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ  
 تَمِيدَ بِكُمْ بیہ تھو تم ز مینس پیٹھہ بڈ بڈ کوہ لنگر ہی تھنہ سوز مین تو بہ لوکن ہتھہ یون کن نمہ ووتل جہہ  
 کرہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ تراون چھکرت اتھہ ز مینس منز پر ہتھہ قسمک جانور وَأَنْزَلْنَا مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ بیہ کور اسہ نازل آسمانکہ طرفہ رود تو پتہ کھار اسہ تمہہ  
 زمینہ منزہ پر ہتھہ قسمک نباتات جورہ جورہ۔ رت رت چیز هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ  
 مِنْ دُونِهِ تہ فرماو یو کہ اے لو کو یہ گیہ خدایہ سنز پیدا کیش۔ پس ہاو تو جُہہ مہ خدایس وراوی یم  
 معبودان باطل جُہہ مقر کران چھو کہ تمو گیہ کور پیدہ تا اینکه یوزنہ ایہ ہاتھنز کیا زہ گڑھہ پر ستش کرن  
 بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بلکہ چھہ ظالم نہہ گمراہی اندر بتلا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ  
 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ بیہ کور اسہ عطا لقمن علیہ السلا مس گانہ  
 جار۔ سہ گو و علم و عمل تو پتہ فر موس اسہ کہ شکر دپ خدایس تھنزن سار نے نعمون پیٹھہ خصوصاً  
 حَمْدُ س پیٹھہ یوسہ بڈ نعمت چھہ کیا زہ اُس خدایہ سنز شکر گذاری چھہ کران تس چھہ تمیک فاندہ پنہ نس  
 پانس۔ یعنی نعمس اندر زیادتی سپدن اُس کفران نعمت چھہ کران سہ چھہ پنہ تے نقصان کران۔ پس بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھہ بے نیاز سہ چھنہ۔ محتاج کانسہ ہنزہ شکر گذاری گن۔ سہ چھہ حمد پندہ آمت۔ چُونکہ



حَمِيدٌ ۱۲) وَاذْ قَالَ لِقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظَاهُ يُبْنَى لِالشِّرْكِ بِاللَّهِ  
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۱۳) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ  
 أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامِيْنِ إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  
 إِلَى الْمَصِيْرِ ۱۴) وَإِنْ جَاهَدَكُمْ عَلَى أَنْ تُشْرِكُوا بِي مَا لَيْسَ لَكُمْ

لقمان علیہ السلام آیہ رحمت عطا کرنے بس سپد ثابت کہ تم چھ حکیم بہ دانائے متھس حیمہ سبز تعلیم  
 چھ قابل عمل۔ لہذا کرو بیان تہمز و تعلیم تواندرہ کینہہ **وَاذْ قَالَ لِقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظَاهُ يُبْنَى لِالشِّرْكِ بِاللَّهِ**  
**إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** بیہ یلہ لقمان علیہ السلام پنہ نس پچوس و عظ و نصیحت کران دُوب  
 گو براتھہ چھ بیہ کہ شریک ٹھمر اوزنہ معبود برحقس عنہ قسمہ بزپاٹھ تس شریک ٹھمر اون چھہ بوڈ ظلم  
**وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ** بیہ کوراسہ تاکید حکم انسانس ماس ماجہ ہندہ حقہ کہ پریتھہ حاس اندر  
 گرھہ تہند ادب بہ رعایت لحوظ تھاوان۔ کیاہہ تموچھہ امس بچہ سہہ خاطرہ واریاہ مشقت بہ تکلیف تلمت  
 خصوصاً ماجہ چنانچہ **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامِيْنِ** نمل یہ انسان تم سبزہ ماجہ پنہ  
 یڈ منز۔ ضعف پیٹھ ضعف بہ تکلیف پیٹھ تکلیف برداشت کر تھہ ٹون ریتن۔ اکھ اوُس یڈ منز تلمک  
 تکلیف توپتہ پریسک تکلیف، دودچاوتک تلمہ تراونک تکلیف۔ راتس دوہس پٹن آرام بہ آسایش راوہ  
 ران امس للہ وان تہ سلہ وان توپتہ چھہ امس بچہ سندہ دودژ تہ نگ مدت دون ورسن تام یمن دون  
 ورسن تہ چھہ بیہ موج امس پچس مشفقانہ خدمت کران چھہ مال سہد تہ چھہ آسان اشتراک عمل۔ موج  
 چھس کو چھہ منزہ تراوان تہ مول چھس تلمان۔ مول چھس تراوان تہ موج چھس تلمان یم دوہہ شوے  
 چھس لولہ متہ لائے کران۔ امی موکھ کوراسہ پنہ نین حقوقن سیت ماس ماجہ ہند حق ادا کرنگ حکم  
 امس انسانس پیٹھ **إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ** میہ فرمووامس انسانس کہ کرژہ شکر گذاری۔ اکھ میان بیہ  
 کرژہ بیہ شکر گذاری پنہ نس ماس ماجہ ہنز اللہ تعالیٰ ستر شکر گزاری گیہ عبادت و اطاعتہ سیت ماس  
 ماجہ ہنز شکر گزاری گیہ خدمتہ سیت بیہ تہمد حقوق ادا کرنے سیت **إِلَى الْمَصِيْرِ** پتولا کہ چھوے نش  
 واتن تمہ ساتہ یٹھہ دوومت آسیتھ تیتھہ لوکھہ باوجود ایچہ ماس ماجہ ہند حق چھہ سیٹھہ بوڈ مگر توحید ک

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ  
 سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يُبْنِيٰ إِنهَان تَك مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ  
 فَتَكُنْ فِي صُحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يُبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرُ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

مسلہ بہتو تہ عظیم الشان کہ دِلان جہلداک علی ان تشریک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعمہما ہر گاہ  
 تم دو شوے یا تمواندرہ اکہ مجبور کرے بہ شریک ٹھہراوئس پیٹھ سہ چیز تک نہ ڈہ خبرے آسی سہ کتھ  
 مان زہ نہ ڈہ کینہہ ہرگز وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ کتھہ ہتھہ ضروری کہ دنیا کین ضروریاتن اندر  
 روزہ ڈہ تمن سیت رتہ طریقہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ دینہ کس معاملس اندر کچھ ڈہ کس شخصہ  
 سزہ وہہ کس مہ کُن رجوع کرہ دن آسہ یعنی میانین احکامن پیٹھ عمل کرہ دن آسہ۔ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ  
 فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو پیہ ہتھوہ تو بہ سارنہ کائین کُن رجوع کرہ دن۔ بو کر وہہ تو بہ سارنہ  
 تمن سارنہ کائین ہنزیمہ تہہہ کران آسہ۔ لہذا مہہ کر و تہہہ میانس کُنہ کُحْمَس خلاف اُمہ پتہ چھہ بیان  
 کران۔ بیہ لقمان حکمہ یعنی لقمان صابن فرمو پتہ نس فرزندس يُبْنِيٰ إِنهَان تَك مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صُحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے  
 میانہ فرزندہ اللہ تعالیٰ سند علم تہ قدرت چھہ تیوت کہ اگر کانہہ ہنز عمل آسہ آسہ دانس برابر مقدرہ  
 کن سوی آسہ کنہہ بڈس پلس منز کھٹھہ تھاونہ آمزنتہ آسہ آسمان اندر لوکن نشہ دور کتھہ جایہ یا آسہ زمینس  
 منزل پاتال یوت نہ کانہہ تہ واتھہ ہیچہ مگر خدایہ سند شان چھہ کہ سمو ساروے پو شیدہ جایو منزہ  
 کڈتھہ انہ سہ قیامتک دوہ حملبجہ وقتہ امی اندرہ چھہ سپدان تم سند کمال علم تہ کمال قدرت ثابت پیشک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ بوڈباریک بین سارچی خبر تھاوہ دن۔ کس چھہ پور خبر کس چیز کتھہ کس چھہ۔ يُبْنِيٰ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۷ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۸  
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاخْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝۱۹ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَأَنِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ

آقید الصلوٰۃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْتَهْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ  
عملن متعلق فرمونس یہ نصیحت کہ اے میانہ فرزندہ نماز تھا و پرپا۔ نماز چھ اعلیٰ درج عمل یہ آس رٹن  
کامین ہند امر کران بین لوکن تہ یہ آس پچھ کامیونہ لوکن منع کران۔ اتھ منزئس تکلیفہ تہ مصیبتہ  
وآئی پریتھ مصیبتس پیٹھ آس صبر کران۔ پڑپاٹ یہ صبر کرن چھ ممتہ چوکامیوندرہ۔ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ  
لِلنَّاسِ اخلاق و عاداتن اندر فرموئس یہ مہ آس لوکن نہہ بٹھ پئن پھران تکبرہ سبہ وَا تَمْشِ فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا یہ مہ آس زمینہ پیٹھ پکان ڈالہ ماران تمہ غرور و تکبرہ سان کیازہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ چھنے پسند کران کانہ مغرورس ئس تھ یکان آسہ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  
وَاخْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ یہ آس میانہ روی کران پنہ ئس پنکس اندر تہ مہ آس دور تلٹھ پکان تہ چھہ  
اکھ وقارس خلاف یہ چھ تھ اندر ڈوب لٹکک خطرہ نہ مہ آس تول تول پکان یہ چھہ مخممرن ہنز چال۔  
یہ کرپست آواز پن کرکھ مہ آس لاگان۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پڑپاٹ آواز اندرہ چھہ  
پچھہ آواز کھرہ سنز آواز۔ چھہ اندر نہ کانہ فاندہ چھہ۔ لہذا انسان آتھ مہ بن کھر حضرت عکر مہ تہ حضرت لیث چھہ  
فرماوان کہ لقمان علیہ السلام آس نبی۔ مگر حکیم ترمذی چھہ نوادرس منز مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش  
کران کہ لقمان علیہ السلام آئے یہ خلافت پیش کرنے داؤد علیہ السلامس بردنٹھ مگر تمو ڈوپ ہر گاہ  
حکم چھم تیلہ چھم منظور بسر و چشم۔ ہر گاہ میانہ مرضی موجب چھہ تیلہ چھس بہ معافی منگان چنانچہ پتہ  
آیہ سہ خلافت عطا کرنے چنانچہ یہ روایت چھہ در منثورس اندر۔ اکثر علماء چھہ فرماوان کہ حضرت  
لقمان چھہ آسمت حبشک روزن وال اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَأَنِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاَسْبَغَ

مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۳۰﴾ وَ  
 إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۳۱﴾  
 وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا  
 يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْنَا نِعْمَ ظَاهِرٌ ۚ وَبِاطِنٌ ۚ کیا تو بہہ چھوہہ نامشاہدہ سیت تہ دلیلو سیت یہ کتھ معلوم کہ اے اللہ تعالیٰ  
 ان چھہ بواسطہ یا بلا واسطہ کامہ لاگت مسخر تہ رام کرمت تہمتہہ فاندہ خاطرہ تم ساری چیزیم آسمان بہ  
 زمین منز چھہ۔ بیہ کرین پتہ نعرہ پورہ تو بہہ پیٹھ۔ ظاہری بتہ نعرہ تہ۔ تمہ نعرہ یہ ظاہری حواسو سیت  
 ثبنتہ یوان چھہ باطنی تہ پوشیدہ نعرہ تہ یہ نعرہ عقلہ سیت ثبنتہ یوان چھہ۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي  
 اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۖ باوجود آل چھہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہ تم بحث تہ ججوزہ چھہ  
 لاگان خدایہ سندس کن آسنہ کس معاملس اندر علمہ ورائے واقفیہ ورائے تہ کتھ دلیلہ ورائے یہ کتھ روشن  
 کتابہ ہندہ حوالہ ورائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ تو  
 پتہ یلہ ونہ یوان چھہ تمہن پیروی کرو تھہ خمس نُس اللہ تعالیٰ ان نازل کو رد پان چھہ نہ بلکہ گر واس  
 پیروی تھہ طریقس تھہ پیٹھ آسہ ہن مال بدبب عمل کران وچھہ اُولُو كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ  
 السَّعِيرِ ۚ کیا ہر گاہ ہندین مالین بدببن شیطان نادووان اوس تھہ گر ابی کن نُس تارہ کس عذابس موجب  
 اوس توتہ کرن نہ تم تہمز پیروی وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
 الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۖ بیہ نُس اکھاہ پز یوک اتباع کر تھہ پُخر اوہ ہن پان معبود برحقس تھہ  
 حاسل منز کہ سہ آسہ رتھہ کامہ کہ وہن ادہ تمی کر تھہ محکم رزہ۔ تمی کر زورہ تھہ مضبوط ہانکھہ۔ پتولا  
 کہ چھہ سارے کامہ تہ سارے کامین ہند انجام خدایہ سے نعرہ واثن وول۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ

عَلَيْهِمْ بُدَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۱﴾ نَسَبَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطْرَّهُمْ إِلَىٰ  
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۳۲﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ لِلَّهِ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّمَا  
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

کفرہ الینا مرجعہم فنیبہم بما عملوا ان الله علیہم بدات الصدور بیہ یم شخصن باوجود اس  
وضاحت کفر تہ انکارے کور تہم کفر تہ انکار مہ حض کرن توہہ غم گین تہ آزردہ اسی لشہر چھہ واٹن  
رجوع کرن تہن سارنہ۔ اس کرو کہ خبر دار تم تموساروے کامیوسیت سمہ تم دنیا مس منز کران  
آس۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہتھ پور زانان تمہ سارے کتھہ یہہ ولن منز کتھتھ تہ پو شیدہ ہتھہ باقی کاین ہنز  
ہتھہ کتھہ۔ نَسَبَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّطْرَّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ تمتح تلتاود کہ اس تم دنیا مس منز کم کینہہ  
کالاہ تو پتہ واتاود کہ اس تم جبراً سخت عذابس اندر یہہ منزہ نہ تم نیر تھے ممکن۔ ہتھہ توحید س کن اس  
تمن نادووان چھہ تمہہ چن ابتدائی بعض کتھن چھہ تم تہ پانہ تسلیم کران چنانچہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ہر گاہ تہہ یار سول اللہ تمن پر تھو آسان تہ زمین کم گور پادہ ضرور سن کہ  
اللہ تعالیٰ ان گور پادہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تہہ دپو محمد یوین خدائس کہ یہ کتھہ ہتھوہ توہہ فخرہ تران۔ یوسہ کتھہ  
زیادہ ضروری اس سوسہز تہندی اقرارہ سیت ثابت دویم کتھہ یوسہ اتھہ سیت لازم آس کہ کس چیز  
مخلوق تہ پادہ کرنہ آمت آسہ سہہ بیجا معبود آتھہ۔ یہ ہتھوہ نہ تگان زانن بیہ چھوہ نہ تران فخرہ بل  
اَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تمواندرہ ہتھہ اکثر لو کہ تمن نہ ایشہن تہ زانن تگان ہتھہ خدایہ سُد شان ہتھہ یہ  
کہ یلہ ما فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ خدایہ سُد ہتھہ تہ سورے یہ آسان تہ زمین  
منز ہتھہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہتھہ بدات خود تہ بے نیاز۔ سارنہ تعریفن سزاوار۔ سی ہتھہ سزاوار  
الوہیت۔ تمسز خوبیہ تہ تعریف ہتھہ تیت کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ

سَبْعَةَ أَمْحُ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾  
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾  
 الْمَثَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

بَعْدًا ۳ سَبْعَةَ أَمْحُ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳ بیہ ہر گاہ تمن سارنے کلین بم تمام مروی  
 زمینس پیٹھ چھہ تمن ین بدانہ قلم سونب حصہ تو پتہ آسہ سمندر میل لیکنہ خاطرہ سیاہی اکہ سمندرہ  
 پتہ ستہ وے سمندر تموے قلمو سیت یتہ تی میلہ سیت ین لیکنہ اللہ تعالیٰ سہ کلمات یعنی تمہ تھہ یمو  
 سیت تہندہ کمالات سہ پھر نہ۔ یم ساری قلم یتہ یہ سارے میل گھوہ ختم مگر تمہ تھہ گوہن نہ ختم سہمو  
 سیت تم کمالات بیان ین کرنہ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ غالب سیٹھاہ حمتہ وول۔ سہ چھہ قدرتس اندر یتہ  
 کامل علمس اندر یتہ کامل۔ تہنزے قدرت گیہ کہ سارنے کرہ بیہ پادہ سٹھہ نافم لوکھ دشوار زانان چھہ  
 حالانکہ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً اے لو کو تو بہ سارنے ہند گوڈہ پادہ کرن بیہ مرت دوبارہ  
 زندہ کرن چھہندہ خدایس نشہ مگر تیتھہ تھہ اکس شخصہ سند ہو پادہ کرن چھہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون سورے وچھہ ون سہ دیہ مرنہ پتہ بیہ زندہ گھہنہ کین مکنر ضرور  
 سزا۔ الْمَثَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ  
 آجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیاہ وچھان چھہ کھاثرہ اے وچھہ ونہ کیتھہ قدر یتہ وول چھہ سہ۔  
 سوئی چھہ راژ ہندس اکس حصس دوہہ کس حصس منزواتہ تاوان بیہ دوہ کس حصس راژ ہندس حصس  
 منزواتاوان بیہ تھاوتی آفتاب یتہ زون کامہ اندر لاگتہ۔ سمودو یواندرہ چھہ پرستھہ اکھاہ پکان تھہ و قس  
 تان لیس تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔ یعنی قیاس تان۔ بیہ چھو تاوہہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ چھہ یتہ  
 سورے زانان بیہ تہہ کران چھوہ توہہ چھانمان زہ تہنزہ شرکچہ کامہ کیا آسن تھہ پو شیدہ۔ سہ کیا دیہ نہ

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ  
 فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

توہمہ اتھ پیٹھ سزا ذلک بیان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلیٰ الکیبر  
 یمہ تھ یعنی آسمان پادہ کرن دودہ ہر اتھ آکھ اس منروا تہ تاون آفتاب تہ زون کامہ لائن چھہ خاص اللہ  
 تعالیٰ سے یمہ موکھ کہ اللہ تعالیٰ ای چھہ پنہ ہستی تہ وجودس منز کامل سے چھہ واجب الوجود۔ لوکھ  
 تمکن چیزن ہنز پرستش کران چھہ تس وراے تم چھہ باطل۔ یمہ چھہ اللہ تعالیٰ ای عالی شان، تھودہ  
 بوڈ۔ تھندس تھرس تہ بجز واتنہ کہنے اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ کیا ای  
 مخاطب تہ پٹھے ناتوحیدج یہ دلیل معلوم کہ بے شک جہاز تہ ناوہ چھہ پکان دریاون اندر خدا یہ سندی  
 فضلہ سیت لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تھہ سہ توہمہ ہاوہ پنہ قدر تک نشانہ پز  
 پاٹ اتھ منز چھہ قدر تک۔ بڈ نشانہ صبر تہ شکر کہہ ون سندہ خاطرہ یعنی با ایمان ہندہ خاطرہ تے چھہ  
 مؤجن ہندہ ووتھہہ وقتہ صبر کران جہاز یا ناوہ بوٹھ لکھہ وقتہ شکر دپان وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ توپتہ یلہ تمن کافران سمندرک موج تھود گھست سایہ بان ہند پاٹھے  
 ولدہ یوان چھہ تمہ ساتہ چھہ منگان خدا بس بندگی خالص تھندی خاطرہ امانت اعتقادہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  
 الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ تمہ پتہ یلہ اللہ تعالیٰ تمن نجات دتھ  
 بھٹس تل واتاوان چھہ تمونزہ چھہ بعضے در میان حالس پیٹھ روز تھ خدایہ سندیاد کران۔ یعنی بھرک  
 تراوتھ تو حید اختیار کران مگر بعضے چھہ بالکل ساینن آیتن مشراوتھ ساینن قدر تہ کین نشانن انکار  
 کران۔ مگر تے لوکھ یم غدار تہ تھران نعمت کہہ ون چھہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ  
عَنْ وَاوَالِدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدٍ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ  
الْغُرُورُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ  
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ عَدًّا ط  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ ۴۷

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَاوَالِدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدٍ شَيْئًا اے لو کو کھوڑو پروردگار سے نہ پس پتھ روز و تہنہ نہ نافرمانی لغہ بہ شرک و کفر لغہ بہ کھوڑو تھ دوہس یمہ دوہنہ نہ کانہہ مولاه جواب ہیچہ و تھ۔ عذاب پتھ ہیچہ رتھہ پنہ نس پنچوس لغہ نہ ہیچہ کانہہ پنچواہ پتھ رتھہ پنہ نس ماس لغہ کتھہ قسمگ عذاب یہ دوہ پنچہ یوہ ون ضرور۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پنچہ امیک وعدہ کورمت اِن وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ پز پانچھ اللہ تعالیٰ سند وعدہ چھہ حق نہ پوز تو اس نہ عذابس متعلق فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورٌ پس پتھنہ دھوکہ دیہ توہہ دنیا عجز زندگی پتھہ سیت مشغول روز تھہ سپد و غافل تہہ دوہہ لغہ بہ پتھنہ خدا یہ سندہ حقہ توہہ دھوکہ دیہ شیطان فریب باز نہ دھوکہ باز اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سے چھہ قیامج خبر کہ سوگر سپدہ واقع یہ چھہ سنی رود تراوان یہ چھہ تس خبر اسباب و آلاتن ہندہ واسطہ ورائے کیاہ چھہ زنانن ہنزن شکمن اندر کور چھہ کانہہ پنچوہ یہ چھہ خبر کانہہ شخصس پگاہ گوسہ کام کرہ بہ یہ چھہ خبر کانہہ شخصس تھہ جایہ منزمرہ کہہ وقتہ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سورے زانہ ون تس چھہ سارنے چیزن ہنز پور خبر۔



## سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۳ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۴ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّالِ الشَّفِيعِ ۵

اللہ تم چھ حروف مقطعات۔ یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتاب یعنی قرآن مجیدہ کس نازل سپد نس منز چھنہ کانہہ شکھاہ کیے چھ نازل سپدان رب العالمینہ سندہ طرفہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ مکر چھاوانان یہ چھہ پائے بلہ ٹھر وومت حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تہندون چھہ بالکل غلط۔ یہ چھنہ کانہہ بنوومت بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بلکہ چھہ یہ کتاب پز پائٹ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ نازل سپز مژتھہ تہہ امہ سیت تیم کروپروردگارہ سندہ عذابہ نشہ تمن لوکن یمن گن نہ توہمہ بروٹھ کانہہ پیغبراہ تیم کرہ ون آمت چھہ دیوہ تم لوکھ راہ راستس پیٹھین اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اللہ تعالیٰ گوسئی ذات پاک تیم آسمان تہ زمین تیم تم مخلوقات تیم تمن دون منز باگ چھہ پادہ کر شین دون ہندس مدتس اندر۔ توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تمہہ طریقہ تیس تہندس شانس سزاوار تہ لائق چھہ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّالِ الشَّفِيعِ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ سہ چھہ تیتھ بوڈتہ عظیم الشان کہ تہندہ رضاتہ اجازتہ وراے چھنہ تہند

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ  
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۶﴾  
 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۷﴾ الَّذِي أَحْسَنَ  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ جَعَلَ  
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿۹﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ  
 رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

کانہ مددگار اہنہ کانہ سفارش کرہ وناہ البتہ تہندہ اجازتہ سپدہ شفاعت۔ مگر نصرت و مددس متعلق  
 آسہ نہ اجازتہ۔ بس کونہ چھوہ نصیحت رتان کہ تنھس ذات پاکس بیجا شریک آستہ **يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ  
 السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** سنی خدا چھہ بیجہ کہ آسمانہ  
 پیٹھ زمینس تام بیمہ کامہ چھہ تمن سارنہ ہند تدبیرتہ انتظام کرہ و ن چھہ سنی۔ توپتہ بین ساری معاملہ تہ  
 سارے کامہ تس بروٹھ کُن پیش کرنہ تھہ دوہس اندر سہمہ ذہک مقدار تہندہ گزرنہ موجب اکھ ساس  
 وری آسہ یعنی قیامتگ دودہ **ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ** سنی خدا چھہ زانہ و ن تہ  
 سورے کھٹھہ چھہ بیہ یہ نون چھہ سیٹھاہ غلبہ و ول زبردست سیٹھاہ رحمتہ و ول **الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ  
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ** یم پروردگار ن سیٹھاہ رُت کور پر چھہ چیز اہ بیہ کور تم ابتداء  
 انسانہ سنزہ پیدائشہ ہند میوہ نشہ **ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** توپتہ کرن پادہ تہندہ نسل  
 تہ اولاد پشٹہ منزہ کلڈنہ آمتہ بے قدر ضعیف آبہ قطرہ نشہ۔ **ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ  
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** توپتہ کورن ماجہ ہندس سٹھس منز تہندہ بدن  
 برابر۔ توپتہ واتہ نوون تھہ منز بھو کھ دتھ پنن روح۔ بیہ کرن پادہ تہندہ گن بوزنہ خاطرہ بیہ اچھہ  
 وہچھنہ خاطرہ۔ بیہ دل زانہ خاطرہ۔ یم ساری چیز سموسیت تہنز کمال قدرت ثابت سپدان چھہ اس  
 میگان تہنز شکر گذاری کرین مگر سیٹھاہ کم چھوہ تہہ تہنز شکر گزاری کران **وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِی**

تَشْكُرُونَ ① وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي  
 خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑩  
 قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  
 رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑫ وَ  
 كُوشِنَا لِآلَاتِنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

الارض اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ قیامت کیامت مگر چھ دنان کیاہ یلہ اس میرہ سیت میرگڑھو کیاہ اسہ  
 چھانو پادہ سدن بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ایم چھنہ مر نہ پتہ بیہ زندہ سپدہ نئے یوت عجائب  
 زانان۔ بلکہ چھ یم پنہ نس خدانس سیت ملاقات کرہ نس تہ تس بروٹھ کن حاضر سدنس تہ مگر قُلْ  
 يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٹہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ توہہ چھنہ  
 معدوم سدن بلکہ کڈہ تہندین روحن ملک الموت نس خدایہ سدہ طرفہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔  
 تہند روح کڈنہ خاطرہ۔ تو پتہ یوتہہ واتا ونہ پنہ نس پروردگار س نغہ سہہ دیوہ عملن ہنز مزرور۔ رژن  
 ہنز رژے پٹھن ہنز پٹھس وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ہر گاہ ٹہہ وچھو کہ یم  
 نافرمان تھہ پاٹھہ آسن قیامت دوہ کلہ یون کن تراوتھ پنہ نس خدایس بروٹھ کنہ سخت شرمندگی اندر  
 ٹہہ وچھو تہند عجیب حالہ ونان آس رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ای  
 سانہ پروردگارہ اسہ وچھہ تہ تھہ اس انکار کران اس بیہ بو ز اسہ تہ سورے تھہ نہ اس کن تھوان اس  
 سانہ اچھہ تہ کن آے مشروانہ معلوم سدن کہ یہ کیڑہاہ پیغمبر فرماوان اس تہ سوری اوس پوز پس سوز کھنا  
 ژہ اسہ بیہ دنیا س کن اس کرہ ہوونے تہہ رژہ عملہ بیشک چھہ اس دوونے پور یقین کرہ ون۔ مگر یہ  
 تہند ون اسہ تہہ بالکل بیکار وَكَوْتَرَىٰ لِآلَاتِنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا ہر گاہ اسہ منظور اسہ ہا س کرہ ہو پرتھہ  
 شخص س ہدایت دنیا س اندر ایمانس تہ رژن عملن کن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾ فَذُوقُوا بِمَا  
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا  
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۹﴾ تَتَجَافَى  
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۰﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مگر میان تہہ تہہ ازلی تہ تقدیری یوسہ میہ از لکہ دوہہ وار بہو حکمو موجب  
 محقق سہز مشہ تہہ کہ ضرور بران تہ ہرگز نہ بو جنم جتو تہ انسانوسیت۔ یم کافر اس یکہ وٹہ۔ وون بیلہ  
 تہند و نیاء س کن گوٹھن نامکن تہہ لہذا بیہ تمن و نہ ذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ  
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وون تہ ہو تہہ سمیک مزہ کہ توہہ اوسوہ ناہن تہہ دوہس منز  
 سمکھن مٹھرومت آسہ تہ مٹھراوہ تہہ کیازہ رحمتہ نٹھہ کروہہ آس تہہ محروم۔ وون تہ ہو ہمیشہ گی ہند  
 عذاب کیازہ تہہ آسوہ ناترہ ہے کامہ کران إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا  
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان ان نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تمن یکہ تم آیاتن تہیس  
 پاونہ تہہ یوان وعظ و نصیحت تہہ کہ نہ یوان متاثر سپد تہہ چہہ تم سجدس منز تہہ پنہ نس خدایہ سُد پیاکی  
 حمد و ثنایا کران۔ بیہ تہہ تم ایمان آنہ نٹھہ منہ قسمہ بکبر تہ غرور کران تہہ پاٹھ کافر چہہ بکبر کران بیہ  
 گو تہہدہ اعتراف حال امہ پتہ چھو بیان تہہدین اعمالن ہیوند تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایمان ان نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تہزہ  
 لرہ و تھر نیو نٹھہ خٹن نماز تہ تہدیج نماز پر نہ خاطرہ تمہ علاوہ چہہ منگان تم پنہ نس پروردگار س آلودی  
 دی عذابہ خوفہ تہ ثوابچہ امیدواری سان بیہ چہہ تم تمہ مالہ منزہ نس اسی عطا کور مت چہہ خرچ کران  
 خدایہ سزہ و تہ اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نس چہہ

اَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ  
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا  
 فَمَا لَهُمْ اِلَّا النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ  
 قِيْلَ لَهُمْ دُوْعًا اَذٰبَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾  
 وَلَنْدُقِفَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ

کانسہ اکس خبر تمن چیزن ہنزیم کھٹھ تھاونہ آمت چھ تہندہ خاطرہ غیبہ کس خزائن اندر سمو چیز وسیت  
 تہزہ اچھ شہلن تھے چیز آسن رٹمزور تہندہ خاطرہ تمن رٹن عملن ہنزیمہ تم کران اس دنیا س  
 اندر اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا نئس شخص با ایمان آسہ سہ چھا برابر نئس  
 شخص نئس نا فرمان تہ کافر آسہ۔ نہ ہرگز جھنہ سم زہ برابر اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس گے تم لوکھ سمو ایمان اُون بیہ کرکھ رتھہ عملہ تہندی  
 خاطرہ جھ روز نگ باغ بطور پیش کشی۔ تھہ پاٹ مہمان عزیزن چھہ تھیس تھیس چیز بکمال احترام پیش  
 کرنہ یوان تھہ پاٹھ نہ تھہ پاٹھ سائیل تہ محتاجس بے قدری تہ بے وقعتی سان دنہ یوان تھہ۔ تمن عملن  
 بدل یسہ تم کران آس دنیا س اندر وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ اِلَّا النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا  
 مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وون سمو لوکھ نا فرمانی تہ کھر کور تہندہ روز نچ جائے تھہ نار جنم۔ تھہ اندر واتھہ یلہ  
 یلہ تم تھہ منزہ نیرنک خیال آسن کران۔ بیہ آسن تھہ منز واپس واتاونہ یوان وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْعًا  
 اَذٰبَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ وونہ آسکھ یوان تہ ہومزہ تھہ نار جھنمک تھہ تھہ انکار آسوہ  
 کران وَلَنْدُقِفَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ بیہ تھہنا  
 ووکھ اس تم ہونجہہ درجک عذاب دنیا س اندر قیامتہہ بڑہ عذاب بروٹھہ دیو تم پائس پین کھرہ تہ کھر کہ  
 نرہہ پوت پھیرن۔ تھین لوکن ہند عذابس گرفتار سدن چھہ عجائب کتھاہ کینہہ تہ کیا زہ وَمَنْ اَظْلَمُ

الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ  
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۶۲﴾  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ  
مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۶۳﴾ وَ  
جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِلصَّابِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَ  
كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۶۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ کوه اکھاہ چٹھہ یث ظالم تس  
شخصہ سندہ خونہ کس و عطا و نصیحت آیہ کرنہ پنہ نس پروردگارہ سندہ آیاتوسیت توپتہ پھیر تم بٹھ تمو آیاتو  
بشہ لہذا کیاہ غبہ چٹھ تہندس مستحق عذاب آسند اندر۔ ضرور ہمواس تمن نافرمان انتقام۔ تہہ روزو  
منظمن یار رسول اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى  
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک امہ کز عطا تہندی پاٹھ موسیٰ علیہ السلام کتاب (تورات) یمہ کس  
اشاقس اندر تمن تکلیف برداشت کرن پیو۔ تھے پاٹھ کر اسہ تہ توبہ کتاب عطا امہ کس اشاقس اندر چھو  
توبہ تہ تکلیف برداشت کرن۔ کس مہ روزو تہہ شمس تہ ترددس اندر امہ کتابہ ہندس عطا سپد نس اندر۔  
اتھ منز چھنہ کانہہ شک تہ غبہ یامہ کز تردد موسیٰ علیہ السلام سیت در شب معراج ملاقات کرہ نس  
اندر توبہ کوروہ حقیقتہ پاٹھ تمن سیت ملاقات سہ کانہہ نظر بندی یا خیالی ملاقات اوس نہ بیہ کز اسہ سو کتاب  
یعنی توراہنی اسرائیلن ہندہ خاطرہ سبب ہدایت تھے پاٹھ سپدہ چہزہ کتابہ سیت نہ وارینکن لوکن ہدایت تہہ  
روزو خوش وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لِلصَّابِرِينَ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بیہ  
کر اسہ بنی اسرائیلو اندرہ واریاہ پیشوا۔ یم و تھ ہادان آس لوکن سانہ حکمہ موجب یلہ تمو صبر کور مبحر  
ین ہندین تکلیف پیٹھ بیہ آس تم سائین آیاتن پیٹھ یقین کران امہ سیت چھہ تسلی با ایمان کہ یلہ تم تہ  
اشاعت قرآنس پیٹھ صبر کرن تم تہ کرو کہ اس دنیا کہ امام تہ پیشوا بیہ گوو دنیا کہ اعتبارہ تسلی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۵﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفْلا يَسْمَعُونَ ﴿۲۶﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ  
 الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفْلا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى  
 هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہند  
 پروردگارے کرہ فیصلہ بنی اسرائیل منتر قیامتک دوہ تمن سارے تمہند اندر تمن منتر تم اختلاف کران  
 آس۔ سہ فیصلہ گوویوہے کہ باایمان واتاوہ جنمس اندر۔ کافرن واتاوہ جنمس اندر۔ اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفْلا يَسْمَعُونَ کیا  
 تمہندین دشمن یعنی مکہ کین کافرن کرہ نار ہمنائی یہ تھ کہ کاتیاہ لوکھ کر اسہ تمن بروٹھ ہلاک گھر وانکارہ  
 سببہ اہندیو مکاوتہ شہر و منزہ چھندہ تم آرتہ شہر شامہ کس سفرس اندر یوان گڑھان تمو جابو منزہ  
 گذران۔ پزپاٹھ اتھ منز چھہ صاف صاف نشانہ بیمہ تھ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھ گھر س بہ کافرن شرگس بہ  
 مؤخر کن پیٹھ بیزار کیا تم چھنا تمن تباہ و برباد گامتین لوکن ہند حال بوزان وون تمن  
 شبہ چھہ قیاس بہ مرنہ پتہ بیمہ زندہ سپدس متعلق اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ  
 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفْلا يُبْصِرُونَ کیا تم چھنا و چھان کہ اس چھہ  
 خشک زمینس کن آب و اتہ ناوان دریا و ن ہندیابار انک تمہ پتہ چھہ اس تمہ سیت سہ زراعت کھاران بیمہ  
 منزہ تہند چارپابیہ تم پانہ بہ کھیوان چھہ۔ کیاہ تم لوکھ چھنا اتھ سانس کمال قدر تس کن روز مرہ و چھان۔  
 تھہ پاٹھ کیاہ کروکھ اس مردہ بیمہ زندہ۔ تو پتہ کڈوکھ زمینہ منزہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

# الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَانُهُمْ **وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ** ۲۹ **فَاعْرَضْ** **عَنَّهُمْ** **وَأَنْتَظِرُهُمْ مُنْتَظَرُونَ** ۳۰

صِدِّيقِينَ تم کافر چھ و نان کر آسہ یمہ فیصلک دوه ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چھوہ **قُلْ يَوْمَ الْقِيَامِ لَا يَنْفَعُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ** \* **فَاعْرَضْ عَنَّهُمْ وَأَنْتَظِرُهُمْ مُنْتَظَرُونَ** فرما دیو کہ  
 یار رسول اللہ فیصلہ کہ دوہہ دیہ نہ کانہہ نفع تہہ فاندہ تہن کافرن پڑھ کرن تہن: بیہ بیہ نہ تہن تمہہ دوہہ تہہ  
 قسمہ مہلت دنہ تہن پھرو تہہ روی مبارک تہن تہن نشہ یار رسول اللہ۔ تہن تہن تہن ہندمہ کرو تہہ کانہہ  
 خیالہ بیہ کرو تہہ خدایہ سندہ حکم تہہ فیصلک حقہ انتظار بیشک تم تہہ چھ تہہہ تکلیف و ضرر ک انتظار  
 کران۔





## سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
وَكِيلًا ۝۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جُوفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ای پیغمبر خدا تہ  
کھوڑو حض خدا بس بیہ مہ کھوڑو کا نہ۔ کافر ن ایم ن پاٹ و نیس خلاف چھہ بیہ منافقن ایم کافر ن سیت  
منفق چھہ تہندس ونہ نس مہ ہز کرو اعتبار۔ تہزہ تھہ مہ حض مانوبہ شک اللہ تعالیٰ چھہ سوروی زانہ ون پور  
حکمہ دول۔ تہند ساری حکم چھہ فاندہ سیت برت وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا تہہ پھو تھی حکمہ موجب بس توبہ کن وحی سوزنہ یوان چھہ، تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ ای  
لو کو پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تہ سورے یہ تہہ کران چھوہ توبہ اندرہ بس اکھاہ سانس پیغمبرہ سنز  
مخالفت کرہ تمس سیت انزراو اس پانے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ کرو توکل خدا بس  
پیٹھ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ تہزہ کام پورہ کرہ ون۔ اتھ مقابلہ بیحد نہ چلتھہ تم ن لوکن ہند کانہہ تدبیر۔ محنت  
پھو حقیقی پھو زان تو پتہ تمسزہ طلاق دنہ آمزہ زانہ سیت نیتھر کرہ نس پیٹھ طعنہ زنی کرن اوس تیتھے غلط  
چیزہ مشہور، تھہ پاٹھ پندہ آئینہ موج ون یا ماجہ سیت تشبیہ و نس پیٹھ نکاح ژھین اوس خیال کرنہ یوان  
پاہر گاہ کانہہ شخصہ اوس سیٹھاہ ہشیار تہ عقلمند آسان دپان آس امس چھہ زہ دل سینس منز بین ترشون  
تھن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان فرموون مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جُوفِهِ ۚ واقص منز کرنہ  
اللہ تعالیٰ ان کانہہ ہندس سینس منز زہ دل بیدہ تھہ پاٹھ فرموون وَمَا جَعَلَ أَدْوَابَكُمْ إِلَىٰ نُظُورِ

أَزْوَاجِكُمْ إِلَىٰ تَظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
 أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ۳۱ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ  
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ بے کرہنہ اللہ تعالیٰ ان تہنزہ زنانہ یمن سیت تہ ظہار چہوہ کران یعنی پنہ نین محرامت  
 سیت چہوہ کہ تشہبہہ روان تہ چہنہ سپدان تہ کرنہ سیت تہنزہ ماجہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ بیہ پاتھ  
 کرنہ اللہ تعالیٰ ان تہند محکمہ پتو حقیقتا تہند پتوے ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ کتھ تہنزہ ہتھ صرف  
 تہند یو چائتو وندہ یوان۔ یمن نہ واقعس سیت کانہہ مشابہت ہتھ بلکہ چتھ غلط تھہ چہنہ کانہہ واقعی امرہ  
 سپدان۔ لہذا محکمہ پتوے سزہ طلاق وندہ آمرہ زنانہ سیت نکاح کرنس پیٹھ طعن و تشنیع کرن چتھ محض  
 جمل وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللہ تعالیٰ چہہ پرتھہ فرماوان۔ سنی ہتھہ سیزو تھہ  
 ہاوان۔ چنانچہ سمن ترین غلطین ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان یلہ نہ تم واقعس منز تہند پتو چہہ۔ بس مہ  
 آسوتہہ تس محکمہ مال سند پتو وان ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ محکمہ پتوین آسوتہہ  
 نادووان پنہ نین حقیقی مالین کن نسبت کرت سؤی چتھ زیادہ انصاف تھہ خدا یس نعرہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ہر گاہ نے توبہ معلوم آسن تہند مال تلہ گئے تم تہند دینی  
 بای آستھہ بیہ گئے تم تہند دوست تہ رفیق۔ تمی مناسبتہ آسو کانہہ موزول لفظہ استعمال کرت تمین  
 آلودوان وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ توبہ چہنہ کانہہ قصور ہر گاہ تہہ اتھہ منزئہ وقتہ  
 وشفہ گروہہ وَلَكِن مَّا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ ہر گاہ تہہ زانتھہ کرتھہ عمد او قصد اتھہ چیز کریو تیلہ چہہ گوناہ۔  
 ہر گاہ تمہہ گونہہ نعرہ توبہ تہ استغفار کرو۔ تھہ کروہ اللہ تعالیٰ مغفرت۔ کیا زہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَوْلِيَاءَ أَرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
 بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
 تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۶﴾  
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ  
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۷﴾

اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کرہ دن سیٹھاہ رحم کرہ دن اَللّٰہِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ  
 پیغمبر برحق چھ زیادہ تعلق تھاوان باایمان سیت تہند یوپانو خوتہ کیاہہ شخصہ سندان ہر گاہ پیچھ آسہ تیلہ  
 چھہ ظاہرے کہ سہ چھہ بد خواہ اسند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھہ خیر خواہ باایمان  
 ہندہ خاطرہ ہمیشہ رت یشھان۔ ہر گاہ شخصہ سندان جانے آسہ توتہ ماہتھہ تمس خبر سارنے چیزن ہنز  
 تھہ تھہ منز چھہ تمس نفع تہ فاندہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہن چھہ اللہ تعالیٰ ان سارنے  
 مفید تہ نافع چیزن ہند علم عطا کورمٹ۔ بہر حال تہندہ طرفہ چھہ نفعی نفع۔ لہذا چھہ تہندی حق پانہ خوتہ  
 تہ زیادے۔ تمی موکھ گڑھن تھے زیادہ ٹاٹھ آسن قبیلہ کرانہ خوتہ ماس ماجہ ہندہ خوتہ بلکہ پندہ پانہ خوتہ تہ۔  
 وَأَزْوَاجَهُمْ تہند ازواج طاہرات چھہ باایمان ہنزہ والدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم تہند معنوی بابہ صاب آسن چھہ لازم کہ تہند ازواج طاہرات گڑھن آسنہ باایمان ہنزہ معنوی  
 والدہ وجوب <sup>تکلیف</sup> اندر <sup>تکلیف</sup> وَأَوْلِیَاءَ اَرْحَامِهِمْ بَعْضُهُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ بیہ چھہ باایمان ہند قریبی رشتہ  
 دار اڈاؤین زیادہ حقدار وراثتس اندر <sup>تکلیف</sup> فِي كِتَابِ اللّٰهِ خدایہ سنزہ کتابہ اندر یعنی تہندہ شرعی حکمہ  
 موجب <sup>تکلیف</sup> مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُهَاجِرِیْنَ بایمانو خوتہ بیہ مہاجر خوتہ <sup>تکلیف</sup> اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰی اَوْلِیَائِكُمْ  
 مَعْرُوفًا مگرے تہہ پنے نین دوسن نسبت کانہہ احسانہ کرو تھہ چھہ کانہہ حرج یعنی بخشائیشہ پاٹھے یا  
 وصیتہ پاٹھے دیو کینہہ چیزہ تہن <sup>تکلیف</sup> كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یوہے حکم چھہ لوح محفوظس اندر  
 لیکنہ آمت یعنی وراثت چھہ رشتہ دارنے اندر جاری کرن <sup>تکلیف</sup> وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّیْنَ مِیْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ



فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَمَتْ رَوَاهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرًا ۙ إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ  
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ  
الظُّنُونًا ۗ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۙ  
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۗ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ

المتوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءكم جنودا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا الهم ترورها اے ایمانورثیتس  
پاواللہ تعالیٰ سز سز نعت یوسہ تم توہرہ عطا کر۔ یہ ساتہ توہرہ پیٹھ دشمن ہندواریہ فوج آئے حملہ کرنہ  
خاطرہ۔ پس سوز اسہ تمن پیٹھ تیز واؤ بیہ سبہ فوج ملائکن ہندئس نہ توہرہ بوزنہ اوس یوان وکان اللہ  
بما تعلقون بصیرا اللہ تعالیٰ اوس تہند تم ساری تدبیر وچھان یم ٹہہ تمہ ساتہ کران آسوہ خندق  
کھن ہیو بیہ ثابت تہ مضبوط روزن کافرن ہندہ مقابلہ خاطرہ تہ وچھتہ اوس اللہ تعالیٰ خوش گوشہاں توہرہ  
پیٹھ راضی سپدان تہ توہرہ مدد کران یہ واقعہ سپد تمہ ساتہ اذ جاء وکم من فوقکم ومن اسفل  
منکم واذ زاعت الابصار وبلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنوننا دشمن آئی توہرہ پیٹھ  
حملہ کرنہ توہرہ پیٹھ کن تہ یعنی میدا نکلہ ہیر مہ طرفہ توہرہ بون کن تہ۔ بیہ یلہ خوفہ سببہ تہنزہ اچھہ درہ بلہ  
دشمن کن بیہ آسوہ وانجہ واثر مثرہ ہرین پیٹھ بیہ آسوہ ٹہہ خدائس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران  
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ای وقتہ آبیہ آزمائش کرنہ بایمان۔ بیہ آئی تم دنہ ونہ  
دندہ ونہا سببہا سخت واذ يقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا  
بیہ ییمہ ساتہ ونہ لگ منافع۔ بیہ یمن لوکن ہندین دلن منز نفاق تہ شج بیماری اس اسہ سبت ئس وعداہ  
خدائمن تہ تہند پیٹھ برن کور مت اوس سہ اوس نہ مگردھو کہ تہ فریب واذ قالت طائفة منهم یا هل  
یتربا لامقامکم فارجعوا بیہ یلہ تہنزہ ای اکھ منافقن ہنز جماعت ونہ لجا ای مدینہ کیولو کو توہرہ ہیو کوہنہ

يَتْرِبَ لِمَقَامِكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝۱۳ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبِيلُ الْفِتْنَةِ لَا تُوهَا وَمَاتَلَبَّتْهُنَّ بِهَا الْأَيْسِيرَةُ ۝۱۴ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝۱۵ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۶ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ

دشمنہ سند مقابلہ کرتے ہیں اور پھر دپوت گزھو ہن گرہ واپس وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا بے ہیوت اک جمائش تمواندرہ نبی کریم ﷺ واپسی ہند اجازت مکن۔ تم اس دپان بیشک سان گرہ چھہ غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ آس نہ مگر تم آس یرھان امی ہمانہ ژلن وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا تَمَّ سَبِيلُ الْفِتْنَةِ لَا تُوهَا وَمَاتَلَبَّتْهُنَّ بِهَا الْأَيْسِيرَةُ ہر گاہ تم شہر س منز آستھہ شہرہ کیو طر فوکن کا نہہ غیماہ دشمنانہ ووتلھہ بیہ ہا۔ تو پتہ بیہ ہاژھانڈنہ تمں رعبہ فتنہ تہ فساد اسلامس خلاف برپاکرن ضرور سپدہ ہن تم گرہ بار تراوت تھہ قفس سیت شامل تو پتہ کرہ ہن نہ تھہ منز مگر کی تار۔ یعنی گھرن منز روزہ ہن نہ زیادہ کاس وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْتُونَ الْأَدْبَارَ حالانکہ سمو لو کو اوس عمد گورمت امہ بروئھہ خدا ایس سیت کہ تم آسن نہ پوت پھیر تھہ ژلان وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا خدا ایس سیت ایس عمد کرنہ آمت آسہ تمیک بیہ ضرور بازہرس کرنہ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ہر گز دینہ نہ توہہ کا نہہ فاندہ ژلن ہر گاہ تہہ ژلو مر نہ رعبہ یا قتلہ رعبہ۔ ہر گاہ ژلو تہ، تو تہ تلونہ تہہ زندگی ہند فاندہ مگر کم سی کاس کیا زہ آخر چھو مرہ ئے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ

أَرَادِيكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادِيكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ  
 اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ  
 لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۸﴾ أَشْحَةً  
 عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  
 أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ  
 سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا

أَرَادِيكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادِيكُمْ رَحْمَةً فرمايو که تہہ یا رسول اللہ اے لوگو تمہارے اکھاہہ سے تمہیں بچاوت خدا کی  
 نغمہ ہر گاہ سہہ تمہارے خاطرہ ہر گاہ سہہ تہہ سخی یا تہہ اکھاہہ سے تہہ سخی وائے تاوتھ ہر گاہ خدا یہ سہہ ارادہ آسہ  
 توہہ نسبت تہہ مہرانی ہند وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لہن نہ تم پنے خاطرہ  
 خدا اس ورائے کانہہ دوستس نہ کانہہ مددگار س قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ  
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ تہہ توہہ منزہ تہن منافقن پور زانان تم تہن  
 لوکن تہہ جمادس منز شامل سہد نہ نغمہ پتھ رتان سہہ یم پنے نین بائن ونان بھہ آسہ نغمہ ابو جمادس مہ  
 سہدو شامل تم چھ تیت بڑل کہ پانہ تہ بھہ لڑایہ منز شامل سہدان مگر کمی۔ تھہ منز تہ بھہ نہ آسان  
 نیت صاف أَشْحَةً عَلَيْكُمْ بنجل چھ تم تہہ ہ تہہ شمولیتہ اندرہ بھو تہند غرض آسان کہ  
 مسلمان گوڑہ نہ پورہ حصہ مال غنیمتک ترن۔ آس تہ روز وبل برائے نام شامل بھہ آس تہ پولا کہ مال غنیمتہ  
 حصک حق دار بنو فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ  
 مِنَ الْمَوْتِ اودہ یلہ خوف ووقت واتان بھہ تہ سائہ بھو کہ تہہ وچھان تم توہہ گن آر زمان پانٹھ نظرہ  
 دووان۔ اچھہ تہزہ بھہ نژان آسان۔ تس شخصہ سند پانٹھ لہس مرزن ڈھٹھ پھیر مڑ آسہ فَإِذَا ذَهَبَ  
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ اودہ یلہ خوف تہ خطرہ ژلان بھہ تہہ سائہ بھہ تم  
 توہہ تیز زیوہ سیت ایڈووان یعنی بچھ تھہ ونان سہٹھاہ حرلیص بھہ تم مال غنیمت حاصل کرہ لہس پیٹھ

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ  
 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا  
 قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۲۱ وَلَتَأْرَأَنَّ  
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

تو بہ سیت چھٹھ یہ معاملہ خدا بس سیت چھ تہند معاملہ کہ اولئک لہ یومیوا فاحبط اللہ اعمالہم  
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ایم گے تھے تمہو چھنہ گوڈہ پیٹھے ایمان او نمت خدا بس۔ تمہ موكھہ چھہ كمرہ  
 اللہ تعالیٰ ان تہزہ سارے عملہ بے كار تمن ہند ثواب تمن عنہ قسمہ آخر تس منز حاصل سپدنہ۔ یہ تھہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ اس نئس آسان یعنی تہزہ عملہ بیکار کرنہ۔ تہزہ بزدلی ہنز حالتھہ چھہ اژھہ کہہ یحسبون  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا تمن چھہ گمانہ کہ دشمن ہنزہ لشکرہ چھنہ ونہ واپس گامرہ۔ حالانکہ تمہو چھہ ہن  
 محاصرہ تہ گھیرہ نمت وان يأتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ  
 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ بہ دوبارہ دشمن ہنزہ لشکرہ واپس یں تم کرن پنہ خاطرہ پسند  
 کہ گامن اندر روز تھہ آسن کران تہند حالات بین لوگن نشہ دریافت، غالب بہہ گوو تہ مغلوب بہہ  
 گوپانہ سپدہ ہن نہ جھہ کین مشکلاتن شامل ہر گاہ بالفرض تو بہ سیت جھگس شامل تہ روزن توتہ کرن نہ  
 دشمن ہند مقابلہ مگر کی۔ بل ہاونہ خاطرہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا واقعی چھہ تہندہ خاطرہ ای مسلمانو پیغمبر خدا جھگس اندر  
 ثابت قدمی خاطرہ اکھ عمدہ نمونہ اکھ۔ تو بہ اندرہ تمن لوکن ہندہ خاطرہ ایم امید چھہ تھوان خدا بس  
 سیت ملاقات کرنج۔ بہہ ایم امید چھہ تھوان آخر تس اندرہ بڈہ ٹوانج، بہہ خدایہ سند یاد چھہ کران  
 سیٹھہ زیادہ تمن لوکن پڑہ کہ پر تھہ محافل اندر حرکت و سکوئس نشست و برخواستس اندر ہمت و



وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٣٧﴾  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ  
 مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَ  
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ  
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٩﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ

استقلالس اندر بچن تم تہمدی قدمہ تہمدی متابعتہ و لکنار المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا  
 اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ و ما زادہم الا ایماناً و تسلیماً با ایمان کاملو وجہہ دشمن  
 ہنزہ واریاہ لشکرہ حملہ کرتھ یوان فہنہ لگ یو ہے پچھ سہ موقعہ سمیک وعدہ اسہ تہوومت اوس خدا لکن  
 تہ تہمد پیغمبر ان پوزاوس فر موومت خدا لکن تہ تہمد پیغمبر ان۔ یہ موقعہ پیش ینہ سیت ہر یونہ تم ن مگر تہمد  
 ایمان تہ تہمزہ فرمانبرداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنے با ایمان اندر مشترک بعضی اوصاف اس  
 بعضی با ایمان اندر مخصوص تم ن متعلق پچھ فرماوان اللہ تعالیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا  
 مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَمَوے با ایمانو اندرہ وجہہ بعضی تم سمو پورہ کورسہ وعدہ جان نثاری ہندی نئس  
 تہمو کورمت اوس خدا لیس سیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا چنانچہ تہمو  
 اندرہ کرہ بعضی پورہ ہن ذمہ واری یعنی شہید سپد جنگ کران۔ بیہ چھ تہمو اندرہ ہم تہمہ کس انتظار س  
 اندرہ وجہہ کہ کروا تہ اسہ تہ امیہ شہادیحہ سعادتک موقعہ۔ تہمو کورنہ تبدیل پنہ نس معاہدس اندر اکھ ذرہ  
 تہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ یہ واقعہ سپد سمہ تہمہ موکھ بیٹھ اللہ تعالیٰ پزیرس پزیر مزور دیرہ  
 وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بیہ بیٹھ عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تم ن منافقن ہر گاہ سہ  
 یژہ تہ دیرہ تم ن توبہ کر ٹک توفیق إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون تہمد تم ن نفعہ توبہ قبول کرن چھنہ کینہہ بعید تہ دور وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا  
 تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ  
 أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
 وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

کفر و ابعیظتم لم ینالوا خیرا الله تعالیٰ ان کورپنه قدرته سیت کافر دفع مدینه شریفه نشه زکبه هتھ۔  
 تمن پیوونہ پلہ کنھی۔ تم بیمہ مقصدہ آمت آس نہ مقصد سپد کہ نہ پورہ ژکہ شر بھگہ پنہ نین کاؤین۔  
 وکفی الله المؤمنین القتال الله تعالیٰ سپد کافی اتھ جگس اندر با ایمان تمن پیہ نہ جنگ کرنج  
 ضرور تھے۔ جنگ نہ کرنے کور الله تعالیٰ ان کافر ن ہند شر دفع وکان الله قویا عزیزا الله تعالیٰ چھ  
 ہمیشہ سیٹھا توتہ وول سیٹھا غالب تس نشہ ہتھنہ کافر ن امہ طریقہ شکست دین کہینہ عجائب تہ نوکتھاہ  
 وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ  
 وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا بیہ سموائل کتابو یعنی یهودو سمو بد عمد یجر تھ کافر ن مدد دہمت اوس تم وال الله  
 تعالیٰ ان بیہ پنہ نیو فلا یواندرہ بون۔ یکن منز تم محصور اس۔ بیہ تروون جھندین ولن اندر سخت رعب تہ  
 ہیبت توبہ مسلمان ہند چنانچہ تمواندرہ مارو کوک توبہ بعضی لوکھ بعضی کرو کوک گرفتار وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ  
 وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا بیہ کروہ تمہ وارث تہ مالک الله تعالیٰ ان جھندین زمین ہند  
 جھندین گرن ہند۔ جھندین ماکن ہند بیہ تمہ زمینک پیار نہ تہہ حکمت تہ آسوہ زانہہ یعنی زمین خیر ک  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الله جھہ ہمیشہ پریتھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ  
 لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ای  
 پیغمبر برحق تہہ فرماو حض پنہ نین زنانن ہر گاہ تہہ ژھانڈان جھوہ و نیاع ج زندگی بیہ تمہ زندگی ہند

وَأَنَّ كُنُتُنَّ تَرُدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ  
 اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾ يٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ  
 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾  
 وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
 تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾ يٰنِسَاءَ

سازو سامان تلہ پکومہ نعمہ بیوپہ کرہ توبہ دنیاء ک مال و متاع عطا کر تھ رخصت رتہ طریقہ۔ طلاق و مووہ  
 ہتھ بیتہ نس خوش کر وہ تہ نس گڑھتھ کر و تہ حاصل دنیاء ک سازو سامان۔ وَأَنَّ كُنُتُنَّ تَرُدْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَالذَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نتے چھوہ تہہ ژھانڈان  
 خدا تہ تہند رسول یعنی یعنی موجودہ حالتے پیٹھ کر و تہہ قناعت بیہ کرو اختیار عالم آخرت یعنی جنگ  
 تھو درجہ یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حرم محترم آسنہ موکھ تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت ہتھ  
 نئس یوسہ توبہ اندر نیکو کار آسہ تمسندہ خاطرہ ہتھ اللہ تعالیٰ ان تیار تھو بڈ مزور۔ اوتان لوس نبی کریم ﷺ  
 سندہ طرفہ حکم خدا ازواج طاہراتن کن خطاب امہ پتہ ہتھ اللہ تعالیٰ فرماوان تھن ازواج طاہراتن یٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
 اللَّهِ يَسِيرًا ای بڈس پیغمبرہ سز و باژوتہ زانو یوسہ اکھاہ توبہ اندرہ کانہ بے ہودہ کاماہ کرہ یعنی  
 تیتھ معاملہ کرہ یمہ سیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ تہ پریشان گڑھن تئس بیہ آخر تئس اندر  
 دوگن عذاب کرنہ تہ ہتھ اللہ تعالیٰ اس آسان۔ تئس ہیجہ نہ تمہ نعمہ کانہہ چیز پیٹھ رتھہ وَمَنْ يَّقْنُتْ  
 مِنْكُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا بیہ یوسہ  
 اکھاہ توبہ اندرہ فرماں برداری کرہ خدایہ سز بیہ تسندس پیغمبرہ سز بیہ کرہ ژ عمل تئس و مواس مزور تہ  
 دوگن بیہ ہتھ آسہ تمسندہ خاطرہ عز تک روزی تیار تھوومت یٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِن

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٣﴾  
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٤﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا  
 اسے بدس بیغیرہ  
 سنزوز نانو تہمہ چھوہ نہ عام زنا نواندرہ کانسہ زانہ ہمشہ بلکہ چھہ تہمد مرتبہ سیٹھاہ تھود ہر گاہ تہمہ پر ہیز گاری  
 اختیار کرو۔ پس گڑھن نہ تہمزہ وو پر مردن سیت نرم تراہیہ نزاکتہ سان تھہ کرنہ۔ یلہ تھہ کرنج  
 ضرورت پیہ۔ ہتھہ سہ شخص یس دلس منز پچھہ خیالن ہنز ہمارے آسہ توه نسبت پچھہ خیالچ خواہش  
 کرہ۔ بیہ آسوتھہ کران عام دستورہ مطابق۔ اشاروتہ کنایو ورائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بیہ کرو تہمہ قرار پنے نین گرن اندر۔ بیہ مہ آسوبرو تھمہ پاٹھو و ہر مردن زینت  
 ہاونہ خاطرہ شیرت ہیرت گرو منزہ نیر ان۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ بیہ آسوسارے نمازہ برپا تھوان بیہ آسوز کواہ اکران۔ کیا زہ یم دوشوے چھہ اسلامک ہڈنشانہ بیہ  
 کرد فرمانبر داری خدایہ سنزیہ تہمدس بیغیرہ سنز۔ تہمد ساری احکام آسوجانان یم احکام بجانہ نس اندر چھہ  
 تہمدوی فاندہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یم  
 احکام بیان کرنہ اندرہ چھہ اللہ تعالیٰ سند ارادہ کینہہ تہ مگر توبہ نہ تھمہ ہنز کثافت دور کرن ای بیغیرہ  
 سند یوگرہ والیوبیہ چھہ سہ یژھان توبہ پاک و پاکیزہ کرن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بیہ کرو یا و خدایہ سند تم آیات یم پرنہ یوان چھہ تہمدین گرن اندر بیہ تہ عقلہ ہنزہ  
 تھہ یمہ بیان کرنہ چھہ یوان یعنی احکام خداوندی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تہ تھاوو خیال کہ پز

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۱۴﴾  
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ  
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ  
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ  
 الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۵﴾

پاٹھ اللہ تعالیٰ چھہ رازدان تس چھہ ساریچی پور خبر، لہذا گوشہ ظاہر اوباطنا تمسندین حکمن ہند تعمیل کرن بیہ گوشہ تمسند یومنون چیز ونشہ پتھ روزن **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا** بیشک مسلمان مرد و ستمان زنانه ایماندار مرد بیہ ایماندار زنانه بیہ پیار مرد و بیہ بیزاره زنانه بیہ صبر کره و ن مرد و صبر کره و ن زنانه۔ بیہ خشوع و خضوع کره و ن مرد و بیہ خشوع و خضوع کره و ن زنانه، بیہ خیرات و صدقات کره و ن مرد و ن خیرات و صدقات کره و ن زنانه، روزہ دار و روزہ و ن مرد و روزہ دار، روزہ و ن زنانه۔ بیہ پنہ نین ستره جن جاین راجھے کره و ن مرد و ن زنانه، بیہ سیٹھاہ یاد خدا کره و ن مرد و سیٹھاہ یاد خدا کره و ن زنانه، یمن سارنے ہندہ خاطرہ چھہ اللہ تعالیٰ آن بوڈ مغفرت تہ بڈ مزدور تیار تھاوڑ۔ **وَقَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ** بیہ چھہ کانسہ ایماندار مرد و ن کانسہ ایمان دار زنانه گنجائش یمہ کتھہ ہنز کہ یمہ خدا لئن بیہ چھہ پیغمبرن کانسہ حکماہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ  
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

جاری کور۔ اده کیاہ آسہ ہائس مردس یازنانہ اختیار تہہ لحمس اندر پنہ گنہ حئمہ سیت مداخلت کرنچ یعنی  
برابری زانہ ہن تہہ لحمس تقیل کرنہ تہہ کرن ۔ بلکہ چہہ تمن واجب تہہ لحمس تقیل کرنہ وَمَنْ  
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ہائس اکھاہ نافرمانی کرہ خدا یہ سندس پیغمبرہ سدگنہ لحمس پز  
پاٹھہ سہ پیوونہ گراہی اندر۔ بیتہ ہائس چہہ لفظ مؤمن کس عمومس اندر حضرت عبداللہ بن تحش بیہ لفظ  
مؤمنہ کس عمومس اندر حضرت زینب بنت تحش داخل بیہ امر ہم کس عمومس اندر حضرت زید بن  
حارثہ سیت نکاح کرن داخل۔ چنانچہ ہم آہ کریمہ نازل سپدنہ پتہ سپدیہ نکاح منظور۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي  
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ بیہ پاووہ تہہ تیس یلہ تہہ ای پیغمبر جرق بطور  
مشورہ ومان آسوہ ہائس شخصس ہائس پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان مہربانی تہہ انعام کور کہ مؤخر ف باسلام کرون یوسہ  
دینی نعمت ہجھہ ، غلامی نشہ موکلوون یوسہ دنیوی نعمت چہہ بیہ ہائس پیٹھہ توہہ تہہ مہربانی تہہ انعام کور وہ کہ  
توہہ کورون سہ آزاد بیہ کروس دنیج تعلیم بیہ کوروس پنہ پو پھترہ ہمیشرس سیت نکاح امہ اندرہ چہہ  
مراد حضرت زید بن حارثہ تہہ آسوہ ہائس فرماوان ای زید بن آشین (یعنی بی بی زینب) رٹن پائس نشہ  
پنہ ہائس نکاحس اندر سومہ تراون نکاحہ اندرہ معمولی غلطیو سببہ۔ تمسرن غلطین گن مہ آس و چھان بیہ  
کھو تہہ خدائس تمسرن حقون اندر مہ کمر و کوتاہی تہہ کسی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ۔ بیہ پاووہ تہہ تہ  
تہ تیس سوکھہ یوسہ تہہ آسوہ یا رسول اللہ پنہ ہائس پائس منز پوشیدہ تھاوان۔ ہجھہ آخر کار اللہ تعالیٰ نیر اوہ  
ون اوس یعنی توہہ آس خاہش دل مبارکس کہ ہر گاہ حضرت زید بن حارثہ پیٹھہ زینبس طلاق دیہ تیلہ کرہ  
پوپانہ تمن سیت نکاح وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ تہہ آسوہ سہ خیال نراوان لو کون ہنزہ

قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَجَنكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذْ أَقْضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
 اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  
 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۴﴾  
 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

طعنہ زنی سببہ۔ تجہ آسوہ لوکن ہنزہ طعنہ زنی کھوژان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوس زیادہ سزاوار کہ تجہ کھوژ  
 ہو تس۔ چونکہ پیٹھ معاملہ اندراس فی الواقع اکھ دینی مصلحتتھا۔ لہذا تمہہ کرو تجہہ کا نہہ اندیشہ لوکن ہنزہ  
 طعنہ زنی ہند فلکما قاضی زید مینہا و طرا و جنکھا لکی لا یكون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم  
 إذ اقضوا منہن و طرا اویہ یلہ زید بن حارث بن پور کور بن مقصد تہ تم دیت بی بی زینب س طلاق سمیک  
 سہ بروٹھ پیٹھ خواہش مند اوس تو پتہ موکلے یہ تمس پور عدت اسہ کور نکاح توبہ یار رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم تس بی بی زینب سیت یوہے گوو نکاح آسانی تھتھہ امہ سیت آئندہ بالیمان کا نہہ حرج واقع  
 سپدہ پنہ نین ممکن ہنزن زنان سیت نکاح کرنس اندریلہ تم محنتہ تہ تمس نشہ بن مقصد پورہ آس  
 کران۔ وکان امر اللہ مفعولاً خدایہ سند حکم اوس بہر حال پورہ سپدہ ون تھہ تھہ پاٹھے گڑھہ ہابدل  
 ماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنیۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل کا نہہ حرج تہ الزام اسنہ  
 تمس پیغمبر برحق سواکام کرنس اندریوسہ مقرر آس کر مدہ تہندہ حقہ اللہ تعالیٰ ان خدایہ سند چھہ  
 یوہے دستور رودمت تمس پیغمبر اندریم بروٹھ گدرے مت چھہ۔ کہ تمن یمہ کامہ ہند حکم آو کر نہ  
 سوہ کام آس تم کران کا نہہ ہندہ طعنہ زنی ہند خوف کرنہ ورائے۔ تھہ پاٹھے چھہ تمس پیغمبر برحقہ سند  
 شان تہ وکان امر اللہ قدا مقدورا خدایہ سندین یمن پیغمبر ہنزہ امہ قسح یم کام آس تمس سارنہ  
 کائین اندر تہ اوس خدایہ سند حکم بروٹھ پیٹھے مقرر کرنہ امت الذین یبلغون رسالات اللہ  
 یم ساری گزشتہ پیغمبر آس تے یم زن پرورد گارہ سد احکامات آس لکن واتہ

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۳۹﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿۴۱﴾ وَ  
 سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۴۲﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

ناوان۔ بیہ اس کلمہ وقتہ تبلیغ قوی خیرہ مامور سپدان۔ تمہ ساتھ آس تبلیغ قوی کران۔ یہ ساتھ تبلیغ  
 فعلی خیرہ مامور سپدان آس تمہ ساتھ آس فعلی تبلیغ کران۔ بیش نہ سپد کلمہ نبی کریم کہ بروٹھم  
 اکھ بے دلیل رسما پھرا اوٹھی پنہ فعلہ سیتہ سہ گوو کہ معتہ پنچوے سزہ زنانہ سیتہ کروٹہ عملاً نکاح تمی  
 سیتہ پھٹہ یہ اکھ جاہلیتگ بے دلیل رسما وَيَشْتُونَ وَلَا يَحْتَشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ تم پیغمبر آس  
 اللہ تعالیٰ اس کھو ژان بیہ آس نہ کانہ کھو ژان اللہ تعالیٰ آس ورانے تہندہ مزید تسلی  
 خاطرہ آس ونان وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ ای چھہ اعمالن حساب ہینہ خاطرہ بس۔ وون کیاہ  
 چھہ بیہ کانہ کھو ژان توہہ یم لوکہ تعمیل احکام خداوندی کرنس پیٹھ طعنہ زنی کرن تمن نہ کرہ اللہ تعالیٰ  
 عذابس گرفتار۔ لہذا مہ سپد و تہہ نمکین نہ پریشان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضرت محمد ﷺ چھونہ توہہ مردواندرہ کانہ آسند بابہ  
 صاب۔ زید بن حارثہ سندنہ کتھ پائٹھ آسہ ہن پیغمبرہ سندرہ روحانی مرئی آسنہ موکہ چھہ تم توہہ سارنی  
 ہندے روحانی بابہ صاب اتھہ روحانیتس منز چھہ تمن کمالک درجہ حاصل کیاہ تم چھہ  
 سارنہ پیغمبرن ختم کرہ ون۔ یعنی سلسلہ نبوتس آیہ تہندہ سیتہ مہر کرنہ ون بیچہ نہ آئندہ تمن پتہ  
 کانہ پیغمبریتھ۔ حضرت عیسیٰ یہ آخر زمانس اندر بحیثیت اکھ امتیاء، بحیثیت پیغمبر یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ  
 پریتھ چیز کہ عدم وجود مصلحت پورہ زانہ ون۔ یہہ معاملہ کہ وجود مصلحت نہ صحیح آس تس خبرے نمی  
 آویہ معاملہ وجودس اندر بی بی زینبہ سندنہ نکاح سپد با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے با ایمانوا کہ کرو خدا یہ سندین عام احسانن ہندیابیہ بڈہ احسانچ شکر  
 گذاری سہ گوو وجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ احسانگ تہ کرو شکر ادا خدا یہ



لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۳۳﴾  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۳۵﴾ وَذَاعِبًا إِلَى  
 اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

سند کرو بکثرت یاد تمسجدین سارنے احکا من کرو تعمیل۔ وَسَيُخَوِّذُكُمْ بِذُكُورٍ وَأُنثِيَ بِهٖ اَسْوَابًا کی تہند  
 کران یاد صبحس نہ شامس نہ یعنی ہمیشہ دلہ سیت نہ زیوہ سیتہ نہ بدنہ سیتہ نہ ہواذی یصلی علیکم  
 وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سہ پروردگار چھہ بیٹھہ رحیم بس  
 توہہ بیٹھہ رحمت چھہ سوزان پانہ نہ بیہ تہندہ حکمہ تہند ملایک نہ بیٹھہ توہہ امہ رحمتہ برکتہ کدہ وہ  
 جمالت وضالت کیونکو منزہ علم و ہدایہ کس گاش گن امہ اندرہ سپد ثابت کہ سہ پروردگار چھہ ہمیشہ ایمان  
 دارن ہندہ حقہ رحمتہ وول دنیاس اندر۔ آخرتس اندر نہ اسہ تہمز رحمت تمن شامل۔ چنانچہ  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تعظیم و تکریم تہند اسہ تمہ دوہہ یمہ دوہہ تم تس سیت ملاقات کرن۔  
 سلامتی سان سلام تی گوو سلام قولاً من رب رحیم، حدیث شریفس منز چھہ کہ اللہ تعالی فرماو جنتین  
 السلام علیکم یا اہل الجنة۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا بیہ چھہ تہ تیار تھا و مژ عزیج مزور تہندہ خاطرہ  
 جئس منز یایُّهَا النَّبِيُّ ای بدہ پیغمبر تہ مہ حض سپد وول آزدہ معمولی کیرن لوگن ہند یو طعنو سیت  
 اگر یمن بے وقوفن تہند تھو دمر تہہ در بیٹھے چھنہ یوان، متہ ای سچھہ، باایمان یمہ رحمہ نہ مہر بانیہ اسہ  
 عطا کرہ یمن ہند واسطہ چھوہ تہ تہندین مخالفن یمہ سزاونہ تہندس بیانس بیٹھہ توہہ نش یمہ نہ تمیک  
 ثبوت معنیہ کینہہ نہ۔ امی سیت سپد ثابت کہ تہے کمہ درجہ چھوہ اسہ نشہ مقبول نہ محبوب اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ  
 بے شک اسہ ہز سوزو تہہ یمہ تھدہ شانک پیغمبرہ کہ تہہ آسو قیامتک دوہ شہدًا اُمتہ خاطرہ پانہ  
 سرکاری گواہ تہندی بیانہ موجب یمہ تہند فیصلہ کرن۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تہی چھوہ باایمان بشارت نہ  
 خوش خبری دوہون بیہ کافرن یم کرہون وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بیہ سوزے وہ اسہ

اللَّهُ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۰﴾ وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ  
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ  
 وَسِرَّهِنَّ سَرًا جَمِيلًا ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا

تہہ لو کن نادو وہ نے معبود برحقس کن تہدی حکمہ یہ بشارت تہ بیم کرن تہ دعوت دے چھہ بواسطہ  
 تبلیغ۔ مگر بذات خود چھوہ تہہ کمالا توتہ تھدیو صفتو عاداتوتہ عباداتوکے از سر تا پا ہدایتک نمونہ آسٹس  
 اندر اکھنہ نہ پے کرہون تہ پر یزلہ ون ژونگاہ لہذا تراوے تہ ساری غم تہہ روزو مشغول پنہہ کامہ سیت سوگیہ  
 یے کہ **وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا** ونو خوشخبری ایماندارن کہ تہندہ خاطرہ چھہ  
 پروردگارہ سہدہ طرفہ تمہن پیٹھہ بوڈ فضل سپدہ ون تہہ پاٹھہ روزو تہہ بیم کران کافر تہہ منافقن ہڈہ  
 عذابک **وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا** بیہ مہ مانو کافران  
 تہ منافقن ہنزہ تھہ بیہ مہ کتر و تہندہ تکلیف دنگ کانہہ پروا۔ ہر گاہ امیک خیال دل مبارکس منز بیہ  
 اعتماد کرو تمہہ وقتہ معبود برحقس پیٹھہ سہ رچھہ توبہہ پر تہہ ضرر نشہ بس چھہ اللہ تعالیٰ کار ساز آہنہ کن  
 کافی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ**  
**مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا** ای با ایمانو یلہ تہہہ با ایمان زنان سیت نکاح کرو تو پتہ دیو تمہن طلاق تھہہ  
 کرنہ تہ اتھہ لاگنہ یعنی تمہن سیتے ہم بستری کرنہ بروٹھے ادہ چھنہ توبہہ کانہہ حق تمہس عدتس منز  
 تھاونگ تاکہ گنزارا ہو تہہ تہندہ عدتک دوہ یعنی تمہن چھنہ عدتھہ۔ تمہن چھنہ پیارنوی۔ تمہہ ہیکن فوراً  
 بیس شخصس سیت نکاح کر تھہ **فَمِيعَتُهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سَرًا جَمِيلًا** پس واتا نو تمہن کانہہ  
 فائدہ یعنی تمہن دیو کینہہ لباس پوشاک حسب حیثیت۔ کینہہ ہاہ تھہ کرو تمہن رتہ طریقہ روختھہ۔  
**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ**

لَكَ أَرْوَاجِكَ الَّتِي اتَّيْتِ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَدَتْ عَمَّكَ وَبَدَتْ عَمَّتِكَ وَبَدَتْ  
 خَالِكَ وَبَدَتْ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمْرَاءَ  
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا  
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اے بڑے پیغمبرہ بیشک آسہ کرہ حلال ٹہندہ خاطرہ تہنزہ تمہ زنانہ یمہ ون کینس ٹہندس خدس منز حاضر  
 چھہ۔ ٹہندس عقدس تل چھہ تکن توہمہ مرہ دیت وہ بیہ تمہ زنانہ یمن تہ مالک چھوہ سپد مت مملک  
 یمین یعنی کینزہ یمہ دشمن نفعہ مال غنیمتس اندر توہمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرہ مرہ چھہ۔ وَبَدَتْ عَمَّكَ وَبَدَتْ  
 عَمَّتِكَ وَبَدَتْ خَالِكَ وَبَدَتْ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ بیہ تہنزہ پترہ یمین، بیہ پو پھترہ یمین، بیہ  
 ماترہ یمینہ بیہ ماسترہ یمینہ سمو خاندانی رشتہ دار زنانو اندہ چھہ حلال توہمہ پیٹہ تمہ زنانہ سمو توہمہ سیت  
 ہجرت کر۔ وطن پن ترا تھہ آہیہ وَأُمْرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا بیہ کر آسہ ٹہندہ خاطرہ حلال سو با ایمان زنانہ یمہ پن پان پیغمبرس یعنی توہمہ مرہ  
 ورائے پیش کور تہ بخش۔ ہر گاہ پیغمبرس یعنی تہہ ارادہ کران چھوہ تس زنانہ سیت نکاح کرہ نگ  
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ یم ساری حکم چھہ خاص ٹہندہ خاطرہ، با ایمان ورائے ٹہندہ  
 خاطرہ چھہ بے احکام قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ تحقیق آسہ چھہ معلوم تم احکام یم آسہ فرض کرے با ایمان پیٹہ زنانہ کینزن ہندہ چھہ  
 تہ گووای زہ کہ زور زنانو خو تہ زیادہ چھنہ اجازت نکاح کرہ نگ کینزہ ایڑہ خوش کرہ لکھ تہ تہنہ توہمہ

تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مُنْهَنٍ وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ  
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ آيَاتِهِنَّ  
 وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ  
 مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

کنہ قسمہ وقت سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھا مغفرت کرہ دن سیٹھا  
 رحم کرہ دن سہ چھ پنہ رحمتہ سیت احکامن منز مناسب سہولت فرماوان تَرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مُنْهَنٍ  
 وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ سم ازواج طاہرات توہہ نشہ موجود چھ تمواندرہ چھ توہہ اختیار تمونزہ ایس  
 کالس توہ خوش کرہ پانس نشہ دور تھاوان یعنی نوبت تہ وار نہ دن سوہیکون جہہ دور تھاوتھہ یوسہ تہہ  
 یڑھیون پانس نش تھاوان وار تہ نوبت لس عطا کرنے سوہیکون تھے پانس نشہ تھاوتھہ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ  
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ بیہ یوسہ تہہ دوبارہ پانس نزدیک آن یڑھیون تموزنا نواندرہ تہہ خاص مدتہ  
 خاطرہ الگ آسوکھ تھاومزہ تھہ پیٹہ تہ چھنہ توہہ کانہ گناہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ آيَاتِهِنَّ وَلَا يَحْزَنَ  
 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ یہ توہہ وارہ تہ نوبتس منز اختیار دسُن چھہ زیادہ نزدیک تہزنن اچھن  
 شہجار واتنہ خاطرہ۔ دلس سکون و قرار پادہ سپدنہ خاطرہ بیہ سپدن نہ تمہ غم گین بیہ سپدن تمہ  
 رضامندی ساری تمہ سیت یہ توہہ تمن عطا کورہ مالہ منزہ یا ألفت، محبت مای تہ شفقتہ منزہ۔ ای  
 مسلمانویم خاص احکام یوز تھہ تہنہ توہہ خیال گڑھ کہ یم احکام کونہ سپد عام طور سارنہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ چھہ زنان تہ سورے یہ تہندین دلن منز چھہ۔ اللہ  
 تعالیٰ چھہ ہمیشہ پنہ نین مخلوقن ہند حال پورزانہ ون سہ چھنہ یہ اعتراض کرہ ونین جلد گرفتار کران۔  
 کیاہ سہ چھہ سیٹھاہ بردبار تہ تحمل کرہ ون۔ کنہ چھہ سزاوان یڑکال تہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا  
 أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ای پیغمبر برحق تہندہ خاطرہ نہ حض چھنہ حلال از

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
رَّقِيبًا ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ  
إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا  
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ  
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیٰ مِنْكُمْ  
وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِیٰ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

کہ پتہ نوہ زنانہ بیاہتھہ توہمہ جایزہ یہ موجودہ سارنے زنانہ یا سہمو اندرہ آجہ تراونہ تہ تمن بدل بین  
زنانہ سینتہ نکاح کرن اگرچہ تہند حُسن و صورت سپدن توہمہ مرغوب تہ پسند إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
مگر چھہ حلال تہ جایز توہمہ کنیزہ یعنی تہہ زنانہ بین تہہ مسلک بيمين مالک سپدو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ رَّقِيبًا اللہ تعالیٰ چھہ پریتھہ چیزچہ حقیقت تہ مصلحت پور نگرانی کران تہ سو روی ژرژان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ ای با ایمانو! تہہ  
مہ آسواژان نبی کریم ﷺ سندن گرن اندر حجرات مبارکن اندر مگر تلہ بیلہ توہمہ نادیدہ دنہ کینہہ غذا کھینہ  
خاطرہ۔ سہ غذا کھینہ تہ گڑھہ بین کھینہ کس و قس پیٹہ۔ وقتہ بروٹھہ گڑھہ نہ بین تاکہ توہمہ بیہ نہ انتظار کرن  
غذا کس تیار سپدن وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ  
ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیٰ مِنْكُمْ لیکن یلہ توہمہ ناداسہ یوان دنہ کہ غذا چھہ تیار تلہ آسواژان توہ  
پتہ یلہ تہہ کھیتھہ چیتھہ آسواژان توپتہ گڑھہ نیرن تہہ گڑھہ نہ تمن سیت یا پانہ وان چھن منز مشغول  
روزن کیا زہ تہہ سیت چھہ نبی کریم ﷺ تکلیف و اتان تم چھہ توہمہ نشہ مند چھان۔ تم چھہ پانہ توہمہ  
فرما تھہ ہیگان نیرنگ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِیٰ مِنَ الْحَقِّ مگر اللہ تعالیٰ چھہہ پرتھہ ونہ نس اندر کانہہ ہند  
لحاظ کران۔ لہذا آو توہمہ واضح طور حکم کرنہ بیاہتھہ چھہ از کہ پیٹھہ حکم یوان کرنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلم سند ازواج طاہرات کرن توہمہ نشہ پردہ لہذا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ  
 وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ  
 مِنْ بَعْدِهَا اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝۵۳ اِنْ  
 تَبَدُّوا شَيْئًا وَاَوْتُخِفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝۵۴  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ  
 وَلَا اَبْنَاۗءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاۗءَ اَخْوَاتِهِنَّ وَلَا اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا

حجاب از کہ پیٹھ ید تہ نہ نبی کریم ﷺ سندین ازواج مطہراتن نشہ کانہہ چیز آسہ مگن سہ آسہ تممن نشہ  
 منگان پردہ نہیر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن تو پتہ تممن سیت تھہ کرنہ تہ چھہ ممنوع لیکن  
 سخت مجبوری تہ ضرور کجہ وقتہ چھہ کتھہ کرنہ جائز مگر تممن گن نظر دن چھہہ جائز ذلکم اطہر لقلوبکم  
 وقلوبہن یہ چھہ ہمیشہ خاطرہ تھہدین دلن تہ تھہدین دلن بیچھہ خیالا تو نشہ پاک و صاف روز نکھہ اکھ بوڈ  
 ذریعہ۔ وماکان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہا ابدا بیہ چھہہ توہہ  
 جائز کتھہ صورتس اندر پیٹھہر خدایس تکلیف و اتاؤن۔ بیہ چھہہ توہہ ہر گز جائز تھہدین بائن یعنی ازواج  
 طاہراتن سیت تمہہ پتہ کتھہ وقتہ نکاح کرن اِن ذلکم کان عند اللہ عظیمًا یہ چھہ اللہ تعالیٰ اس نشہ  
 بوڈ گوناہ۔ تھہ پٹھہ یہ گوناہ چھہ تھہ پٹھہ چھہ امیک زیوہ سیتہ تذکرہ کرن یاد کس اندر امیک خیال کرن تہ  
 گوناہ اِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا وَاَوْتُخِفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا چنانچہ ہر گاہ تھہ نہ راو و کانہہ چیز اہا یا  
 کتھہ تھہ تھاو اللہ تعالیٰ چھہ ہم دوشوے چیز پور زانان کیا زہ سہ چھہہ پر تھہ چیز اہ پورہ زانہ دن۔ سہ دیہ توہہ  
 ضرور تھہ پیٹھہ سزا۔ اسہ کس یمہ پردک تہ حجاب حکم بیان کور تمہہ منزہ چھہہ بعضہ اشخاص مستثنی تہ  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاۗءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا  
 اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کانہہ گناہ چھہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین ازواج طاہراتن  
 پنہ نین مالین یا نجوین یا باین یا بابہ تھرن، یا مینہ تھرن یا پنہ نین زنان یعنی مسلمان زنانن یا پنہ نین

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ

غلامن تہ کینزن ایشہ بے پردہ بروٹھ کُن نیس تہ تھہ کرنس اندر **وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** ای نبی کریم ﷺ سنزوزناونڈ کورہ احکامن ہندس تعلیمس اندر کھوڑو خدایس۔  
 کُمنہ کُمنس منز مہ کرو خلاف ورزی۔ بے شک سہ چھہ پر ہتھ چیزس پیٹھ شاہد۔ ممکن چھہ خلاف ورزی ہندس صورتس اندر دیہ سہ توہہ سزا۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بے شک اللہ تعالیٰ بیہ تہند ملائک چھہ درود سوزان نبی کریم ﷺ پیٹھ ای بابایمانو تہہ تہ سوزورودو سلام تمن پیٹھ بیہ کرو سلام و تر سلام یعنی ونان آسوالسلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ و برکاتہ یلہ بیہ آیہ کریمہ نازل سپد صحابہ صابو کور عرض نبی کریم ﷺ سندس خدقس منزیا رسول اللہ خداین ہر کور آسہ کُمن توہہ پیٹھ درودو سلام سوزنگ سلام کرن توہہ سو پچھہ آسہ وون پچھہ ناوے تو آسہ درود تھہ پاٹھ آسواسے پران توہہ پیٹھ فرموو کُ تہہ آسوپران اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہ تعالیٰ سند درود پڑن گور رحمت سوزن تمن پیٹھ یوسہ تہندس تھدس شائس مناسب آسہ ملائکن ہند درود سوزن گوو خدایس سو خاص رحمت سوزنہ خاطرہ دُعا کرن ہتھہ پاٹھ آسہ کُمن کرنہ آو تہہ خاص رحمتہ خاطرہ دُعا کرن ملائکن ہندہ منگنہ سیت بیہ سانہ یعنی بابایمان ہندہ منگنہ سیت تہ دعا کرنہ سیت چھہ حضور نبی کریم ﷺ سندس مراتب عالین اندر ترقی سپدان۔ ترقی در جاتن ہتھنہ کانہہ حدے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو کور عام امتین کُمن بانگہ پتہ دعا وسیلہ منگنہ ک حضرت فاروق اعظمؓ فرموو کُ جس گرھنہ وقتہ اُشر کنا فی الدعاء اے عمر آسہ تہ تھلوی زہ شامل پنہ نین دعاءن اندر امہ ساری اندرہ سپد ثابت ڈٹھہ کیتھ تے آسہ انسان سیٹھاہ تھودمر تبہ وول تہ مگر خدایہ سندس فضل ورحمتس گن چھہ پر ہتھہ وقتہ محتاج چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ پانہ فرموومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ دیہ نہ نجات پنن عمل یوتان نہ رحمت خد اشامل حال

يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ  
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ يَا أَيُّهَا  
النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤذِينَ ۗ

آسیس عرض آھ کر نہ توہمہ نہ دیہہ نہ نجات عمل یا رسول اللہ فرمود کہ میہ نہ دیہہ نہ نجات عمل یوتان نہ ہیرہ ہونہ میہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمتہ سیت ولہ یعنی یو پھس زیادے محتاج خدایہ سندس زیادہ رحمتس گن تہندہ خاطرہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام معھ نس اندر چھہ درود پرہ و نس نہ پنہ حقہ فاندے فاندہ کیا زہ رسول اللہ تعالیٰ ان چھہ فرمودت نس اکھاہ مہ پیٹھ آھہ درود پرہ اللہ سوزہ نس پیٹھ دہ رحمتہ اِنَ الَّذِيْنَ يُؤذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّبِيْنًا پڑی پائٹھ سم لو کہ ایذاون خدایس بیہ تہندس پیغمبرس ناشائستہ تھہ ونہ سیت اللہ تعالیٰ کرہ تمس لعنتس گرفتار دنیاہ س منزتہ آخرتس منزتہ۔ بیہ چھہ تہندہ خاطرہ تم تیار تھوومت ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِيْنَ يُؤذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا تھتھ پائٹھ یم لو کہ ایذاون باایمان مردنہ باایمان زنان تہندہ کانہہ جرم نہ قصور کرنہ و رائے پس بیشک تموئل پانس پیٹھ بڑہ اپڑیک نہ بڑہ گنہک بور يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ای پیغمبر برحق فرماؤ تہہ پنہ نین ازواج طاہراتن بیہ پنہ نین صاحبزادین بیہ نین باایمان ہنزن زنانن کہ کلہ نشہ آسن بون گن الوند تراوان پنہ نیو پوڑوتہ ڈپو آندرہ آھہ حصہ پنہ نین تھین پیٹھ ذَلِكُمْ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤذِيْنَ امہ طریقہ آسن تمہ جلد پر زہ ناونہ یوان کہ بیہ چھہ شریف نہ نیک بخت زنانہ ادہ آسکھ نہ ایذاواتا ونہ یوان۔ امہ سیت آسہ سپدان فرق کینزن نہ آزاد زنان اندر۔ اتھہ تھس ستر کر نس اندر ہر گاہ کتہ وقتہ بلا قصد وارادہ بے



وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۹ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ  
 لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝۶۰ مَلْعُونِينَ ۗ  
 أَيُّمَّا ثَقَفُوا أَخِذُوا وَقِصِّتْ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ۝۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي  
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۶۲  
 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝۶۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ

احتیاطی سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کر وہ ان سیٹھاہ رحم کر وہ ان۔ تھہ  
 بے احتیاطی تہ کرہ سہ درگذرتہ مغفرت لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہرگاہ نے منافق بیہ تم لوکھ  
 یہندین دلن اندر شہوت پرستی ہند مرض چھ تے چھ کینرن آنان بیہ یم لوکھ شہرس منز اپزہ خبرہ  
 پھیلاوان چھ پنہ نیو پچھ کتھوتہ حرکتونشم پتھ روزن تیلہ ہسہ راووہ نمی اس تمن پیٹھ اکہ نتہ اکہ دوہہ  
 یعنی اُس کر ووہ توہہ کُلم تہندہ خاطرہ شہرہ ہیر کڈ ٹک۔ تو پتہ ہیکن نہ ادہ تم توہہ نکھ تل پتھ شہرس منز  
 روز تھہ مگر کسے کالس مَلْعُونِينَ أَيُّمَّا ثَقَفُوا أَخِذُوا وَقِصِّتْ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ تمن آسہ پر پتھ طرفہ لعنت کرنہ  
 یوان۔ یتہ نس تم لہنہ ین تہیس ین تم رٹنہ بیہ مارنہ تہ ژٹنہ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ  
 چھہ خدایہ سُند دستور بروٹھمن مفسد تہ شہر یو لوکن پیٹھ تہ جاری کرنہ آنت لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا تہ غیرہ تغیر و تبدیل یَسْأَلُكَ  
 النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ای پیغمبر ہر حق  
 یم مخر لوکھ چھہ توہہ پر ژھان قیامتک کہ سو کر آسہ تہہ فرما یو لوکھ جواب کہ تمہہ وچ خبر چھنہ خدایس

وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا  
 نَصِيرًا ۖ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا  
 اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا  
 فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۖ رَبَّنَا إِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ  
 لَعْنَا كَبِيرًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا  
 مُوسَىٰ قَبْرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُتَقَالُوًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ

ورائے کانہہ تہ تو بہ کس چیز زانراوہ کہ شاید قیامت ما آسہ تھ کن نظر کرتھہ پڑہ ہا تمن قیامتس کھوژن  
 بیہ تمہ خاطرہ کانہہ سامانا پادہ کزن ان الله لعن الکفرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ ان ہجھہ  
 لعنت کر مژ کا فرن۔ تم چھن پنہ رحمتہ نشہ دور کر مت بیہ چھن تہندہ خاطرہ دزہ ون نار تیار تھوومت  
 خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تھہ نارس منز روزن ہمیشہ نہ لین متہ کانہہ دوستس نہ  
 کانہہ مددگارس يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ بیہہ دوبہ  
 کھکھرہ پکناوتھہ یں دار تھہ دنہ نارس منز۔ تھہ منزواتھہ آسہ تلک پیٹھ پھیر یوان دنہ تہندین تھین۔  
 دین تمہ ساتہ اے کاش آسہ کونہ کرے یہ فرمانبرداری خدایہ سز یہ کونہ کرے یہ فرماں برداری پیغمبر  
 خدایہ سز دنیاوس اندر ہر گاہ آسہ کرہ ہو تہمز فرماں برداری۔ تھہ مصیبتس گوشہ ہونہ گرفتار وَقَالُوا رَبَّنَا  
 إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا بیہ دین اے سانہ پروردگارہ بیشک آسہ کر فرمانبرداری پنہ  
 نین زٹھین ہنز تہ بڈین ہنز تمو ڈال اس سیزہ ویتہ نشہ رَبَّنَا إِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنَا  
 كَبِيرًا اے سانہ پروردگارہ تمن کرتہ ڈوگن عذاب بیہ کر تمن پیٹھ بڈلعنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ قَبْرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُتَقَالُوًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اے بایمانو  
 تہہ مہ آسو تمن لوکن ہی سموا ایدایت اپز توہمت لاگنہ سیت موسیٰ کلیم اللہس۔ توپتہ کورسہ اللہ تعالیٰ  
 ان بری تہ پاک تموتہمز وہانژونشہ پیچھ کھویشہ اوس سہ موسیٰ کلیم اللہ خدا لیس نشہ عزتہ وول صاحبہ۔


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصَلِّهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

تمی موكھ کرتی اللہ تعالیٰ ان تہنہز براءت ثابت  
اے بایمانو کھوڑو اللہ تعالیٰ اس بیہ آسو سیزہ تہ پڑہ کھ کران  
ذُنُوبَكُمْ ہر گاہ تہ کرو تلہ سنبھالہ تہ شیرہ اللہ تعالیٰ تہنہزہ کامہ۔ تہنہز کامہ کرہ قبولیتس لائق بیہ کرہ  
توہہ گنہن مغفرت وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بیہ نُس اکھاہ فرماں برداری کرہ  
خدا یہ سزہ تہنہز س پیغمبرہ سزہ بیشک تس بنے یہ بڈ سنگاری تہ کامیابی  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا  
جَهُولًا پڑپاٹھ اسہ اولن احکام وشرایع ہندامانت آسمان زمین تہ کوہن بروٹھ کن تلنہ خاطرہ۔ تمن  
احکام وشرایع پیٹھ عمل کرنہ خاطرہ تمکو اور انکار یہ تلنہ نعمت بین احکامن پیٹھ عمل کرنہ نشہ۔ بیہ کھوڑ  
تم اتھ خبر چھامیک انجام کیاہ سپدہ میجوہ اس یہ بار تلکھ کنہ نہ آسمان زمین تہ کوہ پیدہ کرنہ پتہ  
آوانسان پیدہ کرنہ امس انسانس تہ آوامانت پیش کرنہ چونکہ یہ انسان اوس علم الایس اندر زمینس منز  
خلیفہ سپدہ ون نُس چیز بروٹھ پیٹھ مقرر کرنہ آمت اوس لہذا اتل تہ یہ بارامانت ہیون اچ ذمہ واری  
(آسمان بارامانت نتوانست کشید۔ قرعہ فال بنام من دیوانہ زند) بیشک یہ انسان اوس ظالم تہ جاہل  
(ظالم پنہ نس نفس پیٹھ یہ بارامانت تلنہ سیت اور جاہل اوس املہ بار سیت) توپتہ سپدہ امہ پتہ زہ حال  
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ  
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۴۳﴾

بتھ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرہ منافق مردن تہ منافق زنانن بیہ مشرک مردن تہ مشرک زنانن یم گئے تم لوکھ سمو احکام خداوندین ہند کانہ پرواکور نہ امانت ضائع کثرت بیہ کرہ توجہ پنہ رحمتہ سیت اللہ تعالیٰ باایمان مردن تہ باایمان زنانن یم گئے تم لوکھ سمو امانتس راجھہ کرا حکامن ہنزا پابندی کر چتھ روزتر یم جماعت بیو گوڈہ مخالفت کرہ مگر پتولا کہ سڈکھ احساس تو پتہ سپدی نادم تہ پشیمان تم تہ کری اللہ تعالیٰ ان شامل مؤمنین و مؤمناتن منز کیا زہ **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلْجُرُ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ  
 فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَايُنَا  
 السَّاعَةَ ③ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ  
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①  
 معبود برحق اسم سُند ملک ہجھہ تہ سورے یہ آسمان منز چھہ بیہ تہ سورے یہ زمین منز چھہ ہجھہ  
 سزاوار ساری حمد تہ شابہ ہجھہ تنس سزاوار ساری حمد تہ ثنا آخرتس منز تہ بیہ ہجھہ سے سیٹھاہ حمتہ وول۔  
 تہ ہجھہ سارچی پور خبر۔ سہ ہجھہ تیتھ باخبر ذات کہ **يَعْلَمُ مَا يَلْجُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا**  
**يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ** سنی چھہ زلانا تہ سورے یہ زمینس منزواتان ہجھہ بیہ تہ  
 سورے یہ زمینہ منزہ کھسان ہجھہ۔ بیہ تہ سورے یہ آسمانہ وسان ہجھہ بیہ تہ سورے یہ آسمان کن کھسان ہجھہ سہ  
 ہجھہ سیٹھاہ رحم کرہون سیٹھاہ مغفرت کرہون **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَايُنَا السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ**  
**عِلْمُ الْغَيْبِ** بیہ چھہ ونان یم کافر کہ اسمہ پیٹھہ بیہ نہ قیامتہ تہہ فرماو یوکھ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 یقیناً بیہ توہہ قیامت مہ ہجھہ پنہ نس پروردگارہ سُند قسم لیس سورے غیب زانہ ون ہجھہ۔ **لَا يَعْزُبُ عَنْهُ**  
**مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ** پس پروردگار س

وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝۳ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْيَوْمِ ۝۵ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُدْبِرُكُمْ إِذَا مَرَّقْتُمْ كُلَّ مَسْرَقٍ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۷

نشہ چھنہ پو شیدہ تہ کھٹھہ کانہہ چیزاہ اکس ذرس برابر تہ آسمانن اندرنہ زمین اندرنہ اکہ ذرہ خوتہ لوکت کانہہ چیزاہ نہ اکہ ذرہ خوتہ بوڈ کانہہ چیزاہ۔ پریتھہ چیزاہ چھہ تس نغمہ لیکھتھ نہ کتاب یعنی لوح محفوظ اندر لَیْجِزِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمٌ قیامت بیہ ضرور بیہ بٹھہ خاطرہ کہ بیٹھہ اللہ تعالیٰ تمہن لوکن رٹمزور عطا کرہ سمو ایمان اون تہ رٹہ عملہ کرکھہ جھندی خاطرہ چھہ بوڈ مغفرت تہ عزتگ روزی تہ جنتس اندر وَالَّذِیْنَ سَعَوْا فِیْ اٰیٰتِنَا مُعْجِزِیْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ الْیَوْمِ بیہ یم لوکھ دورہ دورہ تہ کوشش کران آس سائین آیاتن تہ دلیل پھڑ اونہ خاطرہ تھنہہ خاطرہ چھہ سخت عذاب دگ تہ دودتلمہ ون وَيَرِی الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِیْ اُنزِلَ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ بیہ چھہ زانان تم لوکھ یمن علم آو عطا کرہ (یعنی علماء اہل کتاب) تھہ کتابہ یوسہ توه پیٹھہ نازل کرنہ آہیہ تھندس پروردگارہ سُنِدِ طرفہ پز کتاب بیہ یوسہ پکناوان چھہ لوکن تس خدایہ سنزوتہ بس غالب چھہ حمد پونہ آمت چھہ وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلٰی رَجُلٍ یُّدْبِرُکُمْ اِذَا مَرَّقْتُمْ کُلَّ مَسْرَقٍ ۙ اِنَّکُمْ لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ بیہ

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا  
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْخَانِيفٌ  
 بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝ وَلَقَدْ اتَّبَعْنَا أُودَ مِنَّا فَضْلًا  
 يُجِبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۝ أَنْ أَعْمَلُ

پھمہ و نمان کافر پانہ وان ٹھٹھہ پاٹھ اس ماہا و نو توہمہ سہ تحفص لیس عجیب خبراہ و نان چھہ زہ یلہ توہمہ میڑہ  
 منز پھتہ پھتہ نہ ریزہ ریزہ سپدہ توہ پتہ ایوٹھہ دوبارہ بیہ نوہ زندگی منز انہ **أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ**  
**جِنَّةٌ** کیاہ سنا تے شخص ٹھم و وہ خدا لیس پیٹھ اپر کھتہ تس چھہ مژرتہ جنون **بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**  
**بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ** نہ چھہ افتزانہ چھہ مژرتہ۔ بلکہ چھہ تم لو کہ یم قیامت نہ آخر تس  
 معر چھہ ہڈس عذابس نہ جہ گمراہی منز گرفتار۔ **أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ**  
**وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْخَانِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ** **إِنَّ فِي ذَلِكَ**  
 کیا سمو لو کو و چھنا آسمانس نہ زمینس گن لیس سمن بروٹھ کن نہ تھرو کن یعنی پریٹھ طرفہ چھہ احاطہ  
 کرتھ۔ ہر گاہ اس یڑھو تم نمو کہ زمینس تل و اٹھ یا ترا و تو تم پیٹھ آسمانچہ چھلہ تو پتہ گالو کہ تمی سیت  
 سائین آیاتن انکار کرنہ خاطرہ پزی پاٹھ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ پروردگارہ سہ قدر تہ و ول آسٹس پیٹھ  
 پریٹھ رجوع بخدا کرہ و نس بندہ سہہ خاطرہ **وَلَقَدْ اتَّبَعْنَا أُودَ مِنَّا فَضْلًا** بیہ کوراسہ عطا حضرت  
 داودس پنہ طرفہ ہڈ فضیلت تہ ہڈ نعمت **يُجِبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ** بیہ کور حکم جانورن ٹھہ تہ اسو تم  
 سیت سیت تسبیح پران روزان چنانچہ حکم کوراسہ کوہن کہ توہ آسیو گرہ گرہ سمن سیت تسبیح پران۔  
**وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ** بیہ کوراسہ ٹھندہ خاطرہ شتر موم ہیوزم **أَنْ أَعْمَلُ** **سَلْبَعَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ**  
 حضرت داودس کور حکم ٹھہ آسو بناوان اتھ شترس زرہاہ کشادہ کشادہ بیہ کرو پورا اندازہ کرین ہندس

سَبِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ۝۱۱ وَلَسَلِيمُنَ الرِّيحِ غَدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهَا شَهْرٌ  
أَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ  
رَبِّهِ وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲  
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ  
وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

ملہ ناولس تہ واٹھ و نلس اندر و اعمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے خاندان داؤد تمہ ساری  
دوپہن نعمان پیٹھ حمد تہ شکر بیہ کرو تمہہ رزہ عملہ پڑ پٹھ بہ ہٹھس تہنزن سارنہ کا میں پیٹھ پورا ف  
وَلَسَلِيمُنَ الرِّيحِ غَدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاهَا شَهْرٌ بیہ کور اُسہ سلیمان علیہ السلامس واومسح صمخس اوس  
سہ رتق و تھ طے کران شامس تہ اوس رتق و تھ طے کران۔ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ بیہ پکھ نو اُسہ  
تہندہ خاطرہ تراک ناگ ترام اوس گالتھ نیران آبک پٹھ پنہ کانہ منزہ تھہ تمن بانہ ٹھ تیار کر نلس اندر  
سہولت سپدہ تمہ کی اُس تم جہ دیگہ تہ بڈ بانہ بناوان وَاَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ بیہ  
کر اسہ تمن مسخر تہ تابع جوا اندرہ تم اشخاص یم تمن برو ٹھ کنہ خدایہ سندہ لحمہ سیت کام اُس کران  
وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بیہ نلس اکھاہ تمو اندرہ سانہ لحمہ نذرہ روگردانی کرہ  
سہ ژہہ ناوان اُس آخرتس اندر نارہ کہ عذابک مزہ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ  
كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ تم جن اُس بناوان تہندہ خاطرہ تم تم چیز یم تم ژشہ بن جہ جہ قالب لرہ  
ہشہ۔ بیہ کلین تہ کو بن ہنزہ شگلہ۔ بیہ بڈ ٹھٹھل تلاو بیہ جہ جہ دیگہ۔ یہ اکسے جایہ ٹھرت اسہ آسان  
اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا اُسہ کور حکم حضرت داودہ سندس خاندانس کہ یمن نعمان پیٹھ دوپوشکر۔ شکر  
گذاری کرور ژ عمل کرنہ سیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ میانو بندواندرہ چھہ کے شکر گذاری کرہ  
وَن قَلْبًا قَاضِيًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةَ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ اودہ یلہ اسہ



الشُّكُورُ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ  
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ  
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾  
 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جِئْتِنَ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ؕ  
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ

حضرت سلیمانہ سندہ مرٹک حکم جاری کور تہ تم گئے یمہ عالمہ تختس پیٹھ بہتھ لور آسکھ تھامتر ہونجھ  
 تل، تھہ پاٹھ کور تھند روح مبارکن پرواز اتھ حالتس اندر رودے تم آس وریس تانے جن آس  
 وچھان تمئن تختس پیٹھ بہتھ کا نہ اوس نہ جرات ہیکن کر تھ کھ تل تھہ نظر دلس۔ کئہ چیزان ڈیت نہ  
 پتاہ تمئن جنن سلیمان علیہ السلامہ سندہ مرٹک مگر کھوڑہ کیم اک بس تھنزه لورہ اندر اندرے کوران تہ  
 کھیوان اوس فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ادہ یلہ  
 سولور کھو کھ گیہ تہ پیہ دستھ تم تہ آے وکرانہ یون گن اتھ تختس پیٹھ ادہ سپد معلوم جنن تھندہ یمہ عالمہ  
 گرشہ ٹک دپنہ لگ کہ ہر گاہ ٹچ خبر آسہ ہاتیلہ ما آسہ ہن تم وریس ذلتہ کس عذابس منز گر قنار لَقَدْ  
 كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ بے شک آس قوم سبأ خاطرہ تھندس وطنس اندر خدایہ سزاطاعت تہ فرماں  
 برداری کرنس پیٹھ بڈے بڈے نشانہ تہ دلیلہ موجود جئتن عن یمین و شمال تمونشانو اندرہ اوس  
 اکھ نشانہ کہ زہ باغ آسکھ سڑک دچھن تہ کھو فرے قطار در قطار یعنی تھندس علاقس اندر آس عام  
 شاہراہ تہ سڑک دچھن کھو فرہ دور تان کھ کھ باغات یمین منز کم میوہ آس بکثرت آمدنی تہ آسکھ  
 کافی رونق تہ سایہ تہ اوسکھ کمال آسہ ونہ نوو تمئن انبیاءن تہ ناصحن ہندہ ذریعہ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
 وَاشْكُرُوا لَهُ کھیو پنے نس پروردگارہ سند عطا کورمت رزق توپتہ کرو تھنر شکر گذاری تہ فرماں  
 برداری۔ کیا زہ دویہ قسچہ نموہ کرہ نوہ عطا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اکھ کورنوہ عطا دنیاعس منزیہ  
 شہر سبأس نہایت رت شہراہ چھہ آب و ہوا کہ لحاظ بیا کھ نعمت کورنوہ عطا آخر تہ کہ اعتبارہ پروردگارہ

غُفُورٌ ۱۵) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ  
 بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَيْمَنِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ  
 قَلِيلٍ ۱۶) ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۱۷)  
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً  
 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ۱۸)

چھ سیٹھاہ مغفرت کرہوں۔ ہر گاہ نہ قسمہ کوتاہی یہی لہنہ تہندہ کنہ تھہ کر وہ در گذر فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا  
 عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَيْمَنِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ تموزان  
 نہ اتھہ نفیس قدر بلکہ پھیر تموسانیو حکمونشہ ہتھ ادہ کوراسہ تم ن پیٹھ پن قمر نازل جاری کوراسہ تم ن  
 پیٹھ بوڈیپ تہ سیلاب نئس توتان بنداوس۔ یمہ سیت تہند تم ساری باغات تباہ و بر باد گئے یہی بدلوا سہ  
 تہندین دون باغن بدل یہی قسمک زہ باغ یمن منزیم چیز پتھ گن رود بد مزہ میوہ دار کل۔ یہی میوہ  
 ورائے جنگلی کل۔ یہی جنگلی بریہ کل کینہہ کے یمن منز نہ مزہ تہ لطافت اس ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا  
 وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ یہ سز اڈیت اسہ تم ن گھر سببہ کفران نعت کر نہ سببہ اس چھا تھ سز اڈوان  
 کفران نعت کرن والین ورائی یہی کانسہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً یہی  
 کز اسہ اہل سباعن منز تہ یہی شامہ کین تم ن شہرن منز یمن منز اسہ پید اوار بج برکت کر مژ آس واریاہ  
 شہر آباد کھ کھ یم بربل سڑک آس یم سارنے پکھ ونین بوز نہ یوان آس۔ یموسیت نہ مسافرن  
 سفرس منز کنہ قسمک وحشت پیدہ سپدان اوس یہی نس تم ن ٹھمر نچ خواہش سپدان اس تہ نس آس تم  
 و تھہ ٹھمر تھہ ہیکان وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ مقرر اوس کورمت اسہ اکہ خاص اندازہ موجب تموسھر  
 و منزے لوگن ہندین گڑھن سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فر موومت اوسکھ اسہ کہ کرو سیر رات  
 کیت تہ ڈولہ تہ امن و امانس اندر چنانچہ ساری لوکھ آس سمنہ پیٹھ شام و اتان سمنوے آباد شہر و منز  
 کوچ اکس شہرس تہ کال میں شہرس منز کھیوان ساری فقیر تہ دنیا دار آس کھین چین پانس سیت تلنہ

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ ۱۹) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ  
 إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۰) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ  
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ ط وَ  
 رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۲۱) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن

ورائے امہ و تہ پکان دنیاداروون ہتھ منز چھنہ سانے شان بوزن یوان تم لگے دعا کرنہ فقَالُوا رَبَّنَا  
 بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا کہ پروردگار ادوری تراوڑہ سانین سفرہ کین منزلن اندر۔ منزہ منزہ کرکھ بعضے  
 شہر غیر آباد تائیکہ امہ آسہ یوان سامانہ سیت تلنہ تہ حفاظتہ خاطرہ نوکر چاکر مسلح سامانہ سیت تلنہ  
 وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ پس کور تمو ظلم پانے پانس بنی اسرا یجلن ہندے پاٹھ لوکھ کھینہ منزہ ووگس فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ چنانچہ تھارہ امہ پتھ کن تہنزہ کتھہ باقی پتہ اوہ نین ہندہ خاطرہ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ بیہ کر  
 آسہ تمن چھلہ چھاگرت قبیلہ وات دور دور مختلف شہرن اندر ژلان ژلان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک یہ امہ بیان کور اتھہ منز چھہ بڈ بڈ نشانہ عبرت رٹہ تک پر ہتھ صبر تہ شکر کرہ  
 و نین ہندہ خاطرہ یعنی با ایمان تہ فرما بردارن ہندہ خاطرہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا  
 فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ پڑ پاٹھ تصدیق کور ابلیس تمن منز پنہ نس خیالس چنانچہ تمو کر پور پیروی تہنز  
 مگر روز پتھ تس پیروی کرنہ نشہ اکھ کے جماعتہاہ با ایمان ہنزیم کامل الایمان آس تم ژود بالکل محفوظ  
 یم ضعیف الایمان آس تمو کرنہ اگرچہ شرک و کفر س منز تم سنز پیروی مگر معاصین اندر کورکھ تم  
 سندا اتباع وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بیہ اوس نہ ابلیسہ سند تمن پیٹھ کانہ زور تہ جبر مگر یہ اوس امہ نہ راوان کہ گس  
 چھہ آخر تہ پتھ تمو لو کو آندرہ بیہ کمن چھہ آخر تک شک تہ تردو دلن اندر ہتھ زن پر ہتھ اکس مناسب

دُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ ﴿۲۲﴾  
 وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ  
 عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ

سزاییہ دنہ نھند پروردگار چھہ پرستھہ چیزس پیٹھ نگہبان ۛ راجھہ سارکوی چھہ تس پور اطلاع۔ قُل  
 ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرماو بوکھ تہہ یار سول اللہ اے لوکو تہہ دیتو ناد تمئن یم تہہ معبود  
 زانان چھوہ کھ معبود برحقس ورائے مجھہ تو تہہ تمئن پن حاجات۔ معلوم سپدہ پانے تمئن اتھہ کیاہ پھہ  
 تہنز حقیقی حالتھہ چھہ کہ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم چھوہ نہ مالک تھہ چیزک  
 اکس ذرس برابر تہہ آسمان اندرنہ زمین اندر وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ ۛ یہ  
 چھہ تمئن آسمان وزمین پیدہ کرنس منز خدایس سیت کانہہ شر اکٹھہ بیہ چھہ تمو اندرہ کانہہ اکٹھہ  
 خدایہ سند مددگار تھہ چیزس اندر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۛ تھہ پائٹھہ تم پانہہ بیکن نہ  
 کانہہ کاماہ کرتھہ تھہ پائٹھہ بیکن نہ خدایس و تھہ یعنی سفارش ۛ شفاعت کرتھہ کرہ ناوہ ہن کانہہ کاماہ  
 چنانچہ یم معبودان باطل بے جان چھہ کنہہ وغیرہ ہشہ تمئن ہنز چھہ کتھہ تم کیاہ شفاعت بیکن کرتھہ تمئن  
 منز چھہ تھہ قالیتھہ تھہ پائٹھہ یم جاندار تھہ چھہ مگر اللہ تعالیٰ اس نشہ چھہ تم مقبول ۛ قابل اعتبار شیطان  
 وغیرہ ہی تم تہہ کیاہ شفاعت بیکن کرتھہ بلکہ یم ذی روح جاندار آتھہ مقبول ۛ باعتبارہ بندہ چھہ ملائک  
 ہی یمن مُشْرک خدایہ سزہ کورہ و تھہ مستحق عبادت زانان چھہ تم تہہ بیکن نہ کانہہ تھہ شخص خدایس نشہ  
 سفارش ۛ شفاعت کرتھہ خدایس نشہ چھہ کانہہ ہنز سفارش ۛ شفاعت کام ووان مگر تس شخصہ سیدہ  
 خاطرہ سیدہ حقہ شفاعت کرہ و نس اللہ تعالیٰ شفاعت کرہ نگ اجازت دیہ دلایلو سیت چھہ ثابت کہ  
 شفاعت کرہ و نین ایہ شفاعت کرہ نگ اجازت ونہ گنہ گار با ایمان ہندہ خاطرہ فقط کافرن تہہ مُشْرک  
 ہندہ خاطرہ ملائک تہہ بیکن نہ کانہہ اکس بلا اجازت سفارش کرتھہ تہہہ غلبہ ہنچ حالتھہ چھہ بیہ کہ حَقِّ  
 إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ چنانچہ یلہ خدایہ سیدہ طرفہ تمئن پیٹھہ کانہہ حُماہ

الْكَبِيرِ ﴿۲۳﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ  
 إِنَّا أَوْلِيَائِكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ  
 عَمَّا أَجْرُومْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَقِرُ  
 بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ

جاری چھ سپدان تمن چھ نٹھ ووتھان ادہ یلہ سونٹھ تہندہ یود لو نٹھہ ژلان چھ اکھ اکس چھہ پر ژتھان  
 کیاہ فر مو وٹھند پروردگارن یم زیادہ مقرب چھہ آسان تم ہتھکھ ڈپان فلانے پوز حُم فر مو و خدا ین۔  
 تس برو نٹھ کنہ ملایکن نٹھہ حال سپدان کیاہ عجب ہتھہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ واقعی سہ چھہ عالی شان  
 سارنے ہندہ خوتہ بوڈ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْلِيَائِكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي  
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ تہہہ پر ژتھو کہ یار رسول اللہ بیا کہ تھہہ یمہ سیت یمہ بن توحیدک تحقیق سپدہ اے لو کو تو ہہ  
 تہہہ چھہ رزق دو ان آسان ہندہ طرفہ رود تراوتھہ زمین ہندہ طرفہ زراعت کھارتھہ چونکہ امیک  
 جواب چھہ تمن نشہ تہہہ معنیہ لہذا فرما یو کہ تہہہ اللہ تعالیٰ چھہ رزق عطا کران۔ اتھہ تھہہ چھہ تم تہہہ اقرار  
 کران یمہ تہہہ فرما یو کہ کہ تھہہ مسئلہ توحیدس اندر چھہ اس یا تہہہ ضرور سبزہ و تہہہ پیٹھہ یا صریح گرا ہی اندر یمہ  
 تھہہ چھہ ناممکن کہ توحیدہ و آل تہہہ توحیدک مخر کیا آسن دوشوے پزس پیٹھہ یا کیا آسن دوشوے غلطی پیٹھہ  
 یمہ چھہ لازمی تھہہ کہ دو یومنز آسہ اکھ پزس پیٹھہ اکھ اپزس پیٹھہ۔ اکھ جماعتھہ ہدایتس پیٹھہ بیا کہ گرا ہی  
 پیٹھہ۔ توحیدہ چن دلین پیٹھہ غور کرنہ سیت چھہ ثابت سپدان کہ اہل توحیدے چھہ پزس پیٹھہ قُلْ  
 لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُومْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ یمہ تہہہ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ کہ اگر اس خطا کار آسو  
 تو ہہ یمہ نہ پر ژتھنہ سائین جر من ہند۔ یمہ یمہ نہ آسہ تہہہ پر ژتھنہ تمن کا ین ہند یمہ تہہہ کران چھوہ۔ تھہہ  
 نہ امہ سیت تو ہہ خیال گڑھہ کہ پر ژتھنہ مایہ نہ کانہہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَقِرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ  
 الْعَلِيمُ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ سون پروردگار کہہ قیامت دوہ آسہ دوشوے فریقن جمع تو پتہ کہہ سہ  
 فیصلہ آسہ منزرت فیصلہ کیاہہ سہ چھہ ژھین کہہ دن رتہ فیصلہ سیت۔ سہ چھہ سورے زانہ دن۔ تس  
 نٹھہ چھنہ کینہہ تہہہ پوشیدہ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ بہ شرکاء کلابل ہوا اللہ العزیز الحکیم فرما یو کہ تہہہ

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّابٌ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً  
 لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ وَيَقُولُونَ  
 مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لَكُمْ مَبْعَادُ يَوْمٍ لَا  
 تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْتِدُمُونَ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ  
 نَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

تلازمہ نہ ہا تو کہ تم ایم تو بہ خدا بس سیت ر لا و تھ تہند شریک ٹھہراوے و کہ تجے کیاہ بیجو کہ میہ تم  
 ہا و تھ۔ ہر گز چھنہ تس کا نہہ شریک بلکہ واقف منز چھہ سہ معبود بر حق شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک  
 سیٹھاہ غالب تہ زبردست سیٹھاہ حمتہ و ول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ بیہ سوزوہ نہ آسہ تہہ مگر پیغمبر سارنے لوکن ہندہ خاطرہ بلکہ جنن تہ بشارت دوہ ونے  
 باایمان بیم کرہ ونے کافرن۔ لیکن واریاہ لو کہ چھنہ پن نفع و نقصان زنان۔ جمالت سیت چھہ انکار کران  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان کافر مسلمانن کہ یہ قیامت سیمیک تہہ ونان  
 چھوہ یہ وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہہ پوزوان قُلْ لَكُمْ مَبْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا  
 تَسْتَقْتِدُمُونَ تہہ فرماو لو کہ یارسول اللہ تو بہ سیت میہ ڈہک وعدہ چھہ سہ چھہ ضرور یوہ ون۔ تمہہ نغمہ نہ  
 ایو تہہ پتہ کڈنہ نہ ایو بروٹھ آنہ تہندہ پر ڈھنہ اندرہ چھہ ننان تو بہ چھہ تھہ انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ  
 نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بیہ چھہ ونان مٹکر کہ ہر گز انونہ اس ایمان تھہ قرآن مجید س  
 نہ تمن کتائن میہ امہ بروٹھ آسہ۔ میہ کتھہ چھہ تمن پھوران تھہ دنیاسی اندر قیامتک دوہ گڑھہ کھ میہ  
 سارے کتھہ مشھہ وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ وچھوسہ وقت میہ وقتہ ایم ظالم  
 تہ نا فرمان ایستادہ یں کر نہ پنہ نس پروردگار س بروٹھ کنہ جواب دی خاطرہ تہہ وچھواکھ ہولناک  
 منظر اہ اکھ یُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ اکھ آسہ بیس الزام ووان يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ

إِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ  
لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنْ  
صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾  
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالْ  
النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا  
الْتَدَامَةَ لِمَارَاوِ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ چنانچہ ادنیٰ درجہ لو کہ ون یم تابع آسن اعلیٰ درجہ کین لو کن یم  
متبوع آسن کہ تہمدی وجہ گئے اس بر باد تہہ نے آسہ ہو اس آسہ ہو ایمان قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  
لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنْ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اتھ پیٹھ ون تم سر کش  
لو کہ ادنیٰ درجہ کین لو کن کیاہ آسہ رٹوہ تہہ ہدایتس پیٹھ عمل کرنہ نشہ پتھ زورہ۔ یلہ سہ ہدایت وارہ کارہ  
توہہ نش ووت بلکہ اسوہ تہہ پاند نافرمان تہ مجرم کہ حق واضح سپدنہ پتہ تہ کوروہ نہ توہہ سہ قبول وون  
چھوہ آسہ کن لاگان۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالنَّهَارِ توپتہ ون ادنیٰ  
درجہ لو کہ تمین سر کش لو کن۔ بلکہ رٹ آس پتھ حق قبول کرنہ نشہ تہمد راتس تہ دوہس مکر تہ فریب  
کرہ ن لَدَاتَا مُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا یلہ تہہ لو کہ آسہ ونان آسوہ کنس خدا جس انکار کرن  
بیہ تس شریک ٹھراون۔ اتھ گفتگو اس اندر اگرچہ ون یم اکھ اس الزام مگر پتہ جایہ زانن کہ قصور  
پتھ واقعی سونے۔ گمراہ کروون دین واقعی اسی آس یمین کفر و شرکک تجویز کران تم بوئمہ درجے لو کہ  
دین اگرچہ یم اسے آسہ غلط و تھ ہاون مگر اسہ تہ پزہ ہاتین نفع و نقصان و چھن آس کیا زہ رود تمین تابع  
سون چھ زیادے قصور وَأَسْرُوا الْتَدَامَةَ لِمَارَاوِ الْعَذَابِ مگر یہ ندامت تہ پشیمانی تھاون اکھ اس نشہ  
پوشیدہ یلہ پتہ نین عملن پیٹھ عذاب و چھن وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا آسہ آسن  
جہنمک ہنزہہ تمین کافرن ہنزہہ گردن منز تراومت تہمد اتھ کھور آسن آسہ ہانکو سیت زور بند

كُفَرُوا وَاهْلٌ يُجْرُونَ ۚ اِلٰمًا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ  
 مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ  
 قَالُوْا مَنۢ عَلَمٌ اَكْثَرُ اَمْوَالِا وَاَوْلَادِا وَاَمَّا مَنۢ بَعْدَ بَيْنِ ﴿۳۴﴾ قُلْ  
 اِنَّ رَبِّيۡ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۢ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ  
 عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنۢ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

کے مت تھے پاٹھین ژو پیدل کر تھے چھنمس منردار تھہ دنہ هل مجزون الاما کانوا یعلمون تمن  
 ییہ نہ سزاندہ مگر تمن کاین ہندیہ تم کر ان اسی تھے دوومت او سکھ تھے کونن اے پیغبر برحق یمن  
 کافرن ہندیو گر اہنہ کامیوسیت تہ جاہلانہ کتھوسیت مہ سپدن ٹھندے ذل مبارک آزدہ یہ نوکٹھاہ  
 کانہ چھنہ بلکہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کفرون سوزنہ اسہ کنہ  
 شہرس منز کانہہ بیم کرہ ون پیغبراہ مگر تمہ شہرہ کیو خوشال لو کو ڈوپ تمن از کین کافرن ہندے  
 پاٹھ اس چھہ تھہ سارسی انکار کران یہ ہتھ ٹھہ سوزنہ آمت چھوہ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا واما  
 نحن بعد بین بیہ اس تم دنان اسے چھہ ٹھندہ خوتہ زیادہ مالہ وائل تہ اولاد وائل۔ امہ اندرہ چھہ سپدان  
 معلوم زہ خدا چھہ اسہ نشہ خوش اسے چھہ تس نش مقبول تہ قابل احترام لہذا کرہ نہ سہ اسہ ہرگز عذاب  
 ٹھہ چھوہ اسہ بعل کھوڑہ ناوان قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون  
 ٹھہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ جواب کہ وسعت رزق چھنہ دلیل مقبول عند اللہ آج بلکہ چھہ یہ محض ٹھند  
 یڑھن بے شک میون پروردگار چھہ وسعت کران رزقس اندر یمن یڑھان چھہ بیہ چھہ سئی کمی کران  
 رزقس اندر یمن یڑھان چھہ تمن یہ چھنہ تھندس خوش آسس یا ناخوش آسس پیٹھ دلیل۔ لیکن اکثر  
 لوکہ چھنہ یہ تھہ زمانن تمن چھہ خیال مال تہ اولاد بکثرت آسن چھہ کینہہ شرفی وما اموالکم ولا  
 اولادکم بالتی تقر بکم عندنا زلفی الا من امن وعمل صالحا فاولیک لهم جزاء الضعف بما



جَزَاءَ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۳۷﴾ وَ  
 الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَامِ مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ  
 مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
 يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ رِيحُهَا جَمِيعًا  
 ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهْلَاكُمْ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۴۰﴾  
 قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مَنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَمِنُونَ مگر البتہ سبوا ایمان اون بپہ کر کیکہ رزہ عملہ پس تمنے لوکن ہندہ خاطرہ  
 چھہ دوگنا تھہ مزور بپہ آسن تے جنتہ کین بالاخان تہ بگلن منز آرام واطمینانہ سان بہتھہ  
 وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَامِ مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ دون ہم لوکھ اتھہ بدل محض  
 مال واولاد آسنہ سیت مغرور آسن ایمان و عمل صالح اختیار کرن نہ بلکہ آسن سائین آیاتن پھڑاونہ تہ  
 باطل کرنہ خاطرہ کوشش کران بہتھہ آسہ یاسائین پیغمبرن عاجز کرن تمہین نار جہنمکس عذابس گرفتار  
 کرنہ خاطرہ حاضر کرنہ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ  
 فرماو لوکھ یار رسول اللہ بے شک میون پروردگارہ چھہ وسعت کران رزقس اندر یمن یرشان چھہ پنہ  
 نیوبندواندرہ بپہ چھہ سنی رزقس اندر تنگی کران یمن یرشان چھہ پنہ نیوبندواندرہ لہذا جھنہ خرچ نہ کرنہ  
 سیت رزق ہر ان خدایہ سنزن وتن اندر خرچ کرنہ سیت چھہ رزق کم سپدان وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
 فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بپہ یہ کینہہ ہاتھہ خرچ کران چھہہ رزن وتن اندر تے سندہ حکمہ  
 موجب سہ چھہ تمیک بدلہ عطا کران دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ بپہ چھہ سنی رت رزق عطا کرہ ون  
 وَيَوْمَ رِيحُهَا جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهْلَاكُمْ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ بپہ بیمہ دوبہ اللہ تعالیٰ  
 سارنے میدان محشرس منز جمع کرہ توپتہ پرژھہ ملائکن کیاہ ہم لوکھ آسہ توہی عبادت تہ بندگی کران  
 قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ملائک دین ای سانہ پروردگارہ ژہ چھکھ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشہ اَنْتَ وَلِيْنَا

الْجِنَّۃَ اَکْثَرَهُمْ بِهٖمُ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ یَوْمَ لَا یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَّفَعًا وَّلَا ضَرًّا وَّنَقُولُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ کُنْتُمْ بِهَا تَکْذِبُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاِذَا اشْتَلٰی عَلَیْهِمُ اِیْتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَرْجُلٌ یُّرِیْدُ اَنْ یَّصِدَّکُمْ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ اَبَاؤُکُمْ وَّقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَفْکٌ مُّفْتَرٰی وَّقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۳۳﴾

من دُوْنِهِمْ ژے چھٹھ سون مولا آسہ چھ ژے سیت تعلق۔ یمن لوکن سیت چھنہ کانہہ تعلق بل کاؤا یعبدوں الْجِنَّۃَ اَکْثَرَهُمْ بِهٖمُ مُؤْمِنُوْنَ بلکہ آس تم بندگی کران جن ہنز۔ تمواندرہ اکثر و اوس تنے ایمان اومت قَالَ یَوْمَ لَا یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَّفَعًا وَّلَا ضَرًّا اللہ تعالیٰ فرماوہ از چھنہ تو بہ اندرہ کانہہ اختیار نہ کانہہ فائدہ و اتاؤنگ نہ کانہہ ضررتہ نقصان و اتہ تاؤنگ وَّنَقُولُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ کُنْتُمْ بِهَا تَکْذِبُوْنَ بیہ نوآس تمن ظالم یعنی کافران ژہو مزہ تمہ نار جہنمک تمہہ عذابک سیتہ ژہہ ایڈزانان آسہہ وَاِذَا اشْتَلٰی عَلَیْهِمُ اِیْتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَرْجُلٌ یُّرِیْدُ اَنْ یَّصِدَّکُمْ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ اَبَاؤُکُمْ بیہ یلہ تمن پیٹہ پر نہ یوان چھ سان واضح نہ آیات، دپان چھ یہ شخص چھنہ مگر آسی ہیومو ہیواہ۔ آسی ہیوانساناہ بس پانس پیٹہر دپان چھہ یہ چھہ یڑھان تو بہ پتھ رٹن تمن معبودن نشہ یمن معبودن نشہ یمن ہنز پر سٹش ٹھندے مال بدبب کران آس وَّقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَفْکٌ مُّفْتَرٰی بیہ آس دپان یہ قرآن مجید چھہ اپزہ ٹھراونہ آمت اچ نسبت خدایس کن صحیح چھنہ وَّقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ بیہ آس ونان کافر تھہ پزس یعنی قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ و اتان اوس یعنی پر نہ یوان اوس دینہ اوسکھ یوان یہ یلہ ٹھراونہ آمت اپز چھہ ادہ کیا زہ چھہ عاقلن نہ کاٹلین امہ سیت اثر گڑھان تمیک جواب آسے ونان یہ چھہ مگر نون جوداہ تہ سحرہ تمی چھہ لوکن پیٹہ امیک اثر سپدان تنزہ عقلہ چھہ مغلوب سپدان وَمَا اَتٰنٰہُمْ مِنْ کُتُبٍ

وَمَا اتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ  
 مِنْ نَذِيرٍ ۚ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَالَغُوا مُعْشَارًا  
 مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ قُلْ إِنَّمَا  
 أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرًا  
 تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ

یَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ یعنی پڑھنا یا قرآن مجید سچ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سز سیٹھا قدر کرن کیا زہ یہ بندہ خاطرہ آسہ یہ دوشوے لغو غیر مترقبہ یمن ہنزنہ تمن کا نہ شاکھے  
 آس کیا زہ آسہ آس نہ تمن پیٹھ امہ قرآن مجیدہ بروٹھ کا نہ آسانی کتاب نازل کر مٹیو سہ تم پر ان سے  
 پرہ ناوان آسہ ہن پیٹھ پاٹھ سوزنہ اسہ تمن گن توبہ بروٹھ کا نہ بیم کرہ ون پیغمبرہ واریاہ کالہ پیٹھ۔  
 ٹھندہ خاطرہ اوس پیغمبر یعنی تھند ذات مبارک سے بد نعمت امہ نکتہ سے شوبہ ہا تمن قدر کرن مگر تمو کرنہ  
 کا نہ قدرہ بلکہ کور کھ انکار سے بخذیب۔ مگر یہ بخذیب کر تھ ہنھن تمن فکرے روزن کیا زہ بخذیب کرہ  
 نگ سزا پھہ سیٹھا سخت **وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَالَغُوا مُعْشَارًا مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي**  
**فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ** چنانچہ یمن بروٹھ ایم کافر آس تمو سے کور پتہ نین پیغمبرن سے تھندس و جس انکار  
 حالانکہ ایم کافروانہ ہن نہ تمہ کس دہس حصص سے یہ اسہ تمن عطا کور مت اوس مال و دولت و انس سے  
 طاقت تمہ پتہ سے بلہ تمو میانین پیغمبرن انکار سے تہز نا فرمانی کرادہ چھہ ژیہ خبرے میون انکار کیتھہ اوس  
 یعنی تھندہ انکار ک سزا کیتھہ دیت میہ تمن تیوت مال و دولت آتھہ ما او تمن لحاظ کرنہ یمن از کین  
 کافرن ہنھہ تمیک دہیم حصہ سے یمن کمیک غرور سے پندار چھہ کہ ہم چھہ کران سانین آیاتن سے سانین پیغمبرن  
 انکار **قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرًا تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ**  
**مِنْ جِنَّةٍ** تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ تہہ ہسوہ توبہ اکے مختصر کتھہ و نان یہ سیت واضح سے روشن سپدہ  
 توبہ پیٹھ معاملہ کہ تہہ و تھیو محض خدا یہ سندہ خاطرہ ہنھہ اندر نفسانیت یا تعصب آسہ زیزن یا الگ

بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۷﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ  
 فَهَؤُلَاءِ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 شَهِيدٌ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۳۹﴾  
 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿۴۰﴾ قُلْ إِنْ  
 ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُحْيِي  
 إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۱﴾ وَكَوْتَرَأَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَافُوا

الگ اکھ اکھ زون تو پتہ کر تو وارہ فکر تہ غور تہندس رفیقس نئس گرہ گرہ توبہ سیت آسان چھہ یعنی میہ  
 پانس ماچھہ کئہ قسمہ مژر عقلہ اندر کئہ قسمہ خلل نقصان تہ کمی۔ بلکہ چھہ میہ کمال عقل عطا کرنہ آمنت  
 اِن هُوَ الْاِنْدِيءُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ یہ صاحب چھہ مگر تہندہ کمال شفقتہ موکھہ توبہ  
 بیم کران اکہ اوہ ونہ سخت عذابہ نشہ۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهَؤُلَاءِ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ  
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یہ فرماو یو کہ تہہ یار رسول اللہ کہ بیہ توبہ کانہہ مزوریہ، معاوضہ منگان  
 چھہس دین حق و اتا ونہ خاطرہ سو مزور تہ معاوضہ گووہ توبہ میہ چھہ کج کانہہ ضرورتہ۔ میان مزور چھہ  
 خدایہ سے مہ سہ چھہ پر تہہ چیزس پیٹھہ مطلع تہ گواہ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ تہہ  
 فرماو یو کہ بے شک میون پروردگار چھہ اپزس پیٹھہ پوزدارت دوان یمہ سیت اپزگان چھہ۔ سہ چھہ  
 سورے غاب زانہ ون قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ تہہ فرماو یو کہ پوز دین حق او  
 اپز دین روندنہ کئہ کامہ ہند معبودان باطل نہ بیکن گووہ کانہہ چیز اہ پادہ کر تھہ نہ بیکن دبارہ کانہہ چیز اہ پادہ  
 کر تھہ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُحْيِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  
 یہ تہہ فرماو یو کہ تہہ کہ یلہ دین اسلامگ پوز آسن ثابت سپد ہر گاہ بالفرض ڈولمت آسہ اوہ تمیک نقصان  
 چھہ میانسے ذاتس پیٹھہ ہر گاہہ اتھ پزس دینس پیروی کر تھہ سبزہ ونہ پیٹھہ چھہس ادہ تہ چھہ تمہ کی برکتہ  
 یہ کئیرہ ہاہ پروردگار میون مہ کئن وحی سوزان چھہ پز پانٹھہ سہ چھہ سورے بوزہ ون سیمٹھہ نزدیک پر تھہ

وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ إِنْ أَتَىٰ لَهُمُ  
 التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  
 وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا  
 يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَأَن لَّوَانِي شَكِّ قُرَيْبٍ ۝

اک سُنْدِ حال چھتہ تس معلوم پریتھہ اکس دیہ سُنہ پندہ عملہ موجب مزور وکو تری اذ فیرعوا فلا قوت  
 وَاخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ہر گاہ تہہ وچھو یار رسول اللہ سہ وقت یہ ساتہ قیامتک دوہ کافر قیامتک  
 احوال وچھتھہ بانبر بیت آسن خوفہ سبہ آسن تمہ ساتہ اورہ یور کران ثلہ نچ آسکھ نہ کانہہ صور تھاہ  
 فور این تم رنہہ گرفتارین کرنہ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ وَإِنِّي لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ تم ساتہ دین  
 تم کافر قیامتک خوفناک حال وچھتھہ اسہ اول ایمان دین حقس پیٹھ وون سپدن سون توبہ قبول سہ کتہ سنا  
 بنہ تمن ایمانس گن تمہ ساتہ اتھہ زیتھر اون دورہ جایہ پیٹھ ایمان اُنہ نچ جائے اُس دنیاہ کیازہ سہ اوس  
 دار العمل آخرت چھہ دارالجزاء۔ اُنہ نہ ییہ ایمان قبول کرنہ نہ ییہ کانہہ عمل قبول کرنہ نہ ییہ توبہ قبول  
 کرنہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ حالانکہ بروئٹھہ دنیا س اندر موقعہ وزہ کور کھ تھہ انکار وَيَقْدِرُونَ  
 بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِيَّاهُمْ كَأَن لَّوَانِي شَكِّ قُرَيْبٍ  
 ٹھور آو کرنہ تمن منزبہہ تہزن تمن خواہشاتن منزبتھہ پاٹھہ کرنہ آویوہے ورتاوتھندین ہم مشر بن  
 سیت یمو توہ بروئٹھہ گھر وشک کور۔ کیازہ تم تہ آسے ناجیران کرہ ولس بڈس شمس اندر مبتلا ایم تم  
 تردس منزاس تراومت۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا  
 أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ بَزِيدٌ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ  
 لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِکَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنَحَةٌ مَّتَنٰی وَتِلْکَ وَرُبْعٌ ساری حمد و ثنا چھ تس معبود برحق سزاوار ایم گوڈہ پادہ کور آسمان تہ زمین بس ملائکن چھ بناوان قاصد ایم ملک چھ بعضہ زیر پکھ و آل بعضہ ترہ ترہ پکھ و آل بعضہ ژور ژور پکھ و آل ژورن پیٹھ چھنہ بس کران بَزِيدٌ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ بلکہ چھ ہرہ راون پیدا ایشہ اندر یہ یژشان چھ تہ بعضہ ملکن چھ امہ خود تہ زیادہ پکھ عطا کران۔ جبریل امیس چھن عطا کرہ مژہ ژوتھ پکھ اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریتھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول کانہ ہندہ مزاحمتہ ورائے مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یوسہ رحمتہا مژہ راوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہندہ خاطرہ تھہ بیحہ نہ بندہ کر تھہ کانہ تھہ سہ بند کرہ تھہ بیحہ نہ پتہ یلہ تراوتھہ کانہ۔ سئی چھہ سیٹھاہ غالب حمتہ وول يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لو کو یاد کرو خدا یہ سزہ تمہ بیشار نعمہہ یمہ توہہ تم عطا کرہ نوہ تمن نعمان ہند شکر کرواد۔ سہ شکر گوویوہے کہ شرک تراوو۔ توحید کرو اختیار، چنانچہ اسہ کرووہ تھے باخبر دو یو بچو نعمتو سیت سوگیہ نعمتِ خلق تہ نعمتِ رزق نعمتِ ایجاد تہ نعمتِ بقا ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیاہ چھا کانہ پادہ کرہ وناہ معبود برحق ورائے بس توہہ رزق

بِرِزْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِإِلَهِ الْإِلَهِاتِ تَتَوَكَّلُونَ ﴿۵﴾  
 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۷﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ  
 عَدُوًّا إِنَّمَّا يُدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۸﴾ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

سوزان چھ آسمانہ تززیحہ طرفہ یلہ تے اتھہ تمہ دوشوے کامہ چھہ لہذا لِإِلَهِ الْإِلَهِاتِ کانہہ معبوداہ  
 چھنہ تس وراے سئی چھہ سزوار عبادت یلہ معبودیت تسدے حق چھہ فَأَنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ ادہ تھہ کنہ چھوہ  
 تہہ شرک کر تھہ پوت پکانوہ یوان وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  
 اے پیغمبر بحق ہر گاہ توہمہ ہمہ مکہ ہک لوکھ اپز پوز زانان چھہ ادہ یہ کانہہ نوکتھاہ چھنہ توہہ بروٹھہ ہم پیغمبر  
 آس تمہنہ تز چھہ بھکدیب کرنہ آمت لہذا ہمہ سپدو تمہ امہ سیت آزر دہ دو ہم چھہ یہ تھہ کہ سارے کامہ  
 ین خدایہ سے گن واتوانہ تے نشہ پیش کرنہ سہ انزرا وہ پانے یہ سوری توہہ مہ بروکانہہ غم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ اے لوکو یہ بوز تھہ کہ خدایہ سے  
 گن ین واتوانہ ساری امور بیتھنہ توہہ دنیا بچ زندگی دھو کہ دیہ تھہ منز بوڈ تھہ سپدو غافل قیامتہ نشہ بیہ  
 بیتھنہ توہہ دھو کہ باز شیطان بیتھہ دھو کس منز تراوہ کہ اللہ تعالیٰ چھہ غفور ترہر جیم سہ کہ نہ توہہ کینہہ تز  
 عذاب إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ہمزے پاتھہ یہ شیطان (تمسز پیٹھہ ذکر آئیہ) چھہ تھہ دشمن  
 تہہ تز زانیوں سہ ہن دشمن۔ إِنَّمَا يُدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ سہ چھنہ پنہ نس جماعتس  
 نادر و ان شرکس تز کفرس گن مگر بیتھہ تمہ سپدن جنہمہ اندرہ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم لوکھ  
 کافر سپدے میو شیطان سندس نادس اجابت کور تھہم س دھو کس منز آئے تھہدہ خاطرہ چھہ سخت  
 عذاب آخر تس اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بیہ سمو شیطانہ سز مخالفت

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۱۰﴾ اَمِنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءٌ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ  
 اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ  
 عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ  
 الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسَقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْآرْضَ

کرتھ ایمان اون بیہ کرکھ رزہ عملہ تہندہ خاطرہ چھ گنہن بوڈ مغفرت بیہ ایمان و عمل صالحس پیٹھ بڈ  
 مزور۔ یلہ کافرہ سُنڈ انجام عذاب شدیدہ چھہ بالیمانہ سُنڈ انجام مغفرت تہ اجر کبیر چھہ کیاہ یم زہ ہیکنہ  
 برابر آستھ یعنی اَمِنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءٌ عَلَيْهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کیاہ سہ  
 شخصس بس بہنن پیچھ کام مزین آہ کرنہ توپتہ لوگ سہ تھ پیچھ کامہ رزہ نظرہ وچھنہ بیاکھ شخص چھہ پیچھ  
 کامہ پیچھ نظری وچھان ہتہ تہ یہ چھا برابرے گوڈہ نیک شخص گوو کافر بس شیطانہ سندرہ ڈالہ سببہ باطلس  
 حق زانان مضر چیزس نفع دوہ ون زانان دوم شخص گوو بالیمان بس پیغمبرن ہنز پیروی چھہ کران،  
 شیطانہ سز مخالفت چھہ کران باطلس چھہ باطل زانان حقس چھہ حق زانان مضر چیزس چھہ مضر زانان  
 مفید چیزس چھہ مفید تہ نافع زانان تم زہ چھنہ ہرگز برابر بلکہ چھہ اکھ جنمی بیاکھ چھہ جنتی۔ پس شیطانہ  
 سندس دھوکس منز اوہ ون تہ شیطانس دشمن زانہ وینن منز چھہ ایڑ فرق لہذا چھہ اس توہہ ونان چھنہ  
 توہہ شیطان دھوکہ دیہ۔ سہ چھہ تہند بوڈ دشمن۔ ہر گاہ توہہ اتھ پیٹھ تعجب سپدہ کہ عاقل شخص تھہ  
 پاٹھ زانہ پیچھ کامہ رز کام تحیک وجہ چھہ ای زہ اللہ تعالیٰ بس یڑھان چھہ تس چھہ گمراہ کران تسز عقل  
 چھہ چھنمب گڑھان۔ بس یڑھان چھہ تس چھہ ہدایت کران۔ تس چھہ عقل درست روزان۔ وون یلہ  
 ہدایت تہ گمراہی چھہ اللہ تعالیٰ سندس یڑھ نس تان فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ بس مہ گڑھن  
 ٹوہند بدن مبارک گلت تمہن پتھ غم کھیوان کھیوان، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو  
 پوزانہ ون تہ سوروی یہ تم کران چھہ سودیہ تمہن پائے سوسز ایس تمہن شوبہ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ  
 فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسَقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الثُّرُودُ مَجْبُودٌ بِرِجْلِ مَجْرُومٍ



بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ  
جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ  
الَّذِينَ يَبْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ

قدرت و ولئس رود تراوند برو نهد و اوسوزان چھہ ، تم و او چھہ ٹھان او برن تو پتہ چھہ اس تم او بر پکھ  
ناوان کنہ مردہ تہ خشک ز مینس کن تو پتہ چھہ اسی سہ زمین تمہ رودہ سیت زندہ تہ سر سبز کران تھہ پاٹھ  
کیاہ کرو کہ آسہ لو کہ تہ قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ یلہ لو کن قیامتک دوہ دوبارہ زندہ سپدن چھہ تمہ پزہ  
متہ چہ ذلت و خواری نشہ بچہ نچ کا نہہ فکرہ کرن مُشرک چھہ شیطان سہہ اغوا سیت معبودان باطلن  
زاتان ذریعہ تمہ ذلتہ نشہ بچہ خاطرہ چنانچہ تم اس و نان ہؤ لاء شفعا نا عند اللہ یعنی یم معبودان  
باطل چھہ اسہ سفارش کرہ و ن خدایس نشہ دنیا کین حاجتن اندر تہ آخرتس اندر تہ تھہ متعلق چھہ اللہ  
تعالیٰ فرما و ان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لئس اکھاہ ژھانڈان آسہ عزت دنیا و آخرتس اندر  
سہ ژھانڈان عزت خدایہ سنز فرمانبرداری کرنہ سیت تھند حکم مانہ سیت کیازہ سوروی عزت چھہ  
بالذات خدایہ سے بین چھہ عزت بالعرض لئس چیز بالعرض آسہ چھہ ہمیشہ محتاج آسان تس لیس  
متصف بالذات آسہ پس چھہ ساری محتاج عزتس اندر خدایس یا خدایس نفسہ یہ عزت حاصل کرن قولاً  
تسنز اطاعت کرنہ سیت خدایس نشہ چھہ یکے چیز پسند چنانچہ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ خدایہ سی کن چھہ  
واتان رُت کلام تہ رت کلمات سی چھہ تمہ قبول کران۔ رتس کلامس اندر آو کلمہ ء توحید بیہ ساری  
اوراد و اذکار۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ بیہ چھہ رتہ عملہ تہ ہیور کھاران قبولیتہ چہ درگاہ منز سارے  
عملہ چھہ قبول سپدن توحیدہ سیت وَالَّذِينَ يَبْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یم لو کہ اتھہ خلاف  
طریق اختیار کر تھہ تهنز مخالفت چھہ کران یوسہ عین مخالفت گیہ خدایہ سنز کرنے تو پتہ چھہ بچھہ بچھہ  
تدبیر کران توہہ تکلیف و اتاوند خاطرہ۔ تھندہ خاطرہ چھہ آخرتس اندر سخت عذاب لئس تمہ ذلتک  
باعث بنہ تھند معبودان باطل بیکن نہ تمہ عنہ قسمک عزت عطا کر تھہ بلکہ سپدن تم تمہ بر خلاف  
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ تھند ساری تدبیر فندتہ فریب گڑھن بے کار۔ چنانچہ تی سپد تہ تم اس یشھان تہ  
کوشش کران اسلامکہ ختم کرہ نچ تھہ منز گے تم پانہ ختم اسلامس و ژا اللہ تعالیٰ ان روز بروز ترقی و اللہ

يَبُورُ ۱۰ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  
 أَزْوَاجًا وَمَا تَحِبُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلَيْهَا وَمَا يَعْزَرُ مِنْ  
 مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۱۱  
 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ قُرْآنٌ سَابِعٌ شَرَابُهُ وَ  
 هَذَا مِلْحٌ أَجَابٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحَمَاطٍ يَا وَتَسْتَخْرِجُونَ  
 حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا۔ بیا کر وہ اللہ تعالیٰ ان پادہ در ضمن پیدا ایش آدم  
 علیہ السلام میزہ۔ تو پتہ کرے نوہ مستقل طور شوہہ پادہ آہ قطر س مئی ہندس تو پتہ کر نوہ تہہ جورہ  
 جورہ مردتہ زنانہ وَمَا تَحِبُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلَيْهَا۔ بیا چھ تہند علم امہ قسمہ کہ چھنہ کانہہ زنانہ  
 باردار سپدان بیا چھنہ کانہہ زنانہ پریشان مگر سوری چھ سپدان اللہ تعالیٰ سیدہ علمہ موجب وَمَا  
 يُعْزَرُ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ تھہ پائھ چھنہ کانہہ ہنز عمر زیادہ کرنہ یوان نہ چھ کانہہ  
 ہنز عمر کم کرنہ یوان مگر تہ سوری چھہ لوح محفوظس اندر لیکھتھ اللہ تعالیٰ ان پتنہ علم قدیمہ موجب تھہ  
 منز لیکھتھ تھوومت إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شک یر کامہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ سیٹھاہ آسان  
 کیازہ تہوند علم چھو ذاتی، قبل از وقوع برابر تہ یکساں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ قُرْآنٌ سَابِعٌ  
 شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَابٌ وچھہ ژہ قدر تچہ دلیلہ کہ آب چھہ اکوی مادہ باوجود آل چھہ تھہ منز  
 اختلاف۔ چنانچہ زہ سمندر چھہ بوزنہ یوان ہی مگر اکہ سمندر کہ آب چھہ مؤڈر میوٹھہ تہ مزہ دار شیریں  
 تہ خوشگوار تریش ہمہ راوہ ون چھہ آسان تمیک ہٹہ بون والہن کیازہ طبیعت چھہ تھہ قبول کران۔ بیا کہ  
 سمندر، تمیک آب چھہ نن ثوش تہ ٹیوٹھہ تمیک اکھ دام تہ چھنہ ہٹہ بون وسان تمہ پتہ چھہ تہندہ  
 قدر تک بے بے نشانہ کہ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحَمَاطٍ يَا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا۔ سمو دوشوے  
 دریاو منزہ چھوہ تمہ گاڈہ رٹان تہ تہند تازہ ماز چھوہ تہہ کھیوان بیا چھوہ دوشوے دریاو واندرہ گھنہ

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط  
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا  
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ ﴿۱۳﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ  
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ط

کذاں یعنی محنت سے لہر تہہ کوئی گنہہ چھوہ پانس پاراں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرًا تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ جھٹک ٹہ اے مخاطب و چھان ناوہ سے جہازہ اتھ سمندر س منز تھہ پاٹھہ جھہ تم  
آبس ٹٹان پکان ہتھہ ٹہہ تمن منز سفر کر تھہ ٹھانڈو۔ خدایہ سُنڈ فضل سے روزی سہ روزی حاصل  
کر تھہ کرو تہنز شکر گذاری بیہ چھوہ تہنزہ بیہ قسمہ نعمو مثلاً يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ  
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سہ معبود برحق چھہ راژ ہندین اجزاء ان و اتے ناوان  
دُہیہ کین اجزاء ان منز بیہ چھہ دُہیہ کین اجزاء ان و اتناوان راژ ہندین اجزاء ان منزیمہ سیت تم نفع  
حاصل سپدان چھہ یم دُہیہ کس سے راتہ کس بدنس سے ٹھوٹہ نس منز حاصل سپدان چھہ بیہ چھہ تم آفتاب  
سے زون کامہ لاگہ مت، تممواندرہ چھہ پر ہتھہ اکھاہ پکان وقت مقر رس تام یعنی قیاس تان روزن پکان  
ہتھہ پاٹھہ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے پروردگار یم سندہی شان چھہ کیاہ گوو تہند پروردگار سمسز  
ساری سلطنت چھہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ تس ورائے یم معبودان باطل  
چھہ یمن ہنز ٹہہ پرستش کران چھوہ یمن ٹہہ آلودوان چھوہ خدایس ورائے تم جھنہ مالک خضر آنچہ  
ہندس دیس یا تہہ کس منزہ مس پس إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ  
ہر گاہ ٹہہ تمن ناودوان چھوہ تم جھنہ تہند ناوبوزان ہر گاہ بوزہ ہن سے توتہ بیجہ ہن نہ تم توبہہ کانہہ مدد  
کر تھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ٹہہ چھوہ تمن خدایہ سند شریک ٹھہراوان قیامتک دودہ کرن  
تم تہندہ شرکہ نشہ انکار وَلَا يُؤْتِيَنَّكَ وَمِثْلَ خَبِيرٍ اللہ تعالیٰ چھہ پر ہتھہ کہ چیز ج حقیقت زانان اے

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۵﴾ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۶﴾ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوَاهِرِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ

مخاطب ثریہ ونبی نہ اصلی حقیقتک حال کانہہ تہ واقف کارس وراے واقف کارچھہ خدائی بوت تس چھہ سارچی پور خبر **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** اے لوکو تہہ چھوہ محتاج پریتھہ چیزس اندر اللہ تعالیٰ اس گن اللہ تعالیٰ چھہ پانہ بے نیاز تس چھہ نہ حاجت تہہ چیزس اندر۔ تس چھہ پانس ساری صفت تہہ سارے خوبیہ تھند محتاج آسئس گن نظر کر تھہ کر تم تھندہ فائدہ خاطرہ تو حیدرچ تہہ عملہ ہنز تعلیم ہر گاہ تہہ سو تعلیم مانونہ تمہ سیت واتیو پانس نقصان تہہ ضرر اللہ تعالیٰ اس چھہ غنا ذاتی تہہ کمال ذاتی تہہ تس چھہ نہ تمہنز نہ عملن ہنز بالکل ضرور تھی **إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ** ہر گاہ سہ یڑہا تھندہ کفر ونا فرمانی موکھ نیہ ہا توہہ سارے یمہ عالمہ منزہ توہہ کرہ ہاگر رفتار۔ تو پتہ آتہ ہاتھہ عالمس منز بین لوکن تہہ نوین مخلوقن یم نہ تھندہ پاٹھہ کفر ونا فرمانی کرہ بن **وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ** یہ تھہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کینہہ مشکل اس نہ مگر سہ چھہ توہہ مہلت دووان تھہ منز چھہ زانہوہ تم مصلحت و نیاس اندر چھہ تمہہ ضررک احتمال مگر قیامتک دودہ سپدہ سہ ضرر ظاہرنی الواقع **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِوَاهِرِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ** ہر گاہ کانہہ گنہن ہند یور تلہ ون نادویہ کانہہ شخصس کہ میاہ بارہ منزل تل تہہناہ تم سندہ بارہ منزہ بیہ نہ ہرگز تلنہ کانہہ چیز اودہ استس سہ پن کانہہ رشتہ دار سہ تلئیس نہ تمہ وقتہ آسہ کفر و بد عملی ہند ضرر اس پانس تلن یمن آیاتن منز چھہ مٹکن ہندہ خاطرہ بیم کرہ نگ تہ کھوڑہ ناو نگ مضمون امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ تسلی دووان سانس رسول کر تسمس صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد توہہ مہ حض سپد و غم گین یہ ہندہ انکار

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
 وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾  
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾  
 وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ  
 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي  
 الْقُبُورِ ﴿۲۲﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

کرنے سے تکلّف ہے کہ نہ کہ وہ ضرور ائمہ انکارہ سببہ ضرورتاً انما تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ نہ حض کھوڑہ ناویکھ نہ مگر لوکھ یم پنہ نس خدا یس وچھنہ ورائے کھوڑان آس بیہ یم نماز گذار آس نماز آس پابندی سان وقتہ ادا کران وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ نس اکھاہ ایمان انتھ پاک سپد شرک و معاصیو نشہ سہ چھ سپدان پاک پنہ فائدہ خاطرہ نس نہ ایمان آنہ سہ تلہ تمیک نتیجہ پانے کیاہہ سارنے چھ پتولا کہ واتن اللہ تعالیٰ اس نشہ تہ تلن تم پانے پنہ نین عملن ہند پھل تہ نتیجہ ضرور وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ یمن لوکن نشہ کیاہ توقع بیہ تھاونہ یمن ہند ادر اک چھا با ایمان ہند ادر اک یہ چھا ممکن یم نہ کیاہ کرن با ایمان ہند پاٹھ قبول یوز تھ کیاہہ با ایمان ہنز مثال چھ قبول حق کرہ نس اندر گاشدارہ سنز تہنز مثال چھ قبول حق نہ کرہ نس اندر اعماء س نہ نابینا سنز لہذا چھنہ برابر اون تہ گاشدار وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ تھہ پاٹھ با ایمان یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ نور چ کافرن یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ مثال چھہ تاریکی ہنز لہذا چھنہ برابر گاش وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۗ تھہ پاٹھہ یس نتیجہ تہ ثمرہ کفر س پیٹھ مرتب سپدہ ون چھہ تھہ مثال چھہ تہہ تا تھگ لہذا چھنہ برابر خوشگوار شہل تہ توت تا پھہ تا پہ ٹنڈہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ بیہ چھنہ برابر زندہ تہ مردہ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ پتھر پاٹھ اللہ تعالیٰ چھہ بوزہ ناوان نس یڑھان چھہ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ بیہ نہ حض بیکو کھنہ تھہ بوزہ ناو تھہ تم

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۲﴾  
 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ  
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ  
 أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا  
 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

یہم قبرن منز مردہ ہجھہ کافر تہ بوزی توکھ تمنے مردن ہو پتھ رود تمن ہندہ متاثر نہ سپدہ مٹو کہ تھند غم  
 کیوں تھ چھند ضرورت کینہہ تہ کیا زہ ان انتی الا نذیر یہ بیم کرن تمن چھند توہہ پنہ طرفہ بلکہ  
 چھہ یہ توہ سانہ طرفہ کیا زہ انا اسلنک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک اسی سوزوہ تہہ  
 پوزدین ہتھ بشارت فرماوہون بایمان فرمانبردارن بیم کرہون کافرن تہ نافرمانن یہ امہ شانہ سوزن نو  
 کتھاہ چھند و ان من امة الا خلا فیہا نذیر بلکہ کانہ امٹاہ چھند گذرے مڑیمن منز نہ اکھ بیم کرہ  
 وناہ چھہ او سمت و ان یکنذیبوک فقد کذب الذین من قبلہم ہر گاہ ہم کافر توہہ اپر گزران ہجھہ یہ  
 تہ نو کتھاہ چھند بیشک تمولو کو تہ ہجھہ اپرے گزراومت ہم یمن بروٹھ اس پنہ ونگ پیغمبر جآءتہم  
 رسلہم بالبیّنات و بالزبیر و بالکتاب المنیر تمن نغمہ تہ والے تھندے بعضے پیغمبر نہ دلیلہ ہتھ  
 بعضے پیغمبر صحیفہ ہتھ، بعضے پیغمبر نورانی کتابہ ہتھ تمویلہ تمہ کتابہ اپزہ زانہ تہ تمن انکار کورٹھ اخذت  
 الذین کفروا و کفیف کان نکیر تو پتہ کر میہ گرفتار تم کافر اوہ تھتہ ثری خبری میون انکار کیتھ اوس  
 یعنی تمہ انکار ک سزا کیتھ اوس ا لم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فخرجنا به ثمرات مختلفا  
 الوانها کیاہ ثریہ وچھت ناے مخاطب بے شک اللہ تعالیٰ ان تر و آسمان کہ طرفہ روو۔ تو پتہ کڈا سہ  
 تمہ رووہ سیت زمینہ منزہ مختلف رنگن ہند میوہ و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها  
 و غرابیب سود بیہ چھہ ہتھ پاٹھ کو ہواندرہ تہ مختلف حصہ اٹے ووزل۔ تمواندرہ تہ مختلف اؤ سخت سفید

أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۵﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿۲۷﴾  
 لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمُ وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

تہ سخت وزل اڑے کے سفید تہ کے دوزل۔ بیہ بعضے کوہ سخت کرہن۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ بیہ لو کو اندرہ تہ جانو اور و اندرہ چار و ایو اندرہ تمن ہندے رنگ تہ  
 مختلف ہتھے پاٹھہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ خدا میں چھتھہ کھوڑان  
 تہند یو بند و اندرہ مگر تمے عالم تہ زان وال تہ سمجھ دار بندہ یم دلائل قدرت و چھتھہ تمن منز غور تہ فکر  
 چھہ کران تہند ین دلن اندر چھہ تہنزہ عظیمتک علم حاصل سپدان پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ اس کھوڑان چھہ  
 در ذات خود ضروری کیا زہ سہ چھو ز بردست سہ بیہ سورے کر تھہ بیہ چھہ غایت مقصودہ کہ اعتبارہ تہ  
 ضروری کیا زہ سہ چھہ پانس کھوڑہ و نین بدن سیٹھاہ خشہ ون بس چھہ تس کھوڑان عزتک مقتضی تہ  
 غفور تیک مقتضی تہ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ بے شک یم لو کہ پیران چھہ قرآن مجید تو پتہ چھہ تمہ موجب  
 عمل تہ کران بیہ چھہ خصوصیت و اہتمامہ سان پران نماز برابر وقتہ پابندی سان بیہ چھہ خرچ کران تمہ  
 مالہ اندرہ بس اسی چھہ عطا کر مت کھٹت تہ تن پاٹھہ تہ۔ تہتھہ پاٹھہ ممکن سپد کھہ تم چھہ خدا یہ سندہ وعدہ  
 موجب امیدوار تھہ نجالت تہ ہمیشہ دائمی نفع تہ فائدہ چھہ۔ تہتھہ منز نہ زانہ تہ نقصان تہ گائہ آسہ  
 کیا زہ امہ سودا عک خریدار کانہہ مخلوقاہ چھتھہ بلکہ چھہ امیک خریدار پانہ خالق کردگار۔ سہ چھہ محض  
 لوکن فائدہ و اتاؤ نہ موکھ امہ معالج قدر کران لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمُ وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

شُكُورٌ ۳) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۴) ثُمَّ أَوْرَثْنَا  
 الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ

شُكُورٌ بیٹھ اللہ تعالیٰ تمہن پور مزور دیہ تہنزن عملن ہنزبیر دیہ تمہن پتہ فضلہ منزہ بیہ بکن زیادہ مزورہ  
 پز پاتھ سہ چھ بخش ہارتہ قدر دان تہنزن عملن اندر یوسہ کمیہ آس روز مشوکری اللہ تعالیٰ ان پورہ  
 مزورہ علاوہ دیتن تمہن انعام تہ قرآن مجیدس پیٹھ عمل کر نکہ برکتہ بنیو و تمہن اجر تہ فضل تہ کیا زہ بیہ  
 قرآن مجید چھ تڑھ کتابہہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
 بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ بیہ یوسہ کتاب آسہ توہہ پیٹھ نازل کر سوچھ پز کتاب یوسہ تصدیق تہ تائید چھ  
 کر ان تمہن بتائن بیہ تمہہ بروٹھ چھ نازل کرنہ آمزہ کہ تمہہ کتابہ تہ چھ خدایہ سدی طرفہ نازل آمزہ  
 کرنہ۔ اگرچہ تمہہ پتہ آو تمہن کتابن تحریف کرنہ اوڈملناونہ تہ اوڈ کڈنہ بے شک اللہ تعالیٰ ہتھ پتہ نین  
 بندن ہنز پور خبر تھاوہ ون۔ تہنزن مصلحت چھ وارہ وچھ ون۔ لہذا یڑھہ کامل کتاب نازل کرن آس  
 تسنز مصلحت مہگان۔ کامل کتابہ ہند پورہ عامل تہ چھہ کامل مزورہ ہند مستحق بلکہ اجر تہ تہ فضل تہ بیٹھ  
 گن نظر کر تھہ کر آسہ بیہ کتاب توہہ پیٹھ نازل یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ  
 اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا توپتہ واتناواسہ بیہ کتاب تمہن لوکن ہندس آتھس اندر یم آسہ پتہ نیو ساروے  
 بندواندرہ باعتبار ایمان پسند کرے۔ امہ اندرہ چھہ مراد اہل اسلام تمہم امہ ایمانکہ حیثیتہ تمام دنیا کیو لوکو  
 اندرہ خدایس نشہ مقبول چھہ اگرچہ تمواندرہ آس پیچھہ عملہ سببہ بعضے لوکھ قابل ملامت تہ مطلب چھہ  
 کہ سو کتاب واتناواسہ مسلمان ہندس آتھس اندر توپتہ چھہ تمہن مسلمان اندر برگزیدہ تہ پسندیدہ  
 آسہہ باوجود تریہ قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ  
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ تمواندرہ بعضے چھہ کانہ گناہ کرنہ سببہ پتہ نین پانن پیٹھ ظلم کرہ ون۔ بعضے چھہ



هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۳۳﴾ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُ خُلُونَهَا يُحَلُونَ  
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا  
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۵﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ  
 لَا يَبْسُتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَبْسُتُنَا فِيهَا الْعُوبُ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

گناہ کران نہ چھ رٹن عملن اندر ضرور یا تو نشہ تجاوز کران بلکہ چھ متوسط درجس اندر روزان بعضے چھ  
 نیکی ہتھ بروٹھ گڑھہ ون خدایہ سندہ توفیقہ سیت گنہو نشہ پتھ روزان۔ فرایضو علاوہ چھ نوافل تہ ادا  
 کران۔ غرض یہ کتاب واتنا واسہ بین تریثونی قسمن ہندین آتھن اندر۔ یہ کامل کتاب بین تریثونی  
 قسمن عطا کرنہ ذلک ہوا الفضل الکبیر یوہے گو خدایہ سند بوڈ فضل۔ امہ پتہ چھ امہ اجر وفضلک  
 تفصیل جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُ خُلُونَهَا يُحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  
 سو بڈ ضرور کیہ ہمیشہ روزنک باغ تمنی منزواتن تم تریثونی قسمن ہندے لوکھ متہ بیجھ گنہہ لاگنہ سونہ  
 سُنْدے کُڑے بیہ موختہ۔ بیہ آسہ پُوشاک تھند جنس اندر پوٹ توت و آتھہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
 أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ توت اثر تھہ دین تم جنتی تھہ یوڈ محمد یوین تس معبود برحقس یم دور کر اسہ  
 نشہ ہمیشہ خاطرہ ساری غم إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ پڑے پاتھ سون پروردگار چھہ سیٹھاہ مغفرت  
 کرہ ون سیٹھاہ قدر دان الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَبْسُتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَبْسُتُنَا فِيهَا  
 الْعُوبُ یم پروردگارن بساواسہ ہمیشہ تھمر نیچہ جایہ پنہ فضلہ سیت بیتہ نہ اسہ واتہ آئندہ کانہہ مشتقناہ  
 واتہ اسہ پتہ کانہہ تکلیفانہ تھنناہ یہ اوس قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرہ ونین ہند حال وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وون سمو لوکو ہن  
 برخلاف تھر کور تھندہ خاطرہ چھہ نار جنہم تمن پیٹھ نہ بیہ موتک حکم کرنہ زانہہ تا اینکہ تمی مر نہ سیت

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ  
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ  
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ  
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿۳۷﴾  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ  
الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ

کیا وہ موملہ بن امہ عذابہ نشہ نہ پیچھ جہنمہ کس عذابس اندر تخفیف نہ کمی کرنہ کذالک نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا تہہ پاٹھ کیا چھ اسے سزا دوان پر تہہ کافرس وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا تم لوکھ آسن جہنمس منز کر یکہ دوان نہ و نان رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اے سانہ پروردگارہ اَسہ کڈیمہ جہنمہ اندرہ اَس کرہ ہوون سبٹھاہ رتھہ عملہ تمسن عملن بدل یہ اَس کران اَس اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تعالیٰ فرما یو کہ کیا اَسہ کرے یہ ناتوہہ سوعمر عطا تہہ منز نصیحت رتھہ ہالیں نصیحت رٹن آسا صرف آئیہ نہ توہہ عمرے یاژ عطا کرنہ بلکہ تمہ علاوہ آتوہہ نشہ سانہ طرفہ نیم گروان تہ یعنی پیغمبر۔ مگر توہہ بوزوہ نہ کیہنہہ تہ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ وون ژہ ہو پنتہ نافرمانی ہند مزہ۔ تھین ظالمین چھنہ بیہہ کانہہ مددگارہ اَسے کرودہ نہ مدد کیا زہ اس چھہ توہہ نشہ بے زار اَسہ ورائے تہ کرہ نہ توہہ کانہہ مدد۔ کیا زہ تمسن چھنہ مدد کرہ نس پیٹھ قدر تھے راضی اَس تن یا متہ اَس تن إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ ای چھہ زانہ و ن آسانن تہ زمین ہندے پوشیدہ چیز سنی چھہ پور زانہ و ن و ن ہنزہ سارے تھہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ سنی گو سہ پروردگار۔ سم تہہ زمینس پیٹھ آباد کر وہ بساوے وہ یمن دلیلن تہ نعمشن گن نظر کر تھہ پڑہا توہہ تس شکر و شادمان۔ مگر تھہ بدل چھہ بعضے توہہ اندرہ ہُفرو انکارس پیٹھ ڈاڈ کر تھہ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا

فَعَلِيهِ كُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا  
 مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۳۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا  
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا  
 فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا الْإِعْرَوزَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مَقْتًا پس جس اکھاہ کفر کرہ تمسندہ کفرک دوباں چھہ تس پانس۔ بیس کانہہ کیاہ بیکن تم بگار تھہ تہ نقصان کر تھہ کافرن ہرہ راونہ کفر کن خدا بیس نشہ کینہہ تہ بیزاری ورائے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ الْإِعْسَارًا بیہ ہرہ راوہ نہ کافرن کفر تہند آخر تس اندر کینہہ تہ تاوانہ نقصانہ ورائے سہ گو وجنتہ نشہ محروم سپدن جہنمک سئدہ ہُن قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بین لوکن یم کفر و شرکس پیٹھہ اصرار کر تھہ چھہ فرما وونہہ یار رسول اللہ اے مشرک۔ میہ دن تو تہہ تمن شرکیں ہند حال بین ہنہہ معبود برحقس ورائے پر سبتش کران چھوہ۔ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ میہ ہا تو تموگس حصہ ہتھہ زینک یادہ کور مت کنہہ کانہہ شر اکتھاہ چھہ تمن آسمان ہندس یادہ کرہ نس اندر تہکہ کنہہ عقلی دلیلہ سیت سپدہ ہاتہند عبادتس مستحق آسن ثابت اَم آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ کنہہ اسہ ہتھہ دژ مشرک تمن بینن کانہہ کتاباہ ہتھہ منز شرکسہ درست آسنک تذکرہ چھہ سہمہ چہ کنہہ دلیلہ پیٹھہ تم قائم چھہہ بَلْ إِنَّ يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْإِعْرَوزًا بلکہ چھہ نہ یم ظالم اڈے اڈین وعدہ کران مگر محض دھوکہ تہ فریبک کہ تہند یو بڈیو چھہ تمن بے دلیل اکھ کتھاہ دن مشرکہ یم معبودان باطل کرن تمن خدا بیس نشہ سفارش حالانکہ تم معبود چھہ بے اختیار محض۔ لہذا اکتھہ پاٹھہ بیکن تم مستحق عبادت آستھہ البتہ مختار مطلق چھہہ ذات باری تعالیٰ سنی چھہ سزاوار عبادت۔ چنانچہ پروردگارہ سندہ مختار آسن تہ ورائے یم چھہ تہندہ بے اختیار آپنود لیلو منزہ چھہ اکھ مختصر تھہ بیان

أَنْ تَرْوُلَاهُ وَلَكِنَّ زَالَتَانِ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ  
 بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۱۱ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ  
 أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ  
 الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمُ الْإِنْفُورًا ۝۱۲ اِسْتِكْبَارًا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا


یوان کرنے کہ تہہ وچھتو اِنَّ اللّٰهَ يُمَسِّكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَرْوُلَا یعنی تھ تھ چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ  
 آسمان تہ زمینس پنہ قدرتہ سیت تھھ کر تھ۔ تھھ تم موجودہ حالت تراؤن وَلَكِنَّ زَالَتَانِ  
 اَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بیہ ہر گاہ تم موجودہ حالت تراؤن تہ تمن  
 ہیکیا کانہ اکھا تھھ کر تھ تہ بیہ پنہ نس حالش پیٹھ قائم تھاوتھ تس ورائے یلہ نہ عاج حفاظت کانہ  
 ہندگن بیچہ سپد تھ پادہ کہہ سچ ہھنہ کھتہ تہ حاجت روائی ہنز ہھنہ دلیلہ ہذا تھ کن نظر کر تھ یں تم زانہ  
 مستحق عبادت وئے شرک باطل آسحہ باوجود لاشریکس شریک ٹھراون یہ اوس منگان مشرکن  
 گوڑھ فوراً سزاؤنہ یں۔ مگر چونکہ سہ چھ سیٹھاہ حلیم تمہ موکھ چھ سہ تمن مملت ووان کیا زہ کانہ  
 مایہ تموا ندرہ سیزہ وئے کن بیہ چھ سہ غفور سہ کرہ بروظھن سارنہ گنہن مغفرت وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ  
 اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ بیہ اس کافر قریشواندرہ قبل از  
 بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوردار قسم ہاوان کہ ہر گاہ تمن نشہ وائہ کانہ نیم کرہ ون پیغمبر اہ  
 بیشک تلہ آسن تے یعنی اسی پریتھ امتہ اندرہ زیادہ ہدایت قبول کرہ وئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا  
 زَادَهُمُ الْإِنْفُورًا \* اِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ ادہ یلہ ووت تمن نش نیم کرہ ون پیغمبر یعنی حضرت  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھندس نفر تس سپد ہریر کیا زہ تم آسے پانس بوزانان نفر تہ سے پیٹھ  
 آس نہ اکتفا کران بلکہ آسے تمن تکلیف تہ ایذا وائہ ناوان تہ تمہ خاطرہ بیچہ بیچہ تدبیر کران یم لوکھ یم  
 یم تدبیر آس سانس پیغمبرس ایذا و اتا وئہ خاطرہ کران تمن ہند ضرر اوسحہ پانس پنان کیا زہ


بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ  
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾  
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۴﴾ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا

وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ تکیف رسائی خاطرہ بچھ تدبیر کرن چھنہ ولنہ  
یوان مگر تم نے ایم سو تدبیر کروون آسن فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ کیاہ یم کافر چھاپنہ حقہ تھہ  
چیزس پیاران اُس چیز برو ٹھہن کافرن ہندہ حقہ آواستعمال کرنہ یعنی تھہ پاٹھ تم گانہ آئے تھہ پاٹھ  
گڑھن یم تہ گانہ ین فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تی بنہ ضرور  
کیازہ توہہ لبونہ خدایہ سندس طریقس منز کانہہ تبدیلیاہ بیہ لبونہ تہہ خدایہ سندس اتھہ دستورس منز  
کانہہ تغیراہ تہ تبدیلیاہ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تم چھناہ پھیران ملکس منز۔ اُس وچھہ بن کیاہ چھہ انجام سپد مت تم  
لوکن ہند یم تمن برو ٹھہ آس۔ یم آسے پھندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن باوجود آل آئے گانہ تہ ختم کرنہ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ چھنہ تھہ اُس کیاہیہ عاجز کر تھہ کانہہ چیزاہ فی  
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان اندریازمین اندر کیاہہ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک سہ چھہ  
سورے زانہ ون سارے پیٹھ قدرتہ وول۔ علمہ سیت چھہ سہ پن پر تھہ ارادہ نافذ کران۔ دویم چھنہ  
کانہہ اکھاہ تھہ۔ لہذا ہیہ نہ اُس کنبہہ اکھاہ مغلوب کر تھہ۔ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ  
عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ ۗ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر گاہ اللہ تعالیٰ یمن لوکن گھرہ

كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ  
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝۳۵

چن کابین پیٹھ رٹہ ہاگر فگار کرہ ہاتلہ چھڑبانہ ز مینس پیٹھ کانہہ حرکت تہ صرصر کرہ ونس جاندارس  
کیازہ نافرمان گیو پوزے فرمانبردار تہ بہن بیمہ دنیا منزہ میں عالس منزواتناوندہ حیوانات تہ بہن ختم  
کرنہ کیازہ تم ساری چھ انسان ہندی خاطرہ ہتھ دنیا س منز۔ لیکن سہ چھ لوکن مہلت دو ان اکس  
مقرر کرنہ آمتیس وقتس تان **فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا** ادہ یلہ تم ن پن مقرر  
کرنہ آمت وقت ولتہ، پس چھ اللہ تعالیٰ پنہ نین بندن ہند سوری حال پورڈ چھ ون۔ تمس چھ ساری  
بندہ نظری۔ پس تم یہ کورمت آسہ تم ن دیہ سہ پانے تچ مزور رٹہ کامہ رٹمزور پچھ کامہ پچھ مزور۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ۲ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ  
 مُّسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلِ الْعَزِیزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ  
 اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ  
 لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَافًا فِیْهَا  
 الْاَذْقَانُ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ اَیْدِیْهِمْ

یسیم چھ حروف مُقطعا تو اُندرہ زہ حرف۔ امیک معنی زان پانہ پروردگار وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ قسم  
 چھ مضبوط و محکم با حکمت قرآن مجیدک اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ بے شک چھوہ تے اے محمد پیغمبر  
 و اُندرہ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ سیزہ و تہ پیٹھ۔ یس نبھز پیروی تہ متابعت کرہ سہ و تہ خدا یس نش۔  
 تَنْزِیْلِ الْعَزِیزِ الرَّحِیْمِ نازل چھ یہ قرآن مجید کورمت تے خدا لئ یس سیٹھاہ غالب چھ یس سیٹھاہ  
 رحمتہ و ول چھ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ تہ اوہ پیغمبر سوزنہ تھ تہ یم کرو  
 خدا یہ سدہ عذابہ نشہ گوڈہ تھ قومس یمن ہندین مالین بذبن اوس نہ امہ عذابک یم آمت کرنہ  
 تمی چھ تہ دین حقہ نشہ بے خبر لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ بے شک تمو  
 اندرہ چھ اکثرن پیٹھ از لکہ تقدیر چ تھ برابر آمر تہ موکھ ائن نہ تم ایمان اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ  
 اَغْلَافًا فِیْهَا اِلٰی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ تہنز مثال چھ زن اسہ چھ تراومت تہنزن گردن منز  
 غول تم غول چھ تھ ہو تھنن تان۔ یہ سبہ تم کلہ ہور گن تھا و تھ و تھ چھ تھ بوزنہ یوان تہندہ  
 ایمانہ دور آچ چھ بیا کھ مثال۔ وَجَعَلْنَا مِنْ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَاَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَعْشٰیٰهُمْ فَهُمْ

سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ⑨  
 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩  
 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ  
 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى  
 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي  
 إِمَامٍ مُبِينٍ ⑫ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ

لَا يَبْصُرُونَ بے زن اسے قائم کو رمت چھتہ تمن بروٹھ کنہ اکھ دیوارہ۔ بے تہنزہ تھر کنہ تہ بیاکھ دیوارہ تو پتہ چھ ولت اسے تم پر پتھ طرفہ پس چھن تمن بوزنی یوان کینہہ دوشونے مثالن ہند حاصل چھہ ای کہہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہشی تھہہ چھہ ٹوہہ تمن بیم کر تو یا متہ کر تو۔ تم ایمان ان نہ ہرگز إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ تہہہ کرویم تس لیس نصیحتہ موجب پکے بے کھوڑہ حضرت رحمانس وچھنہ ورائے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تھس شخص دیوتہہ بشارت گوئسن ہندہ بدہ مغفر تہ۔ بے طاقت و عمل کرنس پیٹھ رتہ معاوض۔ ای اندرہ سپد معلوم کہ یم تھہ پھرن تہ گرا ہی اختیار کرن تم چھہ مغفر تہ رتہ عوضہ نشہ محروم۔ اگر چہ امہہ جزاء و سزاء ک ظہور دنیا س منز سپدن لازم چھنہ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کیا زہ اس کرو کہ اکھ دوہہ ساری مردہ زندہ تھی دوہہ سپدہ امیک ظہور بے چھہ اس تمہہ سارے عملہ لیکھان یمہ تمہو بروٹھ کن سوزہ بے چھہ اس لیکھان تمہہ عملہ تہ یمہ تم تھکن تراوان چھہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ بے چھہ اسے پر پتھ چیزا لیکھتھ تھوومت واضح کتابہ منز یعنی لوح محفوظ منز تہندہ عملہ اندر آئندہ بروٹھ۔ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بےہہ کرو تہہہ بیان تمن کافرن بروٹھ کنہ (تھہہ تانسید سپدہ تھندس رسالتس بے سپدہ تھندس انکار توحید و رسالت کرہ لس پیٹھ حجت قائم) مثال آکھہ گامہ کین لوگن ہنز نیلہ اتھہ ہستی منز سوز اسہہ کینہہ پیٹھبر



جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا  
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا  
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ  
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم  
لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾ قَالُوا  
إِنَّا نَطِيرُنَا يَوْمَئِذٍ لَكِن لَمْ تَنْتَهُوا الْزَجْمَ بَكُمُ وَلَيْسَتْ لَكُمُ  
مِنَّا عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ ﴿۱۸﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ يٰ كُوْهُنِ سُوْرَةِ تَمِيْمِ  
نِشْرَه زه پيغمبر تموزان تم دوہ شوے اپز تو پتہ کور اسہ تمں دون پيغمبرن مدد تر تمس پيغمبره سده سیت تمو  
تریشوے پيغمبر و دوپ تمں لوکن بیشک چھ آسے تو بہ گن خدا یہ سده طرفہ پيغمبر۔ تہہ کرو تو حید اختیار بُت  
پرستی تراو قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ  
تمو لو کو دوپ ہکھ تو بہ منز کیاہ خصوصیت چھ پيغمبر آسہ بخ تہہ چھوہ نہ مگر اسی ہوا انسان خدائے  
رحمان چھنہ آرتان کانہہ چیزے کتاب یا احکام نازل کر مت تہہ تریشوے چھوہ بالکل ایڑوانان قَالُوا  
رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ تمو پيغمبر دوو پیک سانس پروردگار س ہتھ معلوم کہ بے شک تہ  
یقیناً چھ اس تو بہ گن تہدی طرفہ بطور رسول سوزنہ آمت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اسہ  
پیٹھ چھنہ مٹہ مگر شتھ واتہ ناون پورہ پورہ سو کام کر اسہ وون چھ مان یا نہ مان تہنز کام قَالُوا إِنَّا  
نَطِيرُنَا يَوْمَئِذٍ لَكِن لَمْ تَنْتَهُوا الْزَجْمَ بَكُمُ وَلَيْسَتْ لَكُمُ مِنَّا عَذَابٌ  
بیہ پیو تہندہ تحریک سیت لوکن منز تفرقہ تہ فساد لکین لَمْ تَنْتَهُوا الْزَجْمَ بَكُمُ وَلَيْسَتْ لَكُمُ مِنَّا عَذَابٌ  
ایمہ ہر گاہ نے تہہ پتہ روزویہ تبلیغ کرنہ نشرہ یہ تھ و نہ نشرہ اس لا یوہ تو بہ کتہ بیہ واتہ تو بہ سانہ

ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا  
 الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾  
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمَالِي لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ  
 إِلَيْهِ مِنْ دُونِهِ إِنَّهُ يَرُدُّنَا إِلَىٰ الرَّحْمَنِ بِبُزُرٍ لَّا تَعْنَىٰ

طرفہ سخت عذاب تہ رنگارنگ تکلیف قَالُوا اطَّيَّرْكُمْ مَعَكُمْ أَلَمْ يُدْكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 مُّسْرِفُونَ پیغمبر دو پیکھ ٹھنڑ نخوستھ چھ توہہ گوڈہ بیٹھے پانس سیت کیا زہ ساری تکلیف چھ توہہ  
 حق قبول نہ کرنہ موکھ ہر گاہ ٹہہ ساری دین حق قبول کر تھ متفق سپدہ ہوتیلہ نہ آسما توہہ پانہ وان  
 جنگ وجدال نہ فتنہ تہ فساد نہ آسہو ٹہہ قحط سالی تہ در اگس مبتلا۔ کیاہ ٹہہ چھوہ تھہ تھہ نخوستہ زانان یوسہ  
 نصیحت سعادتک کن تہ بنیاد چھ واقفس منز یہ نخوست بھنہ بلکہ چھوہ ٹہہ عقلہ ہندہ تہ شرعک حدہ ریشہ  
 ڈل ورن تہ مخالفت شرعہ سیت واثر توہہ یہ نخوست امہ گفتگو اوج خبریلہ شہرس منز شائع سہز وَجَاءَ مِنْ  
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ توپتہ آوشہر کہ اندرہ بیٹھہ اکھ شخصہ اوس مسلمان اوس دوران دوران  
 ہتھنہ یم لوکھ پیغمبرن کینہہ تکلیف واتناون یمہ سیت تو مک تو م تباہ گوڈہ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ \*  
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم شخصن دو پیکھ ای لو کو پیغمبرن ہنز کرو پیروی۔  
 ٹہہ پکو ضرور تہنزہ وتہ یم نہ توہہ سیزو تھ ہاونہ خاطرہ ٹنہ قسمہ معاوضہ منگان چھہ بیہ چھہ تمپانہ سیزہ وتہ  
 پیٹھ تمکن کانہہ خودغرضیاہ بھنہ اتھ اندر۔ وَمَالِي لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ مہ  
 ریشہ کیاہ عڈر بھنہ تہ مہہ کیاہ گو کہ بہ کیاہ کرنہ بندگی تس پروردگارہ سزیم ہم بہ پادہ کورنس۔ وئن اوس  
 اہس توہہ کیاہ گووہ ٹہہ چھوہ نہ پروردگارہ سز عبادت کران ہم ٹہہ پادہ کمر نوہ یہ وون امی پانہ سے ہتھ  
 نہ مخاطبن باعث اشتعال سپدہ۔ بیہ چھوہ توہہ سارنہ تس کن رجوع عکرن، پتولا کہ واٹن موجودہ حالتس  
 کن نظر کتر تھ گمہ ہتھہ بیجو تہہ تس برونٹھ کنہ ہتھہ دتھہ ءَأَخِذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدُوا الرَّحْمَنَ بِبُزُرٍ لَّا

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَدُونَ ﴿۳۳﴾ اِنِّي اِذَا الْفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۴﴾ اِنِّي  
 اَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۳۵﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلِيَتْ قَوْمِي  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ بِمَا غَفَرْتَنِي رَبِّي وَجَعَلْتَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَمَا  
 اَنْزَلْنَا عَلٰی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿۳۸﴾  
 اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۳۹﴾ يُحْسِرَةُ عَلٰی

تَنْعَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَدُونَ کیا بہ ہیکہ تھند پاتھ تھس ورائے تم تم چیز معبودز آنتھ تم  
 ہندہ عجز کیفیت یہ چھ کہ ہر گاہ خدای رحمان مہ نسبت کانہہ تکلیفہاہ وائتہ ناؤن یشھ تم معبودان  
 باطلن ہنز سفارش ہیچ نہ میہ کانہہ فایدہ وائتہا و تھ۔ نہ ہیکن تم پانہ پتہ قدرتہ سیت تہ طاقتہ سیت میہ  
 تمہ تکلیفہ نعہ موہ کلا و تھ اِنِّي اِذَا الْفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہر گاہ بہ پتھ نابہ کار پنی معبودز اکھ تلہ تھس بہ  
 تھ نمراہی منز اِنِّي اَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ میہ چھ تھندس پروردگار س پیٹھ ایمان اوئمت۔ ٹوہہ تہ  
 بوڑویہ میان تھہ وارہ۔ مگر تم لوکن پیٹھ پیوندہ آس شخصہ سنزن تھن ہند کانہہ اثر بلجہ روچھ تو پتہ  
 مورکھ۔ کنہ لائی کوڈہس جان یازو لکھ تارس اندر یا چور ہس ہوٹ۔ بہر حال یمو تریو طریقو آندرہ  
 اکہ طریقہ کورکھ شہید قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ شہید سپدو نے سپد تھس خدایہ سندہ طرفہ ارشاد کہ اے  
 باایمانہ گوہہ اٹھ جنس قَالَ لَيْلِيَتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرْتَنِي رَبِّي وَجَعَلْتَنِي مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ سُو باایمان  
 لوگ امہ ساتہ تہ ونہہ کاشحہ میانس قومس سپد ہا معلوم میون حال، کہ مہ کرہ مغفرت میان پروردگارن  
 ایمان و اتباع رسول کہ برکتہ بیہ کورنس بہ باعزت لو کو آندرہ۔ یہ بوڑ تھ انہ کن تم تہ ایمان۔ تم تہ بیہ  
 ہاتھ پاتھ مغفرت کرنہ تہ عزت دنہ۔ یلہ امہ شہرہ کیولو کو پیٹھن تہ تھندین تابعن سیت بیٹھ معاملہ  
 کور۔ اسہ ہیوت تم امیک انتقام ہینہ خاطرہ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا  
 مُنْزِلِيْنَ وائل نہ اسہ تھس باایمانہ سندس قومس پیٹھ تھندہ شہید سپد نہ پتہ سہ قوم گال نہ خاطرہ کانہہ  
 لشکرہ ملاکن ہند آسماچہ طرفہ نہ اس آسہ تیج ضرورت کیا زہ تھند ہلاک کرن اوس نہ محتاج عینہ جہ لشکرہ

الْعِبَادَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۱﴾ أَلَمْ يَرَوْا  
 كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ  
 كُلُّ لُكَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِنَّ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ  
 أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۴﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ  
 مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۵﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

کن ان کانت الایصیة واکدۀ فاذا هم خميدون بلکہ اوس سہ سزا کھ۔ سخت آوازہ جبریل امینہ سز  
 یابیہ کانسہ ملکہ سز۔ یان سوہ کر کیکہ کئیہ تان شیلے تم ساری یحضرہ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا  
 کانوا به یستہزؤن افسوس تھین بدن ہندس حاس پیٹھ یکن نشہ یلہ ووت کانہ پیغمبرہ تیلہ آس تم  
 تس پیغمبرس لسنہ تہ ٹھٹھہ کران آلہروا کما اھلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیاہ تمو  
 وچھہ ناسہ کاژاہ جماژتہ کاژاہ امو کرہ تمن بروٹھ ہلاک محض امی موکھ کہ تم آس سانین پیغمبران  
 ٹھٹھہ کران تہ اپزیری زانان یم نہ زانہ تمن نشہ واپس ییکن چھہ دنیاہس گن۔ اتھہ تھہ اندرے تم  
 ذرا غور کرہ ہن ممکن اوس کہ تکذیب واستہزاء نشہ روزہ ہن ہتھہ وَإِنْ كُلُّ لُكَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ  
 چھٹھہ تمو اندرہ کانہہ تہ لیس نہ قیامتک دوہ سارنے لوگن سیت آسہ بروٹھ کتہ حاضر کرنہ بیہ۔ وَإِنَّ لَهُمُ  
 الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ بیہ چھو لوکن ہندہ خاطرہ سانہ قدر تک بوڈ نشانہ  
 بیہ توحیدج بدلیل۔ مردہ زمین لیس اسی زندہ چھن کران رودہ سیت تو پتہ چھہ اسی کڈان تمہ زمینہ منزہ  
 غلہ تہ اتاج۔ تمہہ منزہ چھہ لوکھ کھیوان وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ  
 بیہ کراتھہ زمینس منزہ آسہ خضر کلین ہند بیہ دچھہ رائٹھن ہند باغ۔ تمنے منز کور جاری آسہ ناگہ رادہ  
 کولہ لیا کلوامن ثمرہ بیٹھ لکھ کھن اتاجک پاٹھ تمیک میوہ تہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تم  
 چیز کرنہ پادہ تہند یوا تھو اگرچہ بیول دوہ جگ سگ دچھ کلام کر تمو ی مگر پچھل تہ غلہ پیدا کرن چھہ اللہ تعالیٰ

الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُخْتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ  
 قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي  
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

سزے کام بیہ نہ کانسہ ہنز۔ کیا ہر ذہ قدر تجہ دلیلہ و جھتہ تہ کرن نام شکر گذاری سمیک گوڈہ نیک  
 ہیرہ پووجہ توحید مَبْنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُخْتِ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ منزہ تہ  
 پاک چھ سہ ذات پاک سم پیدہ کر پندہ قدر تہ سیت سارنہ چیزن ہندے جورہ تہ مقابلہ تمو چیز واندرہ  
 یمن کھاران چھ زمین نباتا تو اندرہ بیہ جھہ بے کیفیت خود تمن ہندیو پندہ نیوڈا تو اندرہ یعنی بشر تہ  
 انسانو اندرہ چھ اڈ مو ہنوی آجہ زنانہ۔ بیہ تمو چیز زواندرہ یمن ہنز نہ تمن خبرے چھ کینہ۔ غرض کیاہ  
 خدایہ جھہ ساری مخلوق کرن پادہ اکہ اک سندے مقابل پانہ چھ خالق یکتا مقابل تہ جورہ آسنہ نشہ منزہ  
 تہ پاک وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مُظْلِمُونَ بیا کہ نشانہ چھ لوکن ہندہ خاطرہ خدایہ  
 سندہ قدر تک، راتک وقت۔ تاریکی اصل آسنہ موکہ جھہ آفتابک گاش تھہ پیٹھہ اکہ مسئلہ ہیو۔ تمی راژ  
 پیٹھہ یلہ آس والان چھ دُبَحْمہ گاشک سہ مسئلہ سم اتی جھہ لوکہ واتان بیہ انہ گئی منز وَالشَّمْسُ تَجْرِي  
 لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بیا کہ نشانہ جھہ معبود برحق سزہ قدر تک آفتاب۔ بس پکان چھہ  
 پندہ مقررہ جلیہ پیٹھہ۔ بیہ چھہ اندازہ کورمت سیٹھاہ زبردست، سیٹھاہ زانن والی خدانن وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ  
 مَنَازِلَ بیہ کراسہ زونہ ہندہ خاطرہ پڑاومقرر۔ یم اٹھوہوہ چھہ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تائینکہ  
 پکان پکان چھہ سوہ بیہ گڑھان ہو چھہ مژ پراَن خضر چہ مور ہش لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ  
 وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبِقُونَ اسہ چھہ زونہ تہ آفتابچہ پکہ تک تیتھہ اندازہ تھوومت،  
 بیہ چھہ اسہ رات ودبھہ بیہ گڑھہ تک سہ انتظام کورمت کہ نہ بیہہ آفتاب زونہ رتھہ کیاہ سہ چھہ اکس

يَسْبَحُونَ ﴿۳۶﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۷﴾  
 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُكُمْ فَلَا صَرِيحَ  
 لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۴۰﴾ وَإِذَا  
 قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَا

آسمانس پیٹھ یہ چھ بیس آسمانس پیٹھ۔ نہ ہیچہ راتھ بروٹھ گوتھتھ دوہ ہس پریتھ اکھاہ چھہ یواندرہ اکس  
 اکس آسمانس منزٹھاٹھ وایان یعنی پکان۔ پریتھ اکھاہ چھہ پنہ نس پنہ نس دایرس منز حسابہ موجب  
 تمہ طریقہ پکان اکھ اکسندس حسابس منزتہ انتظامس منز ہیچہ نہ کانہہ اکھ خلل تراوتھ یعنی آفتاب ہیچہ  
 نہ پانے پنہ اختیارہ تمہ ساتہ طلوع عکرتھ، پنہ روشنی سیت زمین روشن کرتھ۔ سمہ ساتہ آفتاب آسہ  
 زمینس پنہ روشنی سیت نورانی گران حدیث شریفس منز چھہ کہ آفتابک مستقر چھہ عرش مجیدس  
 تل۔ یہ چھہ غروبہ وقتہ سجدہ دوان تھ منز حکم دریافت کران بیہ دہکے طلوعک۔ اکہ دوہہ بیہ تس حکم  
 کرنہ کہ طلوع مہ کر۔ واپس گوتھ تپاری پیار اکھ۔ تمہ دوہہ کھسہ آفتاب مغربہ کہ طرفہ۔ سہ چھہ  
 قیامتہ چونشانو اندرہ اکھ نشانہ **وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ** خدایہ سندہ قدر تک  
 بیا کہ نشانہ چھہ لوکن ہندہ خاطر کہ اسہ تل تہند آباء واجداد تھ ناوہ منز یوسہ برتھ آس ضروریاتو سیت  
**وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ** بیہ کراسہ پادہ تمن ہندہ خاطرہ تھس ناوہ ہشہ بیہ ناوہ یکن منز تم سوار  
 سپدان چھہ۔ بیہ تھ ناوہ ہی بیہ تم چیز یکن پیٹھ تم سوار سپد تھ خشکی ہند سفر کران چھہ یعنی وونٹھ  
 وغیرہ۔ چنانچہ عرب چھہ ونان وونٹس سفینتہ البر خشکی ہنز ناوہ۔ اتھ منز چھہ شامل تمہ سوارہ ہیہ نوہ ایجاد  
 آہ کرند۔ ریل موٹر، ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ ہشہ **وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُكُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ**  
 ہر گاہ اس یٹھ ہو تم پھاٹھ و ہو کہ تمونا دوسان۔ پس آسہ نہ تہندہ خاطرہ تمو معبودان باطلو اندرہ سمن  
 تم شریک خدازانان چھہ کانہہ فریادرس وایتہ وناہ۔ نہ ین تم بچاوتہ پھٹنہ کیو حادثاتو نشہ **إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا**  
**وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ** مگر چھہ تم پختہ سانی مہربانی سیت بیہ چھہ تم تمتع تہ فایدہ تلہ ناون دُنیاچہ زندگی ہند



تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۱﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذَاهُمْ  
 مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا  
 مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۳﴾  
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۴﴾  
 فَالْيَوْمَ لَأَنْظِلَّ نَفْسُ شَيْءٍ وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ إِنْ  
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿۵۶﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

پیاران مگر کنی سخت کریکہ یعنی نفخہ اولی یوسہ تمن ہجھتہ معھ رطہ۔ تم آسن پانہ وان تمہ وقتہ حسب معمول پنہ پن معاملاتن اندر ہرہ ہرے کران تہ آوازہ سینگی گڑھن تم ختم فلا یستطیعون تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پس ہیکن نہ تم تمہ ساتھ شریں باژن ہمدہ خاطرہ کانہ وصیتاہ کرتہ۔ نہ ہیکن پنہ نس عیالس گن وائس ہیٹھ۔ ئیس پتہ نس آسہ سہ مرہ تہتی تھے۔ یہ گوہ گوہ ڈہ نیک پھوکھ۔ یہ سیت ساری مران وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ توپتہ یہ زتجہ و ہر بیاکھ پھوکھ دنہ پوغس منز سہ سیت ساری یہ دوبارہ زندہ سپدن یان سہ پھوکھ پیہ دنہ تام نیران قبر و منزہ توپتہ ہیکن پنہ نس خدا ئیس گن دوران دوران۔ توپتہ یلہ متہ ہولناک تہ ہیبت ناک حالات و تھن قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ حیران سپد تھ ونن اکھ اگس ہائے افسوس اس کی سناتل نندرہ ہنزہہ جلیہ نشہ یعنی قبر و منزہ۔ ملایک ونہ نکھ۔ ہیکن چھ سو قیامت سیک و عدہ حضرت رحمن اوس فرماوان پوز اس فرماوان پیغیر مگر تہ آسوہ نہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بہر حال سہ نفخہ ثانیہ یعنی دو تم پھوکھ آسہ گنی سخت کریکہا یان سوسپدہ تان یان تم ساری جمع سپد تھ آسہ برونٹھ گن حاضر کرنہ فَالْيَوْمَ لَأَنْظِلَّ نَفْسُ شَيْءٍ وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس تمہ دوپہ یعنی قیامتگ دوہ پیہ نہ کانسہ شخص گنہ قسمہ ظلم کرنہ پیہ ایوہ نہ توہہ جزاتہ بدلہ دنہ مگر تمے کائن ہمدیمہ تہہ دنیاء ہس منز کران آسوہ یہ گوونارہ کیکن لوکن ہند



عَلَىٰ الْأَرَائِكِ مُتَكُونَ ﴿۵۷﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿۵۸﴾  
 سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۹﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۶۰﴾  
 أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بَنِيَّ أَدْمَانَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُّبِينٌ ﴿۶۱﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ  
 مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي  
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۴﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۶۵﴾ الْيَوْمَ

حال اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكُهَوْنَ بے شک جنتی آسن تمہہ دو بہہ واریہن شغلن سیت  
 خوش دل ہوں اور اذواجہم فی ظلیل علی الارائک متکون تم تہزہ بہہ زانہ آسن ساین تل۔ مزین  
 تہ بہہ آرایش کرنہ آستین پلنگن پیٹھ بھجیہ دتھ بہتھ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون تہنہہ خاطرہ آسن  
 تمن جتنن منز کم میوہ بہہ آسہ تہنہہ خاطرہ سوزے تچ تم خواہش تہ رغبت کرن سلا قولامن  
 رَبِّ رَحِيمٍ بہہ بوزن تم سلام رحمتہ والس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ پانہ فرماوہ تمن سلام رحمتہ وول  
 پروردگار تمن لفظن اندر السلام علیکم یا اہل الجنۃ وامتازوا الیوم ایہا المجرمون حکم سپدہ موقفس منز  
 اصحاب نارن کہ جداروز با ایمان نشہ ای کافر و کفر و شرنگ جزم کرہ ویوہ لوکو۔ کیا زہ با ایمان بین  
 سوزنہ جتنس کن۔ تہہہ ایوسوزنہ نار جہنمس کن۔ تمی وقتہ بہہ تمن بطور زجر و ملامت ونہہ اَلَمْ اَعْهَدَ اِلَيْكُمْ  
 بِنَبِيِّ اَدْمَانَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ای بنی آدم موکیاہ میہ آسوہ ناتہہ عمدہ کرہ ناومت۔  
 بہہ اوس نامیہ تاکید کی حکم کورمت کہ بٹھنہ تہہہ پرستش تہ عبادت کمریو شیطانہ سز کیا زہ سہہ بھتھ تہند  
 نون دشمن وَاِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بہہ آسموہ ناعمدہ کرہ ناومت کہ عبادت کری زہ میانی  
 یا تہبہ بھوہ سیز و تھہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک تم ڈال تو بہہ  
 اندرہ واریاہ لوکھ۔ کیا تہہ آسوہ نایزہن تہ زانان کہ اگر آسن اہس شیطانہ سندہ گراہ کرنہ سیت ڈلو تہ  
 گراہ سپدو آسن تہ عذابس مستحق ہذہ جہنم الکتی کنتم توعدون کیا گو سہہ جہنم سمیک تو بہہ وعدہ

نَحْتُمْ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى  
يُبْصِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا  
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَنْ نُعِِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا  
يَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  
مُبِينٌ ﴿۱۹﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۰﴾

یوان اوس کرند۔ اِصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اِثْرُوْا تَهْ اَتْمَسْ اِنْدَرْ يَتَّهْ تَوْهَبْ اِنْكَارِ اَسْوَهْ كِرَانِ الْيَوْمَ  
نَحْتُمْ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تَمَّهْ دَوَهْهْ كِرُوْا سْ مَوَهْرْ تَهْمَدِيْنَ  
چائین پیٹھ توپتہ کرن کتھ اَسْمَ سِيتْ تَهْمَدْ اَتَهْ۔ بے دن گواہی تہند کھور تین سارے کائین ہنزیمہ سَم  
کران اَسْ دِنِیَاسْ اِنْدَرْ۔ یہ عذاب سپدہ تَمْنِ اَخْرِ تَسْ اِنْدَرْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ  
فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ہر گاہ اَسْ یَضَّھْ ہو دِنِیَاسْے مَنْزِ دَمَہْ ہو اَسْ تَمْنِ تَهْرْ کِ سَزَا۔ گاشہ رُوَسْتُوْیْ کرہ ہو کھ اچھ  
تہزہ۔ اچھی تھادہ ہو کھ نہ تَمَّہ۔ توپتہ تَهْمَنْ تَمَّ وَتَهْ کُنْ پُکْنِ نہ دُوْرُن۔ سوکتہ سنالیہ ہتھ و تھ بوزنہ۔ اچھو  
دراے یا اچھن ہندہ گاشہ دراے وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ  
اَمَّہْ خُوْتَهْ زِیَادَہْ بے ہر گاہ اَسْ یَضَّھْ ہو تَهْرْ کَسْ سَزَآءِ سْ مَنْزِ تَمْنِ مَسْخْ صَوْرَتْ کرین ضروریکہ ہو کھ مَسْخْ  
صَوْرَتْ کَمْرْ تھ۔ یَتَهْ نَسْ اَسْنِ تَتَهْ نَسْ گَوَهْ نِ رُوْزِ تھ۔ پَسْ بَیْکَہْ نِ نہ بروٹھ پتھ نہ پوت پھیر تھ۔  
مَسْخْ صَوْرَتِ سِيتْ سپدہ، تَجَّھْ تُوْکُوْر۔ اَکَّسْ جَلِیْہْ گَوَھْ نِ رُوْزِ تھ۔ یہ گَوَھْ نہ کَیْنِہْہْ عَجَابِہْ زَانْ کِیَا زَہْ  
اِنْجْ اَکھ نظیر ہتھ موجود وَمَنْ نُعِِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بے نَسْ تَخْصِصْ اَسْ زِیَادَہْ عُمْرْ جَھْہِ  
دُوَانِ تَسْ چھ اَسْ صَوْرَتِ سْ مَنْزِ تَبْدِیْلِ کران۔ کِیَاہِہْ حَالَتْ وَچھت تہ چھنا تَمْنِ فِکْرَہْ تِرَانِ وَمَا  
عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ سَمَّ کَافِرْ، یَمْ نَبُوْتِ سْ اِنْكَارِ کرندہ خاطر حضرت  
مُحَمَّدِ سَلَّمَ شَاعِرْ دُوَانِ جَھْہِ یہ تہند دن چھ محض باطل، کِیَا زَہْ اَسْ پَھْنا وَنَمَّہْ حضرت مُحَمَّدِ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَذَلَّلْنَا لَهُم فِئَمًا مِّنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
 وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ  
 يُبْصَرُونَ ﴿۴۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۴۵﴾ فَلَا

بآ تھ وٹن۔ نہ چھ تھندس شانس سزاوار کیا زہ تم چھہ اعلیٰ درجہ تھق۔ مضامین شعر یک بنا چھہ  
 محض تخملاً تن پیٹھ آسان۔ یمن دون کھن منز چھہ کافی تانی تہ تافض یہ تم بیان کران چھہ تہ چھنہ مگر  
 نصیحک کلام۔ بیہ احکام الہی سنہ راہون قرآن مجید لَیْسَ مِنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِ الْقَوْلَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ  
 یٹھ تم بیم گرن تن شخص تم سندا دل زندہ آسہ۔ بیہ یٹھ کافرن پیٹھ عذائے نبی تحت قاسم سپدہ۔ تمن  
 بیہ ونہ باجودایں کہ خے بوزوسان احکام مگر بوزتھ کتر وانکار اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيَنَا أَنْعَامًا  
 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیاہ تمو مشرک لو کو کتر نا یٹھ ٹن نظر کہ آسہ کور تھندہ فایدہ تہ نفعہ خاطرہ پنہ نیو اتھو  
 سیت بناوے متوجیہر و آندرہ چارواے پاوہ۔ چنانچہ سان مالک بناونہ سیت بنائے تم تمن چاروا لکن ہند  
 مالک وَذَلَّلْنَا لَهُم فِئَمًا مِّنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بیہ کتر آسہ تم چارو آے رام تہ مسخر تھندہ خیطرہ۔ پس  
 چھہ تمو آندرہ اڈین پیٹھ سوار سپدان بیہ چھہ تمو آندرہ اڈین تم کھیوان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ  
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ بیہ چھہ تھندہ خاطرہ تمن چاروا این منز واریاہ فایدہ بیہ دوو چنہ چہ جاہ۔ کیاہ اتھ پیٹھ تہ  
 کرن تا تم شکر گزار می سان یٹھ منز ساروے چیز و آندرہ اہم تر اقدام اوس توحید قبول کرن۔ مگر تمو  
 کور شکرہ تہ توحیدہ چہ جاہہ ٹھر تہ شرک اختیار وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُبْصَرُونَ بیہ یہ  
 مہر بانیہ عطا کتر تھ ٹھر او تمو معبود برحقس ورائے اپز معبود۔ یٹھ دوو میز پیٹھ کہ دیوہ تمن معبودان  
 باطلن ہندہ طرفہ واتہ کا نہ مدواہ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ مگر تم بیکن نہ تمن ٹنہ قسمہ مدد کتر تھ۔ مدد کرہ  
 نچ کیاہ تھ چھہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ حالانکہ تم تہ یمن ٹھند فون یٹھ یجہ وٹہ جبر حاضر کرن۔ تو پتہ  
 کرن تھنزے مخالفت تمن خلاف دن بیان دیکھ نہ آسونہ آسہ عبادت کران۔ دون یلہ تم لوکھ تمن

يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿۱۰﴾ اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ  
 اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ  
 نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۱۲﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي  
 اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ

واضح ہے صاف امور ان خلاف کران چھہ فلا یخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ پس منہ حض  
 کمران غمگین تو بہ یار رسول اللہ حمزہ کتھہ توحید و رسالت متعلق۔ کیا زہ آزدگی چھہ سپدان امیر ہنزہ  
 جلیہ۔ دو میز ہنزہ جلیہ چھہ آسان سے مخاطب کس عقل و انصاف آسہ۔ ہم لو کہ چھہ غبی۔ لہذا چھہ  
 تمن عقل۔ بیہ چھہ تمن لو کن غبار لہذا معاندس نشہ انصافک توقع تھا ون چھہ غلط۔ لہذا چھہ تم محل  
 امیدے۔ تھہ کن نظر کمر تھہ چھہ غم کھیٹک تہ کا نہہ موئے۔ بے شک اس چھہ زانان تہ سورے یہ تم  
 کھٹھہ کران چھہ دن اندر۔ بیہ یہ ظاہر کران چھہ تم زیو و سیت۔ وقت و اتن تمن بیہ تمہ ساتھ پور سزا دنہ  
 اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بیہ و چھنا ام انسان کس مرنہ پتہ۔ بیہ پیدہ سپدنس  
 انکار چھہ کران کہ آسہ کورسہ پادہ آکس حقیر آہ قطر س۔ لازم او س تس انسانس ہنن یہ ابتدائی حالت  
 ژیتیس پاو تھہ انہ ہاسہ زیر نظر ہنن حقارت تہ پنہ نس خالقہ سبز عظمت تو پتہ کرہ ہاسہ جزأت انکار کرہ  
 ٹک۔ نہ کرہ ہاگتانی اتھہ پیٹھہ اعتراض کرہ ٹک۔ شرمندہ گی سیت گلہ ہاندر اندری بیہ کرہ پایانے پنہ  
 نس اتھہ حالس پیٹھہ نظر کمر تھہ مرنہ پتہ زندہ سپدنس اقرار تہ پڑھ۔ تہ کورن نہ بلجہ لوگ نن پاٹھہ  
 اعتراض گرنہ۔ بلکہ کورن آسہ سیت مقابلہ کمر تھہ قیاس انکار وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ  
 يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بیہ لگ بیان کرہ سانس شانس منز عجیب عجیب مثالہ سمہ سیت انکار قدرت  
 چھہ لازم یوان۔ ہنن اصلیت گمیس بخندے۔ یاد رودس نہ۔ حقیر قطرہ آتھہ بنو آسہ انسان۔ یوہے چھہ  
 دپان، کوہ بیہ زندہ کمر تھہ دودرے مڑہ اڈے جہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  
 تھہ فرمایوس یار رسول اللہ تمن دودرے مرنہ اڈجن گہ زندہ سنی ذات پاک۔ تم ہم پادہ کرہ گوڈنچہ لہ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۰﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي  
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ  
 الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾  
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

یلہ نہ یہ کنھی اوس یلہ یہ حیاتہ نشہ سیمٹھاہ دور اوس۔ وون چھہ ام کہ لئہ حیات وز ندگی قبول کورنت۔  
 وون پادہ کرن کیاہ عجائب چھہ۔ سہ چھہ پرستہ طریقہ پادہ کرن پور زمان۔ ابتداء تہ۔ دوبارہ تہ۔ تس نشہ  
 چھہ کنھی مشکل لِذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ سہ گوئے قدرتہ  
 وول بس ٹھمدہ خاطرہ سبز اسبز کلہ منزہ نار چھہ پادہ کران۔ ادہ چھوہ تہہ تمہ سیت تھک دوان تہ ہرہ  
 ہیوان۔ چنانچہ کلیو منزہ چھہ بعضہ کل سمن ہنزہ کہ چہ ستے پس چہ گھہر دتھہ نار چھہ نیران۔ اَوَلَيْسَ  
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ سہ ذات پاک تم آسمان تہ زمین تم بڈ  
 مخلوقات پادہ کمر چھٹا قدرتہ وول سہ کیاہ کرہ انسانس ہوس لوکس مخلوقس دوبارہ بیہ پادہ بلی  
 وَهُوَ الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ البتہ سہ چھو بوڈ پادہ کرہ وون پادہ کرن پور زمان إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  
 كُنْ فَيَكُونُ ٹھمز قدرت چھہ تہہ کہ یلہ سہ ارادہ چھہ کران ٹھہ چیز کہ پادہ کرہ نگ۔ سہ چھہ دپان  
 تہہ چیزس سپد پادہ۔ اتی چھہ سہ چیز پادہ سپدان۔ تس نشہ کوسہ تھہ چھہ وون مشکل فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ  
 مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اترھو کھو سیت سپد نکاہت کہ سہ معبود چھو منزہ تہ پاک تم سندس  
 اٹھس منز سارنے چیزن ہند اختیار چھہ۔ سہ چھتہ کئہ چیزس اندر کئہ قسمہ عاجز۔ ٹہہ ساری بیوٹس گن  
 پتولا کہ قیامتک دوہ و اتاوند۔



## سُورَةُ الصَّافَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالصَّفَاتِ صَفًّا ۱ ۱ فَالزُّجُرِثُ زُجْرًا ۲ ۲ فَالتَّلْبِيتِ ذِكْرًا ۳ ۳  
 إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۴ ۴ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ  
 الْمَشَارِقِ ۵ ۵ إِذَا زَيَّتْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۶ ۶ وَحِفْظًا  
 مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ تَارِدٍ ۷ ۷ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَدِّفُونَ  
 مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ ۸ دُخُورًا ۹ ۹ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۱۰ ۱۰ إِلَّا مَنْ خَطِفَ

وَالصَّفَاتِ صَفًّا قسم چھہ تمن ملائکن ہند تم عبادت کریمہ وقتہ یا احکام الہی بوزیمہ وقتہ صف دی دی  
 چھہ ایستادہ روزان فَالزُّجُرِثُ زُجْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند نیم زوتہ ونین تارکن ہندہ ذریعہ  
 آسمانی خبرہ اندہ نین شیطان گرنزہ لارکران چھہ فَالتَّلْبِيتِ ذِكْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند نیم یاد  
 خدا تسبیح و تقدیس ہران چھہ۔ ہم تریہ قسم چھہس بہ ہاوان چھہ کتھ پیٹھ کہہ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ بے شک  
 تہند معبود چھہ اکوے رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ کج دلیل چھہ یکنے کہ سہ چھہ  
 پروردگار آسمان تہ زمین ہند۔ بیہ تمہہ سارے یہ آسمان تہ زمین درمیان چھہ۔ بیہ چھہ سہ پروردگار  
 تمن سارے جانن ہند تمن جانن ساری ستارہ طلوع کران چھہ إِذَا زَيَّتْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ پز  
 پاٹھ اسہ ڈیت زینت تہ اسی کر آرائیش چھہ آسمانس ستارن ہندہ سیت وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ تَارِدٍ  
 بیہ کتر حفاظت تہ آچھہ سمویہ تاروسیت آسمانی خبرن پر چھہ سرکش تہ شریر شیطانس نشہ لَا يَسْتَمِعُونَ  
 إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَدِّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ \* دُخُورًا چنانچہ نمی موکھ چھہ تم شیطان ہیکان نہ گن دتھ  
 ملاء اعلیٰ اس یعنی ملائکن ہنزن مجلس۔ بلکہ چھہ ہز تھ یوان دنہ تم پر چھہ طرفہ۔ دکہ دی دی چھہ تم

الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ۱۰ فَاسْتَفْتِيَهُمْ أَهْمُ أَسَدٌ خَلَقَا مَرَّ  
 مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۱۱ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۱۲  
 وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْأَيْدِي كُرُوفًا ۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۱۴ وَقَالُوا لَئِن  
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۱۵ إِذْ أَمْتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ۱۶

دور یوان کرنے۔ یہ گو تو تین دنیاءس اندر سزا وَاَلَمْ عَنَّا وَاصِبٌ بیہ چھ تہندہ خاطرہ آخر تیس اندر  
 ہمیشہ گی ہند عذاب نار جہنم س اندر اَلَا مَنْ خَطَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ مگرے کانہہ شیطانہ  
 تھے تھوسہ کانہہ خبراہ بیتہ ژلان چھ۔ تیس چھ پنے لار ان کہ نارہ ریاہ اکہ زوتہ ون تہ پرزلہ ون۔  
 سوے چھ تیس گالان فَاسْتَفْتِيَهُمْ أَهْمُ أَسَدٌ خَلَقَا مَرَّ مِّنْ خَلْقِنَا تھے پر ژھو تین مگر ن یار رسول اللہ ایم  
 انکار چھہ کران قیاس تہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپد نس، تم لاجواب گریچہ طریقہ کہ کیاہ تم پادہ کرن چھا  
 سخت کنہ تم مخلوق تم آسہ پادہ کمر، تمن ہنز ذکر کرنہ آسہ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ تم لوکھ چھہ آسہ  
 پادہ کمر منبت لار تھ گزھہ ونہ تہ پشاجہ میزہ۔ تھ نہ کانہہ قوتھاہ تہ طاقتھاہ چھہ نس یلہ آسہ طاقت تہ  
 قدرت چھہ ابتداء قوی تہ سخت مخلوقات پادہ کرہ نس پیٹھ، ضعیف تہ سست مخلوقات بیہ دوبارہ پادہ  
 کرن کیاہ مشکل چھہ آسہ نشہ۔ مگر باوجود اژھہ واضح دلیلہ بیان کرتھ تہ چھہ تم لوکھ مرنہ پتہ بیہ زندہ  
 سپد نس پڑھہ گران بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ تھے چھوہ بلکہ بیہندس حاسل پیٹھ تعجب کران کہ تمن کونہ

چھہ بیہ صاف تھہ فخرہ تران۔ تم چھہ انکار گریچہ علاوہ تہزن کنھن پیٹھ تمسخر تہ ٹھٹھہ کران وَاِذَا  
 ذُكِرُوا بِالْأَيْدِي كُرُوفًا یلہ تمن فخرہ یوان چھہ تارنہ، فہمائش تہ نصیحت چھہ یوان کرنہ تمن چھہ کنہ قسمہ  
 فخرہ تران وَاِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ بیہ یلہ وہجان چھہ تم کانہہ مگر اہ نس تمن ثبوت نبوت خاطرہ  
 ہاونہ یوان چھہ تھہ چھہ ٹھٹھہ تہ تمسخر کران وَقَالُوا لَئِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ چھہ دپان بیہ معجزہ چھہ صاف  
 جود تہ سحر اِذْ أَمْتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ کیاہ سنایلہ آسہ مرو تہ میزہ گزھہ اؤجے یاثرہ روزو  
 توپتہ سمو اس دوبارہ زندہ کمر تھہ تھو دتکنہ اَوَايَاتُنَا الْاَوَّلُونَ کیاہ سان بروٹھم مال بڈ بب تہ بیہ

أَوْ آبَاؤَنَا الْأَوَّلُونَ ﴿۱۴﴾ قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دُخْرُونَ ﴿۱۵﴾ فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ  
 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا يَا بُولَيَّا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۷﴾ هَذَا  
 يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۱۸﴾ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۱۹﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى  
 صِرَاطِ الْحَيْمِ ﴿۲۰﴾ وَفَعَوْهُمْ إِنْ هُمْ مُسْتَسْئِلُونَ ﴿۲۱﴾ مَا لَكُمْ لَاتَّخَاوُونَ ﴿۲۲﴾ بَلْ  
 هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿۲۳﴾ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۴﴾  
 قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۲۵﴾ قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾

یہ زندہ کرنے قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دُخْرُونَ تمہے فرمائیو کہ یا رسول اللہ اوہ تمہے چہ ضروریہ زندہ کرنے۔ یہ  
 سپد تمہے ذیل سے خوار فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ قیامت چہنہ مگر گنی کریکھاہ۔ یاں سو کریکھ  
 گڑھہ آتی نیرن لوکھ زندہ گڑھتھ قبر ومنزہ تو پتہ لگن حیران سپد تھ وچہنہ وَقَالُوا يَا بُولَيَّا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ  
 یہ دین افسوس سانہ خاطرہ اوہو، یہ چہہ جزاءک دودہ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ونسہ پتہکھ  
 اوہ یوہے کیاہ گو فیصلک سہ دودہ پتہ تھے انکار کران آسوہ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \*  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَيْمِ حکم سپدہ ملکا۔ یکن کہ سونہر آویو کہ تم لوکھ سمو نظم کور پان  
 پانس شر کہ سیت، یہہ تمہد تابع تہ ہیر وہیہ تہند مجبودان باطل بہنہز تم عبادت کران آس مجبود بر حقس  
 ورآئے یعنی شیطان تہ پوتل تو پتہ ہاویو کہ چہنہ سچ و تھ یعنی وابتاویو کہ جہنم آندر وَفَعَوْهُمْ إِنْ هُمْ  
 مُسْتَسْئِلُونَ سردست ٹھہر آویو کہہ تم دودھہ ذہہ تھاویو کہہ تم تمہن چہہ کینہہہ پر ژھن مَا لَكُمْ لَاتَّخَاوُونَ  
 دپنہ پتہکھ توہیہ کیاہ گووہ، تمہہ چھوہ نہ اکھ آگس مدد کران بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آسن تم تمہہ  
 دودہہ اکھ آگس ٹھولہ دودہو نے تہ اکھ آگس نشہ بے توجہ سپد ہونے وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ تو  
 پتہ پھیرن تم آڈے اڈین گن۔ اکھ آگس گن متوجہ سپد تہ گرن سوال و جواب قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا



وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۱﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا  
 قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ لَذٰبِقُوْنَ ﴿۳۲﴾ فَاَعْوَبْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا حٰوِيْنَ ﴿۳۳﴾ فَاِنَّهُمْ  
 يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّا كُنَّا لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۵﴾  
 اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقْبَلْتُمْ لَهْمَ لَالِهَ الْاِلٰهَةِ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيَقُولُوْنَ  
 اِنَّا لَتَارِكُوْا الْهَيْتٰنِ الشَّاعِرِ مَجْنُوْنٍ ﴿۳۷﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ  
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّكُمْ لَذٰبِقُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۳۹﴾ وَمَا تَجْزَوْنَ الْاِمَا

عَنِ الْيَمِيْنِ چنانچہ تابع دین متبوع عن اُس کمرے وہ تو ہی گمراہ۔ کیا زہنہ آسوہ اسہ نشہ زبردستی سان  
 ڈالنے یوان۔ اسہ پیٹھ آسوہ دباؤتہ زور تر آو تھ اسہ گمراہ کران قَالُوْا بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِيْنَ تم متبوعین  
 دیکھ سون زور اوس نہ توہم پیٹھ کینہہ تہ۔ بلکہ آسوہ نہ نہی پانہ ایمان نہ دن وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ  
 بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ بے اوس نہ توہم پیٹھ سون کانہہ زور تہ جبر۔ بلکہ آسوہ تہی پانہ سرکش توہاہ فَحَقَّ  
 عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّكَ لَذٰبِقُوْنَ معلوم چھہ سپان کہ اُس ساری اُس ازلی محروم ایمانہ نشہ۔ تہی سپز اسہ  
 پیٹھ ازلی تھہ محقق تھہ گن نظر کمر تھہ چھہ اسہ سارنے عذابک مزہ ضرور ژہنن فَاَعْوَبْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا حٰوِيْنَ  
 اسہ ڈال وہ نہہ۔ اُس اُس پانہ تہ ڈع لمتے راہ راستہ نشہ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ کس اُس تم  
 ساری تمہہ دوہہ عذابس اندر شریک اِنَّا كُنَّا لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ اُس چھہ نافرمان جرم کارن سیت یوہ  
 ہے سلوک کران اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقْبَلْتُمْ لَهْمَ لَالِهَ الْاِلٰهَةِ يَسْتَكْبِرُوْنَ ہم گے تھے تمن نہ توحید چ پڑھ  
 اُس نہ رسالت۔ ونہ اوس یوان تمن دنیاس اندر ہنر ولالہ الا اللہ۔ تورہ آسے سرکشی تہ تکبر کران  
 وَيَقُولُوْنَ اِنَّا لَتَارِكُوْا الْهَيْتٰنِ الشَّاعِرِ مَجْنُوْنٍ دپان اُس کیاہ اُس ترا وکھ پنے معبود اُس شاعر س تہ  
 دیوانس اک سندہ ونہہ موجب۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان یہ پیغمبر برحق نہ چھہ شاعر تہ نہ چھہ دیوانہ بَلْ  
 جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ بلکہ چھہ پیغمبر برحق آؤسہ تمن نشہ پوزدین بیتھ۔ بے چھہ سہ  
 بروٹھمن پیغمبر تہ تصدیق تہ تائید کران اِنَّكُمْ لَذٰبِقُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ اے مشرکوتہ کافر توہم

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ الْإِعْبَادَ لِلَّهِ الْبُخْلِصِينَ ﴿۳۲﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ  
 مَّعْلُومٌ ﴿۳۳﴾ قَوَائِكُمْ ۚ وَهُمْ يُكْرَمُونَ ﴿۳۴﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۵﴾ عَلَى سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ ﴿۳۶﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۳۷﴾ بَيضَاءَ لَدَانَةٍ  
 لِلشَّرِيبِينَ ﴿۳۸﴾ لَأَفِيهَا عَوَلٌ ۖ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿۳۹﴾ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ  
 الطَّرْفِ عِينٌ ﴿۴۰﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مِّسْكُونٌ ﴿۴۱﴾ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سارنے یعنی تابعین سے متبوعین سے چھ دگ تلوہ ونہ عذابک ضرور مزہ ڈھن و ما تجزؤن الا انما کنتم  
 تعملون اتھ منزہتھ توہہ پیٹھ کا نہ ظلم کیا زہ توہہ بیہ نہ سزا دہہ مگر تم نے کاین ہند یہ تہہ کران آسہ  
 الاعباد اللہ البخلصین مگر چھہ محفوظ عذابہ نشہ پروردگارہ سند خاص کرنہ آمت، ڈار نہ آمت نہ  
 شرکہ نشہ صاف و پاک کرنہ آمت بندہ۔ مراد چھہ تمو اندرہ اہل ایمان۔ تمو کمر پزنج پیروی۔ اللہ  
 تعالیٰ ان کمر تم مقبول نہ مخصوص بندہ اُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ لہذا چھہ تہدہ خاطرہ سے رزق تیار  
 تھا ونہ آمت سمیک حال قرآن مجیدہ کین بن سوزن اندر معلوم چھہ سُد مُت قَوَائِكُمْ وَهُمْ يُكْرَمُونَ  
 یعنی کم کم میوہ بیہ بیہ تمن سیٹھاہ عزت کرنہ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ نعمون ہندین باغن اندر علی سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ تختن پیٹھ آسن رو بروا کہ آس کن بٹھ کمر تہہ بہتہ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ پھرہ  
 ناوندہ بن تمن نشہ پیالہ ہم پکہ ونہ تہ جاری شراب طہورہ سیت بز تہہ آسن۔ بَيضَاءَ لَدَانَةٍ لِلشَّرِيبِينَ سنی  
 شراب آسہ سفید، صاف و شفاف۔ لیس چنیں اندر چینہ والین سیٹھاہ لذیذ معلوم آسہ سپدان لَأَفِيهَا  
 عَوَلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ آسہ تہہ شرابس منز کلہ دودتہ نہ بے ہوشی تہ نہ عقلہ ہند فتور وَعِنْدَهُمْ  
 قُصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ تمن نشہ آسن بیہ تہہ جورہ تم نہ پنہ نین مردن ور آے کانہہ کن آچھہ نلان  
 آسن۔ تم آچھہ آسکھ و پتھہ و پتھہ۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مِّسْكُونٌ تہہ جورہ آسن سفیدر آچھہ کرنہ آمت پھرہ  
 تنک ٹھول ہشہ۔ یعنی گردوغبارہ نشہ محفوظ۔ تو پتہ یلہ تم با ایمان آس جلس، مجمعس منز جمع آسن  
 فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کس پھیرنہ متوجہ سپدان اڈے اڈین کن تہ اکھ آس بن دنیاہ ک

يَتَسَاءَلُونَ ۝۵۰ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝۵۱ يَقُولُ  
 إِنَّكَ بَيْنَ الْمَصَدِّقِينَ ۝۵۲ إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  
 وَأَنَا الْكَافِرُونَ ۝۵۳ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ۝۵۴ فَاطَّلَمَ  
 فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝۵۵ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِيَنِ ۝۵۶  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ۝۵۷ أَفَبِأَنْحُنِ  
 بِبَيْتَيْنِ ۝۵۸ إِنْ أَلْمَوْتَنَّا الْأَوْلَىٰ وَمَا خُنُّ بِعَدِيبِينَ ۝۵۹ إِنْ

حالاتھ پر ژھنہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ تمو منزہ ونہ اکھ وَاَنْ وولاه زہہ دنياعس اندر اوس  
 ميہ اکھ ملاقاتيا، مُشْرِك سِي اوس ميہ بطور تعجب پر ژھان يَقُولُ إِنَّكَ بَيْنَ الْمَصَدِّقِينَ سہ اوس  
 دپان ميہ كياہ ژہ چھکھ چھکھ تھہ تصديق کران إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَأَنَا الْكَافِرُونَ اس يلبہ  
 مرو تو پتہ سہد و ميٹھرتہ اُدجہ تہ پتہ سموہ اُس بيہ زندہ کرنہ۔ كياہ تو پتہ بيا سہہ جزاوسز اوہنہ۔ سہ ميون  
 ملا قاتی اوس مر نہ پتہ بيہ زندہ سہدنس مُشْرِك سہ آسہ ضرور جہنمَس ووثمت۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ  
 اللہ تعالیٰ سہد ارشاد سہدہ کہ اے جہنميو كياہ تہہ چھونہ سہہ كافر و چھن يژھان اگر يژھان چھوہ توہہ چھوہ  
 تھيگ اجازت فَاطَّلَمَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ اتی ديبہ نظر سہہ جنتی، وچھہ تس مُشْرِك ملا قاتيس  
 جہنمَس منز باگ دزان قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِيَنِ دپيس قسم خدا ژيہ بيہو و تھس بہ تباہ کرن، ڈلہ  
 تر لون كھوہ ڈس منز۔ ژيہ بيہو و تھس بہ تہ قيامت مُشْرِك بنون۔ از آسہ ہابہ تہ ژے سيت عذابس گرفتار  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ہر گاہ نے ميانس پروردگارہ سز ميہ پيٹھ مہر آبی تہ فضل  
 آساہوہ تہ آساہوہ سيت عذابس گرفتار۔ مگر خداين كور ميہ پُن بوڈ فضل۔ بوہ تھووس صحیح اعتقادس  
 پيٹھ قائم۔ تو پتہ ونہ يہ جنتی پنہ نين اہل مجلسن كُنْ أَفَبِأَنْحُنِ بِبَيْتَيْنِ كياہ وون وچھنا اسے جنتی  
 مرہ و نين اندر زانہہ إِنْ أَلْمَوْتَنَّا الْأَوْلَىٰ مگر سہ مران نيس برونٹھ کہ پھر دنياعس اندر لہنہ آو۔ وَا  
 خُنُّ بِعَدِيبِينَ بيہ بيہ نہ آسہ عذاب تہ کرنہ زانہہ إِنْ هَذَا لَهُمْ الْقُوْر الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ چھہ فرماون

هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۳۷﴾ لِيُبْتَلِ هَذَا قَلْبِعَمَلِ الْعِبْلُونَ ﴿۳۸﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ ﴿۳۹﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۴۲﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا قَائِلُونَ ﴿۴۳﴾ وَمِنْهَا قَائِلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۴۵﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿۴۶﴾ إِنَّهُمْ أَقْوَابُ آبٍ مُّضَالِينَ ﴿۴۷﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

کہ جنس اندر و انتھ روحانی تہ جسمانی لغوہ حاصل سپدہ، بے شک بھنے کئی بڈر ستکاری لیبتل ہذا قَلْبِعَمَلِ الْعِبْلُونَ یڑھی کامیابی خاطرہ گوشہ عمل کرہ و نین ہنز عمل کرن، ایمان اُن تہ اطاعت کرن اذَلِکَ خَیْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ یہ جنت تہ سمہ جلتیہ لغوہ چھا بہتر دعوتہ کن با ایمان ہندہ خاطرہ کہ نہ زقومک کل سمیک میوہ میوہ تہ پھسکہ لہ چھہ کافر ن ہندہ خاطرہ اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ بے شک آسہ کورسہ زقومک کل آخرتس اندر عذابک ذریعہ بناوچہ علاوہ ظالم ن ہندہ خاطرہ امتحانک تہ آزمایشہ ہند سبب کہ سہ کل بوزت کرنہ سم تھہ پڑھ کہہ انکار تہ استہزاء۔ چنانچہ تموکلا فرود کور استہزاء، تہ انکارے۔ دہنہ لگ کہ کتہ چھہ بوزمت از تاں نارس اندر کل آسُن۔ اللہ تعالیٰ بھجک فرماوان اِنَّا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ سوچھہ اکھ کلاہ نُس کھوئمت چھہ جھمنہ کہہ کُرمہ تلمہ نارہ منزے نازک کل کھوئمت۔ ہتھہ پآٹھ دنیاءس اندر نارس اندر کہہ خاص قسمک لگر پآدہ سپدان تہ نوان چھہ تم ن لگرن چھہ ”سمندروان“ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيْطَانِ تمیک پھل تہ میوہ آسہ سرفہ کلہ ہی بد شکل تمی سیت پیہہ کرنہ ظالم ن ہنز دعوتہ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا قَائِلُونَ وَمِنْهَا قَائِلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ بوچھہ سیت یلہ بے تاب آسُن سپدان پس آسُن تم یوہے پھل کھیوان۔ تمی سیت آسُن یڈ بران ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ توپتہ یلہ تریش آسیکھ لگان تم آسُن تھہ پیڈہ بلہ نانہ آمز سر سخت تیز گرم آب ہتھہ سیت پال تہ پا کہہ ملہ نانہ آسٹ آسہ تریشہ بدل چاوند یوان ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ توپتہ آسہ

يُهْرَعُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۳﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۴﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ  
 فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۴۵﴾ وَجَجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۶﴾  
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۴۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۴۸﴾  
 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۰﴾

سمن بیہ و اہل سن نارِ جہنم منز۔ یعنی تمت روزن بدستور۔ یہ بیٹھ عذاب کیا زہ سنا بیچھ کرنے۔ تم کیا  
 آس نہ خدایہ سندہ ہدایہ موجب پکان بلکہ اِنَّهُمْ الْفَوَاہِیاءُ هُمْ ضَالِّینَ تم لو بے یمن مال بد بے  
 ذلت فہم علیٰ اِثْرِهِمْ یُهْرَعُونَ کس آس تم تہ تمنے پتہ پتہ آچھ و بیٹھ دوران سمن آتہ وقتہ کین کافرن  
 برو بیٹھ تہ و لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ بے شک ذلت آس برو بیٹھو آندرہ اکثر لو کہ و لَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ تو پتہ سوز آسہ تمن منز بیم گرہ ون پیغمبر فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُنْذِرِينَ کس و چھ زہ تمن بیم تمن کرنے آستین ہند انجام کیا ہ پد۔ کتھ پاٹھ گئے تم عذابس گرفتار  
 کس عذاب تمن پیٹھ دنیا سے منز کرنے آوُ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ مگر بچائے تمہ عذاب دنیوی نہ  
 اللہ تعالیٰ سند خاص گر نہ آمت بندہ و لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تقہیق بیہ کور آسہ نعمہ فریاد  
 نوح علیہ السلام یاری تہ مدتہ خاطرہ۔ یعنی دُعَا مَوجَّہ۔ کس کمر آسہ تمن فریاد سی کیا زہ آسہ ہجھ رث  
 فریاد سی کرہ ون وَجَجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو پتہ ذیت آسہ نجات تس بیہ تہمدین تابعین جہ  
 پریشانی تہ غمہ نعمہ یعنی کافرن ہندہ ایذاء و تکلیفہ نعمہ۔ بیہ انکار تکذیبہ نعمہ۔ طوفانہ سیت کمر تم کافر  
 غرق۔ تمن تہ تہمدین تابعین ذیت نجات وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ تو پتہ کمر آسہ تہمز ذریت پتہ  
 کُن باقی روزہ ون۔ بیہ کانسہ ہند نسل رود نہ پتھ کُن باقی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آسہ تھو تھمدہ ذر کزیم  
 پتہ یوہ نین منز وار بیس کالس تان سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ پر بیٹھ طرفہ آسہ لو کُن ہنزن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرُسِينَ ﴿۸۲﴾  
 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ ﴿۸۳﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۴﴾  
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۵﴾ إِنِّي كُنَّا لِلَّهِ حَدِيثًا  
 غَدِيرًا ﴿۸۶﴾ وَأَبِيهِ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ حَظَّ عَلَيْهِ ﴿۸۷﴾  
 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرُسِينَ ﴿۸۸﴾ فَظَنَّنَا أَنَّهُمْ يُخْفُونَ  
 الْغَيْبَ مِنَّا فَاغْتَبَّوهُمْ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغُوا إِلَى اللَّهِ يُهْتَمُّ

زیون پیٹھیہ کتھ جاری کہ سلامتی بوین حضرت نوحس عالین منز۔ خدا کثر ان کہ تم تمام جن انسان تہ ملا یک روزن تمن پیٹھیہ سلام سوزان اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اُسے چھہ تھئے عوض نیکو کارن دوان اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سہ نوح علیہ السلام چھہ سانیو با ایمان بند و آندرہ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرُسِينَ تُو پتہ پھا تواسہ باقی ساری لوکھ سموتہنز نا فرمائی کتر۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ بیہ چھہ بے شک نوح علیہ السلام سزہ وتہ یکہ و نیو آندرہ۔ تمن سیت اصولن اندر اتفاق کرہ و نیو آندرہ ابراہیم علیہ السلام تہ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ تھند قصہ تہ چھہ قابل ذکر۔ یلہ سہ پنہ نس پروردگار س گن متوجہ سپد صاف دلہ سیت نُس بچھہ شرکی اعتقادوتہ ریاء لشرہ پاک اوس تھہ منز خالص توحید تہ کامل اخلاص موجود اوس إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ یلہ سموتہنز نُس مالس بیہ پنہ نس قومس دوپ یم بت پرست آس کہ تہہ کتھ و اہیات چیزس چھوہ پرستش کران اِنِّي كُنَّا لِلَّهِ حَدِيثًا غَدِيرًا کیاہ اپزین مہزہ یں باطل معبودن چھوہ تہہ معبود بناؤن یژھان معبود برحقس ور آے فَمَا ظَنَّنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تھند کیاہ خیال چھہ رب العالمینس متعلق۔ توبہ ہے چھوہ تہس عبادت کرن تراثر توبہیہ چھا تھندس معبود آسئس منز کا نہہ شک۔ سہ شک کتر و دور۔ امی قسمگ بحث و مباحثہ اوس تمن منز آسان۔ اکہ وقتہ دوت تمن اکہ میلک تہ عرسک موقہ۔ تمولوگووون تمن کہ تہہ تہ سپد و نا تھہ سانس میلکس منز شامل۔ تھند غرض اوس کہ تمن پیٹھیہ پیہ مالہ کہ شان و شوکتک اثر فَظَنَّنَا أَنَّهُمْ يُخْفُونَ الْغَيْبَ مِنَّا فَاغْتَبَّوهُمْ توپتہ دژاکھ نظر اہ ابراہیم علیہ السلامن ستازن گن فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ توپتہ دوکھ بہ چھس بیمار لہذا ہیچنہ بہ میلکس تھندس شامل

فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۱۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ  
 ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۱۳﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۱۴﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا  
 تَشْحَبُونَ ﴿۱۵﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا  
 فَأَلْفُوهُ فِي الْبَحْرِ ﴿۱۷﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۱۸﴾

سپد تھ۔ یہ ہند ارادہ اوس کہ تم گڑھن تہ میہ یہیہ موقعہ تہندین پوتلین مسما کرہ ٹک۔ تمی موکھ کو رکھ  
 حیلہ ستارن گن وژکھ نظر۔ تمن لوکن اوس ستارن ہند اعتقاد۔ تمہ موکھ ہیوک نہ تمو کینہہ جواب  
 وبتھ۔ یہ ہند غرض اوس حضرت خالق حقیقی سز کمال عظمت مستحضر کرن فتو لواعنہ مدیرین تو  
 پتہ گے تم لوکھ تمن تے تر آوتھہ پنہ کامہ گن قَرَاغَ إِلَى الْيَمِينِ تو پتہ ژاوا ابراہیم علیہ السلام تہندس  
 بت خاس منز پوتلین نشہ تمن نشہ وچھکھ واریاہ کھینہ چینک چیز لو کو تھنومت فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ  
 پوتلین گن دوچھہ ٹہہ کیا زہ چھوہ نہ تم چیز کھیوان۔ یلہ نہ تمو تورہ کینہہ تہ جواب دوچھہ مَا لَكُمْ لَا  
 تَنْطِقُونَ توہہ کیاہ گووہ تہہ چھوہ نہ کینہ کتھاہ کران قَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ تو پتہ ہیوچھہ تمن  
 دچھہ تھہ سیت زورہ لائن۔ یوتان تمن ٹیک کو رکھ مکڑہ سیت فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ تو پتہ آے تم  
 لوکھ وائس تمن گن دوران دوران بانبر سیت تہ ژکھ ہتھہ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَشْحَبُونَ ابراہیم علیہ  
 السلامن دوکھ اے لو کو کیاہ تہہ چھوہ پرستش کران تمنے چیزن ہنز تمنہ پائے پنہ نیوا تھوگران چھوکھ۔  
 ئیس چیز پانہ توہہ گن محتاج آہہ سے شو با خدا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حال اللہ تعالیٰ ان چھوہ تہہ  
 تہ بہیہ تم چیز تہہ بناوان چھوکھ تم تہ پادہ کثرت۔ تم گئے لاجواب۔ تمن پھورنہ کینہہ تہ قَالُوا ابْنُوا لَهُ  
 بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْبَحْرِ پانہ وان لگ تم دہنہ وون کثرت و تیار ام سدہ خاطرہ کو ندہ دش اکھ عمار تھہ۔  
 یٹھ منز زالونار۔ تو پتہ تر آویون سہ تھہ و زہ وئس نار س منزہ۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ پس  
 یٹھو تموا ابراہیم علیہ السلامن نسبت اکھ حیلہ گرن تکلیف و اتاوانگ مگر اسہ کثرت ذلیل تہ خوار۔ سہ نار  
 سپد سانہ حکمتہ سیت تمن پیٹھ گل تہ گلزار پنہ قومہ امہ ورتاؤہ سیت یلہ ابراہیم علیہ السلام تمن نشہ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدِينَ ﴿۱۱﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ  
 الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ  
 قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ  
 قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ  
 الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿۱۵﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ  
 قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶﴾

ما یوس سپد وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهِدِينَ تمودوپ وون کره یوسمه شهره رشمه هجرت۔ بوگوشه  
 پنہ نس پروردگار س رشمہ۔ سہ ہاوه میہ و تھ کنہ رزہ جلیہ کن۔ توتے گوشہ بہ۔ تمہ پتہ و استاوی تم اللہ  
 تعالیٰ ان شہر شامس منز۔ توت وکتھ کور تمودعا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ پدوردگار امیہ کرتہ  
 وون فرزندہ عطا نیکو کار واندہرہ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ توپتہ فرموواسہ تمہن بشارت اگس نرم مزاج  
 فرزندہ سزہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ اده یلہ سہ  
 فرزندہ ووت تمہن سیت اورہ یور پھیر پچہ عمرہ دوپ ہس اے فرزند میہ وچھ خواہس منز زن بہ ثیہ  
 کھش کران خدایہ سندہ لحمہ وونی وچھ تہ چانی راے کیاہ پچھہ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ  
 شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فرزندن دوگچھ اے میانہ بابہ صابہ تہہ کمر و حض سو کام تمیک توبہہ حکم  
 کرنہ آو۔ میون مہ بر واندیشہ کینہہ تہ۔ خدائے یوژھ میہ لبوتہہ صبر کرہ و نیواندہرہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ  
 لِلْجَبِينِ توپتہ یلہ تمودوشوے خدایہ سند حکم مون توپتہ سو و تموسہ فرزندن ذبح کرنہ خاطرہ پچھہ کنی تو  
 پتہ ہنوشہ کہ گردنہ شراکھ واینی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ  
 تان کوزاسہ آلو تمہن اے ابراہیم مرہبا۔ بے شک توبہہ ہوووه پین خواب عملاً پوز۔ وون چھہ اس حکم  
 کران وون تراویون اسماعیل علیہ السلام تمودووسہ۔ تہند زوپتو تمہ علاوہ سپد تمہن دوشونی مآل  
 پتھرن تھند مرتبہ حاصل۔ اس پچھہ تھہ کنہر ژمزوری ووان نیکو کارن إِنْ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِيْنَ



هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۳۷﴾ وَقَدْ يَنْهَ يَذْبَحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۶﴾  
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۳۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۳۹﴾ كَذَلِكَ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَبَشَّرْنَاهُ  
 بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ  
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۴۳﴾ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَجَعَلْنَاهَا قَوْمَهَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۴۵﴾  
 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۴۷﴾

بے شک تحقیق منزاوس یہ تہندہ خاطرہ اکھ بوڈ امتحان۔ ہتھ منز تم کامیاب سپد وَقَدْ يَنْهَ يَذْبَحٍ عَظِيمٍ  
 یہ دیت آسہ اکھ بوڈ جانورہ تمن بدلہ ذبح کرنے خاطرہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ تھو واسہ باقی پتہ  
 یوہ وئین ہندہ خاطرہ تہندہ ذکر خیر۔ تم آسن ونان سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سلام بوین حضرت ابراہیم  
 پیٹھ۔ چنانچہ ازتان جھہ تمن پتہ یوہ ون تہندہ نام مبارکہ پتہ ونان علیہ السلام کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
 ہتھ کندہ جھہ آس نیوکا رن مزور تہ صلہ ووان اِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک جھہ سہ سانبو ایمان  
 دار بند و آندرہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ یہ دژ آسہ بشارت تمن حضرت ائٹھ سنز۔ سہ تہ  
 آسہ پیغمبر نیوکا ر و آندرہ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ یہ کرہ اسہ تمن پیٹھ یہ اسحاق علیہ السلام پیٹھ  
 برکثہ نازل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ یہ کمر اسہ تہندہ ذریہ آندرہ بعضے نیوکا رتہ بعضے  
 تم یم جھہ عملو سببہ پنہ نس پانس تنن پاٹھ ظلم گرہ ون آس وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ پنز پاٹھ یہ  
 کمر آسہ احسان موسیٰ علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام پیٹھ وَجَعَلْنَاهَا قَوْمَهَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ  
 یہ دیت نجات آسہ تمن دو شون یہ تہندس قومس یعنی بنی اسرائیلن پڈہ غمہ اکھ نغیرہ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا  
 هُمُ الْغَالِبِينَ یہ کمر اسہ تمن یاری تہ مدد فر عونس مقابلہ۔ پس سپد تم تمی تس دشمنس پیٹھ غالب

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۱۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي  
 الْآخِرِينَ ﴿۱۱۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي  
 الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ  
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ أَتَدْعُونَ  
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۲۵﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  
 الْأُولَىٰ ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوهٗ فَانْتَهَمُ لَهُمُ الْحَضْرُونَ ﴿۱۲۷﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ  
 الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

وَأَيْنَهُمَا الْكِتَابُ الْمُسْتَقِيمَ \* وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. بیه کسر عطا آسہ تمن دوشونی واضح کتاب  
 بیه ہاو کہ تمن سزود تھہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. بیه تھو و تھنہدہ خاطرہ پتہ یوہ و نین منز و کبر  
 خیر۔ پتہ یوہ و ن ہجھہ و نان سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. سلام بوین حضرت موسیٰ آس تہ حضرت  
 ہاروس بیٹھہ اِنَّا كَذَلِك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آس ہجھہ بیٹھہ کنہ نیکو کارن مزوری عطا کران اِنَّهُمَا مِنْ  
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. تم تہ ہجھہ دوشوے سانیو ایمان دار بند و آندرہ وَاِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بیه ہجھہ  
 حضرت الیاس تہ بیٹھہ و آندرہ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ. یلہ تمودوپ قومس پنہ نس کیاہ تہہ ہجھہ  
 ناکھوژان خدائس۔ اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. کیاہ تہہ ہجھہ آگس پو تلس (نیس  
 ناوہجھہ بعل پرستش کران تہ ناودوان۔ ئس پروردگار ت پادہ کرہ و ن ہجھہ تس پرستش کرن ہجھہ  
 تراوان۔ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ. سوگو و معبود بر حق ئس تھند پروردگار تہ تھندین مالین بد  
 بنن بند ہروردگار ہجھہ فَكَذَّبُوهٗ فَانْتَهَمُ لَهُمُ الْحَضْرُونَ. تموتہ زون سہ اپز۔ پس ین تم تہ گر فاکر تھہ  
 عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دہہ اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ. مگر ین نہ رتنہ ژارنہ آمت بندہ  
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. بیه تھای آسہ باقی پتہ یوہ و نین اندر تھند ذکر خیر تم آس و نان سَلَّمَ عَلَىٰ

إِلْ يَاسِينَ ﴿۱۴﴾ إِنَّكَ ذَلِكِ بِجِزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّهُ مِنْ  
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷﴾  
 إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ  
 دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّمَا لَكُمْ لَمَمُونَ عَلَيْهِمْ مُصْحِحِينَ ﴿۲۱﴾ وَبِأَيْلٍ  
 أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۳﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى

إِلْ يَاسِينَ سلام بومین حضرت الیاس پیٹھہ إِنَّكَ ذَلِكِ بِجِزَى الْمُحْسِنِينَ پیٹھہ پانچواں حصہ آس نیکو  
 کارن رثمزوری عطا کران إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سہ حضرت الیاس تہ چھہ سانیو ایمان دار  
 بند و آندرہ وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ پز پانچھہ حضرت لوط تہ پیٹھہ باندہ آندرہ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  
 أَجْمَعِينَ یلہ آسہ تمن بیہ ٹھہندس سارسے عیاس نجات ڈیت۔ عذابہ نشہہ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ  
 مگر نہ تہمز، وزنانو، اہل بیتہ آندرہ آکس جہہ زنانہ۔ سوز تہتی عذابس منزوزن والین سیت۔ ثُمَّ دَمَرْنَا  
 الْآخَرِينَ تو پتہ کڈ آسہ باقی لوکن ہنز بخ۔ تم گال ساری تمن کور تلک پیٹھہ وَإِنَّمَا لَكُمْ لَمَمُونَ عَلَيْهِمْ  
 مُصْحِحِينَ \* وَبِأَيْلٍ أَفْلَا تَعْقِلُونَ تو پتہ چھوہ آئی مکہ کیولو کو تہمز، ہستہ یوکن محس یارات گیت پکان یلہ  
 ٹہہ شامس کن سفر کران چھوہ۔ کیاہ توہہ چھنا فکرہ تران نافرمان لوکن ہند انجام کیاہ چھہ سپد مت وَإِنَّ  
 يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ یونس علیہ السلام تہ بے شک پیٹھہ باندہ۔ ٹھہند تہمہ وقتک قصہ تہ چھہ  
 قابل ذکر۔ یلہ تمو پتہ نس قومس ایمان نہ انہ موکھ خدایہ سندہ حکمہ عذاب یتک وعدہ کور۔ تو پتہ درای  
 پانہ تہمہ شہہ نشہہ سمہ دوہتہ عذابگ وعدہ اوس تہمہ دوہتہ یلہ عذاب نازل سپدنگ آثار ہمتن سپدن قومن  
 ہیوت یونس علیہ السلام ژھاندن ایمان اہمہ ارادہ یلہ نہ یہ تم لیکھ کنہ تہ ساروے کور منھقہ طور رجوع  
 بخدا سیٹھاہ کھر کہگریہ وزاری۔ بیہ اوچھہ بصدق دل ایمان، بجمل پانچھی۔ چنانچہ عذاب در او پتہ۔ یونس  
 علیہ السلامس سپز امہ واقع خبر تم ور اے پتہ اجتمادہ سیت خدایہ سندہ صریح اجازتہ درائے تو پتہ کور کہ  
 ارادہ کنہ دور جاہہ گڑھہ نگ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ تو پتہ گئے ژلتھہ امہ جاہہ نشہہ۔ وات آکس  
 مسافر وسیت بڑ تھہ ناوہ پیٹھہ۔ تمن ہوو کہ اشارہ۔ تمورث ناوہ۔ تو پتہ سپد تم تھہ ناوہ منز سوار ہناہ کنہیہ۔

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۳۱﴾  
 فَالْتَمَتَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُيَلِّمٌ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۳۳﴾  
 لَلِيتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۴﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ  
 سَقِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۳۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

یقدم ووتھ سمندر س منز طوفان۔ ناوہ ہانزو و نمکھ آسہ منز چھہ کس تام نئس تازہ قصور وار چھہ۔ سہ شخص بیہ آسہ ناوہ نغمہ الگ کرن۔ اوہ ہمہ طوفان نتہ چھہ آسہ سار نے پھٹ نک خطرہ  
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ سہ قصوروار معین کرنہ خاطرہ ترا ویکھ چیرہ۔ چیرین  
 اندر دراو پونس علیہ السلامی خطاوار۔ توپتہ کور۔ تمو پئن پان دریاوس منز تراونہ خاطرہ پیش۔  
 دوپکھہ واقعی چھس بوی پنہ نئس آغس نغمہ بلا اجازت ژولت۔ تراوومیہ آبس اندر تمن اوس خیال  
 دریاوک کنارہ چھنہ زیادہ دور۔ یہ وایہ ژھاٹھ توپتہ کھسہ بکھس پیٹھ۔ چنانچہ تم آے تراونہ حسب  
 معمول دریاوس اندر۔ مگر تھتے تمو دریاوس اندروٹھ لائے۔ خدایہ سدہ لحمہ آہ اکھ گاڑا۔ تھی  
 کور تمن لقمہ تہ توپتہ نغمہ لاون۔ یک دم پچ ناؤ۔ فَالْتَمَتَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُيَلِّمٌ توپتہ نیگل تم اکھ گاڑہ  
 بیٹھ حائل کہ تم آس پانس سلامتھ کران پنہ نئس قصورس پیٹھ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کس نے  
 تم آسن تسبیح پرہ و نیو اندرہ یعنی نماز پرہ و نیو اندرہ۔ چنانچہ گاڑہ ہندس کرینہہ ماڑس پیٹھ ڈیت تمو سجدہ  
 تھہ منز پور کہ لا الہ الا انت سبحانک ائی کنت من الظالمین لَلِيتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  
 نتہ روزہ کن تم گاڑہ ہنزہ یڈ منز قیامت تانی۔ سمہ دوہہ لکھ قبر و منزہ کڈنہ یکن۔ تمو بیلیہ زیوہ سیت تسبیح  
 واستغفار پور ولہ سیت ندامت تہ توبہ کور قَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ توپتہ تراوی آسہ تم تمہ کی  
 برکتہ میدا نئس کن۔ بیٹھ منز نہ کانہ کلاہ سائیک کانہہ چیزاہ اوس بحالیجہ تم آس گاڑہ ہنز یڈ منز آب و  
 ہوا تہ ضروریات زندگی خاطر خواہ میتر نہ سپنہ موکھ۔ بیمار سپد مت وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ  
 بیہ کھور آسہ تمن نغمہ تاپہ نغمہ محفوظ روزنہ خاطرہ۔ مشادی اکھ کل۔ کیا زہ تمک و تھر چھہ بڈتہ کشادہ  
 آسان۔ بیہ واتنا و آسہ تمن نئس اکھ جنگلی ژھاو، یوسہ تمن دو درچاوان اس وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَائِدَةِ الْإِنْفِ

مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۵۲﴾ فَأَمَّنُوا فَمَنَّنَاهُمْ إِلَىٰ جِئِن ۖ ﴿۱۵۳﴾  
 فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شُهُودُونَ ﴿۱۵۵﴾ إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 وَكَذَّابُوا اللَّهَ وَرِثَهُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۵۷﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ ﴿۱۵۸﴾  
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۹﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶۰﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ  
 مُّبِينٌ ﴿۱۶۱﴾ فَآتُوا بَيِّنَاتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶۲﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ  
 وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۶۳﴾

اَوْ يَزِيدُونَ تو پتہ سوز اسہ تم پیغمبر اکھ لکھ خوتہ زیادہ لوکن کن سم شہر غنواء س منز آس بس شہر  
 موصلس قریب جھہ۔ یہند تعداد اکھ لکھ تہ ترہ ساس (۱۳۰,۰۰۰)۔ اوس فَأَمَّنُوا فَمَنَّنَاهُمْ إِلَىٰ جِئِن  
 تمولو کو اون ایمان گوڈہ آثار عذاب و جھتھ۔ ایمان مجمل تو پتہ تفصیلی ایمان۔ یلہ یونس علیہ السلام  
 واپس آئے تمن کن۔ بس تلہ ناواسہ تم تمنع، عیش کرہ ناوا ایمانجہ برکتہ اس مد تس تام یعنی یوت تان تم  
 زندہ رود فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ بس پر ژتھو تمن تم دیان جھہ ملائک جھہ خدایہ  
 سنزہ کورہ۔ کیاہ نہندس پروردگارہ سدہ خاطرہ گیا کورہ تہ تمن گئے پانس کتھ گبر۔ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شُهُودُونَ کنہ اسہ کرہ پادہ ملائک کورہ تمن تھی۔ تم آسیا تمن بناو جھہ وقتہ حاضر تہ موجود  
 تمن و جھان إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدِهِمْ لَيَقُولُونَ وارہ چھوہ بوزان، تم جھہ پنہ نیوا پرڈ کتھو منزہ یہ تہ اکھ کتھ  
 ونان کہ وَكَذَّابُوا اللَّهَ وَرِثَهُمُ الْكَذِبُونَ اللہ تعالیٰ اس زائے اولاد وراثتہم لکن بَنُونَ تم جھہ بالکل اپر ونان أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ  
 عَلَىٰ الْبَنِينَ کیاہ تمو کر یا پسند کورے پچوین پیٹھ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیاہ گووہ تو بہہ تھہ یے  
 ہودہ تجویز جھوہ کران أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تو بہہ جھوہ نا غور کران أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ کنہ تو بہہ  
 نیشہ جھہ ننی کانہہ دلایاہ اتھ پیٹھ فَآتُوا بَيِّنَاتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ انو تو بہہ پنی کانہہ کتاباہ جھوے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۶﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۰﴾  
 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿۱۶۲﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ  
 صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۳﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ  
 الصّٰقُوتُ ﴿۱۶۵﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿۱۶۷﴾  
 لَو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۸﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۹﴾

توہیہ پوزو نہ ون وجعلوا ابینہ و بین الجنۃ نسبا بیہ چھہ ٹھہر وومت تمو خدا نلس تہ جنن منز اکھ رشتہ۔  
 دپان چھہ جن چھہ خدایہ سند داماد و لَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضُونَ حالانکہ تھتھق جن چھہ پانہ بیہ  
 تھہ زانیتھ کہ تم تہ بین گرفتار کتر تھہ عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دودہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ اللہ  
 تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک سموسار و پوکھو نیشہ، یلہ سم لوکھ ونان چھہ تس خلاف لَعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ  
 مگر چھہ محفوظ تھمہ گرفتاری نیشہ اللہ تعالیٰ سندی ژارنہ آمت بندہ۔ سم جنو اندرہ آس تن یا انسانو اندرہ  
 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ جس اے مکھ کیو کافر و توہیہ تہ بیہ تم ساری تمکن ہنز توہیہ  
 پرستش کران چھوہ بیہ کو نہ خدا نلس نیشہ کانہہ اگس دھو کہ دتھہ پائس کن پھر تھہ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ  
 مگر تس نلس جھنم سن کن واتہ ون آسہ ازلے۔ یہ گوہ جنن ہند حال۔ ملائکن ہند حال چھہ، تم چھہ ونان پانہ  
 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ آسہ منز چھہ کانہہ تہ لیس نہ جایاہ چھہ مقرر کرنہ آمز اکھ درجاہ مُعْتَبَرِ  
 کرنہ آمت وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقُوتُ بیہ چھہ آس صحن منز و تھہ نہ روزن و آل دست بستہ کھمس تعیل  
 کرنہ خاطرہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ بیہ چھہ آسی بے شک تسبیح ہزن وائل۔ خدایہ سنز پاک ی بیان  
 کران۔ غرض آسی چھہ پرستھہ طریقہ محکوم و ون یلہ ملائک پانہ پنہ نس بندہ آسئس اقرار چھہ کران۔  
 تمہہ باوجود تمہہ معبود زان کاژاہ بے وقوفی چھہ۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ \*  
 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ بیہ آس سم عرکی کافر ونان نبی کریمہ سندہ تشریف انہہ بروٹھہ ہر گہہ آسہ  
 نیشہ آسہا کانہہ نصیحت گروہن کتاباہ بروٹھن لوکن ہندی پاٹھ۔ استہ آسہو خدایہ سند خاص بندہ تو پتہ یلہ  
 تمہن بروٹھن و اثر نصیحت کرہ ون کتاب پیغمبرہ سندہ ذریعہ قَلَّمُوا وَإِيَّاهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تھہ کور کھ تو

فَكَفَرُوا بِآيِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۶﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ  
 الْغَالِبُونَ ﴿۴۸﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۹﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۵۰﴾  
 أَفَبِعَدَاؤِنَا يُنْتَعَجِلُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَا سَاءَ نَسَاءَ صَبَاحٍ  
 الْمُنذِرِينَ ﴿۵۲﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۳﴾ وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۵۴﴾  
 سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۵۵﴾ وَسَلٰمٌ عَلٰى  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۶﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿۵۷﴾

پتہ انکار وہ ان زانن بروئہ پہن پانے کہ کیا نہ تمہن **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ** تحقیق یہ  
 ہجہ مقرر کرنے آمت سون حکم خاص بدن یعنی پیغمبرن متعلق لوح محفوظ اندر **إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ**  
 کہ بے شک تمہنی چھہ یقیناً یاری تہ مدد کرنے آمت تمہن یہ غلبہ دنہ **وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**  
 بے شک سان اسلامی لشکر چھہ یقیناً غالب سپہ دنہ **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** پس پھر و تمہن مکہ کین کافر ن  
 نیشہ توبہ پہن ہجہ بیس طرفس گن یار رسول اللہ کینہہ کالاہ **وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ** یہہ و چھو توبہ تمہتہ  
 و چھن بروئہ پہن کیاہ نہ تمہن **أَفَبِعَدَاؤِنَا يُنْتَعَجِلُونَ** کیاہ تم چھہ سانس عذابس جلد مگان **فَإِذَا أَنْزَلْنَا**  
**سَاءَ نَسَاءَ صَبَاحٍ الْمُنذِرِينَ** ادہ یلہ سہ عذاب تمہن دن آگن منرو آتھہ یہہ ادہ سپہہ سیٹھاہ پیچھہ  
 تمہن بیم کرنے آمتین لوکن ہند صبح یعنی روز بڈہ پیچھہ **وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** \* **وَأَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ** بلہ یہ  
 تھہ یقینی چھہ کہ تمہن پیٹھہ واتہ ضرور عذاب۔ توبہ تھہ و تسلی کینہہ کالاہ تان کرو توبہ صبر۔ تمہنہ تکلیفہ تہ  
 ایذا گ مکہ بڑ و کانہہ غم۔ تمہن حالت روز و چھان۔ عنقریب و چھن تمہتہ پہن حالتہ کیاہ نہ تمہن  
**سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ** منترہ تہ پاک چھہ تمہن پروردگار بیس عزتہ و ول پروردگار  
 ہجہ تمہن ساروی تھو نیشہ سمہہ تھہ تس گن لاگان چھہ دشمن **وَسَلٰمٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ** \* **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ**  
**رَبِّ الْعٰلَمِينَ** یہہ بوین سلام پیغمبرن پیٹھہ یہہ چھہ ساری حمد و ثامنر اوار رب العالمینس



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۱ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۲  
 کَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِیْنَ مَنَاصٍ ۳  
 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْکَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ  
 کَذَّابٌ ۴ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ۵ إِنَّ هَذَا لَشِئْءٌ عُجَابٌ ۶  
 وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأَمِیْنُ أَنْ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰی إِلَهَتِکُمْ ۷ إِنَّ هَذَا

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ حرف ص چھ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ امیک معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ۔ قسم چھٹس بہ ہاوان قرآن مجیدک۔ یس نصیحتہ سیت ہر چھہ۔ یعنی تھہ منز بے شمار نصیحتہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ ہر گز چھنہ تمہ تھہ پڑہ یمہ یمہ کافر ونان چھہ کہ خدا یس ورا ی کیاہ چھہ بیہ معبود یا سمہ تھہ رسالتس خلاف ونان چھہ۔ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلیمہ سمولو کو شرک و کفرس پیٹھہ کمر گونڈ مت چھہ تم چھہ پیچہر س، تعصبس تہ بیہ مخالفس منز بوڈ مت۔ امہ تھہبگ تہ مخالفنک سزایہ دنہ تمن اکہ دوہہ ضرور کَمْ أَهْلَکْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِیْنَ مَنَاصٍ تھہ پٹھہ اسہ چھہ تمو بروٹھہ کا تیاہ لو کہ عذابو سیت گال مت یس کریو، تمو ہلاکتہ کہ وقتہ کریجہ نادیتہ زارہ پارہ مگر سہ اوس نہ عذابہ نشہ آزاد سید نگ موقہ۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ سم قریش چھہ تعجب کران تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ منزہ آو تمن نشہ یم کہہ ون پیچہراہ یعنی بشرہ وَقَالَ الْکَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ کَذَّابٌ تو پتہ لگ دینہ کافر یہ پیچہراہ چھہ معجزن اندر جادو گر، دعوائے نبوتس اندر اپز زیور۔ کیاہ یہ شخص ہیچیا زیور اتھہ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا امی تمو وار یمن معبودن ہنزہ جلیہ گئے معبود باقی سارنہ چھہ کران انکار إِنَّ هَذَا لَشِئْءٌ



لَسْتُمْ تُرَادُّونَ ۝ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا  
 اخْتِلَافٌ ۝ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ  
 ذِكْرِي بَلْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ قُورَاقِبٌ ۝ أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ  
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝ جُنْدٌ مَاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنْ

عَجَابِ بے شک یہ ہے کہ عجیب چیز ہے وَأَنْطَلَقَ السَّلَامَةُ أَنْ أَمْشُوا وَأَصِيدُوا عَلَى الْهَيْكَلِ إِنَّ هَذَا  
 لَسْتُمْ تُرَادُّونَ یہ ہوت نیرن وعظہ چہ مجلسہ منزہ تہند یوز ٹھیوز ٹھیو۔ باقیں تہ دوچھہ کیونیرو، مضبوط تہ  
 قاسم روز پنے نین معبودن ہندس عبادتس پیٹھ۔ بے شک ہتھ منز چھہ امس پیغمبرس خبر کیاہ ذاتی  
 مطالبہہ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ کیاہہ اسہ چھنہ بوز مثری یہ کتھہ  
 برو ٹھمس مذہس اندر۔ یہ چھنہ کینہہ تہ مگر پانے ٹھہر وومت چیزہہ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیاہہ اسہ  
 ایقو منزہ سپدہ اسی بوت پیٹھ نازل نصیٹک کلام۔ ہر گاہ کانہہ ہڈس موہوس کانہہ رئیس پیٹھ سپدہ ہا تو تہ  
 آس بیا کتھہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ یہ ہند یہ وئن کہ امس پیغمبرس پیٹھ کیاہہ سپد نازل کلام الہی، اسہ  
 منزہ کانہہ ہڈس شخصس پیٹھ کونہ سپد نازل یہ چھنہ امہ خاطرہ کہ ہر گاہ تی سپدہ ہا تیلہ کیاہہ کرہ ہن تم پڑھ  
 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ قُورَاقِبٌ بلکہ ہتھ تمن میانس کلامس پیٹھ وحی سوز نس اندر  
 شک بلکہ ژہن تم وونہ میون عذاب أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ تہ ماہتھ تمن لغتہ  
 ٹھندس زبردست تہ فیاض پروردگارہ سندس رحمن ہند خزانہ جمع تمن منز نبوت تہ شامل چھہ۔ ہس  
 تمن خوش کرہ ہس ون نبوت ہس نہ خوش کر کیکہ ہس دن نہ کینہ۔ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ کہنہ جنہز حکومت چھہ زمین تہ آسمانن منز۔ یہہ یہ تمن دون منز  
 باگ چھہ ہتھ منز اگر تمن کانہہ اختیارہہ چھہ آسمان وز مینس پیٹھ ہس کھس تن ہیر لاکھ آسمانس۔ تور  
 کھتھہ بدلاوئن تمن نبوتک حکم۔ جُنْدٌ مَاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنْ الْأَحْزَابِ یہ چھہ کہ مختصر جماعتہہ ٹھندس

الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ۝  
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ إِنَّ  
 كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ  
 إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا  
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اصْبِرْ عَلَى مَا  
 يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

مخالفین ہنز بر و تھمیدو شکرست خوردہ جماعتوں اندر یہ ہے کہ جماعتہا۔ بہتر، و تھو سے حرکتو سیت کیا زہ چھوہ  
 توہیہ غمگین سپان کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتار پیغمبرن ہتھ تکذیب کورمت مکہ  
 کین کافرن برو تھ قوم نوحن، قوم عادن، بیہ قوم فرعونن بس میں وول اوس۔ بس سزاو نہ کہ وقتہ  
 اتھن تہ کھو زن اوس بحر من میں تھکان و ثمود و قوم لوط و اصحاب لیکہ اولیک الاحزاب بیہ قوم  
 شمودن، بیہ قوم لوطن بیہ شہر ایکہ کیو لو کو۔ سے ایزہ جماژ تہ لو کہ سمو شکرست کھیو پیغمبرن ہندس  
 مخالفین اندر ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب سمو ساروی کور تکذیب پیغمبرن۔ بس سپد  
 تمن پیٹھ میون عذاب ثابت و ما یظنر ہؤلآء الا صیحة واحدة ما لہا من فواق سم ملنک  
 کافر ہتھنہ پیران مگر تھتھ کئی کریجہ تھتھ منز نہ شہہ تھتھنہ مو کہ زمین آسہ بلکہ آسہ کئی شہہ سیت سہ  
 چھو کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب بیہ ہتھ و نان سم کافر تھتھہ یا تھ اے سانہ  
 پروردگارہ جلد بہن و اتہ ناو تہ آسہ پن حصہ عذابک حسابک دوہینہ برو تھ اصبر علی ما یقولون  
 وادکر عبدنا داود ذوالاید انہ اواب نہہ کمر و صبر یار رسول اللہ تمن تھن پیٹھ سمہ تم کافر و نان  
 ہتھہ۔ بیہ یا دیون تھتھس سون بندہ داود علیہ السلام بس قوتہ وول تہ صبرہ وول اوس عبادتس تہ دشمن  
 ہندس تکلیف پیٹھ۔ تم اس خدایس کن سینٹھار رجوع کرن و آل۔ آسہ آسہ کمر تھہ بین بیہ نعمتہ عطا  
 اناسعزنا الجبال معہ یسببھن بالعیسیٰ و الاشرار آسہ اس مخر تہ رام کمر مت کوہ یم تمن سیت

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعِثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝<sup>۱۸</sup>  
 وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ ۝<sup>۱۹</sup> وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ  
 وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۝<sup>۲۰</sup> وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ سُورُوا الْحُرَابِ ۝<sup>۲۱</sup>  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَغْيِ  
 بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى  
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝<sup>۲۲</sup> إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَقَلْبِي

اِسْ تَسْبِیحِ بِدَانِ شَامَسٌ ۝ صَحْسُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ ۝ بیہ کمری تمین مسخر جانور سونیر نہ اسی  
 آمنت تمین نشہ ساری کوہ تہ جانور اِس تہندہ وجہہ ذکرہ سیت مشغول روزان وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ  
 الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۝ بیہ کمر آسہ مضبوط تہ محکم تہنز سلطنت بیہ کمر آسہ عطا تمین حکمت گاہہ جار بیہ  
 فیصلہ کرہ و ان کلام لیس نہایت واضح تہ جامع اوس وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ سُورُوا الْحُرَابِ ۝ بیہ چھاوا اثر مثر  
 توہمہ نشہ مقدمہ والین ہنز خبر یلہ زن جوراہ تمین نشہ مقدمہ تہہ آئے راتھہ گیت سمہ وقتہ تم خلوت  
 عبادت خاَس منز مشغول اِس خدا یہ سندس یادس سیت۔ پھرہ والیو تہہو تراونہ تم سیدہ دروازہ کن بے  
 وقت ینہ موکھ۔ مگر تم تراے تمین نشہ دیوارہ پیٹھ دوٹھ دتھ۔ تو پتہ و آت تم داؤد علیہ السلامہ سندس  
 عبادت خاَس منز إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۝ یلہ تم تراے داود علیہ السلامس نشہ  
 لیس کھوڑ تم تمین نشہ تہندہ بے وقت ینہ کہ سببہ تمودو پتھ کھوڑومہ حض خَصْمِينَ بَغْيِ بَعْضُنَا عَلَى  
 بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ اِس چھہ تنازک زہ فریق۔ آسہ آندرہ  
 کمر اک ہمیس پٹھہ زیادتی۔ لیس کمر و تہہ آسہ منز فیصلہ پزہ سیت۔ تہتھہ بے انصافی کمر و باو و سیز و تھہ تو  
 پتہ دوپ تمودو آندرہ اک زن مقدر کج صورتھ حض چھہ پتھہ یا تھی ۝ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً  
 وَقَلْبِي ۝ اِس نشہ چھہ نمہ ۹۹ نمٹھ گجہ۔ میہ حض پتھہ صرف اکے گجہ ہن۔ یہ بوی چھہ میہ دپان یہ اکھ گجہ ہن

نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَقَالَ الْفَلْبِيُّهَا وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ ۖ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۖ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ط

تہ ذہ شہ می۔ یہ حض چھم تھو سیت غالب سپدان۔ میہ چھنہ تھتہ دو ان کرنہ **قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ** تم دو دیکھ یہ چھہ بقینا تہ پیٹھ ظلم کر ان چان اکھ گجر ہن منکھ سیت یوہ مہ ملہ ناوہ ہاپنہ نین کین سیت **وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ** اکثر شریک چھہ زیادتی کر ان اکھ اگس پیٹھ مگر چھنہ کر ان تم سمو ایمان اون یہ کر کیکہ رثہ عملہ۔ تمہ قسمک لوکھ یعنی ایماندار چھہ کمنے **وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ** تو پتہ آو دو او علیہ السلام خیال کہ یہ مقدمہ میہ بضم بیگانہ وقتہ پیش کرنس اندر چھہ ییہ حکمت کہ اسہ کور امہ سیت تھند امتحان مہ آس و چھو کو تاہ صبر و تحمل گرہ ون چھہ داو دو علیہ السلام۔ کیا زہ تھس ہڈس جلیل القدر پادشاہ سندس خلوت خانس بلا اجازت کانہ ہند واٹن تو پتہ امہ بے ر بطی سیت کلام کوزن یتھ منز کافی گستاخی آس تہ تھند تھہ ساری پیٹھ صبر و تحمل کوزن۔ چنانچہ تمو مونگ مغفرت پنہ بس پر و در گارس۔ یہ نمے یہ بون گن یہ کور رکھ رجوع بخدا **فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ** مہس بخش اسہ تمن سہ معاملہ سمہ خاطرہ امتحان کرنہ آکھ۔ یہ چھہ بے شک تمن اسہ بضم خاص قریب مقام یہ رت انجام **يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** اسہ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۳۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمابَيْنَهُمَا بَاطِلًا  
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿۳۸﴾  
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ  
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۳۹﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

فرمود تمین اے داؤد اَسْمَ بنو وہ کہ ژہ حاکم ز مینس اندر۔ جس کر ژہ حکم آئیدہ لوکن اندر انصافہ سیت۔  
یتھہ پاٹھہ از تان کر ان رو دکھ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بیه یتھہ پاٹھہ از تام نفع پیروی  
کمر وہ نہ یتھہ پاٹھہ مہ کمر و پیروی نفعیہ خاہیہ ہنز۔ نفع پیروی کرن ڈالوہ توہمہ خدایہ سزہ و تہ نشہ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ پنز پاٹھہ ہم لو کہ ڈالان چھہ  
خدایہ سزہ و تہ نشہ تہندہ خاطرہ چھہ سخت عذاب کیا ژہ تمو مشرو و حسابک دوہ یعنی قیامت وَمَا خَلَقْنَا  
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمابَيْنَهُمَا بَاطِلًا بیه کمر نہ اسہ آسمان تہ زمین بیه یہ تمہن دون منز چھہ پیدہ بے ہودہ  
خالی از حمت ذَلِكْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ چھہ خیال کافر ن ہند فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کافر ن  
ہندہ خاطرہ چھہ آخر نس اندر بڈ خرابی۔ سہ گوہ جہنمک عذاب کیا ژہ انکار کرنہ سیت سانس اگس بڈس  
حتمس تہ انکار کر ان۔ کیا ژہ بدلائل نقلیہ و قطعیہ چھہ اسہ بتصریح بیان کورمت کہ قیامتس اندر چھہ یہ  
حکمت کہ یتھہ اَس نیکو کارن جزاء تہ مُفْسِدِن سخت سزا دو۔ دون نس قیامتس انکار چھہ کر ان سہ چھہ  
خدایہ سندس اتھ حتمس انکار کر ان بلکہ چھہ سارنہ برابر زانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان أَمْ يَجْعَلُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیاہ اَس کرو کہ تم سمو  
ایمان اون بیه کر کیہ رژہ عملہ تمہن لوکن ہی سم ز مینس پیٹھہ کفر و نافرمانی کمر تھہ دُنْيَاءِ س منز فساد تہ  
بتاہی کر ان چھہ بین الفاظن اندر گوہ یتھہ پاٹھہ کہ بیه کرو کہ اَس پر ہیز گار تہ خدائس کھوٹھ و ن تہ بدکار  
برابر۔ یتھہ پاٹھی توحید تہ بعث دلیلو سیت ثابت چھہ پاٹھی چھہ نبوت و رسالت تہ بدلیل ثابت۔

لَيْدَبْرُوا آيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۱۹ وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ ط  
 نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۲۰ إِذْ عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِيِّ الصَّفْنَٰتِ  
 الْجِيَادُ ۝۲۱ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنِ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ  
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝۲۲ رُدُّوْهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ

کتاب آنزلنے الیک مبارک لیدبڑو آیتہ ولیتذکر اولو الالباب یہ قرآن مجید چھ کتابہ یوسہ آسہ نازل کتر یار رسول اللہ توہم کن، بابرکت کتابہ یمہ کین الفاظن، حرفن تہ معاین اندر چھ پور برکت یتھ لو کہ یمن آیتن اندر غور تہ فکر کرن بیہ یتھ عقلہ والی تمہ سیت نصیحت رٹن وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ بیہ کر آسہ عطا دود علیہ السلامس فرزند سلیمان علیہ السلام۔ کیاہ رت بندہ چھ سہ سلیمان علیہ السلام۔ پر یتھ وقتہ خدا بس کن رُجوع کرہ ون۔ چنانچہ ٹھند قصہ چھ قابل ذکر اذْ عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِيِّ الصَّفْنَٰتِ الْجِيَادُ یلہ کہ دوہہ تمن پیش آی کر نہ شامکہ وقتہ عمدہ تیز رفتار گرسیم جمادہ خاطرہ تھانہ امت آس ٹھندس وچھنن تہ ملاحظہ کرہ نس اندر لوگ واریاہ وقت۔ نمازہ گووژیر۔ چنانچہ جلال وہیبتہ سببہ ہیوک نہ کانسہ جرأت کتر تھ کہ تمن کرہ بن اتھ پیٹھ مطلع تو پتہ سپد تمن پانہ سے امیک خیال فَقَالَ تو پتہ لگ فرمانہ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنِ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ افسوس میہ کور اختیار مالگ محبت سمہ سیت بہ غافل سپدس پنہ نس پروردگارہ سندہ عبادتہ نغمہ یوتان آفتاب کھٹھ رود شامہ کس ہر دس تل رُدُّوْهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْحِجَابِ فرموو کہ بیہ اینوکھ واپس سم گری میہ نغمہ۔ تو پتہ ہیو چھ تمن گرین گروزن تہ گردن پھنن دین شمشیرہ سیت۔ یعنی تم کتر کہ ساری ذبح۔ کیا زہ نس مال خذلیہ سندہ یادہ نغمہ غافل سپد نک سبب سپدہ سہ مال گزہ نہ پانس نغمہ روزن۔ اکھ قصہ ٹھند گوویہ۔ بیا کہ قصہ چھ۔ متفق علیہ چھ حدیث شریفکہ اکھ لکھ سپد سلیمان علیہ السلام پنہ نین امراء لشکرن نغمہ جمادہ کس آگس معاملس اندر آزدہ۔ تو پتہ فرموو کہ ازرات کیت سپدہ بہ پنہ نین ستہ تن زنانن سیت ہم ہستر تمن نغمہ سپدن پیدہ ستھ فرزند یم

وَالْأَعْنَاقُ ۝۳۷ وَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَبِيْنَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ  
 أَنَابَ ۝۳۸ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدِيٍّ مِنِّي  
 بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۳۹ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝۴۰ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ۝۴۱ وَالْآخِرِينَ  
 مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝۴۲ هَذَا عَطَاؤُنَا وَمَنْ لَّا يَأْتِنَنَّ أَزْوَاجًا  
 وَمَوْلًا يُرْتَضَىٰ أُولَٰئِكَ لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ أَجَلِهِمْ لَمْ يَمُوتُوا أُولَٰئِكَ  
 لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ حِسَابٌ ۝۴۳ أُولَٰئِكَ يَلْمُوكَ إِذْ تَدْعُوهُنَّ  
 إِلَىٰ الْيَوْمِ لَوْلَا تُدْعَوْنَ لَهُمْ يُجِيبُوا لَكَ دُعَاءَهُمْ بِتِلْكَ  
 الْأَسْمَاءِ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَىٰ بِهَا عَلَىٰ الْأَرْضِ وَبِهَا عَلَىٰ السَّمَاءِ  
 فَلَمَّا دُعُوا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّىٰ تِرْيَاقُ إِذْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْيَوْمِ لَمْ  
 يَكُنْ لَهُمْ حِسَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَمُوتُوا فِي الْحَيَاةِ  
 وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۴۴

مجاہد سپدن انشاء اللہ ہرگز گو کہ مشق۔ نتیجہ در او کہہ کانسہ زنانہ رود نہ امہ شبہ حمل۔ صرف رود اہس زنانہ  
 نانہ پیاو یعنی ناتمام چہ۔ سہ ناتمام چہ ہتھ آیہ دای تو پتہ ترو نکھ تھس پیٹھ ۝۳۷ وَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَبِيْنَ  
 عَلٰی كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ تھقین بیہ سحر اسہ آزمائش تہ امتحان سلیمان علیہ السلامس بیہ ترو و اسہ  
 تھندس تھس پیٹھ بدناہ، بے روح تو پتہ کور تمور رجوع بخدا بیہ کور کہ انشاء اللہ نہ پرہ نس پیٹھ تو بہ  
 موگھھ دُعا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدِيٍّ مِنِّي بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ دُعا کور کہ ای  
 میاہ پروردگارہ میہ کر مغفرت پتہ مین گو نمہن۔ بیہ کرم عطا آئندہ خاطرہ سو سلطنت یوسہ نہ کانسہ اہس  
 میہ ورائے اسہ۔ بے شک ژے پکھ سورے عطا کرہ ون۔ ژیہ نغہ جھنہ یہ دُعا قبول کرن کینہہ دشوار  
 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ نہس کور اسہ واؤ تمین مُسَخَّرٌ تالوج۔ سہ واواوس پکان  
 تھمدہ حکمہ وارہ وارہ یوت تمین واتنگ ارادہ آسان اوس۔ سمہ سیت تمین گرین ہنز چنداں ضرورت  
 روزنہ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ بیہ تھواو تالوج تہ مُسَخَّرٌ اسہ تمین شیطان یعنی جن۔ تم ساری سم دسمل  
 آس بیہ ڈونگل آس سمندره منزہ غوطہ دتھ موختہ کھاران وَالْآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ بیہ تمین  
 وراے بے جن یم ہانکو سیت بند آس کرنہ آمت قید تھاونہ آمت عدول حکمی سببہ۔ خدمات مفوضو  
 نغہ سم جن ژلان آس تعیل حکم آس نہ کران۔ تمین اوس امی قسمہ سزاندہ یوان هَذَا عَطَاؤُنَا وَمَنْ لَّا يَأْتِنَنَّ  
 أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ اسہ فر مووس اے سلیمان یہ چھٹی ژیہ سانہ طرفہ اکھ عطیہ بے پادشاہ جھنہ  
 آسان ملکہ کین خزان ہند مالک۔ بلکہ جھہ تم آسان ملکہ ناظم۔ مگر تہہ سحر وہ اسہ مالک تمام خزان

حَسَابٍ ۳۹) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۴۰) وَإِذْ كُرِعْنَا  
 أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصِيبٍ وَعَذَابٍ ۴۱)  
 أَزْكُضٌ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۴۲) وَوَهَبْنَا لَهُ  
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۴۳)

ہندس خوش کردہ کس دیو۔ ہر گاہ پانے نغمہ تھاو۔ سانہ طرفہ چھنہ کانہ باز خواست وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
 لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ امہ دنیا کہ سامانہ علاوہ چھہ تہندہ خاطرہ اسہ نغمہ خاص قرب۔ بیہ نہایت اعلیٰ  
 درج نیک انجامی۔ سمیک ظور آخر کس منز سپہ۔ وَإِذْ كُرِعْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ  
 الشَّيْطَانُ بِنُصِيبٍ وَعَذَابٍ بیہ پایون ترمیس سون بندہ ایوب علیہ السلام۔ یلہ تمویپنہ کس ہروردگار س  
 ہد اکورای میانہ ہروردگارہ شیطان چھہ وانوان میہ ایذاتہ تکلیف۔ سہ تکلیف اوس یوہے کہ کہ دوہہ  
 سٹھہ وتہ پکان شیطان تہندین باژن طیبہ سزہ شگلہ منز۔ تمو کور خیال یہ چھہ حکیم۔ اس اتھ کرہ ناوو  
 ایوب علیہ السلامس علاج۔ تمی دوپچھہ بہ کرہ تمن علاج۔ ہتھ شرتس پیٹھ کہ ہر گاہ شفا نہ تمن۔ تہند گڑھہ  
 دمن کہ تے دیتھ تمن شفا۔ امہ درائے چھس نہ بہ کانہ معاوضہ توہہ نغمہ یرھان۔ تمو کور امیک  
 تذکرہ ایوب علیہ السلامس نغمہ۔ تمو فرمو کہ بی بی ژیہ پٹھہ ناخبر یہ کس چھہ یہ چھہ شیطان۔ تمن سپد  
 امیک سخت رنج۔ تمو دوپ میانہ بیماری سببہ لوب شیطان موقہ میانہ گرواچہ اتھ ہتھ شرک کلمات  
 ونہ ناوتک۔ لہذا ہو کہ قسم کہ بہ لایہ پنہ نین باژن ہتھ تمچ۔ اللہ تعالیٰ ان کمر تہندس معہ کس  
 اجابت۔ فرمو چھہ اَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اے حضرت ایوب لٹھ دیوپنہ کھورہ  
 سیت زمینس۔ اتی دراوتہ کس ناگہ راد۔ اللہ تعالیٰ ان فرمووس اے حضرت ایوب یہ آب چھہ تہندہ  
 سران کرنہ خاطرہ، تزن آب۔ بیہ چھہ تہندہ چنہ خاطرہ۔ چنانچہ تمویان امہ آبہ سیت غسل کور، بیہ  
 چوکہ سہ آب تانی سپد کہ سوزی تکلیف دور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي  
 الْأَلْبَابِ بیہ کمر اسہ عطا تمن گرک باژ۔ ہم مکانہ کس پیش تل گرہتھ موومت اس یہ تمن ہی تمن سیت



وَحَدِّبِيكَ ضَعْفًا ضَرْبٌ بِهِ وَلَا تَحْتِثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا  
 نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۶﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ  
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۳۷﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى اللَّذَّارِ ﴿۳۸﴾  
 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْبُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ﴿۳۹﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ  
 الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿۴۰﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ

بیه باثریت، پنجه خاص مهربانی سیت بیه بیته عقل مندن بندہ خاطرہ اکھ یادگار روزہ۔ یعنی عقلہ والین ہند گتھہ یاد تھاؤن کہ صبر گرہ و نین کتھہ رت جزاء چھہ اللہ تعالیٰ دوان۔ امہ پتہ کور ایوب علیہ السلام ارادہ کہ پٹن قسم کرہ ہن تم پورہ یعنی الہین پنہ نین لایہ ہن ہتھہ قچہ۔ مگر چوچہ تموا س ایوب علیہ السلام سیٹھاہ خدمت کمر مشر خصوصاً تھہ بیمارہ اندر بیه اس نہ تھندہ طرفہ خاص کا نہہ نافرمانیاہ آمرش کرنہ لہذا کمر اللہ تعالیٰ ان پنہہ مهربانی سیت تھندہ خاطرہ اکھ خاص حُماہ نازل سمہ سیت تھندہ حقتہ اکھ تھیفاہ سڈ بیه فرموا سہ ایوب علیہ السلام وَحَدِّبِيكَ ضَعْفًا ضَرْبٌ بِهِ وَلَا تَحْتِثُ رٹوٹھہ اتھس منز مورہ بودارہ بیته منز اکھ ہتھہ مورہ اسن تمی سیت لایوٹھہ ژنڈ باژن پنہ نین قسم مہ پھٹہ راؤد۔ چنانچہ تی کور ایوب علیہ السلام من امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان ایوب علیہ السلام تعریف کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ بیشک امہ لوب سہ صبر کرہ ون بندہ۔ کیاہ رت بندہ چھہ سہ۔ بے شک سہ چھہ سیٹھاہ رجوع کرہ ون پنہ نس خدا بس کن وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ بیه کمر و یاد سامین بدن ہند، ابراہیم علیہ السلام سہ، اسحاق علیہ السلام سہ بیه یعقوب علیہ السلام سہ۔ تم اتھو کھو روسیت اسی بندگی کران۔ اچھو سیت اس آثار قدرت و چھتھہ مغفرت حاصل کران۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى اللَّذَّارِ امہ اس تم مخصوص کمر مت کہ خاص تھہ سیت۔ سہ گوو آخر تک گھرہ بکشرت یاد کرنہ سیت وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْبُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ بیه چھہ تم حضرات امہ نشہ یقیناً ژارنہ آتیور تیوبند و آندرہ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ

لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ ﴿۶۹﴾ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْآبْوَابُ ﴿۷۰﴾  
 مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهِةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿۷۱﴾  
 وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ أْتْرَابٌ ﴿۷۲﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ  
 الْحِسَابِ ﴿۷۳﴾ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالُهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿۷۴﴾ هَذَا طِرَانٌ  
 لِلطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا بٍ ﴿۷۵﴾ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۷۶﴾ هَذَا

بہ کر یوں یاد اسمعیل علیہ السلام بہ الیخ علیہ السلام، یس صاحب الیاس علیہ السلام بن نایب  
 سوڑمت اوس بنی اسرائیل کن۔ پتہ سہز تین نبوت عطا۔ بہ ذوالکفل علیہ السلام۔ تم ساری تہ چھہ  
 رتوبند و آندرہ ہذا ذکر یہ چھہ نصیحت کلاما۔ یہ سپد ختم امہ پتہ چھہ بیان جزاء و سزاء ک۔ تمیگ  
 تفصیل چھہ پتہ پاٹھی کہ وَإِنَّ الْمُنْتَقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ بہ چھہ پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ آخرتس منز  
 رث جاہہ روزنہ خاطرہ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْآبْوَابُ یعنی ہمیشہ روزنک باغ تین ہند دروازہ و تھ  
 آسن تراونہ آمت تین پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهِةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ  
 تکیہ و تھ آسن بہتہ تین جہنمن منز۔ طلب آسن کران تین جنتہ کین خدمت گارن نشہ تین جہنمن منز  
 واریاہ قسمک میوہ بہ واریاہ قسمک چنہ چیز۔ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ أْتْرَابٌ بہ آسٹکہ بروٹھہ کہہ  
 خوب صورت تہ خوش شکل زنانہ یعنی حورہ یہ بون کن نظر تھاونہ آسن۔ تم آسن اکی عمرہ ہم سن ونہ  
 بیچہ ہذا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اے مسلمانو سمہ چھہ تمہہ نعمتو تین ہند توہمہ وعدہ اوس تھاونہ  
 یوان قیامتک دوہ نیس پیٹھہ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالُهُ مِنْ نَفَادٍ بے شک یہ چھہ سون رزق۔ اتھہ چھونہ زانہ  
 تہ وورن تہ ختم تھوٹھن یہ چھہ دائمی نعمتہ ہمیشہ پوشہ ونہ یہ مضمون گوو ختم یس اہل سعادتن متعلق  
 اوس۔ وون بوڑوامہ پتہ اہل شقاوتن ہند حال ہذا وَإِنَّ الطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا بٍ بہ چھہ کرس تہ نافرمان ہندہ  
 خاطرہ سیٹھہ بیچہ روزنچ جائے جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِئْسَ الْبِهَادُ سو جای گیہ جہنم بیچہ منز تم داخل سدن۔  
 نہس چھہ سیٹھہ بیچہ جائے ہذا فَلْيَدْعُوا حَتِيمًا وَعَسَاءُ وَنہ بیچہ اے جہنمیوہ چھوہ رسر بہ پال تہ

فَلْيَذُوقُوا حَسِيمًا وَغَسَاقًا ﴿۵۷﴾ وَآخِرِينَ سَكَلَهُ أَزْوَاجٌ ﴿۵۸﴾ هَذَا  
 فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا بِيَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾ قَالُوا  
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِبُونَ ﴿۶۰﴾ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرْ أَلْفًا  
 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا يُضَعِّفُنَا فِي النَّارِ ﴿۶۱﴾  
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَنْزِيلِ رَبِّكَ لَنَا نَارٌ كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿۶۲﴾  
 أَخَذْنَا لَهُمْ سِجْرًا مِمَّا رَزَعُوا عَنْهُمْ الْأَبْصَارَ ﴿۶۳﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ

پاک۔ اتھرتہ وچھو مزہ۔ وَآخِرِينَ سَكَلَهُ أَزْوَاجٌ بیہ آسن اتھ ہی واریاہ چنک تہ کھنک چیز۔ سم سیٹھاہ  
 پیچھ، ناگوار تہ تکلیف دہ آسن هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْجَا بِيَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ یلہ زکھن تہ  
 متبو عن ہنز جماعت جہنم منز داخل سپدہ توپتہ بین آنہ تہ داخل کرنہ تہمدی تابع۔ تم دہن پانہ وانی  
 یکیا آہہ یکاہ جماعت یم توہہ سیت عذابس اندر شامل سپدہ خاطرہ جہنم منز اندر ٹریل کمر تھہ چھہ  
 اثران۔ خدا زن تمن بلائے تمن مہ بن کشادہ جائے ٹہ۔ تمن تہ چھہ اثران نارس اندر قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ  
 لَا مَرْجَا بِيَهُمْ تم دہ پیچھہ تورہ بلکہ مہ یمن کشادہ جائے ٹہ توہی کن خدا بند بلائے أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرْ  
 أَلْفًا پس کاثرہ پیچھہ جائے چھہ یہ جہنم نس اسہ ٹہمدہ وجہہ پیش آؤ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ  
 عَذَابًا يُضَعِّفُنَا فِي النَّارِ پانہ وان اکھ آگس پیٹھ چھاوہ داسی کمر تھہ کمرن دُعا، اے سانہ پروردگارہ سموہ  
 عذاب تہ مصیبت اسہ برو ٹھکن ترودتہ و اتنا تمن کرتہ ژہ زیادہ عذاب دوگنا و تھہ نارس اندر وَقَالُوا مَا لَنَا  
 لَنْزِيلِ رَبِّكَ لَنَا نَارٌ كَمَا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ توپتہ دہن ساری جنمی کیاہ سنا و جہہ چھہ آس چھہ کھدہ و چھان  
 یتہ تم لوکھ سم آسی گنزران آسکھ پیچھہ تہ ناکارہ لو کو اندرہ یعنی مسلمان أَخَذْنَا لَهُمْ سِجْرًا مِمَّا رَزَعُوا  
 الْأَبْصَارَ کیاہ آس اسہ تمن ناحق ٹھٹھہ کران۔ تم آس نہ فی الحقیقت نارس لایق۔ کنہ جنہمس اندر چھہ  
 تم تہ موجود، مگر سانہ نظرے چھہ تمن نشہ ڈجہ مرثہ یت آتھہ چھہ اسہ در ینٹھی یوان عذابس سیت چھہ  
 یہ ٹھہ سانہ حقہ باعث حسرت إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُكُمْ أَهْلِ النَّارِ بے شک یہ چھہ واقعی سپدہ ون یعنی

تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۷۶﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَنِ الْوَالِي إِلَّا اللَّهُ  
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۷۷﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ ﴿۷۸﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿۷۹﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۸۰﴾ مَا  
 كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۸۱﴾ إِنْ يُؤْتِي  
 إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۸۲﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي

جہنمن ہنزپانہ وانی ہر ہر کرن قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ نبہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای لو کو نبہہ نیس توحید و  
 رسالتس انکار کران چھوہ، امیک ضرر چھوہ توبہ پانس۔ میہ کنہہ قسمسہ امیک ضرر چھنہ کیا زہ بہ چھس  
 توبہ کہ نیم کرہ وناہ خدایہ سندہ عدلہ نشہ وَمَنِ الْوَالِي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بیہ فرما یو کہ بیٹھہ پاٹھ  
 میون پیغمبر تہ نیم گرہون آسن کہ امر واقعی چھہ بیٹھہ پاٹھ چھہ توحید تہ کہ پوز تہ واقعی امرہ یعنی خدایس  
 ورائے نیس کنہ تہ غالب چھہ چھنہ کانہہ اکھاہ عبادتس لایق رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ نیس آسمان تہ زمین ہند پروردگار چھہ بیہ تہ تمن دون منز چھہ تمہہ سارکے پروردگار تہ مالک  
 سیٹھاہ زبردست تہ سیٹھاہ چھسہار چھہ ہندن ہندین بے شمار گوئمن قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ \* أَنْتُمْ عَنْهُ  
 مُعْرِضُونَ نبہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یعنی اللہ تعالیٰ سدین توحید و شریعت ہنز  
 تعلیم کرنہ خاطرہ بوسوژن، یہ چھہ کہ عظیم الشان مضمونہہ سمیک توبہ سیٹھاہ اہتمام کرن شوہہ ہاگر  
 افسوس نبہہ چھوہ امہ نشہ سیٹھاہ بے پروا سپدان۔ املہ عظیم الشان آنک وجہ چھہ یوہے کہ امہ ورائے  
 چھہ سعادت حقیقی حاصل پدن محال مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ میہ اس نہ کہین  
 خیر عالم علوی ہنز ن مجلس ہنز۔ یلہ ہم یعنی ملا علی اکب لو کہ آدم علیہ السلامہ سزہ ہاد ایٹھہ متعلق بحث  
 آس کران۔ میہ آیہ خبر کرنہ بعض تمن معاملن ہنز وجیحہ ذریعہ إِنْ يُؤْتِي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ  
 میہ کن چھنہ وحی یوان نازل کرنہ مگر ای زہ بہ چھس کہ پیغمبر اہ نین پاٹھہ نیم کرہون چنانچہ تمہو معاملو  
 اندرہ گووا کہ معاملہ بیٹھہ منز ملا علی اس منز بحث اوس یوان کرنہ۔ آدم علیہ السلامہ سند پادہ کرن۔ یہ

خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿۴۱﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  
 فَقَعُوا لَهُ لِسْعِدِينَ ﴿۴۲﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۴۳﴾ إِلَّا  
 إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۴۴﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ  
 أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ  
 الْعَالِينَ ﴿۴۵﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ  
 مِنْ طِينٍ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَٰجِعٌ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ

تہ سپد میہ معلوم و حیجہ کہہ ذریعہ۔ بیاکھ کانہہ ذریعہا میہ نغمہ چھنہ۔ یوہے چھہ ثبوت میانہ نبوت و  
 رسالتک۔ لہذا پڑہ توہہ میانیس پیغمبر برحق آسٹس پڑہ کرن۔ تفصیل تمہ گفتگوک چھہ اذ قال ربک  
 للملائکة ائی خالق بشرًا من طین سہ گفتگو سپد تمہ وقتہ یلہ فرمود تہندی پروردگار ان ملائکن  
 اے ملائکو میون ارادہ چھہ بہ گرن پادہ میڑہ آکھ بشرہ  
 لیسعدین تو پتہ یلہ سہ بہ وارہ پور بناؤن یعنی تہند اعضاء مکمل گرہ بہہ واتاودہ بہ تہس منز پنہہ طرفہ  
 روح لیس نمزہ چھہ تہس برو تھ کینہ سجدہ دو ان تو پتہ اللہ تعالیٰ ان سہ تیار کور فسجد الملائکة کلہم  
 اجمعون ساروے ملائکو دیت تہس سجدہ یکہ دوئہ الا ایلیس مگر دیت نہ سجدہ ایلیس استکبر  
 وکان من الکفرین تم کور سبجہ تہ غرور بہہ سپد سہ کافر واندردہ قال یابلیس ما منعک ان تسجد لہما  
 خلقت بییدی استکبرت امر کنت من العالین اللہ تعالیٰ ان فرموس اے ایلیس کم چیزن رو کھ  
 تہ چھہ تہس سجدہ دنہ نغمہ لیس میہ پنہہ نیوا تھو پیدہ کور۔ یہ کور تھہ تہہ سبجہ تہہ غرور، بوڈنہ آتھ کینہ واقعی  
 اوسکھ تہ تھدہ درجہ کیولوگو اندردہ تمکن نہ سجدہ کرن زیباوس قال انا خیر منہ خلقتنی من نار  
 و خلقتہ من طین ایلیس لوگ دینہ کہہ یہ دویم کھہ چھہ ثابت یعنی بہ چھہس تہندہ خوتہ بہتر۔ یہ  
 کور تھس پادہ نارہ نغمہ۔ سہ کور تھس پادہ ربہ نغمہ قال فأخرج منها فانک رجیم اللہ تعالیٰ ان فرموس  
 نیر سمہ آسانہ نغمہ نیر بے شک امہ عدول حکمہ سببہ چھہ کھہ تہ مردود۔ و ان علیک لعنتی الی یومہ

لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۸۵﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ  
يُبْعَثُونَ ﴿۸۶﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۸۷﴾ إِلَى يَوْمِ  
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۸۸﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۸۹﴾  
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ ﴿۹۰﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿۹۱﴾  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ قُلْ

الدِّينِ بیہ چھہ ژہیہ پیٹھ میاں لعنت قیامتہ کس دوہس تان۔ تمہ پتہ چھنہ مرحوم سپد نک امکانے۔  
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ البیس دوپ اے پروردگارہ ہر گاہ آدم علیہ السلام سندہ  
وجہ بہ مردود کور تھس تلہ دتہ میہ مملت مر نہ نشہ قیامتہ کس دوہس تان پیٹھ بہ تم ن نشہ بیہ تہدین  
اولاد ن نشہ پورہ بدلہ ہیہمہ ہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس یلہ ژہ مملت چھکھ  
منگان گڑھہ ادہ کیا ژہ آئی موبل تھ دنہ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تمہ دوہس و قس تام بس مقرر  
چھہ۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ دہنہ لوگ یلہ میہ مملت آئیہ  
دنہ تلہ چھم چانہ عزتک قسم کہ یم ساری بنی آدم ڈالکھ بہ ضرور سیرہ و تہ نشہ مگر نہ تموا اندرہ چان  
برگزیدہ بندہ یم ژہیہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھو تھکھ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ  
وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس بس چھنہ پڑیہ کتھ کہ بہ چھس ہمیشہ پوزے  
ونان کہ یقینا بہ گرن ہر جہنم چانہ سیت بیہ چانین سارنہ بیرون تہ تابن ہندہ سیت قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ  
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فرما دیو کھ تو ہیہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوگو بہ  
چھنہ تو ہیہ مکان دین حق و اتا ونہ خاطرہ کانہہ مزدیہا۔ بیہ چھس نہ بہ زورہ ہن پان پیٹھ بناوٹ کہ  
طریقہ کرہ ہا بہ نبوتک دعوی۔ غیر قرآن ونہ ہا بہ قرآن۔ بلکہ چھہ فی الواقع یہ قرآن مجید کلام الہی  
إِنَّ هُوَ الْأَذْكُرُ الْعَلِيمُ یہ قرآن مجید چھہ ساری جماعہ خاطرہ اکھ و عطاہ تہ نصیحتہا سمکہ تبلیغہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ  
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

خاطرہ مہ نبوت عطا کرنے آئیے۔ منزه ہندی خاطرہ بوڈ نفع تہ فایدہ چھہ۔ ہر گاہ توہہ پوز واضح سپدنہ پتہ  
تہ مانونہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ توہیہ زانو پائے ضرور کنیہ وودو ہو پتہ امیک پورہ حال۔ مرنہ پتے  
سپدہ توہیہ پورہ حقیقت ظاہر۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لَ الَّذِينَ ۲ الْإِلَهَةِ الَّذِينَ  
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ  
 إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ جہہ نازل کرنے امر کتاب اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نہیں غالب  
 تہ حمتہ وول جہہ۔ غالب تہ زبردست آسن تہمد اوس مکان کہ نہیں جہہ کتابہ انکار کرہ ہائس گروہہ  
 سزاندہ یں فوراً مگر حکیم آسن تہمد جہہ مکان کہ تمن گروہہ مہلت دہنہ یں۔ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ  
 بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لَ الَّذِينَ اسی کمر نازل یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہہ پیٹھ یہ کتاب  
 (قرآن مجید) پز پائٹھ۔ بس روزو توہہ خدایہ سنز عبادت کران قرآنی تعلیمہ مطابق خالص اعتقاد  
 کمر تہہ پیٹھہ پائٹھی ازتان توہیہ کران رودو الْإِلَهَةِ الَّذِينَ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  
 آے لو کووارہ بو زویوسہ عبادت خالص شر کہ نشہ آسہ سو جہہ سزوار خدایہ یں۔ یعنی توحید جہہ واجب  
 سارنے پیٹھہ بلہ توہہ پیٹھہ تہ یہ واجب تہ منہ جہہ بین ہنز جہہ کتھہ۔ وونی سمولو کو خالص عبادت تراوتھ  
 خدایس ورآے شریک تجویز کمری سمن متعلق تم و نان جہہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ  
 اسی جہہ تہنز پرستش کران مگر می خیالہ کہ تم و اتناون آسہ خدایس نزدیک، سان عبادت تہ مطاببات  
 کرن پیش خدایس نشہ۔ پیٹھہ پائٹھی دنیاس اندر جہہ وزیر و اتناوان پادشہمن نشہ لو کن ہندی معاملات  
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیشک اللہ تعالیٰ کرہ عملی فیصلہ تمنی منزبہ تہمد یں  
 مقابلن اہل ایمانن منز تمن سارنے کھن سمن منز تم اختلاف کران جہہ۔ سہ فیصلہ گو کہ اہل توحیدن



يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝  
 اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ  
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
 يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ الْآهَو الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ ۝

وانت ناوہ جنس اندر اہل شرک و اتناوہ دوزخس اندر۔ تہہ مہ کھیو تہندس نہ مانہ نس پیٹھہ کانہہ غم۔  
 سمیک تہ مہ کمر و تعجب کہ یم کونہ چھہ باوجود نہہ دلیلہ آتھہ سیزہ و تہ پیٹھہ پکان۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي**  
**مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھہ نہہ کامیابی ہنز و تھہ ہوا ان تہ نس قولاً پز پور آسہ بیہ نس  
 اعتقاد یعنی نس زیوہ پز پور آسہ بیہ آسہ کفر چہ تھہ ونان۔ دلہ کنی آسہ ٹھری اعتقاد ا پیٹھہ ڈاڈٹر تھہ۔  
 بعض مشرک آس اللہ تعالیٰ آس کن اولاد لاگان۔ ملائکن آس دپان تمہ چھہ خدا یہ سزہ کورہ تمن چھہ  
 اللہ تعالیٰ رد کران۔ **لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ**  
**الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** ہر گاہ اللہ تعالیٰ بالفرض بڑھہ ہا کانسہ اولاد بنوان پنہ نیوے مخلوقہ آندرہ نس بڑھہ ہا تس  
 گرہ ہا امہ خاطرہ منتخب۔ مگر سہ چھہ پانہ خالق تس وراے تم چھہ تم چھہ مخلوق۔ غیر جنس اولاد آس  
 چھہ عیب۔ اللہ تعالیٰ چھہ ساروے عابونعہ پاک۔ لہذا چھہ مخلوق آندرہ ولدیتہ خاطرہ کانہہ منتخب کردن  
 محال۔ لہذا چھہ ارادہ بحال کردن تہ محالے۔ سہ ثابت کہ سہ چھہ معبودا کن۔ شریک بالفعل تہ چھہ نس  
 کانہہ بیہ چھہ سہ زبردست۔ تس چھہ شریک بالقوہ تہ کانہہ۔ **خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ**  
**يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ** سہ چھہ راتچہ تاریکی ولان دچہ روشنی پیٹھہ سمہ سیت  
 دوہ چھہ غائب سہان تہ رات چھہ یوان۔ دچہ روشنی چھہ ولان راتچہ تاریکی پیٹھہ ییمہ سیت راتھ چھہ  
 ختم سہان تہ دوہ چھہ یوان **وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ** تم چھہ لاگمت کامہ آفتاب تہ زون **كُلِّ يَجْرِي**  
**لِأَجَلٍ مُّسَمًّى الْآهَو الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ** تم آندرہ روزہ پر تھہ اکھاہ پکان آکس مقررہ و قس تام سمود لیکو

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ  
 بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ فَا تَنصَرِفُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ تَكْفُرًا وَاقِفَاتٍ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا  
 يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

پتہ تہ توحیدس انکار کرنس چھہ اندیشہ عذاب اللہ تعالیٰ اس چھہ تھہ پیٹھ قدرت کیا زہارہ بوزوسہ چھہ  
 زبردست۔ ہر گاہ کانہہ انکار کر تھہ توحید تسلیم کرہ تہس کرہ نہ ہتھہ گزشتہ انکارس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ  
 سہ چھہ سیٹھہہ مغفرت کرہ ون۔ بیا کہ دلیل چھہ تہندہ توحید چ۔ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تہہ  
 لو کہ کثرونہ پادہ انس شخص نشہ۔ سہ گوو آدم علیہ السلام ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا توپتہ کرن پادہ آدم  
 علیہ السلام نشہ تسنز زنانہ سوگیہ حوا علیہا السلام توپتہ پھیلاون تمن دوشونی نشہ ساری بنی آدم وَأَنْزَلَ  
 لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ بیہ کثرون پادہ تہندہ فایدہ خاطرہ چاروایدہ آندرہ آٹھ نرودادہ۔ وونٹھ، گادہ،  
 ژہاول، کٹھ، يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ سہ پروردگارہ چھہ توہمہ  
 اے انسانو پادہ کران ماجن ہندین شیکمن آندرا کہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس پیٹھ۔ تمہہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس  
 پیٹھ۔ گوڈنچ کیفیت چھہ نطفہ یعنی آب منی آسان دویم کیفیت چھہ، موٹ خون آسان، تریم کیفیت  
 چھہ ماز پھول آسان۔ بیہ چھوہ توہمہ پادہ کران ترین گٹن اندرید ہنزگٹھ، بچہ دانہ ہنزگٹھ، ٹھہلگٹھ ہتھہ منز  
 چہ آسان چھہ۔ مختلف گینتین پیٹھ پادہ کزن چھہ تہندس کمال قدرتس پیٹھ دلالت کران۔ ترین  
 تاریکین منز پادہ کزن چھہ تہندس کمال عکس پیٹھ دلالتہ کران ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے اللہ  
 تعالیٰ چھہ تہندہ ہروردگار۔ تہوندے چھہ سورے ملک، تہنزے چھہ سارے سلطنت تہ حکومت لآلہ  
 إِلَّا هُوَ کانہہ اکھاہ چھنہ عبادتس سزوارتس وراے فَا تَنصَرِفُونَ یژہہ دلیلہ تہندس معبود  
 برحق آسٹس پیٹھ آتھہ کوت چھوہ تہہ پھر نہ یوان إِنَّ تَكْفُرًا وَاقِفَاتٍ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ

وَذُرَّ آخِرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُجِعْكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبَهُ  
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ  
مِّنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ مَتَّعُ

الکفر اے لو کو تہہ بوزوکہ کفر و شرک چھ محض باطل۔ ہر گاہ تہہ امہ پتہ کفر و شرک کمر و پس اللہ تعالیٰ اس چھ تہہ تمیک کا نہ ضرر۔ کیا زہ سہ چھ تہہ توہہ کن یا تہہ س عبادتس کن محتاج۔ تس و لتہ تہہ تہہ ہ عبادت نہ کرنہ یا توحید اختیار نہ کرنہ سیت کا نہ ضرر۔ مگر یہ تہہ چھ ضرور کہ تس چھ بدن ہند کفر کرن پسند۔ کیا زہ تہہ ہ کفر نہ سیت چھ تہہ کن پانس ضرر۔ **وَلَا تَشْكُرُوا بَرِّضَهُ لَكُمْ** ہر گاہ شکر گذاری کمر و تمیک بوڈ فردتہ باقی افرادن ہند موقوف علیہ چھ ایمان، تہہ چھ سہ تہہ ہ حقہ پسند کران۔ امہ نشہ چھ اکھ قاعدہ مقرر کہ **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** کا نہہ اکھاہ تلیہ نہ کا نہہ پندین گو سن ہند بور پانس پیٹھ۔ پرستہ اگس چھ پائے پنہ نین گو سن ہند بور تلن۔ لہذا آگوشہ نہ کا نہہ ہند خیال کرن تہہ کفر کمر تہہ کیا یہ سون کفر لیکنہ بیہ سندس نامہ اعمال اندر تہہ سپد و تمہ نشہ بری۔ نہ ہیکن تابعن ہند جرم متبوع برداشت کمر تہہ تہہ تلٹھ۔ یا کا نہہ ونہ کا نہہ ژہ گریہ کام امیک گوناہ چھ میانہ ذمتہ۔ غرض یہ بنہ نہ کنہ صورتس اندر۔ بلکہ چھ پرستہ اگس پنہہ جرمگ سز پانہ کھیون **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُجِعْكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** تو پتہ چھ توہہ پنہ نس پروردگارس کن رجوع کرن۔ پس کرہ سہ توہہ خبر تہہ سارنے کا مین ہنزیمہ تہہ کران آسہ۔ سئی و یہ توہہ بیچھ کا مین ہند سزا **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** بے شک سہ چھ ہر زنون و دن ہنزہ تہہ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ** بیہ یلہ مخرک انسانس کا نہہ سختیاہ و اتان چھ مگان چھ تمہ ساتہ پنہ نس حقیقی پروردگارس پروردگارس کن بے معبود چھس تمہ ساتہ مشان توپت یلہ سہ تس عطا چھ کران پنہہ طرفہ کا نہہ نعمہ، امن و آسایشاہ مشان چھ تس، تہہ یمہ خاطرہ سہ مگان اوس امنہ بروٹھ بالکل چھ غافل سپدان **وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ** تو پتہ چھ بیہ ٹھہر او ان معبود

بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ أَمْنٌ هُوَ قَائِلٌ  
 إِنَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا  
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
 رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ

برحقش شریک۔ بگفتہ لوکن ڈالہ تہنزه وتہ نشہ۔ یعنی پانہ گمراہ سپد تھ جھہ بین لوکن ڈالان تہ گمراہ  
 کران۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فرماو دو توبہ یار رسول اللہ تس شخصس ای  
 شخصہ نکل ژہ فایدہ پنہ کفر کم کینہہ کاکس تان۔ آخر کار جھہ ژہ تارہ کیو لوکو اندرہ۔ امہ پتہ جھہ اللہ  
 تعالیٰ فرماوان اہل توحیدن ہند مدح۔ اَمَنْ هُوَ قَائِلٌ إِنَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو  
 رَحْمَةَ رَبِّهِ کیاہ سہ شخصس نئس اہس مشرکس برعکس عبادت آسہ کران رات نئس وقت عموماً  
 غفلتک جھہ آسان سجدہ تہ قیامہ سیت، کھوژان آسہ آخرتس بیہ آسہ امیدوار پروردگارہ سدس  
 رحمتس۔ سہ چھا برابر تس شخصس سیت نئس نافرمان تہ بے نماز آسہ۔ ہرگز نہ بلکہ جھہ عبادتس پیٹھ شب  
 وروز مداومت تہ ڈاؤ کرہ ون، محمود تہ مقبول، مشرک تہ بے نماز مطرود تہ مردود۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ فرماو کہ جہہ یار رسول اللہ برابر چھا تم  
 لو کہ تم عالم تہ زانہ ون آسن بیہ تم سم جاہل آسن کینہہ تہ آسن نہ زانان۔ سمہ بیانہ سیت اگرچہ سپد ثابہت  
 کفرک تہ کافران ہند مذموم آسن بیہ ایمانک تہ اہل ایمان ہند محمود آسن، مگر توتہ رٹن نصیحت تہ تم سم  
 صاحب عقل سلیم آسن۔ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  
 حَسَنَةٌ فرما وومیانہ طرفہ بالیمان، ای میانو بالیمان ہندو جہہ کھوژو پروردگارس پنہ نس مداومت  
 کمر و طاعتن پیٹھ۔ پتھ روزو گنہو تہ نافرمانیو نشہ۔ سم سمہ دنیا س اندر نیکی کرن جہندہ خاطرہ جھہ رُت  
 صلہ تہ رُت بدلہ آخرتس اندر وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ہر گاہہ توبہ و طمن اندر کانہہ چیز عبادت کرنہ نشہ

وَإِسْعَاءُ إِتْمَايُوتِي الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩  
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ  
 أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭ فَأَعْبُدُوا مَا  
 شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ  
 أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَمْ يَنْ

مانع چھتہ، تہلکہ کمر و ہجرت کیا زہ خدایہ سُنڈ زمین چھتہ کھول تہ وسع۔ اگس جالیہ نے دشمن ہندہ وجہہ  
 خدا ہیوں سرت، بیس شہرس منز گوتھ سز یوں پُن خدایہ دینس پیٹھ روز و صبر و استقلالہ سان اِتْمَا  
 یُوتی الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مستقل روزہ و نین تہ صبر کرہ و نین یہ مزور دنہ بے حساب و  
 بے شمار قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ میہ آؤ خدایہ سہدہ  
 طرفہ حکم کرنہ کہ بہ کرہ عبادت خدایہ سز یوسہ عبادت خالص تہندی خاطرہ آسہ۔ تہہ منز نہ شریک  
 اکہ زمش تہ آسہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ بہ آسہ تہمہ امتہ کیو گوڈہ  
 بیجو مسلمانو آندرہ یعنی اسلامس دین حق تسلیم کرہ و نیو آندرہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
 تہہ فرما یو کہ پتہ کہ ہر گاہ بہ پنہ نس پروردگارہ سز نافرمانی کرہ تہلکہ چھتہ میہ اندیشہ بڑہ ڈہیکہ عذاب سہ  
 گو قیامتک دوہ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تہہ فرما یو کہ بہ چھس بندگی کران خدایہ سزے یاڑ۔  
 یہ زانتھ کہ بندگی شوہہ خاص تسی یاڑ۔ توہہ تہ پڑہ ہایشہ عبادت کرن تہنز۔ لیکن ہر گاہ تہہ تہ مانان  
 چھوہ نہ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تلہ کمر و تہہ عبادت نس ورانے سکن ہنز خوش کرہ۔ تمیک  
 نتیجہ تلو توہہ پائے قیامتک دوہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 پتہ فرما یو کہ تہہ کہ بے شک تاوان رُد گے تے سکن تاوان چھو پتہ نین پانن تہ پنہ نس عیاس قیامتک  
 دوہ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وارہ بوزو تہ یاد تھا و یہ تھہ کہ یوہے کیاہ گووُن تاوان تہ بوڈ نقصان

فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَمُّمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ  
 عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُونَ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ  
 يَّعْبُدُوهَا وَأَنبُوْا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ  
 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ  
 وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۱۸﴾ أَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ  
 فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿۱۹﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمُ الْغُفْرَانُ مِنْ

تج کیفیت چھ تھ پاٹھ کہ اُنْمَنْ فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَمُّمْ ظُلْمٌ تہندہ خاطرہ چھہ تمن پیٹھ  
 کن تہ نارہ شعلہ، ورن تہ نارہ کئے تہ تمن بون کن تہ چھہ نارہ کی شعلہ یعنی وٹھرن تہ نارہ کئے۔ پریتھ  
 طرفہ آسن تمن احاطہ کتر تھ نارہ کی شعلہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یہ گوئی عذاب سمہ سیت  
 کھوڑہ ناوان چھہ اللہ تعالیٰ پنہ بنن ہندن، امہ عذابہ نیشہ چٹنگ تدبیر تہ چھہ بیان کران۔ سہ گووین حقس  
 عمل گرن يُعْبَادُ فَاتَّقُونَ فرماوان چھہ کھہ اکی میانو بندو، کس کھوڑو میہ یعنی میانس عذابس۔ میانی  
 مہ کتر ونا فرمانی۔ دین حقس پیٹھ کتر و عمل۔ یہ اوس کافرن تہ مشرگن ہند حال۔ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 فرماوان با ایمان ہند حال وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَّعْبُدُوهَا وَأَنبُوْا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ  
 عِبَادِ بیہ تم لوکھ پتھ رود شیطانس پرستش کرنہ نیشہ یعنی معبودان باطلن ہنز پرستش کرنہ نیشہ، بیہ  
 کوڑکھ رجوع اللہ تعالیٰ اس گن تم چھہ مستحق خوش خبری بوزہ ناوس۔ پس فرماو بشارت تہ خوش خبری  
 میانین تمن ہندن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ تم بوزان چھہ خدایہ سُنْد کلام گن دار تھ  
 تو پتہ چھہ تمہ چن رٹن کھن پیروی کران تمہ چھہ سارے کھہ رتھہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ  
 هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ تمے لوکھ کیاہ گئے تم تمن اللہ تعالیٰ ان رتھو تھ ہا۔ بیہ گئے تمے خاص کر عقلہ وال تہ  
 گائل أَمَّنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ کیاہ کس پیٹھ عذاب حکم ثابت سُنْد  
 کیاہ ٹوہہ بیکیونہ موکاوا تھہ سہ شخص کس حکم الہی نارس منرو ومنت آسہ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمُ الْغُفْرَانُ

فَوْقَهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ  
 اللَّهُ الْبَيْعَاتُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ  
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ قَدْرَهُ مُصْفَرًّا  
 ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ۳۱  
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ طَوِيلٌ

عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لیکن تم لو کہ تم کھوڑ ہروردگار س پنہ نس تو پتہ  
 رود پتہ ہندہ نافرمانی نشہ، ہندہ خاطر چھ جنک بالاخانہ یمن پیٹھ کن بے بالاخانہ بناؤمت آسن تمو  
 بالاخانہ بون کن چھ کولہ تہ جو یہ پکان وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبَيْعَاتُ امہ کے چھہ اللہ تعالیٰ ان وعدہ  
 کورمت اللہ تعالیٰ پھندہ وعدس بدل کران اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ  
 کیاہ ثیہ و پھتھتھ نالے و چھونہ پتھ کن کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ترود آسپتھ طرفہ رود تو پتہ یکہ ٹوون سہ  
 آب ناگو تہ کیر یون ز مینس اندر ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ قَدْرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا تو  
 پتہ چھہ تہی آبہ سیت کھاران زراعت۔ سمیک قسم مختلف چھہ آسان۔ تو پتہ چھہ سہ زراعت خشک  
 سپدان نس چھہ سہ و چھان تہ زرد سپدان۔ تو پتہ چھہ تھہ اللہ تعالیٰ چورہ کران اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي  
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک چھہ تھہ زراعت کس ابتدائس تہ انتہاس منز ہنڈ نصیحت گالین ہندہ  
 خاطرہ۔ یعنی حالتھ چھہ بعینہ انسان ہنزہ دنیوی زندگی ہنز۔ اتھ زندگی اندر مشغول سید تھہ ابدی  
 راحت و آرامہ نشہ پن پان محروم کمر تھہ ابدی مصیبتن گرفتار چھہ ہڈ حماقت تہ نادانی۔ اگرچہ سون  
 بیان چھہ سیٹھہ بلغ مگر بوزن وال چھہ ساری ہوی آسان اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ  
 عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ چنانچہ سہ شخص یم سند سینہ اسلام قبول کرنہ خاطرہ اللہ تعالیٰ ان مزہ روو یعنی  
 اسلامہ حقیقتنک پد نس یقین، سہ چھہ پکان پنہ نس ہروردگار ہ سندہ عطا کمر متہ گاشہ موجب یعنی  
 عمل کران ہندو یو بدلائتو مطابق۔ تس شخصس برابر چھہ سہ شخص نس کفرہ چین تار یکن منز بودمت

لَلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ اللَّهُ  
 نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ  
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِهَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۴﴾ كَذَّبَ

آسہ فَوَيْلٌ لِّلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پس سیٹھاہ خرابی ۾ افسوس چھہ تمن لوکن بہند دل سخت درچھہ خدایہ سزہ ذکرہ نشہ۔ دنیا س منز چھہ تے لوکھ نہ گراہی منز بتلا نہ گرفتار امہ پتہ چھہ تمہ نورک ذکرہ بیان اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللہ تعالیٰ اَن کورنازل سیٹھاہ رت کلام یعنی قرآن مجید کتاباہ یک مضامین اکھ اگس ہی چھہ پھیر پھیر بیان کرنہ آمت۔ تھہ منز لوکن فکرہ تارنہ خاطرہ چھہ بعضے بعضے مضامین تھہ تکرار س منز باوجود فائدہ تاکید دلس منز مدعا تہ مطلب راسخ سپد چھہ بے بے خاص لطایف موجود چھہ۔ امہ کلامہ سیت چھہ تیرہ کنڈی پھشان تمن لوکن ہندین بدن تم کھوڑان چھہ پنہ نس ہر ورد گارس ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ توپتہ چھہ نرم سپدان تہند بدن تہ دل خدایہ سندس یادس کن متوجہ سپدنہ سیت یعنی قرآن مجیدہ موجب عمل گرہ نس گن متوجہ سپدان ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ یہ قرآن مجید چھہ خدایہ سند ہدایت امہ سیت چھہ سہ و تھہ ہاوان تمن تمن ہندسہ یڑھان چھہ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ کس چھنہ کانہہ و تھہ ہاودن أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِهَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ کیاہ سہ شخص نس بچاورہ پن پان تھہ سیت جہنمہ سخت عذابہ نشہ قیامتگ دوہ، عام دستور چھہ کہ انسان چھہ پن پان بچاوان تکلیفہ نشہ اتھو سیت قیامتگ دوہ آسن ظالم ہندی اتھ پتھ گن گنڈ تھہ تی موکھ بچاوان تم پن پان تھہ





الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ  
 مَيِّتُونَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾  
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ  
 إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ وَالَّذِي جَاءَ

دویم شخص چھہ آرامس اندر۔ اکیسی آغس سیت مھس تعلق۔ گوڈنچ مثال گنیہ مشر کہ سنز۔ مٹہ چھہ سہ  
 آغس چیزس پر سٹش کران تہ ٹنہ بیس چیزس۔ موجد چھہ پر سٹش کران اکیسی معبود بر حقہ سنز۔ یہ کتھ  
 کرن تسلیم سم مشر کہ تہ الصِّدْقِ حَق سہ ثابت لہذا ابوبین حمد و ثنا معبود بر حقس باوجود آل کرن نہ  
 سم لو کہ یہ کتھ قبول بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھہ اکثر کافر زانان یہ صاف کتھ۔ یلہ پر چھہ  
 اعتبارہ خشک فیصلہ سہ مگر مخالفوہ فاصلہ قبول کورنہ۔ وون چھہ باقی قیامتگ آخری فاصلہ۔ سمہ فاصلہ  
 نغمہ نہ کانہ تہ بیچہ سر تابی کمر تھ۔ تمیک ابتداء چھہ موت سیت اے پیغمبر بر حق ہر گاہ سم لو کہ دنیا  
 س اندر یہ معقول فیصلہ تسلیم کرن نہ ٹہ مہ کھیو، تمیک غم کیا زہہ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ  
 دنیا اندرہ چھہ توہہ تہ مسر تھ نیرن۔ تم تہ چھہ دنیا ہ اندرہ مسر تھ نیرن۔ دنیا س اندر روزن  
 کانہ چھہ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ تو پتہ چھہ توہہ دوشون فریقن قیامتگ دوہ  
 پن مقدمات بیتہ پنہ نس پروردگار س بروٹھ کنہ حاضر سپن تمہ دوہہ گرہ سہ عملی فیصلہ۔ سہ فیصلہ گو  
 ناحق پر ستن جہنمگ عذاب تہ حق پر ستن اجر عظیم یعنی جنت۔ یہ کتھ چھہ ظاہر کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
 كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ کس شخصہ سدہ خوتہ  
 گس اکھاہ چھہ زیادہ بے انصاف۔ ہم اپن نور و معبود بر حقس پٹھ۔ زانانہ، پٹو تہ کورہ شریک ٹھہراونہ  
 سیت۔ یہ کورن تکذیب تہ انکار پزرس کلامس یعنی قرآن مجید سہ یلہ سہ قرآن مجید ووت تس نغمہ  
 بواسطہ پیغمبر بر حق۔ مٹھس شخصہ سہ عالم آسن چھہ ظاہر۔ اظلمہ سہ مستحق عذاب عظیم آسن تہ چھہ  
 ظاہر۔ سہ عذاب عظیم گو نار جہنم۔ کیاہ مٹھن کافرن ہنز جائے شوہہ نار جہنم وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۹﴾ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۰﴾ لِيُكَفِّرَ اللهُ  
 عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ  
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾ اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ  
 بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۴۲﴾  
 وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ اَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ

وَصَدَقَ بِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تم بدل گے تم لو کہ تم خدایہ سندہ طرفہ یا پیغمبرہ خدایہ سندہ  
 طرفہ پوزیتھ آئے۔ یہ کورکھ پانہ تہ تھ ہر س صدیق۔ تے لو کہ چھہ یقیناً متقی تہ پر ہیزگار۔ تہند فیصلہ  
 چھہ کہہ لہم ما یشاءون عند ربہم تہند خاطرہ چھہ تہ سورے یہ تم ہر صہن پنہ نس پروردگار س  
 نیشہ ذلک جزاؤ المحسنین کیے چھہ مزدور تہ بدلہ نیو کارن ہند۔ تہندہ خاطرہ سپد بہ تجویز  
 لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون تہند اللہ  
 تعالیٰ دور کرہ تہمزہ پچھہ عملہ یہ تھہ رز موزور عطا کرہ تم عملن ہنزیمہ رزہ عملہ تم کران اس الیس  
 اللہ بکاف عبده کیاہ اللہ تعالیٰ پھننا کافی پنہ نس بندہ خاص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)  
 حفاظت کرنہ خاطرہ۔ سہ چھہ سارے ہندہ حفاظتہ خاطرہ کافی پنہ نس بندہ خاصہ سندہ خاطرہ گوٹھہ  
 تا اسن و یخوفونک بالذین من دونہ تم کافر چھہ امہ قسمک احمق کہ خدایہ سنزہ حفاظتہ نش تجاہل  
 کتر تھہ چھہ توہمہ کھوڑہ ناوان معبودان باطلن ہندہ سیت تم تمو خدا یس وراے چھہ پائے ٹھہر او مت۔  
 حالانکہ تم چھہ پانہ بے جان تہ عاجز۔ ہر گاہ قادر تہ آسہ ہن توتہ کیاہ چلہہ ہا تم خدایہ سنزہ راچھہ تہ  
 حفاظتس مقابلہ۔ یہ چھہ تم و تھہ راومر و من یضلیل اللہ فما لہ من ہاد الیس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ  
 نس چھنہ کانہہ تہ و تھہ ہاوہ و ن تہ ہدایت کرہ و ن و من یهد اللہ فما لہ من مضیل ایس اللہ تعالیٰ  
 و تھہ ہاوہ نس پھننا کانہہ و تہ نیشہ ذالہ و ن تہ گمراہ کرہ و ن الیس اللہ بعزیز ذی انتقام کیاہ تم

ذِي انْتِقَامٍ ﴿۱۳﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
 وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَاتَدْعُوْنَ  
 مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ اَرَادَنِي اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ  
 ضُرِّيْهِ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ  
 حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۴﴾ قُلْ لَيَقُوْمَ  
 اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْۤ اَعْمَلُ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵﴾

تھنا خیال کہ اللہ تعالیٰ چھ زبردست انتقام ہینہ وول۔ تعجب چھ کہ تمن چھہ پانس تہ تمہہ تمہہ ہند تسلیم کہ اللہ تعالیٰ چھہ پنہ نین بندن نصرت کرہ نس پیٹھہ کافی۔ قدر تس اندر چھہ سیٹھاہ کال چنانچہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ہر گاہ تہہ تمن لوکن پر تھو کہ آسمان تہ زمین کم کر پادہ ضرور ون تم کہ اللہ تعالیٰ ان کمر پادہ ہتھہ ہڈا جرام فلکی از عدم بوجود اُن چھہ دلالت کران جہدس کمال قدر تس پیٹھہ اتھ پیٹھہ بناکرتھ قُلْ اَفَرَايْتُمْ مَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اِنْ اَرَادَنِي اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضُرِّيْهِ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖ پر تھو تہہ تمن اے کافر و میہ و نتو تہہ تمن معبودان باطلن ہنز تہہ پر ستش کران و چھوہ خدا بس و رائے۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ میہ کانہہ تکلیف و اتہ ناؤن یڑھہ کیاہ تم معبود ہینہ نہ تکلیف میہ نعمہ دور کمر تھہ یا ہر گاہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ یڑھہ کانہہ مہر بانیاہ کیاہ تم معبود ہینہ سو مہر بانی پتھر رتھہ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ تہہ فرما یو کہ امہ اندرہ سپد ثابت ای آیو گوڈہ تہہ بیان کرنہ۔ چوچھہ نہ چھہ تھہ قدر تہہ وول تہہ تھہ مدد کرہ ون مہ چھہ بس سے اللہ تعالیٰ عَلِيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ لہذا چھہ تس پیٹھہ توکل کرہ و نی توکل کران۔ بہ تہہ پتھس تس پیٹھہ توکل کران۔ تہزہ مخالفتک تہہ دشمنی ہند پتھس نہ بہ کانہہ پروا کران قُلْ لَيَقُوْمَ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْۤ اَعْمَلُ فَاَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ بالاخر فرما یو کہ تہہ یا رسول اللہ اے لوکو ہر گاہ اتھ پیٹھہ تہہ کینہہ ماؤنہ تیلہ زانو تہہ تہہ کار زانو۔ تہہ گوڈہ سو کام کران پنہہ جایہ پیٹھہ۔ بہ تہہ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾  
 اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمِنْ اَهْتَدَى  
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ  
 بِوَكِيلٍ ﴿۴۰﴾ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ  
 تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ  
 يُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

بھٹس پنے طورہ عمل کران۔ بروٹھ مکن زانو توہہ پائے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ سہ کس شخص آسہ نئش وائہ دنیا عس اندر سہ عذاب نئس نئس خوار و ذلیل گرہ۔ بیہ کس پیٹھ بیہ آخر نئس اندر سہ عذاب نئس ہمیشہ دائم تہ پوشہ ون آسہ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ پنز پاٹھ آسہ کمر نازل توہہ پیٹھ یہ کتاب ہتھ منزہ زے پوزہتھ لوکن ہندہ نفعہ فایدہ خاطرہ۔ تھنز کام ہتھ بیہ وائہ ناون فَمِنْ اَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا تمہہ پتہ نئس اگس و تھہ آسہ امہ قرآن مجیدہ سیت نئس ہتھ تمیک فاندہ نئس پانس۔ نئس اکھاہ و تہ نئشہ ڈول سہ ڈلہ نہ مگر پنتہ پانہ کبہ ضرہ خاطرہ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ توہہ نہ حض ہتھوہ نہ لوکن ہند ذمہ دار زورہ کیاہ انبوکہ تم سیزہ و تہ پیٹھ۔ لہذا کیا زہ توہہ تہندہ گراہی ہندہ سببہ ننگلین سپدان اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اللہ تعالیٰ اکی ہتھ قبض کران تمن روحن ہندہ مرہ نئک وقت و تہمت آسان ہتھ۔ بیہ تمن روحن تمن نہ ونہ مر نئک وقت و تہمت و ہتھ آسان۔ تمن تہ ہتھ قبض کران ہند رہ اندر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاٰخَرٰى اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى نئس ہتھ رٹان تمن روحن تمن پیٹھ مر نئک حکم تم جاری کورمت آسان ہتھ۔ بیہ ہتھ وانئس سوزان باقی روحن اگس مَعِين تہ مقرر کرنہ آئس و قس تان یعنی عمرہ ہندس مدتس تام اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ بے شک اتھ مجموعہ تصرفس منزہتھ خدایہ سندہ قدر تچہ تہندہ منفرد فی التصرف آسہ واریاہ دلیلہ تمن لوکن ہندہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ  
 اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾ قُلْ لِلّٰهِ  
 الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهٖ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۲۵﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ

خاطرہ تم فکرتہ تامل کران آسن اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ کیاہہ تم مشرک لو کو چھا باوجود  
 واریاہد لیلہ توحید چہ قائم آسکھ خدا ئس ورائے بیہ معبود قرار دتمیت تمین متعلق تمن خیال چھہ کہ تم  
 کرن اسہ سفارش قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُونَ ٹوبہہ فرماو یو کہ یارسول اللہ اے  
 لو کو کیاہہ اگر تمن ٹکھ چیزس پیٹھ اختیار تہ قدرت نہ آسکھ بیہ کانہہ چیزا نہ زانٹھ چھوہ توہہ تمن زانان ہن  
 سفارش کرہون۔ حالانکہ سفارش کرہ نس گڑھہ آسن قدرت تہ علم بے جان چیز چھہ تمودوشوے چیزو  
 نفعہ خالی۔ وون ہر گاتم و ن آس چھہ کھنہ تم بے جان چیزنی نفسہ زانان شفاعت کرہون بلکہ چھہ آس تمن  
 زانان شفاعت کرہون تمین ہنزہ بیمہ شکھہ چھہ۔ تم چھہ ذی روح تمن منز چھہ قدرت تہ تہ علم تہ۔ اللہ  
 تعالیٰ چھہ تھہ رد فرماو ان آمہ پتہ قُلْ لِلّٰهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا ٹبہہ تارو یمن وارہ فکرہ یہ کتھ کہ سفارش  
 ہند سورے اختیار چھہ خدایہ سے یوت۔ تہندہ اذنہ تہ اجازتہ ورائے ہیچہ نہ کانہہ تہ کانہہ سفارش  
 کمر تھہ۔ اذنہ خاطرہ چھہ زہ شرط۔ اکھ گڑھہ شفیع مقبول آسن بیہ ئس شفاعت بیہ کرنہ سہ گڑھہ قابل  
 مغفرت آسن۔ تمین ارواحن ہنزہ تم پر ستش کران چھہ تم اگر شیطان چھہ تیلہ چھہ تمن منز دوشوے  
 شرط مفقود ہر گاہ تم ملا نکہ چھہ تیلہ چھہ دو تم شرط مفقود۔ لہذا سپر۔ ہنز شفاعت کرن باطل امی موکھ  
 آس یوان تم معبود قرار نہ لہذا سپد تہند معبود آسن باطل امی سیت سپد اللہ تعالیٰ سہ معبود برحق آسن  
 ثابت ئس معبود برحقہ سہد شان چھہ کہ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ آسمان تہ زمین ہنز سارے  
 حکومت چھہ تس آتھہ ٹنمہ ایلہ تہ تُرْجَعُونَ پتولا کہ سورے عالم ختم گڑھہ پتہ ایو جہہ ئس کن واتاوندہ  
 وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ کافرن تہ مشرکن ہند حال چھہ کہ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ  
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا  
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۖ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۷﴾

یلع خدایہ سُدے یوت یاد کرنے چھہ یوان تمہی معبود برحق تہس چھہ تصرف سارنے کائین پیٹھہ تمہہ  
ساتہ چھہ تمہن لوکن ہندول چوگر اونہ یوان تمہن نہ پٹھہ چھہ آخرتچ کیا زہ تمہن چھہ توحیدچ نفرت  
وَأَذْکُرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ سمہ ساتہ تذکرہ چھہ کرنے یوان تمہن ہندیم تہس معبود  
برحقس ورائے چھہ، تمہن تم شریک خدازانان چھہ، تم چھہ خوش گزہاں کیا زہ تمہن چھہ شرک ٹوٹھ  
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ تہہ مہ سپدیارسول اللہ تہزہ دشمنی  
سیت غمکین۔ ٹوہہ کمر و دعا۔ خدائس مگو یا اللہ تہے چھٹھ آسمان تہ زمین ہند پادہ گرہ ون تہے چھہ  
سورے پوشیدہ تہ نون زانہ ون أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ تہے کرکھ  
قیامتگ دوہ فاصلہ پنہ نین ہندن منز تمہن تھن ہند تمہن منز تمہ پانہ وان اختلاف کران اس تمہ فیصلہ کہ  
وقتہ سپدہ حال کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ  
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ہر گاہ تمہن لوکن نیشہ ہمو ظلم کور شرکہ تہ گزہ سیت سہ سورے مال آسہ، تہس  
سارسی زمینس منز چھہ بیہ تھہ سیت بیہ تیوت مال تہ دولتھ ضروردن تمہ سہ سورے مال، تم تامل  
تہ تار کرنے ورائے پن پان موکلا ون خاطرہ قیامتگہ دوہہ کہ سخت مشکل عذابہ نیشہ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ  
مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ تمہن نن تمہہ دوہہ اللہ تعالیٰ سیدہ طرفہ تمہ حالاتھ تمہن ہند نہ تمہن و ہم و  
گمانے اوس وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِكَ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ بیہ سپدن ظاہر

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ  
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَشْرًا اِذَا  
خَوْلٰهُ نِعْمَةٌ مِّمَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ طَبْلُ هِيَ فِتْنَةٌ  
وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَمَا آغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿۴۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ  
مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ  
مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۴۱﴾ اَوْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

تمہ دوہہ تمہ سارے پیچھے کامہ تمہہ تمو کر مرہ آسن۔ یہ یہی وہ نہ تھن نہ عذاب تھہ تم ٹھٹھہ کر ان آس  
فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَشْرًا انسان نُس ذکر اللہ نغمہ نفرت چھہ کر ان، غیر اللہ سندس یادس  
سیت چھہ دل چھپی تھوان تمہہ ساتہ آس مشرک انسانس کانہہ سختیہ و اتان چھہ اتی چھہ تمہ ساتہ باقی  
ساری تراو تھہ آسے نادووان نَشْرًا اِذَا خَوْلٰهُ نِعْمَةٌ مِّمَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ تمہہ پتہ پتہ یلہ آس  
تس کانہہ نعمتھہ عطا کر ان چھہ تمہہ ساتہ چھہ یہ نعمت خدا نُس منسوب کرنہ نغمہ گریز کر ان۔ دہنہ چھہ  
لگان کہ یہ نعمت بنے یہ میہ پتہ تدبیرہ سیت آس انسانہ سند یہ زان چھہ غلط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنْ  
اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ بلکہ چھہ یہ نعمت آزمائش تہ امتحان کہ آیایہ نعمت واتھہ مشر او پایہ انسان آسہ کنہ  
امہ نغمہ شکر گذاری گرہ مگر لو کہ چھہ یہ تھہ زانان قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا آغْنٰى عَنْهُمْ  
مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ نتیجتاً اژہ تھہ چھہ و نموہہ تمولو کو تہ تم تمن برو تھہ آس (قارون وغیرہ) نُس دیت  
نہ کانہہ فایدہ تمن تمو چیز ویم تمو حاصل کر مت آس فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا  
مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ یہہ سمولو کو ظلم کور سمومکہ کیولو کھواندرہ۔  
تمن تہ ولتہ عنقریب تمن پیچھے عملن ہند پیچھے نتیجہ یہہ تمو کرہ مرہ تھہ۔ تم تمنکن نہ خدا نُس عاجز کر تھہ۔



الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾ قُلْ يُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
 لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا  
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۷﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ

چنانچہ جنگ بدرس منز کھيو و تمو کا فی سزا اولم یعلمو ان الله یسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلك لآیات لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ بے شک اتھ کی زیادتی کرہ نس اندر چھہ واریاہ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک تمن لوکن ہندہ خاطرہ سمو پڑھ کثر تہ ایمان اون معبود برھس قُلْ یُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فرماو توہہ میانین ہندن سم پر ژھان چھہ کہ ہر گاہ اس اسلام آو سائین گو نمہن کیا ہنہ۔ اے میانو بندو سمو گناہ کر نہ سیت پنہ نین پانن پیٹھ زیادتی کثر کہ نا امیدمہ سپدو اللہ تعالیٰ سندہ رحمتہ نعمہ ان الله یغفر الذنوب جَمِيعًا اللہ تعالیٰ کرہ تہندین سارنہ برو ٹھمن گو نمہن بخشایش۔ ادہ اس تن تم گوناہ شرک تہ کفرے۔ یہ آیہ کریمہ چھہ اعلان کران حضرت ارحم الراحمینہ سندہ بے شمار جٹگ بیہ تہندہ عفو و درگزر کر کچھہ تھدہ شانگ۔ بیہ ہر گاہ کانہہ سخت مایوس الطلاج گو نمہن ہند ہمارا آسہ تہندہ حقہ چھہ یہ آیہ کریمہ اکسیرک حکم تھاوان۔ مشرک، ملحد، زندیق مرتد یہودی، نصرانی، مجوس، بدعتی، فاسق، فاجر آس تن یہ آیہ کریمہ بوڑتھ گنھہ نہ تہند خدایہ سندہ رحمتہ نعمہ مایوس سپدن۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ یس یرٹھہ نس کرہ مغفرت سارنہ گو نمہن۔ تہند ارادہ بیہ نہ کانہہ تہ چھہ رٹھہ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ واقعی سہ چھہ سیٹھہ بخشہار، سیٹھار حمتہ وول، چو بچہ امہ معانی تہ بخشایشہ ہند شرط چھہ توہہ تہ مسلمان سپدن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ لہذا کثر و ٹھہ رجوع تہ توبہ پنہ نس پدو ردگار س گن بیہ کثر و تہنز تابعداری، توبہ پیٹھ عذاب آلمی نازل سپدنہ برو ٹھہ عذاب نازل سپدنہ پتہ بیہ نہ توبہ کانہہ مدد

مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ  
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى  
مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۵۷﴾  
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۸﴾ أَوْ  
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۹﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ  
وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۶۰﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا

کرنے کا نہ ہندہ طرفہ **وَابْتِغُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً**  
**وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** یہ کسر و پیروی تمن ر تمن کھن سم توبہ کن نازل آے کرنہ ٹھندس پروردگارہ  
سندہ طرفہ ہنکھ تہ منکھ عذابس گرفتار سپندہ بروٹھ۔ توبہ آسہ نہ تمیک وہم وگما نے منکھ قسمہ۔ **أَنْ**  
**تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ** منکھ نہ ہناہ ہنہ کہ  
توبہ آندرہ ونہ کانہ شخصہ افسوس تہ میانہ کوتاہی پیٹھ یوسہ میانہ طرفہ آہ خدایہ سنزہ فرماں برداری  
اندر۔ واقعی بہ اوس ٹھٹھ کرہ ونیو آندرہ تمن تھن پیٹھ دنیاس اندر **أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي**  
**لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** یا ونہ کانہ شخصہ کہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ ان میہ ہدایت کورمت آسہ ہابہ تہ آسہ ہا  
پرہیزگار و آندرہ **أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** نتہ ونہ  
کانہ شخصہ سمہ سائہ نظر نہیں عذابس پیٹھ کاش کہ میہ ہے دنیاس کن والہس وکن گوشہ ادہ ہنہ ہاہ نیلو  
کارو آندرہ **بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ** کس بیہ ونہ البتہ تحقیق  
ژیہ لشہ وات میان آیات تم زان تھتھ ژہ اپز۔ ژہ کوزتھ تم مانہ لشہ منکھ تہ غرور۔ بہ اوسکھ ژہ

عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى  
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا  
يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ  
أَغْيَرِ اللَّهُ تَأْمُرُوَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ

ہمیشہ کافر نے سیت و یوم القیمۃ تری الذین کذبوا علی اللہ قیامتہ دوہوجہ بہتھ ذہ تم لو کہ تم  
اپنورو اللہ تعالیٰ آس بیٹھ۔ یہ کتھ خدا من فرماوہ نہ تمہ لاجتھ تس یہ کتھ تم فرماوہ تمن کو رکھ  
انکار۔ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۗ کتھ تہندی آسن کرن سیاہ۔ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ  
کیاہ جنم چھنارونج جائے تمن متجبرن ہندہ خاطرہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ یہ یہ  
اللہ تعالیٰ نجات رستہ گاری تہ کامیابی سیت تمن لو کن تم بہتھ رود شرک و کفرہ نعرہ یہ رودتھ ہنزہ  
نا فرمانی نعرہ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن ولتہ نہ کانہ تکلیف، نہ آسن تم نمگین اللہ  
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ ای چھہ پریتھ چیزک پیدہ کرہ ون۔ یہ چھہ سنی  
پریتھ چیزک ذمہ دار لہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس اتھہ چھہ کوزہ آسمان تہ زمین ہندین خزان  
ہنزہ۔ سنی چھہ موجہ سارگوی۔ باقی تھاوہ ون تہ حافظ پریتھ چیزک۔ سنی چھہ متصرف پریتھ چیزک  
آسمان وزمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ چھہ تسکی اتھہ۔ لہذا اتھہ کمالک صفت آسہ ونس شو بیاشریک  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تم لو کہ باوجود آل انکار چھہ کران خدا یہ سندین  
آیاتن تے لو کہ چھہ تاوان زد تہ سیٹھاہ نقصان تلہ ون۔ تم لو کہ آس پانے کفر و شرکس بتلا۔ مگر تم چھہ  
امہ قسمک بے حیاء کہ یہ چھہ توہہ تہ فرمائش کران نعوذ باللہ پنہ نس طریقس پیٹھہ عمل کرکج قُلْ  
أَغْيَرِ اللَّهُ تَأْمُرُوَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ توہہ فرماو کہ یار رسول اللہ کیاہ توحید ثابت سپد تھ تہ

أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ  
 لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهُ  
 فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ  
 قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ  
 مَطْوِيَّٰتٌ بِّيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾  
 وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

شرک باطل سپد تھ چھوہ توبہ میہ دپان معبود برحقس ورائے بین ہنز عبادت کرن۔ اے نادانو تہ  
 جابلو، ای پیغمبر برحق توبہ نغمہ تمھ پاتھ ہیچہ نعوذ باللہ شرک وکفر صادر سپد تھ سمیک تم احمق توقع چھہ  
 تھوان کیاہہ و لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  
 وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تھمیں وحی آسوزنہ توبہ کن تم توبہ برونھ آس کہ پنہ نین امتین و نو  
 توبہ پر تھہ اکس فردا فردا کہ ہر گاہ تہ شرک بخدا اکھ چان سارے کام گڑھہ ضایع۔ بیہ سپد کہ تہ  
 ضرور نقصان تلمہ و نیواندرہ۔ لہذا تھنہ کافران ہندہ بار بار و نہ سیت متاثر سپد تھ شرکس کن مایل سپدو۔  
 بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ بلکہ کمر و خدایہ سزے یاثر عبادت بیہ آسوتس شکر دپہ  
 و نیواندرہ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّٰتٌ  
 بِّیْمِیْنِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ افسوس تم لو کو کر نہ خدایہ سز قدر و عظمت تھہ یژھ  
 تس شوہہ ہا۔ حالانچہ تمسند شان چھہ کہ سوزے زمین آسہ ہمزہ موچھہ منز قیامتک دوہ ساری آسمان  
 آسن و تھہ تھندس دچھس اتھس اندر۔ منزہ تہ پاک بیہ تھود تہ بلند چھہ شرکہ چوساروے تھو نغمہ سمہ  
 کتھہ لو کہ تس ٹھہراوان چھہ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ  
 قیامتک دوہ بیہ پوغس منز چھو کہ دنہ۔ تمہ سیت سپدن بے ہوش تم ساری سم آسمان تہ زمین منز  
 آسن۔ یم زندہ آسن تم مرن۔ یم مومت آسن قبرن منز تھند روح سپدن بے ہوش۔ مگر تمن ہند اللہ

اِلٰمَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَخَرَفِيْهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۷۸﴾  
 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالرَّبِّيْنَ  
 وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَوَقِيَتْ  
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَسَيُقَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءُوهَا فَتُحْت  
 اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ  
 يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَآءِ يَوْمِكُمْ


تعالیٰ یزہد تم روزانہ اُمہ بے ہوشی سے مرنے نشہ محفوظ ثُمَّ نَخَرَفِيْهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ تو  
 پتہ پیہ پو غس منز بیا کہ پھو کہ دنہ۔ سہ پھو کہ یان دنہ پیہ تان ساری ہوش منز روحن ہند تعلق سپدہ  
 بدن سیت۔ تو پتہ تو تن قبر ومنزہ تھو۔ پر تھ طرفہ لکن وجھنہ۔ یتھ پاٹھ کنہ حاججہ وقتہ انسان سند  
 عادت چھہ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا تو پتہ کرہ اللہ تعالیٰ حسابہ خاطرہ پن تجلی نزول زمینس  
 پیٹھ زمین سپدہ روشن پنہ نس پروردگارہ سدہ نورہ سیت۔ وَّوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالرَّبِّيْنَ وَالشُّهَدَآءِ  
 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ پیہ ین پریتھ اگس بروٹھ کنہ تھانہ عملن ہنزہ کتابہ یعنی نامہ  
 اعمال۔ پیہ ین پیش کرنہ پیغبر پیہ تھند گواہ۔ تو پتہ پیہ فیصلہ کرنہ تمن منز بعدل۔ تمن پیہ نہ کنہ قسمہ ظلم  
 کرنہ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ پیہ پیہ پورہ پورہ دنہ پریتھ اگس تمیک بدلہ  
 یہ تم کورمت آسہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ زیادہ زانہ ون تمہ سارے کلمہ یہ لو کہ کران چھہ۔ تمہ بدلگ بیان  
 چھہ یتھ پاٹھ کہ وَسَيُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءُوهَا فَتُحْت اَبْوَابُهَا وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ تالینکہ یلہ جھمنس نشہ وان تمہ  
 ساتہ بن مزراونہ تمک دروازہ پیہ دیکھ تمہ ساتہ بطور فضیحت و ملامت جھمنک داروغہ کیاہ تو بہ نش

هَذَا طَقَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۱﴾  
 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى  
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۲﴾ وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا  
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾ وَقَالُوا  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ

واثر اے تا پیغمبر تم تو ہی منزه آس۔ ہم پرہ من بوزہ ناوہ من توہر تہندس پروردگارہ سند آیات  
 وَيَبْدُرُونَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کرہ من ہم توہر ہمہ  
 دہمہ پیش بیک۔ تم دین بے شک آے پیغمبر اسہ نچہ تمو بوزہ ناوہ سند آیات۔ تم آس اسہ ہمہ دہم ہم  
 کران۔ لیکن عذاب و عدہ سید کافرن پیٹھ پورہ من منز اس تہ داخل چھہ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ  
 فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وندہ پیٹھہ اثر و جنم کیو دروازو منز۔ آتھہ جہنم منز چھہ توہہ ہمیشہ  
 روژن عرض خدلیہ سند یو احکامو نچہ جتھر کرن والین ہندہ خاطرہ کاٹراہ پیٹھہ جای چھہ یہ جنم۔ وَسَيَقَ  
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا یہ یں بکمال عزت پکناوندہ تم لوکھ ہم پنہ نس پروردگار  
 کھوژان اس، جنس کن، سمیک گوڈمیک مرتبہ ایمان گو دجاژو جماژو حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ  
 أَبْوَابُهَا تَالِيَةً يَلِيهِ تَم تھہ نزدیکیہ واتن سمیکی دروازہ آسن مشرانوہ امت بروٹھے تھنہ تمن پیازن یہہ وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا یہہ ون تمن جنگ باغوان سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلام بوین توہہ آے جنم۔ تُوہہ  
 روز و عیش و آرامس منز۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ نس آژو نچہ تمن جتن اندر ہمیشہ روزنہ خاطرہ  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ  
 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ جنم ون جتن منز اثر تھہ، حمد بوین نس معبود برحق ہم اسہ من وعدہ پوز کور۔ اس بناون

نَبَّوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۴۳﴾  
 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ  
 رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

وارث تہ مالک جنت کبہ نر زینک۔ جائے زلواں سمہ جنت منزہ بتین خوش گرہ امہ۔ غرض کیاہر ژمزوریاہ تہ رت بدلاہ  
 چھ جنت عمل تہ محنت کروئین ہمدہ خاطرہ  
 بیہ وچھو کہ تمہ یارسول اللہ ملایک صاحبہ اجلاسہ کہ وقتہ عرش مجیدس آنداند گھیر کمر تھ ، حلقہ کمر تھ روز تھ تسبیح  
 تہ حمد پران پنہ نس پروردگارہ سہد وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ بیہ سہ لوکن منز فیصلہ کرنہ ہز یک تہ انصافک وَقِيلَ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امہ رتہ فیصلہ پتہ سہدن پر تھ طرفہ نعرہ ہای تحسین بلند۔ وندیہ سارے خوبسہ تہ  
 تعریف چھ سزاوار معبود برحقس ئیس عالمین ہند پروردگار چھ۔ ہم رت فیصلہ لوکن منز کور سبب نعرہ  
 ہائے تحسین پیٹھ سیدہ دربار برخواست۔



## سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲ غَافِرِ الذَّنْبِ  
 وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۳ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۴ مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۵ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ  
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لحمہ سم زہ حروف چھ حروف مطلقاً تو آندرہ۔ تمن ہند معنی زانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ  
 اللہ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ کتاب قرآن مجید چھ نازل کرنے آمت اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نُس سبھا غائب تہ  
 سبھاہ زانہ ون چھہ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ  
 نہ گوناہ بخشہ ون توبہ قبول کرہ ون، سخت عذاب کرہ ون کافر ن تہ مُشْرِكِن، قدر تہ دول کا نہ معبوداہ  
 چھہ تس ورائے نُس کُن چھہ سارنے پتولا کہ واتن مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ تعالیٰ سندین آیاتن منز چھہ بحث تہ اختلاف کران مگر تے لو کہ  
 سموتس انکار کور۔ پس مہ تراون توبہ دھوکس تہ شہس منز چھہند اورہ پور گران، پھیرن تہ تھورن شہرن  
 منز تجارت کرنے خاطرہ۔ تمن کونہ چھہ کفرہ سببہ کینہہ نقصان گڑھان۔ توبہ روزو مطمئن کہ کمنہ تہ کمنہ  
 وقتہ بین سم گرفتار کرنے کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ تمن مکہ کین کافر ن  
 بروٹھ تہ چھہ انکار کورمت نوح علیہ السلامہ سند تو من بیہ واریہو جماژ تمن پتہ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ  
 بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ بیہ کر پرتھ اتس اندر



لِيَاخُذُوهُ وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُمُ  
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ  
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ  
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ  
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

ارادہ پڑھ نہ کر دینو لوگو کہ تم گمراہ بن پنے نس پیغمبرس گر فتنہ تھ قتل کرنک، بیہ کور تمواپن یوکتھو  
سیت تنازہ بیٹھ تم تمہ اپڑہ سیت پڑس باطل گرن۔ ادہ رٹ میہ تم فکیف کان عقاب ادہ تھے خبر  
میون سزائیٹھ اوس تہندہ حقہ۔ تھہ پاٹھ تمن دنیاس منز سزا آؤونہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ بیٹھ پاٹھ تھہ سارنے کافرن ہندہ حقہ تھندس پروردگارہ سُنہ حکم  
ازلی ثابت سپد مت کہ تم آسن ضرور آخرتس اندر نارس اندرو اتہ دن یعنی تمن سپدہ بیتہ تہ سزاتہ بیتہ  
آسہ تمن ابدی سزائیٹھ پاٹھ بہ تمن موجودہ وقتہ کین ہند حال اتھ بدل تم باایمان تہ مؤحد تھہ تم تھہ  
خدا نِس نہ تھہی محترم تہ محترم کہ ملائکہ مقر بین تھہ مولا سندنس تسبیح و تقدیس سیت وظیفہ مقرر  
آمت تھاونہ باایمان ہندہ خاطرہ دعا و استغفار کرن۔ سمہ سیت ظاہر تھہ سپدان باایمان گمہ قسمہ تھہ  
اللہ تعالیٰ اس نہ تھہ محبوب تہ مقرب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تھہ فرماوان الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ  
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تم ملائکہ عرش مجیدس تلتھہ تھہ بیہ تم ملائکہ تم تھہ آند آند  
روز تھہ تھہ یا طواف کران تھہ تم تھہ تسبیح تہ حمد پان پنے نس پروردگارہ سُنہ بیہ تھہ تس بیٹھ پور پڑھ  
سکرتھہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ تھہ تم ملائکہ مغفرت منگان تمن لوکن ہندہ خاطرہ سمو ایمان  
اولن۔ پان چھ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ  
عَذَابَ الْجَحِيمِ اے سارہ پروردگارہ پریتھہ چیزس تھہ واتھہ چان رحمت تہ چوں علم پس کر تہ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ  
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ ۙ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ  
 فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ  
 إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۙ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا

مغفرت تمن لو کن سمو شرک و کفرہ نشہ توبہ کو رہیہ کر کہ پیروی چاہیہ و تہ ہنزیہ رہیہ تم جہنمہ تم  
 عذابہ نشہ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ای سانہ پروردگارہ بیہ و اتنا کہ تم ہمیشہ روزنہ  
 کین جہنم اندر تمن جنم ہند تہ تمن وعدہ کورمت جہتہ۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
 وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ تم یومالیو ماجو اندرہ بیہ تمہن و زانو اندرہ بیہ تمہدیہ  
 اولاد و اندرہ، تم تہ لایق آسن یعنی با ایمان آسن بے شک تہ جہتہ زبردست جنتہ دول وَقِهِمُ  
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ بیہ رہیہ تہ تم قیامتک دوہ ساروے تکلیفونہ  
 میدان محشر کیو بیہ تکلیفوتہ پریشانیہ نشہ۔ اُس اکھا تہ رہیہ تہ تمہ دوہہ کیو تکلیفونہ بے شک چہ  
 تس پیٹہ چانی مر بانی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیہ گنیہ مغفرت تہ حفاظت عذاب اکبرہ نشہ تہ  
 عذاب اصغرہ نشہ بیہ جنس واتن ہنڈر ستگاری تہ کامیابی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقَّتْ اللَّهُ  
 الْأَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ بے شک سمو لو کو گھر کورتم یلہ جہنم منرو اتہ  
 پنہ اُس کفر و شر کس پیٹہ حسرت و انوس کمر تہ سخت زہ اندر پانے پنہ اتہ چہ اونچہ آسن کھیوان تمن  
 بیہ بڈہ منہ قیامتہ دوہ اے کافر و توبہ چھوہ اُپنہ نین پان پیٹہ بیزار۔ اللہ تعالیٰ اوس توبہ پیٹہ تہدہ و ن  
 کینس پنہ نین پان پیٹہ بیزار سپنہ خونہ زیادہ بیزار۔ تمہہ ساتہ یلہ توبہ ایمانس گن ناداوس یوان دنہ تو پتہ اُسو

اٰثِنَتَيْنِ وَاٰحِيَّتِنَا اٰثِنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَى  
 خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝۱۱ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ  
 كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحَمُّ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۲  
 هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْاَيْتٰهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا  
 وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَن يُنۡبِئُ ۝۱۳ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ  
 الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۴ رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ

تو بہ انکار کران قالوا رَبَّنَا اٰمَنَّا اٰثِنَتَيْنِ وَاٰحِيَّتِنَا اٰثِنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوْجٍ  
 مِّنْ سَبِيْلٍ تم دین اے سائے پروردگارہ، مارتھ ژبہ اُس دویہ پھرہ اکہ پادہ سپدنہ بروٹھہ بہ دنیاچہ  
 زندگی پتہ۔ زندہ تہ کمر تھہ ژبہ اُس دویہ پھرہ اکہ دنیاچ زندگی دویم آخروج زندگی۔ سمہ گنیہ  
 ژور حالہ۔ سموا ندرہ اُس اُس انکار کران اُسی حالس سہ گو مرنہ پتہ بہ زندہ سپدنس۔ پس چھہ اُس  
 اقرار کران پنہ نین گونن۔ وون چھہ کینہہ و تھہ سمہ جنمہ منزہ نیرنج۔ دنیاچ س اندروا تھہ گرہ ہوا اُس  
 سم سارنہ گونن ہند تدارک جواب یکھہ دنہ کہ ہر گزنہ۔ تھندہ خاطر چھنہ نیرنج کمنہ صور تھہ۔  
 تھندہ خاطر ہچھہ ہمیشہ یق روز تک حکم جاری اُمت کرنہ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ  
 يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحَمُّ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ یہ سزا چھہ تو بہ امی موکھ دنیاچ س منزلیہ کمنہ سے خدا اُس  
 ناداوس یوان دنہ تو بہ اسوہ تھہ انکار کران ہر گائس شریک ٹھہراونہ اس یوان تھہ اسوہ کران تہہ ہچھہ تہ  
 تسلیم۔ از چھہ اُس خدایہ سز حکو متھہ اُس تھووتہ بوڈ چھہ تس پٹھکن چھنہ کانہہ تہ اُس تھہ س کھس  
 پھرہ اوہ ہا۔ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْاَيْتٰهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَن يُنۡبِئُ سہ گووسی  
 اُس تو بہ ہوا ان چھہ پنہ قدر تک نشانہ یہ چھہ سوزان آسمانکہ طرفہ تھندہ خاطرہ رزق۔ سوزن تہ چھہ تھندہ  
 قدرتہ کیونشانو ندرہ اکہ نشانہ۔ ہم نشانہ و چھنہ سیت رطہ نہ نصیحت مگر سنی اُس خدا ایس کن رجوع کر نک  
 ارادہ آسہ تھواون۔ وون یلہ توحیدس پیٹھہ دلیل قاسم چھہ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ  
يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱۵ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۱۶  
الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۷ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَافِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى  
الْحَنَاجِرِ كَاطِيبِينَ ۗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيبٍ وَلَا شَفِيعٍ

الکفر و ان لو کو کفر و شرک تراوتھ مگو توہہ معبود برحقس، تسی یاثر بندہ گی مخصوص زانتھ  
اگرچہ کھرتن تہ ناگوار گذرتن معکون تہ کافرن رفیع الذکرت ذوالعرش یلقى الروح من امرہ  
علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق سہ چھ تھو در درجہ اول۔ بالیمان ہند درجہ چھہ بلند  
کرہ ون۔ عرش مجیدک مالک چھہ سی۔ سی چھہ سوزان وحی پنہ لحمہ سیت۔ پنہ نیوبند واندرہ کس پیٹھ  
سہ یشھان چھہ، پیٹھ سہ بندہ خاص لوکن نیم کرہ قیامتہ ڈہک۔ سمہ دوہہ ساری جمع سپدن یومہم  
بارزاون لا یخفی علی اللہ منہم شیء یمہ دوہہ تم ساری لوکھ قبر ومنزہ نیرن نیر، توپتہ سپدن  
جمع خدا کس برونھ نہ کھتھ روزہ نہ ٹہنز کا نہ کتھہ اللہ تعالیٰ اس رفیعہ نہ ٹہند کا نہ چیزاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماوہ  
لمن الملک الیوم از کہنز سنا حکومتھ چھہ۔ کا نہ تہ ہیچہ نہ جواب دتھ۔ پائے فرماوہ اللہ تعالیٰ للہ  
الواحد القہار از چھہ حکومتھ کسی خدا یہ سنز۔ کس قرہ وول تہ غلبہ وول چھہ الیوم تجزی کل نفس  
بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب از پیہ پر پیٹھ اکس بدلہ دنہ عمہ سار کیویہ تم کورمت  
آسہ دنیاس اندر۔ از پیہ نہ کا نہ نسبت کتھہ قسمہ ظلم کرنہ۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ جلد حساب ہیوہ  
ون۔ تھہ پاٹھ سارنہ پیغبرن او حکم کرنہ کہ قیامتہ ڈہک کمر لوکن نیم تھہ پاٹھ چھہ توہہ تہ حکم کرنہ  
یوان وأنذرہم یوم الازفافیذ القلوب لادی الحناجر کاظیبین ٹہہ تہ کمر وخص نیم لوکن یارسول  
اللہ کہ نزدیک یوہونہ مصیبتہ ڈہک یلہ وانہ آسن لوکن واثر مرہ ہر س پیٹھ۔ تے آسکھہ غمہ سیت ہر

يُطَاعُ ۱۸) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹)  
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۲۰) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا  
 يَقْضُونَ شَيْئًا ۲۱) إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰) أَوْلَمْ  
 يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۲۲) كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي  
 الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۲۳) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَاقٍ ۲۴) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حِينِهِمْ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ تمہ دہمہ آسہ مٹر کن تہ کافر ان کا نہ ولی دوستانہ  
 کا نہ سفارش کرہ و ناہہ سمنز سفارش مانہ بیہہ ہا یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ  
 ہجہ زانان اچھن ہندس خیائس بیہ تم ن سارنے کھن تم ن دل کھنٹھہ تھاوان چھہ۔ بیہ کھ سین منز  
 پوشیدہ آسان ہجہ تم ن پیٹھ نہ کا نہ واقف سپدان ہجہ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ سہ علم چھہ  
 کابل۔ سہ کرہ پوز فاصلہ تمہ دہمہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۲۰) إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ بیہ تم ن باطل معبودن یم لو کھ خدایس ورائے آلودوان ہجہ تم ن تم ن نہ کئیہ قسمہ فاصلہ کمر تہ  
 کیا زہ پیشک اللہ تعالیٰ اے ہجہ سہ سوزی و ہجہ ون۔ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ہ تم لو کھ چھنا پھیر مت شام و سمنہ کس ملکس اندرتا نیک و چھہ  
 ہن تم کیا ہ ہجہ سپد مت انجام تم ن نافرمان لو کن ہند یم تم ن بروٹھ آس کَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
 وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تم آس جہنہہ خوتہ زیادہ قوتہ کن بیہ تمو تراو پتھ کن  
 زمیس اندر جہہ عمارث۔ تو پتہ رث تم اللہ تعالیٰ ان کترن گرفتار عذاب جہنہہ یو گو نہوسبہہ وَمَا كَانَ  
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ تو پتہ تہ اوس نہ تم ن کا نہہ بجاون و ولاہ خدایہ سندہ عذابہ نغمہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾ وَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۳﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ  
 هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
 بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي  
 كَأَنِّي مُّؤْتَمِرٌ مَّا يُؤْمِرُ

كَانَتْ تَأْيِيهِمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ عذاب سید تم  
 پیٹھ سیمہ موکھ نازل کہ تم نیشہ آس واتان ہند پیٹھ نندہ دلیلہ ہتھ۔ تو پتہ آس تم انکار کران۔ کس کمر  
 تم گرفتار اللہ تعالیٰ ان عذابس۔ بیشک سہ چھہ سیٹھاہ قوتہ دول سخت عذاب کرہ ون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ہنز پاٹھہ ہہ سوزاسہ موسیٰ علیہ السلام ہن آیات تہ نندہ دلیلہ ہتھ  
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ فرعونس ہمانس تہ قارونس کن دوپ تمو  
 یہ چھہ جادوگر تہ ایزبور فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ توپتہ یلہ آو موسیٰ علیہ السلام عام لوکن نیشہ سانہ طرفہ پوزدین ہتھ تمو  
 منزہ اون ایمان بعضہ لوکو۔ تم کافر اس تمو دوپ پانہ وان بطور مشورہ کہ مارو کہ تم لوکن ہندی  
 لوکت تمو ایمان اون حضرت موسیٰ آس سیت۔ ہتھنہ تم لوکن ہند قوت زیادہ سپدہ ورنہ چھہ اندیشہ  
 سلطتھہ زوالک۔ کورہ ہنز تھاووکھ زندے کیاہہ تمہہ بن خدقس تہ کامہ کوچہ بکار۔ یہ سوچ تمو غلبہ  
 موسویچہ بندشہ ہند تدبیر وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ کافران ہند تدبیر چھنہ مگر بالکل بے اثر  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ یہہ دوپ فرعون میہ تراوو۔ بہ مارن موسیٰ۔  
 غالباً آسہ ہن الہل دربارتس تڑھہ حرکت کرنہ نیشہ پتھ رٹان۔ گڑھن سہ کمرن فریاد پنہ نس خدایس بہ  
 وچھہ سہ کتھہ پاٹھہ بچاوہ نس إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظَاهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
 الْفُسَادَ ﴿۲۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَقَالَ رَجُلٌ  
 مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا  
 أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ  
 بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

میں یہ خطرہ گواہان کہ سہ بدلا وہ دین ٹھنڈ۔ یہ مابھیلا وہ ملکس منز تہا ہی اسمہ سیت سان سلطنت کرہ  
 ختم وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ  
 علیہ السلامن دوپ پنے نس قومس توہمہ مہ بزر و ہر و کینہہ بہ چھنہ کھوژان فرعونہ سدس خوف دس۔  
 میں یہ پناہ ہیوت مت پنے نس تہ ٹھنڈس خدایہ سندہ سیت پرستہ مغرور شخصہ سندہ شرہ نشہ کس نہ پڑھ  
 چھہ حسابچہ دُجَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ  
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ تو پتہ وون اک با ایمان مردن کس اتھ مشور چہ مجلسہ  
 منز اوس فرعونہ سندہ خاندانہ منز، کس پٹن ایمان کھٹتہ تھاوان اوس اے لوکو کیاہ تہہ چھوہ نہ اکھ شخصہ  
 محض اسمہ کتھہ خاطرہ ماران کہ سہ چھہ دپان میون معبود چھہ اللہ تعالیٰ حالانکہ سہ چھہ توہمہ نشہ نہ دلیلہ  
 پیش کران پنے نس پروردگارہ سندہ طرفہ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اگر سہ بالفرض اہزوانان  
 آسہ تس چھہ تمیک و وبال پانس وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ہر گاہ سہ پز یور  
 آسہ تلہ ولتہ توہمہ ضرور تمہہ منزہ کینہہ تمیک سہ توہمہ وعید چھہ کران إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
 مُسْرِفٌ کذاب اللہ تعالیٰ چھنہ و تھہ ہوان کس شخص کس حدہ ڈلہ ون تہ سخت اپز یور آسہ يَقَوْمٌ لَكُمْ

كَذَابٌ ۝۲۸ يَقَوْمٍ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ ذُو  
 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ  
 مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۲۹  
 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ رَأَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ  
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝۳۰ مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبٍ  
 وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝۳۱  
 وَيَقَوْمِ رَأَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝۳۲

الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ اے قوم از چہ تہہ توہہ سلطنت تہ حکومت۔ تہہ چہوہ غالب تہہ  
 مملکتس اندر فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ہر گاہ تہہ حضرت موسیٰ شہید کریوں۔ تمہ  
 پتے خدایہ بندہ طرفہ کانہہ بلایاہ والتہ پیہ تمہ ساتھ تہہ گرہ اسہ مدد تہ یاری۔ تہہ بچاوہ اسہ تمہہ بلایہ نشہ  
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ یہ بوز تہہ وون فرعون بہ  
 چہسنہ توہہ مشورہ دیوان مگر تہہ ہند یوس میہ پانس جان آیہ بوز نہ گو موسیٰ قتل کرن بہ چہسنہ توہہ  
 ہاوان مگر سوی وتہ یوس سیز چہہ تہہ منزعیں مصلحت چہہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ رَأَىٰ أَخَافُ  
 عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ بلہ تم با ایمان شخص و چہہ کہ نرم تقریرہ سیت بنیونہ کینہہ، تم ہیوت  
 زور دار تقریر کرن۔ تو پتہ وون تم با ایمان مردن اے قوم مہ چہہ خطرہ گدھان تہہ تہہ تہہ پیٹہ تہہ  
 مایہہ تہہ دوہ تہہ برو تہہ لوکن پیٹہ آمت چہہ مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبٍ وَالَّذِينَ مِنْ  
 بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ تہہ حال بیہومت چہہ قوم نوحس، قوم عادس، قوم ثمودس،  
 پیہ تم لوکن یم تم پتہ آس۔ اللہ تعالیٰ چہہ بندن پیٹہ ظلم کرن یژھان وَيَقَوْمِ رَأَىٰ أَخَافُ



يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَالِكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ  
 اللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ  
 لَنْ تَبْعَتَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ  
 مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ  
 أَتَاهُمْ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ای میانہ قومہ بہ چھس کھوژان ٹھندہ خاطرہ تھہ دوہس سچھ منزورایاہ آلوپین دنہ۔  
 گوڈینگ نداگوپوٹس منزبہ پھوکھ دنہ سمہ آوازہ سیت ساری مردہ زندہ گڑھن۔ بیہ پیہ پریتھہ اگس  
 شخصس پنہ ماجہ سیت نسبت کمر تھہ ندا کرنہ یَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ سمہ دوہہ تھہ ژلان آسو تھر  
 پھر تھہ حسابہ کہ موقعہ نشہ دوڑخس گن۔ مَالِكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ تمہ ساتہ آسہ نہ کانہہ تر توہہ  
 خدایہ سندہ عذابہ نشہ بچاوه ون۔ بیہ مضمون اوس سیٹھاہ غایت درجہ ہدایتس متقاضی وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ  
 قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ مگر یس خداؤ تھر راورہ اُس چھنہ کانہہ تر وتھہ ہادہ ون وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ  
 مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تحقیق بیہ آو توہہ گن موسیٰ علیہ السلا مس برونھہ  
 یوسف علیہ السلام نہہ دلیلہ ہتھہ۔ اُس رودوہ توہہ ہمیشہ شک کران تھہ منزبہ سہ توہہ گن ہتھہ آمت  
 اوس خدایہ سند پیغام حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ تَبْعَتَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا تا ایچھہ بلہ تم گئے سمہ عالمہ  
 تھہ لہہ وہ ونہہ پائے ون سوزہ نہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پتہ کانہہ بیغمبر س كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ  
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ تھہ پاتھ چھہ اللہ تعالیٰ و تھر راوران تہ غلطی منز تھوان تھن لوکن یم حدہ  
 چھہ ژلان انکار کرنس اندر بیہ سم شک چھہ کران وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ  
 تم گئے تے سم بحث تہ قضیہ چھہ لاگان اللہ تعالیٰ سندین آیاتن اندر تھہ تڑوہہ دلیلہ ورائے یوسہ تھن  
 نشہ و اثر مژ آسہ ہا۔ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ اس چھہ سیٹھا نفرت امہ کج

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكِدِّرٌ جَبَّارٌ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ آلِ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْفَهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ﴿۳۷﴾ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۸﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۹﴾ يَوْمَ اتَّمَاهِدُهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

بخش ہنز۔ با ایمان نشہ تہ چھ اچ نفرت کذلک یظعم اللہ علی کل قلب متکدیر جبار چھ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان جہدین و لن پیٹھ موہر کر مز چھ پیٹھ پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ موہ ہر کران پر چھ منجبر تہ سر کھتہ سندس و کس پیٹھ۔ یہ اوس تقریر تس با ایمان مردہ سندس پن ایمان کھتت تھاوان اوس۔ امہ تقریرہ پتہ کور تم پن پان ظاہر۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ فرعون یلہ یہ لاجواب تقریر یوز تمس با ایمانس بیجو کن نہ کینہہ ونٹھ پنہ نس سابقہ جہالتس پیٹھ قائم روز تھ لگ پتہ خیالہ دلیل قائم کرنہ خاطر ہانئس کہ اے ہان میانہ خاطرہ بناوڑہ اکھ تھود مکاناہ دیوہ بہ تھ پیٹھ کھتھ وائت آسانہ جن و تن پیٹھ۔ اسباب السّموات فأطلع إلى آل اللہ موسى وإني لأكفه كاذبًا یعنی آسمان کھنہ جن و تن پیٹھ تو پتہ و چھ بہ موسیٰ علیہ السلامہ سندس خدائس گن۔ بہ چھس زانان سہ چھویہ و نہ نس اندر اپز یور۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ پیٹھ پاٹھ آوزینت و نہ فرعونہ سندہ خاطرہ تمسز ن پیٹھ کائین۔ بیہ آؤسہ پتھ رٹھ سیزہ و تہ نشہ۔ تم کر یہ موسیٰ علیہ السلامس مقابلہ واریاہ بڈ تہ تدبیر وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ مگر فرعونہ سند پر چھ تدبیراہ گوو ضایح تہ بے کار۔ گنہ تدبیرس منز پند نہ کامیاب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ تم با ایمان شخص یلہ و چھ کہ فرعونس پھور نہ کانہ معقول جوابہ تم کور بیہ تقریر۔ تم دوپ ای میانہ قومہ تہہ پچو میانہ و تہ۔ تہہ کمر و میان پیروی۔ بہ ہا دووہ توہہ رثو تھ۔ یعنی سمیل الرشاد چھ میانی و تھ فرعونہ سنز

الْقَرَارِ ۳۳) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ  
 عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ۳۴  
 وَيَقَوْمُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۳۵  
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ  
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۳۶ لِأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي  
 إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا

و تھ پھنہ۔ تم سدا دعوه چھہ اہڑ یقوم ائما ہذہ الحیوۃ الدنیامتاع وان الآخرة ہی دار القرار اے  
 میانہ قومہ یہ دنیاء چ زندگی پھنہ مگر کینوں دوہن فایدہ تلج۔ اصل روزہ نک گرہ گوو آخر تک گرہ۔ مَنْ  
 عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ہم اکھ پچھ کوم کتر تس بیہ نہ تمیک سزا دہ مگر  
 تھہ برا برس اکھاہر ژ عمل گرہ مر دویا زانو اندرہ با ایمان آنتھ تے لوکھ اژن جنس اندر۔ تھہ پچھہ برزق  
 عطا کرنہ حسابہ روستے وَيَقَوْمُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ای میانہ قومہ یہ کہوہ  
 کتھاہ پچھہ کہ بہ چھسوہ توہہ نادووان نجاس کن تہہ چھوہ میہ نادووان نارس کن تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ  
 وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ تہہ چھوہ میہ نادووان معبود  
 بر حقس انکار کرنس تہ شریک ٹھہر اوئس کن تمکنہ میہ نشہ کا نہہ خیراہ چھہ، دلیلاہ چھہ۔ بہ چھس توہہ  
 نادووان تس معبود بر حقس کن ئس سیٹھاہ چھنہا چھہ لِأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي  
 الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ ئس پرستش کرنس کن تہہ میہ نادووان چھوہ سہ پھنہ

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿۳۲﴾ فَسْتَدْكُرُونَ  
 مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ  
 بِالْعِبَادِ ﴿۳۳﴾ فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مِمَّا كَرِهَ وَأَوْحَى  
 بِاللَّيْلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿۳۴﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا  
 غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ  
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۳۵﴾ وَإِذْ يَتَحَاكَمُونَ فِي النَّارِ

قابل نہ دنیاءس اندر کفہ حاجت وزہ نادوس نہ آخرتس اندر دفع عذابہ کہ وقتہ کیا زہ نادوئج صلاحیت  
 چھہ تمس کس قدرت و علم آسہ۔ ہم دو شوے چیز چھہ غیر اللہس رشہ مفقودہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ  
 الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یہ چھہ یقینی کتھ کہ آسہ سار نے چھہ وائس رجوع کرن اللہ تعالیٰ اس  
 گن۔ یہ تہ چھہ یقینی کتھ کہ حدہ رشہ ڈلہ ون یعنی غیر اللہس عبادت کرہ ون چھہ نارس اندروانہ ون  
 فَسْتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میان کتھ چھہ تہہ بہان پیوہ تہہ رشہس سوکتھہ۔ یوسہ بووان چھوس مگر  
 بروئھہ پن۔ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بہ چھہس پن معاملہ پُشر او ان  
 اللہ تعالیٰ اس بے شک اللہ تعالیٰ چھہ پاندو چھان پنہ نین بندن ہند حال فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مِمَّا كَرِهَ  
 وَأَوْحَى بِاللَّيْلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ کس روچھہ سہ با ایمان بندہ اللہ تعالیٰ ان تھند یو مضر تدبیر و  
 رشہ۔ پوت پھیر تھہ آؤولنہ عذاب فرعونہ سندین لوتین پوتین چنانچہ فرعون تہ تھند قوم پھوٹ  
 دریائے قلمس اندر۔ موسیٰ علیہ السلام تہ تھند یو تابو لوب نجات۔ آل فرعونہ منزہ ہم با ایمان اس  
 تمو تہ لوب موسیٰ علیہ السلامس سیت غرق سپد نہ رشہ نجات النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا  
 عالم ہرز خس منز چھہ تم صُحُصس تہ شامس نارس بروئھہ کتھہ آنتہ یوان تم چھہ ونہ یوان کہ قیامتگ دوہ کیاہ  
 بیوئھہ اتھ نارس منز داخل کرنہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  
 قیامت قاسم سپدہ تمہہ دوہہ بیہ حکم کرنہ وانہ ناویو کھ فرعون تہ تھند قوم سخت عذابس اندر وَإِذْ

فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ  
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿۳۴﴾  
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ  
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ  
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿۳۶﴾  
قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ  
قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۳۷﴾

يَتَحَاكِمُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ سُنَّه وقت تہ چھہ قابل ذکر یلہ کافر نار جہنم اندر پانہ وان ہر ہ ہر  
گرن تو پتہ ون کمزور لوکھ تم لوکن ہم مغرور تہ سرکش اس اس تو ہی تابع۔ کیا ہر جہہ بیجوہ نازک  
کانہ حصہ آسہ نشہ دور کر تھہ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ  
مغرور تہ سرکش لوکھ ونہ ککھ اس ساری چھہ نارہ سے منز (اس ہر گاہ تو ہہ کیہنہ کمر تھہ بیجہ ہو گوڈہ کرہ  
ہو اس پانہ سے) بیشک اللہ تعالیٰ ان کو رفاصلہ بدن منز۔ وون بیجہ نہ تیجہ فاصلس منز بدل سپد تھہ۔  
تھہ فاصلس منز آس اس ساری نار ی قرار ونہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ  
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ تمہ پتہ ونہ تم ساری لوکھ ہم جہنم منز دزان اسن جہنمہ کین  
داروغن، جہہ محکو سائہ خاطرہ خدا اس سہ کرہ ہاکنہ دوہ عذابس منز سہل قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ  
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تم دیکھہ کیاہ توہہ نش اس نالیوان پیغبر تھہ نہ دلیلہ ہتھہ جہنمہ کہ عذاب نشہ کچ  
کانہ طریقہ تہ صور تھہ ہتھہ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ تم دیکھہ اوہ یوان اس مگر اس اس نہ تھہ مانان قَالُوا  
فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ تم دیکھہ تورہ تھہ محکو پانہ آسہ چھہ کافر ن سفارش

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ  
مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝۵۲ وَلَقَدْ  
آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۝۵۳  
هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝۵۴ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کرہ نچ ممانعت۔ مگر تھے مگنسن یہ کہانہ نتیجہ نیر یونہ کیا زہ کافر ن ہند ممکن پھنہ مگر بیکار تہ بے اعتبار۔  
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اس پھہ یاری تہ  
مدد کران پنہ نین پیغمبرن بیہ بالیمان دنیا چہ زندگی اندر بیہ سمہ دوہہ گواہ یعنی تم ملائیک، تم نامہ  
اعمال لیکھان آسن گواہی خاطرہ تھو دوو تھن۔ تم دن گواہی پیغمبرن ہندہ تبلیغ بیہ کافر ن ہندہ انکار چ  
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سمہ دوہہ نہ کہانہ  
فایدہ دیہ ظالم ن یعنی مثر کن تہ کافر ن عذر تہ ہمانہ پیش کرنہ تہندہ خاطرہ پھہ لعنت (یعنی خدایہ سندہ  
رحمتہ نعمہ دوری) بیہ پھہ تہندہ روزنہ خاطرہ بیچہ مکان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي  
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تحقیق توہہ بروئہ کور اسہ عطا موسی کلیم  
الہس بوڈ ہدایت یعنی تورات بیہ کمر بنی اسرائیل اسہ وارث کتابہ ہندی یعنی توراتک اس تورات ہدایت و  
نصحت پھہ عقلہ والین تہ گالین ہندہ خاطرہ۔ بے عقل تم اس تمن ووت نہ تمہ کتابہ ہند کہانہ فایدہ۔ تمہ تہ  
چھوہ موسی علیہ السلامہ سند پائٹھ صاحب رسالت ووحی۔ تہندین آتین اندریم گائل تہ عاقل پھہ تم تہ  
کرن تمہ کتابہ ہنز یوسہ توہہ عطا کرنہ آیہ خدمت تہ اشاعت۔ بے عقل تم پھہ تم کرن اتھ کتابہ انکار  
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ مگر نہ  
کتر و تھہ پیٹھ صبر یار سول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سُد و عدہ پھہ پوز۔ بیہ مچو مغفرت پنہ نین گونن ہندہ خاطرہ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۶ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْإِكْبَرُ  
 مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ ۝۵۷ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۸ وَمَا  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ

ہیہ روز و تو بہ تھے کلمہ سیت مشغول سمہ سیت نہ غمس کن التفاتے سپدان آسہ۔ سہ گو کہ جہہ ابرو تسبیح تہ  
 حمد پتہ نس پروردگار ہندہ خاطرہ پر ان شامس تہ صبحس تہ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ  
 سُلْطَنٍ أَتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْإِكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ بے شک تم لو کہ بحث تہ قضیہ جھہ  
 کر ان خدایہ سندین آیاتن اندر کئیہ دلیلہ ورائے یوسہ تمن نغیہ واثر مژ آسہ ہا، جہندین دکن اندر جھنہ کینہہ  
 تہ بڑی یعنی سبجہ و غرورہ ورائے۔ تمن سمہ بڑی ہند خیال چھہ تھہ ممکن نہ وا تھہ یعنی سوہ سپد نہ تمن  
 حاصلہ زانہہ بلکہ گڑھن تم خوار و ذلیل فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بلکہ منگ توجہہ  
 اللہ تعالیٰ اس پناہ تمن لو کن ہندہ شرہ نغیہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون، سورے ذہجہ  
 ون۔ تم لو کہ انسان ہندس دوبارہ پادہ سپد نس انکار کر ان جھہ تم جھہ سیٹھاہ بے عقل، کیا زہ لَخَلْقُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمانن تہ زمین  
 ہند پادہ گرن چھہ زیادہ کام انسان دوبارہ کرنہ خوتہ لو کن ہنزہ نظرہ اندر یلہ بڈ کام کرنس پیٹھ نس پور  
 قدرت جھہ لو کٹ کام کرن کیاہ عجایب جھہ تس نش۔ مگر باوجود آں جھنہ اکثر لو کن یہ تھہ فخرہ تران۔  
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا  
 مَا تَتَذَكَّرُونَ بیہ جھہ پاٹھ برابر جھنہ اون تہ گاشدار تھہ پاٹھ جھنہ برابر تم لو کھہ سمو ایمان اکتھ رتہ  
 کامہ گڑہ بیہ تم بدکار آسن۔ سیٹھاہ گم جھوہ تہہ فخر کر ان ورنہ روزہ ہمیونہ تہہ اعلیٰ تہ بدکار إِنَّ السَّاعَةَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا النَّسِيُّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾  
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط  
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ ﴿۶۰﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  
 وَالتَّهَارُ مَبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ  
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ

لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قیامت ہجھ ضرور پوہون تمہ کس بیش منز  
 ہجھنہ کانہ شکھاہ۔ لیکن واریاہ لوکھ ہجھنہ مانان نہ پڑھ کران کیاہوہ تم ہجھنہ تمہ چن دلیان اندر تہرتہ غور  
 کران۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ بیہ ہجھ فرماون تہند پروردگارے لوکو مگو توبہ سے۔  
 بہ گرہ تہند پریتھ جائز در خواستہ قبول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ میہ وراے مہ مگوین حاجت کانہہ۔ بیشک تم لوکھ ہجھنہ چھ کران میانہ عبادتہ نشہ یعنی  
 میہ منگنہ نشہ میہ وراے تین ہجھنہ منگان، میہ ہجھنہ چن حاجت منگان، تم اثنین جہنمیں ستر تھ خوار گویہ تھ  
 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارُ مَبْصِرًا معبود برحق گووسی یم راتھ کمر تہندہ  
 فایدہ خاطرہ ہجھنہ تھہ تھہ منز آرام کمر و، بیہ کمرن دوہوہجھنہ خاطرہ روشن ہجھ تکلیفہ وراے تہہ معاش  
 حاصل کمر و إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ فضل کرہون لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ لوکھ ہجھنہ تمن نعمون ہنز شکر گذاری کران  
 بلکہ چھہ تھہ بدل شرک کران۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُوَفَّوْنَ بِه چھہ  
 اللہ تعالیٰ تہند پروردگار تہسمند ذکر کر نہ آو۔ تم چیز نہ یم توبہ پانے چھو کہ ٹھہراوان۔ سنی چھہ پریتھ



كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ  
يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ  
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ  
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ  
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۴﴾ هُوَ  
الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ

چیزک پادہ کرہ و ن کا نہ معبوداہ چھنہ تس و ر اے۔ توحید ثابت سپد نہ پتہ کوت چھوہ تہہ شرک کر تھہ  
پوت پھیران كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نتیہ پآٹھ اَس بِوَان  
و تھہ راوہ راونہ تم ن یم سائین آیاتن اَس انکار کران اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ معبود برحقے گوو سئی یم تھندہ خاطرہ  
کوروزنج تہ قرار کرہ نچ جای زمین۔ بیہ کورن آسمان ہیر مہ طرفہ پشاہ ہیو۔ بیہ کرنوہ عطا توہیہ صور تھہ  
سوی صورت سمرن رث صور تھہ۔ بیہ کورن توہیہ رزق عطا۔ رت رت چیز کھنہ خاطرہ۔ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ  
رَبُّكُمْ یوہے گوو تھند ہر و در گار فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پس جھہ اللہ تعالیٰ سیدھاہ عالی شان۔  
سئی جھہ عالمین ہند رب هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ سے چھہ ازلی تہ ابدی زندہ روزہ و ن کا نہ معبوداہ چھنہ تس و ر اے۔ اے لو کو پس معگو تہہ  
ساری تس، خالص اعتقاد کمر تھہ، شریک مہ ٹھمر اوو تس عنہ چیز س اندر عبادت تہ بندگی خالص سز لوازان تھہ بیہ  
نہ کانہ۔ ساری حمد و ثناء سارے خوبیہ چھہ تسئی معبود برحق سز لوازیں رب العالمین جھہ قُلْ إِنِّي  
نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تہہ فرما ویو کھہ یا رسول اللہ یمن مشرکن  
کہ میہ آو منع کرنہ بہ کیاہ کرہ پرستش تممن معبودان باطن ہنز یمن تھی





تَفَرَّحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿۵۵﴾  
 اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى  
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۵۶﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّكَ  
 بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ یہ سزا بھتہ توہمہ سے من تھن ہند کہ تہہ اسوہ دنیا سے اندر ناحق شر کہ  
 سیت نہ ٹھہرہ سیت خوش گھہان۔ یہ اسوہ تہہ بختہ نہ غرور کران۔ امہ بروٹھ آسہ تہہہ ہتھہ حکم  
 سڈمت اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُترو جہنمہ کیو دروازو منز توہمہ چھوہ ہمیشہ آتھہ منز  
 روزن فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس کاڑاہ پیچھہ جای چھہ یہ جنم متکبران ہنزیلہ انتقاما یہ سزایہ دنہ  
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ پس کمر و تہہ کینہہ کالاہ صبر یار رسول اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سُنَد وعدہ چھہ  
 پوز فَاِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ سہمہ عذاب اس تمن  
 وعدہ چھہ کران تمہہ اندرہ کانہ حصاہ ہر گاہ اس توہمہ ہاودوہ یعنی تہہہ سے وقس اندر گرو اس تمن پیٹھ عذاب  
 نازل یاسہ عذاب نازل کرنہ بروٹھ نمودوہ اس تہہہ سہمہ عالمہ منزہ بہر حال چھہ تمن واتن اس نفعہ تمہہ ساتہ  
 سڈن تم یقینا عذابس گرفتار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ  
 نَقْصُصْ عَلَيْكَ تھنن یہ سوز اسہ واریاہ پیغمبر توہمہ بروٹھ تموا اندرہ چھہ بعضے تم تمن ہند حال  
 اسہ بیان کور توہمہ پیٹھ مجمل پاٹھیا بتفصیل۔ یہ چھہ تموا اندرہ بعضے بہند حال نہ اسہ بیان کور توہمہ نفعہ مگر  
 یہ تھہ چھہ سارنہ اندر مشترک کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

هُنَالِكَ الْمُبْطُلُونَ ﴿۵۹﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ  
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۶۰﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ  
لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ  
تَحْمَلُونَ ﴿۶۱﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿۶۲﴾  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

تَفْصِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطُلُونَ کانسہ رسول س اوس نہ مقدور کہ سو کیا نہ ہا کا نہہ نشانی مگر یہ کہ  
اللہ تعالیٰ سندہ اجازت سے ت اوہ بلہ خدایہ سند حکم عذاب سے متعلق ولتہ ذنیاس اندریا آخرتس اندر تمہ  
ساتہ سپدہ فیصلہ پرہ سے ت۔ تمہ وقتہ روزن اہل باطل اپزیر خسارس تہ تاوانس اندر اللہ الَّذِي جَعَلَ  
لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللہ تعالیٰ ای گووہہ یم پادہ کمر تہندہ خاطرہ چاروائے  
بیتھ تمواآندرہ بعضین پیٹھ تہہ سوار سپدہ تمواآندرہ بعضین ہند ما زکھیو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا  
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ بیہ چہہ تہندہ خاطرہ تمن منز واریاہ فایدہ۔ بیہ بیتھ تہہ تمن پیٹھ کھسنتھ  
سوار سپدہ تھ واتو تمن مظلین یم تہندین دکن منز آسن وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ بیہ چہوہ تہہ  
اکھ تمن چاروائین پیٹھ بیہ ناؤن اندر تلنہ یوان تہ سیر کرہ ناو نہ یوان وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ  
تُنْكِرُونَ اللہ تعالیٰ چہہ توہہ پتہ قدر تک نشانہ ہاوان۔ پتہ نس پروردگارہ سندس تھ تھ نشانس بیہو  
تہہ انکار کمر تھ یم لو کہ یم دلائل قائم سپد تھ تہ چہہ توحیدہ نغیرہ انکار کران کیاہ تمن چھنا شرسکہ دو باج  
خبر أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ تم چہنا پھیر  
مت ملکس اندر۔ پس وچھ ہن تم کیاہ سپد مت ہچھ انجام تمن مکران ہند یم تمن بروٹھ آس شرکسکہ سبہ  
کَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ حالانکہ تم بروٹھم لو کہ آس تہندہ خوتہ زیادہ  
عزودہ کن۔ بیہ آس تہندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن، بیہ تمن نشان اندر یم تموز میس پیٹھ پتھ کن تراوی جہ جہ

وَإِذَا رَأَى فِي الْأَرْضِ فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۶﴾  
 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  
 وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا  
 قَالُوا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿۸۸﴾  
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ  
 الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿۸۹﴾

عبارتوں وغیرہ۔ فَمَا آغَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس دیت نہ تمہن کا نہہ فایدہ تم مال و دولتیں یوسہ  
 تم حاصل کران آس۔ نہ آکھ سہ مال و دولت بکار عذابہ نشہ پچہ نس اندر ﴿۸۶﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پس یلہ تمہن نشہ وات تمہند  
 پیغمبر نہہ دلیلہ ہتہہ تمہ آس ژینگان تہہ علم معاش پیٹہ بہہ مادی ترقیاتہ کس عکس پیٹہ بہہ یکن غلط اعتقاد ان  
 پیٹہ۔ تمہ آس پیغمبر نہ ہندین علوم ہداتین پیٹہ آس ٹھٹہ کران ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ  
 وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ پس یلہ تموچھ سون عذاب۔ تموون آسہ ان ایمان کئس خدائیس تہ  
 آس چھہ انکار کران تمہن سارنی اپزین معبودن تمہ آس خدائیس آسچھہ شریک گزرن کیا زہ سہ اوس  
 ایمان اضطراری۔ بندہ چھہ مکلف ایمان اختیار یگ ﴿۸۸﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا تیلہ  
 دیہ نہ تمہن ایمان ان کا نہہ فائدہ ہنلہ تمہ سون عذاب و چھن سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ یہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ سُنَد دستور قدیم بروٹھمہہ زمانہ پیٹہ پنہ نین بنڈن اندر۔ یہ چھہ تمہن معمول مقرر  
 کورمت و خَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ یلہ نہ تمہند ایمان نفع دوہون ثابت سہد، نقصانس منزرود تمہہ  
 وقتہ تمہ کافر تہ مکر پیہہ باشی نہہ تمہن کافر نہہ تمہ انکار کران چھہ یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا  
 عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۳ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ  
 لَا يَسْمَعُونَ ۴ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْتُمَاتٍ مَّاتَدُّعُونَا لَيْسَ بِهِنَّ  
 أذَانٌ نَّصْغُوْنَ ۵ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ  
 قُلُوبَنَا إِنَّمَا نَا بَشِّرُكُمْ مِّثْلَ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبِيَآءِ الْهَكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ

لحم ستم زه حرف چھہ حروف مقطعاتو آندرہ۔ سخن ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ کلام چھہ نازل یوان کرنہ تس خدایہ سندہ طرفہ بس رحمن ورحیم چھہ کِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ کلام چھہ کتابہ۔ ہمک آیات صاف صاف تہ ویرھہ ناوتہ آمت چھہ۔ یہ چھہ قرآن مجیدہ عربی زیوہ اندر سمجھ دار لوکن ہندہ خاطرہ۔ یُتَّحْتَمِنُ آسانی سان فخرہ ترہ اگرچہ مختلف چھہ ساری لوکھ مگر نفع تہ فایدہ چھہ واتان سمجھ دار لوکنے بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشارت ودوہون چھہ یہ قرآن مجید مانن والین یہ چھہ نیم گره وون نہ مانہ ونین۔ لازم اوس تھین صفین کن نظر کتر تھہ کہ ساری گوہ اتھ مانن تہ تسلیم کرن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر وار یہو لو کو کتر روگردانی۔ بس چھہ تم یہ قرآن مجید بوزان۔ بلہ خبہ تمن یہ قرآن مجید بوزہ ناوان چھہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْتُمَاتٍ مَّاتَدُّعُونَا لَيْسَ بِهِنَّ أذَانٌ نَّصْغُوْنَ وَفِيْ أذَانِنَا وَقُرْءَانٌ مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُ قُلُوبَنَا إِنَّمَا نَا بَشِّرُكُمْ مِّثْلَ مَا يُوحَىٰ تھہ دپان سان دل چھہ تھیلن تہ گوڑین منز ہند تمہہ نغمہ یٹھ کن خبہ آسہ ناد چھہ ودوان۔ یہ چھہ سائین کنن دوگہ تہ زر سمہ موکھ سائین کنن منز تھنز آوازے چھہ واتان۔ یہ چھہ آسہ منز تہ توہہ منز ٹھور سمہ سببہ آسہ منزہ کانہ آکھ آگس سیت ملیتھ ہیجہ نہ۔ لہذا اکثر ونبہ پن کام۔ آس تہ چھہ کران پن کام۔ یہ مہ تھاد ونبہ توفتے

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ  
لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۗ قُلْ إِبْتِكُمْ  
لِتَكْفُرُونَ ۖ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ  
أندادا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاْسِي مِّنْ قَوْقِهَا

کہ آس سید و تہیز و تھو تہ نصحو سیت متاثر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْمَلَائِكَةِ ۚ وَاحِدٌ  
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ تو ہے فرما دیو کہ یار رسول اللہ اے لو کو میہ چھنہ قدرت کہ بہ زبردستی  
کیاہ کرہ ناوودہ بہ ٹہہ توحید قبول۔ کیا زہ بہ تہ پھس تو ہی ہوا کہ انسانا تہ بشر اہ مگر اللہ تعالیٰ ان چھہ میہ  
انتیازی شانہ عطا کورمت کہ میہ کن چھہ وحی یوان سوزنہ۔ سنی وحی ئس عقلہ کن قابل قبول چھہ۔ سہ وحی  
چھہ ای کہ چھند معبود چھہ کنے معبود۔ ئس روزو تہہ متوجہ عبادتس اندر تس کن۔ تس ورا ی مہ کمر و کانسہ  
ہنز عبادت۔ از تان کانسہ ہنز عبادت تس وراے کمر مر چھوہ تہہ مگیوس مغفرت۔ یعنی توحید کمر و  
قبول شر کہ نشہ کمر و توبہ ۖ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ سیٹھاہ  
بذخرابی چھہ تمین مشرکن ہبہہ حقہ ہم نہ مضمون ثبوت نبوت سبہ وجوب اتباع بوزتھ ہن روش تراون  
بیہ ہم ماچ زکوٰۃ ادا کرن نہ۔ بیہ ہم آخر تس چھہ بدستور انکار کران ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۗ تمکن بر خلاف ہم لو کہ رسالتہ کس حق آئس پڑھ چھہ کران بیہ تم لو کہ سمو  
ایمان اون بیہ کر یکہ رتہ عملہ تہندہ خاطرہ چھہ آخر تس اندر سمو زور یوسہ نہ زانہہ ختم سبہہ موکلہ تہ  
موقوف سبہ قُلْ إِبْتِكُمْ لِكْفُرُونَ ۖ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۗ أندادا ۚ ٹہہ  
فرما دیو کہ یار رسول اللہ تمین لو کن اے لو کو کیاہ ٹہہ چھوہ تس خدایہ سندس تہ کن آئس انکار کران ہم بیہ  
یوت زمین پادہ کوردون دوہن اندر۔ بیہ چھوہ تمسی خدائیس شریک ٹھراون ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
یوہے چھہ ساری عالمک تہ جماٹک رب۔ سنی چھہ معبود تہ۔ ۗ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاْسِي مِّنْ قَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا



وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً  
 لِلسَّائِلِينَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ  
 لَهَا وِلْدَانُ أُتِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ⑪  
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  
 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ⑫ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ یہ کفر تھی اللہ تعالیٰ ان پادہ زمینس پیٹھ کو بہن  
 ہندی لنگر۔ یہ تھاون آتھ زمینس منز فاندک چیز بہ کوزن آتھ پیٹھ روزن والین ہندہ خاطرہ روز کل  
 تجویز۔ پریتھ زمینس الگ الگ قسمٹ غذا۔ پریتھ قسمٹ غلہ تہ میوہ کوزن پادہ۔ یہ سورے سڈ ژورن  
 دوہن اندر۔ سارنہ مگن والین ہندہ خاطرہ برابر ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا  
 وِلْدَانُ أُتِي طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ تو پتہ سڈ اللہ تعالیٰ متوجہ آسمان پادہ کرہ نس گن۔  
 سہ اوس دوہ ہا اکھ زمین پادہ کرنہ بروٹھ۔ بس فرموان آسمانس تہ زمینس ٹہہ دوشوے ایوسانس کھمس  
 گن۔ بس حکماہ اس فرماوہ سہ مانو۔ وون چھہ توہہ اختیار خوشی سان مان تو یاز بردستی سیت مان تو۔ تمو  
 دوہ شوے دوپ اس چھہ احکام مانہ خاطرہ دوشوے حاضر نہایت خوشی سان فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ  
 فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا چنانچہ بس بناون تھہ اگس آسمانس تھہ آسمان دون دون ہن اندر تو پتہ  
 کرن جاری پریتھ آسمانس منز تہ کین ملائگن ہندہ خاطرہ ہم آسمان منز بسہ ون تہ روزہ ون چھہ ہن  
 ہن حکم وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا یہ دیت اسہ زینت آسمان دنیاہس ستارو سیت، یہ کفر اسہ  
 راجھ شیطان ہندہ گن ونہ نشہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ چھہ تجویز زبردست واقف الکل خدایہ  
 سڈ بس عبادتس لایق چھہ۔ یوہے چھہ کامل الصفات خدانہ کہ ہم چیز ہم ناقص الذات تہ چھہ تہ ناقص  
 الصفات تہ چھہ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عاد وَنَمُودُ بس اگر یہہ دلیلہ بوڑتھ

عَادٍ وَثَمُودَ ۝۱۳ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ  
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۝۱۴ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَانزَلَ  
مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝۱۵ فَاَمَّا عَادُ فَاَسْتَكْبَرُوْا فِى  
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً اَوْ لَمِيْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ  
الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝۱۶  
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيّٰمٍ مَّحْسٰتٍ لِّنذِيْقَهُمْ

تہ تم لو کہ توحیدہ نشہ پیٹھ پھیرن ادہ فرما دیو کہ تہہ یارسول اللہ اے لو کہ یہ مہسوسہ توہہ نیم کران تہہ  
ترہ ہند یوسہ ترٹھ قوم عاڈس تہ قوم ثمودس پیٹھ شرک و کفر گرنہ سبہ واقع سہز اذ جآءتھم الرسل من  
بین ایدیہم ومن الخلفہم الا لعبدوا الا اللہ ۱۳ یلہ یوان اس تمن نشہ پیٹھ پتہ بروٹھ بلکہ پر پیٹھ  
طرفہ کیے کتھ ونان کہ ہالو کو عبادت مہ کمر وکانہ ہنز معبود برحقس وراے قالو لو شاء ربنا لانزل  
ملائکة فانابما ارسلتکم بہ کفرون تمو کافر و دو پیٹھ نہہ چھوہ یہ کتھ غلط ونان کہ اس سوز اللہ تعالیٰ ان۔  
اگر سانس ہروردگارس یہ منظور آسہا میلہ سوزہ ہانسہ کانہہ ملکس توہہ پیٹھ کیا زہ واتہ ہانومت۔ لہذا بہہ  
اس تھہ سارے سے یہ نہہ بہتھ سوزنہ آمت چھوہ انکار کران فاما عاڈ فاستکبروا فی الارض  
بغیر الحق وقالو من اشد مناقبة اولمیرا و ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوۃ کیاہ تمن اونابوزنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تم پادہ کمری، سہہ  
سیٹھاہ زیادہ تہہ نہہ خوتہ قوتہ کن۔ سہہ نہہ حادثہ ہتھ نہہ اس مدافعت ہیہ کو کمر تھ اولمیروان  
باوجود ان اون نہ تموا ایمان بلکہ رود تم سائین آیاتن انکار کران۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرًا فی ایام  
محسات لنذیقہم عذاب الجزی فی الحیوة الدنیا پس ترویلہ اسہ تمن پیٹھ تیز واؤتھن دوہن  
اندر تم دوہ بوجہ نزول عذاب الہی تہہ نہہ حٹھ منحوس تہ پھیٹھل آسی ٹھہ اس تم تہہ ناو کہ خوار ہی ہند

عَذَابَ الْحِزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَمَّا شُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَجَبُوا لِعَلِيٍّ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾ وَبَعَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

عذاب دنیاچه زندگی اندر و لعذاب الآخرة اخزی و هم لا یبصرون بیه وجه آخر تک عذاب زیاده رسوا کره و ن توپتہ بیہ نہ تمن تمہ وقتہ بمنہ قسمہ مدد گر نہ و اما شود فہدینہم فاستجبوا لعلی علی الہدی فاخذتہم صیعقۃ العذاب الہون بہا کانوا یکسبون وون لیس قوم شموداوس تمن ہوو اسمہ بینمبرن ہندہ ذریعہ سیز و تہ۔ مگر تمو کتر اختیار گرا ہی ہدایتس مقابلہ کس رت تم خوار کرہ و نہ عذابچہ ترطہ۔ بنیل آو تمن تہہ سیت آس کر کبہ سمہ کر یکہ سیت جہندے جگہ پھرت۔ تمن کا میں ہندہ سببہ یمہ تم کران اس و بعینا الذین امنوا و کانوا یتقون اسمہ دیت نجات تمہ عذابہ نشہ تمن لوکن سمو ایمان اون بیہ اس تم شرکہ نشہ ہتھ روزان سانس عذابس کھوژان و یومہ یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون تمن لوگن پاو تہہ تریس سہ دودہ سمہ دودہ خدایہ سند دشمن ین جمع گر نہ نار جہنم تراونہ خاطرہ توپتہ ین تم آکسی جالیہ ٹھہراونہ تہ پیارہ ناونہ ہتھ ساری سمن۔ سمہ ین تراونہ جہنم آندر حتیٰ اذا ما جاء و ہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بہا کانوا یعملون تا یحکمہ یلہ تم جہنم کھ تل واتن گواہی دن تمن پیٹھ کن تہند اہجہ تہنز ہدیہ مسلمہ تہند تمن سارنہ کا میں ہنز سمہ کامہ تم کران اس دنیاہ س اندر۔ و قالوا الجلود ہم لم شہدنا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء توپتہ و ن

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ  
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي  
 ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۳﴾ فَإِنْ  
 يَصْبِرُوا فَإِنَّ آتَاءَ الْمُتَوَكِّلِينَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ  
 الْمُعْتَبِينَ ﴿۳۴﴾ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَآبِينَ

تم پہنہ نس مُسلس تہ پہنہ نین تانن توبہ کیا زہ وژوہ گواہی اسہ خلاف۔ اسی تہجدی خاطرہ و دنیا س منز  
 سورے کینہہ کران آس زیوہ سیت اوُس بہ سارنہ گوئہن انکار کران۔ توبہ کس مُصیبت اوہ توبہ  
 ہژوہ تھہ گرنہ۔ آخریمہ تھہ کرنہ کم پھناؤ توہ توبہ۔ تم دیکھہ جواب آس کرہ ناؤ تھہ تم خدا نین نس  
 سارنہ تھہ گرہ و نین چیزن تھہ کرہ ناوان ہھہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کردہ  
 توبہ پادہ گوڈچر لکہ۔ یہہ چھوہ دوبارہ زندہ کر تھہ کس کن و اتناوندہ یوان وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ  
 عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ توبہ اسو و دنیا س اندر غیر نشہ پوشیدہ روز تھہ گوناہ  
 کران۔ یہ اسو نہ خیر کہ توبہ بیٹہ کیاہ دن گواہی کن تہند اچھہ تہنہ بہ مسلہ تہند وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ لیکن توبہ اوس گمان کہ اللہ تعالیٰ اس چھنہ خبرے وارنہن چیزن  
 ہنز تموجیز و اندرہ تم توبہ کران اسوہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ  
 الْخَاسِرِينَ اکی تہند خیال نین توبہ پہنہ نس پروردگار س متعلق اوس کیاہ کردہ توبہ تباہ تہ برباد نس  
 سپدوہ توبہ تاوان زڈو اندرہ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَإِنَّ آتَاءَ الْمُتَوَكِّلِينَ لَهُمْ نس ہر گاہ تم صبر گرن توبہ ہھہ تہنز  
 جاے نار جنم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ یہہ ہر گاہ تم کینہہ عذرو معذرت کرن،

اَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اٰمِهِمْ  
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا  
 خٰسِرِيْنَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ  
 وَالْغَوَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّذِ يَقِنَنَّ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا عَذَابَ اَبٰشَدِيْدًا وَّلَنْجَزِيَّتِهِمْ اَسْوَا الَّذِيْ كَانُوْا  
 يَعْْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهَا فِيْهَا  
 دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً لِّمَا كَانُوْا يٰۤاِيْتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۲۸﴾

معانی مگن زارہ پارہ گرن تمن بیہ نہ ہرگز معافی دینے کے تصور کس اندرہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْهُ لَهُمْ  
 مَا بَيْنَ اَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بیہ اُس آسہ دُنیا س اُندر تمن سیت روزن واکل شیطان مقررہ کر  
 مت تمواوس پتہ میں بروظھن عملن زینت دیشمت تمنی کالین پیٹھ اُس تم ڈاڈ کر تھہ کُھر س پیٹھ  
 اصرارتہ ڈاڈ کرنہ موکھ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي اٰمِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ  
 اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ کس سہد تمن پیٹھ خدایہ سُدوعدہ عذاب پورہ تمن لوکن سیت سیم تمن بروظھ  
 گذرے مت چھہ جنوتہ النساءو اُندرہ بے شک تم ساری آسن تاوان زُدو اُندرہ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 لَا تَسْمَعُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَالْغَوَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ بیہ چھہ سیم کافر پانہ وان دنان بیتھ قرآن  
 مجیدس متھ اوگن سیمہ ساتہ پیغمبر قرآن ہر ان آسہ ہیوان تُو بیہ آسُو شور لاگان۔ شاید امہ طریقہ سپدو  
 نہہ غالب فَلَمَّذِ يَقِنَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابَ اَبٰشَدِيْدًا وَّلَنْجَزِيَّتِهِمْ اَسْوَا الَّذِيْ كَانُوْا يَعْْمَلُوْنَ  
 کس امہ نالائق حرکتہ موکھ ژبہ ناووکھ اُس سیم کافر سخت عذابگ مزہ بیہ دمو اُس تمن سزا تمن پیٹھ  
 کالین ہند سیمہ تم کران اُس ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ یوہ چھہ سزا خدایہ سندن دشمن ہند یعنی  
 نار لَهَا فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً لِّمَا كَانُوْا يٰۤاِيْتِنَا يَجْحَدُوْنَ چھہدہ خاطرہ چھوا تھہ نارس اندر

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنِّ  
 وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ  
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ  
 تُوعَدُونَ ﴿۲۶﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۲۷﴾ نَزَّلْنَا مِنْ

ہمیشہ روز نگ گھر ہر سزا امہ کے کہ تم اس کران سائین آیتن انکار  
 الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ  
 سائے پروردگار اسے ہاویجھ تم زہ شخص سمو اس گمراہ کری جو تہ انسانو اندرہ۔ اس تھاوہ ہو کہ تم پنہ نین  
 لتن تل پیٹھ تم ساری تل کن واتہ ہن۔ بیہ آسہ گمراہ کرہ ونین پیٹھ تم نیہ سخت غصہ تہ ڈکھ۔ إِنَّ  
 الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي  
 كُنتُمْ تُوعَدُونَ بے شک تم لو کہ تمودلہ سیت اقرار کور کہ سون حقیقی پروردگار پٹھ صرف اللہ تعالیٰ  
 تو پتہ کر کہ پیٹھ استقامت تہ کور کہ یہ اتھ اقرار س شوبہ تروو کہ نہ یہ خیال کنہ صورتس اندر تم  
 پیٹھ دس ملاکھ اک مرتبہ وقتہ بیہ قبرن منز بیہ قبر و اندر نبرینہ کہہ وقتہ تے دپنگھ تو بیہ مہ کھوڑو آخر تہ  
 کین ہولناک حالاتن۔ بیہ مہ ببردنبہ غم و نیاء کس تراونس پیٹھ کیا زہ تو بہ نہ تمہ خود تہ رت چیز۔  
 بشارت بولن تو بہ تمہ جنت میک تو بہ پیغبرن ہندہ واسطہ وعدہ یوان اوس تھاوند نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اُس چھہ تہدرفیق دنیا چہ زندگی اندر تہ۔ بیہ روز و اُس تہدرفیق آخرتس  
 اندر تہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ تہدہ خاطرہ چھہ پیٹھ جنس اندر تہ سوزی  
 موجود پیٹھ کن تو بہ خواہش گزہ۔ بیہ پٹھوہ تو بہ کیت تہ سوزے بیہ تو ہی مگو۔ ساری چیزین تھاوند تو بہ  
 مہیا نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ بیہ چھہ گوڈنچ ضیافت تہدہ خاطرہ غفور و رحیم ہروردگار ہندہ طرفہ بیمہ

غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ  
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ  
لَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقُهَا إِلَّا آذٌ وَحِظٌّ عَظِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَأَمَّا يُزْغَخُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ  
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۶﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

نعوذ من توبه عطا کر نہ کمال عزت و احترام سے تھ کن معزز ترین ہیں جھہ بروٹھ کین انہ یوان و من احسن  
قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بیہ کبہ اکھاہ جھہ زیادہ رت کلامہ  
کن تسبہ خوتہ یم لوکن نادیت معبود بر حقس کن بیہ کرین پانہ تہ رتہ عملہ بیہ دوہن اظہار اطاعت  
کران کہ بہ چھس فرمانبردار و اندرہ یعنی بہ چھس خدایہ سز بندگی کرن فخر زانان تمکمران ہند پانٹھ  
چھس نہ عاز زانان وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ جھہ نیکی تہ بدی برابر بلکہ  
چھہ پر ہتھ کنیک اثر الگ الگ - یمہ بیہ کتھ محقق سز و ون کز و توہہ مع اتباع بدی ہند مدافعہ تمہہ طریقہ بس  
بہتر آسہ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تمیک نتیجہ نیرہ کہ سہ شخص بس منزتہ  
توہہ منز عداوت و دشمنی آسہ سہ بہ شھہ بیٹھ زن سہ دوست جانی آسہ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقُهَا إِلَّا آذٌ وَحِظٌّ عَظِيمٌ بیہ کتھ جھہ تمنی لوکن نصیب سدان ہم ثوابہ اعتبارہ سیٹھاہ خوش نصیب تہ  
نیک بخت آسن وَأَمَّا يُزْغَخُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تھس و قس اندر  
ہر گاہ توہہ شیطانہ سندہ طرفہ غضبک تہ خشمک کانہہ و سوسہ پیدہ سدان بیہ تمہہ ساتہ آسو فور اچناہ منگان  
اللہ تعالیٰ آس۔ بیشک سہ چھہ سورے بوزون سورے زانون وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاةً تُعْبُدُونَ ﴿۲۵﴾ فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۲۶﴾<sup>السجدة</sup>  
وَمِن آيَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ  
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا

بہ چھ خدایہ بند یو قدر تہ کیوتہ توحیدہ کیونشاؤ آندرہ رات تہ دوہیہ آفتاب تہ زون لاسجودوا  
للسس ولالقمیر واجودواللذی خالقہن ان کنتم آیاتہ تعبدون اے لوکو توبہ مہ دیو سجدہ نہ  
آفتاب نہ زونہ بلحہ دیو سجدہ تس معبود برحقس سیم تم پادہ کر چھوہ ٹوہہ تس یوت عبادت کران یعنی  
مشرک سیم خدایہ سندہ عبادتک دعوہ چھہ کران تم چھہ عبادتس اندر شرک اتان۔ سچہ عبادتس اندر  
شرک آسہ حقیقتس منزگیہ نہ سو خداوند کریمہ سبز عبادت۔ بلکہ تہندسہ دعوہ چھہ باطل۔ خدایہ سبز  
عبادت چھوہ کرن تیلہ کریوس عبادت شرک تراوتھ تہ شرکہ وراکی فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ توپتہ ہر گاہ تم لوک غرور تہ تکبر کرن تس  
عبادت کرنہ نشہ سو چھہ تہمز حماقت تس کیاہ پرولھہ تمیک۔ تم ملایک سیم تہندس پروردگارہ سند  
مقرب چھہ سیم شان و عظمتس منز ساسہ گنہ زیادہ چھہ راتس تہ دوہ س تہمز پاکی بیان کران۔ توپتہ چھہ  
تم عنہ قسمہ عنہ وقتہ تھکان وَمِن آيَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ  
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتَى بہ چھہ تہندہ قدر تہ کیوتہ توحیدہ کیونشاؤ آندرہ اکھ نشانہ ژہ چھہن وچھان  
اے مخاطب یہ زمین تہ میومت تہ ہو کھمت۔ خشکی ہندہ وقتہ چھہ ہوالج کر دھان تہ چھہکر او ان آتی یلہ آس  
تراوان چھہ تھ پیٹھ رود آتی چھہس تازگی پھیان بہ چھہ پھولان تہ سر سبز سپدان بے شک یم  
پروردگارن یہ زمین مرتھ بہ زندہ کورسئی پروردگار چھہ مردن زندہ کرہ ون۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ بے شک سہ چھہ پر چھہ چیزس پیٹھ قدر تہ دول یم پروردگارن یہ مردہ زمین زندہ کورسہ بیچہ



اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِي اِمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا  
 سَأَلْتُمْ ۗ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۴۱ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا  
 جَاءَهُمْ ۗ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝۴۲ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
 وَاَلَمْ يَخْلَفْهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ حَمِيْدٍ ۝۴۳ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا  
 قَدْ قَبِلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ

نامرده انسان ہندین بدن اندر روح و اتنا و تھ، تمن دوبارہ زندہ کمر تھ۔ کیاہ سہ قادر مطلق ہیجہ  
 ناموتین و لن زندہ کمر تھ پنہ نور توحیدہ سیت بے شک سہ ہیجہ سوزی کینہ کر تھ۔ سہ چھہ پر تھہ  
 چیزس پیٹھ قدر تہ دول اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي الْاٰيٰتِ لَا يَغْفِرُوْنَ عَلَيْنَا بے شک تہم لوکھ سانن آیتن  
 منز تہم آیتن توحیدس پیٹھ دلالت کران چھہ تمنی منز چھہ ہول پکان یعنی تمن منز چھہ شک تہ شبہ  
 پاہہ کران۔ تم لوکھ چھہ نہ آسہ نشہ کھٹھ۔ آسہ چھہ تہند سوزی حال معلوم۔ تمن و مواس سزای نار اَفَمَنْ  
 يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِي اِمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ کیاہ سہ شخص ٹیس نارس منز تر و انہیہ چھا بہتر کین سوٹیس  
 قیامتک دوہو امن و اناس اندر ولتہ اَعْمَلُوا سَأَلْتُمْ ۗ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یہ خوش کر وہ تہ کمر و بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھہ تہ سوزی وارہ و چھان یہ توہہ کران چھوہ سارنی عملن ہند دیوہ سزای اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۗ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ بیشک سمولو کو انکار کور قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ دوت تم تہ  
 و چھن تہند انجام کیاہ آسہ تمن چھہ نقص تہ کی پانس اندر۔ تھہ قرآن مجیدس اندر کانہہ کیاہ چھہ نہ۔ یہ  
 قرآن مجید چھہ باعزت و باوقعت کتاباہ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاَلَمْ يَخْلَفْهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ  
 حَمِيْدٍ اتھ ہیجہ نہ آپز تہ غیر واقعی تھہ نکھ پچھہ نہ بروٹھ کن تہ نہ تھر کن یہ چھہ نازل آنت کرنہ حمتہ  
 و اٹس تہ حمد پنے آتس خدا یہ سہدہ طرفہ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ توہہ چھہ یوان  
 ونہ مگر تمہ تھہ تم ونہ آتھہ چھہ تمن پیٹھ برن یم توہیہ بروٹھ اس۔ یہ نوکٹھاہ کانہہ چھہ نہ۔ تمو پیٹھ غیر و  
 کور تمن تھن پیٹھ صبر۔ تھہ تہ کمر و صبر۔ سہہ تھہ سیت تہ کمر و توبہ تسلی حاصل تہ۔ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ

إِلَيْهِ ۝۳۳ وَكُوجَعَلْنَهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لِقَالِ الْوَالِدِ فَصَلَّتْ إِلَيْهِ ۝  
 ءَأَعْجَبِيَّ وَعَرَبِيَّ قُلُّ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۝  
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ  
 يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۳۴ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
 فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۝ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

وَذُو عَقَابِ إِلَيْهِ بے شک تہند پروردگار چھ مغفرتہ دول تہ سخت عذاب کرہ ون تہ بس اگر تم  
 مخالفین مخالفت کر نہ نشہ بازیتہ مستحق مغفرتہ سپدن نہ تلہ بیہ تمن ضرور سزا دنہ للذاکمہ موکھ چھوہ  
 تو بہ پریشان روزان وکوجعلنہ قرآنًا مجموعًا لقال الوالد فصلت الیہ بیہ ہر گاہ اس کرہ ہون یہ قرآن  
 مجید عجمی زیوہ اندر توتہ ونہ ہن لکھ امگ آیات کونہ آئے وارہ پانٹھ وشرہ نانوہ عربی زیوہ اندر۔  
 ءاعجبی وعربی قُلُّ ہو للذین امنوا ہدی وشفاء کیاہ کتاب چھ عجمی زیوہ اندر، بیخبر تہ لوکھ چھ  
 عربی۔ یہ قرآن مجید چھ عربی۔ دبان چھ یہ کونہ عجمی۔ ہر گاہ عجمی آساہا پہ ہن یہ کونہ چھ عربی۔ کونہ  
 حاکس پیٹھ چھہ تمن قرار لوکن ہنز ذہنیت چھہ یثھے۔ تو بہ فرماو لوکھ یار رسول اللہ۔ یہ قرآن مجید چھہ  
 باایمان ہندہ خاطرہ رثہ کامہ کرنگ اکھ ہدایت بیہ دن ہنزین بیمار کن ہندہ خاطرہ شفا والذین  
 لا یؤمنون فی اذانہم وقر وھو علیہم عمی بیہ ہم لوکھ اتھ قرآن مجیدس پڑھ چھہ نہ گران تہندین  
 کن چھہ وکے۔ یہ قرآن مجید چھہ تہندہ خاطرہ انتر تہ تا بینائی اولیک ینادون من مکان بعید تمن  
 لوکن زن چھہ آلو یوان دنہ دورہ جالیہ پیٹھ بس نہ تم بوزان چھہ ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف  
 فیہ تھین اسہ کر یہ عطا حضرت موسی اس تہ کتاب۔ تھہ منز تہ اؤاختلاف کر نہ کانسہ مان تہ کانسہ  
 مانی نہ تو ہی مہ سپد و مغموم یہ نوکٹھا چھہہ ولولا کلمة سبقت من ربک لقصی بیہم ہم  
 منکرین چھہ تیتہ مستحق عذاب کہ ہر گاہ سوکھ آسمانہ یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ برونٹھ مقرر  
 کر نہ آثر چھہ کہ پورہ سزایہ کافرن دنہ آخرتس اندر تہ بیہ ہاتمن کافرن منز قلعی فاصلہ کر نہ دنیا سے

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٦﴾  
 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ  
 الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَصْعَقُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَيَوْمَ  
 يُنَادِيهِمْ آئِنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مِمَّا مِّنْ شَهِيدٍ ﴿٢٧﴾

منز وَاِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ہم کافر چھہ باوجود دلائل، عذاب موعودہ کس شکس اندر ایم سم  
 تر دس منز تراومت چھہ سمک چھہ عذابک یقینے یوان حالہک فیصلہ چھہ ضرور واقع سپدہ ون۔ تمہ  
 فیصلک حاصل چھہ ای کہ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ  
 ئس شخصہ رث عمل گرہ تمیک فاندہ چھہ ئس پائس یعنی تمیک نفع تہ فاندہ تلہ سہ آخر ئس اندر۔ یہ ئس  
 شخصہ بچھہ عمل کرہ تمیک نقصان تہ ضرر چھہ ئس پائس تہند ہروردگار چھہ بندن پیٹھ ظلم گرہ ون إِلَيْهِ  
 يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ سمہ بروئٹھ سمہ قیامتک ذکر آمت چھہ کرنہ کہ تھہ منزایہ تمن جتلادہ تمہ  
 قیامتہ علمک حوالہ چھہ خدایہ سی دنہ یوان۔ یعنی سمہ سوالک جواب کہ قیامت کریہ۔ چنانچہ کافر آس  
 یہ سوال کران انکارہ خاطرہ۔ امہ سوالک جواب چھہ یوہے کہ امیک علم چھہ خدایہ سی یوت۔ مخلوقن  
 تمیک علم نہ آسنہ موکھ چھہ لازم یوان کہ قیامت کیا آسی نہ۔ قیامتہ کہ وقوع علم کیا تھہ چھہ۔ ئس  
 ذات پاک سند علم چھہ محیط پر تھہ چیزس۔ حتی کہ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ  
 مِّنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَصْعَقُ إِلَّا بِعِلْمِهِ کانہ بھل تہ میوہ چھہ پنہ ٹورہ یعنی نچھہ منزہ نبر نیران۔ نہ چھہ کانہ  
 مادہ گوہ گھورہ روزان یعنی باردار سپدان نہ چھہ کانہ مادہ پر بیان مگر یہ سورے ٹھو تہندہ علم واطلاعا  
 موجب سپدان یہ چھہ تہندس توحیدس تہ گن آس پیٹھ دلیل وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ آئِنَ شُرَكَائِي قَالُوا  
 أَدْنَاكَ مَا مِمَّا مِّنْ شَهِيدٍ سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ مثر کن آلود تھہ فرماوہ سمک توہہ میان شریک قرار  
 دیوان آسوہ ازکتہ چھوہ تم شریک۔ تمن دیو آلو۔ تم موکلاوہ نوہ مصیبتہ ئشہ۔ تم دین از چھہ آسی گذارش

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ  
 مَحْيِصٍ ﴿٢٨﴾ لَئِيسْمُ الْإِنْسَانِ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ  
 فَيُوَسُّ قَنُوطًا ﴿٢٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ  
 مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ  
 رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَتَلُونَ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا

کران کہ اسے منزہ چھندہ کا نہ تہ امہ عقیدہ ک مدعی۔ اس چھہ از پتہ غلطی ہند اعتراف کران۔ از نیو اسہ سورے و ضلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ مَحْيِصٍ بیہ سپدن غایب تمین نشہہ تم ساری تمین پرستش کران اس دنیاء س اندر تمہ بروٹھہ بیہ زائن تم یقینہ پاٹھ تہندہ خاطرہ چھندہ کا نہہ موکلج تہ بیخج صورتہا۔ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لَئِيسْمُ الْإِنْسَانِ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ کہ شرک و کفرک اثر چھہ انسانی طبیعتس بیٹھہ پوان کہ بس شخص توحید و ایمانہ نشہہ بے بہرہ چھہ آسان، تسد اخلاق، اعمال تہ عقاید چھہ تھی خراب آسان کہ آرام و سختی ہندس حالتس منز چھہ تس انسانس ترقی ہنزہ خواہشہ نشہہ یڈوان کمال حرصہ موکہ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوَسُّ قَنُوطًا یلہ تمس کا نہہ تکلیفہا چھہ واتان تنگی و غیرہ ہش اتی چھہ بدل تہ نامید سپدن وَاَلَّذِي يُقْتَتَلُونَ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ بیہ یلہ اس تس عنہ سختی پتہ پتہ مہربانی ہندہ مزہ چھہ ہاوان عنہ ساتہ چھہ ونان بیہ اوس میانی خاطرہ کیازہ میون تدبر، لیاقت تہ قابلیت اوس اتھ منگان۔ بیہ گیہ غایت درنج ناشکری تہ بحیر وَاَلَّذِي يُقْتَتَلُونَ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہر گاہ بفرض محال بیہ تہ قیامت توپتہ سمہ بہ پتہ بس خدا بس نش و اتاوانہ تہ بیشک میانہ خاطرہ اسہ تس نش ضرور رتے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَتَلُونَ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ بس خبر گرو اس ضرور کافران پتہ نین کر توتن کائین ہنزہ۔ بیہ ژہناو کہ اس تم سخت

انَعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِحَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودَعَاءٍ عَرِيضٍ ۗ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتْكُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۗ سَأُرِيهِمُ الْآيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

عذابك مزہ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاْبِحَانِيهِ بيہ يلبہ اَس تھنس انسانس نعت عطا کران چھہ تمہہ ساتہ چھہ سانو حکمو نشہ پھہ پھر ان دور ژلان تھر پھر تھہ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودَعَاءٍ عَرِيضٍ توپتہ يلبہ اَس کا نہہ تختياہ و اتان چھہ تمہہ ساتہ چھہ کران زبٹھہ زبٹھس دعاء قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتْكُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ توہہ فرماو يوکہ يار رسول اللہ کہ اے مکرور قرآن مجيدہ کس حق تہ پوز آسئس پیٹھہ سمہہ دليلہ قائم چھہ مثلاً تمیک معجز آسن، تجہ غابہ چہ خبرہ دینہ۔ ہر گاہ توہہ تمہہ دليلہ عدم تدبرہ سبہہ مورث یقین زانان چھہ نہہ تہ کم از کم مورث احتمال تہ چھو کہ ضرور زانان کیا زہ تمہہ کس نفیس پیٹھہ چھہ توہہ نش کہنہ دليل۔ لہذا تھہ احتمالس پیٹھہ بنا کر تھہ و نتو توہہ کہ ہر گاہ یہ قرآن خدا یہ سے نشہ اُمت آسہ توپتہ کرو توہہ تھہ انکار، تھنس شخصہ سندہ خونہ کبہہ اکھاہ آسہ غلطی منزئس پزہ نشہہ دور دور از مخالفتس منز پیومت آسہ سَأُرِيهِمُ الْآيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَاتُ الْحَقُّ عنقریب ہاؤو اُس تمن پینہ قدرتک نشانہ تم دلالت اُس کران قرآن مجيدہ کس پوز آسئس پیٹھہ۔ تمن گردو نواح تہ ہاؤو اُس تم نشانہ کہ اقطار عرب سپدن ساین پشمن گوئین مطابق فتح۔ بیہ ہاؤو خود تھندین پانن اندرتہ نشانہ کہ تم بین مارنہ تہ قتل کرنہ جنگ بدرس منز۔ تھند شتر خود مکہ شریف تہ سپدہ فتح سہہ بیہ مسلمانن ہندس اُتھس اندر۔ تا ییکہ تمن ننہ کہ یہ قرآن مجيد چھہ بالکل ہز اچہ پشمن گو بیہ چھہ پزہ اَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شٰهِدٌ کیاہ تھندس پروردگارہ سنز یہ کتھ چھنا کافی تھندس ہزس پیٹھہ آسچہ گو اُبی خاطرہ بیہ تھندہ تسلی خاطرہ کہ سہ چھہ

اِنَّهُ الْحَقُّ اَوْلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾ اَلَا  
 اِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿۵۴﴾

پرستہ واقعی چیزس پیٹھ گواہ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وارہ بوزوکہ  
 تم لوکھ چھہ پنہ نس ہر و ردگار سیت ملاقات کرہ نس اندر شمس منز بتلا تمی چھکھنہ دلن منز کانہ  
 خوف یمہ سبہ تم ہز کی طلب گار آسہن بیہ بوزوارہ کہ سہ چھہ پرستہ چیزس پنہر علمہ سیت احاطہ  
 کر تھ۔ سہ چھہ تہندس شک و شبہس نہ زمانان۔ تھ پیٹھ دیہ سہ تمن پورہ نزاہ۔



## سُورَةُ الشُّورَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ عَسَىٰ ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ  
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۵ إِنَّ  
 اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۶ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

حَمَّ \* عَسَىٰ تم چھہ حروفِ مقطعات تم ہند معنی زانیہ پانہ خدا كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تہہ پانہ یہ سورہ شریفہ بڈین فاندن تہ اصول دین ہندہ تھقہ خاطرہ توبہہ پیٹہ نازل کرنہ آو، تہہ پانہ کور اللہ تعالیٰ ان اُس سببہاہ غالب ہتھہ ، سببہاہ جمتہ دول ہتھہ دینی اصولن ہندہ تھقہ خاطرہ توبہہ پیٹہ بہہ تم تہہ برن پیٹہ تم توبہہ برو تہہ اُس وحی نازل تہ خدایہ سُد شان ہتھہ کہہ لہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تہہ توی ہتھہ تہ سورے یہ آسمان تہ زمین اندر ہتھہ ۔ سہ ہتھہ ساروے خوتہ بوڈ تہہ تہہ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۵ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ تم س س عظمت و شانس اگرچہ بعضے اہل زمین متہ زان تن، متہ مان تہ مگر آسمانس اندر ہتھہ تسد شان زان وال۔ یعنی ملائکہ تیت کبشرت کہہ کینہہ دور ہتھہ کہہ تم آسمان کیاہ پھٹن پنہہ ہیر مہ طرفہ ملائکن ہندہ گو برہ تیت چنانچہ حدیث شریفس منز ہتھہ آمت اطلت السماء وحق لها أن تخط ما فيها موضع أربعة أصابع الاوملك واضع جبهته ساجدالله (رواہ الترمذی وابن ماجہ) فر مونہی کر تمکن صلی اللہ علیہ وسلم آسمانس ہتھہ کر کر گڑھان،

حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ﴿۶﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا  
 إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ یَوْمَ  
 الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْهِ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ ﴿۷﴾ وَلَوْ  
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ یُدْخِلُ مَنْ یُشَاءُ

تھ پڑھ کر کرگڑھن کیا زہ تھ منز چھہ آکس چپس برا برتہ جای خالی یتہ نس نہ اکھ اکھ ملک بن ککھ  
 تراو تھ اللہ تعالیٰ اس سجدہ دووان چھہ۔ تم ملائک چھہ تسبیح تہ حمد پنس پروردگارہ سندہ ان ہیہ چھہ زینہ  
 کین لوکن ہندہ خاطرہ مغفرت منگان۔ وارہ بوزوسہ پروردگار چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم  
 گرہ ون وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ بیہ سمولو کو ٹھہر اووی  
 مت چھہ نس وراے دوست تہ مددگار اللہ تعالیٰ چھہ تہنزہ سارے کامہ ژرژان۔ نہ دیہ پائے و قس  
 پیٹھ تم سزاء۔ توہ نہ حض چھوہ نہ یار رسول اللہ تم لوکن پیٹھ کانہہ اختیارہ کہ سمہ ساتہ خوش کرہ ہا  
 تمہ ساتہ کرہ ناوی ہو تم پیٹھ عذاب نازل۔ امیک اختیار چھہ خدایہ سے تہ توہہ مہ سپد غمگین  
 تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ، کیا زہ تہنز کام چھہ صرف تبلیغ کرن تہ حکم و اتاوان۔ چنانچہ وَكَذَٰلِكَ  
 أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْهِ اس سوزیتھ پاٹھ  
 توہہ کن قرآن مجیدیتھ پاٹھ توہہ وچھان چھوہ عربی زیوہ اندر۔ تھ توہہ۔ نیم کرد سارے بروٹھ مکھ  
 کین لوکن بیہ تم لوکن سمیتھ انداندلسان چھہ تہ روزان چھہ نیم تہ کرہ یو کھ سمجھہ ڈک یعنی قیامتہ  
 کہہ ڈک سمہ دوہہ ساری اولین و آخرین جمع کرنہ ینیتھ منز نہ شکھہ چھہ سمہ دوہہ یہ فاصلہ کرنہ بیہ  
 کہہ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ تمہ دوہہ گڑھن لوکن زہ حصہ اکھ حصہ جنس منز۔ بیا کھ حصہ  
 جہنم منز۔ تہنز کام چھہ محض امہ دوہہ نشہ لو کھ کھوژہ ناوان۔ باقی لوکن ہندہ ایمان انہ نک یانہ انہ  
 نک، اتھ سیت کیاہ چھہ توہہ یہ سوزے چھہ خدایہ سدس یشھن تان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً  
 وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ یُدْخِلُ مَنْ یُشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قِیْلِ وَلَا ذِیْقِ ہر گاہ خدا نس منظور



فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَبِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۸۱ أَمْ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۸۲ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۳  
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَكُمْ فِيهِ لَبَاسٌ مِمَّا تَحْتَسِبُونَ وَهُوَ

آسمانہ کرہ ہاتھن سارنے لوکن ہندہ خاطرہ آکے و تھاہ یعنی سارنے کرہ ہا ایمان نصیب۔ مگر وارہین  
 حتمن کن نظر کرتھ سپدنہ تس یہ منظور لیکن سہ بس یشھان چھہ تس ہھہ ایمانس کن و تھ ہاوتھ واتا  
 وان پنہ نس رتھس منز تھن یشھان ہھہ تھن ہھہ کفر و سرکش منز مبتلا کرتھ پنہ رحمتہ نھیہ نیر کڈان تہ  
 دور کران۔ چنانچہ تھن ظالمکن آسہ نہ قیامتگ دوہ نہ کانہہ دوستاہ تہ نہ کانہہ مددگارہ اَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  
 اَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیاہ تمہو لو کو چھار و تھمت معبود  
 برتھس ور آے بدل دوست تہ مددگار پس اگر کانہہ کار ساز تہ دوست بناون ہھہ سہ ہھہ اللہ تعالیٰ ای  
 یوت ہیہ نہ کانہہ۔ سہ چھہ مردن زندہ کرہ ون ہیہ ہھہ سہ پر ہتھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول وَمَا اخْتَلَفْتُمْ  
 فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ توہہ فرما و تھن لوکن تھم توہہ سیت توحیدس اندر اختلاف کران ہھہ  
 کہ ہیہ ہتھہ ہتھہ چیزس اندر تہہہ پزیرا ہن سیت اختلاف ہچوہہ کران۔ توحیدس وغیرہ چیزن اندر، تمیک  
 فیصلہ چھہ تسی سپر د۔ دنیا س اندر صحیح دلیلو سیت آخرتس اندر فریق فی الجنة و فریق فی السعیر  
 سیت ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ یہ اللہ تعالیٰ سمسہ شان ہیہ ہھہ، ہھہ میون رب۔  
 تس پیٹھ ہھس بہ توکل کران تس کن۔ ہھس بہ سارنے دینہ جن تہ دنیا جن کا مین اندر رجوع کران۔  
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا سہ ہھہ آسمان تہ  
 زمین ہند پادہ کرہ ون تھی کہ تھہہہ خاطرہ توہی منز تھند جورہ ہتھہ پاتھ کرن چاروا ہن اندر تہ پادہ جورہ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ  
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۲ شَرَعَ لَكُم  
مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ  
لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ  
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۝۱۳ وَمَا

جورہ یدرؤکم فیہ لیس کثیرا شئی وھو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحٰنَ تَوْبہ اتھ زمینس منزہ ہر او ان ،  
تہند نسل بڑاوان تہس ہیو بھنہ کانہ۔ سُبْحٰنَ سُوْرَے بُوْرہ ون ، سُوْرَے وچھ ون کہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ تہس اتھ چھ آسمان تہ زمین ہندین خزان ہنزہ کونزہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
سُبْحٰنَ رزق زیادہ کران تہس یرشھان چھ ، بیہ چھ سُبْحٰنَ رزق کم کران تہس یرشھان چھ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ بے شک سُبْحٰنَ پرستہ چیزہ پوزراند ون شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اللہ تعالیٰ  
ان کور توبہ لوکن ہندہ خاطرہ سُبْحٰنَ دین مقرر سمیک حکم فرموون نوح علیہ السلام بیہ تہس اسہ  
توبہ کن وحی مگر بیہ صحیح وصیت اسہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلامن کر بیہ موسیٰ علیہ السلام  
بیہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تہنزن امتن تہ فرموا سہ اتھ دینس پیٹھ روز و قایم اتھ منزہ کر و تفرقہ۔  
مراد چھ امہ اندرہ اصول دین یم سارنہ اندر مشترک چھ مثلاً توحید، رسالت تہ معاد۔ پس  
اوس لازم لوکن کہ اتھ کرہ ہن قبول مگر افسوس کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ سیٹھاہ دشوار  
چھ گزارن مشرکن پیٹھ سوٹھ تھ کن توبہ تمن ناد چھوہ دو ان یعنی توحید اتھ سیت چھ یہ کہ تہ تہ کہ  
اللہ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھ درسہ دو ان پانس کن نہ خاطرہ تمن یمن یرشھان چھ۔ یعنی  
دین حق قبول کر تک توفیق چھ دو ان وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ بیہ چھ و تھ ہاوان پانس کن تمن  
سم تہس کن پھیران تہ رجوع کران چھ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا إِلَيْهِمْ سون

تَفَرَّقُوا الْأَمْنَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا  
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ  
 إِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا بِالْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝۱۴  
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا

حکم جس بروٹھمن امتن اوس کہ آقینوا الذین ولا تتفرقوا فیہذا واریاہ لو کہ رودنہ اتھ خمس پیٹھ قائم تم  
 سپدے اکھ اگس نغہ جد الیکن امیک سبب اوس نہ نغہ قسمگ اشتباہ تہ شک کیا اوس تمن بلکہ سپد تمن نغہ  
 علم صحیح واتنہ پتہ محض اکھ کہ سندہ ضدہ تہ عداوتہ **وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى**  
**لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ** ہر گاہ نئے تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ حکم (یعنی تمن مہلت دن اگس معین  
 وقس تان بروٹھ جاری سپد مت آسہا۔ نتہ بیہ باتمن منزد دنیا سی منز فاصلہ کرنہ۔ یعنی تم یہن تنھس  
 عذابس گرفتار کرنہ سمہ سیت تم ملہ موجبہ گانہ یہن **وَإِنَّ الَّذِينَ أُوذُوا بِالْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ**  
**مِّنْهُ مُرِيبٍ** بے شک تمہہ لو کہ تمن کتاب آہی دنہ بروٹھمن امتن پتہ (امہ اندرہ چھہ مشرکین  
 عرب۔ تمن آئے یہ کتاب یعنی قرآن مجید بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنہ) تم چھہ  
 ضرور تمہہ کتابہ ہندس تھس اندر بدس شمس اندر تراونہ آمت جس تمن تر دوس منز تراوان چھہ  
**فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ** لہذا امہ سپد تو بہہ دل شکستہ کانہہ ہندہ انکار  
 کرنہ سیت بلکہ دیو تو بہہ ناد تمن اتھ قرآن مجیدس گن برابر۔ بیہ کرو تو بہہ پانہ تہ استقامت تھہ پیٹھ تھہ  
 پاٹھ تو بہہ حکم آو کرنہ تہنزن خواہش ہنزمہ کرو پیروی۔ تم چھہ یشہان مخالفت کرنہ سیت ایو تو بہہ عاجز  
 تو پتہ تراوو تو بہہ تمن تبلیغ کرنہ۔ مگر بیتھہ ٹو بہہ تہ کرو ہرگز **وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ**  
**وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ** اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لكم اعمالکم بیہ فرما یو کہ ٹو بہہ بویتھ تھہ

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
 وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ  
 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾  
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيْزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ

اُن توبہ نہاد چھس دووان بو چھس پانہ تھہ عمل کران۔ چنانچہ میہ کر پڑھہ تمن سارنہ کتابن یمہ اللہ تعالیٰ اُن نازل چھہ کرہ مزہ۔ بیہ اومیہ حکم کرنہ کہ توبہ منز گرہ تھندین اختلافاش عدل وانصافہ موجب فیصلہ یعنی بس چیزہ توبہ پیٹھہ واجب مقرر کرہ سہ چیز زانہ پانس پیٹھہ تہ واجب۔ یہ کتھہ چھنہ کہ توبہ تراوہہ لکھیس اندر تہ پانہ روزہ آزاد۔ سہ تھہ آسہ سلیم الطبعن ہندہ خاطرہ رغبت تہ شوق دوہ وویہ ہر گاہ تمن سمو کتھو سیت تہ کینہہ ہندہ نہ تیلہ ونیو کھ آخری کتھہ کہ معبود برحق چھہ سون مالک تہ تہ تھند مالک تہ سہ چھہ سارنہ ہند حاکم سارہ عملہ چھہ آسہ پانس، ٹہنزہ عملہ چھہ توبہ پانس لاجحہ بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ آسہ منز تہ توبہ منز چھہ کانہہ بخشنے۔ اللہ تعالیٰ بس آسہ سارنہ ہند مالک چھہ سہ سومبر اوہ آسہ سارنہ قیامتگ دوہ۔ اتھہ منز چھہ کانہہ شکھہ کہ بس اُن چھہ آسہ سارنہ واٹن۔ سہ کرہ سارنہ ہند فاصلہ عملہ موجب۔ ون کینس توبہ سیت بحث کرن چھہ فضول مگر تبلیغ روز و اس توبہ کران وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بیہ سیم لوکھ بحث چھہ لاگان خدایہ سدس دینس اندر مسلمان سیت سہ تھہ پتہ کہ سہ دین او تسلیم کرنہ کیا زہ واریاہ عاقل و داناسدی مسلمان سمو کور اقرار دین اسلامہ حق آسنگ۔ وونی سیم امہ پتہ تہ بحث لاگن تھنزہ دلیل چھہ تھندس پروردگار س نشیہ بالکل باطل۔ تمن پیٹھہ چھہ خدایہ سہ غضب واقع سپدہ ون۔ تھندی خاطرہ چھہ قیامتگ دوہ سخت عذاب سپدہ ون۔ تمہہ عذابہ نشیہ چنک ذریعہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پڑھہ کرن۔ تھند دین پوز زان گو و قرآن مجید تھہ منز حقوق اللہ تہ حقوق العباد ویرٹھہ ناوتھہ بیان کرنہ آمت چھہ واجب العمل زان کیا زہ اللہ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيْزَانَ معبود برحق گووسی یم پز پانھی کتاب نازل کر۔ خصوصاً

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿۱۷﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 الْآيَاتِ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۱۸﴾  
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۹﴾

نہیں حکم تھے منز انصافگ چھہ بیہ تر کر سیمہ سبت عدل و انصاف کرنہ یوان چھہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ  
 السَّاعَةَ قَرِيبٌ سیم لو کہ سیم قیامتک واقعات بوز تھ توہمہ نشہ تمکھ وقتک تعین یثھان چھہ توہمہ کیاہ  
 چھہ تج خیر مگر خیر نہ آسنہ سبت یا خبر نہ کرنہ سبت چھہ لازم یوان سو کیاہ آسی نہ بلکہ چھہ تمیک وقوع  
 دلہلو سبت ثابت تعین و قس متعلق چھہ ایڈن کافی کہ عجب چھہ سو قیامت ماسہ نزدیکہ یَسْتَعْجِلُ  
 بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا سمن لو کن نہ چھہ پڑھ چھہ تم چھہ باوجود تمکھ یقینی نہ نزدیکہ آسنہ کھوڑانی  
 بلکہ چھہ بطور استہزاء و انکار تمکھ وقوع تقاضا کران وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 سمولو گو ایمان اون تم چھہ کھوڑان تمکھ بیہ چھہ اعتقاد تھاوان کہ قیامتک دوہ چھہ حق نہ پوز الْآيَاتِ الَّذِينَ  
 يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وارہ بوزو کہ بے شک یم لو کہ قیامتس مکر آتھ ہر تہ قضیہ  
 چھہ لاگان تمہ کس یس منز یقینا چھہ تم زبچھہ نہ دور و دراز گراہی اندر بتلا اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ سیم مکر سیم دنیا چن نازو نعمن پیٹھ ویٹھان چھہ تمنے منز بوڈ تھ چھہ آخر تہ  
 نشہ غافل تہ بے خبر سپدے مت۔ امہ پنہ نازو نعمن اندر آسنہ سبت چھہ تم استدلال کران کہ سون  
 مسلک چھہ پسندیدہ اگر تہ آسانہ تھ سانس مسلکس پیٹھ آسہ ہا خدا میزار۔ تیلہ کیا زہ تھاوہ ہا سہ عیش و  
 آراس اندر۔ یہ چھہ تہنز حماقت کیا زہ یہ چھہ رضا مندی ہنزہ دلیل بلکہ چھہ امیک وجہ ای زہ اللَّهُ  
 لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ چھہ دنیا س منز سینٹھاہ مہربان پنہ نین بدن پیٹھ۔ عام طور ای رحمت عامہ  
 سبت چھہ سہ سارنے روزی عطا کران۔ اگرچہ مصلحتہ موجب چھہ تھ منز کی زیادتی تہ سپدان یَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ نیس یوت یثھان چھہ تس چھہ تیوت دووان۔ مگر نفس رزق چھہ سارنے منز مشترک۔ امہ  
 لطف فی الدنیا اندرہ چھہ لازم یوان کہ جہنم مسلک کیاہ چھہ خدا نیکس پسند۔ تمن کیا بیہ آخر تس اندرہ تہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ  
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنْ تُصَيْبٍ ۚ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ  
 مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ  
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ تَرَى الظَّالِمِينَ

لطف و مہربانی عطا کرنے بلکہ آسن تم آخرتس اندر بوجہ ایسے تم اس باطلس پیٹھ کڈرس عذابس گرفتار  
 دنیاس اندر۔ تم عذابس گرفتار کرن چھنہ کینہہ مشکل کتھاہ کیا زہ و ہُو الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ سہ چھہ سیٹھاہ  
 قوت و ول، سیٹھاہ زبردست تمکن سارنہ خرابین ہند و جہ چھہ دنیاس سیت گدھن۔ لوکن پزہ نہ  
 دنیاس سیت مغرور گدھن بلکہ پزہ ہاتمن آخرت ژھانڈن تمن پزہ وارہ بوزن کہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ  
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤَتْ بِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصَيْبٍ  
 ئس شخصہاہ یٹھان آسہ آخرتک زراعت گرن یعنی آخرتک تو ابک طالب آسہ آخرتہ خاطرہ کرہ رتہ عملہ  
 بامید ثواب آس دموترقی ئس جہدس تھہ زراعتس اندر یعنی رٹن عملن پیٹھ و موائس ئس رت ثواب۔

بلکہ گرو آس تھہ ثوابس اندر تس زیادتی۔ آس عملہ کروس ادنی درجہ ذہہ گنہ ثواب عطا۔ یہ ئس اکھاہ  
 یٹھان آسہ دنیاس زراعت ئس دموائس یہ اگر آس یٹھو کینہہ تمہہ دنیا، آندرہ مگر آخرتس اندر آسہ نہ  
 تس کیت کا نہہ حصہ۔ کیا زہ سہ چھہ مشروط ایمانس سیت حاصل چھہ ئس اکھاہ عمل کرہ دنیائی مطلب  
 حاصل کرنے خاطرہ تس یہ دنیاس عطا کرنے مگر ستوی یوت آس یٹھو تو پتہ چھہ سہ آخرتک ثوابہ نشہ محروم۔  
 دین حق کور اللہ تعالیٰ ان مشروع و مقرر مگر تم لوکھ اگر سہ دین چھنہ مانان اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اشْرَعُوا  
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ کیاہ تمو چھا خدائس شریک ٹھراوی مت تموشریجو تھہدہ خاطرہ کا نہہ دیناہ مقررہ کورمت  
 چھہ۔ تمیک اجازت اللہ تعالیٰ ان تمن دیتمت چھہ۔ ہر گاہ خدایہ سندہ طر فہ اکھ قول فیصل مقرر

مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾  
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ

آسمانہ کرنے آمنت نہ گواہی نہ اصل عذاب سپدہ تمن پیٹھ مر نہ پتہ نہ بیہ ہا دنیا سے اندر تہند عملی  
 فیصلہ کرنے۔ بیشک یمن ظالمین ہندہ خاطرہ ہجہ آخرتس اندر دودتہ دن عذاب تَرَى الظَّالِمِينَ  
 مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تمہ دہندہ وچھو کہ توہہ تم تا فرمان تہ ظالم سیٹھاہ کھو ژان  
 تمہو کامیو سببہ ہمہ تمہو کرہ مرہ آسن بلکہ تمہ تمن کا میں ہند عذاب وچھن بس عذاب تمن پیٹھ یقینا سپدہ دن  
 ہجہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ  
 سمہو لو کو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر یکھ تم آسن جنتہ کین باغن اندر داخل تہندہ خاطرہ ہجہ تہندس  
 ہروردگار س نشہ تہ سورے یہ تمہ بڑھن ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یوہے گوو خدیہ سند بوڈ فضل، بوڈ  
 انعام۔ اتھ مقابلہ ہجہ دنیا ک عیش و عشرت کہی ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ یہی گیمہ خوشخبری یوسہ فرماوان ہجہ اللہ تعالیٰ پنہ نین بدن سمہو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر یکھ  
 چوہمہ کافر آس مضمون پوریان کرنے بروٹھے زیوہ پیٹھ ژان تراوتھ، چون کجرتھ تھ تکذیبہ چہ کتھ کران تمی  
 اویتیس بشارتک مضمون پوریان کرنے بروٹھے جملہ معترضس منز تکذیب کرن۔ وکنہ خاطرہ سہ  
 مضمون بیان کرنے سمہ سیت تہندی دل ویلکہ ہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس آو حکم کرنے قُلْ لَا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ توہہ فرماو تمن اے لو کو بوچھنہ توہہ نغہہ کانہہ مطلبہا ژھانڈان  
 توہہ سیت یہ کتھ بات کرنس اندر رشتہ داری ہندہ محبتہ ور اے یعنی سیتے ہتھس بہ توہہ نغہہ ژھانڈھان کہ  
 میان تہ تہندہ تعلقات رشتہ داری سمہ ہجہ سمہ ساری قریشن سیت وابتستہ ہجہ بلکہ تمام عربہ کین لوکن

حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
 افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ  
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾  
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

سیت پیوستہ چھہ تم دور چھہ یا نزدیک تمن تعلقاتن ہندین حقوقن ہند تھاوی تو تھی خیال۔ تم تعلقات چھہ متفصی پتھہ تھہ کہ تمہ ہبو میانس محافقس اندر جلدی کرن۔ بوزنہ بروٹھے شور لانگن بلجہ چھہ تم تعلقات مکان کہ نہایت اطمینانہ سان، سودلہ بوزو تو بہہ گوڈہ بہ کیاہ چھس تو بہہ ونان تو پتہ تولیون سو میان تھہ عقلہ ہنزہ ٹکرہ اندر تو پتہ پر کھا دیون وارہ سو تھہ غور و تاملہ سیت ہر گاہ تھہ اندر کانہہ شہماہ نہ اشکالاہ گزہ ہوہ سہہ کرو صاف۔ ہر گاہ سو میان تھہ غلط آسہ تہہ تار و میہ وارہ فکرہ بو ہر گاہ ڈلھہ آسہ تو بہہ آیمو میہ سیزہ و تہہ پیٹھہ غرض یوسہ تھہ آسہ سو آرن خیر خوانی پیٹھہ، یہ چھہ دستور کہ میہ دیونہ تو بہہ ونہ نے نہ فوراً ہیو تو بہہ شور و غل لانگن۔ آشنائی ہندین تعلقاتن ہر گاہ تو بہہ نشہ کانہہ احترام چھہ تیلہ بوز تو میان تھہ پتھہ منز تہند خاطرہ سیٹھاہ فائدہ چھہ **وَمَنْ يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ** بیہ بس اکھاہ نیکی کرہ اس گرو تمن نیکن اندر زیادہ رزہ خوبی عطا یعنی اس دم و تس زیادہ ثواب۔

بے شک اللہ تعالیٰ چھہ فرماں بردارن ہندین گو نمن سیٹھاہ بخشہ نار۔ تہزن نیکن سیٹھاہ قدر دان نہ رت ثواب عطا کرہ ون **أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** کیاہ سہہ لکھ چھا تو بہہ نسبت ونان زہ تمو چھہ یہ قرآن مجید خدا بس پیٹھہ اُپڑ ٹھہر وومت نعوذ باللہ یعنی نبوتک نہ وحیک خلاف واقعہ دعو کو کرمت۔ اتھ صورتس اندر چھہ خدا بس قدرت کہ ہر گاہ سہہ یڑھ تہندس دس پیٹھہ کرہ سہہ مہر۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ سند یہ طریقہ / فطرت کہ سہہ چھہ نہماوان اپز نہ پوز چھہ پز او ان غالب نہ ثابت پنہ نیوا حکامو سیت پزی پاٹھ سہہ چھہ دلہ جن کھن ہنز تان پور خبر تھاوان **وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ** بیہ چھہ سئی تھہر رحیم کہ پنہ نین ہندن ہند تو بہہ چھہ تمہہ کیو شر طو سان قبول کران



وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۵﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ  
 بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ  
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۷﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۸﴾

ہاں اگر کاہنہ کافر توبہ کرتے مسلمان سپدہ سہ چھ تہند ایمان اُن قبول کران بیہ چھ سئی توجہ برکتہ پنہ  
 نین بدن ہندین گو من غفو کران۔ بیہ چھ سئی تہ سورے زنان یہ توبہ کران چھوہ نس چھ معلوم کہ  
 کم کور توبہ مخلص دل تہ کم کور توبہ خلوصہ ورآے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ  
 مِنْ فَضْلِهِ بیہ چھ سئی تمن لوکن ہندس دعاء س اجابت کران سمو ایمان اون تہ رثہ عملہ کر کیہ۔ بیہ  
 ہتہ تمن زیادہ عطا کران ہن فضل وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم کافر نفس پیٹہ اصرار کرن اسلام  
 ان نہ تمن ہندہ خاطرہ چھ مقرر سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ سدہ صفت رحمتک اثر ہتہ کہ سہ چھنہ  
 سارنے لوکن زیادہ مال عطا کران کیاہہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ  
 پنہ نین بدن روزئس اندر وسعت گرہ ہاتیلہ کرہ ہن تم زمینس اندر سرکشی تہ شرارت۔ عام طبعین  
 ہندہ اعتبارہ چھ لوکن ہنزہ پستی ہند سبب اکھ آگس کن محتاج آسن۔ مال دارن چھ کامہ منزد حاصل  
 کرنہ خاطرہ مزورن تہ کاری گرن کن حاجتہ۔ فقیرن چھ پونسہ حاصل کرنہ خاطرہ مالدارن کن  
 حاجت۔ سیتھ پاٹھ چھ دنیاک کارخانہ پکان وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن سہ چھ روزی نازل کران  
 تمہ اندازہ موجب ئس سہ یثہان چھ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک سہ چھ پنہ نین بدن ہند  
 سورے زنان، سورے وچہان وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ  
 الْحَمِيدُ سہ پروردگار چھ تیتھ حکیم کہ سہ چھ رود تراوان لوکن ہندہ نامید گروہنہ پنہ۔ بیہ چھ سئی پنہ  
 رحمتک آثار عالمس منزواتاوان یعنی رود پریتھ جایہ واتاوان۔ پریتھ جایہ چھ زمینس سر سبز کران بیہ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ  
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقَاتِلِينَ ﴿۲۹﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا  
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۳۰﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۳۱﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۳۲﴾ إِنَّ يَتَّسِبُكُمُ الرَّيْحُ  
 فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

چھ ساری سارے ہند کارسازتھ کار سازی پیٹھ چھ سے قابل حمد و ثنا و مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقَاتِلِينَ یہ چھ تہمدہ قدرت کیونشانواندرہ آسمان سے زمین  
 ہند پادہ کرن یہ تمن جاندارن ہند پیدہ کرن سم آسمان سے زمینس منز چھکر اوی مت چھن۔ سنی چھ  
 تمن سارے مخلوقا تن دوبارہ زندہ کر تھ قیامتگ دوہ سومبرس سے جمع کرنس پیٹھ یلہ سہ تمن جمع کرن  
 یڑھ۔ پور قدرتہ دول۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ یہ چھ سہ منتقم  
 آسکھ باوجود عفو سے درگذر کر ہون۔ چنانچہ کس مصیبتاہ توہہ واتان چھ اے گنہ گاروسہ چھ حقیقتا واتان  
 توہہ تمو چھ عملو سببہ توہہ یم پنہ نیو آتھو کران چھوہ۔ توتہ چھوہ سہ وار تمن گونن عفو سے کران  
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ یہ بھیکیون نہ توہہ زمینہ کس  
 تمہ چھس منز پناہ حاصل کر تھ سے روز تھ۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھ۔ نہ چھ تھ حاس اندر تہمدہ خاطرہ  
 کانہہ مددگارہ تیاری کرہ وناہ خدا کس ور اے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یہ چھ تہمدہ  
 قدرتہ کیونشانواندرہ ناوہ سے جہاز یہہ دریاؤن سے سمندر ن منز پکان چھ۔ یہ تہمدین کو کون سببہ چھ۔  
 تمن بڈین جہازن ہند سمندر س منز پکن چھ تہمدی قدرتہ سیت إِنَّ يَتَّسِبُكُمُ الرَّيْحُ فَيُظِلُّنَّ  
 رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ہر گاہ سہ یڑھ واوس ٹھراوہ تمہ ناوہ سے جہاز یہہ واوہ سیت پکان چھ۔ تمہ گردھن  
 روز تھ اچہ تھر پیٹھ یعنی سمندرہ کس سطحس پیٹھ۔ یہ چھ تہمزے کام واوس چھ پچہ ناوان۔ تمہ سیت

شُكُورٍ ۳۳) أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۳۴) وَيَعْلَمَ  
 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِيبٍ ۳۵) فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ  
 مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  
 لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۳۶) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  
 كِبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۳۷)

جہہ جہازتہ پکان اِن فی ذلک لآیت لکل صبار شکور بے شک اتھ منز جہہ واریاہ قدرتک نشانہ۔ پرستھ  
 سیٹھاہ صبر کرہ ونہ سہہ تہ شکر دیہ ونہ سہہ خاطرہ۔ یعنی باایمان ہندہ خاطرہ اَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا  
 وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ یاہر گاہ سہ یشہ سخت تیز و اوتراوہ تمن جہازن اندر سارنہ سوارن گالہ تہزہہ پیچھ  
 عملو سببہ۔ یعنی پھاٹہ وکپہ وریاوس اندر۔ واریمین لوکن گرہ در گزریعنی تمن پھاٹوہ نہ تمہ ساتہ مگر آخرتس  
 اندر بیہ تمن عذاب کرنہ۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِيبٍ اُمہ تباہی ہندہ وقتہ سچھ  
 زائن تمن لوکن سم کج بخشی جہہ کران سانین آیاتن اندر کہ تہندہ خاطرہ چھنہ کانہ ثکن جلیاہ ساتہ عذابہ  
 نشہ چھنہ خاطرہ فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اُمہ اندرہ سپد  
 معلوم کہ مطلوب بناوس قابل چھنہ دُنیا بلکہ جہہ آخرت مطلوب مقدس بناوس قابل۔ وون یہ  
 کبیہ ہاہ دنیاء کیو چیز و اندرہ توہہ عطا کرنہ آوتہ جہہ محض چند روزہ دنیاء کہ زندگی ہندہ اکھ متع تلنک  
 چیز اہ بس عمر خم گڑھن ہنس پیٹھ خم گڑھ۔ بیا کہ گویہ کبیہ ہا اللہ تعالیٰ اس نشہ تہندہ خاطرہ جہہ تہ جہہ  
 رت تہ پوشہ ون۔ لہذا گڑھ دنیاء طلبی تراوتھ آخر تک طالب سپدن۔ مگر سہ سپدہ حاصل ایمان و اعمال  
 صالحو سیت بہہ شرک و کفرہ نشہ پتھ روزنہ سیت چنانچہ سہ ثواب مذکور جہہ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ  
 يَتَوَكَّلُونَ تہندہ خاطرہ سمو ایمان اولن۔ بیہ کوز کہ پنہ نس پروردگار س پیٹھ اعتماد تہ بھروسہ وَالَّذِينَ  
 يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ بیہ یم لو کہ بڑو گناہو نشہ چتھ جہہ  
 روزان بیہ پیچھ کامو نشہ بیہ سم تھ کہ کھستھ تھ کہ ہارہ و نین معافی ووان چھہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
 بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ  
 الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ  
 فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾  
 وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ  
 سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ  
 يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یہہ سمو حکم مون پنہ نس پروردگارہ سُنَدِیہ تھاو کہ نماز قائم پابندی سان .....  
 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہہ آسہ تہنزہہ پریتھہ کاماہہ تھہ منزہہ شرعی حکماہہ بیان آسہہ  
 کرنہ آمت پانہ والی مشورہہ کر تھہ پورہ سپدان۔ یہہ آسن تم تمہہ مالہ منزہہ نیس آسی عطا کو زکھ خرچ کران  
 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ یہہ تم لو کہ تمکن پیٹھہ سمہہ ساتہ کانسہ ہندہ طرفہ ظلم  
 کرنہ آسہہ یوان، تم اگر بدلہ آسن ہیان سہہ آسن برابر برابر ہیان۔ زیادتی آسن نہ کران۔ بدلہ ہینک  
 اجازت ہجھہ آسی تمکن دہشتت کہہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا بدی ہند سزا ہجھہ بدی تھہ ہش فَمَنْ  
 عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تمہہ پتہ یعنی انتقامک اجازت دینہ پتہ نیس اکھاہہ معاف  
 کرہہ ظالمس یہہ کرہہ معاملس منزہہ اصلاح۔ سمہہ سیت دہشتنی دور سپدہہ دوستی پادہ سپدہہ تمیک ثواب ہجھہ حسب  
 وعدہ اللہ تعالیٰ اس مینہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہجھہہ پسند کران ظالمس۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ  
 مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ وون تم لو کہ بدلہ نہ انتقام ہین ظالمکن نشہہ تھہہہ ظلم کرنہ پتہ نیس ہجھہہ تمکن  
 لوکن پیٹھہ کانسہہ الزامہہ نہ باز خواستہہ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ بلکہ ہجھہہ باز خواستہہ نہ الزام تمکن لوکن پیٹھہہہ ہم ناحق لوکن ظلم کران آسن۔ یہہہ آسن

اَلَيْمٌ ۳۳) وَلَكِنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۳۴)  
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِهَا وَتَرَى الظَّالِمِينَ  
 لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۳۵) وَتَرَاهُمْ  
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ  
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ۳۶) وَمَا كَانَ لَهُمْ

سرکشی سے بغاوت کران زمینس منز ناحق اولئک لہم عذاب اَلَيْمٌ تھین لوکن ہندہ خاطرہ چھہ  
 مقرر عذاباہ دگ سے دودنلہ ون وَلَكِنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک ئس شخص  
 کانہہ ہندس ظلمس پیٹھ صبر کرہ، انقاس ڈر پے روزہ نہ عفو نہ در گذر کرہ بے شک صبر سے در گذر کرن  
 چھہ بڈہ ہمتہ چو کامیواندرہ یعنی عفو سے در گذر کرن چھہ سیٹھاہ بہتر۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ مِنْ  
 بَعْدِهَا یہ اوس اوت تان حال متمدین ہندون چھہ امہ پتہ ضالینن ہمد حال بیان کرنہ یوان کس اللہ  
 تعالیٰ وتھ راوہ راوہ تس چھہ دنیاس منز تس پتہ کانہہ چارہ سازاہ سے مدد گارہ ئس تس وت پیٹھ انہ ہا۔  
 قیاس اندر سے آسہ ئس سیٹھاہ چھہ حال وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ  
 وجھو کہ تہہ تم ظالم سے کافر یلہ تم عذاب و چھن قیامتگ دوہ۔ دہنہ لکن نہایت حسرتہ سان کیاہ ساد نیاس  
 س گن و ائس گروہہ نچ چھنا کانہہ صورتھاہ سے کرہ ہو اس تعمیل احکام سے نیک بنہ ہو وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ  
 عَلَيْهِمْ خَشِيعِينَ مِنَ الدَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ بیہ چھو کہ تہہ تم تمہ ساتہ یلہ تم نار چھنمس  
 بروٹھ گن انہ یں کلہ بون گن تراوتھ آس خجالت ورسوائی ہندہ سببہ وچھان آس نار چھنمس گن اچھہ  
 بون گن تراوتھ تلی نارہ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہ  
 ساتہ دین بایمان پنہ ئس چھہ ئس پیٹھ شکر دپنہ خاطرہ کہ بیشک تاوان زد گئے تھے سمونا فرمایو سیت  
 تاوان پیو پنہ نین پانن پنہ نین شرین باژن از قیامتگ دوہ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وارہ بوزو

مِّنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
 مِنْ سَبِيلٍ ﴿۴۷﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ  
 مِنَ اللَّهِ ط مَالِكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يُؤْمِدُ وَّمَالِكُمْ مِنْ تَكْبِيرٍ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ أَعْرَضُوا  
 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتْرَ حِمَّةٍ فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ  
 أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۴۹﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

یاد تھا و کہ ظالم یعنی کافر نے تا فرمان لو کہ آسن دانجی عذابس اندر گرفتار و ما کان لهم من اولیاء  
 یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بے آسہ نہ تمن متہ کا نہ مدد گارہ نِس تمن مدد تہ یاری کر تھ میجہ با خدا نِس  
 و رَأَى وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ بے نِس خداؤ تھ را ورہ تس ہجھنہ نجاتج کا نہ و تھاہ اسْتَجِيبُوا  
 لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ای لو کو حکم ملاو پنہ نِس پروردگار سُنہ - ایمان اَنو  
 فرمانبرداری کرو سہ دوہینہ برو تھ دوس ہتھ نیرہ نچ صورتھ ہجھنہ خدا یہ سہہ طرفہ مَالِكُمْ مِنْ  
 مَلْجَأٍ يُؤْمِدُ وَّمَالِكُمْ مِنْ تَكْبِيرٍ آسہ نہ تمہہ دوہہ کا نہ ہجھنہ جلیاہ نہ آسہ تمہہ دوہہ ہجھنہہ خاطرہ خدا نِس  
 کا نہ باز خواست کر ہوناہ نہ آسہ توبہ سب تہ انکار کر ہ نچ صورتھ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  
 إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ اے پیغمبر برحق تہہ بوزہ ناویو کہ تم پس ہر گاہ تم لو کہ یہ بوز تھ تہ ہجھنہ پھر ان تہ  
 ایمان اَن نہ اوہ ٹپی مہ روزو غم تہ فکرہ اندرہ آسہ چھوہ نہ سوز مت تہہ ہجھنہ شجھد ر تہ ر اچھہ پیچھ کامیو  
 نشہہ کیار ٹیو کہ تہہ زورہ ہجھنہ - توبہ ہجھنہ مہ مگر سون حکم و اتناون نِس تہہ با حسن وجہ انجام دوان چھوہ -  
 یہہدہ خدا نِس نشہہ اعراض کرہ نلک وجہ ہجھنہ کہ تمن ہجھنہ خدا نِس سیت کمل تعلق تہ ہجھنہ ہجھنہ پاٹھ  
 ننان کہ وَاِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتْرَ حِمَّةٍ فَرِحَ بِهَا آس یلہ ہجھنہ انسان ہجھنہ پنہہ رحمتک مزہ ژہناوان  
 تمہہ ساتہ ہجھنہ سہ ژینگان تمہہ نعمتہ سیت - ویرٹان چھنہ سُنہہ مگر غم س پیٹھ نظر کر تھ ہجھنہ نِس شکر و ثنا  
 دپان وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ توبہ تہ یلہ تمن انسان کا نہ سخنیہ تہ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ  
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ  
 قَدِيرٌ ۝ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ  
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ  
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

تکلیفہا و اتقان بہتہ تمویجہ کا میوسبہ سمہ تموی پنہ نیو آشوکرہ مرہ آسان ہتھہ تمہہ ساتہ ہتھہ خدایہ سنزہ  
 شکایت تہ گراو کران بے شک انسان ہتھہ سیٹھاہ احسان فراموش تہ ناشکر گزار اللہ ملک السموت  
 والأرض خدایہ سنزہ ہتھہ پادشہت آسان تہ زمین ہنزہ یخلق ما یشاء پادہ ہتھہ کران یہ یڑھان ہتھہ  
 یهب لمن یشاء اناناکا ویهب لمن یشاء الذکور دوان ہتھہ تمن یڑھان ہتھہ کورہ بیہ چھہ دوان تمن  
 یڑھان ہتھہ گہر اویز و جہم ذکر اناناکا یا ہتھہ تمن عطا کران پنچوتہ کورہ تہ۔ و یجعل من یشاء عقیما بیہ  
 ہتھہ کران تمن یڑھان ہتھہ ہانٹھہ یعنی بے اولاد، اولاد نثیہ محروم انہ علیہ قدیر بے شک سہ ہتھہ  
 سورے زان ون۔ پور قدر تہ وول وماکان لبشر ان ۱۱ کلمہ اللہ الا وحیا او من وراہی حجاب بیہ چھہ  
 کانہ انسان بیہ جسم عنصری تھاوتھ موجودہ توئن ہندہ اعتبارہ بیہ طاقتھ تھاوان کہ دنیا عس منز کیاہ کرہ  
 تس بروٹھہ کتھہ اللہ تعالیٰ تس سیت کلام۔ مگر ہتھہ بیہ ممکن تموی تریو صورتو آندرہ کتھہ صورتہ یابلا واسطہ بلا  
 حجاب بطریق الہام کانہہ ہندس وکس منزواتہ تاوان کانہہ رتھکھاہ بیداری منزیا خواہس منز۔ یابلا واسطہ  
 مگر پردہ تل اویز و جہم رسول فیوحی بآذنیہ ما یشاء یا چھہ سوزان کانہہ پیغام و اتاوتھ نس سنی چھہ و اتاوان  
 خدایہ سدہ حمہ تمہ کتھہ بیہ سہ یڑھان ہتھہ کانہہ بندہ خاص نثیہ انہ علی حکیم بے شک سہ ہتھہ  
 سیٹھاہ عالیشان تہ سیٹھاہ تھود، سیٹھاہ حمہ وول و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا یٹھہ پاٹھہ سوزا سہ  
 توہم کن یارسول اللہ کلاماہ یعنی قرآن مجید پنہ طرفہ۔ بیہ ہاؤدی وہ آسہ تہہ پیغمبر خاص لوکن بلکہ خاص  
 الخاص لوکن سیت۔ سانہ کلام کرچہ صورتہ چھہ تہ صورتہ۔ بلکہ توہم سیت باوجود صلاحیت یوہے

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا  
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۶﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ الْآلَاءُ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿۵۷﴾

سلسلہ جاری چھہ باقی عام لوکن سیت کھہ پانھ گرواَس نہ وانہ بطریق مشافہہ و معاینہ کلام۔ پتھہ پانھ وحی  
سوزنہ سیت سپدے توہمہ بے مثل علوم حاصل ورنہ مائتت تدری ناالکئب و لاالیمان و لکن جعلنہ  
نوراً تھدی بہ من نشاء من عبادنا لیکن اسہ کور توہمہ عطا نبوت و قرآن۔ یہ قرآن مجید کور اسہ اول  
تہندہ خاطرہ دوم توہمہ وراکی بین لوکن ہندہ خاطرہ اکھ نوراہ سمہ سیت اس و تھہ چھہ ہاوان تمن تمن  
ہند اس یڑھان چھہ پنہ نیوبند و اندرہ علوم و اعمال کن و اناک تھدی ایل صراط مستقیم تہہ تہ چھوہ  
بیشک امہ قرآن مجیدہ سیت و تھہ ہاوان عام لوکن راہ راستس کن صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات و ما  
فی الارض اس خدایہ سنزہ و تہ کن کیند تہ سورے چھہ یہ آسمان تہ زمین منز چھہ آل الی اللہ تصیر  
الأمور اے لو کو و ارہ بوزو کہ سارنے کائین ہند انجام تہ مرجع چھہ اللہ تعالیٰ سہ دیہ سارنے  
عملن، پتھہ یہ شوبہ، موزور۔





## سُورَةُ الزُّحُرُفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ④ أَفَنْصَرِبُ  
 عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑤ وَكَمْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

حکم سے ہم پر ہر حرف مقطعات سے منہ ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قسم چھہ سمہ  
 قرآن مجید ک سبک معنی بالکل واضح چھہ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسہ کر یہ کتاب  
 عربی پاتھ قرآن۔ تھہ توبہ اے عربہ کیولو کو باسانی فجرہ ترہ۔ تہندہ واسطہ پنچھن ساری دنیاء کی اقوام  
 یہ مقدس کتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بیشک یہ قرآن مجید چھہ لوح محفوظ اندر اسہ  
 نشہ وجوہ اعجاز اسرار عظیمن مشتمل آسنہ موکہ سینہا تھدس مرتس اندر تبدیل و تحریفہ نشہ محفوظ  
 آسنہ موکہ سینہا محکم تہ مضبوط۔ ایک احکام چھہ ساری نبی برحمت۔ ایک مضامین چھہ اصلاح  
 معاش و معادہ خاطرہ اعلیٰ ترین ہدایاتن پیٹھ مشتمل لوح محفوظ اندر چھہ یہ قرآن مجید سارنئے  
 آسانی کتابن پیٹھ کہہ لیکنہ آمت۔ یشہ جلیل القدر کتاب گدھ ضرور مان۔ لیکن اگر تہہ ماؤنہ توتہ چھہ  
 آس یہ کتاب توبہ بوزانہ خاطرہ ضرور نازل کرن۔ تہہ ماؤن تویامتہ ماؤن تُو أَفَنْصَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ  
 صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اے مکر و کیاہ توبہ چھا خیال کہ اُس رٹون یہ نصیحت نامہ قرآن مجید  
 توبہ نشہ پتھ سمہ کتھہ موکہ کہہ تہہ کیاہ چھوہ حدہ روئے نافرمانی گرہ وکن امہ خیالہ نشہ نیر و وَكَمْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ اسہ سوز کا تیاہ پیغمبر بروٹھن لوکن منز۔ تہندہ انکار تکذیبہ کہ باوجود یہ کورنہ  
 اسہ کہہ تہندہ تکذیبہ موکہ گرہ ہو اُس پیغمبر سوزنگ سلسلہ ہند۔ تھہ پاتھ اسہ تہندہ تکذیب کرہ نگ

يَسْتَهْزِءُونَ ⑤ فَأَهْلِكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مِثْلُ  
 الْأَوَّلِينَ ⑥ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ  
 خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑦ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ  
 جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑧ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑨  
 وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ

كانه بدو اكرونه يتھے پاٹھ مہ کرو تہہ تہہ كانہ ہر واتہ غم کیا زہ سمن برو تھہ سیم لو کہ اس تہند حال تہ اوس  
 تھے وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تَبِيٍّ إِلَّا كَأَنَّهُمْ يَبْتَغُونَ تَمَن لُو كُن نَشِر اوس نہ واتان كانہ پیغمبر اہ لیس نہ  
 تم ٹھہ اس کران فَأَهْلِكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ لیس گال اسہ تم لو کہ سیم از  
 کین کافران ہندہ خوتہ زیادہ طاقتور آس۔ چنانچہ تمن برو تھمین لو کُن ہندہ تباہ و بر باد گر دھہ تک واقعات  
 آی بیان کرنہ آیات کر یمن اندر۔ یہ تہند حال سہڈتی سپدہ ازی مُخْرَجُونَ ہند حال تہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ  
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بیہ ہر گاہ تہہ سمن لو کُن پر تھوزہ آسمان تہ  
 زمین کم کور پادہ ضرور و سن تم کہ پادہ کر تم تی خداین لیس سیٹھاہ زبردست، سوزی زانہ ون چھہ  
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کی خداین تہندہ خاطرہ زمین  
 کور فرشاہ تھے پیٹھ تہ آرام چھوہ کران بیہ کران تہندہ اورہ یور پچیر نہ خاطرہ، منزلی مقصودس تان  
 واتنہ خاطرہ تھہ منزوتہ تہہ تہہ تموو تو پچھہ مطلبس تہ مقصدس واتان آسوَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ  
 مَاءً يُقَدِّرُ بیہ سیم خداین تروہ آسماچہ طر فر روداہ اندازہ کر تھہ حسب مشیت و رحمت فَأَنْشُرْنَا بِهِ  
 بَلْدَةً مَيِّتًا لیس کور اسہ تی رودہ سیت زندہ مومت زمین کَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تھے پاٹھ کیاہ بیہ قہرو  
 اندرہ تہہ تہہ بیہ زندہ کر تھہ نیر کڈنہ قیامتک دوہ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا بیہ کی خداین پادہ کر  
 مختلف قسمک چیز وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ بیہ تہندہ خاطرہ ناوہ تہ جہاز بیہ چار پاپادہ

مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۱﴾ لَيْسَتْوَاعَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾ أَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا ابْتِشَرَّ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

تسمن پیٹھ تہہ کھسان تہ سوار سپدان چھوہ۔ لَيْسَتْوَاعَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ پیٹھ تہہ وارہ ہوتہندین پیشن پیٹھ توہتہ پاوژ تمیں پنہ نس ہروردگارہ سزہ یہ نعمت یلہ تھہ سواری پیٹھ وارہ روزان آہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تمہ وقتہ آسوپدان یہ مضمون کہ منزہ تہ پاک ہٹھ سہ پروردگار ہم تابع تہ رام کر یہ سواری سانہ خاطرہ ورنہ فی الحقیقت آس آس نہ پانہ یہ قابلیت تھوان کہ آس کیا لہہ ہواہس سواری پیٹھ قابو۔ کیا زہ سہ جانور ہٹھ سانہ خونہ زیادہ طاقتور آسان یہ ہٹھ محض مہربانی اللہ تعالیٰ سزہ پیٹھ پاٹھہ ہیکہ ہونہ آس آس پیٹھ جہاز تہ ناوہ پکہ ناوہ تھ۔ اللہ تعالیٰ تہ آسہ جہاز تہ ناوہ بناوہ تک توفیق دت تو پتہ تمہ آس پیٹھ پکہ ناوہ تک تدبیر تہ پچھ ناوہ ہا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کر خشکی تہ دریائی سوارین ہنز د کر ہٹھ آہہ کر تمس منز امہ آندرہ ہٹھ سپدان معلوم کہ ناوہ گھہ ون تہ گڑھہ ہر ان سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بیہ ہٹھہ آس پنہ نس ہروردگار سُن واپس رجوع کرہ ونی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا توحیدس پیٹھ بے شمار دلیلہ آسکہ باوجود ہٹھہ ٹھہراوان لوکھ خداہس تہندوے بند و آندرہ کورہ تہ ہر تسمن جزء بناوان ہٹھہ خذلیہ سندی۔ حالانکہ نس اجزاء اسن چھہ محال تسدہ خاطرہ مجرء قرار دین گونو نعوذ باللہ تسند حادث ماُن نس بوڈ کفر تہ ناشکری چھہ۔ اکھ خرابی چھہ اتھ منز یہ بیاکھ خرابی چھہ اتھ منز کہ تم لوکھ ہٹھہ کورین ناقص زانان تو پتہ چھہ خداہس سیت تم نسبت ٹھہراوان إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ بے شک انسان چھہ نن پاٹھہ ناشکری گروہ ون اَمْ اتَّخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ کیاہ تم چھاپنہ نیو

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ<sup>۱۷</sup> أَوْ مَنْ يُنشِئُوا  
 فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ<sup>۱۸</sup> وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ  
 الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشْهَدُوا وَخَلَقَهُمْ سَكَّتَبُ  
 شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ<sup>۱۹</sup> وَقَالُوا الْوَسْأَاءَ الرَّحْمَنِ مَا عِبَادُهُمْ

مخلوق تو اندرہ پتہ خاطرہ کورے کورہ زحموہ تہ تہہ کمر نوہ خاص پتو یوسیت حال لہجہ تو بہہ ہجھوہ کورہ تیرہہ  
 ناہندہ کہہ وَاذْ اٰیٰتُرْ اٰحَدًا هُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ چنانچہ یلیہ تموا اندرہ  
 کانہہ خبر ہجھہ یوان دنہ تمہہ سیتی یہ تموا ٹھہر اور حمہہ واپس خدا یسینے کور، تمہہ ساتہ ہجھہ سپدان ہجھہ  
 تہید سیاہیہ ہجھہ غمہ سیت برنہ یوان اَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیاہ خدا یسین کیاہ خدا یسین کریا  
 اولاد بناونہ خاطرہ کورے پتہ یوسہ ضعیف ہجھہ رایہ کن تہ عقلہ کن تہ غرض تس ہجھہ سیم خدا ی قدوس  
 سند ی جزو ٹھہر او ان یوسہ گنہ پاتہ سے منز ہجھہ ہلان تس ہجھہ زینت و آراشہ گنہ خیال آسان تس  
 تہدہ ضعیف رایہ ہند علامت ہجھہ۔ بیہ ہجھہ مقابلہ کہہ وقتہ سہ مطلب پتہ ظاہر ہیکان کر ہجھہ تس ضعیف  
 عقلہ ہند علامت ہجھہ کیا زہ تمن ہجھہ قوت فکر تس منز ضعیف تہ سستی۔ لہذا ہجھہ سوچتہ کہہ وقتہ مکمل بیان  
 تہ تھہ ہیکان کر تھہ۔ یا ہجھہ تمہہ قسمہ چہ تھہ کر ان تسن نہ اصل مطلبس سیت کانہہ تعلق آسان ہجھہ سمہ  
 سیت مقصد بیان کر تس اندر خلل واقع سپدان ہجھہ ترسم خرابی ہجھہ اتھ اندر کہہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ  
 هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا تریم خرابی ہجھہ اتھ اندر قطع نظر لزوم شر کہ نغیرہ کر تھہ کہ بیہ ہجھہ لو کو ملا تک  
 سیم حضرت رحمانہ سند ی خاص بندہ چھہ، تھے ہجھہ زامت بلاد دلیل زنانہ أَشْهَدُوا وَخَلَقَهُمْ کیا سنا تم  
 آسہ تہندہ پادہ کر نکہ وقتہ موجود تو پتہ آسہ تم وچھان تہنز کیفیت و حقیقت مرد آسہ کنہ زنانہ آسہ  
 سَكَّتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ تہنزہ ہیرہ بے بنیاد تھہ چھہ یوان لیکھتہ تھاونہ تہند یں نامہ اعمال اندر تو  
 پتہ پیکھ تسن تھن ہند پر تھنہ قیامتک دوہ وَقَالُوا الْوَسْأَاءَ الرَّحْمَنِ مَا عِبَادُهُمْ بیہ ہجھہ ونان تسم کافر کہ  
 ہر گاہ حضرت رحمان یژہہ ہا اس گرہ ہونہ تسن ملا یکن ہنز پر سٹش مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۳۰﴾ أَمْ أُنذِرُكُمْ  
 كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۳۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا  
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۳۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا  
 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا  
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۳۳﴾  
 قُلْ أَوْ كُفِّرْتُمْ بَأْهْدَىٰ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا

الْاِيخْرُصُونَ تم جھنہ اوج خبرے کہیں۔ تم جھہ بل تھقیقہ در اے کتھ کران اندازہ لگاوان **﴿۳۰﴾** **أَمْ أُنذِرُكُمْ**  
 کتبا من قبلہ فہم بہ مستمسکون کیاہ اسہ جھا تم کا نہ کتاباہ امہ قرآن مجیدہ۔ برونھ عطا کر مر  
 اتھ دعویٰ اس اندر کیاہ جھہ تم تمی سیت استدلال کران حقیقت جھہ یہ کہ نہ جھہ تم عقلی دلیلاہ  
 اتھ پیٹھ نہ نقلی دلیلاہ **﴿۳۱﴾** **بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا** آباءنا علیٰ ائمہ وانا علیٰ اثرہم مقتدون بلکہ جھہ تم  
 کران پیروی بروٹھیں ہندین رسن ہنز۔ ونان جھہ کہ اسہ وچھہ مال بڈب پننن امہ طریقہ پکان اسی تہ جھہ  
 پکان تہندوے نقش قدم موجب **﴿۳۲﴾** **وَكَذَلِكَ مَا** ارسلا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا  
**﴿۳۳﴾** **اِنَّا وَجَدْنَا** آباءنا علیٰ ائمہ وانا علیٰ اثرہم مقتدون پیٹھ پاٹھ سوزنہ اسہ توہہ بروٹھہ یارسول اللہ کنہ  
 شہرس منز کا نہ پیغمبرہا تمہن بیم کرنہ خاطرہ۔ مگرونان اسی تمہہ شہرک لوکھ مالدارتہ آسودہ حال کہ اسہ  
 وچھہ پنی مال بڈی بب اکہ وتہ پکان اسی تہ جھہ تہند نے نقش قدم پیٹھ جتھ تہنز پیروی کران **﴿۳۳﴾**  
**قُلْ أَوْ كُفِّرْتُمْ** بآہدی وما وجدتم علیہ آباءکم قالوا اننا کفرنا ہمہ تم پیغمبرن فر موو تم  
 کیاہر گاہ بہ توہہ نشیرہ پیش کرہ سوو تھہ یوسہ زیادہ مطلبس واناہ ون اسہ تمہ وتہ خوتہ تھہ پیٹھ توہہ و  
 جھو کہ ہن مال بڈب توہہ پکوتہ تہہ تمی وتہ۔ تم لگ دہنہ عنادہ کنی تہہ ٹلس دیناہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ  
 اسی جھنہ سہ دین مانانی۔ بلکہ جھہ اسی تھہ انکار کران۔ یلہ تہند عنادا تھہ در جس ووت **﴿۳۳﴾** **فَانظُرْ كَيْفَ**  
**﴿۳۳﴾** **فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ** کس ہیوت اسہ تم پور، انتقام۔ کس وچھو کیاہ سپدا انجام تم نہ

بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرًا ۖ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۵﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي  
بِرَأْيِكُمْ مَتَّعِدُونَ ﴿۳۶﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿۳۷﴾ وَ  
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿۳۸﴾ بَلْ مَتَّعْتُ  
هُوَآءَ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ وَلَمَّا  
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۴۰﴾ وَقَالُوا لَوْلَا

ماند و نین ہند۔ ہر گاہ تم آباء و اجدادہ نے ہنز متابعت ہتھ کرن تیلہ شوہ متابعت کرن تہس جد اعلیٰ  
سنزیم مسلم و معظم ہتھ سار نے عربن نشہ۔ تم و چھو تھس مضبوط تہ محکم آس توحیدس پیٹھ **وَإِذْ قَالَ  
إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بِرَأْيِكُمْ مَتَّعِدُونَ** بیہ پاؤ یو کھ ترقیس قصہ ابراہیم علیہ السلام بیلہ فرمود  
تمو پنہ نس مائس تہ پنہ نس قومس بے شک بہ چھس یزار تم سار نے ہنز عبادت کرنہ نشہ یمن ہنز  
پرستش کران چھوہ **إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ** مگر تہ چھس تہ ذات پاکس سیت تعلق تھادان  
یم بہ پیدہ کورس بے شک سہ ہتھ میانہ دینی و دنیوی **مُضَلِّعِينَ كُنْ مِیہ رہنمائی کران تہ و تھ ہاوان  
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ** بیہ قائم روزہ و ان کتھ تراؤ تمو باقی پنہ نین اولادان منز  
بتھ تم ہزس کن رجوع کرن۔ یعنی تمو کر پنہ نین اولادان وصیت شرک تراوہ تہس تہ توحید پالہ تہس  
متعلق مگر سم لو کھ چھنہ شرک نشہ باز یوان **بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ**  
بلکہ تہلہ نامیہ سم لو کھ بیہ تہند مال ہڈیب زچھ عمرہ تہ بیٹھہ رزقہ سیت تمح۔ یوتان و اثر تم نشہ ہز  
کتاب بیہ سوڑی نزاوہ و ن تہ صاف بیان کرہ و ن پیٹہر خدایہ سندہ طرفہ **وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا  
هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ** تو پتہ یلہ ووت تم بیہ پوز قرآن مجید تم ہزہ ہا شکرو شادمن تھہ بدل  
دیکھ یلہ سمیک معجزات و چھک کہ بیہ چھ تہ تہ جوہ۔ آس چھہ اتھہ انکار کران بیہ و و کھ قرآن مجیدس  
نسبت **وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ** بیہ لگ نہتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾  
 أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سُلْعِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ وَكُلًّا لَّا أَنْ  
 يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ  
 لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْمًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِيُؤْتِيَهُمْ

و سلمن متعلق کہ یہ قرآن مجید کو نہ آنازل کرنے سمودوہ یو شہر و منزہ مکہ و طائفہ کیو لو کو منزہ کانہہ  
 بدس شخص بیٹھ **أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ** کیاہ تہندس پروردگارہ سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا  
 تم پائے تقسیم کرن تہ باگرن یشہان۔ یہ چھہ سراسر تہنز نادانی۔ تمن کیاہ حق چھہ اتھ منز دخل  
 دنگ کیاہہ **لَنْ قَسِمْنَا بِئِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** اس چھہ تقسیم کران تہ باگران تمن منز تہند  
 رزق تہ روزی دنیاچہ زندگی اندر **وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ** تھہ تقسیم اندر کور اسہ تمو  
 آندرہ اڈین ہند درجہ تھود اڈین بیٹھ **لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْعِيًّا** تھہ تمہ سیت یہ مصلحت حاصل  
 سپدہ کہ تمو آندرہ اڈین کوم اڈین نشہ تمہ سیت روزہ عالمک نظام قائم **وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ**  
 توپتہ چھہ یہ تھہ ظاہر تہ یقینی کہ تہندس پروردگارہ سنز رحمت یعنی نبوت چھہ بدر جہا بہتر تہ افضل تمہ  
 مال دنیاخو تہ بس تم سونہراوان چھہ یعنی یلہ یہ دنیوی معیشت بس ادنی درجک چیز چھہ تمیک تقسیم  
 کردہ اسہ تہنز ہرلیہ موجب، کیاہ نبوت بس اعلیٰ درجک چیز چھہ تمک مصالح تہ چھہ اعلیٰ درجی تمیک  
 تقسیم تھہ پاٹھ گرو اس تہنز ہرلیہ موجب تھہ روز تہچہ صلاحیتک بناعتہ پھنہ امہ نشہ مال وریاست، دنیاءک  
 مال و دولت جاوہ حشمت چھہ امہ نشہ حقیر و ذلیل تمہ قسم کہہ **وَكَوَلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً**  
**لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْمًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ** بیہ ہر گاہ یہ تھہ آسہانہ  
 کہ ساری لوکھ کیاہ نہ بن گئی جماعت کافران سیت موافقت کر تھہ نہ کہہ ہو اس حضرت رحمانہ سنندین

أَبَوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يُكْتُونُ ﴿۳۶﴾ وَزُخْرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا  
 مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾  
 وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۸﴾  
 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

مُحَرَّن، جہنم میں گرن ہندی نیش سے تالو روپہ سندھیہ تمہ ہیرہ تمہو پیٹھ ہبور کھسان سے یون وسان چھہ تمہہ  
 تہ گرہ ہو کہ روپہ سزے و لایو یو تمہم ابوابا و سُرًّا علیہا یکتون \* و زُخْرُقًا بیہ کرہ ہو کہ تہندین کھین  
 ہندے دروازہ بیہ چار پایہ تمکن پیٹھ تم ڈو کہ دتھ بہان سے آرام کران چھہ روپہ سندھیہ چیز گرہ ہو اس سو  
 نہ سند تیوت چھہ آسہ نشہ مال دُنیا بے اعتبار تہ بے قدر وَاِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سوڑے کینہہ چھہ مگر ناپا کدار دنیا چہ زندگی ہندا کہ ساماناہ پاسدار  
 آخرت بیہ آخر تک پوشہ دن سازو سامان چھہ تہندس خدا یس نشہ تمکن لوکن ہندہ خاطرہ تم تمس  
 کھوژن شرکہ نشہ پتھ روزن وَاِنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ یس اکاہہ حضرت  
 رحمانہ سندہ نصیحتہ نشہ یعنی قرآن مجیدہ نشہ چھہ زانتھہ کر تھہ اون بنان چھہ پاٹھہ تم کافر چھہ شافی دلیلہ  
 آتھہ تمہو سیت علم ضروری حاصل سپدان چھہ تجاہل تہ تعاضل کران اس چھہ تمس پیٹھ مقرر کران اکہ  
 شیطانہ یس تمس سیت سیت روز تھہ کتھہ چیز چہ کامہ کن آتھہ و تھہ چھہہ دو ان وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ  
 السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ بے شک تم شیطان چھہ تمکن لوکن سیزہ و تہ نشہ پتھہ رٹان مگر تمکن  
 چھہ پتھہ جایہ گمانہ کہ تم چھہ سیزہ و تہ پیٹھہ تمکن ہنزہ گمراہی ہنزہ صورت آسہ تہندہ و تہ پیٹھہ یکہ نچ کیاہ  
 امید بیہ کرنہ تہند غے کیاہ چھہ کھوون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَسْ  
 اَلْقُرْبَيْنِ یوت تام قیامتگ دوہ یٹھہ شخص آسہ نشہ ولتہ سہ آسیس سیت۔ آسس سپدہ پتھہ غلطی ہند  
 احساس۔ آسس شیطانس کن لکھہ و تہہ کاشکے میہ منز تہ ثیہ منز آسہا دُنیا س منز تیوت دور یریوت



فَيْسَ الْقَرِيْنُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ  
 مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَفَاَنْتَ تَسْبِيْهُ الصَّامِ اَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ  
 فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۰﴾ وَاَمَّا نَذْرٌ لِّكَ يَا اَمْرًا مِّنْهُمْ مُّنتَقِمُوْنَ ﴿۴۱﴾  
 اَوْزِيْرِيْكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَاِنَّا عَلِيْمٌ مِّمُّ قَدِرُوْنَ ﴿۴۲﴾ فَاَسْتَمْسِكُ  
 بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۳﴾ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ

مشرقس سے مغربس منزجھہ کیا زہ چھہ سیٹھاہ پچھہ رفیق ثبیہ کور تھس بہ گمراہ۔ مگر اکی سندیہ وئنیہ نہ  
 ائس کئی بکار امہ ساتہ وئنیہ پچھہ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ یلہ توہہ دنیاہ س  
 اندر کفر کرنہ سیت ظلم کوروہ۔ پتھہ پاٹھہ نہ از توہہ افسوس و حسرت کرنس کانہ فاندہ چھہ پتھہ پاٹھہ  
 چھہ پتھہ کتھہ تہ تھندہ ختھہ کانہ فایدہ کہ توہہ کیاہ چھوہ عذابس اندر اکھ اکی سندی شریک یعنی پتھہ پاٹھہ  
 دنیاہ س اندر کئیہ بلاہیہ گرفتار گھنہ سیت اکھ ائس ائمہ کج لوژر محسوس آس سدان تہ آسہ نہ تہہ بلکہ  
 آسہ جھنمکھ عذاب شدت امہ کجکھ امہ کتھہ ہند ہوشی آسہ نہ کانہ سہ کیاہ گرہ ہئس کانہ کن التفات تہ  
 توجہ۔ پرتھہ اکھاہ آسہ پنہ ئس حاکس اندر بتلا اَفَاَنْتَ تَسْبِيْهُ الصَّامِ اَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ  
 مُّبِيْنٍ اے پیغبر توہہ یلہ بہنزہہ حالتھ معلوم سہز کیاہ تہہ ہیکو کھ زربوزہ ناو تھہ یا ہیکوہ آئین و تھہ ہاوتھہ۔  
 بیہ ہیکو نہ سہ شخص ئس منہ گمراہی منز پومت آسہ و تہ پیٹھہ اکتھہ۔ یعنی تھند ہدایت چھہ تھندہ اختیارہ نشہ  
 نہر۔ لہذا مہ کھیو تہہ تمیک غے۔ تم ہنزہیہ سر کشی تہ نافرمانی بیہ نہ نظر انداز کرنہ بلکہ بیہ تم نشہ امیک  
 ضرور انتقام ہنہ۔ ادہ سہ تہنزہہ موجودگی اندر آس تن یا تھندہ سمہ عالمہ گھنہ پتہ آس تن وَاَمَّا نَذْرٌ لِّكَ  
 فَاِنَّا مِّنْهُمْ مُّنتَقِمُوْنَ ئس ہر گاہ آس تہہ بیمہ عالمہ نموہ توتہ چھہ آس تم نشہ ضرور انتقام ہیوہ ون  
 اَوْزِيْرِيْكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَاِنَّا عَلِيْمٌ مِّمُّ قَدِرُوْنَ تہ ہاوہ توہہ تہ سہ عذاب سمیک آسہ تم و عدہ کورمت  
 چھہ سہ گرو آس تم نازل تہنزہہ موجودگی اندرے۔ بہر حال آس چھہ تم پیٹھہ پرتھہ طریقہ پور  
 قدرت تھادان فَاَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ کس روز توہہ پورہ اطمینانہ مان

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا  
 يُعْبَدُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ

اتھ قرآن مجید س بیٹھ قائم۔ ٹیس توہمہ بیٹھ وجہ کہ ذریعہ نازل آو کرنہ۔ تہہ ہجھوہ بیٹھ سیزو تہہ بیٹھ  
 وَأِنَّ لَكَ لَأَكْبَرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یہ قرآن مجید ہجھہ شرف تہہ عزت تہہ ہجھہ خاطرہ ہجھہ تہہ ہجھہ  
 قومہ خاطرہ تہہ ہجھہ خاطرہ ہجھہ سمہ موک کہ توہہ گن ہجھہ بلا واسطہ اتھ اندر خطاب تہہ ہجھہ قومہ خاطرہ  
 ہجھہ امہ موک کہ تم ہجھہ تہہ ہجھہ واسطہ مخاطب عام پادشمن ہجھہ طرفہ خطاب سپن ہجھہ باعث کمال  
 شرف و عزت وون ہجھہ تہہ یلہ ملک الملوکہ سندہ طرفہ خطاب آہہ۔ سہ کوتاہ باعث کمال شرف و  
 عزت ہجھہ قومہ آندرہ ہجھہ مراد قریش یاساری عربک لوکھ یاساری امتی۔ توہہ سارنہ بیہ یہ پر ژھنہ  
 پتہ پتہ ذمہ داری ہندین حقوقن متعلق ہجھہ منز تمکو کوتاہی کر مژ آہہ بیہ پر ژھنہ تبلیغس متعلق بائین  
 نغہ بیہ پر ژھنہ تعمیل احکامن متعلق ہجھہ منز تمکو کوتاہی کر مژ آہہ وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  
 رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ یار رسول اللہ ہر گاہ توہہ خوش گرہ تہہ ہی پر ژھنو تہہ  
 دریافت کمر تو تم ن نغہ سم آہہ توہہ بروٹھ پتہ نیو پیغمبر و آندرہ سوزی لوکن گن کیاہ آہہ چھا حضرت  
 رحمانس و رآے بیہ معبود مقرر کر مت تم ن ہنز پر ستش کرنہ بیہ ہالجے ہنز و تھ تہہ چھہ سوے یوسہ تین  
 حضرات انبیاءن ہنز آس۔ شریکچ تعلیم چھنہ کانسہ پیغمبرن و ژ مژنہ چھہ اللہ تعالیٰ ان کئہ دینس منز یہ  
 تھہ جائز قرار دژ مژ مہ خدائس و رآے کیاہ بیہ کانسہ ہنز پر ستش گرنہ۔ خدا یہ سندیہ ارشاد گرن کہ تہہ  
 پر ژھنو پیغمبرن، سہ گو و سمہ وقتہ تم ن سیت ملاقات سپدہ مثلاً شب معراجس اندر۔ یا و چھنو ہنز ن  
 کتابن اندر۔ بہر حال ٹیس ٹیس ذریعہ توہہ ممکن سپدہ سہ کر توہہ استعمال۔ توہہ سپدہ صاف معلوم کہ کئہ  
 آسمانی دینس اندر چھنہ کئہ وقتہ شریک اجازت ونہ امت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پز پانچہ بیہ سوز آہہ موسیٰ کلیم اللہ پچن آیات ہتھ فرعونس تہہ تہہ دین

مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاجِدُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٢٧﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

اہل کارن کین تو پتہ فرمود تم نیشہ بیٹھ تمواکی فرعون بہ چھس پیغمبر رب العالمین سدہ طرفہ توہیہ لوکن ہدایت کرنہ خاطرہ مگر فرعونؑ تہ تمی سند یولو کو مون نہ فلما جاءهم بالبينات اذا هم منها يضحكون ادہیلہ موسیٰ علیہ السلام ووت تمن نیشہ سان آیات یعنی آیات تسعہ نو آیات بیتھ۔ یکبار لگ تم لو کہ تم آیات وچھتھہ اسنہ تہ ٹھٹھہ کرنہ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا بیہ آس نہ آس تمن کانہہ معجزہ ہاوان مگر سہ اوس بیہ معجزہ خوتہ بوڈ آسان وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کرے تم گرفتار مختلف عذابو سیت دیوہ تم نافرمانیو نیشہ بازیتھ خدائس کن رجوع کرن وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاجِدُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ بیہ دوپ تمو موسیٰ علیہ السلام عذابو سیت تنگ بیتھ اے جادوگرہ سانہ خاطرہ معتہ پنہ نس پروردگار س کیا زہہ پٹھہ تم قبولیت دعاءک وعدہ کورمت۔ بے شک آس چھہ وتہ پیٹھ یوہ وان ہر گاہ آس تمو عذابو نیشہ نجات لبو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کور تہندہ خاطرہ دعا عذاب سپد تمن نیشہ دور فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ادہیلہ اسہ تمن نیشہ عذاب تل تہ دور کور یکبار ہیوت تمویہ سہ وعدہ پھر اوان بیہ ہر کہ نافرمانی کرن۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ بیہ کرفرعونؑ کرکیتہ تہ منادی پنہ نس قومس منز غالبیہ خیال کر تھ کہ خبیر چھا موسیٰ علیہ السلامہ سندواریہ معجزہ وچھت ماسپدن عام لو کہ متاثر سپد تھ مسلمان منادی اندر ونہ نو وکھ اے میانہ قومہ کیو لو کہو قطبیو میہ چھنا سمہ مصر ج

مِهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿۵۲﴾ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ  
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۳﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۴﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ  
 أَجْمَعِينَ ﴿۵۵﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾ وَكَلَّمَا ضُرِبَ

حکومت تہ سلطنت بیہ چھنا مایانو مکانوتہ باغو منز سمہ جو بیہ تہ کولہ پکان یسہ دریای نیلہ نشہ کڈنہ آسڑہ  
 چھہ۔ کیاہ تہہ چھوہ ناو چھان تم چیز۔ موسیٰ علیہ السلا مس نشہ چھنہ کہین۔ وون ویتو تہہ بہ چھہ بہتر تہ  
 قابل اتبا عنہ موسیٰ علیہ السلام چھہ امر اتا خیرین منہا الذی ہو مہین و لا یکاڈ یبین بلکہ چھس بوی  
 بہتر ایس شخصہ سدرہ خونہ یس نہ کہنے اعتبار تہ عزت چھہ بیہ چھنہ سہ کتھ تہ وارہ پاٹھ کر تھہ ہیکان۔ زیوہ  
 ہدہ پھہرہ سبہ **فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ** ہر گاہ یہ شخص خدایہ  
 سندر فرستادہ آسہ ہا۔ ادہ کونہ آئی تروانہ تمس پیٹھ خدایہ سندہ طرف سونہ سند کر۔ پتھ پاٹھ پاد شہین ہنز  
 طریق چھہ تم بلہ کالسہ شخص پیٹھ مہربان آسں چھہ تم چھہ تس شخص سونہ سند کر لاگان اگر تمس  
 شخص تہ نبوت عطا کرنہ آسہا آسڑ تلہ آسہ ہن ایس تہ امت لاگنہ سونہ سند کر۔ یا کونہ چھہ تمس سیت  
 سیت ملایک پکان پرین اکھ اکس ستی ملہ ناوتھ **فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ** تہ  
 تھہ وئی کہین عقل پتہ توج تم آئی امی سندس دھوکس منز تمو کر آمد سز ن تھن پیٹھ عمل۔ بے شک تم  
 آسں بروٹھ پیٹھ شرارتہ ہت۔ نافرمانی کرہون۔ **فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ** ادہ یلہ  
 تمولو کو برابر کھر و عنادس پیٹھ اصرار کر تھہ آسہ ٹکھ کھار آسہ ہیوت ترن پورا انتقام۔ چنانچہ پھا لو آسہ تمہ  
 ساری دریائے قلز مس اندر **فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ** تو پتہ بناو آسہ تم گامڑ گذرے مڑ جماعتھہ  
 اکھ بیہ مثالاہ پتہ یوہونین ہدہ عبرت رفتہ خاطرہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلموہ آسہ کریمہ تلاوت  
 کور **إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ** مشرکین عرب لگ دہنہ کہ  
 نصاریٰ چھہ عیسیٰ علیہ السلا مس سز عبادت کران لہذا چھہ تم تہ سمہ آسہ کریمہ کس غمومس اندر داخل  
 سیدان۔ لہذا اگر سان معبود تہ اتھ منز داخل سیدان کیاہ ہش کتھہ چھہ بعضے رواتین اندر چھہ کہ نبی

ابن مریم مثلاً اذ اقومك منه یصدون ﴿۵۷﴾ وقالوا الهتنا خیر  
 ام هو ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون ﴿۵۸﴾ ان هو  
 الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلاً لابی اسرائیل ﴿۵۹﴾ ولو  
 نشاء لجعلنا منكم مملکة فی الارض یخلفون ﴿۶۰﴾ وانه لعلم  
 للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ﴿۶۱﴾

کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ دوہہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر مشرک لگ ہنہ کیاہ  
 مسیح علیہ السلام منزہ ہنہ کانہ خیر یہ تہہ ظاہر کہ آیہ کریمگ تہ نبی کریمہ سندین بین  
 الفاظ ہند مطلب ہنہ تین چیزن متعلق بین چیزن ہنز پرستش کرنہ یوان ہنہ تم ہنہ تین پرستش  
 کرہ وینن ثمنہ نیشہ ہنہ رتان تہ ممانعت کران۔ مگر بین اعتراض کرہ وینن ہند مطلب ہنہ فقط جگرہ  
 کرن تہ قضیہ لاگن تمی موکہ ہنہ تم معنی پیدا کرن سمہ مکمہ سندس مقصدس خلاف ہنہ آسان  
 وکتا ضرب ابن مریم مثلاً اذ اقومك منه یصدون بیہ یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام متعلق اکہ  
 عجیب مضموناہ آویبان کرنہ معترضہ سہہ طرفہ آتی ہیوت تہند قومس سہ مضمون بوز تہہ کریکہ نادکرن  
 شور تئن تہ اظہار خوشی کرن وقالوا الهتنا خیر ام هو ہنہ لگ سان معبود چہا بہتر کنہ عیسیٰ علیہ السلام  
 ما ضربوه لك الا جدلاً تمو کرنہ عیسیٰ علیہ السلامہ سنز مثال پیش توہہ برو تہہ کنہ مگر محض قضیہ لاگنہ  
 خاطرہ توہہ سیت بل ہم قوم خصمون بلکہ ہنہ تم ہنہ عادتہ موجب قضیہ لاگہ ون لو کہ ان هو  
 الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلاً لابی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام ہنہ محض اکہ ہند اکہ لیس پیٹھ  
 اسہ مقبولیت و کمالات نبوتہ سیت ہنن احسان تہ انعام کور بہہ کر اسہ تم بنی اسراہیلن تہ بین لو کن ہندہ  
 خاطرہ ہنہ قدر تک اکہ نمونہ آسی ہنہ امہ خود تہ زیادہ عجیب و غریب امور ظاہر کرہ کس پیٹھ قادر۔  
 چنانچہ ولو نشاء لجعلنا منكم مملکة فی الارض یخلفون ہر گاہ اس یشہ ہو توہہ نیشہ تہ گرہ ہو کہ  
 ملائک پادہ ہنہ ہنہ ہنہ ہنہ ہنہ پادہ سہدان۔ یا آسانہ پیٹھ والو کہ توہہ بدل ملائک۔ تہ مساو کہ

وَلَا يَصِدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾ وَ  
لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جُئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبِينِ  
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۶۳﴾  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۴﴾  
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ  
عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ ﴿۶۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

ز میںس منزراکھ آگس پتہ وراثتہ لعلہ لالشاعة فلا تمنترون بہا واطیعون بیہ چھہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندیہ  
پدر پادہ سپدن آکھ بوڈرغناہہ تہ یقینک ذریعہا قیامتہ حق آسک۔ کس مہہ کرو تہہہ لوکھ قیامس منزکنہ قسمہ  
شک تہ خرد۔ بیہ کرو مانی پیروی تہ تابعداری ہذا صراط مستقیم بیہ چھہ سیز و تہہ یوسہ بہ توبہ  
ہاوان چھسورہ و لا یصدتکم الشیطان انہ لکم عدو مبین بیہ چھہ شیطان توبہہ آتھ سیرہ و تھہ  
پیٹھ پختہ نغیر پتھ رتہ تہ ڈالہ کیا زہ بے شک سہ چھہ ناہند نون دشمن و کتابا جاع عیسیٰ بالبیّنات قال قد  
جئتم بال حکمۃ و لابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ توبہتہ یلہ پانہ آو عیسیٰ علیہ السلام نین معجزات تہ  
نیرہ دلیلہ ہیتہ۔ لوکن دوہن بہ آس توبہہ نغیر عقلہ ہنز پختہ دلیلہ ہیتہ۔ بیہ آس بہ توبہہ نغیر بیٹھ بہ صاف  
گرہ تم مسئلہ تہ احکام سمن منز توبہہ اختلاف تہ قضیہ کران چھوہ فائقوا اللہ و اطیعون کس کھوژو  
خدا یہ سندس عذابس۔ میان مخالفت مہہ کرو۔ میانس نبوتس مہہ کرو انکار بیہہ کرو میان فرمانبرداری لائق  
اللہ ہور تہی و ربکم فاعبدوہ ہذا صراط مستقیم بے شک اللہ تعالیٰ اکی چھہ میون پروردگار تہ تہند  
پروردگار تہ۔ کس کرو تہنزے یاتر عبادت تہ پرستش بیہ چھوہ توحید، پرہیز گاری، فرمانبرداری، سیز  
و تھہ مگر باوجود وضاحت فاختلف الاحزاب من بینہم کس کور تمومنزہہ وارہہو جہاژو اختلاف عیسیٰ  
علیہ السلامہ سندس حقس منز۔ اڈیو دوپ سہ چھہ خدا یو دوپ سہ چھہ خدا یہ سہ پتھو۔ یو دوپ تریو خدا یو  
منزہہ چھہ سہ آکھ خداہ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیاس کس سمن ظالمین یعنی مشرکین اہل

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۷۶﴾ الْأَخْلَاءُ يُومِنُونَ بِبَعْضِ  
 عَدَاؤِكُمْ لَا يَكُونُونَ لَكُمْ بِشَيْءٍ عَدَاوَةً إِلَّا كَالَّذِينَ  
 تَحَارَبُوا فِي الْحَرْبِ وَإِن يَأْتِيَنَّكُمْ عَدَاؤُكَ فَمَا تَصِفُ  
 أُولَئِكَ إِلَّا نَجَسًا مُسْتَفِئِفًا ﴿۷۷﴾ أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا  
 نَارًا مِّنَ السَّمَاءِ عَلَىٰ دَاوُدَ إِذْ قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي  
 نَجَسٌ وَتِلْكَ الْبَلَاءُ الَّتِي أَتَىٰ مُوسَىٰ وَتِلْكَ  
 الْبَلَاءُ الَّتِي أَتَىٰ لُوطًا ۗ وَإِنَّكَ لَآتِيَنَّكَ  
 الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا تُحْتَسِبُ وَتِلْكَ الْبَلَاءُ  
 الَّتِي أَتَىٰ نُوحًا وَتِلْكَ الْبَلَاءُ الَّتِي أَتَىٰ  
 يُونُسَ ۗ إِنَّكَ لَعَظِيمُ الْعِقَابِ ﴿۷۸﴾

کتابن وغیرن ہندہ خاطرہ ہمدہ دودنلہ ودر عذاب سخت خراکی سہدہ ون ہل ینظرون الا الساعۃ ان تاتیہم  
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہم لو کہ ہم باوجود حق واضح نہ صاف آسمہ باطلس پیٹھ اصرار کرتے فقط  
 قیامتک انتظار چھہ کران کہ سوگوشہہ تم پیٹھ ہجھہ نہ منگہ وانگھہ بن تھہ کہ تمن روزہ نہ خبرے تمہہ قیامتک  
 واقعات چھہ ہمہ قسمک کہہ الْأَخْلَاءُ يُومِنُونَ بِبَعْضِ عَدَاؤِكُمْ یعنی تمہہ دوہہ آن دنوی  
 ساری دوست اڈاڈین ہند دشمن۔ مگر نہ خدا بس کھوڑہ ون یعنی اہل ایمان، تمن ہنز دوستی محض خدایہ  
 سہدہ رضا خاطرہ آسہ۔ تہنز دوستی روز قیامتک دودہ نہ باقی تمن فرماوہ اللہ تعالیٰ یُعَادِلُكُمْ فِي الْبَلَاءِ  
 وَاللَّيْمَانِ وَاللَّيْمَانِ اے میانو بند و از ہجھہ توہہ پیٹھ واقع سہدہ ون نہ کانہ خوج کھانہ سہدہ و تہہ  
 تمگین کنہ چیزہ سیت الَذِّیْنَ اٰمَنُوا بِالْاٰیٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ میان بندہ گئے تھے ہمومیہ نین ایاتن پیٹھ  
 ایمان اون۔ یہہ ہم میانین کھن گردن داران آس اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تمن یہہ ونہ  
 اے میانو بند و از و جنس منز تہہ یہہ تہزہہ با ایمان زنانہ عزت و فرحتہ سان یَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَافٍ  
 مِنْ ذَهَبٍ وَاكْوَابٍ جنس اندر وانگھہ آن تمن بروٹھ کئی پھر ناوندہ یوان نہ پیش یوان گرنہ سونہ  
 سزہہ رکابہ کھینہ چیز ہتھہ۔ یہہ سونہ سند آب خور چنیہ چیز ہتھہ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ  
 تمن جنن منز سہدن حاصل تمن تم ساری چیز تمن کن میل گھوان آسہ تہمدین و کن یہہ ہمہ کہہ وجھہ  
 سیت اہنن آسہ لذت حاصل سہدان۔ ونہ آسہ تمن یوان وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ اے با ایمانو توہہ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۴۳﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۴۴﴾  
 لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۵﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ  
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَنَادُوا إِلَيْكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا  
 رَبُّكَ قَالِ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۴۸﴾ أَمْ أBRُمُوا أَمْ أBRَأْنَا مَبْرُمُونَ ﴿۴۹﴾

چھ تین جن جن اندر روزن ہمیشہ ابد الآباییہ تکھ ونہ وِتْلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 یہ جنت نُس توہمہ وراشتہ پاتھ ونہ آؤ تمک تہہ مالک بناونہ اوہیہ چھ توہمہ بدلہ تم نعملن ہند سہمہ ٹہی  
 دنیاء س منز کران اسوہ لکم فیہا فاکہہ کثیرہ منہا تاکلون تہند خاطرہ چھہ آتھ جنس  
 اندر واریاہ میوہ تمبوے منزہ چھوہ تہہ کھیوان یہ گوو با ایمان ہند حال امہ پتہ چھہ کافر ن ہند حال بیان  
 یوان کرنہ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک نافرمان یعنی کافر روزن جہنمہ کس  
 عذابس منز ہمیشہ لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ سوڑا ونہ تہ کم یہیہ نہ کرنہ تم نغیر سہ عذاب۔  
 بلکہ تم روزن تھہ عذابس اندر مایوس نہ نا امید وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اسہ کورنہ  
 تم ن پیٹھ ٹہیہ قسمہ ظلم لیکن تم اس پائے ظالم کفر و شرک کرنہ سببہ وَنَادُوا إِلَيْكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  
 آلودن تم نافرمان لوکھ (جہنمہ کس داروغس) اے مالک تہہ مجھہ پنہ نُس پروردگار سہ کہہ با حکم سائہ  
 مرنگ دیوہ تمہہ سیت ستمہ عذابہ نغیرہ موکلہ ہو قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ سہ دیکھ جو اب تہہ چھوہ روزہ ون  
 ہمیشہ آتھ عذابس اندر نہ چھوہ توہمہ مرن نہ نہ چھوہ امہ منزہ نیرن لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ بیشک اسہ و اتنوہ توہمہ نغیرہ نغیرن ہندہ ذریعہ پوزدین مگر توہمہ اندرہ وارہن لوکن  
 اوس پوزدین کھران أَمْ أBRُمُوا أَمْ أBRَأْنَا مَبْرُمُونَ نغیرس تکلیف و اتاوندہ خاطرہ کورتمو کا نہہ انتظام  
 درست لہذا کور اسہ تہہ اکھ انتظام درست یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خدائی انتظامس مقابلہ کیاہ چلہ تہند انتظام۔



أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ  
 يَكْتُبُونَ ﴿۸۰﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ﴿۸۱﴾  
 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۸۲﴾  
 فَذَرَهُمْ يَتَوَضَّؤُا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۸۳﴾  
 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
 الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

چنانچہ تم روڈی محفوظ تہمہ شرہ نغیر۔ تہند دشمن سپدی تا کام پنہ نین تہیرن اندر۔ اَمْ یَحْسِبُونَ اَنَّا لَآ  
 نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیاہ تمین چھا گمانہ کہہ اُس کیاہ چھندہ بوزان تہنزہ پوشیدہ تہ لوتہ لوتہ  
 کتھہ بیہ تہنزہ پھسرایہ تہ خفیہ مشورہ بے شک چھہ اُس بوزان تہند سوزے بلی وُرُسُلْنَا لَدَیْهِمْ  
 یَکْتُبُونَ بلکہ چھہ سانی خفیہ پولس ملک تہند سوزے تمن کتھ تل روز تھہ لیکتھہ تھوان قُلْ اِنْ  
 كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَبِيدِ فرماو کتھہ یارسول اللہ ہر گاہ رحمتہ و اُلس خدائس اولاد آسہ ہن  
 بہ اوس تیلہ گوڈہ نیک پرستش کرہ ون تس۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ تمہ نغیر منزہ تہ پاک سُبْحَانَ رَبِّ  
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ منزہ تہ پاک چھہ سہ آسمان تہ زمین ہند مالک اُس عرش  
 عجدک مالک تہ چھہ، تموساروے کتھون نشہ بیہ تھہ کافر تس کن لاگان چھہ فَذَرَهُمْ يَتَوَضَّؤُا وَيَلْعَبُوا  
 حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ اُس تراو کتھہ تم آتھہ پنہ اُس شغلس اندر یوتان تم سمکھن تھہ دوہس  
 سمیک تمن وعدہ کرنہ یوان چھہ یعنی قیامتک دوہ تہنہ نہ تہن پانے۔ یعنی تہندہ مخالفک مہ کروکانہ  
 اندیشہ۔ تہندہ ایمان نہ انہ تک مہ کھیو کانہہ نم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ  
 الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ سہ پروردگار گووسے اُس آسمان اندر تہ معبود چھہ اہل سماواتن ہند۔ زمین اندر تہ  
 معبود چھہ زمینہ کین لوکن ہند بیہ چھہ سے بوڈ حمتہ وول سیٹھاہ زان وول وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ  
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بیہ چھہ سیٹھاہ عالی شان سہ ذات پاک اُس آسمان تہ زمین ہند بیہ تمہ

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا إِلَيْكَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾ وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾  
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

سارے یہ تین منزباگ چھہ حاکم تہ پادشاہ چھہ۔ تم سزے سلطنت چھہ قائم پر چھہ جاہ تہند علم چھہ  
تھے کامل کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیام خبر تہ علم چھہ خاص تسی یوت یہ چھہ تیج خبر کانہہ اگس۔  
یہ چھہ سزے جزاء و سزاء ک مالک وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ چنانچہ تہ ساری ایومرنہ پتہ یہ زند سپد تہ حساب  
دنہ خاطرہ ئس گن و اتانہ وَلَا إِلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ یہ چھہ کانہہ اختیارہ تہن معبودان باطلن تہن تم خدا ئس ورائے معبود زانان چھہ سفارش  
کرہ تک تہ مگر کرن شفاعت تھے لو کہ سمو گوانی و ژمژ آسہ پزج یعنی پزس خدا ئس آسکھ اقرار کورمت  
در حالیتہ کہ تم آس پور زانان یعنی دلن اندر تہ آسکھ پور پڑھ۔ تھے کرن شفاعت فقط با ایمان گنہ گارن۔  
مشر کن تہ کافر ن چھہ تو تہ کانہہ فائدہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُؤْفَكُونَ یہ  
ہر گاہ تہی تہن کافر ن پر ژھویا رسول اللہ تم کم کمر پادہ ضرور دینوہ جواب کہ اللہ تعالیٰ ان کتر آس  
پادہ۔ یہ اکھ مقدمہ سپد ثابت تہندہ تسلیم کرنہ سیت دویم مقدمہ چھہ بدیکی۔ عبادتس سزوار چھہ مگر  
سے ئس قادر آسہ پادہ کرہ ئس پیٹھ۔ بدیکی تہ چھہ مُسلے ہیو، ئس چھہ تہم لو کہ مقدما تہن مانان۔ مگر  
مطلوب مانہ کہ وقتہ خبر کو گن چھہ گدھان وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مہ چھہ قسم پیغیر  
برحقہ سندہ یارب ونہ نگ، بیشک تہم لو کہ چھہ تھس سجدل کہ ہم ہرگز ایمان ان نہ فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ  
سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ئس پھر و تہہ تہن نشہ روی سخن یعنی تراؤ و تہن تبلیغ موزن۔ تہن دپو میان چھوہ  
سلام۔ میہ چھہ توہہ سیت کانہہ تعلق۔ بروٹھ تہن زان تم پائے تہن کیاہ بنہ اتھ روگردانی کرہ ئس  
پیٹھ۔

## سُورَةُ التَّحْنَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ  
 اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝  
 أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝ اِنَّهُ  
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنَّ  
 كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

لحمہ سم چھ زہ حرف مقطعا تو آندرہ۔ سم ہند معنی زانیہ پانہ پروردگار وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* اِنَّا  
 أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ قسم چھہ سمہ مقدس کتاب ہند یوسہ بیان کرہ وئی چھہ  
 احکامن حلال و حرامسہ حق و باطلس۔ بیہ سکر اسہ سو کتاب یعنی قرآن مجید نازل لوح محفوظہ پیٹھ آسمان دنیا  
 س کن بابرکت شبس اندرہ کیا زہ اس چھہ لوکن تہندہ شفقتہ موکھ اتھ قرآن مجیدس اندر تم چیز بیان کرہ وئی سم  
 تمن مضر چھہ، پندہ عدلہ سمیت کھوڑہ ناوہون وِفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اتھ شمس اندرہ چھہ پریتھ  
 حکمتہ وول معاملہ سانہ پیشی تلہ حکم صادر سپد تھ طے پوان کرنہ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ای چھہ سپدان سانہ  
 حمہ سمیت اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اسی آس بوجہ رحمت یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ چھہ توہہ پیٹھبر سوزہون پیٹھ تہندہ واسطہ لوکن پورا اطلاع سپدہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک سہ  
 چھہ سیٹھاہ بوژن دول تہ سیٹھاہ زان وول رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنس مالک چھہ آسمان تہ  
 زمین ہند۔ بیہ تمہ سارکے یہ تمن منز باگ چھہ اِن كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ اگر تہہ یقین کرہون چھوہ لَا إِلَهَ  
 إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ کانہہ معبوداہ چھہ نس ورانے سنی چھہ بدہ نس منز  
 زوواتہ ناوہون، سے چھہ بدنہ منزہ زو کڈہون۔ بیہ چھہ سنی تہندہ پروردگار تہندس مالین بدین ہند مالک تہ

الْأُولَیْنِ ۝ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۝ ۹ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ  
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ ۱۰ یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ۱۱ رَبَّنَا اشْفِنَا  
 عَذَابَ الْعَذَابِ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ ۝ ۱۲ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ  
 رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ ۱۳ لَمْ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۝ ۱۴ إِنَّا

پروردگار بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ بلکہ چھہ تم توحید وغیرہ ہزد و تھو نے شمس منز۔ دنیاء کس کند نس  
 درو کہ نس سیت مصروف۔ آخر تج چھکنہ کا نہ فکرے۔ وون یلہ ہم لو کہ پوزو اٹھ تہ صاف سپد تھ تہ  
 مائن نہ کینہہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ کس پیاروتہ تہ تہندہ خاطرہ ہتھ دو ہس سمہ دوہہ  
 آسماہ طرفہ اکہ وہ ہا بوزنہ یہ نس سارنہ در یٹھی آسہ یوان یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ سہ یہ  
 ولہ لوکن تم دین یہ چھہ عذابہ دگ تلہ ون۔ امہ اندرہ چھہ مرادسہ قحط ہتھ منز اہل مکہ بتلا سپد۔  
 سمیک سبب اوس بدو عا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ یلہ تمبو سخت تکلیف ہیوت دین نبی  
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان۔ ظاہری سبب سپد امہ قحط کہ حضرت ثمامہ ہم شہر یمامگ  
 بڈی رئیس اس سپدے مسلمان۔ مکہ کیو کافر وہنہ تم سخت ملا تھ کرن تھ پیٹھ۔ تمو کور شہر یمامہ پیٹھ  
 کس گن غلہ سوزن بند۔ مگس گن اوس یمامہ پیٹھ غلہ یوان۔ پیاری کن سپز بارش تہ ہند مکک لو کہ ہتھ  
 بوچھہ سیت مزن قایدہ چھہ سخت بوچھہ ہندس حاس اندر خشک سالی ہندس و قس اندر چھہ بوزنہ  
 یوان آسما کہ طرفہ وہ تھان۔ غرض مکک لو کہ یلہ سخت تنگ سین قحط سببہ تم لگن عاجزی کرنہ تم بین  
 دُعا کرن رَبَّنَا اشْفِنَا عَذَابَ الْعَذَابِ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ اے سائہ پروردگارہ دور کرتہ امہ نے یہ قحط عذاب۔  
 بے شک اَسْ اَنُوون ضرور ایمان۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی سپز ہتھ پاتھی پورہ کہ ابو سفیان یہ بھئیہ قریشو  
 یٹھ نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سہ تہہ کہ تو دعائے خیر یہہ کر تو ثمامہ یمانیس فہمائش سہ سوزہ ہا یہ  
 غلہ۔ یہہ کور ابو سفیان وعدہ ہنہ مسلمان سپد نگ۔ چنانچہ امہ برو تھ گن چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان سہ وعدہ  
 اوس نہ بصدق دل أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ہم لو کہ تھ پاتھ رتہ ہن نصیحت

كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ  
 الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ  
 جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَذْوَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ  
 أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي

امہ عذابہ سیت سیمہ سیت تہمدہ ایمانگ توقع بیہ ہاتھانہ حالانچہ تمن نشہ واژو پیغمبرہ تھدہ شانگ  
 ویزھہ نادون نَعَزُوا لِعَنْتِهِ وَقَالُوا مَعْلُومَتُونَ توپتہ تہ کمر تموتس پیغمبرس نشہ سرتابی تہ ای لگ  
 وبتہ کہ یہ ہتھ موتاہ کم تان سیمہ تھہ ہتھہ نوومت اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ اسی گروحت  
 پورہ کرنہ خاطرہ کہینہہ کالاہ تمن نشہ یہ عذاب دور مگر تھہ کمر وبتہ تی یہ کران آسہو کھر تہ تا فرمانی۔ چنانچہ  
 یہ پیشین گوئی سہز ہتھہ پانچ پورہ کہ نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کور دُعا توپتہ پیو ورو د۔ یہہ لیوکھتھہ شمامہ  
 میاٹس تم سوز غلہ۔ مکہ کین لوکن سہز فارغ البالی میسر پریشانی کیچھ دور۔ مگر سہ تھہ سنا کرہ ہن تم ہن  
 وعدہ پورہ یہہ ہیوکھتھہ تی کزن یہہ کران آس اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ اِنَّا مُنتَقِمُونَ اودہ سیمہ دوہنہ رُتوکھ  
 اَس تَمَّه بوڈ سخت رُتہ وناہ تَمَّه دوہنہ ہتھرو دکھ نہ۔ اَس گئے تَمَّه دوہنہ پور انتقام ہنہ وَاَل لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ  
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ البتہ یہہ کمر اسہ آزمائش تمن بروٹھ فرعونہ سدس قوس سیمہ  
 طریقہ کہہ آو تمن نشہ پیغمبرہ عزتہ وول یعنی موسیٰ علیہ السلام اَنْ اَذْوَ اِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ  
 تم فرموکھ اے قوم فرعون کریوکھ میہ حوالہ خدایہ سند بندہ بنی اسرائیل توہرہ رنگارنگ تکلیبن  
 چھوکھ کمر مصت۔ پتہ غلامی نشہ کریوکھ تم آزاد۔ بہ چھس خدایہ سندہ طرفہ پیغمبرہ امانت دار۔ بہ  
 ہتھسوہ نہ کانہہ کتھاہ پتہ طرفہ دنان میہ بس حکم خدایہ سندہ طرفہ واتان ہتھ بہ چھس سہ حکم توہرہ نش  
 واتان۔ لہذا پڑہ توہرہ تعمیل احکام کزن۔ اَنْ اَذْوَ اِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٌ یہہ فرموکھ  
 کہ مہ کمر و سرکشی خدائس نشہ۔ بہ چھس توہرہ نشہ آمت نمبئی دلیل ہتھ پتہ نبوتج یعنی عصا تہ ید بیضا۔ بلہ  
 فرعون تہ تہمد قوس مون نہ بلکہ ہیوکھتھہ مشورہ کزن موسیٰ علیہ السلام سہہ تملک تہ مارنگ وَاِنِّي

عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۚ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزَلُونِ ۚ ﴿۲۱﴾  
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَكُمْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۚ ﴿۲۲﴾ فَأَسْرِبْ بَعَادِي لَيْلًا  
 إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۚ ﴿۲۳﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ أَتَاهُمْ حَتَّىٰ مَعْرِفُونَ ۚ ﴿۲۴﴾  
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ۚ ﴿۲۵﴾ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ ﴿۲۶﴾  
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۚ ﴿۲۷﴾ كَذَلِكَ تَفَاوَتْ هَاقِمًا الْخَوِينِ ۚ ﴿۲۸﴾

عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ یہ جھس پنہ نس خدائس نس تہند خد لہر جھ پنہ منگان تہہ کیا کر ومیہ شہید کنہ لالی لالی وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزَلُونِ ہر گائوہہ میہ پڑھ کر ونہ تیلہ روز ومیہ نغمہ الگ۔ یہ وَتَهْتَبِرُ رُودْتَمُ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكْلِيفًا وَاتَّوَاوَا فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَكُمْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پس مونگ دعا موسیٰ علیہ السلام پنہ نس پروردگار س یا اللہ تم جھہ سخت شری لوکھ۔ میہ وہ نجات یہندہ شرہ نغمہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اے موسیٰ آسہ کور تہند دعا قبول۔ وون ووت یہندہ فاصلک وقت فَأَسْرِبْ بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ پس کر آسہ حکم موسیٰ علیہ السلام کہ تہہ نیرہ میان بندہ بنی اسرائیل ہتہہ رآژی منز۔ بروٹھہ یہہ وتہ اندر توہہہ دریاو۔ تہہہ لالی زہ تہہہ دریاوس لورہ سیت ژنڈ۔ سہ سپدہ خشک۔ سہ دیہہ توہہہ پور تر نہ خاطرہ وتہہہ تہہہ یلہ بنی اسرائیل ہتہہ پور تہہہ دریاو روزہ اتھہ حاکس پیٹھ۔ تہہہ کمر زہ نہ کانہہ فکر خبر جھہ فرعون تہہہ ماہیہ سہ تہہہ ماوسہ اتھہ دریاوس اندر توپتہ ما ترہ اپور۔ ان جھتر تہہہ اندیشہ کمری زہ نہ تہہہ کینہہ تہہہ۔ کیا زہ توہہہ پتہہ نیرہ فرعون لشکر ہتہہ توہہہ گرفتار کرنہ خاطرہ۔ رات رآتی نیرہ سیت ہیکہ نہ سہ توہہہ رتھہہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ أَتَاهُمْ حَتَّىٰ مَعْرِفُونَ بے شک سوشکر جھہہ دریاوس منز واتھہ پھٹہہ ونی تہہہ لشکر تہہہ دریاوس منز وسہہ۔ إِنَّهُمْ حَتَّىٰ مَعْرِفُونَ غرق سپدہ ونی۔ توپتہ یلہ تم پھٹتہ ہلاک گئے كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ \* وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ہتھہ گن تراو تہو کا تیاہ باغ یہہہ کا تیاہ ناگہ راد۔ کوتاہہ زراعنگ زمین یہہہ کا زاہ عمدہ جلیہہ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ یہہہ عیش و آرامگ سامان ہتھہہ منز خوشالی آس آسان كَذَلِكَ تَفَاوَتْ هَاقِمًا الْخَوِينِ ہتھہہ آس

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ  
 بَعَثْنَا نَبِيًّا إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۳۲﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  
 كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ  
 الْعَلَمِينَ ﴿۳۴﴾ وَاتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿۳۵﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ  
 لَيَقُولُونَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا عَنَّا بِمُنشَرِينَ ﴿۳۷﴾  
 فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ لَاؤ

یو ہے معاملہ کران **وَأَوْثَقْنَا قُورَاقِهِمُ** امہ ساری تہجدہ مال و دولتک وارث بناو امہ بیہ لوکھ یعنی بنی  
 اسرائیل **فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ** کس وود نہ تمن بیٹھ نہ آسمان تنہ زمین  
 بیہ آس نہ تم ٹھلت دنہ آمتی یعنی تمن آس نہ مزید ٹھلت دنہ **وَلَقَدْ بَعَثْنَا نَبِيًّا إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ**  
**الْمُهِينِ** البتہ ذیت امہ بیٹھ پاٹھ نجات بنی اسرائیل سخت ذلتکہ عدلیہ نشہ **مِنْ فِرْعَوْنَ** یعنی فرعونہ  
 سدہ ظلم وستمہ نشہ **إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ** بے شک سہ اوس سخت سرکش سیٹھاہ حدہ نشہ ذلہ  
 و نیواندرہ۔ اکھ نعمت کتر امہ بنی اسرائیل پیٹھ یہ کہ نجات دیکھ فرعونہ سدہ شرہ نشہ امہ علاوہ کتر کہ  
 بیا کہ نعمت **وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ الْعَلَمِينَ** بیہ وژ امہ فوقیت بنی اسرائیل تمہ زمانہ کین بین  
 لوکن پیٹھ پنہ علم و حمتہ موجب **وَاتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاءٌ مُبِينٌ** بیہ دست امہ تمن پنہ قدر تک  
 تھے نجانہ کن منز تہجدہ کہ تنی انعامات آس من و سلوی وغیرہ **إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ**  
**وَمَا عَنَّا بِمُنشَرِينَ** بیشک تم کافر چھہ قیامتک و عید بوز تھہ قیاس انکار کران۔ تو پتہ چھہ و نان سان  
 اخیرى حالت چھہ کیہ کہ امہ چھہ بیٹھ دنیاس لدر مران۔ تو پتہ چھہ امہ بیہ زندہ سپدن۔ یعنی اخیرى  
 حالت سان حیات اُخروی چھہ بلکہ چھہ اخیرى حالت موت و نبوی۔ امہ چھہ مگر اکی لکہ مران تو پتہ  
 سمونہ آس بیہ زندہ کرنہ **فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اے مسلمانو ہر گاہ تمہ مرنہ پتہ بیہ زندہ  
 گروہنہ کس اعتقادس منز پز زیر چھوہ زیادہ انتظار کیاہ چھہ کزن تیلہ ان توکھ سان مال بدلہب تم سپدن

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَمَا  
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۲۶﴾ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ  
 مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۸﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا  
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا مَنْ رَجَعَا اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۳۰﴾  
 إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿۳۱﴾ طَعَامُ الْأَشْيَةِ ﴿۳۲﴾ كَالْمُهْلِ ﴿۳۳﴾ يُغْلَىٰ

بہ زندہ اہم خیر قوم تکبر و الذین من قبلہم کیاہ سنا تم قریش چھا قوتس تہ شوئس منز زیادہ بہ نہ  
 تیج (سمہ کس پادشاہ) سہ قوم یا تم لوکھ تم برونہ اس عاود شو موود غیرہ اہلکناہم انہم کاناو امجرمین  
 اسہ وچھ نہ تم کینہہ۔ اسہ کمر تم ہلاک تہ برباد۔ کیاہہ تم آس سخت نا فرمان۔ ہر گاہ یم قریش منک  
 کافر نا فرمانی نغہ با زمین نہ سم تھہ کئی بچاؤن سانہ عذابہ نغہ بن پان وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ بیہ گرنہ اسہ پادہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تم منز چھہ سمہ طریقہ کسہ آس کیاہ آس اکھ  
 عبث تہ بے ہودہ کا ماہ کران مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ اسہ یلہ تک سم تھہ بد مخلوق پادہ کرن اسہ نئس کیاہ  
 عجایب چھہ انسان مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھہ زانان اِنَّ  
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ پز پاٹھ فیصلک دوہ یعنی قیامتگ دوہ چھہ سارن ہندہ دوبارہ زندہ  
 سہ تک بیہ جزاء و تک وقت مقرر کرنہ امت يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سمہ  
 دوہ نہ کانہ تعلق دار کانہہ تعلق اس بکار بیہ نہ ہیجہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ مددے کانہہ واتھہ اِلَّا  
 مَنْ رَجَعَا اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر تم پٹھ اللہ تعالیٰ ان رحم کورمت اسہ یعنی باایمان تم بیہ  
 یاری تہ مدد کرنہ یہ گرن تم تہ مدد اکھ اگس شفاعتہ سیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ غالب تہ زبردست۔  
 سہ ہیہ کافر نغہ انتقام۔ کس سہ وکرہ تہ ہزار اسہ کس ہیجہ نہ مدد کمر تھہ کانہہ بیہ چھہ سہ رحمتہ دول  
 تم تہز رحمت شامل حال اسہ تم دیہ سہ شفاعتگ مرتبہ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ \* طَعَامُ الْأَشْيَةِ \*



فِي الْبُطُونِ ۚ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۚ خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ  
 الْحَمِيمِ ۚ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۚ  
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۚ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ  
 تَمْتَرُونَ ۚ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ۚ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۚ  
 يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۚ كَذَلِكَ وَرَزَقْنَاهُمْ  
 بِحُورٍ عِينٍ ۚ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ۚ لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ \* كَغَلِي الْحَمِيمِ ہنز پاتھ ز تو مک کل چھہ نافرمان ہند غذا۔ سمیگ رنگ  
 آسہ ہلکہ ہند۔ سنی آسہ گریکان تہزن لیدن منز ہتھہ پاتھ آہ رسر ہتھہ دیچہ منز گروہہ نہ کران۔ خُدُوهُ  
 فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ اللہ تعالیٰ فرماوہ عذابہ کین ملکن ریون یہ کافر تو پتہ نیون کھکھرہ۔  
 تراویون منز باگ جہنمئس ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ تو پتہ تراو اہس کلہ بیٹھی  
 سورسراہ سمہہ سیت زیادہ عذاب واتیس۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ عذابک ملکہ ونہ نس وچھہ  
 مزہ سمہہ عذابک۔ بے شک ژہ او سٹھنا پنہ نس تو مس منز بوڈہ نہ زٹھہ پانس زانان یہ پٹھہ ژیہ تعظیم و  
 تکریم کرنہ یوان۔ ہتھہ پاتھی ژہ پنہ نس پانس معظمہ و معزم زانٹھہ سائین احکامن تحقیرتہ عار او سٹھہ  
 کران جہنمئس یہ ونہہ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بے شک عذاب کیاہ گووسی ہتھہ تو بہہ شٹھہ آسوہ  
 کران إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ بے شک تم خدائس کھوژہ ون آسن تم آسن امن و آراچہ جلیہ  
 منز محفوظ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ یعنی باغن نہ تاگہ رادن منز يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ نال  
 لاگن تم زاول نہ موٹہ پانک جامہ اکھ اگس سیدہ سیود آسن ہتھہ۔ كَذَلِكَ وَرَزَقْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ یہ  
 گرو آسن تم نیتھر جلدہ جن حوران سیت یمہ پرینہ نہ اچھہ و ہتھہ کمر تھہ آسن يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ  
 الْاٰمِنِينَ معھہ ناوان آسن تم جنن منز اطمینان سان پر ہتھہ میوہ الْاٰمِنُونَ فِيهَا الْمَوْتُ الْاِلَّا الْمَوْتَةُ  
 الْاٰوَلٰی ژہن نہ تہہ موٹگ مزہ مگر سنی گوڈینک موت سمیگ مزہ تمو دنیا عس منز ژہمت آسہ یعنی تہہ

فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝  
 فَضَلَّامِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝  
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝  
 فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۝

مرن نہ تم زانہ تہ ووقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بہ زحہہ تمن اللہ تعالیٰ جہنمہ کہ عذابہ نشہ فَضَلَّامِن رَّبِّكَ یہ سورے آسہ تمن تہندس پروردگارہ مند فضل تہ مرسانی ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیکے گنیہ بڈرستگاری تہ کامیابی فَاتَّمَايَسَّرُنَّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن مجید کور آسہ سہل تہ آسان امی موکہ تہندہ لغتہ یعنی بزبان عربی تہہ تمن لوکن فکرہ تہر تہہ تم نصیحت رُشَن یلہ نہ اُمہ سیت تہ تمن کینہہ بہہ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ پس پیار یو تہہ تمن کیاہ بہہ تم تہہہ پیارہ ون تہہ تہند حال کیاہ سیدہ۔ تہندہ حقہ سیدہ عذاب، تہندہ حقہ آسہ نصرت ویاری





عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِيمَا نِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتُهُ يُؤْمِنُونَ ④  
 وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ⑤ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْقَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا  
 كَانُ كَمَا يَسْمَعُهَا فَبَشِيرَةٌ بِعَذَابِ آيَةٍ ⑥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا  
 اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑦ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ  
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَكْسِبُوهَا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑧ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

نُتُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ يَمْ جَهْدِ خَدَايَةِ سِدِّ صَحِيحٌ صَحِيحٌ آيَاتِ سَمِ اسْمِ بَدَانَ جَهْدِ تَوْبِهِ بِيْطِهِ سَمُو سِيَّتِ نَبَوْتِ  
 ثَابِتِ سِدِّ انْ جَهْدِ - لِيَكِنْ هِرْ گَاهِ جَهْدِ تَوْبِهِ مَا نَوْنَهُ فِيمَا نِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتُهُ يُؤْمِنُونَ پَسِ اللّٰهُ تَعَالَى بِه  
 جَهْدِ يُوْتَقِيهِ آيَاتِ تَوْبِهِ تَهْتِ سَنَاتِهِ يُوْسَهُ اَمْرِهِ خَوْتَهُ بَدَأْسِهِ اَنْ تَمَّ اِيْمَانِ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ بِيْطِ خِرَابِي جَهْدِ  
 پَرِيْتِهِ تَهْتِ شَخْصِ سَنَدِهِ خَاطِرِهِ نَسِ عَقَايِدِ انْدِرَا پَزِيورِ آسِهِ - عَمَلِ انْدِرَا نَافِرْمَانِ بَدَكَارِ آسِهِ يَسْمَعُ آيَاتِ  
 اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانُ كَمَا يَسْمَعُهَا نَسِ بَاوْجُوْدِ اِيْحِهِ بُوْزَانِ آسِهِ خَدَايَةِ سَنَدِ آيَاتِ سَمِ نَسِ  
 بَرُوْتَهْ كُنْهْ بَدَنِ يَدِ انْ جَهْدِ تَوْبِهِ تَهْتِ جَهْدِ سَهْتِ مَحْمُورِ غُرُوْرِ كَمْرِ تَهْتِ كَفْرِ سِ بِيْطِهِ ذَاكِرِ انْ زَنْ نَهْتِ تَمَّ تَمَّ آيَاتِ  
 بُوْزِي مَتِي جَهْدِ فَبَشِيرَةٌ بِعَذَابِ آيَةٍ پَسِ وَنُوْتَهْتِ تَهْتِ شَخْصِ نُدْرَهْ عَذَابِ بَشَارَتِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا  
 شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا يَلِيَهْ سَهْتِ سَانِيوْ آيَا تَوَانْدَرَهْ كُنْهْ آيَتْ خَبْرِ جَهْدِ بُوْزَانِ تَهْتِ جَهْدِ نَهْتِ تَهْتِ مَحْوَلِ كِرَانِ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ سَمِيْنِ لُوْگِ مَهْدِ خَاطِرِهِ جَهْدِ آخِرِ نَسِ انْدِرِ ذَلِكْ عَذَابِ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهْنَّمُ  
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَكْسِبُوهَا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ تَمَنْ جَهْدِ بَرُوْتَهْ يَدِ انْ جَهْنَّمِ تَمَّ سَا تَهْتِ دِنِ نَهْتِ  
 تَمَّ جِيْزِ تَمِنْ كَانَهْ نَفْعِ تَهْتِ فَايِدِهْ يَمْ جِيْزِ تَمُوْدِ نِيَا كَسِ مَنْزِ حَاصِلِ كَمْرِ مَصِ نَسِ مَالِهْ تَهْتِ عَمَلُوْ اَنْدَرَهْ نَهْتِ دِكْهْ  
 مَعْبُوْدِ انْ بَاطِلِ كَانَهْ نَفْعِ تَهْتِ فَايِدِهْ - سَمَنْ مَعْبُوْدِ بَرَهْتِ وِرَا عِي تَمَّ مَحْمُورِ مَدْكَارِ تَهْتِ كَارِ سَازِ زَانِ انْ آسِ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَهْدِي خَاطِرِهِ جَهْدِ بُوْذِ عَذَابِ - اَمْرِهِ عَذَابْگِ وَجِهْ جَهْدِ اِيْ زَهْ هَذَا هُدًى بِه

عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ آيَةٍ ۱۱ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۲ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۳ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۴ مَن عَمِلَ صَالِحًا

قرآن مجید چھہ سر اسر لوڈ ہدایت تہ واجب التسلیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ آيَةٍ سَم لوكه انكار چھہ کران پنہ نس ہروردگار سندین آیاتن۔ تہندہ خاطرہ چھہ عذاب دگ تہ دودنکہ ونہ عذاب منزہ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهَا معبود برحق گووسی سم تہندہ نفعہ خاطرہ مخر قدرت کمر دیاو۔ تہہ ناوہ تہ جواز کن تہہ منز تہندہ حکمہ سیت وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ تہہ تمن جہازن منز سوار سپد تہہ ژہانڈ و تہہ خدایہ سہ فضل تہ رزق بیہ تہہ تہہ سہ رزق حاصل کر تہہ شکر گذاری کمر و تہہز وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تہہ پاتھہ سم چیز آسمان تہ زمین اندر چھہ تم ساری چیز کرن پنہ حکمہ سیت تہ پنہ فضلہ سیت مخر قدرت تہہ تہندہ نفعک تہ فایدک سبب بن۔ پنہ پاتھہ اتھہ منز چھہ بد بڈ نشانہ تہ آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ سم فکر کرن تہ غور کرن کہ سم چیزیلہ سانہ خاطرہ چھہ کامہ لگبت اسہ تہ ما پڑہ ہاپنہ تہہ کامہ سیت سمہ خاطرہ آس خداین پادہ کمر مت آس لچھہ روزن قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ فرماو تہندہ یارسول اللہ بالیمان کہہ درگذرتہ عفو کرن تمن لوکن سمن نہ پڑھہ تہ امید چھہ اللہ تعالیٰ سندین انخروی معاملن ہنہ یعنی سم آخر تک منکر چھہ۔ بیہ اللہ تعالیٰ نیکو کارن ر ژمزوری عطا کرہ تہ نافرمانن عذابس گرفتار کرہ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہہ اللہ تعالیٰ آگس قوس یعنی بالیمان تمن ر ژون عملن ہند رت ثواب عطا کرہ سمہ تم کران آس کیا زہ تس نش چھہ قاعدہ کلیمہ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ لَس ا کھاہ ر ژ عمل کرہ تمیک نفع تہ ثواب چھہ تس پانس وَمَن

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ  
 آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا  
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

اَسَاءَ فَعَلِيَهَا یہ نِس اکھاہ مجھ عمل گرہ تمیگ ضرر مجھ نِس پانس لُحُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تو پتہ الیوتہ ساری و اتانہ پنہ نِس پروردگار س بُشہ تہہ یہ توہہ رٹن عملن تہ رتین اخلاقن ہند رت بدلہ عطا کرنہ۔ نھندین مخالفن یہ کفر و شرک تہ معاصین ہند مجھ عذاب کرنہ۔ لہذا پڑہ نہ توہہ معاملہ پنہ نِس اُتھس منز تہہ تمن بیتہ کُنہ قسَمک سزا دینن توہہ ہزہ درگذر تہ عفوے کرن۔ البتہ اگر اعلائی کلمتہ اللہ خاطرہ تمن سیت باقاعدہ جہاد پیہ کرن تہہ جھنہ کانہ چارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ نبوت جھنہ کانہ نووچراہ ہتہ انکار۔ یہہ کرنہ۔ چنانچہ اُنہہ برو تھہ کثر اسہ عطا بنی اسرائیلن اُتھ کتاب آسمانی یہہ حکمت یعنی علم احکام یہہ نبوت یعنی تموا اُندرہ کثر اسہ پیغمبر پیدا۔ یہہ کھیادی اسہ تم پاک و پاکیزہ نفیس نفیس غذا میدانن نہیںس منز کور اسہ تمن پیٹھ من وسلای نازل۔ یہہ بناوی اسہ تم ملک شاکم مالک نِس برکات ارضیک منج جھہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہہ دیت اسہ تمن فضیلت پنہ وقتہ کین سارنہ لوکن پیٹھ بعضے چیز و سیت مثلاً بحر قلمز مس باہ کوچہ کرنہ سیت۔ یہہ او برہ کہہ سانبانہ سیت وَآتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ یہہ دژہ اسہ تمن دینہ کس معاملس منز نہہ دلیلہ یعنی تمن ہاونی معجزات۔ نِس پڑہ ہا تمن پورا طاعت تہ فرماں برداری کرن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابَيْنَهُمْ مگر تموا کور اختلاف پانہ وان علم حاصل سپنہ پتہ اُتھ اک سندہ سنیدہ تہ عداوتہ موکھہ اِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک نھند پروردگارہ کرہ فاصلہ تمن منز قیامتک دوہ تمن سارنہ چیزن منز تمن منز تمن اختلاف کران اس۔ توپتہ بنی اسرائیلن اندر

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ  
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹﴾  
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ  
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّثْيَاهُمْ وَمِمَّا كَفَرُوا مَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۱﴾

دورہ نبوت ختم گزشتہ پتہ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ تو پتہ ڈیبت اسہ نبوت تو بہ۔ اسہ کمر وہ  
تہہ یار رسول اللہ دینہ کس اہس خاص طریقس پیٹھ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لہذا پیچو  
تہہ تھہ طریقس پیٹھ یعنی عملہ کن تہہ تبلیغہ کن تہہ۔ تہہ مہ کرو پیرو وی تمہ لوکن ہمزہ تمن نہ حقیقت حاج  
کہنی خبر چھہ۔ تہزہ ہ خانہ مہ موجب مہ پکو تہہ۔ تہزہ خا ہش چھہ کہ تہہ تراوہ تبلیغہ کران ﴿۱۸﴾ لَن يُغْنُوا  
عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک تم ہیکن نہ کانہہ فایدہ و اسناو تھہ توہہ خدا ہس زبہ نہ ہیکن تہزہ کانہہ کاما ہ  
کمر تھہ ﴿۱۹﴾ وَالظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بیشک ظالم یعنی مشرک چھہ اڈی اڈین  
ہندی دوست اکھ اکی سزہ تھہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ دوست پر ہیز گارن تہہ اہل تقویٰ ان ہند۔ اہل  
تقویٰ چھہ خدایہ سُدے حکم مانان۔ تہہ چھوہ رئیس المتقین۔ توہہ تہہ پزہ اللہ تعالیٰ سُد حکم مانن ہذا  
بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ یہ قرآن مجید ہس توہہ عطا او کرنہ یہ چھہ عام لوکن ہندہ  
خاطرہ عقلہ تہہ دانش مندی ہند سبب یہ ہدایتک بوڈ ذریعہ یقینہ والین ہندہ خاطرہ بدرحت اَمْ حَسِبَ  
الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیاہ تم قیاس انکار کرہ ون لوکہ  
تم پیچہ کامہ شرک و کفر تہہ ظلم و مہصیت چھہ کران تمن چھا خیال کہ تم کیاہ تھاو کہ اس برابر تمن  
لوکن سیت سمو ایمان اون بیہ کر کیہ رثہ عملہ سَوَاءً مِّثْيَاهُمْ وَمِمَّا كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تہند مران تہہ زیون  
کیاہ اسہ برابر یعنی با ایمان ہند مران تہہ زیون کیاہ چھہ سمہ معنی برابرے کہہ تھہ پائٹھ تم دنیاہ س

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانُ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ

اندر عقوبت و سزاء نشه محفوظ اس تھے یا ٹھ کیا روزن تم مر نہ پتہ تہ محفوظے۔ تہ ہرگز نہ نہ۔ سبھاہ پیچھ  
 چھہ تہ تمیگ تم حکم کران چھہ۔ کیا زہ صحیح دلیوسیت چھہ امیگ باطل اسن ثابت سپد مت۔ حیات  
 اخروی چھہ امی خاطرہ کہ یٹھہ پریتھہ اکھاہ پنہ نین نیک و بد عملن ہند ثمرہ تہ نتیجہ حاصل کرہ۔ رثان  
 عملن رث موزور۔ پیچھ عملن پیچھ موزور وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان آسمان  
 تہ زمین پادہ حکمت۔ سو حکمت چھہ بیہ کہہ وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بیہ یٹھہ بدلہ بیہ دنہ پریتھہ  
 شخصس تمیگ بیہ تم کورمت آسہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوکن بیہ نہ ظلم کرنہ کنہ قسمہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ  
 هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً وچھان چھوہ تس شخصہ سندس  
 حالتس ان یم معبود پنن بنو مت چھہ پننہ نفع خواہش۔ بیہ دس منز یوان چھس تس چھہ پیروی کران۔  
 اللہ تعالیٰ ان کورسہ گراہ۔ حالہجہ سہ اوس زان چھان تھوان یعنی پوزاوس سہ بوزان تہ فخرہ اوس  
 تران۔ مگر نفسہ چہ خاہشہ اتباع کرنہ سیت سپد سہ گراہ۔ تم بوزہ ان تہ فخرہ ترہ ان دینس نہ کانہ فایدہ  
 بلکہ کمر اللہ تعالیٰ ان تہندین کنن تہ تم سندس دس پیٹھ موبہر تہنزن آچھن پیٹھ ترؤن پردہ تہ ٹھور۔  
 امی اتباع ہوا کہ شامتہ، چنانچہ حق قبول کرہ نگ بس کم زیادہ استعدادہ تس اوس سہ سپدس مضمحل تہ  
 کمزور فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس سبہ اکھاہ بیہ چھس شخصس و تھہ ہاوتھہ خدایہ سدہ گراہ کرنہ  
 پتہ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تم بیانات بوز تھہ تہ چھوہ ناتوہہ فخرہ تران تھہ یا ٹھہ پیٹھہ یا ٹھہ توہہ نفعاہ تہ  
 فایدہ و اتناوہ ہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانُ نَمُوتُ وَنَحْيَا بیہ چھہ ونان قیاس انکار کردن کہہ سیمہ دنیا



مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۴﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ  
 مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ  
 صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾  
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ بَخْسٍ

چہ زندگی در اے مہنہ بہہ کا نہہ انخروی زندگیہ۔ موت تہ زندگی چھہ ہتھہ دنیاوی زندگی سیت وابستہ۔  
 زندگی تہ چھہ اکے موت تہ چھہ اُکے وَمَا يُهَيِّئُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُوفِيَّةَ بِہہ چھنہ امہ ماران مگر صرف زمانک  
 گردش وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ حقیقتس منز چھنہ تمن اُن کا نہہ خبر اہ۔ سم چھنہ  
 یہ کتھہ و نان مگر پتہ طرف بے دلیل اھہ رایہہ قائم کران۔ یعنی آخرتچہ زندگی ہندس انکارہ کرہ اُس پیٹھہ  
 چھنہ تمن اُشہہ کا نہہ دلیلہ نہہ چھہ ہیکان تم اہل حقن ہنزہہ دلیلہ ہند کا نہہ جوابہہ پیش کمر تھہ۔ چنانچہ  
 وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یلہہ  
 پرنہ یوان چھہ تمن پیٹھہ اتھہ متعلق سان روشن تہ صاف آیات تمن منز مر نہ پتہ بہہ زندہ سپد تک  
 مضمون چھہ آسان تہ ہدہہ طرفہ چھنہ کتھہ انکار کر اُس پیٹھہ کینہہ تہ دلیل آسان مگر کتے کہ دہنہ لگان چھہ  
 کمر تو کہ زندہ سان آباد اجداد اگر دوبارہ زندہ کرنس پیٹھہ پوزونان چھوہ۔ قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ اُنہہ فرما دیوا  
 رسول اللہ یمن لوکن اللہ تعالیٰ چھہ توہہ (منہہ وقس تام ہتھہ عالس منز) زندہ تھوان ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ امہ  
 پتہ دہہ سہ توہہ موت تھہ يُجْمَعُكُمْ امہ پتہ کرہ سہ توہہ جمع الی یَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامتس دوہس تام  
 لَا رَيْبَ فِيهِ اتھہ منز چھنہ کتھہ قسمک کا نہہ شک و خبہ یعنی قیامتس نیس تہ ہندس امہ دوہہ جمع  
 آسنس منز چھنہ کا نہہ شک تہ خبہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لو کہ چھنہ یہ زانان تہ  
 کتھان۔ اکثر لوکن ہندہ انجان لاگنہ سیت یانہ کتھہ سیت یانہ زانہ سیت پیہ نہ قیامتس حق آسنس پیٹھہ  
 کا نہہ اثر۔ یا اتھہ منز گروہنہ کا نہہ شک تہ خبہ پیدہ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہہ (چھہ پتہ حقیقت

الْمُبْطُلُونَ ﴿۲۵﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةً تَمَّكُلُ أُمَّةٌ تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا  
 الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ  
 بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
 الْمُبِينُ ﴿۲۸﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَقْلَمُ تَكُنْ أَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ حَسْبُ آيَاتٍ ﴿۲۹﴾ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ

زہ) آسمان سے زپخ بادشاہی چھ اللہ تعالیٰ بس۔ ساری آسمان سے زمین چھ تمس ماتحت و یوم تقوم  
 الساعۃ سے سمہ دہہ سوگر یعنی قیامت برپا سپد یومہ یختر المبطلون تمہ دوہہ گوشہ گائے گائے  
 آپس پیر و کران والین۔ یعنی یم حق تراو تھ کنہ مصلحتہ خاطرہ چھہ آپس ساتھ دوان۔ آپس چھہ پیروی  
 کران۔ تمں پیہ سے تاون و تری کل امة جائیۃ سے ژہ و چھہن پریتھ کانہ آمت ہیبتہ سے خوفہ سیت  
 کوٹھن پیٹھ نمٹھ کل امة تدعی الی کتبہا پریتھ کانہ آمت پیہ بلاونہ پنہ کتابہ یعنی اعمال نامس کن  
 پریتھ اتس پیہ ہاونہ سہ کارنامہ نس امہ کورمت آسہ۔ آتی پیس ونہ الیوم محزون ازپیہ توہہ پورہ  
 جزاونہ ما کنتم تعملون تھہ سارے کارس تمں سارنے کاین یہ توہیہ دنیا س منز کران آسہ وہ  
 ہذا کتبنا یہ چھہ سانی کتاب سانی رجسٹر۔ ینطق علیکم بالحق یہ چھہ توہہ خلاف پوز پوز دوان  
 انا کنا نستسیخ اس آس درج تھوان کر تھہ رجسٹری منز پنہ جایہ ما کنتم تعملون سے سورے  
 یہ توہے کران آس وہ یعنی تھہ سورے قول و فعل اوس اسہ نس سے درج سپدان لہذا پیہ از توہہ اتھ  
 سارے قول و فعلس جزاونہ۔ فأما الذین آمنوا و عملوا الصالحات وون سوا ایمان اون سے اتھ مطابق  
 کرکھ رزہ عملہ فیدخلہم ربہم فی رحمۃ سے تمں ولہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سیت ذلك هو الفوز  
 المبین پیہ چھہن کما یابی واما الذین کفروا وون رود تم یموٹھر کور۔ یمو حق سے پوز نامس انکار کور  
 اقلم تکن الیہی تنلی علیکم یس پیہ پرٹھہ کیا توہہ آے نامیان پیغام پر تھہ بوزاونہ فاستکبرتم

اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ  
 إِنَّ نَسْفَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ بِمَا نَعْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿۳۲﴾ وَبَدَأَ اللَّهُ سِيَّاتِ مَا  
 عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ  
 نَنْسُكُكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ  
 مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۳۴﴾ ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّبْتُمْ

توہ آے میان پیغام تہ احکام بوزنانونہ مگر توہہ کوروه تکبر توہہ تھوونہ زانہہ کن وکنتم قومًا  
 مُجْرِمِينَ نہہ آسودہ اوہہ بجرم کرن وول قوم اللہ تعالیٰ سُنَد پیغام بوزتھ آسودہ نہ پڑھ کران بلکہ  
 آسودہ کبر تہ نحو تہ سیت اتھہ انکار کران تہ بوزہ ناون والین ٹھٹھہ تہ مذاق کران رنگہ رنگہ ایذاہ تہ تکلیف  
 دوان وَاذًا قِيلَ بِیہ یلہ وننہ اوس یوان اِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا زہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ ہجھہ پوزاتھ ہیہہ نہ  
 خلاف سپد تھہ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا تہ قیامت چھہ پزے اتھہ منز ہجھہ کنہ قسمک کانہہ شک تہ خبہ  
 یہ سپدہ ضرور برپا قُلْتُمْ توہے آسودہ اورہ ونان مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ اس ہجھہ زانان زہ یہ قیامت  
 کیاہ گیہہ اِن نَسْفَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ اس ہجھہ زانان صرف اکھ خیالا وَمَا نَعْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ تہ اس ہجھہ یقین  
 تھوان وائل یعنی اسہ ہجھہ یقین زہ کیون لکن ہند یہ گمان زہ قیامت سپد برپا چھہ پوز۔ اسہ ہجھہ قیامت  
 پیٹھہ کانہہ یقین وَبَدَأَ اللَّهُ سِيَّاتِ مَا عَمِلُوا تہ یمن مجرمن نن ناکارہ پاٹھہ ہنن پیچھہ کار وَحَاقَ بِهِمْ  
 ولہ تم نال مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ تہ ہتھہ تم ٹھٹھہ آس کران یعنی ہتھہ عذابس تہ ہتھہ سزا اس تم  
 پڑھ نہ آسکھ سبہ ٹھٹھہ آس کران سے عذاب تہ سزا ولہ یمن نال وَقِيلَ بِیہ یہہ یمن مجرمن وننہ  
 الْيَوْمَ نَنْسُكُكُمْ از چھہ آس توہہ مشراوان كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ہتھہ پاٹھہ توہہ آسودہ مشروعت  
 تہندہ یہہ دوہک من یہہ آسہ برونہ کن جزا تہ سزا ہتھہ حاضر سپدن وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وون چھہ تہنہز چھین  
 جائے نار یعنی جنم وَمَا لَكُمُ مِنْ نَصِيرِينَ بِیہ ہجھہ تہندہ ہا پتھہ کانہہ مددگار و منزہ توہہ آسودہ مشروعت  
 قیامتک برپا سپدن اسہ سیت ملاقات کرن، عملن ہند جزا یا سزا حاصل کرن۔ یہہ تعلیم یلہ توہہ ہا ونہ آہہ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾  
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾  
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

توہ کروہ نہ اتھ پڑھ توے کردہ لا پروائی۔ لہذا چھ اس تہ از توہ سیت لا پروائی ورتاوان۔ توہہ ہتھ پنہ  
 نن پچھ کارن ہندا انجام نارو چھن تہ توہہ بیجہ نہ کا نہہ تہ امہ نش چنن منر مدد کر تھ ڈرکمہ پاکٹ  
 اتْعَدْتُمْ لِبَيْتِ اللَّهِ هُرُوقًا ۖ تہندیہ پچھ انجام چھ نتیجہ یمہ کتھ ہندزہ توہے آسؤہ اللہ تعالیٰ سندین پیغامن  
 مذاق زانان وَخَرَّتْكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ بیہ دیت توہہ دوکھ دنیاچہ زندگی یعنی دشہس منزئس عیش تہ  
 عشرت توہہ حاصل سپد امہ سیت لوگ توہہ دوکھ توہہ گنہیہ رائے زہ یہ عیش تہ عشرت مؤکہ لی نہ  
 زانہہ تہ توہہ جھوسئی روزن فَاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ۖ لہذا این نہ از نبر کڈنہ امہ نارہ منزہ یعنی از  
 قیامتک دوہ چھ یمن ضرور نارس منزایاہ تکلن وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۖ تہ نہ یہ یمن کا نہہ عذر قبول کرنہ  
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۖ لہذا شو بن ساری حمد تہ تا اللہ تعالیٰ ہس رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ ۖ ئس رُب چھ  
 آسمان ہند بیہ ئس رب چھ زینک رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ئس رب چھ سارنہ عالمن ہند وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تہ تمس چھ بجر تہ طاقت آسمان تہ زمینس منز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ تہ سوی  
 چھ زبردست طاقتہ وول تہ حمتہ وول۔



## سُورَةُ الْأَحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمْ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②  
 مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ  
 مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ  
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ⑤ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

حَمْ ہم چھہ حروفِ مقطعات۔ خدایہ سے چھہ معلوم تمن ہند معنی تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قرآن مجیدک نازل سپدن چھہ نس معبود برحقہ سبده طرفہ نس غالبہ حمہ وول چھہ لہذا گڑھہ امہ کین مضمون پیٹھ پور غور کرن۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اسہ کمر نہ پادہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھہ، مگر حکمت بیہ اکہ مقررہ متعین مدتہ خاطرہ۔ سہ مدت گو وقت قیام قیامت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ مگر ہم لوکھ کافر چھہ تمن سمو چیز وسیت توحیدہ کس انکار کرہ نس پیٹھ بیم چھہ کرنہ یوان تم چھہ تھہ کن کسمی توجہ تہ التفات کران۔ توحید چھہ قبول کران قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ٹہہ فرماو یوکھ یار رسول اللہ تمن ٹہہ خدایہ سز عبادت تراوتھ چھوہ عبادت کران تمن ہندس مستحق عبادت آسئس پیٹھ کیاہ دلیل چھوہ توبہ نشہ۔ اگر عقلی دلیل چھوہ میہ ہا تو زینک ٹہہ حصہ چھہ تمو پادہ کورمت۔ بکنہ آسمانہ کس پادہ کرنس منز چھہ تمن کانہہ شر اکٹھاہ۔ یہ کٹھہ چھہ ظاہر کہ ٹہہ چھو کہ نہ تم خالق مانان۔ بلکہ چھو کہ ٹہہ تم تہ مخلوقے مانان۔ مخلوق آسئس چھہ معبود آسئس بالکل منافی دلیل عقلی ختم۔ اگر توبہ نش دلیل نقلی چھہ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا میہ نشہ ان

أَشْرَةً مِّنْ عِلْمٍ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ  
 دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ﴿۸﴾ وَإِذَا حَشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ  
 كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِينَ ﴿۹﴾ وَإِذَا نَسَّاتُ عَلَيْهِمُ الْاِتِّنَابَ بَيِّنَاتٍ  
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰﴾

تو تیلہ کا نہ صحیح کتابا۔ یہ منز شریک لحم آسہ یوسہ کتاب سمہ قرآن مجیدہ بروئہ نازل کرنہ آمز  
 آسہ او اشْرۃ مِّنْ عِلْمٍ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا اگر کتاب آسہ نہ توتہ کر تو پیش معتبر علمی کا نہ مضمونہ،  
 رواہتہاہ یوسہ منقول آسہ، چھوے نہ شریک دعوائے کرہ نس اندر پوزونہ ون۔ یہ کتھ چھہ ظاہر کہ  
 یزہہ دلیل ہیجہ نہ کا نہ تہ پیش کمر تھہ مگر نہہ چھوہ نہ امہ پتہ تہ باطل کتھہ نشہ باز یوان۔ وَمَنْ أَضَلُّ  
 مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کبہہ اکھاہ چھہ تس شخصہ سندہ خوتہ زیادہ گراہ  
 نس دلیل پیش کرنہ نشہ چھہ عاجز۔ باوجود آل چھہ معبود برحق تراوتھہ تمن باطل معبودن آلودوان  
 سم نہ قیاس تان تہندس ناس تہ آوس جوالبے میکن دتھہ۔ تمن چھہ تہندہ آلودنچ خبرے کینہہ کیا زہ  
 تمن چھہ تمیک شعورے تمن چھہ خبرے سجدہ کم دیت تہ لتھ کم دژ۔ وَمَنْ عَنِ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ تم  
 چھہ تہندہ آلودنہ نشہ بالکل بے خبر۔ جمادات یعنی نہ تہ بے جان چیزن ہند چھہ ظاہرے کہ تمن چھہ  
 قوت سامع کینہہ۔ باقی ذوات الارواح، ملائکہ، حضرات انبیاء، بیہ اولیاء اللہ تم چھہ سوے کتھ  
 بوز تھہ ہیکان یوسہ اللہ تعالیٰ بوزہ ناویکھ۔ سوی کام ہیکان کمر تھہ تمیک اجازت تہ قدرت تمن اللہ تعالیٰ  
 دیہ پانس تمن بذات خود کا نہ اختیارہ چھہہ وَإِذَا حَشَرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ  
 كٰفِرِينَ چنانچہ یلہ لوکھ محشرہ کس میدانس منزع بین کرنہ حساب دنہ خاطرہ تمے معبودان باطل  
 آسن، تمن تم ناد تہ آلودوان آسن، تہند دشمن۔ بیہ آسن تمے تہندس عبادت تہ پرستش کرہ نس منکر۔  
 دیکھ آسہ چھہ خبرے نہہ کیاہ آسہہ آسہ عبادت کران وَإِذَا نَسَّاتُ عَلَيْهِمُ الْاِتِّنَابَ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ  
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ كَفَىٰ بِهِ  
شَهِيدًا ابْنِي ۖ وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵﴾  
قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ ۖ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ  
إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

لِلْحَقِّ لِنَجَاءِ هُمْ هَذَا اصْحٰرُ مُبِينٌ یہ بیلہ پر نہ جھ یوان تم ن بیٹھ سان صاف صاف تہ واضح آیات ،  
دنان جھ تم کافر اتھ پڑس قرآن مجیدس کہ یہ جھ نعوذ باللہ نون سحر تہ جود اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ کیاہ تم لوکھ چھادنان کہ یہ قرآن مجید ٹھہر دو آم پیغمبران پائے۔ تہہ فرماو یو کہ یا  
رسول اللہ ای لو کو ہر گاہ میہ یہ قرآن مجید پانے پتہ طرفہ بنوومت آتھ خدا ایس کن لوگمت آسہ ہاتیلہ  
کہ ہا اللہ تعالیٰ پتہ عادتہ موجب میانس اُپزد عوی نبوت کرہ نس پیٹھ میہ ہلاک۔ تو پتہ بیلہ سہ میہ (نعوذ  
باللہ) ہلاک کرن ہیہہ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تہہ لوکھ باباتی لوکھ ہی کو نہ میہ خدایہ سہہ عذابہ  
نہہ بچاوتھ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ تہہ پور خبر تہہ کہہ کہہ تھہ جھوہ اتھ قرآن مجیدس  
متعلق کران کفی بہ شَهِيدًا ابْنِي ۖ وَبَيْنَكُمْ بس جھہ سنی گواہ میہ منز تہ توہہ منز۔ تہہ جھہ آسہ  
سار نے ہند حال پور ہ معلوم تہہ جھہ صادق تہ تہہ جھہ کاذب ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سنی جھہ سیٹھاہ  
مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ سہ چھنہ کلفرن دنیا س اندر عذابس گرفتار کران۔ مگر تم ن  
عذابس گرفتار نہ کرن چھنہ دلالت کران تہندس پڑس پیٹھ آسئس قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ تہہہ  
فرماو یو کہ یا رسول اللہ اے لو کو بہ نو پیغمبر اہ جھس نہ۔ میہ برو تھہ تہہ جھہ ہیہ تہہ واریاہ خدایہ سندی احکام  
ہیہہ آمت۔ ۖ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ یہہ جھنہ میہ خبر میہ سیت کیاہ معاملہ سپدہ آئندہ۔ پتہ نین  
آئندہ حال اتن ہنزلہ نہ میہ خبر جھہ بین متغیباتن ہند عوی تھہہ پاتھ ہیہہ بہ کمر تھہ۔ تم ن حال اتن ہند  
میہ بذریعہ وحی علم سپد تم ن ہند جھہ واقعی علم کاسل ۖ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ یہ

اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا  
 سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾  
 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ  
 لِّسَانِ عَزْرِبِيلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرِي لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ

چھنہ علم و عملہ اندر پیروی کران مگر تھے یہ مہی عن وحی نازل یوان چھہ کرنہ۔ پانہ پنہ طرفہ کانہہ چیز  
 ٹھہر اونچ چھنہ صورتھے کانہہ یہ چھس نہ بہ مگر تن پاٹھ نیم کرہ ون قُلْ اٰوٰیْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ  
 کفرتُم بہ وشہد شاہدٌ من بنی اسرائیل علی مثلہ قامن واستکبرتم فرما یو کہ تھے یارسول اللہ ای  
 لوگو مہی ون توہر گاہ یہ قرآن مجید واقعی طور خدایہ سہہ طرفہ آتھ تھے اتھ انکار کر ویہ آسہ بنی اسر ایلو  
 اندرہ تہ کانہہ معتبر گواہ گواہی دوان یڑھ کتابہ ہندہ نازل سپنچ، تھ پیٹھ ہانکر تھ آسہ سہ تھہ ایمان  
 اتان تہ پڑھ کران مگر تہہ روز و محشر تہ غرورہ سبہ امہ کس انکار سپٹھ، تھ صورتس اندر گہہ اکھاہ چھہ  
 تھہہ خوتہ زیادہ بے انصاف تہ ظالم۔ لٰن اللّٰہ لا یھدی القوم الظّٰلِمین بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ بے  
 انصافن تہ ظالمن تھ ہاوان بلکہ چھہ تم ہمیشہ گمراہی تہ ضلالتس اندر روزان۔ گمراہی ہند انجام چھہ نار  
 جہنم۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ یہ چھہ تم کافر وان با ایمان ہندس  
 ایمان نہ نس نسبت کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید تھہ تم پڑھ کر مر چھہ رت آسہ ہا، تیلہ گوشن نہ تم کم  
 درجک لو کہ اتھ دینس عن آسہ بروٹھ۔ یہ گو تھند کمال درجک استکبار تہ غرور  
 فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكَ قَدِيمٌ یلہ نہ امہ غرورہ تہ استکبارہ سبہ تم امہ قرآن مجیدہ سیت دین کھس عن  
 و تھ آسہ لئذا چھہ تمن ونہ نے کہ یہ چھہ پرانیوا ہزد و تھو منزہ اکہ اپز کتھاہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ  
 إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانِ عَزْرِبِيلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُبَشِّرِي لِّلْمُحْسِنِينَ حالانکہ سمہ



الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

قرآن مجیدہ برؤنٹھ آس حضرت موسیٰ سنز کتاب یعنی تورات نازل آمر کر نہ یوسہ اُمت موسویہ  
خاطرہ بالعوم و تھ باوہ ون آس، اہل ایمان ہندہ خاطرہ بالخصوص بڈرحت آس، یہ قرآن مجید تیج  
پیشین گوئی تورا آس منز تہ چھ، تہ چھ کتابہ نمہ کتابہ ہنز پیشین گوئی تصدیق کران یوسہ عربی زیوہ  
منز چھ، بیٹھ یم گرہ تمین لوکن سمو ظلم کور یعنی شرک تہ کفر کر نہ سیت۔ یہ چھ بڈبشارت نیو کارن  
ہندہ خاطرہ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** بیشک سمو لوکو  
بصدق دل اقرار کورزہ سون پروردگار چھ اللہ تعالیٰ تو پتہ رود اتھ اعتقادس پیٹھ آخرس تان، یہ  
اعتقاد تروو کہ نہ زانہ نہس چھ نہ تمین آخرس اندر کانہ خوفاہ واقع سپدہ ون نہ آس تم ختہ عمکین  
**أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** یم لوکہ چھ جنتی، یم ہمیشہ روزن تمین  
جنتن اندر۔ یہ چھ تمین رت جزا تمین رٹن عملن ہند تم کران آس دنیاس اندر یعنی ایمان تہ استقامت  
بر ایمان تہ پٹھ پاٹھ اسہ پٹن حق بندن پیٹھ واجب کمر سیمیک ذکر کر نہ آویٹھے پاٹھ کور اسہ حقوق العبادتہ  
واجب چنانچہ تموا اندرہ گوو سیٹھاہ بوڈ حق مالس ماجہ ہند **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا** تمی موکہ کور اسہ انسانس تاکیدی حکم پنہ نس مالس ماجہ نسبت احسان کرہ نک۔  
بالخصوص ماجہ نسبت زیادہ احسان کرہ ٹک حکم۔ کیا زہ یہ موج آس نہایت شفقتہ سان ٹخان اسس  
انسانس پنہ یم منز تو پتہ تروون یہ یم منز نہایت ختہ سان **وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** اس انسانہ  
سند ماجہ ہمزہ یم منز روزہ ٹک مدت یہہ دو ڈر نہ ٹک مدت چھ اکثر تر بہن رتین یعنی ڈاین و این پورہ  
سپدان۔ نمہ پتہ چھ نہ نشوونمالبان۔ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اشدَّهٗ وَبَلَغَ اربعین سنہ** تا ایچہ یم نہ نشوونما

أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⑤  
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ  
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ⑥ وَالَّذِي  
قَالَ لَوْ أَلِدِيهِ أَفٌّ لَكُمْ أَتَعِدُنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ

لہاں چھہ ، پننہ جوانی ہندس قوتس واتان چھہ یعنی جوان چھہ سپدان تو پتہ چھہ واتان ژ تچن ہنزہ عمرہ ،  
ئس سعادت مند چھہ آسان قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ  
صَالِحًا تَرْضَاهُ سہ چھہ دپان ای میانہ پروردگارہ دہ چھہ کتھہ پٹھہ مد اومت گرہ نک توفیق کہ بہ کیاہ کرہ  
شکر گذاری تمہہ نچ یوسہ ژہ میہ عطا کر تھہ بیہ میانس ماس ماجہ عطا کر تھہ بیہ دہ میہ توفیق تمیک زہ بہ  
کیاہ کرہ رژہ کامہ بیہ ژہ پسند آسہ ئے ، سمو سیت ژہ راضی گوھکھہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي بیہ کر  
صلاحیت پادہ میانہ نفعہ خاطرہ میانین اولادن منز۔ نفع دنیوی گو دیوبے کہ بہ کیا آسہ تم وچھتھہ  
پھولان۔ نفع دینی گو دیوبے کہ میہ تہ آسہ اجر و ثواب حاصل سپدان إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ بیہ چھس توبہ  
کران تمو کوتاہیہ نشہ سیمہ میانہ طرفہ آہ چانین حقوقن یا چانین بندن ہندین حقوقن اندر وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ بیہ چھس بہ چالس کھمس گردن دارہ و نیو آندرہ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ سہ لوکھ گے تم سمن ہنزہ رژہ  
عملہ آس قبول کر دیوہیہ گرو آس تہند خطا معاف سہہ طریقہ کہ تم آسن جنویہ آندرہ ، تمہ پڑہ وعدہ کہ وجہہ  
ئس تم سیت دنیا س اندر کرنہ اوس یوان وَالَّذِي قَالَ لَوْ أَلِدِيهِ أَفٌّ لَكُمْ أَتَعِدُنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ  
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي بیاکھ گو سہ شخص سیم حقوق اللہ تہ حقوق العباد ضایع کتر تھہ پاتھہ اس شخصہ سندھ  
حالہ سیت معلوم چھہ سپدان ، سیم ماس ماجہ ، بیہند حق حقوق العباد و منزہ نہایت موکد اوس ، خصوصاً



أَذْهَبْتُمْ طِبْبَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ  
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۱۰﴾ وَأَذْكَرَ أَخَا  
عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الشُّذُرُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

بدلہ پورہ عطا کرہ بیہ بیہ نہ کانہہ آگس تمو آندرہ مئے طریقہ ظلم کرنہ ویومر یعرض الذین کفروا علی  
النار بیہ بیمہ دوہہ کافر بروئھہ کن آنہ من نار جہنم وندہ بیجھہ اذھبتکم طیببتکم فی حیاتکم الدنیا  
واستنتعتم بہا آے کافر توہہ وجھوہ پندہ دنیاچہ زندگی منزرتین نعمون ہمد بن حصہ حاصل کورمت بیہ  
جھوہ تمن ہمد پورہ تمسح تہ فایدہ توہہ تلت بیتہ سپدہ نہ توہہ نہ کانہہ نعمتاہ حاصل فالیومر تجزون عذاب  
الھون بہا کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبہا کنتم تفسقون دول بیہ توہہ ازیتہ  
بدلہ دنہ خواری ہمد عذاب کیا زہ نمہ آسوہ نادنیاس منزحکمر تہ غرور کران ناحق۔ بیہ تمہہ موکھہ کہ تہہ  
کیا آسوہ سخت نافرمانی کران۔ ناحق آوونہ امی موکھہ کہ مخلوقس ہزہ نہ حکمر کرن۔ نس جھنہ مئے وقتہ حق  
حکمر کرہ ٹگ خصوصاً زمینس پیٹہ۔ یہ جھہ انسانہ سدہ حقہ زیادے مذمومم واذکر اخا عاد اذ  
انذرت قومہ بالاحقاف بیہ کور و نمہ سمن کافران نعہ قوم عادان ہمدس برادر ہود علیہ السلامہ  
سزوز کریلہ تمو پندہ نس قومس تم تھہ جلیہ پیٹہ بسان آس بیتہ خمدار سکہ بند تودہ آس تھہ جلیہ جھہ ونان  
احقاف۔ یہ جھہ اکھ وادیہ سمنس منز حضر موس نزدیک۔ سوی ہن قوم کھوڑہ نوو کھ خدلیہ سدس  
عذابس۔ فرماوان آسکھہ ہتھنہ توہہ عبادت کمر و کانہہ ہنز خدالیس ور اے ورنہ گہو عذابس گرفتار۔ یہ  
جھہ تھہ کھ کہہ وقد خلت الشذریمن بین یدئہ ومن خلیفہ الا تعبدوا الا اللہ کہ بے شک  
ہود علیہ السلامس بروئھہ تہ تمن پتہ تہ آی امی مضمون خاطرہ واریاہ کھوڑہ ناؤن وال پیغمبر اتان۔ ہود  
علیہ السلامن فرمو پندہ نس قومس کہ عبادت مہ کمر و کانہہ ہنز معبود برحقس ور اے۔ اذکر اخا عاد

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾ قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا  
 عَنِ الْهَيْئَةِ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾  
 قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي  
 اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ  
 قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّطْرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ  
 فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا  
 فَاَصْبَحُوا اِلٰى رَبِّ اِلَآمٍ سٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بہ چھٹس کھوڑان ٹھہرہ تھہ کہ بڑہ دوہہ کس عذابس یعنی قیامتہ دوہہ کس  
 عذابس قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ تمودوہس اے ہود کیاہ ژہ چھٹھہ آمت اسہ نشہ امی  
 خاطرہ کہ ژہ کیاہ پھر کہ اسہ پنہ نیو معبودو نشہ۔ اس پھیران وال چھنہ۔ قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ  
 مِنَ الصّٰدِقِيْنَ دون ہرگاہ ژہ پوزونہ و نیو منزہ چھٹھہ تیلہ و اتناوسہ عذاب سمیک ژہ اسہ بیم کران چھٹھہ  
 قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسَلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ہود علیہ السلام  
 فرمود کہ عذابہ شیخ خبر چھہ خدایہ سے یا ژہ بہ چھٹس توہہ و اتناوان سہ پیغام بس ہتھ بہ سوزنہ آمت  
 چھٹس۔ مگر بہ چھٹسہ توہہ و چھان اکھ قومہ خالص جمالتہ چہ۔ تھہ کران یلہ نہ تموئنہ طریقہ حق تسلیم  
 کور اتی بن عذابک آثار شروع سپدن گوڈہ فی کھوت اوراہ اکھ قَلَمًا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ اڈہ  
 یلہ تموئہ اورو چھہ بس پکان اوس یہند سے زمینس زراعتس کن قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُّطْرِنَا ہنہ لگ  
 یہ اور تراوہ رود اسہ پیٹہ۔ ڈپنہ آکھ یہ رود تراوہ ون اور بر چھنہ بلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ چھہ یہ  
 سنی عذاب بس توہہ دل دل ژھانڈان اسوہ اتھ اور بس منز چھہ رِيحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ واواہ تھہ  
 سیت نڈر عذاب چھہ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوا اِلٰى رَبِّ اِلَآمٍ سٰكِنُهُمْ یہ عذاب گالہ

الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَانٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ  
 سَمْعُهُمْ وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ  
 كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ  
 وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ

پرستھ چیزس پنہ نس خدایہ سدہ حمہ سیت۔ چنانچہ سہ واولیلہ دراوتم تھوونہ کانہہ چیزاہ باقی گالہ  
 ورائے۔ پس سہ ختم کانہہ چیزاہ اوس نہ در نیشی یوان تہنز در لویو جالیو ورائے کذلک نَجْزِي الْقَوْمَ  
 الْمُجْرِمِينَ نیشے پاٹھ کیاہ چھہ اُس نافرمان سزاوان وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيْمَانٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً بے شک اُسہ اوس تہن طاقت دُہمت تہن کامین ہند  
 تہن ہند طاقت توہہ چھنہ دُہمت۔ تمہ اندرہ چھہ مراد تم تصرفات تم جسمانی قوتس تہ مالی قوتس پیٹھ  
 موقوف چھہ۔ یہہ اُس اُسہ تہن گن اچھہ تہ دل دُہمت۔ سموسیت تم بڈین بڈین مشکلاتن ہند مقابلہ اُس  
 کران۔ مگر لیلہ تہن سون عذاب ووت تھہ مقابلہ ہیو کچھ نہ کینہہ تہ کمر تھہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ  
 وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اُس ویت نہ تہن کانہہ فائدہ نہ کونہ اچھو تہ نہ ولو کونہ  
 چیزک اِذْ كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کیاہہ تم اُس انکار  
 کران خدایہ سندین آیاتن۔ توپتہ آدولہ تہن سنی عذاب پیٹھ تم ٹھٹھ تہ محول کران اُس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اے مکہ کیولو کو پتھین گال اُسہ تہن  
 شہرن ہند لو کھ تم توہہ اُہد پک چھہ کفر وشر سمہ سبہ۔ قوم شمود تہ قوم لوط، اُسہ واتاواے یہ تہن نشہ  
 پتہ دلیلہ پھیر پھیر دیوہ تم کفرہ تہ شر کہ نشہ پتھ روزن مگر تم رودنہ پتھ کینہہ تہ۔ تمہ موکھ گے تم  
 عذابس گرفتار فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً پس کونہ سنا کور تہن

# الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۸﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا

مدد تمومعبدوان باطلو اسم معبود برحقس وراے معبود بناوی مت آس خدایہ سُد قرب حاصل کرنے خاطر کہ تم بن اسم مصیبت کہ وقتہ بکار۔ جس کونہ سنا آے تم تمین بکار سمہ عذابہ تہ ہلاک گوھنمہ وقتہ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ مدد کہہ نچ کیاہ چھہ کتھے بلکہ ژل تم تمین پیٹھ عذاب وَسِعَهُ وَقْتَهُ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ سورے تہند تم معبود زائن یا شفیع زائن اوس اہوئس سموپانے دلہ نڈا اکھ ٹھہر وومت اوس بروٹھنن آیات کریمین اندر آویان کرنے کہ کافرین بیہ وننہ عذابس گر فگار سپد چھہ وقتہ کہ یہ ذلتک عذاب چھہ توبہ ( بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ) تہہ کیاہ آسوہ دنیا س منزنا حق سبخر کران بیہ کیاہ آسوہ تہہ نافرمانی کران۔ سبخر ونا فرمانی ہنز مدتہ بوزاننہ خاطرہ آوکافرین وننہ کہ وچھو کہ جن سم سبخر س اندر انسان ہندہ خونہ زیادہ چھہ۔ تمو ترو و سبخر، تہ کفرہ نشہ دست بردار سپد تھ کور تموا سلام قبول۔ مگر توبہ انسان آستہ چھوہ نہ تہہ سبخر تہ کفرہ نشہ بازیوان۔ تمین جن ہندہ مسلمان سپد نچ سبخر آہہ کر تمس منز ذکر چھہ تہند قصد چھہ حدیث شریفین منز سبخر پاٹھ آمت کہ یلہ بعثت نبویہ کہ وقتہ جن آس آسمانی خبرہ بوزنہ نشہ ستارن ہندہ شعلہ سیت پتھ رنہ تم سپد حیران کہ یہ کیاہ سنا سپد۔ امیگ ہزہ اسمہ تحقیقات کرن۔ دریافت گوھہ کرن کہ دنیا س اندر کبہ سنا واقعہ سپد نمودار سمہ سبہ آس آے پتھ رنہ۔ چنانچہ جن ہنزہ مختلف جماثر در آہ مختلف طرفن جن امیگ تحقیقات کرنے تمومے اندر اکھ جما تھ واژمکہ شریف۔ تمہ دہنہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ صابن سیت اکس جایہ بیتھ بطن نخلہ ناواوس۔ اتہ پیٹھ اوسکھ سوق عکاظس جن بغرض تبلیغ دین و اشاعت اسلام تشریف نیک ارادہ۔ اتھ جایہ آس صبح نماز ہران۔ جن ہنزہ جما تھ تہ واژا تھ جایہ بوز کہ وارہ تہند قرآن مجید ہران۔ دہنہ لگ سونو کتھ سمہ کہ دریافت کرنے خاطر آس درامت چھہ۔ سو چھہ بیہ سمہ سبہ نہ آس آسمانی خبرہ بوز تھ ہیکان چھہ۔ بروایت عبد اللہ ابن عباس ہونہ چھہ کہ تم جنات یلہ اوت وات آتہ بوز کہ قرآن مجید۔ دہنہ لگ ژھوپ لاکو وارہ بوزویہ قرآن مجید۔ تمہ پتہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ نشہ فارغ سپد سم جن سپد مسلمان تو پتہ گئے پنہ

إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ  
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾  
 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾ يَا قَوْمَنَا  
 إِن جِئْتُمُودًا عِوَىٰ لِلَّهِ وَأَمْنُوهُ يُغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ  
 مِّن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ وَمَنْ لَا يُعِيبِ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِزٍ فِی

نِس قَوْمِ كُنْ واپس تمہیں یہ کہہ اچھ خبر یہ لکھ دہ ترغیب ایمان انہ نِس كُنْ وَاذْهَبْنَا إِلَىٰكَ نَفَرًا مِّنَ  
 الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ بیہ کمر و تمہن لوکن نشہ ذکر تمہہ و تک قصہ یلہ اسہ توہہ کُن سوزاکہ جماعتہا  
 جہو اندرہ۔ یوت واتھہ لگ تم بوزہ قرآن مجید سمہ ساتہ تہہ صبح نمازہ اندر قرآن مجید پران آسہ  
 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا تم یلہ ساری جمع سہد تھہ جایہ یتہ قرآن مجید پر نہ اوس یوان اکہ اگس  
 لگ ونہ ژھوپہ کمر تھہ بوزویہ کلام فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ تمہ پتہ یلہ قرآن ہزن  
 ختم سہد تمہہ پتہ گئے تم واپس پنہ نِس قَوْمِ كُنْ یہ سوری واقعہ بیان کرنہ خاطرہ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا  
 كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ چنانچہ پنہ نِس قَوْمِ كُنْ لگ دپنہ اے قوم اس آے بوز تھہ اکہ عجیب کتابہ  
 ہند اکہ مضمونہا یوسہ کتاب نازل پچھہ آمزہ کرنہ موسیٰ علیہ السلام یتہ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
 إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ سوی کتاب پچھہ تصدیق کران تمہ کتابن یمہ تمہہ بروٹھہ نازل کرنہ  
 آمزہ پچھہ۔ سوی کتاب پچھہ و تھہ ہاون دینن حقس کُن یمہ پچھہ رہنمائی کران سیزہ وتہ کُن يَا قَوْمَنَا إِن جِئْتُمُودًا  
 دَاعِيَ اللَّهِ اے میانو بھایو اجابت کمر و تہ ماو خدا نِس کُن نادودہ و نِس یعنی قرآن مجید س یا نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہندس ونہ نِس اجابت کران گوکہہ وَأَمْنُوهُ يُغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّن  
 عَذَابِ أَلِيمٍ ایمان آو تہ پڑھہ کمر و خدا نِس۔ تمہہہ برکتہ کر وہہ تہندسین گو نمن مغفرت۔ بیہ رچھو نہ



الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۳﴾  
 أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ  
 عَنْهُ شَيْءٌ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ أَن يُنْفِخَ الْمَوْتَىٰ بِبَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾  
 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا  
 بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾ فَاصْبِرْ  
 كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

توہمہ آخر صحیحہ کڈرہ عذابہ بشرہ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَارِئِي اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ نِس اگھا اجابت کرہ  
 نہ خدایہ سبب نادرہ و نِس اودہ سہ بیچہ نہ زمینہ کس منہ حصص منز گزہوت تہ زلجھ۔ خدا نِس رفہہ بشرہ عاجز  
 کمر تھ پٹن پان بچاوتھ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ نہ ہتھ تہندہ خاطرہ خدا نِس وراے کا نہہ حمایت  
 کرہ وناہ تہ مددگارہ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُمہ قسمک لوکھ تمکن پتہہ جایہ خیال آسہ کہ آسہ کیاہ بیچہ  
 بچاوتھ تہ موکلاوتھ کا نہہ تم ہتھ نہہ گمرانی اندر اُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ شَيْءٌ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ أَن يُنْفِخَ الْمَوْتَىٰ کیاہ یہ کتھ چھنا زماناں تم کہ یم پروردگارن آسمان تہ زمین  
 پادہ کر تھ پتہ تھوکنہ سہ تم پادہ کرنہ سیت نِس پروردگار س ہتھ پور، قدرت قیامتک دوہ مردہ لوکھ بیہ  
 زندہ کرہ نِس پیٹھ بلی اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ گوژہ ناہ تھ پیٹھ قدر تہ دول آسَن۔ سوے پریتھ  
 چیز س پیٹھ قدر تہ دول ہتھ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ بیہ سمہ دوہہ کافرین نار چھتھن  
 بروٹھکن اُنہہ دپنہ بیچھ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیاہ یہ دوژن چھنا پوز تہ امر واقعی اُتھ آسوہ دنیا س اندر  
 نفی و انکار کران قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا وین خدایہ سنزدرے واقعی ہتھ پوز تہ برحق قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرما ویکھ وون ژہو تھوہہ اُمہ چھنمتھ عذابک مزہ۔ کیاژہ تہہ آسوہ نا تھ  
 انکار کران فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ یلہ معلوم سہد کہ تمکن بیہ اُمہ کفر و  
 انکارک انتقام ہینہ لہذا کمر و تہہ صبر یا رسول اللہ کافر ن ہندس تکیف س پیٹھ ہتھ پاٹھ صبر کور ہمتہ والیو

يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا السَّاعَةَ مِنْ نَهَارٍ ط  
 بَلَغُوا فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝۳۵

یومِ غمروز، تمہے سے ڈھانڈو دیکھندے خاطرہ جلد انتقام سے تمہند عذاب الہیسی گرفتار سپدن کا کٹھم یومِ یرون ما  
 یوعدون لم یلبسوا الا الساعۃ من نهار بلغۃ فهل یھلک الا القوم الفسقون سمہ دوہہ وچھن  
 تم تھہ عذابس سمیگ تمین وعدہ یوان چھہ کرنہ تمہہ دوہنہ پیہہ بوزنہ تمین زن تم دنیا س منرود مت  
 آس اکہ سے گرہ۔ یہ آس تمین کتھاہ واتہ ناون۔ سو آکھہ واتا ونہ۔ تباہ تہ ہلاک چھنہ یوان کرنہ مگر  
 نافرمان تہ کافر۔



## سُورَةُ مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَضَلَّ بِالْهَمِّ ②  
 ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  
 اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ہم لو کہ ہوس دینس انکار کرنہ سیت پانہ کافر سہدی بیہ رجھ لوکھ تہ پتھ خدایہ سنزہ وتہ نشہ پتھ پاتھ کافرن ہند زیتھہ کران آس، ضائع کرہ اللہ تعالیٰ ان تہنزہ سارے رتہ عملہ ایمان قبول نہ کرنہ موکھ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَضَلَّ بِالْهَمِّ تمہ بدل گے ہم لو کہ سمو ایمان اون کئس خدائس بیہ کرکھ رتہ عملہ۔ بیہ اوکھ ایمان تھہ سارے یہ نازل او کرنہ حضرت محمدؐ پیٹھ تہ زو کھ سورے پنز پاتھ پنہ نس خدایہ سند طرفہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ تھہدین گو نمن مغفرت بیہ سنبھالہ تہ رت کرہ تھہد حال دنیا تہ آخرتس اندر۔ دنیا س اندر تمہن توفیق طاعات دنہ سیت، آخرتس اندر نجات و کامیابی عطا کرنہ سیت ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ چھہ امی موکھ کہ بے شک سمو لو کو انکار کور تم پک غلط وتہ پیٹھ۔ بیہ سمو لو کو ایمان اون تہ پڑھ کھر کہ تم پک صحیح وتہ یوسہ تھہدس پروردگارہ سہہ طرفہ آس۔ غلط وتہ پکن باعث ناکامی آس تہ صحیح وتہ پکن باعث کامیابی آس چھہ ظاہر کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ تھے پاتھ چھہ

فَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ  
 فَشُدُّوا الْوَتَانَ ۖ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ  
 أَوْزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ  
 بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿۱۰﴾

اللہ تعالیٰ لوکن تمہند حالات بیان کران بیٹھہ تمہن بوڑن سچہ رت کیاہ چٹھہ تہ چٹھہ کیاہ چٹھہ یلہ کافر مفسد چٹھہ آس چٹھہ توہمہ فساد دفع کرنے خاطر حکم کران کہ **فَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ** یلہ چٹھہ کافرن سیت مقابلہ کرویلہ چٹھہ تمہو منزہ واریاہ ماریو کہ توپتہ یلہ تمہو منزہ کینہہ قید کریو کہ، پس آسیو کہ تم مضبوط گنڈ پھر تھ قید کران **فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا** توہتہ چٹھہ توہمہ دون کھن ہند اختیار۔ یا آسیو کہ تم تمہن پیٹھہ احسان تھاوتھ یلہ تراوان یا آسیو کہ معاوضہ تہ بدلہ ہتھ یلہ تراوان۔ یوتان نہ لڑائی کرن واکل دشمن آسن سلاح و سامانہ تہ ہتھیار پھر تراوان یعنی دشمن آسن آن مانان، یعنی اسلام یا استسلام دونو چیز و آندرہ آسن اکھ چیز مانان، پس ہر گاہ تمہو قتل تہ قید کرنے بروٹھے ایمان اون یا کور کہ ذمی آسن قبول تیلہ چھنہ تمہنہ قتل کرن جائیز تہ تہ قیدے کرن **ذَٰلِكَ** یہ حکم جماؤک نیس مذکور سپد گڑھہ چٹھہ آسن۔ آسہ یوسہ صورت بیان کتر کافرن انتقام پٹچ، چٹھہ اندر چٹھہ حجت ورنہ **وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا** ہر گاہ اللہ تعالیٰ ارشہہ ہا تمہن کافرن ہیہ بابانہ انتقام پیو حوادثو تہ بلا یوسہ سیت غرقہ سیت، لیکن تمہ کور توہمہ جہاد کرہ نک حکم بیٹھہ توہمہ آزمائش گرہ اؤین اؤین ہندہ سیت مسلمان چٹھہ پیٹھہ پاٹھہ امتحان کہ کس کرہ خدایہ سندس کھس پیٹھہ عمل یعنی کس نیرہ جہادس۔ کافرن چٹھہ امتحان پیٹھہ پاٹھہ کہ کس سپدہ آسہ عذابہ سیت متنبہ تہ آگاہ توپتہ کہ قبول دین حق اتھ جہادس اندر پیٹھہ پاٹھہ قاتل سپدن کامیابی چٹھہ پیٹھہ پاٹھہ چٹھہ مقتول سپدن تہ کامیابی۔ **وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ** یہ تمہ لو کہ خدایہ سزہ وتہ اندر مارنہ آئے تمہزہ عملہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع **سَيَهْدِيهِمْ وَيُضِلُّهُم بِالْأَعْمَالِ** اللہ تعالیٰ ہا وہ

سَيَهْدِيَهُمْ وَيُصَلِّحُ بِاللَّهِمُّ ① وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ②  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ  
أَقْدَامَكُمْ ④ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ⑤  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ ⑥  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ⑩ ذَلِكَ

تمن و تھ منزل مقصودج بیہ تھا وہ تھند حال وارہ پر تھ قبر منزہ میدان محشرس منزہ پہل صراطس  
پیٹہ تہ، باقی مواقعن اندر تہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ بیہ و اتا وہ تمن تھ جنٹس منزہ سج زان تمن  
پورہ پورہ کرہ تاکہ بروٹھم مغفرت تہ زان نہ آسجہ باوجود اولتہ پر تھہ جٹیگاہ پنہ جلیہ پنہ بس پنہ بس  
منزل و مقامس تکلیف یا ژھانڈنہ تہ تلاش کرنہ و رآے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ  
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اے بالیمانو اگر تھہ خدایہ سدس دیئس، (تھندس پیغبرس) مدد کمر و سوتہ کر  
توہہ مدد بیہ در اوہ تھند کھورد شمن سیت مقابلہ کر بیجہ وقتہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ  
بیہ سمو لولو کوا نکار کور تھندہ خاطرہ چھہ بلہ تم دنیا س اندر بالیمان سیت مقابلہ کرن تباہی تہ پساہی۔ بیہ  
کرہ تھزہ عملہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر ضائع تہ برباد ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا  
أَعْمَالَهُمْ یہ خسران دارین تھہ تمن امی موکھہ کہ تمو کورنا پسند سہ دین تہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ  
آن نازل کمر تہی موکھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھزہ عملہ ضائع أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیاہ تم چھنا پھیر متی اورہ پورز مینس منز تا بیجہ و چھہ بن کیاہ انجام ہٹھہ  
تمن نافرمان لوکن ہند سپد مت تم تمن بروٹھہ آس دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ اللہ تعالیٰ  
آن گال تم مولہ موجبہ تمن کافرن ہمدہ خاطرہ تہ چھہ تہی قسمگ معاملہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّكْفِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ یہ چھہ ام موکھہ زہ اللہ تعالیٰ چھہ مددگارہ تہ کار سازہ بالیمان تھی

يَاۤنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَاِنَّ الْكٰفِرِيۡنَ لَمَوْلَى لَهُمْ ۙ ﴿۱۱﴾  
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتِۢ بَحْرِيۡ  
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يَتَسَنَّوۡنَ وَيَاۡكُلُوۡنَ كَمَا  
 تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنّٰارُ مَثْوٰى لَهُمْ ۙ ﴿۱۲﴾ وَكَآئِنَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ  
 قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيۡ اَخْرَجْتِكَ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَصَرَ لَهُمْ ۙ ﴿۱۳﴾  
 اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُرِّيۡنَ لَهُ سُوۡءَ عَمَلِهٖ وَاَتَّبَعُوۡا اَهْوَاۡهُمْ ۙ ﴿۱۴﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيۡ وُعِدَ الْمُتَّقُوۡنَ فِيۡهَا

چھ تہمدہ خیطرہ دنیاو آخرتس اندر کامیابی۔ کافرن بھتھہ بھتھہ کانہہ مددگارہ تہ کارسازاہ تمی بھتھہ تہمدہ  
 خاطرہ دنیاو آخرتس اندر ناکامی اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّتِۢ بَحْرِيۡ مِنْ تَحْتِهَا  
 الْاَنْهٰرُ بے شک اللہ تعالیٰ واتاودہ بالیمان، نیو کارن تمن جشن سمومنزى جویہ پکان آسن وَالَّذِيۡنَ  
 كَفَرُوۡا يَتَسَنَّوۡنَ وَيَاۡكُلُوۡنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنّٰارُ مَثْوٰى لَهُمْ ۙ بیہ تم لوکھ کافر بھتھہ تم چھہ دنیاوس  
 اندر عاش کران کھیوان۔ بھتھہ پاھہ کین بھتھہ کھیوان۔ نار جنم بھتھہ تہمدہ روزنچ جائے۔ بھتھہ منزواتھہ  
 سورے کھیومت چومت نیرکھ۔ سمہہ تمتمک تہ خوردونوشی ہند ذکر آو کر نہ تھہ تمتمس پیٹھہ مہ گہہ سن  
 تہمد مخالف مغرور۔ نہ مہ کتر و تہمد تہمدس غافل روزہ نس پیٹھہ کانہہ افسوس و غم کیاہہ وَكَآئِنَ مِنْ قَرْيَةٍ  
 هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيۡ اَخْرَجْتِكَ ۙ بیہ کاتھن شہرن ہند لوکھ سم تہمدہ سمہہ شہرہ کین لوکن ہندہ  
 خوتہ زیادہ طاقتور آس مال و دولتس تہ جاہ و حشمتس اندر۔ یہہ شہرہ کیولو کو تہمدہ پنہہ شہرہ منز کڈ تھہ بے گرہ  
 کتر ہوہ۔ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَصَرَ لَهُمْ ۙ تمی گال آسہ پنہہ عذابہ سیت۔ پس اوس نہ کانہہ اکھاہ تمن بچاہون نہ مد  
 کردون۔ تم لوکھ کیاہہ چیزے چھہ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُرِّيۡنَ لَهُ سُوۡءَ عَمَلِهٖ وَاَتَّبَعُوۡا  
 اَهْوَاۡهُمْ ۙ کیاہہ سنا تم لوکھ پنہہ نس پروردگارہ سزہ واضح تہ صاف وتہ پیٹھہ پکان آسن تم چھا برابر تمن لوکن

أَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنٍ وَأَنْهَرُ مَنْ لَبِنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ  
 مِنْ خَبَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ هَ وَأَنْهَرُ مَنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي  
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ  
 مَاذَا قَالَ إِنْغَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

سیت سمن پنہ نین پیچہ عملن زینت دنہ آو تو پتہ کمر تمو پتہ نین نفسہ چن خواہش ہنز پیروی۔ مثل  
 الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسِنٍ صحیح مقبول تہ پر ہیز گارن سیمیک وعدہ کرنہ آو  
 تہج کیفیت ہتھہ بیہنہ کہ ہتھہ منز آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ آبہ چہ نئس آب نہ مزہ ڈولمت آسہ ہتھہ نہ اکھ  
 ذرہ تغیر سہڈمت آسہ۔ نہ مزس منز نہ مشتکس منز نہ رخکس منز وَأَنْهَرُ مَنْ لَبِنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ بیہ آسن  
 واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ دودہ چہ سیمیک مزہ تہ ذائقہ نہ خراب گو مت آسہ وَأَنْهَرُ مَنْ خَبَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ  
 بیہ آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ شرابہ چہ ہتھہ منز سیٹھاہ لذت آسہ چینہ والین ہندہ خاطرہ وَأَنْهَرُ مَنْ عَسَلٍ  
 مُصَفًّى بیہ آسن واریاہ کولہ صاف کرنہ آمتہ بلنجہہ چہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 بیہ آسن تہمدہ خاطرہ پر ہتھہ تہ قسمک میوہ۔ بیہ پنہ نئس پروردگارہ سندہ طرفہ بوڈ مغفرت تہہ منز اثرہ  
 بروئٹہ۔ ہم لوکھ چھا کمنن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تہن لوکن ہی سم ہمیشہ  
 آسن نار جہنم اندر۔ توپتہ یکن تم چاونہ رسرہ وون نئس آندر من دوتہ دوتہ کر کیہ وَوَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ بیہ ہتھہ بعضہ لوکھ یعنی منافق سم تہمدہ تبلیغ ووعظکہ وقتہ ظاہرہ پاٹھ  
 کن دارتھہ تہمد کلام بوزان ہتھہ۔ ای محمد ﷺ تالیفکہ یلہ تم ٹہنرہ مجلسہ نشہ دوتھان ہتھہ تہ نیران ہتھہ قَالُوا  
 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنْغَا پرژھان چھ بعضہ علمہ والین صحابہ صابو آندرہ یہ کیاہ سافر مونی ﷺ  
 کر تہن وونی یلہ آس ہتھہ مجلسہ منز ہتھہ آس، گویا ہتھہ ظاہر کران کہہ سوئٹھہ آس نہ قابل توجہ۔ آسہ کورنہ

وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿۱۷﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ  
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿۱۸﴾  
فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

تو کن توجہ اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ سم گئے تھے لو کہ تم من موہر کٹر اللہ تعالیٰ ان تہم دین و کن پیٹھ۔ تم موکہ رود تم ہدایت نشہ دور۔ یہ پک تم پنہ نفسہ چن خواہش پتہ پتہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ بیوے منزہ تم لو کہ راہ راست پیٹھ چھہ تم چھہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت عطا کران یہ چھہ پر ہیز گاری ہند توفیق عطا کران یعنی تم چھہ خدیہ سندین احکامن پیٹھ پور عمل کران۔ امہ پتہ چھہ منافقن ہند حال بیان یوان کرنہ کہ تم چھہ قرآن مجیدہ احکام و دلائل بوزت تہ نصیحت مانان فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا معلوم چھہ سپدان کہ تم چھہ انکار کران قیامت۔ سو کیاہ گڑھہ بن تم ہنکہ معہ ادہ رٹن تم نصیحت ہر گاہ تی چھہ تیلے قیامتہ نزدیک چھہ کیاہہ تمک ڈیٹھ کتی علامتہ ظاہر سپد معہ چھہ۔ چنانچہ خود بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھہ علامت قیامت، شق قر چھہ علامت قیامت۔ نبوٹک اپزد عومے کرہ وین ہند ظاہر سپدان چھہ علامت قیامت فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ سمہ سائہ سو قیامت تم نشہ ولتہ تمہہ سائہ کتھہ پاٹھ ہیکن تم نصیحت رٹھہ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یلہ توبہ فرماں بردارن تہ نافرمان ہند حال بوزوہ لند آگڑھہ تہند گذشتہ زمانک پاٹھ آئینہہ زماںس منزتہ یہ کتھہ ہند پور یقین تھاؤن کہ کانہہ معبوداہ چھہ اللہ تعالیٰ اس ورائے۔ اتھ پیٹھ روزوٹھہ قائم یہ روزوٹھہ مغفرت منگان پنہ نین صوری خطا عاں ہندہ خاطرہ یعنی تہندہ معصوم آسجہ وجہہ آسہ نہ سہ فعل فی الحقیقت خطا مگر سمہ وجہہ کہ سہ آسہ سپد مت نخل تمہہ خوتہ افضل کامہ سیت مشغول سپدن۔ لہذا آسہ سہ تہندس شان ارفعس کن نظر کٹر تھہ ظاہری صورتس منز خطا لنبہ یوان۔



وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ<sup>۱۹</sup> وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَأَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا  
 الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ  
 الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ  
 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ<sup>۲۰</sup> فَهَلْ

بہ آسو منگان مغفرت با ایمان مردن بہ با ایمان زنان ہندہ خاطرہ تاکہ تداڑک روزہ سپدان تمن چیزان  
 تم گل چھہ ٹھندہ شانہ کس کمال دین یا ٹھندین آستین ہندس کمال دینس وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ  
 وَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھہ تھندہ پچنگ، یکک تہ گھہہ نک، ٹھہر نک تہ روزہ نک سوزی حال زمانان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ بہہ چھہ ونان تم لوکھ سمو ایمان اون تم پر تھہ وقتہ چھہ  
 آسان سمہہ کتھہ ہند مشتاق کہ کونہ چھہ کانہہ نوو سورہ شریفہ نازل گھہان تاکہ آس بوزہ ہو کلام خدا  
 ایمان گھہہ ہا تازہ بہہ بوزہ ہو تازہ احکام تمن ہند ثواب تہ کرہ ہو حاصل۔ خصوصاً ہر گاہ جمادک حکم تہ تھہ  
 منز آسا آس گرہ ہو خدیہ سزہ وتہ اندر جماد **فَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ** تو پتہ یلہ  
 نازل چھہ یوان کرنہ کانہہ مضبوط ناقابل نسخ، صاف صاف مضمونک کانہہ سورہ شریفہ تھہ منز چھہ اتفاقاً جماد  
 کرنہ نک حکم تہ آسان **رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ**  
 تھہ ساتہ گھہہہ نظر دن تمن لوگن گن بہندین وگن اندر نفاق بیسار چھہ۔ تمن چھہ وہ گھہان دستھ۔ تم  
 چھہ وچھان تو بہ گن یار رسول اللہ زن موتن پان چھہ آسان ہو موت تمہ سیت چھہ وہ ژھٹھ آسان  
 پھیر مژساری سے پانس **فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ** تمن آہ شہمت۔ تم سپدن عنقریب بلا یہ گرفتار۔ اگرچہ تم  
 چھہ فرصت کہہ وقتہ واریاہ تھہ اطاعت تہ فرماں برداری ہنزہ کران لیکن تھندہ اطاعت تہ تھن ہنز حقیقت  
 سہز معلوم جمادک حکم نازل سپدن سیت **طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ** تھندہ خاطرہ اوس بہتر ٹھہز  
 فرمان برداری کرن بہہ تو بہہ رت جواب پیش کرن۔ سمعنا و اطعنا دامن **فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ**

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿۲۳﴾  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿۲۴﴾ أَفَلَا  
 يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿۲۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا  
 عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ  
 وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿۲۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَمَّا كَانُوا خَيْرًا لَهُمْ ہنس ینہ مکمل سپد جہاد ک حکم صحابہ صاب سپدن جہاد کرنے خاطرہ تیار۔ ہنس ہر گاہ  
 ہم لو کہ تیر خدا ہنس نشہ پندرہ ایما تک تہ فرماں برداری ہند دعوای پوز ثابت کرن جمادس شامل سپدنہ  
 سیت، تہ ہجھ ضرور تہندہ خاطرہ بہتر **فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ**  
 پس کیاہ توہمہ چھا خیال کہ ہر گاہ تہہ ساری جمادہ نشہ پتھ روزو تہہہ کیاہ ہیو دنیاءس فتنہ وفساد قائم کرن۔  
 بیہ آشنائی پندرہ ژمنہ یعنی جاہلیتک دور بیہ زندہ کرن۔ تہہہ نہ ہرگز **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ**  
**وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ** ہم منافق ہجھ تھے لو کہ یم اللہ تعالیٰ ان پندرہ رحمتہ نشہ دور کمر مت ہجھ۔ تمی ہجھ  
 کنن زر پوومت۔ تمی ہجھہ تم خدایہ سند حکم بسمع قبول بوزان۔ بیہ ہجھہ باطنی اہتھن انیو تروومت۔ تمی  
 ہجھہ تمن راہ حق درینھی یوان۔ **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا** کیاہ ہم لو کہ چھنا  
 قرآن مجیدہ کین مضمون اندر غور تہ فکر کران کہ تہمدین دن ہجھہ غیبی قفل لگی مت **إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا**  
**عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ** بے شک ہم لو کہ پوت پھیر پڑہ نشہ ہدایت وارہ کارہ تمن  
 نشہ ظاہر سپدہ تھ یعنی اسلام تراو تھ سمویہ کفر اختیار کور **الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ** شیطان دیت  
 تمن کفرس زینت۔ بیہ تراو تھہ دن اندر زینتہ آرزو۔ یعنی منافقو کور اسلامس اقرار۔ تمہ پتہ تیج  
 حقانیت ظاہر سپدہ کور کہ وقتہ وزہ تھہ انکار جمادس شامل سپدنہ نشہ رود پتھ۔ شیطان تروو کہ وسوسہ  
 کہ لڑایہ منزے گڑھو تہہ گڑھو مارہ ہر گاہ یکتی روزو وارہیس کالس ہیجو زندہ روز تھہ **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا**  
**لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ** یہ تمن ہند مرد سپدن نیو وسمہ

فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۳۶﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ  
 الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿۳۷﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا  
 مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۸﴾ أَمْ حَسِبَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿۳۹﴾  
 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ  
 الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۰﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ

سیت کہ سمو منافقو دوپ تمن لوکن تمن ناہند چھہ قرآن مجید کی نبی کریم ﷺ پیٹھ نازل سپدن یعنی  
 یسودن کہ اسی گرو تہنز فرمانبرداری بعضے معاملن اندر۔ اس چھہ پن پان بظاہر مسلمان تہز وان مگر  
 اندرونی چھہ اسی تو ہی سیت۔ یہ کتھہ چھہ سم منافق ژورہ پاٹھ کران۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہنز ہ  
 سارے کنہ پھسرایہ پورہ پاٹھہ **فَکَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ** کس کیاہ سنا  
 حال آسہ ٹہند سمہ سارے زو کڈن تمن ملایک۔ تے آس تہندین تہن تھارہ لایان بیہ تہنز چھہ دگان  
**ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ** یہ امہ طریقہ ٹہند مرن چھہ اسی  
 موکھ کہ تم پاک تمہہ و تہ تھہ بیزار چھہ اللہ تعالیٰ بیہ کرہ سمو نا پسند تمہہ عملہ سمو سیت خدایہ سزہ  
 رضامندی حاصل سپدہ چھہ۔ کس کرہ اللہ تعالیٰ ان تہنز ہ سارے عملہ ضایع۔ **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ** کیاہ تم لوکھ بہندہ یں و کن اندر نفاق بیمار چھہ تمن چھا  
 گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کر نہ تہندین وئی عداوتن تہ بطن ظاہر **وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ** ہر گاہ اسی یڑھو اسی  
 ہاووہ توہیہ تم لوکھ **فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ** توہیہ چھو کہ تم ہرزہ ناومت تہند یو علامتو سیت۔ **وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ  
 فِي لَحْنِ الْقَوْلِ** بیہ پڑہ ناویو کہ تہہ تم تھن ہندہ طرزہ سیت کیا زہ تہنز ہ کتھہ چھنہ پڑہ دلہ پیٹھ  
 دو تھان۔ بیہ چھہ پڑیک اژدلس پیٹھ پوان **وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ** اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تہنزن  
 سارے کامین ہنز۔ سہ ویہ مسلمان پنہ اخلاص مزور۔ منافق نفاق تہ دھوکچ مزور۔ **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى**

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ ۝۳۱ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  
 تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالُهُمْ ۝۳۲  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
 أَعْمَالَكُمْ ۝۳۳ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
 مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝۳۴ فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا إِلَى  
 السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۝۳۵ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝۳۶

تَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ بیہ گروا س ضرور توہمہ سارنے آزما نیش مشکل تہ  
 سخت احکامو سیت۔ بیٹھ ظاہر سپدہ توہمہ منزہ کم ہتھہ جماد کرہ دن بیہ کم ہتھہ جمادہ کین تکلفین پیٹھ صبر  
 کرہ دن تہ ثابت قدم روزہ دن۔ بیہ گروا س تحقیقات تہندین سارنے حالائن ہندہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ  
 أَعْمَالُهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بیہ رتھہ لو کہ خدایہ سزہ وتہ نشہ لوکن دیتھ نہ دین اسلام  
 قبول کرنہ بیہ کتر کہ مخالفت تیغبر خدایہ سزہ تہن نشہ ہدایت صاف ظاہر سپدہ پتہ، تم ہیکن نہ کانہہ نو  
 نقصان واتہ تاوتھ خدائس کتھہ چیزہ سیت۔ اللہ تعالیٰ کرہ تہزہ سارے کامہ ضائع تہ بر باد یَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے باایمانو تہہ کتر وفرماں برداری خدایہ سزہ  
 بیہ تیغبر خدایہ سزہ بیہ کتر وپتہ عملہ ضائع إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ  
 كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بیہ کتر کہ خدایہ سزہ توہہ بندہ، لوکن دیتھ نہ تمہہ  
 وتہ پتہ توپتہ مود تم اتھہ حاس پیٹھ ادہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہرگز تہندین گوئس مغفرت فَلَا تَهْتُوا وَتَدْعُوا  
 إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ پس اے مسلمانو تہہ مہ سپد وپتہ

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا بُيُوتَكُمْ  
 أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْئَلُكُمْ بِهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلًا  
 وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ۚ هَٰئِنَّمْ هُوَ آتٍ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَمِنكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ ۗ

ہمت تہ سست۔ تہہ مہہ دیو کافر ان دعوت یوزے صلحس کن تمہہ سیت ہجھہ ذلت تہ پستی ننان تہہ چھوہ  
 تھہ تہ غالب ہہہ چھوہ توہہ پانہ خدایاری تہ مدد کرنہ خاطرہ سہ کرہ نہ ہر گز تہنزن عملن ہندس تو اس  
 اندر کی إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا بُيُوتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ یہ  
 دنیا ج زندگی چھہ مگر گنڈن تہ تماشہ۔ اگر کانہہ پن جان و مال ای دنیا خاطرہ بچاوہ تہ یہ تمحیح کیتہ کالہ  
 خاطر چھہ تہ امیک حاصلہ کیاہ چھہ آتھ بدل ہر گاہ تہہ ایمان آوہ تہ خدائس کھو ترویحے ایمان و تقوی اختیار  
 کمر و تھہ منز جہاد بالنفس و المال شامل چھہ، سہ کرہ توہہ پتہہ طرفہ پور مزدور عطا۔ ہہہ چھہ سہ توہہ نشہ  
 کنہہ نفعک تہ فایدک طلب گار۔ توہہ نشہ چھہ مکان مال تہندئس تمحی عطا کورمت چھوہ ان  
 يَسْئَلُكُمْ بِهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلًا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ہر گاہ اللہ تعالی توہہ نشہ سہ مال معہہ تہ زبردستی سان،  
 تہہ کمر و تھہ منز بخل، توہہ سپہہ مال خرچ کرن ناگوار۔ اللہ تعالی کڈہ تہ ظاہر کرہ تمہہ سیت تہندین دلن  
 ہند خیالات یعنی مال خرچ کرہ بچ ناگواری هَٰئِنَّمْ هُوَ آتٍ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُمْ مَنْ  
 يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ توہہ بوزووارہ کہ توہہ گوہ ناتسے یکن نادایوان چھہ دنہ  
 خدایہ سزہ ہو تہ اندر مال خرچ کرہ کس اندر حالانکہ تمیک اوس توہہ پانس نفع لیس بخل کران چھہ خرچ  
 کرہ کس اندر سہ چھہ بخل کران مگر پانس یعنی پن پان چھہ نفع دائی نشہ محروم کران وَاللَّهُ الْعَزِيزُ

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز۔ سہ جھنہ محتاج کا نسہ کُن بلکہ چھوہ نمی تس کن محتاج  
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ہر گاہ تہہ بتھ پھر و تہنزه فرماں برداری نشہ  
سہ آنہ توبہ بدل بھیس اگس قومس یم نہ تمہ پتہ توبہ ہی آسن۔ بلکہ آسن نہایت فرماں برداریہ کام یہیہ  
تمہی نشہ ہینہ۔



## سُورَةُ الْبُنْتِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ  
 مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝  
 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي  
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۝ وَاللَّهُ جُنُودُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ

بے شک اسہ کور توبہ عطا یار رسول اللہ ﷺ فتح یعنی صلح حدیبیہ۔ کس سبب پہ  
 سارنے فتح ہند لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مجتہد اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ توبہ بروظہمین  
 تہ پتہین صوری خطا ۛن وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ ہم پن احسانات اللہ تعالیٰ  
 توبہ نسبت کران رود مثلاً نبوت، قرآن مجید بیہ واریاہ علوم، واریہن اعمال ہند ثواب تمن احسانات اندر  
 کرہ بیہ زیادتی تہ تکمیل بیہ کرہ توبہ بیہ نعمت تہ عطا کہ تہندہ واسطہ سپدن واریاہ لو کہ مسلمان تمہ سیت  
 سپدن تہندی درجات تہد۔ توبہ سپدہ اجر و ثواب و قرب زیادہ عطا بیہ مجتہد توبہ پکنانہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راہ  
 را شمس پیٹھ کانسہ ہندہ مزاحمتہ وراے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا بیہ مجتہد اللہ تعالیٰ توبہ دشمن پیٹھ  
 یاری کرہ۔ سوے یاری مجتہد منزعت تہ غلبہ آسہ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ  
 لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ سہ معبود بر حق گووسی ہم پادہ کور با ایمان ہندین دکن اندر سکون قرار تہ  
 تحمل۔ مجتہد تمن ایمانس پیٹھ ایمان ہرہ تہ زیادہ سپدہ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہرورد گارہ  
 سنزے ہجھ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ ملائکہ وغیرہ مخلوقات۔ ہر گاہ سہ یژہہ آنا فانا منزہ بیہ سہ کافر ن

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

زبردست انتقام مگر **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** اللہ تعالیٰ ہرچہ سورے زانہ ون، پورحمتہ وول۔ تس ہجھ خبرکہہ ساتھ ہجھ لڑائی کرن مفید تہ گمہ ساتھ ہجھ صلح کرن مفید۔ سہمہ ساتھ جنگ کرہ نس منز مصلحت آسہ تمہہ ساتھ ہجھ تمہہ کوئے حکم فرماوان۔ تہنز گڑھہ چون وچراورائے تہہ منز شمولیت کرن۔ سہمہ ساتھ صلح کرہ نس منز مصلحت آسہ تمہہ ساتھ ہجھ تمہہ کوئے حکم فرماوان۔ تہند گڑھہ نہ تہہ اندررن و افسوس کرن۔ تہنز گڑھہ پریتھہ حاکس منز اطاعت کرن **لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا** تہہ تمہہ اطاعت و فرماں برداری سیت ولتہ ناوہ اللہ تعالیٰ باایمان مردن تہ باایمان زنان تہمن جتن منز سمو منز کولہ تہ جوہہ پکان آسن۔ تمنے جتن منز روزن تم ہمیشہ۔ بیہ تہہ اللہ تعالیٰ امہ اطاعت سیت تمن باایمان ہندی گناہ دور کرہ۔ بیہ بیان کرنہ آو۔ سہی ہجھ اللہ تعالیٰ اس نشہ بڈا میابی **وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ** بیہ تہہ اللہ تعالیٰ منافق مردن تہ منافق زنان، بیہ مشرک مردن تہ مشرک زنان تم گمان بد آس تھوہ ون خدا لیس نسبت کہ خدا کرہ نہ مدد تہ یاری حضرت محمدس تہ مسلمان **عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ** بیہ پیچہ مضیبت پنے تمن پانس۔ تمن ہجھ عنقریب پوت کھوریوہ ون۔ چنانچہ مشرک سپد تمہہ پتہ کینہ ون دوہن تان ختم۔ منافقن کنبہ عمر ڈاکی افسوس و حسرتس اندر۔ اسلام رود۔ روز بروز ترقی کران۔ منافق رُودر روز بروز خوار و ذلیل گڑھان۔ بیہ گوکہ دنیا س اندر **وَحُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا** بیہ ہجھ آخرس اندر تہندہ



وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ①  
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا ② لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ③  
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  
 فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ  
 اللَّهُ فَمَا يَبْغِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ④ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ

خاطرہ ای زہ اللہ تعالیٰ آسہ تمن بیزارتہ غضبناک بیہ کرہ سہ تمن پندرہ رحمتہ نشہ دور۔ بیہ تھوون تھندہ خاطرہ تیارنار جنم یوسہ سیٹھا بیچہ جای بچہ تھندہ واتنہ خاطرہ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا پروردگارہ سزے بچہ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ سہ چہ سیٹھا جمتہ دول تہ لہذا بچہ سہ تھندس عقوبتس اندر توتف کران إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا بے شک آسہ سوزہ تہہ یار رسول اللہ امتہ جن عملن ہند گواہ قیامت دوہ بشارت فرماوہ ون باایمان تہ بیم کرہ ون کافرن۔ اے مسلمانو آسہ سوز تم پیغمبر لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ بچہ تہہ ایمان انوخد ایس۔ بیہ تھندس پیغمبرس۔ بیہ بچہ تہہ تھندس دینس مدد کتر وہیہ بچہ تہہ تھند سیٹھا تعظیم کتر۔ اعتقاد تھاوہ سہ چہ موصوفہ صفات کمال۔ مزہ تہ پاک نفا بچہ نشہ۔ بیہ کتر و تہنز اطاعت وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بیہ بچہ تہہ بپاکی تہند یاد کران آسہ جس تہ شامس إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ پز پاتھ تم لوکہ توہہ سیت یار رسول اللہ حدیثہ کہ دوہہ جہادہ خاطرہ بیعت آس کران تم آس فی الحقیقت بیعت کران خدا ایس سیت۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ گویا خدا یہ سندا تھہ چہ تھندین اتھن پیٹہ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ پس ایس اکھاہ یہ معاہدہ پھڑ اوہ یعنی بجای اطاعت کرہ مخالفت تمہ عمد پھڑ اونک وبال تہ گوناہ چہ تہس پانس وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَا يَبْغِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بیہ ایس اکھاہ پورہ کرہ تھہ عمدس ایس تم خدا ایس سیت کورس دیہ سہ عنقریب بد مزور سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ



أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝  
يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۴  
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا  
ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن  
تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَيَقُولُونَ

وعدہ بوز تھ ایمان آو تہ گو وجان ورنہ و مَن کُم نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا  
سم نہ و عید بوز تھ تہ پڑھ کرن خدا ئس تہ تہندس رسولس ، ادہ متہ کرن۔ اُسہ چھہ تم پڑھ نہ کرہ  
و مین تہ منکرن ہندہ خاطرہ دزہ ون نار تھوومت۔ با ایمان تہ کافر ن ہندہ خاطرہ الگ الگ قانون مقررہ  
کرہ ئس پیٹھ گھہ نہ تعجب کرن و بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَغْفِرْ لِمَن یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ سے چھہ حکومت تہ سلطنت آسمان تہ زمین ہنز۔ سہ چھہ اختیارہ وول ئس  
خوش کر لیس ئس کرہ مغفرت۔ ئس خوش کر لیس ئس کرہ عذابس گرفتار۔ با ایمان ہندہ خاطرہ چھہ تہ  
یوڑھت مغفرت کرن۔ کافر ن ہندہ خاطرہ عذابس گرفتار کرن۔ سہ چھہ سیٹھہ مغفرت کرہ ون ،  
سیٹھہ رحم کرہ ون۔ ہر گاہ کافر تہ توبہ کرن تہ ایمان انن تم تہ کرہ مغفرت سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ  
إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ وون و ن توبہ اے مسلمانو تم ہم سفر حد ہیئس  
نہہ چھہ روزہ ون لوک آئن تمہ ساتہ نہہ ہیو پکن جنگ خیبرس کن تیک مال غنیمت حاصل کرنہ خاطرہ  
کہ اُسہ تہ ویو نہر نیر نہ۔ اسی پکو توبہ ہی سیت خیبرس کن یُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ تم چھہ یڑھان  
امہ سیت خدایہ سندس کلامس بدل کرن۔ خدایہ سند حکم اوس کہ ہم لوکھہ سفر حد ہیئس شامل اس تمین  
ورائے گھہ نہ جنگ خیبرس کانہہ تہ نیرن قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ نہہ  
فرما دیو کہ اے لوکو نہہ ہیو نہ اُسہ سیت ہرگز شامل سپد تھ تھہ پائٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان بروٹھ  
فرموومت فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا تم دنیوہ تورہ توبہ چھوہ سانہ فایدک از زون یوان ، اُسہ

بَلْ تَحْسُدُ وُنَتَابِلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ①  
 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ  
 شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا  
 حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ②  
 كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
 حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

سیت وچھوہ حسد کران۔ بَلْ تَحْسُدُ وُنَتَابِلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا از زرون تہ حسد بھنہ۔ بلکہ بھنہ تم اصل  
 مطلب فکر ی تران۔ یہ بھنہ تم زنان کہ یہ ما بھنہ تم سفر حدیبیہ نشہ بے وجہ پتہ روز نگ سزا۔ تمہ  
 علاوہ بھنہ تم فکرہ تران کہ یہ حکم سپد نازل وحیہ کہ ذریعہ اتھ منز بھنہ حسد آس تس تعلق قُلْ  
 لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ تہہ فرماو یا  
 رسول اللہ تم ی حدیبیہ نشہ پتہ روزہ وین بدین، ای لو کو ہر گاہ توہہ جنگ خیبر س منز شامل  
 سپد نہ، تہ کیاہ تمہ چھہ۔ ہر گاہ توہہ واقعی پز پاٹھ شوق بھنہ جماد کہہ ٹک ثواب حاصل کرنہ خاطرہ بن  
 توہہ واریاہ موقعہ چنانچہ عنقریب بیہ توہہ ناددہ آگس تو س سیت جماد کرنہ خاطرہ تم سخت جنگ کہہ  
 ون آس مراد بھنہ امہ قومہ اندرہ فارس تہ روم۔ تمہ کہہ تم سیت جماد یوتان تم آن مان اسلام  
 قبول کرنہ سیت یا جزیرہ ونہ سیت فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا پس ہر گاہ تہہ تمہ ساتہ خدیلیہ سُد  
 حکم مانو، جمادس نیر و اللہ تعالیٰ کہہ توہہ رث مزوری عطا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا  
 أَلِيمًا ہر گاہ تہہ تمہ ساتہ تہ روگردانی کمر و، بھنہ پاٹھ توہہ بروٹھ تہ روگردانی کر مش چھوہ اللہ تعالیٰ کہہ  
 توہہ کڈر عذاب۔ البتہ جمادہ نشہ بھنہ بعض لو کہ مستثنیٰ تہ کَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا  
 عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ چنانچہ بھنہ اُس پیٹھ کانہہ گوناہ بیہ بھنہ لگس پیٹھ بیہ یار س پیٹھ کانہہ گوناہ ہر گاہ تم  
 جمادس شامل سپد نہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ پس فرماں برداری

الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ  
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۙ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً  
 يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۙ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ  
 كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ  
 عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۙ

کرہ خدا یہ سزہ ہے تہمت پس پیغمبرہ سزئس واتا وہ اللہ تعالیٰ تمن جتن منز سمو منز رنگارنگ تہ قسم قسم کو  
 لہ پکان آسن وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لیس روگردانی کرہ، احکامولشہ بیٹھ پھرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ  
 کڈر عذاب لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تھتق راضی تہ خوش سُن اللہ  
 تعالیٰ با ایمان پیٹھ یلہ تم توبہ سیت یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آس کران بخر گلکس تل،  
 کافرن سیت ثابت قدمی سان جہاد کرہ نس پیٹھ پُن پان اسلامس پیٹھ فد کرہ نس پیٹھ فَعَلِمَ مَا فِي  
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ تعالیٰ آس اوس تہ معلوم یہ تہمتین دکن منز  
 اوس، اخلاص تہ عزم وفاداری ہند۔ پس ترود اللہ تعالیٰ ان تمہہ وقتہ تمن پیٹھ اطمینان تہ سکون سمہ  
 سیت نہ تمو حکم خدا مانہ نس اندر کئہ قسمہ پس و پیش کور۔ یہ دینکھ انعام امہ پتے بد فتح یعنی فتح خیبر  
 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بیہ کور کھ عطا سیٹھاہ مال غنیمت تہ پیٹھ تمو  
 قبضہ کور۔ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ غالب تہ قدر تہ وول، سیٹھاہ حکمتہ وول۔ سہ چھہ پتہ قدر تہ سیت حکمتہ  
 سیت نس یرشہان تس مناسب و تس پیٹھ فتح عطا کران فتح خیبر سے پیٹھ چھہ معاملہ ختم بلکہ وَعَدَّكُمْ  
 اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ اللہ تعالیٰ ان چھہ وعدہ کور مت توبہ سیت اے با ایمان  
 وار سکن مال غنیمت ہند تم توبہ حاصل کرہ سمو منزہ جلد پکن سردست یہ فتح خیبر عطا کر نوہ وَكَفَّ  
 أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ پیٹھ یہ واقعہ بیہ مال غنیمت

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۱﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَوَا  
الْأَدْبَارَ لَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي  
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾  
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ  
مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۴﴾

حاصل سُپَدَن اَکھ بوڈ نشانہ تہ نمونہ بنہ با ایمان ہندہ خاطرہ پروردگارہ سندن پزین وعدن پیٹھ تہ حضرت رسول کریمہ سزین ہزن پیشینگو تین پیٹھ بیہ بیٹھ اللہ تعالیٰ تھاوہ توہمہ حکم تہ مضبوط راہ راتس پیٹھ۔ تہی آسہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ پورا اعتماد کران **وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا** بیہ بیٹھ کرہ اللہ تعالیٰ توہمہ عطا بیا کہ فتح یعنی فتح مکہ یوسہ نہ ونہ تہندس قابو اس منز آرشہ چٹھہ مگر اللہ تعالیٰ سندس علس تہ تہندس احاطہ قدرتس اندر چٹھہ آرشہ۔ یلہ سہ بیٹھہ تمہہ ساتھ کرہ سہ توہمہ عطا سو فتح۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چٹھہ ہمیشہ پر بیٹھہ چیزس پیٹھ۔ قدر تہ دول **وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَوَا الْأَدْبَارَ لَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** بیہ ہر گاہ کافر توہمہ سیت صلح کرہ ہن نہ لڑائی کرہ ہن ضرور پھیرہ ہن تم پوت شکست کھیٹھہ کیا زہ تہندہ مغلوب سپدنک وجوہ اس موجودہ ہم بروٹھہ بیان کرنہ یں۔ توپتہ لبہ ہن نہ کانسہ اکس حمایت تہ مدد کرہ دن **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا** کافرن شکست تہ با ایمان فتحیہ چٹھہ قانون خدایہ سُپَدَن بروٹھہ پیٹھہ جاری کہ مقابلہ کہ وقتہ چٹھہ اہل حق غالب تہ اہل باطل مغلوب سپدن تہہ لبونہ یار رسول اللہ اتھ خدایہ سندس قانونس تہ دستورس منز ہر گز تغیر و تبدیل کئہ وقتہ امیک بدل سُپَدَن چٹھہ مئی کئہ چٹھس پیٹھہ آسان **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** سہ پروردگار گووسی تم کافرن ہندا تھہ پٹھہ رٹ توہمہ تکلیف و اتاوندہ نشہ یعنی توہمہ قتل کرنہ لٹہہ بیہ ہم تہند

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ  
 مَعْكُوفًا اَنْ يَّبْلُغَ حِلَّةً وَاُولَآرِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ  
 لَّمْ تَعْلَمُوْهُمُ اَنْ تَطُوْهُمُ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ  
 لِيَدْخُلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ

اتھ ہتھ رٹ تمن تکلیف واتا ونہ نشہ یعنی تم تہندہ اتھ مارہ گوہنہ نشہ عین مکہ شریفس نزدیک یعنی حد پینس منز توہہ تمن پیٹھ غلبہ دتھ تم آس تمہ وقتہ تہندس قابواس منز آمت ہر گاہ امہ وقتہ جنگ سپدہ ہاسہ روزہ ہاوار پینس کاس جاری۔ بیمہ جموعہ سپدس منز آسہ تمہ سپدہ ہن ضائع وکان اللہ ہما تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا اللہ تعالیٰ اوس تہزہ کامہ وچھان تمواندرہ تھہ پانھی آئے یکی شیتھ زنی توہہ تکلیف واتا ونہ خاطرہ۔ توہہ کروکھ تم گرفتار توپتہ آئی دوکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن بروٹھ کین۔ تمودوڑ بھ معانی۔ اللہ تعالیٰ اوس تمہ وقتہ تہزہ سارے کامہ وچھان۔ تمن کائین ہندین اثرا تن اوس زانان، تھی وژنوہ نہ توہ کام کرنہ تمہ سیت جنگ دو تھ ہا۔ **هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا اَنْ يَّبْلُغَ حِلَّةً** تم مکک لوکھ گئے تھے سمو خدا ہیں نسبت کفر تہ انکار کور۔ یہہ رٹ ہوہ تمہ ہتھ عمرہ کرہ نہ نشہ۔ مسجد حرامس اندر خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ یہہ رجھہ ہتھ تہندی قربانی ہندی جانور، سم مقام حد پینس اندر آئی بند کرنہ۔ تمن ڈیتھ نہ واتنہ قربان گرہن جانن اندر یعنی ٹہلی اس منز ٹیس مسجد حرامہ کیو تو ابوعواندرہ چھہ سم چیز آس منگان کہ مسلمانن لیہ ہا اجازت دنہ جنگ کرنہ نک تا لیجہ سم کافر سپدہ ہن مغلوب۔ لیکن بعضے حکمو سپزہ مانع امہ نشہ **وَاُولَآرِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمُ اَنْ تَطُوْهُمُ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ بَغَيْرِ عِلْمٍ** یہہ ہر گاہ واریاہ با ایمان مردتہ واریاہ با ایمان زنانہ آسہ ہن نہ مکہ شریفس منز تمن ہنز نہ توہہ خبرے آس خطرہ اوس کہ تم کر ہوکھ ہبہ جھہ کہ وقتہ لتہ مونجہ پس واتنہ ہا توہہ بے خبری منز سٹھاہ ضرر توہہ یہہ ہا ضرور جنگ کرہ نک اجازت دنہ مگر سہ اجازت آونہ دنہ کیا زہ **لِيَدْخُلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ** ہتھ اللہ تعالیٰ داخل کرہ ہا پانہ نس رحمتس منز

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاةً ابَا الْيَمَانِ ۗ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۙ

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ لَمْ يَخْلِقِيْنَ رِءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ

نہیں بڑھ رہا ہے اس اسلحہ سے شرف سیدنا سیدنا لَوْ تَرَىٰ اُولَئِكَ الْعَدُوِّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاةً ابَا الْيَمَانِ ہر گاہ تم با ایمان مردانہ ایمان زمانہ ہم مکہ شریف منہ آس تم شہرہ منہ اورہ پورگن گا متی آسہ ہن تہیلہ کرہ ہوا س تم لوکن ہموکھر کور مکہ کیو لو کو آندہ مسلمان ہند یو اتھو سیت کڈر عذاب اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ یہ واقعہ گوو تھی ساتہ ساتہ کافر و تھو دینہ بین دن اندر سخت تعصب تہ جاہلانہ جوش۔ ساتہ سببہ اشتعال انگیز تھہ ہیو کھ کر نہ سہ تہ اوس باعث کہ مسلمان کرہ ہن مشتعل سید تھہ جنگ شروع۔ یہ گوو تھی وقتہ یلہ صلح حدیبیگ مسودہ لیجھہ یوان اوس بسم اللہ تہ رسول اللہ لیجھس پیٹھ کر تمو کافر و مسلمان سیت ضد تہ ہت دھرمی فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ نہس کور اللہ تعالیٰ ان پتہ طرفہ صبر و تحمل تہ سکون پتہ نہس پیٹھ ہر سہ با ایمان پیٹھ ساتہ سیت تمو ضبط کور تم کلما تن ہندس لیجھس پیٹھ کور کھ نہ اصرار تا لیجھہ صلح حدیبیگ کمل کافر پتہ مارہ گدھنہ لغہ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا اللہ تعالیٰ ان تھو تم مضبوط تہ محکم تقویٰ کس کس پیٹھ سہ گوو کلمہ طہیس پیٹھ یعنی توحید و رسالت پڑھ پیٹھ یوسہ مقضیٰ چھہ خدا و پیٹھ ہر سدس کھمس اطاعت کرہ نہس واقعہ آس تم تھہ تقویٰ کس کس دیاعس اندر مستحق یہ آس امہ کس ٹو اُس لایق آخر نہس اندر وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا اللہ تعالیٰ چھہ پرتھہ چیزہ پور زانہ دن لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ لَمْ يَخْلِقِيْنَ رِءُوسَهُمْ




لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا  
 قَرِيبًا ﴿۲۷﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۸﴾  
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ

وَمُقَدَّرِينَ ﴿۲۹﴾ لَا تَخَافُونَ اللہ تعالیٰ ان ہو پونہ نس پیغمبرس پوز خواب لیس تم سفر حدیبیہ بروٹھ وچھمت اوس لیس واقص سیت مطابق اوس زہ ضرور اٹروٹھہ ساری مسجد حرامس منز بعضے آسن مس کاسٹھ تہ بعضے آسن مس کر پتھ خوف و خطرہ ورائے، امن و امانہ سان۔ امہ اندرہ چھہ مراد عمرہ تھہ منز چھہ آسان حلق و قصر یعنی مس کاسن تہ مس کر ہن تہ **فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا** پس زان تم یشہ مصلحت صلحس اندر پوسہ مصلحت نہ جہہ زانہ ہو۔ **فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا** پس کر اللہ تعالیٰ ان مکس منز فاتحانہ اٹرنہ بروٹھ اٹھ بیٹھے بیاکھ فحہ عطا یعنی فتح خیبر دویمہ وریہ در او خوابک تعبیر اللہ تعالیٰ ان کور تمن فتح عطا **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا** سہ پروردگار گوئے یم سوز ہن پیغمبر بڈہ ہدایتک سامان ہتھ یعنی قرآن مجید ہیہ پوز دین یعنی اسلام ہتھ ہتھ تھہ دینس غالب کرہ سارنہ دینن پیٹھ باعتبار حجت و دلیل ہمیشہ مگر باعتبار شوکت و سلطنت اہل اسلام بشرطیکہ تمن منز آسہ تج صلاحیت سو صلاحیت آسہ صحابہ صانن اندر لہنہ یوان۔ بس چھہ اللہ تعالیٰ امیک گواہ سہ چھہ تہندہ رسالتک تصدیق کران۔ اللہ تعالیٰ سنز گواہی دن گیہ کہ تمی کرہ دلیلہ قائم تہندس رسالتس پیٹھ ہس سپد دلائیلو سیت ثابت کہ **مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** حضرت محمد ﷺ ہتھ خذلیہ سند پیغمبر امہ سیت سپد تسلیاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دل مہدگس کہ ہر گاہ صلح حدیبیس منز کافر تہندس نام مبارکس سیت لفظ رسول اللہ چھنہ ووان لیکھنہ جہہ مہ حض گڑہ ہو آزر دہ آس چھہ قرآن مجیدس منز تہندس نام مبارکس سیت یہ لفظ لیکھان ہس قیاس تان باقی روزہ **وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ وَمَعَ آبَائِهِمْ** تم لوکھ اہس پیغمبرس سیت چھہ یعنی صحابہ صاب ساری تم چھہ کافرن ہدہ حقہ سخت تیز تہ زور آور۔ پانہ وان چھہ یعنی مسلمانن سیت سیٹھاہ رحم دل تہ

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  
 وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي  
 الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى  
 عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۶﴾

مہربان۔ وچھہ بچھہ ژہ اے مخاطب تم رکوع کران تہ سجدہ دو ان یعنی نماز پر ان یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ علامت تہندہ ہچھہ تہندین تھن پیٹھہ سجدہ کہ اثرک یعنی تہندی تھن ہچھہ نورانی ذلک مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ تسم صفت تہندی ہچھہ توراس اندر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ہچھہ انجیلس اندر تہندہ یوسہ صفت۔ تہنہ مثال ہچھہ زراعت مثال نِسْ كَذَانِ ہچھہ گوڈہ ہن لوٹک شاخ تھہ طاقنت دو ان یوتان سہ ویٹھان تہ پوٹھان ہچھہ، ایستادہ ہچھہ روزان پنہ نِسْ دَسْ تہ گوڈس پیٹھہ۔ پنہ نشوونما سیت ہچھہ حیران کران زمیندارن۔ یوحال ہچھہ صحابہ صائن ہند۔ ابتداءس اندر آس تم کی وارہ وارہ وڈکھ اللہ تعالیٰ ان ترقی لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ہچھہ ہچھہ ہچھہ دیاوہ تہندہ سیت کافرن۔ تم دزن حسدہ کہ نارہ سیت وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وعدہ تھو واللہ تعالیٰ ان تم لوکن سمو ایمان اون ہچھہ کر کیہ رژہ عملہ صحابہ صابو اندر ہڈہ مغفر تک ہچھہ مزورہ ہند



## سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا  
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ  
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے باایمانو پیشابنی مہ کمر و خدایہ سندس بیہ  
تہندس پیغمبرہ سندس کھمس ٹنہ تھہ منزیاٹنہ کامہ منزیعنے یوتان نہ جہند اجازت آسہ توتان گوشہ نہ پانے  
گفتگو گران پانہ وان۔ امہ آیہ کریمگ شان نزول ہٹھہ یہ کہہ کہ دوہہ آس قبیلہ بنی تمک کینہہ لوکھ آمنت  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدقس اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما  
ان در میان سپدا تھہ جلسہ منز گفتگو ہتھہ تھہ اندر کہہ تمن لوکن ہند حاکم کہہ کرون مقرر (ابو بکر صدیق ہتھہ،  
تم آس دپان ققاع بن معبدس نسبت، عمر بن الخطاب آس دپان اقرع بن حابس نسبت، گفتگو اس اندر  
سبزہ تہنزہ آوازہ بلند تھہ پیٹھہ سپدی تم آیہ کریمہ نازل وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ کھوٹرو  
خدائس۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہٹھہ تہنزہ سارے تھہ بوزہ ون، سارے کامہ زانہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اے باایمانو بلند مہ آسو کران آواز ہتھن نبی کریمہ سزہ آوازہ پیٹھہ  
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بیہ مہ آسو تمن سیت بڈھ تھہ کران ہتھہ پآھ تہہ بڈھ  
تھہ چھوہ کران اکھ آگس سیت۔ یامہ آسو تمن آلو دو ان نام مبارکہ سیت یا ٹنہ سیت ہتھہ پآھ آگس پئس تہہ  
آلو دو ان چھوہ بلکہ آسو آلو دو ان تمن تہندہ نبوتہ سیت یا عمدہ رسالتہ سیت۔ وان آریو رسول اللہ تہہ یا  
نبی اللہ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ہتھہ تمہ سیت ضالچ گوشہ تہنزہ عملہ توہرہ روزہ نہ خبرے

الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۳﴾ إِنَّ  
 الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾  
 وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن  
 تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿۶﴾ وَعَلِمُوا

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ  
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک ہم لو کہ پنہ آواز چھ پست کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم برودتھ کنہ  
 تہندی دل کمر اللہ تعالیٰ ان خالص تقویٰ و پرہیزگاری خاطرہ۔ تہندی خاطرہ چھ مغفرت تہ  
 بدمزوری آخرتس اندر إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ہم لو کہ توہر یا  
 رسول اللہ آلودان چھ حجرات شریفو نمبر کن تمواندرہ واریاہ لو کہ چھ بے عقل وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا  
 حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ہر گاہ تم ذرا صبر تہ انتظار کرہ کن یوتان تہ پائے تمن نشہ نیرہ ہوتہ  
 اوس تہندہ خاطرہ یش جان۔ ہر گاہ تم لو کہ ونہ تہ توبہ گرن تمن پیہ مغفرت کرنہ کیازہ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون تہندہ حقہ تمن پنہ غلطی ہندا احساس  
 سپد تھ ندامت پادہ سپدہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا اے ایمانور ہر گاہ کانہ  
 شریر شخصاہ توہر نش کانہ خبر اہ و اتاوان آسہ کانہ خلاف تھ آس زہ تہہ گوڈہ تحقیقات کران کہ سوچھا  
 پز خبر کنہ اپز أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ تھہ تہہ کنہ قوس یا جاتس پیٹھ  
 بے خبری منز کانہ تکلیف اہ و اتہ نا و سمہ سبہ تہہ سپد و پنہ غلط کارروائی پیٹھ تھ لاکہ نادم تہ پشیمان۔ سمہ  
 آہہ کر سمگ قبصہ نزول چھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوزی ولید بن عقبہ بنی مصطلقن نشہ زکوٰۃ  
 وصول کرنہ خاطرہ۔ ولیدس تہ تھہ قبیلس منز اوس زمانہ جاہلیتس منز عداوت ولیدس سپد توت گزھہ

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ  
 لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ  
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَضَلًا  
 مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۸

نس اندر اندیشہ۔ سمویلہ ولیدہ سیدہ بیگ بوز، تم در ای تس استقبالس تمس گوو گمان کہ ہم ہمارای تمس  
 قتل کرنے خاطرہ۔ سہ آواکس مدینہ منورہ۔ توت وکتھ وون پنہ خیالہ موجب کہ تم حض بہمہ مخالف  
 اسلام سپدی مت۔ حضر تو سوز خالد بن ولید تحقیقائہ خاطرہ۔ تمو کور تحقیقات وارہ پاٹھ توہتہ کور کہ  
 عرض تم حض چھہ مکمل طور اسلامس پیٹھ ثابتہ محکم۔ بعضے روایتن اندر چھہ کہ تم اہل قبیلہ آئے  
 پانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ۔ پتھ پانٹھی سپد نازل یہ آیہ کریمہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ**  
 بیہ زانوہم توہہ منز چھہ موجود پیغمبر خدا۔ تہہ مہ آسوا پز معاملہ پتھ تم نشہ یوان۔ اللہ تعالیٰ چھہ تم  
 اصل حالاتن پیٹھ مطلع کران۔ بیہ چھہ یہ تہمدہ خاطرہ پروردگارہ سزہ بد نعمت۔ امہ نعمتک شکر چھہ ای  
 زہ تہہ مہ کرو تم خلاف سنے معاملس اندر آدہ آس تن سہ دنیاوی معاملے تہہ مہ تھاوویہ خیال کہ تم کرن  
 دنیوی معاملس اندر پائے لہر لہہ سنی موافقت کیا زہ **لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ** واریاہ کتھ  
 چھہ تمہہ قسبحہ آسان کہ ہر گاہ تم منز تم ہنڈ زمان، توہہ سیت موافقت کرن تمہہ سیت وائتہ توہہ سخت  
 ضرر **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ** لیکن  
 اللہ تعالیٰ ان بچاؤے وہ تہہ مصیبتہ نشہ۔ پتھ پانٹھے کہ ایمان کاملک محبت کور نوہ عطا سہ حاصل کرن  
 کورن تہمدین دل اندر مرغوب تہہ پسندیدہ کفر تہہ فسق یعنی گناہ کبیرہ بیہ مطلق گونسن ہنز کرن توہہ  
 نفرت سمہ سببہ تہہ پریتھ وقتہ چھہ تلاش آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رضامندی حاصل  
 کرہ تک **أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ** سنے با ایمان تم تکمیل ایمانک دلدادہ چھہ، چھہ راہ راستس پیٹھ  
**فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً** پروردگارہ سیدہ فضلہ سیت تہہ مہر بانیہ سیت **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** اللہ تعالیٰ چھہ

الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ  
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

سورے زاندون سے سیٹھاہ حمزہ وول    وَإِن طَلَفَتِ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن  
 بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ    بیہ ہر گاہ باایمان ہنزہ زہ ہما شپانہ  
 وَاَن لِّرَأَيْكَ زَرْعٌ تَبَغَىٰ وَتَمَنُّ مَنْزِلًا، نِسْ جِزْ بَاعَثَ هُجْرًا لِيَهْدِيَهُمْ صُرُوفًا وَيُؤْتُوا مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ وَأَمَّا  
 أُنْدَرُ أَهْلُ جَمَاتِهِ بَيْتِ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ جَمَاتِ نِسْ  
 تَمَّ رَجُوعَ كَرْنِ خَدَلِيَه سَدَسِ حَمْسِ كُن    فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ    پس ہر گاہ سو جماعتہ سموزیادتی کرے یہ رجوع کرن خدلیہ سدس خمس کن، ادہ کرو  
 تَمَنُّ مَنْزِلًا صِلَاحِ عَدْلٍ وَانصافِ سِدْتِ بِيَه اَبُو پَرِيَه مَعَالِسِ اَنْدَرِ عَدْلٍ وَانصافِ كِ خِيَالِ تَهَاوَانِ بِيَه شَكِ  
 اللَّهُ تَعَالَىٰ اِسْ جِهْ عَدْلٍ كَرِهْ وَنِيَه بِنْدَه نَاهِجْ۔ اِسْ نِسْ تَوْبِهْ اصْلَاحِ كِ حَكْمِ كُورِ اَمِيَكِ وَجِهْ هُجْرَه كِه اِنَّمَا  
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ    باایمان چھہ دینس منز اشتراک  
 آسنہ سببہ پانہ وانے بائے بائے۔ یمن اَنْدَرِ هُجْرَه يَه اشتراک فی الدین نسب معنویاہ اکھ۔ پس کرو ہبہ  
 اصْلَاحِ پَنَدِ مِیْنِ بِلَسَنِ مَنْزِلِ۔ بِيَه كَهوژ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اِسْ كَانَسِهْ هِنزِ طَرَفِ دَاوَرِي كَرِهْ نَسْ يَانْتِقَامِي جَدُّ نِسْ كَامِ  
 بِنَسِ اَنْدَرِ، هُجْرَه تَوْبِهْ پِيَه رَحْمِيَه كَرِنَه    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ  
 مَهْ اَسْنِ كَانَسِهْ مَرْدَمَرْدَانِ پِيَه اَسَانِ تَه هُجْرَه كِرَان    يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ  
 أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ    شاید ما اسن هُجْرَه كَرِهْ وَنِیْنِ هِنْدِهْ خَوْتَه تِيَه مِیْنِ هُجْرَه چھہ یوان کرنہ بہتر تہ

مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ  
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۱۱  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ  
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝۱۲

افضل خدا ئیس نشیہ۔ بیہ مہ آسن زنانہ ٹھٹھہ کران بین زنانن کیا زہ شاید ٹھٹھہ کرہ و نین زنانن ہندہ خوتہ ما  
 آسن تے زنانہ بہترتہ افضل خدا ئیس نشیہ سمن ٹھٹھہ چٹھہ یوان کرنہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ بیہ مہ آسبو  
 اے مردو تہ اے زنان اکھ آگس طعنہ دوان تہ عاب ژاران وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بیہ مہ آسبو اکھ آگس  
 ناوتہ ریشہ کڈان بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ایمانہ پتہ گو ٹھک ناو لکن چٹھہ سیٹھاہ پیچہ۔ یعنی  
 ئیس پئس شخصس ریشہ کڈہ سہ چٹھہ پانہ گو ٹھگار سپدان۔ تہ پھنہ با ایمانہ سندہ خاطرہ جان یا چٹھہ مراد امہ  
 منزہ کہ یلہ کانہ ایمان اونمت آسہ گو ٹھونشہ توبہ کورمت آسہ تس گزہ سن نہ پامہ دہ برو ٹھن ٹھن تہ  
 کائین ہنزہ۔ یا آسہ کانہ شخصاہ، نس آسہ پیدائشی کانہ عاباہ تس تہ گزہ سن نہ تمک طعنہ دے تہ منز  
 کیاہ چٹھہ تم سندا قصور۔ سہ چٹھہ ٹٹھہ پتھہ کرالن تھور۔ تہ چیزس تھس طعنہ دین چٹھہ بے عقلی وَمَنْ لَمْ  
 يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سمن لوکھ نہ سمو چیز ونشہ توبہ کرن تم چھہ ظلم کرہ و نیو آندرہ یعنی حقوق  
 العباد تلف تہ ضائع کرہ و نیو آندرہ ئیس سزا ظالمن بیہ دہ سے سزایہ تھن تہ دہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اے با ایمانو چٹھہ روزو گماونشہ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ کیا زہ بعضے گمانہ چٹھہ گوانہ  
 آسان وَلَا تَجَسَّسُوا ژر ژران مہ آسبو کانہ یعنی کانہ اک سندین حالاتن در پے مہ آسبو روزان وَلَا  
 يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا نہ آسن توبہ آندرہ اڈی اڈین ہنز غیبت گران نہ عاب گزران اَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیاہ توبہ آندرہ چھا کانہ ئیس پنہ نس مُردہ بائی سندا کھیتہ ہیچہ فَكَرِهْتُمُوهُ  
 اچ چٹھہ توبہ یقینا نفرت ایتھہ غائتھہ کرن تھہ پاٹھہ چٹھہ توبہ پندہ۔ تہ گو اکھ قسمہ موگر تہ مردہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾  
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَأْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا  
 يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ


ماز کھيون۔ اچھے گڑھے توہمہ نفرت آسن مثابھتک وجہ چھہ یوہے کہ ہتھ پاٹھہ بائی سندا ماز کھيون تس بائی  
 سندہ تکلیفک باعث چھہ بنان تھہ پاٹھہ چھہ تسنز آبروریزی تہ تہندہ خاطرہ تکلیفک باعث بنان۔ اگرچہ  
 غایبانہ تہنزہ نامرغوب تھہ پھر نہ سیت چھہ تس تکلیف واتان مگرد ذات خود چھہ یہ امر سخت تکلیف  
 وہ۔ امی سببہ فرموو کہ مشبہ بہ آسنس اندر لفظ بیتا وَأَتَقْوَاهُ کھوڑو اللہ تعالیٰ اس، کانسہ ہنز غایتھ  
 کرنی تراوو، تمہہ نشہ کرو توبہ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سینھا توبہ قبول کرہ ون تہ  
 سینھاہ رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے لو کو کھہ  
 ساری کرہ اسہ پادہ اگس مردس تہ آس زناہ نشہ یعنی آدم علیہ السلام تہ حوا علیہا السلام نشہ۔ اتھ  
 منز چھو جہہ ساری برابر توپتہ تھہ کھہ منز فرق چھہ توبہ اندر سوہ گہ یہے کہ اسہ کمر توبہ اندر مختلف قوم  
 تہ مختلف قبیلہ تہ خاندان۔ تہ چھہ محض سہہ کھہ خاطرہ تھہ جہہ اگس پرزہ ناوتھہ بیکو۔ اگس پیٹھ  
 فخر کرنہ تہ تھینہ خاطرہ نہ۔ پر تھہ اگس چھہ بوڈ فخر شونت تہ پر ہیز گار آسن إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقْوَاهُ بے شک توبہ اندرہ چھہ زیادہ عزتہ وول خدا س نشہ سے سس زیادہ شونت تہ پر ہیز گار اسہ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اس چھہ پر تھہ اک سنزہ پر ہیز گاری ہنز پور خبیر۔ تس چھہ  
 پور علم س کیتھ چھہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَأْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ  
 فِي قُلُوبِكُمْ یم بعض دینی لکھہ بنی اسد وغیرہ چھہ ونان توبہ نشہ حاضر سپد تھہ کہ اسہ اون ایمان مگر یہ  
 چھہ تم وٹھہ ونان، وکس چھہ کھہ اچ پڑشاہ کینہ تہ، ٹہی فرماو یو کہ اے لو کو توبہ اونو نہ ونہ ایمان کیا زہ  
 تمہک آثار چھہ توبہ منز بہ چھہ ایمان موقوف تصدیق قلبس پیٹھ۔ لیکن جہہ ونوکہ وون سپدے اس  
 مطیع سہہ معنیہ کہ وون تراو اسہ مخالفت کرن۔ ونہ کتہ سپد ایمان داخل تھندین دن اندر۔ لہذا مہہ کرو





هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

سیٹھاہ پریشانی کرتھ۔ یہ گیارہ ہنزہ سیٹھاہ گستاخی۔ ہنہ فرماو یو کہ یار سول اللہ اے لو کو میہ پیٹھ مہ تھا و پینہ  
مسلمان سپدنہ سیت منت تہ احسان قطع نظر کترتھ ہنزہ گستاخی نشہ، تہنہہ اسلام آنہ سیت کیاہ نفع تہ  
فائدہ ووت میہ تہ تہنہہ اسلام نہ آنہ سیت کیاہ ضرر اوس میہ۔ ہر گاہ ہنہ پز زیار آہوتیلہ چھوہ امیک نفع  
آخرتس منز توہہ پائس۔ دنیوی نفع کہ ہنہ کیا بچے وہ قتل و قیدہ نشہ، یہ تہ چھہ توہہ پائس۔ میہ پیٹھ  
احسان تھاون گوو محض جہل بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ سنز توہہ پیٹھ بڈمنت تہ بوڈ احسان کہہ تھی ہا و وہ توہہ  
ایمائس کن و تھ، ہر گاہ ہنہ پوز و نان چھوہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ  
خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ زانان آسمان تہ زمین ہنزہ پوشیدہ کتھ۔ یہ چھہ سہ و چھان وارہ تہ  
سوزے یہ ہنہ کران چھوہ۔ تھی موجب دی وہ سہ توہہ جزاء۔ تس بروٹھ کنہ اپڑہ مہڑہ کتھ کرنہ اندرہ کیاہ  
فائدہ چھہ۔





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ ۝۱ بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ  
 فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ مُّجِیْبٌ ۝۲ ؕ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا  
 ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدٌ ۝۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا  
 كِتٰبٌ حٰفِیْظٌ ۝۴ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ نِّیْ اَمْرِ رَبِّیْ ۝۵

ق یہ حرف چھ حروف مقطعاتو آندرہ۔ امیک علم چھہ خدائیس وَالْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ تمہہ قرآن مجید چ درے پتھہ مجد و شرف چھہ بین کتابن پیٹھہ کہ اسہ سوزوہ ہتھہ قیامتہ عذابہ سیت لوکن کھوڑوانونہ خاطرہ مگر تمولو کو مومن نہ تہند بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ بلکہ سپد تمن تعجب پتھہ کتھہ پیٹھہ کہ کتھہ پاٹھہ آو تموے منزہ اکھ شخصہاہ نس بشر چھہ، بیم کرہ ون پیغمبر، تم تمی قیامتہ وہ بہ سیت کھوڑوہ ناوی فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ مُّجِیْبٌ اٹھ پیٹھہ لگی ونہہ کافر کہ یہ چھہ اکھ عجب قصاہ گوڈوہ نی چھہ بشرہ سُنْد پیغمبر بہت سُنْ عجب تو پتہ تم سُنْد یہ وُنْ کہ مرنہ پتہ پیو تہہ بہہ زندہ کرنہ ؕ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِیْدٌ کیاہہ اَسْ مَر و تو پتہ سپد و اسی میڑہ سیت میڑہ کیاہہ تو پتہ بیوہ اَسْ یہہ دوبارہ قیامتک دوہ زندہ کرنہ۔ یہ دوبارہ بہہ زندہ سُنْد چھہ عقلہ نشہہ تہ امکانہ نشہہ سیٹھا دور۔ اَمْرہ دعوائے محالہ سیت چھہ بہہ مَن پیغمبری ہند دعوائے کمزور سپدان۔ اللہ تعالیٰ چھہ امکانہ کہ ثبوتہ خاطرہ فرماں وان کہ امکانہ نشہہ کیاہہ چھہ بعید۔ ہر گاہ محل ہنزہ نا قابل حیات آسنہ موکھ چھہ تہندہ خیالہ تہ چھہ یہ بالکل باطل کیاہہ محل اندر چھہ حیات بالفعل موجود۔ ہر گاہ باعتبار فاعل چھہ یہ ناممکن کہ اللہ تعالیٰ اَسْ کیاہہ چھہ نہہ اجزاء متین ہند علم یا کیا پتھس نہ تصرف پیٹھہ قدرت، سانہ علمک شان تہ حال چھہ پتھہ کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتٰبٌ حٰفِیْظٌ اسہ چھہ معلوم کہ کم کم اجزا چھہ زمین موزون نشہہ کم کران تہ کیوان،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا  
 مِنْ فُرُوجٍ ④ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ⑥  
 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَبْنَيْنَا لَهُ جُدَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑦

زُوجِ چُھ موجود آتھ بلکہ اُس یشوہیہ پادہ گرن، تم ساری چیز کرو کہ اُس یہ جمع، یہ کتھ چھنہ کہ اسہ کیاہ  
 چھہ از تمن اجزان ہنز خیر بلکہ سون علم چھہ تمن اجزاءن متعلق قدیم۔ چنانچہ اسہ چھہ تمن اجزاءن ہند  
 ساری حالات درج کری مت اُس کتابہ اندر پتھ ناو چھہ لوح محفوظ سو کتاب چھہ اسہ نشہ از تان برابر  
 محفوظ، پتھ منز موزدن ہندین اجزاءن ہنز جای، مقدار تہ ساری صفت موجود چھہ۔ مگریم لو کہ کرن  
 توتہ اتھ اندر تعجب بلا وجہ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ یہ کتھ چھنہ یوسہ تم ونان چھہ  
 بلکہ چھہ حقیقت کہ تمو کور انکار پزس بلکہ تمن نشہ پوزوت غور تہ فکر کرنہ ور اے۔ پس چھہ تم ولنہ  
 آمتی اُس پیچیدہ معالسا اندر۔ کُنہ وقتہ چھہ تعجب کران تہ کُنہ وقتہ چھہ انکار کران سانہ قدر تک شان  
 چھہ بالکل ظاہر أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیاہ وچھان چھنا تم  
 لو کہ یم قیاس تہ مرنہ پتہ یہ زندہ سپدنس انکار چھہ کران آسمانس گن بس تمن بیٹھی کن چھہ، کتھ پاٹھی  
 بنو اسہ سہ تھووتہ بلند، کتھ پاٹھی دیت اسہ تھہ زینت ستار و سیت۔ یہ چھنہ تھہ غایت درجہ مضبوط  
 آسہ مو کہ کُنہ جایہ کانہہ کھر پتھاہ تہ پھر اٹھاہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ  
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ یہ چھہ زمیںس منز سان یہ قدرت ظاہر کہ سہ زمین و ہر و اسہ۔ یہ ترا و اسہ تھہ  
 پیٹھ کوہ بارہ خاطرہ لنگر ہی یہ کھاری اسہ تمہہ زمینہ اندرہ پر پتھ کسمی خوشنما چیز یہ سورے کور اسہ  
 تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ عبرت تہ بینائی دانائی ہند اکھ ذریعہ اسہ گن رجوع کرہ و بس پر پتھ  
 بندہ سندہ خاطرہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَبْنَيْنَا لَهُ جُدَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ یہ چھہ سان قدرت  
 ظاہر سمہ سیت کہ تر و اسہ آسمانچہ طرفہ برکتہ وول رود تو پتہ کھار اسہ تمی سیت باغ یہ تم پھل تہ

وَالنَّخْلَ بَسَقَتْ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٍ ۝۱۰ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ  
 بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ  
 الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝۱۲ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝۱۳ وَأَصْحَابُ  
 الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝۱۴  
 أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۵

غلات سم لونه جهه یوان وَالنَّخْلَ بَسَقَتْ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٍ بیہ کھار تمہ ستیہ اسہ زیتھ زیتھ خضر کل  
 سمن ہندی گردن پیوٹھس پیٹھس ایکس سیت دھتھتھ چھہ آسان رِزْقًا لِلْعِبَادِ پنہ نین بندن رزق دنہ  
 خاطرہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ بیہ کوراسہ تمی رودہ سیت زندہ مومت زمین۔ ستھ پاتھ  
 کیاہ نیزان قیامتک دودہ زمینہ منزہ ساری لوکھ یلہ سمن بڑین چیزن پیٹھ سان قدرت ثابت سپزہ موردہ  
 زندہ کرہ کس پیٹھ گزہ هنا اسہ قدرت آسن۔ پس یلہ مقدور ممکن بیہ فاعل عالم صاحب قدرت آسہ اتھ  
 صورتس منز کیاہیہ چھہ تجب و تکذیب کرہ نگ موقعہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ  
 وَثَمُودُ پتھ پاتھ مکہ کیوکافر و قیامتس انکار کوریتھ پاتھی چھہ انکار کورمت یمن بروٹھ نوح علیہ السلامہ  
 سند قومن بیہ کیر والیویہ قوم ثمودن وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ بیہ کور انکار قوم عادن، بیہ فرعونہ  
 سند قومن بیہ قوم لوطن وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ بیہ کلین تل روزہ و نیو لوکو۔ بیہ تیج سند  
 قومن۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ سمسو ساروے کور پنہ کس پنہ کس پیغبرس توحید و رسالتس، بیہ قیامتس  
 انکار فَحَقَّ وَعِيدِ کس سپدہ تہندہ حقہ عذابک وعدہ برابر تہ محقق۔ ستھ پاتھی سپدن یم منکر تہ عذابس  
 گرفتار۔ ذنیاس اندر تہ، آخرتس اندر تہ یا صرف آخرتس اندر یقینا أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ  
 فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کیاہ سنا اس تھمہ مخلوقات گوڈیچر لہ پادہ کرنہ سیت کہ وون کیاہ بیجو کہ نہ  
 قیامتک دودہ بیہ ڈبارہ پادہ کر تھ سم اتھ انکار کران چھہ تین نیشہ چھہ کا نہ دلایاہ بلکہ چھہ سم لوکھ ڈبارہ  
 پادہ کرنہ کس شکس اندر مبتلا سپدی مت کس نہ دلائیلن مقابلہ قابل التفات چھہ۔ پیٹھ آو بیان کرنہ کہ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُم مَّا تَوْسَّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ  
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿۱۷﴾ اذِنتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
 الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿۱۸﴾ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿۱۹﴾ وَنُفِخَ  
 جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدٌ ﴿۱۹﴾ وَنُفِخَ

مرنے پتہ پر زندہ سپد تک امکان چھہ ثابت بروٹھ چھہ بیان یوان کرنے تمیک وقوع چوہجہ تمہہ وقوعک  
 غایت یعنی مجازات چھہ موقوف پٹھہ جزاء دودہ ونس گزہہ اعمالن ہند علم تہ عاملس پیٹھ قدرت  
 آسن۔ لہذا چھہ گوڈہ تی بیان یوان کرنے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُم مَّا تَوْسَّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ تحقیق آسہ کور  
 پادہ یہ انسان یوسہ بدلیل چھہ سانس قدرتس پیٹھ یہ چھہ آسہ معلوم تم سندس دلس منز کم کم خیالات  
 چھہ یوان تم سزہ زیوہ پیٹھ یاتانوسیت یمہ کتھ کامہ لہنہ یوان چھہ تمہہ تہ چھہ آسہ بدرجہ اولی زانان۔ یہ  
 چھہ آسہ تہندین احوالن ہند تھے علم کہ کس چھہ پانس تہ تمن احوالن ہند تیوت علم پس چھہ آسہ انسانس  
 باعتبار علم قریب بلکہ اقرب وَعَنِ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بلکہ چھہ آسہ زیادہ قریب اس انسانس  
 گردنہ ہنزہ شہہ رگہ خوتہ یمہ رگہ ہندہ ژٹنہ سیت انسان ختم چھہ سپدان اذِنتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ  
 وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ سمن لوکن کرو بیان یلہ زہ رٹن والی ملٹھ چھہ اہس انسانہ سزہ عملہ ضبط کران تہ  
 رٹان یمہ عملہ تہ کامہ کس نشہ چھہ صادر سپدان تہ لہنہ یوان تے ملٹھ چھہس اکھ دچھنہ طرفہ تہ بیاکھ کھو  
 فرہ طرفہ بھتھ آسان مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ یہ انسان چھہنہ آسہ ہنزہ کانہہ کتھہ کڈان  
 کانہہ لفظاہ ونان مگرتان چھہ کس نشہ سان رچھہ تہ مگرانی کرن دول سہ لفظ لیکنہ خاطرہ تیار آسان۔ سہ  
 ہر گاہ نیکی ہنز کام آسہ کران تیلہ چھو سوکام دچھنہ طرفک ملٹھ لیکھان۔ اگر بدی ہنز کام آسہ کران  
 تیلہ چھہ سوکام کھو فرہ طرفک ملٹھ لیکھان وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ یہ آسہ مونتج سختی  
 نزدیک حقیقتا یعنی پریتھ شخصس پٹھہ موت قریب ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدٌ تمہہ ساتہ کیاہ یہ ونہ  
 اس انسانس یوہے کیاہ گووسہ موت سہہ نشہ ژہ ژٹان اوسٹھ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ یہ

فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۚ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ  
 وَشَهِيدٌ ۚ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ  
 فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۚ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۚ  
 أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عِنْدِي ۚ مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۚ  
 إِلَّادِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۚ  
 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۚ قَالَ

یہ دو سہمہ بھرہ پھو کہ دنہ پو غس منز سہمہ سیت ساری بیہ زندہ گوہن یو ہے دوہ کیاہ گووو عیدک سہمہ  
 سیت لو کہ آس کھوڑہ نادنہ یوان وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ بیہ بیہ سہمہ دوہہ پر تھ  
 اکھا میدان محشرس منز سیت آسیس اکھ ملگھ پکناونہ خاطرہ، بیا کہ ملگھ امہ سزمن کا مین ہند گواہ تہ  
 شابد۔ حدیث شریفس منز چھ کہ ہم زہ ملگھ آسن تھے تم دنیاس منز امہ سزہ رزہ تہ بیچھ عملہ لیکھا  
 آسن تم کافر آسن تمن بیہ ونہ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ  
 تحقیق اے انسانہ ژہ اوسکھ اژہ دوہہ نشہ غفلتس منز پیومت۔ از کیا تمل اسہ ژہ نشہ ٹھور تہ پردہ۔ وون  
 چھہ چان نظر از تیز۔ اے کاش دنیاس منز تہ ہے یہ غفلت تراوڑ اسہ ہی، ازما بیہ ہا بیہ روز بد پیش  
 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ بیہ دیس سہ ملگھ بس ام سزہ عملہ لیکھتھ تھوان اوس یکیا چھہ آئی  
 سہ نامہ اعمال میہ نش مکمل پاشی تیار اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عِنْدِي \* مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ اللہ  
 تعالیٰ فرماوہ تمن دون ملکن تراویون پر بیچھ سہ شخصہ بس کفر کرہ وون تہ پوزیک دشمن اسہ، رژو کا میونشہ  
 پتھ رژو وون اسہ، حدہ ڈلہ وون اسہ، دینس منز خبہ تہ شک پاوہ کرہ وون اسہ نار جہنمس اندر اِلَّادِي  
 جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ سہم خدا بس سیت بیا کہ معبوداہ تجویز کور مت اسہ  
 بیچھ شخص تراویون سخت عذابس منز۔ چوہیہ سہمن گرا کرہ وونین اندر اسہ شیطان تہ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا  
 مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ سہ شیطان بس اس سانس سیت سیت روزان اوس دپہ اے سانبہ

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝<sup>(۲۸)</sup> مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ  
 لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝<sup>(۲۹)</sup> يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ  
 وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ ۝<sup>(۳۰)</sup> وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝<sup>(۳۱)</sup>  
 هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيظٍ ۝<sup>(۳۲)</sup> مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

پروردگارہ میہ بنوونہ سرکش یہ شخص جبراً بلکہ اوس یہ پائے پختہ اختیارہ زتہجہ گمراہی منز بوڈومت اگرچہ میہ  
 تہ کمرس اتھہ گمراہی اندر مددہ ہن۔ لہذا اگرکھسہ نہ اکی سزہہ گمراہی ہند اثر میہ پیٹھہ بیون **قَالَ**  
**لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ** اللہ تعالیٰ فرمادیکھ میہ بروٹھہ کہتہ منہ کرو لڑایہ ہنزہ تھہ۔  
 سمہ تھہ چھہ بے سود، میہ ہٹھہ بروٹھہ توہمہ سمہ عذابک نیم کتانن تہ پیغمبرن ہندہ واسطہ کورمت کہ بس  
 کفر کرہ پائے یا کانہ ہندہ گمراہ کرہ سیت جبر آیا بلا جبر، سارنے دمہ بہ سزانا جہنمہ سیت **مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ**  
**لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ** میہ نشہہ بیہ نہ تبدیلی کرہ تھہ خمس بس جاری کرہ آمت ہٹھہ توہمہ  
 سارنے چھہ جہنمسن اندر دزن۔ بیہ چھس نہ بیہ تجویز کرہ بس اندر پنہ نین بدن پیٹھہ ظلم کرہ و ن بلکہ  
 کرہ تموپانے تہوہ ناشایان کامہ تمکن ہند سز از تم تکان ہٹھہ **يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ**  
**مِنْ مَّزِيدٍ** سہ دوہ پاووتھی ژیتس تمکن لوکن سمہ دوہہہ پر ڈھو اسی جہنمسن یلہ ساری جرم تھہ منزواتا  
 ونہ آسن آمت، برنہ آکھ؟ سہ دیہ بیہ چھاکینہہ؟ حدیث شریفسن منز چھہ آمت کہ اللہ تعالیٰ تھاوہ  
 جہنمسن پیٹھہ ہن قدم۔ تمہ پتہ دیہ جہنم، بس بس وون سُدس ہد، وون آس برنہ **وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ**  
**لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ** بیہ ہٹھہ جنگ بیان کہ جنت بیہ متقین تہ پرہیزگارن لکھ تکل آنہ دور آسہ نہ دپنہ  
 یٹھہ **هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ** یوہے کیا گووسہ جنت سمیک توہمہ وعدہ یوان اوس تھاونہ کہ یہ جنت آسہ  
**لِكُلِّ آوَابٍ حَفِيظٍ** پرہتھہ چھس شخصہ سدہ خاطرہ بس خدا بس کن دلہ سیت رجوع کرہ و ن آسہ یا تم  
 آپزہ نشہہ پزس کن، نافرمانی نشہہ فرمانبرداری کن، شر کہ نشہہ توحیدس کن بدعتو نشہہ شمس کن رجوع  
 کورمت آسہ۔ بیہ سارنے حقونں راچہ کرہ و ن سندہ خاطرہ، اعمال و طاعتن پیٹھہ پابندی تہ ڈاڈ کرہ و ن



وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿۳۳﴾ اِدْخُلُوْهَا سَلِيْمًا ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿۳۴﴾  
 لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿۳۵﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ  
 مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ اِهْلًا مِنْ مَّجِيْضٍ ﴿۳۶﴾  
 اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَهُوَ  
 شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ  
 اَيَّامٍ ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ ﴿۳۸﴾ فَاَصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ

سندہ خاطرہ من خشى الرحمن بالقييب وجاء بقلب منيب نيس کھوڑہ حضرت رحمانس وپھنہ ورائے،  
 بيہ ليس تس نغمہ ہتھ آوزجوع کرہ و ن دلاہ تمن بيہ و ننه اِدْخُلُوْهَا سَلِيْمًا اُتو جہہ اتھ جنٹس منز  
 سلامت ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ يوہے پٹھہ بھنگی ہند حکم جاری کرہ نگ دودہ از کہ دوہہ تمن ہندہ  
 خاطرہ سمہ جايہ ہند تجویز آو کر نہ تمن پٹھہ اتھ جايہ ہمیشہ روزن۔ بالیمان ہمیشہ جنٹس اندر، کافر ن  
 ہمیشہ جنٹس اندر لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ جنٹن ہندہ خاطرہ پٹھہ تمن جنٹن اندر تہ  
 سورے بيہ تم يڑھن، تچ تچ خواہش گرن۔ اسہ نشہ پٹھہ تمہ خوتہ سيٹھاہ زيادہ نعمو تمونعمو خوتہ تمن  
 ہنز تم خواہش گرن وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ اِهْلًا مِنْ مَّجِيْضٍ  
 بيہ گال اسہ تمن مکين کافر ن بروٹھ وارياہ جماژ مکر ن ہنزہ سم تہندہ خوتہ توئس اندر زبردست  
 آس۔ پس ييلہ تہندہ انتقامک وقت دوت تم ژائے واريہن شہر ن اندر گنہ جايہ ہنہ نا پٹھن جايہ مگر تم  
 ہيک نہ خدایہ سندہ عذابہ نشہ پنہ نين پانن گنہ جايہ بچاوتھ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ  
 اَلْقٰى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بے شک مين عبر تاک واقعا تن منز پٹھہ بوڈو عظ تمن لوکن ہندہ  
 خاطرہ تمن فجر کرہ و ن دل آسہ ياسم نصيحت وو عظک کلام بوژن و آرہ کن دار تھ، دل حاضر تھا و تھ  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ بے شک بيہ کر اسہ پادہ  
 آسمان تہ زمين بيہ بيہ تمن منز پٹھہ شين دوئن ہندس مدتس منز توپتہ سپز نہ بيہ پادہ کر نہ سیت تھکن تہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ<sup>(۳۱)</sup> وَمِنَ اللَّيْلِ  
 فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ<sup>(۳۲)</sup> وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ  
 قَرِيبٍ<sup>(۳۳)</sup> يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ<sup>(۳۴)</sup>  
 إِذَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْلَا الْمَصِيرُ<sup>(۳۵)</sup> يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

ماندگی یادہ دون کیاہ عجایب چھہ آسہ نشہ دبارہ پیدہ کرن توپتہ تہ ہر گاہ ہم لوکھ انکارے گرن فاصید  
 علی مایقولون ہتہ کمر وژید دشمن ہزن کھن پیٹھ یار رسول اللہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
 الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ بیہ کروٹہ خدلیہ سندیاد، تمسز پائی تم سندی حمد تہ تعریف بیان کرنہ سیت  
 آفتاب کھسنہ بروٹھہ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھہ امہ اندرہ ہٹھہ مراد صبح نمازیہ پیشمن تہ درگرمناز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ  
 فَسَبِّحْهُ بیہ کروٹھندیاد راؤ اندرہ ہتہ آگس وَأَدْبَارَ السُّجُودِ بیہ آسو تھندیاد کران فرض نمازوپتہ یعنی  
 سنت تہ نفل ادا کرنہ سیت وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ بیہ بوزاے مخاطب گن دار تھہ بیہ  
 کتھہ کہ سمہ دوہہ سارنہ مورڈن آلودیہ آلودوہ ون کتھ تلہ جاہ پیٹھ یعنی اسرائیل علیہ السلام پوغس  
 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ سمہ دوہہ بوزن ساری سو کرکھ وارہ پاٹھی ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ سہ  
 دوہہ کیاہ آسہ لوکن قبر و منزہ پیر نیرہ نگ دوہہ إِذَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْلَا الْمَصِيرُ آس چھہ بیہ نہ کانہ  
 سارنہ زندہ کران بیہ سارنہ ماران۔ بیہ چھہ آسی نشہ سارنہ پتولاکہ واٹن يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ  
 یرواعا سمہ دوہہ زمین مثر نہ بیہ سخن پیٹھہ تم نیرن تمہ منزہ دل دل ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ يُسِيرُ بیہ  
 تھن ہند سو نیراؤن تہ جمع کرن چھہ آسہ نشہ سہل تہ آسان غرض قیامتگ واقع سیدن آو بیان کرنہ  
 تبکار۔ امہ پتہ تہ ہر گاہ ہم لوکھ مانن نہ ہتہ مہ بروکانہ غم تہ فکر کیاڑہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ آس  
 چھہ زانان تمہ سارے کتھہ سمہ ہم دشمن تھندیان چھہ آس زانوپائے سخن سیت وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۳۴﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا  
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿۳۵﴾

﴿جَبَّارٌ﴾ جہہ چھوہ نہ خدایہ سدہ طرفہ تمن کن زور تہ جبر کرہ ونِ آمت سوزنہ کہ تم ہا یو لکھ ہتہ  
 زورہ مسلمان۔ ٹہنز کام ہتہ وعظ ہرن تہ نصیحت کرن۔ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ کہس  
 پتر و تہہ وعظ قران مجیدہ سیت تمن لو کن تم کھوژن عذابہ کس وعیدس۔



## سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالذَّرِيَّتِ دَرُودًا ① فَالْحَلِجَتِ وَقْرًا ② فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ③ فَالْمُقَسَّمَتِ  
 أَمْرًا ④ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ⑤ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ⑥  
 وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ⑦ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ⑧ يُؤْفِكُ عَنْهُ  
 مَنْ أُوْفِكَ ⑨ قَبْلَ الْخَرُوصُونَ ⑩ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ⑪  
 يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ⑫ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ⑬ ذُوقُوا

وَالذَّرِيَّتِ دَرُودًا تمن واولن ہند قسم تم گرد ہند کر او ان چھہ فَالْحَلِجَتِ وَقْرًا تمن او برن ہند قسم تم رو دک بورتلہ ون چھہ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا تمن ناون تہ جہازن ہند قسم یم نرمی سان آہستہ آہستہ پکان چھہ فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا تمن ملائکن ہند قسم یم زمینہ کین لوکن منز حکم خدا چیز تقسیم کران چھہ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ بے شک قیامتک بس وعدہ توہمہ سیت کرنہ یوان چھہ سہ چھہ بالکل ہز قَدَانِ الدِّينِ لَوَاقِعٌ بیہ چھہ عملن ہیندہ جزاءک دوہ ضرور واقع سپدہ ون وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ بیہ چھہ قسم آسماک چھہ منز ملائکن ہیندہ پچنہ خاطرہ و تہ چھہ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ بے شک توہمہ سارنہ ہنزہ تھہ چھہ قیاس متعلق مختلف۔ کانہہ چھہ تھہ تصدیق کران، کانہہ چھہ انکار کران يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُوْفِكَ سے چھہ امہ قیامتہ کہ وقوعہ اعتقادہ نشہ پھیران بس کلیتا خیر وسعادتہ نشہ پھیران آسہ قَبْلَ الْخَرُوصُونَ تباہ تہ بربادو ہن بے سند تھہ کرہ ون یم قیاس چھہ انکار کران دلیلہ ورآے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ سم جہالتس منز بوڈ تھہ غافل چھہ سپدہ بیت يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ سم پر ژہان چھہ ٹھہہ پاٹھ قیامت جزاءک دوہ کر آسہ۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ دیکو کھ تھی دوہہ



مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ  
 الْمَكْرُمِينَ ﴿۳۳﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا قَالِ سَلِّمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۳۴﴾  
 فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۳۵﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۳۶﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُرْ وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ  
 عَلَيْهِ ﴿۳۷﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي حَصْرَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ

پتھ۔ زمینس پیٹھ آونہ تمیک یقینی علم نازل کرنہ کنہہ خاص مصلحتہ سببہ قُورِبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَشَدِيدٌ  
 مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ کس پتھ آسمانن تہ زمین ہندس پروردگارہ سُنْدِ قَسَمِہ یہ جزاء ک دودہ پتھ  
 حق تہ پوزہ پتھ پاتھی ہنزہ پتھ گرہہ پتھ یقینی، اللہ تعالیٰ ان دیت قیامتہ کس واقعہ سُنْدِس تشبیہہ پتھ  
 کر نس سیت یعنی پتھ پاتھ انسان اکہ کتھ کران پتھ توپتہ چھوڑھوپہ کران توپتہ چھو بیاکہ کتھ ہیوان  
 کمران پتھ پاتھ کرہ اللہ تعالیٰ مرتھہ یہ لوکن زندہ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ  
 اے محمد کیاہ توہمہ نشہ چھاوتمت ابراہیم علیہ السلامہ سندن معز زپڑھین ہند قصہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ  
 فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا یلہ تم ژاے تمن نشہ توپتہ کرکھ تمن سلام قَالِ سَلِّمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ابراہیم علیہ السلامن  
 تہ فرمودکھ سلامہ ہند جواب سلام۔ یہ لگ ونہنہ ابراہیم علیہ السلام تم کم ساوہر موہوہوہہ معلوم  
 سُنْدِ اَن فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ توپتہ ژاے تم جلد باژن نشہ توره آے پتھ وڑھی سُنْدِ  
 مازنس گیوس منزاوس تلنہ آمت قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ توپتہ تھوڈکھ تمن بروٹھ کنہ تمویلہ  
 نہ توکن توجہ کوردو پتھ ہتھ کونہ چھوہ کھیوان۔ توپتہ تہ یلہ نہ تمو کھیو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تمہ سیت  
 گا برے تہ خوف زدہ سپدے تم تمن نشہ اندری کن دوپ تموکہ خبر چھا تم ما آسن دشمن ادہ کونہ پتھ تم  
 کھیوان مگر تمو پڑھیو ژیون تہند گا برن تہ خوف زدہ سُنْدِ اَن قَالُوا لَا تَحْضُرْ تمو دوکھ تمی مہ حض  
 کھو ژو۔ آس نہ حض ہندہ انسان آس چھہ ملگھ۔ وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ عَلَيْهِ سیت ون ہتھ بشارت آس عالم  
 فرزندہ سنز نس بیغیر آسہ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي حَصْرَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَفِيمٌ توپتہ آہ

عَقِيمٌ ﴿۳۹﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۴۰﴾  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا إِنَّا  
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۴۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۴۳﴾ مُّسَوَّمَةً  
 عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۴۴﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾  
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

اتھ حاکس منز بروٹھ کن تہنز آشین بی بی سارہ علیہا السلام یوسہ تہتہ تھے یہ تھہ بوزان آس، آیہ شور  
 تلان۔ تو پتہ لائن ڈیکس پنہ نس ژنڈا، بیہ لچی ذہنہ اکھ پھس بہ بدہ بیہ پھس ہانٹھ سہ تھہ سنپا ٹھی زیوہ  
 میہ پٹو پتھہ حاکس منز میہ اولاد زیون پٹھہ عجیب کتھاہ **قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ** تمودوپ ہس تجب  
 مہ کر ژہ آس چھاکنہہ بن وٹان یہ فرمود پتھہ پاتھہ چآن پروردگارن **إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ** بے شک  
 سہ پٹھہ سیٹھاہ حمتہ وول سیٹھاہ علمہ وول سہ پٹھہ کمال قدرتہ وول تس نعہ پھنہ کتھہ عجائب۔ ابراہیم  
 علیہ السلامس سپد معلوم نبوتہ کہ فرستہ سیت کہ تمکن ملکن پٹھہ امہ بشارتہ علاوہ بیہ تہ کیاہ تان مقصد۔  
 تھہ کن نظر کر تھہ **قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ** پرژہ ابراہیم علیہ السلامس تمکن ملائکن،  
 اے سوزنہ آتیو ملکو ہتہ گمہ ضروری کامہ خاطرہ چھوہ بیہ یور آمت **قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ**  
**مُّجْرِمِينَ** تمودوپ پٹھہ آس حض پھہ سوزنہ آمت نافرمان قومس آس کن یعنی قوم لوٹس کن  
**لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ** پتھہ ترا و آس تمکن پیٹھہ کھنگرن ہندگتہ پھٹل تمکن نارس منز پنہ آمت  
**مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ** تمکن پتھہ پھٹلین خاص نشانہ تھونہ آمت اوس تھندس پروردگارس  
 نشہ نافرمانی اندر حدہ ڈلہ وین ہدہ خاطرہ نشانہ اوسٹھہ امی خاطرہ کہ سمہ گوٹھن لگتہ تمکن ہم عقلہ تہ دینہ  
 کہ فطرتہ کہ حدہ نعہ ڈلت پھہ **فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ** یلہ تمکن ہسٹن پیٹھہ عذابگ  
 وقت دوت ہس کر یو واسہ ارادہ آس کڈو کہ تمہ شہرہ منزہ تم لو کہ تم با ایمان آسن تم تھاوو کہ آس علیہ  
**فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ** پس لوب نہ آسہ تھہ شہرس اندرا کہ گرہ و آسے کانہہ گراہ

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۷﴾ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ فَمَتَوَلَّىٰ بِرْكَيْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۹﴾ فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿۴۱﴾ مَا تَذَرُونَ شَيْءًا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۲﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۳﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ

مسلمانوں اندر، سہ گروہ اوس لوط علیہ السلام سید تم تھا ذاسہ عذابہ نشہ محفوظ۔ باقی کمر اسہ ساری ہلاک وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بیہ تر و اسہ تمن سنگ بارال کرتھ۔ تھہ شرس منز ہمیشہ خاطرہ بغانہ اکھ، تمن لوکن ہمدہ خاطرہ تم کھوژان آسن سانس کڈرس عذابس توپتہ آسن سمہ واقعہ نشہ عبرت رثان وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ بیہ ہتھہ عبرت موسیٰ علیہ السلام سیدس قصس اندرتہ بلہ اسہ سوز تم فر موسس کن نہ دلیل یعنی مجزہ ہتھہ فَمَتَوَلَّىٰ بِرْكَيْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ بس پھیر ہتھہ تم بیہ تم سند یوارکان سلطنو، سہ لوگ موسیٰ علیہ السلامس پنہ بیہ ہتھہ جادوگریا دیوانہ فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پس روٹ اسہ سہ بیہ جہد فوج توپتہ دیت دآرتھہ دریاوس اندر ہتھہ منز سہ غرق گوہ و لشکر ہتھہ۔ سہ اوس سیٹھاہ قابل ملامتھہ کفر و شرک نہ نافرمانی ہمدہ سببہ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ بیہ ہتھہ قوم عادہ کس ہلاک کرہ بس اندرتہ عبرتگی مقام بلہ پھیر اسہ تمن پیٹھہ بھش نہ وجہ واو، بس خالی اوس خیرہ نشہ یعنی تھہ منز اوس جہدہ خاطرہ شرے شر مَا تَذَرُونَ شَيْءًا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ سہ واو اوس نہ تراوان عنہ چیزس سمہ پیٹھہ سہ پکھہ ہاگر تھہ اوس چورہ چورہ کران، ناس نہ ذاس کران وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ بیہ ہتھہ قوم ثمودہ کس گلنس اندرتہ عبرتک مقام بلہ ونہ آیو تمن یعنی صالح علیہ السامن فرما یوو تمن نل تو تمسح نہ فائدہ زندگی ہند کم کینہہ کالاہ یعنی کفر و شرک نشہ نے باز ایو تیلہ



وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۲۴﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ﴿۲۵﴾  
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۲۶﴾ وَ  
 السَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَدُّوْنَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۲۷﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا  
 فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿۲۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۲۹﴾ فَفَرَّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۰﴾

بھتہ توہم ہلاک سہن فَعَتَوَاعِنَ اٰمُرِدِّيْهِمْ فَاخَذَتْهُمْ الصُّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ توپتہ تہ کرتمو سرکشی تہ  
 نافرمانی پنہ نس پروردگارہ سندس کھمس کس رٹ تم اکہ خوفناک کریجہ وچھان وچھان۔ یعنی عذابک  
 آثاریلہ ظاہر سہد تم آس تم آثار وچھان فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ کس ہیوک نہ تمو  
 تھو دو تھتھ کھ وکرسن کھر تھ مودساری۔ نہ ہیوک تمو اسہ نشہ تمیک بدلہ ہتھ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ  
 اِنْتَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیہ کراسہ سمن بروئھ ہلاک تہ بر باد نوح علیہ السلامہ سند قوم بے  
 شک تم آس سینھان نافرمان لوکھ وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَدُّوْنَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بیہ کورپادہ اسہ آسمان پنہ  
 قدرتہ سیت۔ بے شک سان قدرت پھھ سینھان وسیع وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ بیہ دہرو اسہ  
 زمین فرشک پاتھ۔ پس کیاہ رت ووتھر اوہون چھہ آس۔ یعنی اتھ ز مینس منز کم کم نفع تہ فائدہ تھادی  
 آس وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ بیہ کوراسہ پریتھ چیزا ہادہ جورہ جورہ، زرقم۔ امہ آندرہ پھھ  
 مراد پریتھ چیزس مقابل تھوؤ اسہ بیاکھ چیز، مثلاً آسمان تہ زمین، جوہر تہ عرض، گرمی تہ سردی،  
 مودر تہ ٹیوٹھ، لوکت تہ بوڈ، خوشماتہ بد نما، سفید تہ سیاہ، گاش تہ بگہ وغارہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہتھ توہم  
 سمومصنوعا تو سیت خدا سئد کن آسن فکرہ ترہ کہ موجودات پھھ زہہ تہ ہجت خالق موجودات پھھ کئے  
 طاقت تہ فرد فَرَّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اے پیغمبر برحق تھی فرما دو لوکن سبیلہ سم  
 موجودات و مصنوعات حضرت خالق سندس کن آس س پیٹھ دلالت کران چھہ پس پڑہ توہم کہ جہہ  
 دور وئس خدا یہ سندس توحیدس گن۔ بے شک بہ چھسوہ تھندی طرفہ توہم فکرہ تارنہ خاطرہ من پاتھ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ  
 مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ وَأَوْحَانٌ ﴿۵۲﴾  
 اتُوا صَوَابِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسَلُومٍ ﴿۵۴﴾  
 وَذَكَرْنَاكَ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ  
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

بیم کره ون۔ وضاحتہ سان چھسوہ و نان کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ بیہ مہ  
 ٹھہراوین اللہ تعالیٰ اس سیت کا نہہ بیا کہ معبوداہ۔ بے شک بہ چھسوہ تو بہہ ہندہ طرفہ بیم کره ون نین  
 پاٹھ اتھ منزسز زیادہ وضاحت کہ فقول الی اللہس منز چھہ توحیدک حکم، تھہ چھہ لازم نہی عن  
 الشکر۔ سہ گوہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اتھہ سیت آویہہ تاکیدہ خاطرہ ون نہہ بہ چھسوہ نین  
 پاٹھ خدایہ سدہ طرفہ بیم کره ون اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اے پیغمبر برحق جہہ چھوہ بیشک نذیر مبین۔  
 لیکن تم تھہند مخالف چھہ تھہ جاہل کہ تم چھہ تو بہہ سآحرتہ مجنون وان۔ تھہ کمر و اتھہ پیٹھ صبر، یہ  
 نوکتھہ چھہ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ وَأَوْحَانٌ تھہ پاٹھہ تم کافر  
 سمین برو تھہ گذرے تین نشہہ آونہ کا نہہ پیغمبر اہر دو تھہس یہ چھہ جادو گری امت تہ دیوانہ اتوا صوابہ  
 کیسا تم آہہ اہر اہر اوج وصیت کران تھی یہ تھہ برو تھہوہ و عمرہہ چھہ تھہ چھہ تم کافر تہ وان بَلْ  
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ بلکہ آس تم ساری سرکش تہ نافرمان۔ یعنی یہ تھہ ونہ تک سبب چھہ سرکش  
 تہ طغیان فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسَلُومٍ تھہس پھر و تین نشہہ پن توجہ۔ تین گن مہ کرو کا نہہ التفات تو بہہ  
 پیٹھ چھہ نہ الزام تھہہ کرو تھہن کام تو بہہ وان تو وہہ پیغام حق وَذَكَرْنَاكَ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تھہہ  
 روز و اطمینانہ سان پننی کام کران۔ تھہہ روز و لوکن نصیحت کران تین فخرہ تاران۔ بے شک و عظ و  
 نصیحت کرنس چھہ سیٹھہ فائدہہ بالیمان ہرہہ تھہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بیہہ کر میہ پادہ  
 جن تہ انسان خاص امی خاطرہ کہ تھہہ تم میانی عبادت کران مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ فَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝  
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

يُطْعَمُونَ بہ چھنہ تمہن نشہ رزق ڈھانڈان۔ نہ چھس بہ یرھان میہ کھیان تاکینہ لَئِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ بے شک اللہ تعالیٰ چھ سارے رزق عطا کرے وہ قوتہ وول تہ مضبوط  
 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ہس تمہن لوکن ہندہ عذابہ خاطرہ تہ  
 چھہ و آر ہنن مقرر خدا ہس نشہ سموپان پانس کفر و شرکہ سیت ظلم کور۔ چھہ پاٹھ برو نھنن کافر ن  
 ہندہ خاطرہ و آر چھہ مقرر ہس مہ کرن تم بانبر یعنی عذاب طلب کرنس اندر مہ کرن جلدی۔ سو ہنن  
 و آری ولتہ تمہ ضرور قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس چھہ بڈ خرابی تہ  
 افسوس تمہن لوکن ہندہ خاطرہ سمو کفر تہ شرک کور تمہہ دوہہ۔ سمہہ ڈہک تمہن وعدہ تھاو نہ یوان چھہ۔



## سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالطُّورِ ۱ وَكُتِبَ مُسْطُورًا ۲ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ۳ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴  
 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷  
 مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰  
 قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۱ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲ يَوْمَ  
 يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا ۱۳ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴

وَالطُّورِ کوہ طور چ درے وکُتِبَ مُسْطُورًا بیہ لیکھنہ آثرہ کتابہ ہمزدرے فی رَقٍّ مَّنشُورٍ یوسہ  
 مژرنہ آقس کاغذس پیٹھ لیکھنہ آثرہ چٹھہ۔ تمہ اندرہ چٹھہ مرادنامہ اعمال وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بیت  
 المعمورچی درے۔ سہ گوولمایکن ہمدہ عبادتک گرہ۔ لُس ستمس آسمانس پیٹھ چٹھہ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ  
 بیہ تھدہ پٹھ درے۔ یعنی آسمان وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ بیہ دریاسے پٹھ درے لُس آہہ سیت برتھ چٹھہ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک چانس پروردگارہ سہد عذاب چٹھہ کافرن تہ معبرن پیٹھ ضرور واقعہ  
 سہدہ ون نالہ من دَافِعٍ کانہہ چیزاہ چھنہ، کانہہ ہمد طاقت چھنہ تھہ عذائس پٹھ رٹن۔ یوسہ  
 عذاب سہدہ واقعہ تمہہ دوہہ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا سمہہ دوہہ آسمانس تھہ تہ تھرہ دو تھہ، سخت تھہ، سمہہ  
 سیت تھہ پھر اٹھہ تہ شکاف گوہن وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا بیہ سمہہ دوہہ وڈن کوہ عجیب طریقہ پنہہ جلیہ لغہ  
 وُلن قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ لُس بوین وال تہ افسوس تمہہ دوہہہ انکار گرہ ونین، یم توحیدس  
 رسائس تہ قیاس انکار کران آس الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ یم تکذبیہ کس شغلکس منزبے ہودگی  
 سان بوڈی مت آس يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا سمہہ دوہہہ تم لوکھ زورہ پکناونہ ین جہنمس لُن بیہ

اَفْسَحُ هَذَا اَمْرًا نَمَّ لَا تُبْصِرُونَ ۱۵ اِصْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا اَوْ لَا تُصْبِرُوْا  
 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۶ اِنَّ  
 الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَعِيْمٍ ۱۷ فَكَيْهِيْنَ بِمَا اَلَّهْمُ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ  
 رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۱۸ كُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا هِنْدًا لِّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۹  
 مُتَّكِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوْجًا مِّنْ حُورٍ عِيْنٍ ۲۰ وَالَّذِيْنَ  
 اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَا

دوان تہ دکہ دوان ونہ بیجھ ہذہ النار الی کنتم بہا تکذبون یوہے کیاہ گووہہ جنم تہہ تہہ لہز زمانا  
 آسوہ۔ بین آیتن منزاج خبر آس آسان تمن آیتن آسوا نکار کران دیان آسو تم آیات جہہ سحر افسح  
 ہذہ امر انتم لا تبصرون یہ جنم تہ ما پجھ تہندہ خیالہ سحر تہ جود۔ وارہ وہتھتھ ونوکنہ توہہ جہنہ در منٹھی  
 یوان کینہہ تہ اصلوہا فاصبروہا اولاصبروہا سوا علیکم اثراتھ جہنم اندر، ادہ جہہ صبر کر توایمتہ  
 کر توہندہ خاطرہ جہہ دوشوے چیز برابر انما تجزون ما کنتم تعملون یہ پٹھنہ مگر تمنے کایمن  
 ہند بدلہ یمہ توہہ کران آسوہ دنیاس اندر اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّ نَعِيْمٍ بے شک پرہیزگار آسن  
 جتن نعمت تہ سامان عیش منز فَكَيْهِيْنَ بِمَا اَلَّهْمُ رَبُّهُمْ خوش تہ خرم آسن تمونعموتہ مہربانیوسیت  
 سمہ یمن عطا کرہ مژہ آسن پروردگارن وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ بیہ آسن تم رہمت پن  
 پروردگارن جہنم عذابہ نشہ ونہ بیجھ كُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا هِنْدًا لِّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھیہ تہ چوبہ چھوہ بدلہ تمن  
 کایمن ہند یمہ توہہ کران آسوہ دنیاس اندر مُتَّكِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوْجًا مِّنْ حُورٍ عِيْنٍ تم جنتی  
 آسن تکیہ دی دی تھن پیٹھ سم لکھ لکھ تھاونہ آسن آمت۔ بیہ کروکھ تھتر حورن سیت تمن اچھہ ویچھہ  
 ویچھہ آسن یہ گووعام بالایمان ہند حال۔ امہ پتہ پٹھہ خاص بالایمان ہند ذکر یمن ہند اولاد تہ آسن بالایمان  
 وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَلْتَمَّ مِنْ عَلِيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
 سمولو کو ایمان اون تو پتہ پٹک تہند اولاد تہ تمنے پتہ پتہ ایمان آسن اندر اگرچہ عملہ کرکھ نہ تہزہ ہشہ

التَّانُومُ مِّنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ أَمْرٍ يُبَاكِبَ رَهِيْنُ ﴿۲۱﴾  
 وَأَمَدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا  
 كَأَسَا لَالْغَوُوفِ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ  
 كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿۲۴﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۵﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿۲۶﴾ فَمَنَّ  
 اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السُّوْمِ ﴿۲۷﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

آس ملہ ناووکھ تہمد اولاد تمنے سیت تہمدہ اکرام و تعظیمہ خاطرہ۔ بیہ یتھ تہمد دل قرار رٹن۔ بیہ گرو نہ  
 آس تہمز ن عملن اندر کنج کمی۔ مگر شرط ہجھ اولاد گروہن با ایمان آس نہ ہر گاہ تہ آسن تیلہ ہجھ کافر  
 اولادن ہند با ایمان مالین نشہ واتن نامکن کیا زہ کُلُّ أَمْرٍ يُبَاكِبَ رَهِيْنُ پر یتھ اکھ شخصہ ہجھ پنہ  
 نین گھرہ چن کا مین سیت نارس اندر بند کرنے آمت سہ روزہ مجبوس تہ ماخوذ تھن اندر کیا زہ کفر نشہ  
 نجات ہنہ نج ہجھ نہ کانہ صورتہاہ وَأَمَدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ بیہ ہرہ روو اسہ تمن جنتین  
 میوہ تہ ماز سہ قسمہ مزج تم خا ش تہ رغبت گرن پر یتھ دو بہہ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَالْغَوُوفِ فِيهَا وَلَا  
 تَأْتِيهِمْ بیہ آسن تم خوش طبعی پاٹھ تھپ تھپ تہ اکھ آس نشہ نج کوشش کران شرابہ کس تھ  
 پیالس تھ منز نہ بکواس آسہ نہ کانہ بے ہودہ کتھاہ آسہ عقل و متانتس خلاف وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ  
 غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ بیہ آسن تمن جنتین نشہ میوہ و غارہ چیز بروٹھ کن انہ خاطرہ پھیران  
 تہ اورہ یور کران۔ خوبصورت، لوکت یم تہمد خدمتہ خاطرہ مخصوص آسن تے آسن خوبصورتی تہ  
 حُسن و جمالُکس اندر پنے کہ کران ہاجتہ منز محفوظ تھونہ آمت موختہ ہی۔ تمن جنتین آسہ روحانی مسرت  
 تہ چنانچہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ متوجہ سپدن تمو آندرہ اڈی اڈین کن تھہ ہاتھ  
 کرنے خاطرہ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اثناء گفتگو س اندر دہن تم آس آس نادنیاء اس منز  
 پنہ نس عیالکس منز خدلیہ سدس عدائس کھوژان فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السُّوْمِ پس تھو بد

نَدُّعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۳۸﴾ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ  
 بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَّبِعُ بِهِ  
 رَبِّبَ الْمُتُونِ ﴿۴۰﴾ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۴۱﴾  
 أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۴۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
 تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا

مِتِ اسے پیٹھ خدائے اس رحمن جہنم کے عذابہ نے لاکھا من قبل نَدُّعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ہے  
 شک اس آس از کہہ بردنہ دنیا اس منزسی دعائے کان۔ بے شک سے چھہ سینہا احسان کرہ ون، سینہا  
 مہربان۔ توہہ نشیلہ اسے اسے قسمک مضامین سوز یمن منزجتہ کین لوکن تہ جہنمہ کین لوکن ہند حال  
 بیان آو کر نہ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ جس تھے مضمون بیان کر نہ سیت تارو  
 فجرہ یار رسول اللہ لوکن کیا زہ توہہ چھوہ نہ ہر گز خدایہ سنزہ مہربانی و فضلہ سیت کاہن تہ دیوانہ ہتھہ  
 پاٹھ تم مشرک و نان چھہ۔ توہہ چھوہ بے شک پیغمبر برحق۔ پیغمبرہ سنز کام چھہ مداومت کرن و غط و  
 تملینس پیٹھ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَّبِعُ بِهِ رَبِّبَ الْمُتُونِ کیاہ تم چھا توہہ شاعر زائتھ و نان اس  
 پیار و یمن زمانہ کین حادثات ہتھ پاٹھ بے شاعر ستر ستر ختم گئے تہ مودتھہ پاٹھ گوہن تم تہ سمہ عالمہ  
 قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ توہہ فرما دیو کہ یار رسول اللہ جان گو پیار و توہہ کہہ تہ پھس  
 توہی سیت پیارہ و نیو آندرہ و چھو کہتہ انجام سپدہ توہہ و چھو میون انجام کہتہ آسہ۔ میہ چھہ امید میون  
 انجام آسہ کامیابی تہ تہند انجام آسہ ناکامی اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیاہ تم چھا  
 عقلہ تہنزہ تمیک تمن دعوی چھہ یہ تھہ پچھہ ناوان کنہ تم چھہ سرکش تہ شری قوم کنہ رائدہ چھہ بینت  
 اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ تم چھا و نان کہہ یہ قرآن مجید چھہ آخضر توپانے بنوومت تہ  
 چھہ ہر گز بلکہ چھہ تم عنادہ سببہ اتھ قرآن مجیدس پڑھ کران۔ ہر گاہ بالفرض تی آسہ فَلْيَأْتُوا  
 بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تیلہ ان تن تم تہ اتھ قرآن مجیدس ہو کا نہ کلاماہ تم تے عربی

صِدِّقِينَ ﴿۱۱﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۱۲﴾ أَمْ خَلَقُوا  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿۱۳﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ  
 أَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ ﴿۱۴﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ  
 مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُبِينٍ ﴿۱۵﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۶﴾ أَمْ  
 تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُتَّقِلُونَ ﴿۱۷﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ

کلام کرہ نس بیٹھ قادر چھہ، فصیح و بلیغ چھہ چھہ تم اتھہ دغوی اس اندر پر زیر **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ**  
**أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** کیاہ تم چھا پادہ کرنہ آمت عنہ چیزہ وراے۔ یعنی پائے چھا پادہ سہ مت کالنہ خالقہ  
 وراے کنہ تمچہ چھہ پائے پانس پادہ کرہ وئی تہ خالق **أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ** کیاہ  
 تموے کرہ آسمان تہ زمین پادہ۔ بلکہ چھہ تم بوجہ جمالت توحید ک یقینی کران تمن چھہ پڑھے سج  
**أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ** کیاہ تمن لوکن نشہ چھا تمہدس پروردگارہ سندین رحمن  
 تہ نعمتون ہند خزانہ سمو نعمتو تہ رحتو اندرہ نبوت تہ چھہ کہ تمزہ خائمشہ مطابق کس سونبوت عطا کرن  
 یزھن کس کمرن عطا کنہ تم چھہ تمہہ محکم زٹھ تہ میٹھ بنے مت کس خوش کریکھ کس دیا و ان نبوت  
**أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُبِينٍ** کیاہ تمن نشہ چھا کانہ ہیراہ اتھہ بیٹھ

کھتھہ تم بوزان چھہ آسانچہ خبرہ۔ ہر گاہ تہ چھہ تیلیہ کمرن پیش تم خبرہ بوزہ و ان کانہ نہ دیلاہ سمہ  
 سیت ثابت سپدہ کہ تم کیاہ چھہ واقعی بوزمت وحی الہی **أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ** توحیدس انکار کرہ  
 و ان چھہ ملائکن دپان خدلیہ سنزہ کورہ۔ اے کافر و کیاہ خدائس کیا کورہ تجویز کرنہ سمہ توہہ پانس  
 نامر غوب تہ ناپسند چھہ تہ توہہ گوہ پنہہ خاطرہ پنچو **أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُتَّقِلُونَ** کیاہ توہہ  
 چھہ ہار رسول اللہ منگان تمن دین حق و اتادہ خاطرہ مزور تہ معاوضہ۔ تمہہ نقصانگ بور کیاہ چھہ ہیکان  
 تم برداشت کمر تھہ **أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ** کیاہ تمن نشہ چھا علم غیب پوشیدہ کتھہ واثر مژہ تمہ  
 کیاہ چھہ تمویکت تھو تھہ محفوظ تھو و اثرہ و و ان چھہ تمن کج ضرورتھہ۔ تمہہ غیبہ جن کھن بیٹھ اطلاع



فَهُمْ يَكْتُوبُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ  
 الْمَكِيدُونَ ﴿۲۲﴾ أَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾  
 وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿۲۴﴾  
 فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۲۵﴾ يَوْمَ  
 لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۲۶﴾ وَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾

آسنہ موکہ کیاہ چھہ تم قیاس اٹکار کران۔ اَمْ یُرِیدُونَ کَیْدًا فَالَّذِیْنَ کَفَرُوا هُمْ الْمَکِیْدُونَ کنہ تم  
 چھہ صاحب رسالتس نسبت کانہہ آزارتہ تکلیف وانہ تاؤن یرھان۔ بس ستمو لو کو کفرتہ انکار کورٹے  
 سپدن تھہ آزارس تہ تکلیفس منزبانہ گرفتار۔ چنانچہ تم سپد تھہ منزنا کام جنگ بدرس منزگے واریاہ  
 ڈاچھر کافرن ہندماہہ اَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَیْرُ اللَّهِ کیاہ تین چھامعبود برھس ورآئے بہہ کانہہ معبوداہ سُبْحَانَ  
 اللَّهِ عَمَّا یُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک تھو ساروے چیز و نشہ یم چیز تم لو کہ تہس شریک  
 ٹھہراوان چھہ مخالف لو کہ یعنی مؤثرک آس رسالتس متعلق و تان کہ آس مانون یہ صاحب نبلی پیغمبریلہ  
 تم آسانکہ طرفہ آسانچ اُکھ چھلاہ تراوہ تاؤن وَإِنْ تَرَوْا کِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا یَقُولُوا سَحَابٌ مَرْکُومٌ  
 ہر گاہ تم وچھن تہ آسانچ اُکھ چھلاہ وس پیوان توتہ ائن نہ تم ایمان۔ دہن یہ چھہ پیوٹھس پیٹھہ تھونہ  
 آمت اُکھ اوبرہ ژروتاہ۔ دون بیلہہ تم لو کہ امہ قسمک طاعی تہ باغی چھہ تمکن لوکن نغیر ایمانک توقع  
 تھاون چھہ بے کار فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ یُلَاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِیٰ فِیْهِ یُصْعَقُونَ ہس تراؤلو کہ حض یارسول اللہ تم  
 لو کہ پنہ نس حاس پیٹھہ یوتان تم سمہ کھن پنہ نس تھہ دوہس سمہ دوہہ تمین جس تہ ہوش وڈن یعنی  
 قیامتک دوہ یَوْمَ لَا یُغْنِی عَنْهُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ یہہ دوہہ نہ تمکن کانہہ فائدہ دیدہ پن  
 مکر تہ فریب ہس تم اسلامہ کس مخالفس منز دنیا س اندر کران آس نہ پیچھ کتہ طرفہ کانہہ مددہ کتر نہ  
 وَإِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ بیہ چھہ پڑی پاتھہ یکن ظالمن ہندہ خاطرہ

# وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

اگہ عذابہ قیامتہ عذابہ بروٹھے دنیا س منز مگر تموا ندرہ جھنہ اکثرن سہ معلوم۔ یلہ توہہ معلوم سپد کہ تہندہ خاطرہ چٹھہ اگہ وقاہ معین کرنہ آمت **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ** توہہ کرو حض پنہ نس پروردگارہ سندس خمس انتظار کرہ نس پیٹھ صبر توہہ مہ کرو اندیشہ اتیس کالس یکن پیٹھ عذاب نازل سپدہ۔ اتیس کالس ماوا تہ ناون تم توہہ کانہ تکلیفہ تمہ نشہ روزو توہہ بے فکر کیا زہ توہہ چھوہ آسہ نظرہ تکل سانس حفاظتس تہ راچھ اندر۔ ہر گاہ توہہ تہندہ کفر ک غم دلس پیٹھ یوان آسہ تمیک علاج چھہ کہ مجالس و نشہ ووتھنہ وزہ یانیدر نشہ بیدار سپد نہ نشہ آسہ توہہ پنہ نس پروردگارہ سند یاد کران تسبیح و تحمیدہ سیت **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ** بیہ آسہ وراتہ کس کنہ حصس منز تہ تہندہ تسبیح پران مثلاً حٹھنہ کہ وقتہ۔ بیہ تارکن ہندہ لوسنہ پتہ تہ یعنی صبح نماز آسہ پران۔ غرض ہن دل آسوخد لہ سببس یادس سیت مشغول تھوان۔ ادہ آسہ نہ غمن تہ فکرن ہند غلبہ روزان۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ① مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ② وَمَا يَنْطِقُ عَنِ  
 الْهَوَىٰ ③ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ④ عِلْمُهُ شَدِيدُ الْغَوَىٰ ⑤ ذُو

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم مجھ میہ ستارک ینلہ سہ لوسان مجھ۔ مجھ پاٹھ ستارہ مجھ پنہ نس ساری سے  
 مساقس اندر، طلوع پیٹھ غروبس تان اورہ پورڈلنہ ورآے سیوڈے پکان تہہ پاٹھ مجھ آنحضرت صلی  
 اللہ علیہ وسلم پنہ نس ساری عمر شریفش ابتداء پیٹھ انتہاءس تان گراہی وضلالنہ لغہ محفوظ۔ چنانچہ  
 یوہے مجھ جواب قسم یعنی اتھ کتھ پیٹھ مجھ قسم ہاونہ آمت مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ یہ تہند پرستھ  
 وقتہ سیت تہ بروٹھ کنہ روزن وول پیغمبر، یہمدین سارنہ احوالن تہ افعالن ہنز توہہ خبر مجھ، نہ ڈل تم  
 راہ راستہ لغہ نہ کرکھ بچ ڈتھ اختیار۔ ضلال گوسیز ڈتھ زانتھ چہ وتہ بکن۔ غوایت گوسوسیز ڈتھ  
 ترآو تھ یہ وتہ بکن وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نہ مجھ تم پنہ نفسانی خواہشہ موجب کلام فرماوان تہہ پاٹھ  
 توہہ ونان چھوہہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ تہند ارشاد مجھ خالص وحی آسان نس تمن کن سوزنہ یوان  
 مجھ خدایہ سیدہ طرفہ خواہسہ الفاظن ہندوحی چھ تہ قرآن ونان چھ، خواہ صرف معانین ہندوحی  
 مجھ تہ سنت ونان چھہ اصل مقصد مجھ نفی کرن تہہ خیالس نس کافر ونان اس کہ نعوذ باللہ تم کیاہ  
 چھہ خدایس کن نسبت کران غلط تھن، تہ ہرگز چھہ امہ پتہ مجھ اللہ تعالیٰ وحیک واسطہ بیان کران کہ  
 عِلْمُهُ شَدِيدُ الْغَوَىٰ کہ تہن مجھ امہ وحی تعلیم کران سہ ملک یعنی جبریل امین نس سٹھاہ طاقتہ وول  
 مجھ سہ طاقت چھن نہ حاصل کورمت بلکہ ذُو وَرَقَةٍ چھہ نس سہ طاقت ذاتی تہ ہیدائشی۔ تہہ پاٹھ آکس  
 روا تیس اندرپانہ جبریل امین پنہہ طاقتک بیان کورمت مجھ کہ میہ مجھ قوم لوٹجہ بستی ژمہ تلہ کھار تھ  
 آسانس تانیواتا وہ مژہ۔ آسانس قریب واتا و تھ مجھ تلگ پیٹھ کورمت۔ یوت چھ سہ طاقتہ وول۔  
 آکس سے طاقتہ واکل سیدہ ذریعہ مجھ یہ مقدس کلام توہہ تان واتا ونہ آمت نعوذ باللہ کانہہ شیطانہ سیدہ

مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ دَنَّىٰ فَدَلَّىٰ ۗ  
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ ۗ

ذریعہ چھنہ و اتانہ اُمت تاکہ تہیدہ کا ہن آسک آسہا احتمال۔ بلکہ چھہ ملائین ہندس سردارہ سندہ ذریعہ و اتانہ اُمت۔ سمہ تہہ ہند چھنہ احتمال کہ و اتانومت کیاہ چھہ ملکنے مگر خبر چھاوتہ ما آسہ تہس پیٹھ تصرف کورمت کانہہ شیطانن کیاہہ تہس ملکنس کور اللہ تعالیٰ صفت شدید القویٰ سیت۔ امہ اندرہ چھہ مطلب کہ شیطانہ سند مجالے چھنہ کہ سہ کیاہیچہ کنہ قسمک تصرف کمر تہہ اہس قوتہ و اہس ملکنس پیٹھ و حیک سلسلہ ختم سپدنہ پتہ چھہ پانہ اللہ تعالیٰ اَن اُمہ قرآن مجیدہ کہ حفاظتک، امہہ بعینہ ادا کرنگ ذمہ ہیوتمت نہ وعدہ کورمت اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وونی چھہ بیاکھ شبہ کہ اہس و حیرتس واسطس ملکنس سیت چھا تہمو تہہس اصلی صورتس منز ملاقت کورمت۔ تہہ متعلق چھہ ای زہ و واقعی تہہ چھہ لبندہ اُمت۔ متعدد دفعہ چھہ تموجبریل امین و چھتت بیس صورتس منز فاستوی پس سپد سو سیود ایستادہ اکہ بھرہ چھہ لبندہ اُمت کہ اصلی صورتس منز تہہ آوسہ تمن بروٹھ کن وھو بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ در حالیکہ سہ اوس آسانہ کین بلند کنارن پیٹھ آسانہ کین افقن نزدیک چھنہ چیز صاف بوزنہ یوان۔ وسطہ آسانس کن نظر دن چھہ باعث تکلیف سپدان افق اعلیٰ اس پیٹھ و چھن چھہ آسان تہی موکھ رود جبریل امین افق اعلیٰ اس سپدہ سیود۔ یہ گووتی دوہہ سمہ دوہہ تمو خواہش کر جبریل امینس نشہ کہ اے جبریل میہ ہاوڑہ پن اصلی صورت چنانچہ امام ترمذی سندہ روایتہ موجب آوودہ کرنہ کہ کوہ خراس نکھ تل، موضع جیارس منزیہ یہ بھل۔ پس اون تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہہ جاہہ تہہ پیٹھ و چھکھ جبریل

امین مشرقی افقن پیٹھ شبہ تہہ ہر مژرا و تہہ تے آس و اُمت مغربی افقن تان یہ و چھتھ سپدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش توپتہ پے ز مینس پیٹھ۔ توپتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل انسانی صورتس اندر تسکین دنہ خاطرہ تہہ ذکر چھہ امہ پتہ۔ الحاصل جبریل امین آو گوڈہ افق اعلیٰ اس پیٹھ اصلی صورتس منزیلہ تم بے ہوش سپدے توپتہ آوسہ تمن نزدیک انسانی صورتس منزنی گوو ثُمَّ دَنَّىٰ فَدَلَّىٰ تو پتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ہس آس تمن دون مزدون کمان یاثر جائے بلکہ تمہ خوتہ تہہ گئے عربک عادت اوس کہ یلہ زہ شخص پانہ و ان کمال اتحاد و اتفاقہ خاطرہ



## إِذْ يُعَشِّي السِّدْرَةَ مَا يُعَشِّي (۱۶) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۱۷)

اس گھٹل۔ تو پتہ چھہ و اتاوانہ یوان تمہہ عملہ تہہ پیٹھہ بعالم بالا۔ اتھ سدرة التہمی اس تل چھہ جبریل امینہ سُد مقام۔ روایا تو سیت چھہ معلوم سپدان کہ امہ سدرة التہمی ءک مول چھہ شیہ مس آسمانس اندر شاخ تہ لجنہ چھس سمس (۷) آسمانس پیٹھہ پتھہ پاٹھی جنتہ کین میون متعلق یہ تھہ چھہ کہ تمن چھہ دنیا کین میون سیت صرف لفظی اشتراک حقیقت چھہ سیٹھاہ مختلف۔ تنک میوہ سین نہ قیاس کرنہ دنیا کین میون پیٹھہ۔ دنیا کین میون بھنہ مناسیٹھہ کا نہہ تمن میون سیت۔ تھہ پاٹھہ چھہ سدرة التہمی اچ کیفیت سوی یوسہ دنیا کلین بریہ کین ہنز چھہ بلکہ چھہ تمن منز فرق یوس ز مینس تہ ستہ مس آسمانس منز چھہ

عِنْدَ مَا جَنَّتْ الْمَأْدَى اتھ سدرة التہمی اس نکھ تھہ چھہ با ایمان تہ نیک بندن ہندہ روز نچ جائے یعنی سہ جنت تھہ منز با ایمان نیو کار اخروی زندگی بسر کرن۔ امہ اندرہ سپد معلوم کہ با ایمان ہند مقام چھہ جبریل امینہ سندس مقاس نکھ تہ۔ الغرض کہ دو سہمہ بھرہ و چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سدرة التہمی اس نکھ تل۔ امہ پتہ چھہ یوان بیان سہ وقت سہمہ وقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اصل صورتس منز چھہ۔ **إِذْ يُعَشِّي السِّدْرَةَ مَا يُعَشِّي** یلہ سدرة التہمی دول تمو چیز و سمول۔ یعنی اللہ تعالیٰ سند انوار تہ تجلیات اس تھہ پیٹھہ ونہ آمت۔ ملائکین ہنز کثرت تہ ہجوم اوس تیوت کہ ہر پتہ و تھرس پیٹھہ اوس اکھ اکھ ملکھہ روز تھہ۔ اگس روایتس منز چھہ آمت کہ ملائکواوس اللہ تعالیٰ اس اجازت ہو تممت کہ اس تہ وچھ ہون محبوب خدا اس تہ کرہ ہو جنز زیارت۔ اللہ تعالیٰ اُن دیت تمن اجازت تھی موکھ آئے سدرة التہمی اس پیٹھہ سونہ سندین پنہ پونہرن ہنزہ ٹکلہ اندر۔ ابن کثیرن چھہ حضرت مجاہدس نعہ یم عبداللہ ابن عباسہ سندی خاص شاگرد اس سہمہ آیہ کریمہ کس تفسیرس منز یم الفاظ نقل کر مت کان أغصان السدرة لؤلؤاً و زبرجداً یعنی سدرة التہمی اوس تیوت خوبصورت تہ خوش رنگ، سہ وچھنہ سیت اوس دل و پھیران۔ تمہہ وقتہ اوس امہ کلیک رونق تہ حُسن و جمال تمہہ قسمک کہ کانسہ مخلوقہ سُد طاقتھہ چھنہ سہ کیاہ کرہ بیان الفاظن اندر۔ شاید حضرت صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلمہ سند دیدار خدا چھہ می آیہ کریمہ کس اشارس اندر درج آمت کرنہ سدرة التہمی یہہ تمیک بے انتہاء رونق یہہ بے شمار ملائکین ہند اجتماع یہہ جبریل امینہ سنز اصلی صورت و شکل و چھتھہ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى** دول نہ تھند نظر مبارک یعنی پتھہ ڈول نہ تہ وچھنہ نعہ

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿۱۸﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿۱۹﴾  
 وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ ﴿۲۰﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿۲۱﴾  
 تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضُفْرِي ﴿۲۲﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

سمجہ وچھنک حکم سپد کھ۔ نہ زینتھو تہند نظر مبارک تم چیز و پھنس کن سمن چیزن کن وچھنک حکم او سکھ  
 نہ۔ یعنی مستقل مزاجی سان۔ تہند مزید استقلال بیان کرنہ خاطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ  
 آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ بے شک وچھ تہمو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس پروردگارہ سہدہ  
 قدرتک بڈ بڈ عجائبات معراج شریفہ کین حدیث شریفن منز ہجھہ آمت کہ تم عجائبات گئے  
 حضرات انبیاء ان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات۔ جنک معائنہ جہنک ملاحظہ وغیرہ وغیرہ ہم  
 عجائبات خدایہ سے چھ معلوم کیاہ ہو نکھ۔ مگر تم ساری چیز و پھنس اندر اوس شان مازاغ البصر و  
 ماٹھی قائم۔ اے کافر و، مٹر کو حضرت رسول کریمہ سہ پیغمبر حق آئن، صاحب وحی آئن سہ متعدد  
 عقلی دلیلوسیت ثابت۔ تمی وجیہ موجب ہجھہ تم توحیدک حکم فرماوان مگر توہہ چھوہ توتہ پوتلین ہنز  
 پرستش کران۔ **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ \* وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ** کیاہ توبہہ چھوہ یمن پوتلین لات  
 عزئی تہ ملوۃ سہدس حاکس منز تہ زانہہ غور کورمت تاکہ توبہہ سپدہ ہا معلوم ہم چھا قابل پرستش کہ نہ  
 لات، عزئی تہ منات، ہم آس مٹر کن ہندین پوتلین ہندی ناؤ۔ لات اوس شہر طایف کین لوکن ہند بوڈ  
 پوتل۔ منات اوس قبیلہ، اوس و خزرج بیہ حرا عین ہند بوڈ پوتل۔ تہیم تہ ترسمہ درجک پوتل اوس مکہ  
 شریف نشہ دور مدینہ شریفس متصل اکھ پوتلاہ۔ عزئی آس آس قریش تہ بیہ پئی کنانہ ہمودوشوے خوتہ  
 بوڈ پوتل زانان نس مکس نزدیک موضع غلخس منز اوس۔ یا قوت حوی ہجھہ ونان مجم البلد انس منز کہ  
 کافر آس یمن پوتلین خدایہ سنزہ کورہ ونان۔ بیہ آس بعض کافر ملائکن تہ خدایہ سنز کورہ زانہہ معبود  
 زانان اللہ تعالیٰ چھ فرماوان کہ **أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ** کیاہ تہندہ خاطرہ گہ پچوی خدایہ سہدہ  
 خاطرہ گیہ کورہ۔ یعنی ہمہ کورہ توبہہ پنہہ خاطرہ ناپسند کران چھوہ تمہ گیا لگہ خدایس۔ سہ ہجھہ کورہ تہ  
 کبر آسنہ نشہ مہر انتہ پاک **تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضُفْرِي** یہ ہجھہ بے ربط تہ لغو تقسیمہ رُت چیز گووہ توبہہ پانس  
 پچھہ تہ خراب چیز گووہ نعوذ باللہ خدایس۔ یہ ہجھہ بنا بر عرف ونہہ آمت ورنہ خدا تعالیٰ چھ اولاد آسنہ نشہ

وَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ  
 إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
 الْهُدَى ﴿۱۳﴾ أَمَّا لِلنَّاسِ مَا تَمَنَّى ﴿۱۴﴾ فَلِلَّهِ الْأَخْرَعَةُ وَالْأُولَى ﴿۱۵﴾  
 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ

مبرا لہ پاک نہ چھہ، تس پھوی تہ نہ کوری اِن ہي الْأَسْمَاءُ سَتَيَّبَتْهُمَا أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ سمہ معبودات چھہ مگر ناوے یات سم توہہ تہ تہند یو مایو تہ بڈ بڈ پانے ٹھہر آوی  
 مت چھوہ۔ اللہ تعالیٰ اِن چھہ نہ سکن ہندہ معبود آج کا نہہ دلیلاہ نازل کر مثر اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا  
 تَهْوَى الْأَنْفُسُ بلکہ چھہ سم بہندس معبود آس منصر ف بے بنیاد خیال ن تہ نفسہ چن خا ہش ہنز  
 پیروی کران۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى حالانکہ تمن نشہ چھہ دو تمت تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ تس پیغمبر برحقہ سندہ واسطہ لیس پوز فرماوہ ون تہ خدا یہ سندس و حیس پیروی کرہ ون چھہ بوڈ  
 ہدایت یعنی پنہ نس دعویٰ اس پیچہ چھہ تمن کا نہہ دلیلاہ۔ تہہ بدل لیس دعویٰ پیغمبر خدا کران چھہ تم  
 چھہ بوزان مگر تو تہ چھہ مانان تہ تسلیم کران یمہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ سم لکھ چھنا ساین  
 معبودان باطلن ہنز عبادت تہ پرستش کران یمہ خیالہ کہ تم کیاہ کرن تمن شفاعت تہ سفارش  
 أَمَّا لِلنَّاسِ مَا تَمَنَّى کیاہ انسان بنیاتی سُمیک سہ تمنا کرہ تہ نہ نہ ہرگز کیاہہ فَلِلَّهِ الْأَخْرَعَةُ وَالْأُولَى  
 پر تہہ تمنا چھہ خدایہ سندسے اختیار س منز آخر تک تمنا تہ دنیا ک تمنا۔ پس بسدہ حقہ سہ یڑہ تس  
 کرہ تہند تمنا پورہ۔ یہ تھہ چھہ آثر بیان کرنہ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ تہند یہ باطل تمنا زانہہ تہ پورہ تم  
 معبودان باطل نہ ہیکن دنیا س اندر تمن شفاعتہ کر تھہ حاجت کڈنس منز نہ ہیکھ نکھ آخر تس اندر  
 شفاعتہ کر تھہ نجات دس اندر۔ سم پو تل تہ بے جان چیز کیاہ ہیکن شفاعتہ کر تھہ تمن منز چھہ تہج  
 اہلیت تہ قابلیتہ۔ تھہ دربارس منزیم لو کہ اہل تہ قابل تہ چھہ تم تہ ہیکن نہ بے اجازت کینہہ کرہ نگ  
 جراتہ کر تھہ چنانچہ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا واریاہ ملائکہ چھہ موجود آسمان



بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى<sup>(۳۷)</sup> إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى<sup>(۳۸)</sup> وَاللَّهُم بِهِ مِنْ  
 عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ  
 شَيْئًا<sup>(۳۹)</sup> فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا<sup>(۴۰)</sup> ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى<sup>(۴۱)</sup> وَبِاللَّهِ مَا فِي

اندر۔ تہمند شان تھوود آسجہ باوجود آیہ نہ تہمز شفاعت بکارکنہ چیزہ خاطرہ إلا من بعد ان یاذن اللہ  
 لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى مگر خدایہ سبہ اجازتہ پتہ نیس نہ شفاعت کرنہ خاطرہ راضی آسہ إِنَّ الَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى بے شک یمن لوکن آخرتجہ تہ قیامتجہ پڑھہ جھنہ بلکہ  
 تہہ انکار کرنہ سبہ جھہ تم سزاتہ باز مہر سہ نعمہ بے فکر سپد تہہ سیٹھاہ گستاخانہ تہہ کران چنانچہ دپان چھہ  
 ملائکن کہ تمہ جھہ زنانہ خدایہ سزہ کو رہہ (نعوذ باللہ) یہ جھہ تہمز محض جمالت ملائکن کیاہ سنا تعلق چھہ  
 مردیازنانہ آسہ سیت۔ خدائس اولاد آسہ سیت کیاہ تعلق چھہ وَاللَّهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ حالانکہ  
 تمنہ نعمہ جھنہ اتھہ پیٹھہ کانہہ دلیلاہہ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ تمہ جھنہ پیروی کران مگر بے اصل  
 خیالاتن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا بے شک بے اصل خیالات جھنہ پزس مقابلہ کانہہ  
 فائدہ بخشان یلہہ یہنہد عناد ثامت سہد معابدس نعمہ۔ قبول حق امید جھہ بیکار فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى  
 عَنْ ذِكْرِنَا پس پھر توہہ پن توجہ تس شخصس نعمہ ہم جھہ پھیر سانہہ وعظ و نصیحتہ نعمہ وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا یس نہ کانہہ خیالاہہ جھہ دیناچہ زندگی ورائے یہہ وجہ تس آخرتجہ پڑھے جھنہ آخرتجہ سزا  
 وعذابہ نعمہ جھہ تم بے فخر ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تہمہرہ ملک تہ فہمک نہایت جھہ یوہے دنیاہے  
 یوت یہہ نہ کینہہ۔ یلہہ یہہدہ فہم وداعہ ہند حال یہہ جھہ ہذا مہ برو تہہ تہمز کانہہ فکراہ۔ تہمہ معاملہ  
 پھر آوہ توہہ خدائس إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى بے شک تہمہ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۗ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ  
وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ  
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا

پروردگارے چھہ یژانڈون کہ ٹہہ چھہ تہزہ وہ تہ نشہ ڈولمت۔ سئی چھہ یژانڈون تس سم و تھ لب راہ  
را تس ن۔ امی سیت سڈ ثابت تہند کمال علم و لله ما فی السموات وما فی الارض بیہ چھہ خدایہ  
سند سے اختیار س منزہ سورئی یہ آسمان اندر تہ زمین اندر چھہ۔ امہ سیت سڈ ثابت تمسنز کمال  
قدرت۔ دون یلہ سئی چھہ صاحب کمال علم تہ صاحب کمال قدرت تہ تم سندن احکامن تعمیل وعدم  
تعمیل کہ اعتبارہ سڈ مکلفین اندر تہ قسم اڈی گے ضال تہ گمراہ اڈی گے متمد تہ ہدایت یاب لِيَجْزِيَ  
الَّذِينَ اسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحُسْنَى بیٹھ سہ بیچھ کامہ کرہ و نین عوض تہ بدلہ  
دیہ تمیک یہ تمو کور۔ بیہ بیٹھ سہ بدلہ تہ عوض دیہ تم سمر تہ کامہ کرہ رتہ مزورہ تہ جزایت۔ لہذا  
چھہ تہند یہ شان منگان کہ تس گڑھہ سورے منگ تہ ہٹراون الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ  
إِلَّا اللَّمَمَ تم لوکھ گئے تے سم بڑیو گنہو یعنی گناہ کبیر و نشہ بیہ بے حیائی ہنز و کتھو نشہ چھہ پتھ روزان  
مگرے تہندے کن لوکت لوکت گناہ آمت آسن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تہندس  
پروردگارہ سڈ مغفرت چھہ سیٹھاہ وسیع سہ کرہ تم گنہن مغفرت هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
سہ زانہ پور توہہ تہ تہندین حالاتن تہ پیٹھ پیٹھ تہ یعنی تہند جد بزرگو آدم علیہ السلام میوہ پادہ  
کورن۔ تہندس ضمنس اندر چھوہ تہہ میوہ نشی پادہ سڈ مت وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ بیہ چھہ  
سئی تہہ خوب زانان یلہ تہہ ماجن ہنز ن یڈن منز چہ آسہ۔ سمن دوشونی حالن اندر چھوہ نہ توہہ پتہ پانچ  
کینہہ خبر۔ اسہ چھہ تہندین سمن دونہ و ن وقتن ہند حال پور، معلوم و فی کینس تہ تہند پن حال نہ زان  
سون تہند حال پور زان۔ یہ عجیب تھہ تھہ بلکہ چھہ یہ حقیقت فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ یلہ تھہ کیے چھہ

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ۗ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى  
 قَلِيلًا وَأَكْدَى ۗ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى ۖ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ  
 بِبِأَنِّي صُحُفٍ مُّوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۗ أَلَا تَزِرُ  
 وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۗ

ہمس مہ آسو ہنکن پان مقدس تہ قابل تعریف زانتہ پانے ہنکن تعریف کران ہوا علمک بین اتقی پروردگارے زانہ پورہ پاٹھ تہن سم متقی تہ پرہیزگار ہتھہ تہس ہتھہ خبر کہہ شخص ہتھہ متقی تہ تہہ ہتھہ ادہ آسن تہن دو شونی نعتہ افعال تقویٰ ظاہر سیدان افروعت الذی تولى توہہ بوزوہ اوتان نیک لوکن ہند صفت۔ وون بوزو تہن بدل بین لوکن ہند حال۔ کیاہ توہہ وہتھونہ یار سول اللہ نہ شخص سم دین حقہ نعتہ روگردانی کرتہ ہتھہ پھیرہ واعطی قلیلاً واکدی بیہ سم وعدہ کتر تھہ کم کینہہ مال ذیت بیہ لوڈن اتھہ پیٹھہ۔ امام مجاہد وغیرہ چھہ فرماوان کہ سم آیات ہتھہ نازل سپدی متی ولید بن مغیرس متعلق۔ تمس پیٹھہ سپر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ وعظ و نصیحتک اثر۔ نہ سپر دو مالک ایمان اندہ نس گن۔ اک کافرن دون تہس بیہ مکر تہہ۔ چان ساری گناہ تلہ بہ پائس پیٹھہ چانہ حقہ نس سزا تجویز سید تھہ دمہ بہ ہن پان۔ بشر طیکہ تہہ دکھ مہ یوت مال۔ تم کورس اقرار۔ نس رقم مقرر آو کر نہ تمہ منزہ ذیت نس اکھہ قسط۔ بیہ کور نس باقی رقم دنہ نعتہ انکار اعندہ علم الغیب فہو یرى کیا تہس شخص نعتہ چھا علم غیب تھہ کیاہ ہتھہ نہ وچھان سمکھہ ذریعہ تہس معلوم سید کہ فلاں شخص سپدہ میانہ بدل عذابس گرفتار۔ املہ ینبأ بانی صحف موسیٰ \* و ابرہیم الذی وفی کیاہ تمس چھنا خبر کر نہ امر تہمہ مضمون چ نئس موسیٰ علیہ السلامہ سندین صھن منزہ ہتھہ بیہ نس مضمون ابراہیم علیہ السلامہ سندین صھن اندر ہتھہ سمو ہن قول و قرار پورہ کورمت ہتھہ یعنی سمو خدایہ سند ساری احکام پورہ پاٹھہ بجائنت ہتھہ نہ مضمون گوویو ہے کہ اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کا نہہ شخص تلہ نہ کانسہ شخصہ سندین گو نہن ہند بور سمہہ طریقہ کہ گوناہ کرہ ون کیاہ سپدہ گو نہو نعتہ بری۔ بیہ ہتھہ تہن صحیفن منزیہ مضمون کہہ وَأَنْ لَّيْسَ

وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى ۝ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ۝ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ

إِلَى الْإِنْسَانِ الْأَمْسَلَىٰ بے شک انسان سپدہ حاصل تی یہ تم پانہ کموومت تہ زیومت آسہ وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى بیہ مضمون کہ بے شک اہس انسانہ سُد جدوجہد تہ سعی وتلاش تعمیل احکامس اندر بیہ ملاحظہ کرنہ۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ تو پتہ بیہ کس تمیک پور بدلہ دنہ۔ باوجود آل چھاسہ شخص سعی و کوشش کرنہ نشہ غافل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون تمن صحیفن اندر کہ ساری لوکن پتولا کہ واتن تہمد سی پروردگارس نشہ لہذا تھہ پاٹھ چھہ بیہ شخص بے خوف تہ سوکھہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون کہ تہمد پروردگارے چھہ آسہ ناوان تہ ودہ ناوان وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا بیہ چھہ سے ماران تہ زندہ کران وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون کہ سے چھہ دوشونی کسمن نرومادس پادہ کران مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ اہس منی ہندس قطر س یلہ سہ قطرہ چھہ برحمس یعنی سچہ دانہ اندر واتاوندہ یوان۔ کس پروردگار اہس منی ہندس قطر س نرومادہ پادہ ہیکہ کتر تھہ کس نش کیاہ مہکل چھہ دوبارہ پادہ کرن وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ بیہ بیہ مضمون کہ دوبارہ پادہ کرن تہ چھہ تہمدہ وعدہ موجب تنس مہ یعنی یہ چھہ تہمہ طریقہ ضروری تہ تھہ پاٹھ کانہہ کانہہ کاماہ مہ آسہ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ بیہ بیہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ ای چھہ مالدار تہ غنی کران سے چھہ مال ودولت محفوظ تھوان یعنی مال ودولت تہ خزانہ تہ جائداد منقول چھہ سے دیوان۔ بعضے مفسرو فرموو واقنی بمعنی أفقر یعنی سہ چھہ مال عطا کران، سی محتاج و فقیر بناوان۔ ہر گاہ گوڈنیک معنی مراد بیہ بوزنہ تلہ گوڈنیک مقابل اہلک یس بروٹھ پین بیان بیہ کرنہ تیلہ گوڈنیک مطلب کس پروردگار مال ودولت عطا کتر تھہ چھہ نافرمانی ہمدہ سببہ ہلاک و برباد کران وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّمْعَىٰ بیہ چھہ بیہ

وَاقْنِي ﴿۴۸﴾ وَأِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴿۴۹﴾ وَأِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِأَوَّلَى ﴿۵۰﴾  
 وَتَبَوَّأْنَا فِيهَا بَقْيَى ﴿۵۱﴾ وَقَوْمٌ نُؤْتِرُ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلًا  
 وَأَطْعَى ﴿۵۲﴾ وَالْبُؤْتُفِكَاةَ أَهْوَى ﴿۵۳﴾ فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّى ﴿۵۴﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ  
 رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿۵۵﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَى ﴿۵۶﴾ أَيْنَ فَتِ

مضمون کہ سنے پروردگار چھ ستارہ شعری اک مالک۔ یہ ستارہ چھ اک بوڈ ستارہ بیٹھ عر بک بعضے لوکھ  
 آس پرستش کران یہ ذاتھ کہ عالمہ کین اکثر احوال اندر چھ امیک تاثیر۔ یہ نس آویان کرنہ کہ امہ  
 ستارہ شعری اک مالک تہ چھ اللہ تعالیٰ ای۔ دنیا بک ساری تغیرات چھ اللہ تعالیٰ سدس دست  
 قدر تس اندر۔ یہ ستارہ شعری تہ چھ اگس اوئی مزورہ سندی پاٹھ تسمند حکم بجانان۔ تس منز چھند  
 مستقل طور بذات خود کانہ تاثیر تہ اختیار۔ وَأِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لِأَوَّلَى بیہ چھ یہ مضمون کہ تمہی  
 پروردگار ن کر ہلاک بروٹھم قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام سند قوم تہندہ کفر و نافرمانی ہندہ سببہ وَتَبَوَّأْنَا  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى بیہ کورتی ہلاک قوم ثمود صالح علیہ السلام سند قوم۔ پس تھوون نہ تمو منزہ کینہہ تہ باقی  
 وَقَوْمٌ نُؤْتِرُ مِنْ قَبْلُ تمین بروٹھ کوزن ہلاک نوح علیہ السلام سند قوم إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلًا  
 وَأَطْعَى بے شک تم آس سارنے خوتہ زیادہ ظالم تہ شریرتہ سرکش وَالْبُؤْتُفِكَاةَ أَهْوَى بیہ کرین  
 ہلاک تلک پیٹھ کرنہ آمزہ بستی ہند لوکھ یعنی قوم لوط علیہ السلام۔ تم دین ہمیرہ پیٹھ بون دار تھ  
 فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّى توپتہ ول تم تمہی چیزن ہم ول یعنی پیٹھ او تمین کنہ رود کرنہ۔ تھ تل آی تم گالہ  
 امہ پتہ چھ بین سارنے مضمون ہوند نتیجہ بیان کران کہ اے انسان یکہ ژہ امہ باخبر کرکھ سمو  
 مضمون وسیت تم ذریعہ ہدایت آسجہ وجہ بجای خود خدایہ سزا کہ اک نعمتہا چھ لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ  
 تَتَمَارَى پنہ نس پروردگارہ سند یونعمو آندرہ کتھ نفیس کرکھ ژہ شک تہ انکار۔ تم کنیہ تم مضامین  
 تم صف ابراہیم علیہ السلام تہ صف موسیٰ علیہ السلام منز آس هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلَى یہ بیٹمبر  
 برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ نافرمان کہ عظیم الشان بیم کہ وناہ بروٹھمو بیم کہہ

الْأَرْزَاقُ ۵۹ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۶۰ أَفَمِنْ هَذَا  
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۶۱ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۲ وَأَنْتُمْ  
سَيِّدُونَ ۶۳ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۶۴

دنیا آندرہ۔ یہ پیغمبر مآنیوں جلد کیا زہ آرن فت الازرقہ نزدیک یوہون قیامت ہیون کھ یں۔ تم ہجھہ  
پیغمبر آخر الزمان۔ تمو فرموو بعثت انا والساعة هكذا بونہ قیامت آس سوزنہ آمرہ ہتھہ پاشی ہجھہ ہجھہ اشارہ  
ہوؤ کھ دو یوا انگشت مبارکو سیت۔ اکھ شہادتہ اوگجہ سیت بیہ منز مہ اوگجہ سیت لیس لہا من دون اللہ  
کاشفہ۔ بیلہ سو قیامت پنہ نس مقررہ و قس پیٹھہ بیہ ہتھہ چھنہ کانہ اکھاہ خدایس در اکی ہتھہ کڈہون  
پس چھنہ کانہ پیٹھہ بھروسہ کرتھہ بے فکری ہنز گنجائش آفمن ہذا الحدیث تعجبون کیاہ بیہ خوف  
ناک ہتھہ بوزتھہ تہ چھوہ تہہ ہتھہ خدایہ سیدس کلام پاکس نسبت تعجب کران وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ  
کیاہ بیہ چھوہ تہہ استہزاء تہ ہتھہ پآٹھہ بیہ قرآن مجید یوزتھہ آسان۔ عذابک خوف کھتھہ کونہ چھوہ تہہ  
ودان تہ روان وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ بیہ چھوہ تہی اطاعت و فرمانبرداری کرنہ نیشہ تکبر کران۔ امہ  
تکبر تہ غفلتہ نیشہ بیو باز مَس پیغمبر برحقہ سیدہ تعلیمہ موجب فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تکبر تہ غرور  
تراو و ہنی کلہ تراووز مینس پیٹھہ معبود برحقہ سیدہ خاطرہ ہنز بے کبر و کانہ آکس تس شریک تھاونہ  
ورائے عبادت روایاتن اندر ہتھہ آمنت سمہ ساتھ سورہ نحم پور حضرت رسول کریم، تمودیت بیہ  
آیہ کریمہ پترتھہ سجدہ۔ بیہ یم لوکھ اتھ منز مسلمانو اندرہ بیہ کافر و آندرہ آس، تمو ساروے تہ دیت بے  
اختیار پآٹھہ سجدہ۔ صرف اوس اکھ بد بخت کافر، تمی ج اکھ میوہ موٹھہ، سوی لاجن ڈیکس۔ دہنہ  
لوگ میہ ہتھہ ایڑے ہن کافی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝<sup>۱</sup> وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا  
 سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝<sup>۲</sup> وَكَذَّبُوا وَابْتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝<sup>۳</sup>

ہجرت بروٹھ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوہہ بازار منامس منز تشریف تھاوتھ۔ کافرن ہندتہ  
 اوس اکھ بوڈ جمعہ تہہ موجود۔ تھ اندر کری کافر و تمن نشہ معجزہ طلب۔ تمو فر موو کہ ای لو کو آسمانس  
 کن دیو نظر۔ اتی وچھ تمو ساروے کہ زونہ گئے زہ اڈ۔ اکھ حصہ پیو مغرئس کن بیاکھ حصہ پیو مشرقس  
 کن۔ یمن دون حصن سپدی کوہ حائل۔ یلہ ساروے لو کو وچھ یہ معجزہ۔ توپتہ میلی سیم دو شوے حصہ یہ  
 پاند وان۔ کافر لگ دہنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیوت زونہ پیٹھ جود کرون۔ یتھ معجزس جھہ وان شق  
 القمر۔ امام طحاوی محدث یہ علامہ ابن کثیر وغیرہ جھہ فرماوان یتھ واقص منز تو اتر یعنی یہ جھہ حدیث  
 متواتر۔ یہ واقعہ جھہ تاریخ فر شمس منز موجود۔ ہندوستانس منز جھہ مہاراجہ مالہبارہ سبہ اسلام آنہ تک  
 یوہے وجہ سہد مت۔ اللہ تعالیٰ جھہ فرماوان اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قیامت آیہ نزدیک۔ زونہ  
 گئے زہ اڈ۔ شق قمر جھہ نبی کریمؐ سند یو معجزہ و آندرہ اکھ بوڈ معجزہ امہ کس واقع سپد نس اندر جھنہ کانہہ  
 شکھاہ۔ اتھ جھہ صحابہ صابو آندرہ روایت کمر مژ حضرت علی مرتضیٰ ان عبداللہ بن مسعودن انس بن  
 مالک، عبداللہ بن عباس۔ حذیفہ بن الیمان، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عمر، بیہ تہ واریہو صحابہ  
 صابو آندرہ روایت کر مژ۔ اتھ واقص متعلق جھہ حدیث شریف بخاری شریف مسلم شریفین بین  
 حدیث شریفہ جن کتابن اندر۔ بخاری شریف اندر جھہ بروایت عبداللہ ابن مسعود سمہ کتھہ ہنز  
 صراحت کہ صحابہ صاب آس امہ واقعہ وزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت حاضر لفظ حدیث جھہ  
 یتھ پاٹھ کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آس آس پیغبر خدائیس سیت بازار مئی  
 اس اندر تمہ ساتیلہ یہ واقعہ سہد۔ امام بیہقی سندس روایتس اندر جھہ کہ ثور وطر فویم لوکھ مکہ شریف

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْإِنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا  
 تُغْنِ الشُّذُرَ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَهُ ۖ  
 خُسْعًا ۖ أَبْصَارُهُمْ يَعْجُرُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ۖ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۖ

وات تمودوپ کہ آسہ تہ وچھہ وتہ زونہ زہ حصہ سپدان پنہ نیو اہجھو۔ لوکن اوس لازم ہتھ مجرہ وچھتھ متاثر سپدان لیکن تہنز حالت چھہ یہ کہ **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّنتَشِرٌ** اگر ہم کافر کا نہہ معجزہ وچھان چھہ سہ وچھتھ تہ چھہ تم ہتھ پھر ان بیہ چھہ دپان یہ چھہ جوداہ اُس نبوتک دعویٰ کرہ و نیوپتہ و تھ پیش کورمت چھہ۔ ہتھ پاٹھ بروٹھین مدعیان نبوتن ہندس جادس تہ سحرس کینہہ دراونہ، جلدے گوو ختم ہتھ پاٹھ نیرہ نہ ہتھ تہ کینہہ کال یہ تہ گوہہ جلدے ختم **وَكَذَّبُوا وَابْتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ** یہہ تموکافر ولہزس پٹھ اصرار کمر تھ پزس انکار کوزبیہ کرکھ پنہ نین نفسانی خائش ہنز پیروی۔ تمی موکھ زوکلھ پوزاپز۔ معجزن دوٹھہ سحر تہ جود یمن ہند اثر جلدے ختم گوہہ ون چھہ۔ پر ہتھ کتھاہ چھہ پنہ نین اصلی حالاتن پیٹھ قرار کرہ وئی یعنی کینہہ کالاہ گوہتھ نہ پانے پزیک پوز آسن اپزیک اہز آسن۔ پانے چھہ لوکن زان فانی تہ گلہ ون کیاہ چھہ، باقی تہ پوشہ ون کیاہ چھہ **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْإِنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ** تحقیق واثرہ ہتھ تمن لٹھہ بروٹھین امتن ہنزہ تمہ خبرہ تمن منز کافی عبرت آس **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ الشُّذُرَ** یعنی تمن خبرن منز آسہ پورہ حکمتہ چہ تہ دانائی ہنزہ تھہ مگر تموتل نہ کا نہہ فایدہ تمو کتھو سیت پس چھہ کا نہہ فایدہ دووان تمن نیم کرہ و نین ہند نیم کرن۔ بیلہ تہنزہ حالتھ یہ چھہ۔ **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ** کس تراوونہ تہند خیال۔ ہن توجہ بھر ونہہ تمن لٹھہ۔ یعنی ہتھ قرآن مجیدس منز چھہ ہتھ تہ عقلہ ہنزہ کتھہ۔ کا نہہ شخصاہ اگر اتھ کُن نیک نیتی سان توجہ کرہ تہندس ولس پیٹھ پیہ ضرور اثر۔ مگر ہم لوکھ چھہ تھیں سنگ دل تہ بد بخت، یمن چھہ کا نہہ اثر سپدان۔ لہذا تراوونہہ تہ تہند خیال۔ سمہ وقتہ تمن امکہ عقوبت و عذابک وقت ولتہ سمیگ تمن نیم کرنہ یوان چھہ تمہ ساسہ و چھن تم امیک مزہ پانے **يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَهُ** سمہ دوہہ اکھ آلودہ ون ملکھ اکھ آلودیہ اگس ہنماک ناگوار چیزس اگس کُن **خُسْعًا أَبْصَارُهُمْ** تہنزہ اچھہ آسن خوفہ تہ ہیبتہ سیت بولن کُن۔ **يَعْجُرُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ۖ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ** قبر و منزہ نیرن تم تھہ پاٹھ زن تم چھہ کہ نہہ امت ہالو آسن۔ **مُهْطِعِينَ إِلَىٰ**



مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝ كَذَّبَتْ  
 قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ ۝ ۱  
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝ ۱۰ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ  
 مُّسَهَبٍ ۝ ۱۱ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ ۱۲  
 وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّارِ وَدُوسِرٍ ۝ ۱۳ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ

الدَّاعِ قبر واندرو نیر تھ ہن تم دورن آلودوہ ونس کن یعنی حساچہ جلیہ جمع سپدنہ خاطرہ آلودوہ ون  
 آلودوان آسہ۔ متہرچہ بے شمار تختیہ وچھتہ یَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر آسن دنان یہ دودھ چھہ  
 سٹھبہ سخت کذبت قبلہم قوم نوح میں لوکن بروٹھہ چھہ کورمت انکار پنہ نس پیغمبرس نوح علیہ  
 السلامہ سندے قومس فکذبو عبدنا وقالوا مجنون وازدجر پس کورتمو انکار سانس بندہ خاص نوح  
 علیہ السلامس بیہ وکھہ تمن نسبت کہ یہ چھہ موت تہ دیوانہ۔ بیہ آسہ تمن دھمکی تہ دنہ۔ تم آس تمن  
 دنان کہ ای نوح ہر گاہ تہہ امہ تہلیغہ نشہ بہتہ روزونہ آس کرووہ تھی سنگسار۔ فدعای ربہ انی مغلوب  
 فانتصر اودہ مونگ نوح علیہ السلامس پنہ نس پروردگارس دعا کہ میانہ پروردگارہ بو آس عاجز میں  
 لوکن فمائیش کران تہ وعظ و نصیحت کران۔ تمن چھتھہ کینہہ تہ بنان۔ وون ہییہ ڈے میں نشہ پنہ  
 دینگ تہ پنہ نس پیغمبرہ سند انتقام زمینس پیٹھہ تراون تمواندرہ اکھ تہ زندہ۔ بو پوشہ نہ تمن ڈے پوشہ  
 بچھ۔ نس کمر آسہ تہندس منگنس اجابت فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّسَهَبٍ نس مژراوی آسہ آسمان  
 ہندی دروازہ پیاری کئی رودہ شرانہ وژھہ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا بیہ کمر آسہ جاری زینک ساری  
 چشمہ، ناگہ راد۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ نس رلیو (آسمانک تہ زینک) آب سوکام پورہ کرنہ  
 خاطرہ یوسہ نوح علیہ السلامہ سند قوم ہلاک تہ تباہ کرنہ خاطرہ مقررہ مقررہ کرنہ آس آمر۔ چنانچہ تم  
 ساری کافر سپد ہلاک وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَّارِ وَدُوسِرٍ نوح علیہ السلامس امہ طوفانہ نشہ نجات دنہ  
 خاطر کھور آسہ سہ تھھ ناوہ منز یوسہ پچو تہ میخوسیت تیار کرنہ آس آمر تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا یوسہ ناؤ پکان

كُفْرًا ۱۴) وَلَقَدْ تَرَكُنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ ۱۵) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي  
 وَنُذْرِي ۱۶) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ ۱۷) كَذَّبَتْ  
 عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۱۸) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا  
 فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۱۹) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ  
 مُنْقَعِرٍ ۲۰) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۲۱) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

آس سائین اچھن تل آہ پیٹھ امن واطمینان سان۔ تم ساری ہیتھ سمو نوح علیہ السلام ہر مہہ کمر مژ  
 آس جڑاؤن کان کُفْرًا یہ سورے کو آسہ تس شخصہ سُنْد بدلہ ہینہ خاطرہ نُس بے قدری تہ انکار کرن  
 آو۔ اُمہ اندرہ ہتھ مراد نوح علیہ السلام۔ کیا زہ خدایہ سدس پیغمبرس انکار کرن گوو خدا نُس انکار کرن  
 وَلَقَدْ تَرَكُنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ بیشک آسہ تھا سو نوح علیہ السلام پتہ وار یس کالس باقی پتہ  
 قدر تک اکھ نشانہ ہتھ لوکھ نصیحت تہ عبرت رُٹن۔ پس چھاسنا کانہ اُمہ واقعہ سیت عبرت تہ نصیحت  
 رٹہ وناہ۔ یم فکر کرن کہ خدایس نافرمانی سیت کو سہ تباہی تہ بربادی چھ گروہان یا گوو معنی کہ یہ واقعہ  
 تھو واسہ قصن تہ تذکران اندر جاری۔ ہتھ لوکھ یہ بوز تھ عبرت رُٹن عبرت رُٹتھ زان تم فَكَيْفَ  
 كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي پس کیتھ اوس میون عذاب بہ کیتھ پوزدراو میون نیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ بے شک بہ کو آسہ یہ قرآن مجید ہتھ منزای قسمک قصہ چھ سہل تہ آسان  
 نصیحت رٹہ خاطرہ پس چھاکانہ تیار نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي  
 قوم عادن تہ کو ر پتہ نُس پیغمبر ہود علیہ السلام انکار پس بوز تہ تہند قصہ تہندہ خاطرہ کیتھ اوس  
 میون عذاب تہ میون نیم کرن۔ سہ قصہ چھ ہتھ پاٹھ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ  
 مُسْتَمِرٍّ کہ آسہ سوز تہن پیٹھ اکھ تیز واواہ اکھ پو شہ و نہ کس پھیشل دوہس اندر یعنی سہ زمانہ اوس تہندہ  
 حقہ پھیشل۔ چنانچہ سو نحو سٹھ وژھہ نہ تہن نشہ یوتان نہ تم ساری ہلاک تہ برباد سپد تَنْزِعُ النَّاسَ  
 كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ تمو آس ہتھن پان شترہ وین کو ٹین ستی ہانکو ستی بند کمر مت۔ تم

الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ مِنْهُ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۖ (۲۳)  
فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذْ الْفَىٰ ضَلَلِ وَسُعِرِ ۖ (۲۴)  
ءَالِقَىٰ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۖ سَيَعْلَمُونَ  
عَدَاؤَنَا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ۖ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ

کوٹ آسکھ بند کر متی۔ باوجود اس اوسکھ سہ واو زینہ منزہ کڈان تو پتہ کوئیو سان ہیور کھاران۔  
ہیور کھارتھ ز مینس پیٹھ ٹھاسہ وان۔ کلہ ہیرہ آسکھ ژھنان باقی بدن ٹھند اوس ز مینس پیٹھ یوان  
زن سہ مولہ کڈنہ آمت خضر کل ہیو آسان اوس اتھ اندر چھہ بیاکھ تشبیہہ تھندس دراز قد آس  
اندر۔ باوجود تو مند تہ قد بند آسکھ تراوتم واؤن پتھر مولہ کڈنہ آمت خضر کلی ہو۔ فَلَکَيْفَ كَانَ  
عَدَاؤِي وَنُذُرٍ ۖ پس چھکھ وچھان ژہ کہ کیتھہ لوس میون عذاب، میون بیکرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
لِلَّذِي كُفِرَ مِنْهُ مِنْ مُّذَكِّرٍ بے شک کور آسہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ سہل تہ آسان۔ پس  
چھاکانہ نصیحت رٹہ وناہ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قوم ثمودن تہ کور نیم کرہ و نین پیغمبرن انکار یعنی  
صالح علیہ السلام۔ افس پیغمبرس انکار کرن گوسار نے پیغمبر انکار کرن فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا  
نَتَّبِعُهُ تم لگ دینہ کیاہ آس کر وہ چھہ سے افس شخصہ سنز پیروی تہ متابعت یس اسی منزہ آکھ انسانہ  
مجنون زن چھہ۔ سیت چھس نہ کانہ تہ۔ نہ چھس نو کر چا کر۔ نہ چھس پیر و کار آس ہر گاہ آئی سنز  
پیروی کرو إِنَّا إِذْ الْفَىٰ ضَلَلِ وَسُعِرِ یقیناً چھہ آس تیلہ چہ غلطی اندر بلکہ مژس تہ جنونس اندر واقع  
سپدہ ونی۔ خیل تھاہ چھہ ءَالِقَىٰ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ بلکہ چھہ یہ دعوائے کرنس اندر  
بوڈاپوز یور۔ یہ چھہ بوڈ بن یڑھان۔ سردار قوم بن یڑھان اللہ تعالیٰ ان فر موو صالح علیہ السلامس بین

دیونجہ وورنہ۔ غم مہ برو کیونہہ سَيَعْلَمُونَ عَدَاؤَنَا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ بین سپدہ چھہ معلوم کہ بوڈاپز  
یور شیخی باز کہہ اوس۔ سم لوکھ یس مجزہ طلب کران چھہ کہ پلہ منزہ گڑھہ اونٹن نیرنہ۔ إِنَّا  
مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ آس چھن تھزی فرمانتھہ تہ درخواستہ موجب کنہ منزہ ووٹن کڈان تم



عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرِ ۱۷ نِعْمَةٍ مِّنْ عِنْدِنَا  
 كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۱۸ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا  
 بِالنُّذُرِ ۱۹ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۲۰ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۲۱ فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۲۲ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  
 مُّذَكِّرٍ ۲۳ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۲۴ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

مگر نہ لوط علیہ السلامہ سندس عیال۔ تمن ڈیت اُسہ نجات سحرہ کہ وقتہ پاس آخرس تمہ شہرہ منزہ  
 نبیر کڈنہ سیت نِعْمَةٍ مِّنْ عِنْدِنَا محض پتہ فضل تہ مہربانی سیت کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ تہ پتہ پانٹھ  
 ہجہ اَس بدلہ دوان با ایمان تہ شکر گزار بندن۔ تم جھکھ اسی پتہ قہرہ نیشہ بجاوان وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ  
 بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ \* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ بیشک عذاب یہ بروٹھ کھوڑہ ناوے تم لوط علیہ  
 السلامن سانہ گرفتاری نیشہ مگر تو تہ لگ تم تورہ بحث کرنہ سیت تہہ بیم کرنس انکار کرنہ۔ یلہ لوط علیہ  
 السلامس نیشہ سانی ملکھ خوب صورت لوکٹین ہنزہ شکہ مہمان ہتھ آئے۔ تو پتہ بوز تمولو کو تم آے  
 دوران دوران تمن نیشہ۔ بے شک کتر تمولو علیہ السلامس آرفتاری تہہ دین تمن پڑھین ہندہ خاطرہ  
 کہ کڈنہ پانٹھ نمہ ہو کہ تم تمن نیشہ پچھ کامہ خاطرہ۔ گوڈہ کیے لوط علیہ السلام سخت پریشان۔ مگر تم مہمان  
 آس ملکھ۔ اُسہ کور تمن لحم تو پتہ ڈول جبریل امین ہن اتھ تہزن انجھن پیٹھ۔ تمن پیوانیو۔ فَطَمَسْنَا  
 أَعْيُنَهُمْ پس نیو اُسہ تہزن انجھن ہندگاش فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي وَنہ آو تمن دونی ژہ گوڈہ تہہ میانہ  
 عذابک تہ میانہ کھوڑہ ناوہ مزہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ تو پتہ پوکھہ وایتھ صبحس سلی  
 پوشون عذاب تو پتہ آکھ بیہ ونہ کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ژہ ہوزہ ہلاک کرہ ونہ عذابک وَلَقَدْ  
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید نصیحت رنہ خاطرہ سہل تہ  
 آسان پس چھاکا نہ نصیحت رنہ وناہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ بے شک بیہ آئی فرعونس تہ تہہ دین

فَأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿۳۲﴾ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ  
 أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿۳۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ﴿۳۴﴾  
 سَيَهْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿۳۵﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
 أَذَىٰ وَأَمْرٌ ﴿۳۶﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

لوکن کن کھوڑہ ناوکی تہ بيم کرہ کی واریاہ چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بیہ معجزات وغیرہ  
 سوزنہ کڈبوا بالیتنا کلہما مگر تمہو تہ زان اپزسان ساری آیات تہ نشانہ یم تمن نشن واتمت آس  
 فَأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ہس رث تہ گرفتار کر آسہ تم تھہ پاٹھہ پاتھہ پاٹھہ آگس زبردست قدر تہ  
 والس ہزہ ہا۔ ہتھہ گرفتار کرہ آس تہ رث آس کا نہہ تہ بیجہ نہ یلہ تراوتھہ تہ چھوڑ تھہ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ  
 أَوْلِيكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ توہہ بوزوہ بروٹھین منکرن تہ کافرن ہند قصہ تمن کیاہ گدر یوہ  
 کفر و نافرمانی ہندہ سببہ۔ کیاہ توہہ اندر تم کافر چھہ تم چھارو ٹھین تمن کافرن ہندہ خوتہ جانے تا اینکه  
 یمن کیاہ بیہ پاس کرنہ۔ تم کیاہ گرن نافرمانی تہ گھر آس کروکھ نہ کنہی کنہ تہندہ خاطرہ چھہ آسمانی کتابن  
 اندر کنہ قسمہ معافی تہ آزادی ہند پروانہ آمت لیکنہ کہ تہہ کتروہ خوش گروہ تہ توہہ چھنہ کانہہ  
 بازخواست اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ کنہ تہند گفٹ چھہ کہ آسہ تہہ بیجہ نہ مقابلے کانہہ کتھہ۔  
 آس چھہ بڈجماعتھاہ اکھ پریتھہ کانہہ نشہ بدلہ ہیوہ و ن آمہ کین تلہ نیرن تم سَيَهْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ  
 الدُّبُرَ عنقریب کھیہ بیہ جماعت سخت شکست۔ بیہ ژلن تم میدان جگہ نشہ تھر پھر تھہ۔ چنانچہ آسہ  
 پیشین گوئی ہند ظہور سڈ جنگ بدرس تہ جنگ احزابس اندر بیہ گوہو نیاس اندر۔ سنی یوت چھنہ بیہند  
 سزا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ سڈن تم بڈس عذابس گرفتار قیامتک دوہ۔ اصلی عذابک وعدہ چھہ  
 تمن سیت سئی دوہ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَأَمْرٌ قیامت مہ زان ژہ معمولی چیزاہ بلکہ چھہ قیامت سیٹھاہ  
 سخت تہ سیٹھاہ بیٹھہ تہ تلخ سوی قیامت چھہ ضرور واقع سپدہ و ن إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ بے  
 شک یم مجرم یم آسہ قیامتہ کس وقوعس انکار کران چھہ تم چھہ سخت گمراہی تہ جنونس اندر پے مت بیہ  
 گمراہی تہ جنونس سپدہ تمن ظاہر تہہ دوہہ یَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ یمہ دوہہ تم

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۵۸﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ  
 بِقَدَرٍ ﴿۵۹﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿۶۰﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۶۱﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۶۲﴾ وَ  
 كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿۶۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۶۴﴾  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۶۵﴾

کھکرہ میں پکناؤ نہ تھ کر نہ دار تھ میں دنہ نار جہنم اندر تو پتہ بیگھ ونہ ذوقوا مس سقر تہو تہمہ اے  
 کافرو نار چہ زنجی ہند مزہ۔ ہر گاہ تم غبہ جھہ کہ ادہ کونہ جھہ سو قیامت یوان تمیک جواب جھہ کہ اِنَّا  
 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اِسہ جھہ پریتھ چیز اہ پادہ کورمت اکہ خاص اندازہ موجب بیتھ منز وار بہن  
 چیزن ہند خصوصاً ونگ تہ زمانک اعتبار تھونہ اُمت جھہ۔ اِس اِسہ پنہ اِس علمس منز مقررہ متعین  
 کورمت جھہ۔ لہذا یوتان تہ سہ وقت وائتہ توتان تھہ پائٹھ سپدہ تمیک وقوع۔ یکہ تمیک وقت وائتہ وَمَا  
 اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ سون حکم اِسہ تمہ کس وقوعس متعلق اِس جھماہ۔ اِس جاری سپدہ اِس  
 اِجھہ بیٹہ اندر۔ اِسہ جھنہ کانہہ چیز پادہ کرہ اِس اندر یاتاہہ دُبر باد کرہ اِس اندر زیادہ کال لگان وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک اِسہ گال تو ہی ہی واریاہ کافر تہ نافرمان لوکھ۔ اِس چھا توہمہ اندرہ  
 کانہہ نصیحت رتہ وناہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اِس اِس چیز تم کران اِس تہ سورے اوس خدا میں  
 معلوم باوجود آل آوتہ سورے لیکھنہ تہمدین نامہ اعمالن اندر یہ کتھہ جھنہ کہ کینہہ آسہا لیکھنہ اُمت۔  
 کینہہ اِسہ ہالیکھنہ رودمت نہ بلکہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ پریتھ لوکٹ کتھہ تہ بڈکتھہ جھہ تھہ اندر  
 وارہ لیکھنہ آثر یہ گو دکافرن تہ جُر من ہند حال۔ اِسہ پتہ جھہ با ایمان تہ متقین ہند حال۔ اِنَّا الْمُتَّقِينَ  
 فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک تم گھرہ لغتہ نافرمانی لغتہ چہ ون جھہ تم آسن جنتہ کین باغن اندر تہ جو میں پیٹھ  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ حقیقی عزتہ جاہہ بڈس باد شہمس جھہ اِس کل کائناتس پیٹھ اقدار  
 چھو تم پنہہ پڑہمہ برکتہ خدا و پیغمبر خدا یہ سندہ پڑہ وعدہ موجب آسن اکھ اِس عمدہ تہ پسندیدہ مقاس

## سُورَةُ الرَّحْمَنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الرَّحْمَنُ ① \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④ \*  
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤ \* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ⑥ \* وَالسَّمَاءُ  
 رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑦ \* أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ⑧ \* وَأَقِيمُوا  
 الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨ \* وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا

الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ رحمتہ ولس خدایہ سزہ چھ بے شمار نعموہ۔ آجہ روحانی۔ آجہ جسمانی آجہ  
 دنیوی آجہ اخروی۔ روحانی نعمتو آندرہ گنیہ اکہ نعمت کہ تمہی پچھہ ناؤ قرآن مجید یعنی تمی کور نازل قرآن  
 مجید بیٹھ تہند بندہ تہس بیٹھ ایمان آنتھ، تمیک علم حاصل کمر تھہ نمہ موجب عمل کمر تھہ تمیک نفع تہ  
 فایدہ تہن۔ تم سزہ بیا کہ نعمت گنیہ جسمانی یوسہ موقوف علیہ چھہ روحانی نفع سو گنیہ یہ نعمت کہہ  
 الْإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ تمہی کور پادہ انسان تو پتہ پچھہ نوون سہ تھہ کرنہ یعنی دلک حال تہ خیال ظاہر  
 کرن کھو سیت تہ آتھو سیت یعنی تقریر و تحریرہ سیت۔ تمی سیت چھہ سہ قرآن مجید پانہ پران تہ تہن پرہ  
 ناوان بیا کہ نعمت گنیہ آفاتی سو گنیہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ آفتاب تہ زون چھہ پکان اکہ منظم حسابہ  
 موجب سمہ سیت دودہ تہ راتھ وجود س منز یوان چھہ۔ یمن سیت بدن ہزہ ہزہ بنگی تہ عبادت س سٹھاہ  
 تعلق چھہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ تہ ک تہ تھرہ تہ کلی یعنی گوڈہ روستی کل تہ گوڈہ والی کل چھہ مشغول پنہ  
 ہس مولی سجد س سیت وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا تمہی حضرت رحمان کور تھوڈ تہ بلند آسمان۔ وَوَضَعَ  
 الْمِيزَانَ تمہی کمر قائم دنیاس اندر تر کر أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ بیٹھہ تہہ تولنس اندر کی و زیادتی  
 کمر و۔ امہ نعمت شکر گووا ی زہ وَأَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بیہ تھادو قائم انصافہ  
 موجب پریتھ چیز ک وزن بیہ منہ آسہو کران کی تولنس تہہ قسمہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ بیہ تھادو تمی



لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ  
 ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝  
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ  
 مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ  
 رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

زمین مخلوق ہندہ فائدہ خاطرہ و ہر او تھہ **فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ** بیٹھ ز مینس منز چھہ کم  
 کم میوہ بیہ خضر کل سمن ہند میوہ چھہ آسان گوژرین تہ غلاٹن منز ولتھہ **وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ**  
**وَالرَّيْحَانُ** بیہ چھہ اتھہ ز مینس منز پریتھہ قسمک غلہ بیٹھ غلس سیت چارولین ہندہ کھینہ خاطرہ گاسہ تہ  
 چھہ آسان۔ بیہ پریتھہ قسمک خوشبودار پُوش سموسیت دماغ چھہ سپدان **مُعْطَرٍ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا**  
**تُكَذِّبِينَ** پس تھہ تھہ نفیس پروردگارہ سبوس کمر و تھہ انکار ای جنونہ انسانو۔ اگس حدیث شریفس  
 گن نظر کر تھہ فرمو عالمو کہ یکہ کانہہ شخصاہ بیہ آیہ کریمہ بوزہ تمسند گڑھہ جواب دیکن لا بشی من  
 نعمک ربنا نکذب فلك الحمد اے سانہ پروردگارہ چانیو نعمتواندرہ **فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** اے جنونہ  
 ہنس ساری حمد شوبہ نے ژے **خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ** بیاکھ نعمت گئیہ کہ تمی گڑپادہ اگس  
 انسانہ سند اصل اول یعنی آدم علیہ السلام تھہ میوہ یوسہ ہو چھہ کترہ ہند یا تھہ ٹرن ٹرن کرت وزان آس  
**وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ** بیہ کر تمی سپدہ جن ہیوند اصل اول نارہ چہ رہہ بیٹھ نہ دہ شامل آسان  
 چھو۔ مین دشوین مخلوقن کمر وجودچ نعمت عطا تمی پروردگارن **فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** اے جنونہ  
 انسانو خدایہ سنزو نعمتواندر تھہ تھہ نفیس کر یو تہ انکار **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ** بیہ چھو سوی  
 معبود برحق دون مشرقن تہ دون مغربن ہوندا مالک حقیقی آفتاب چھو وندس تہ رتہ کالس مختلف جایو  
 نشہ طلوع سپدان تہ کھسان بیہ مختلف جایو کن لوسان تہ غروب سپدان تمی اعتبارہ آوونہ مشرقین تہ  
 مغربین، آفتابچہ مختلف جایو **فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ** اے جنونہ انسانو تھہ اندر چھہ بے شمار فائدہ تہ مصلحو،

يَلْتَقِينَ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَنَّ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا تُكذِّبِينَ ﴿٢١﴾  
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا تُكذِّبِينَ ﴿٢٣﴾  
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا  
تُكذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ﴿٢٦﴾ وَيَسْمَعُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ

زمینہ کین لوکن ہندہ خلیطہ امہ سارکوی مالک نہ اختیارہ دول چھو سوی پروردگار فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا  
تُكذِّبِينَ پس پنہ نس پروردگار سند یو نعمتو اندر کتھہ کتھہ نفس کر یو تُوہ انکار ای جنوہ انسانو۔ مَوَجِّہ  
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ تمی پروردگارن پکنا وزہ دریادو اکھ میو ٹھہ نہ بیا کھ ژوش۔ یے  
زہ دریاد چھہ اکھ اکس سیت ظاہرہ پاٹھ میلٹ پکان۔ مگر تحقیق سنز چھو یمن در میان اکھ ٹھورہ اُس نہ  
یمن اکھ اکس پیٹھ غلبہ دو ان چھو کرنہ، میو ٹھہ سپدہ ہا ژوش ژوش سپدہ ہا میو ٹھہ۔ یہ چھہ نعمت نہ بیہ  
قدر ٹک اکھ بوڈ نشانہ نہ۔ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنز یو نعمتو اندرہ کتھہ نفس، بھو  
توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یو دو دوشوی دریادو منزہ چھو نیر ان اکھ حنہ  
بیہ لدرہ۔ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزہ نعمتو اندرہ کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای  
جنوہ انسانو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تم سنزے چھہ تمہ ناوہ نہ جمازیمہ تھزہ نہ بھہ چھہ  
سمندر سنز کو بہن سومبہ یمن پیٹھ سوار سیدت توہ اکھ ملکہ نشہ بین ملکن واتان چھو ضروریات نہ  
مال تجارت واتان چھوہ۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَندرہ گو اشارہ تمن نعمون کن یمہ سمندرہ نہ دریادو تلہ  
نیر ان چھہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ اَندرہ چھو اشارہ تمن نعمون کن یمہ آہہ پٹھ کن سطح نشہ حاصل  
سپدان چھہ آہہ پٹھ کن نہ نعمو۔ آہہ تل نہ نعمو فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ لَيْكُنَّا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو  
اندر کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو واتان یمن نعمون ہیوند ذکر کرنہ اولازم چھو تمن  
نعمون گزہہ توحید و طاعتہ سیت شکر دین کفر و معصیت سیت گزہہ ناشکری و ناسپاسی کرن۔ کیا زہ ہتھ  
عالمس چھو فنا سپدن یمہ پتہ چھو بیا کھ عالم اوہون۔ ہتھہ عالمس منز ایمان و کفرس پٹھ جزا و سزا یمہ ونہ۔  
یسوی مضمون چھہ اللہ تعالیٰ فرماون كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ \* وَيَسْمَعُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ یم جن

وَالْأَكْرَامِ ۝ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ ۝ يَسْتَلْهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ ۝  
سَنَفَعُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ۝ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ ۝ يَمْعُشَرُ  
الْحِجْنَ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

تہ انسان اتھ زُوی ز مینس پٹھ چھ موجود تم ساری چھ گلہ وین تہ فانی سپدہ ون۔ باقی روزہ ون چھو فقط  
تھندس پروردگارہ سُنْدَات پاك اُس عظمیہ وول تہ احسانہ وول پٹھ، ہم چھ زہ صفت اللہ تعالیٰ سند، اکھ  
چھو ذاتی بیاکھ چھو اضافی۔ اکثر اہل عظمت چھو پنے نسّی عظمتس سیت آسان بین گن چھنہ کانہ توجہ  
کران مگر معبود برحق چھو باوجود کمال عظمت، صاحب اکرام تہ پنے نین بندن پیٹھ پٹھ تہمز رحمت و  
فضل جاری۔ چونکہ امہ مضمونچ خبرون چھ موجب ہدایت، لہذا چھ بیٹہ نعمتو آندرہ اکھ آخروی نعمتہ  
فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ پنے نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ تھ نفس کریو تہ انکار ای جنو تہ انسانو۔  
امہ پتہ چھو اکھ خاص طریقہ تھندس عظمت واکرامس متعلق مضمون بیان یوان کرنہ یَسْتَلْهُ مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو تھوی باعظمت کہ تس نشہ چھ مگان بیون بیون ہن ہن حاجت تم ساری  
یم آسان اندر چھ بیہ یم زمین اندر چھ ساری چھ محتاج تس گن سو چھ ساری ہونند محتاج الیہ نبوی چیز  
چھو دلالت کران تھندس کمال عظمتس پیٹھ۔ صاحب اکرام آسن تمسند چھو ننان یمہ سیت کہ کُلُّ  
يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ پرت وقتہ چھو سو کامہ اندرئی۔ یعنی عالمن اندر یمہ کنیزہا واقعہ ان تہ چھو سپدان  
تھندی تصرف سیت تنے تصرفاتن اندر آئے۔ تم تصرفات تہ یم دلالت چھ کران تھندس اکرام و  
احسانس پیٹھ مثلاً پیدہ کرن عافیت و صحت عطا کرن رزق عطا کرن اولاد عطا کرن۔ ہدایت تہ علم۔  
توفیق عمل۔ پس باوجود عظمت یو تھ اکرام و احسان کرن یمہ گیہ نصی فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ پنے  
نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ تھ نفس کریو تہ انکار ای جنو تہ انسانو۔ سَنَفَعُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ  
اس دموپور توجہ تہ حساب ہنس گن ای جنو تہ انسانو۔ یہ برو نصی تہ ای جنو تہ پتہ چھو سان نعمت تہ  
مہربانی یو تھ تہ تیاری ہونند خیال پیدہ گوہہ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ بِكَمَا تَكْذِبُونَ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو

وَالْأَرْضِ فَاَنْفَعُوا وَالْاَتَعْنُدُونَ الْاِسْلٰطِيْنَ ﴿۳۶﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ  
 رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ ﴿۳۷﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ نَّارٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا  
 تَنْتَعِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ ﴿۳۹﴾ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ  
 فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۴۰﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ ﴿۴۱﴾  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿۴۲﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ

آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو لِمَعْتَرِ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفَعُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفَعُوْا وَالْاَتَعْنُدُونَ الْاِسْلٰطِيْنَ ای جن تہ انسان ہنز و جماژوہر کہ توه طاقت تہ قدرت چھوہ توه کیا بھجو آسمان وز میٹیکو بنا روئشہ نبر نیرت تکا نیرت تو اس تہ و تھہو۔ ہرگز بھجو نہ توه نیرت مگر کونہ طاقتہ سیت۔ سو طاقت چھوی نہ توه نہ بھجو دنیا س اندر نیرت نہ ثلث کونہ طرفس کن بیے حالت آسہ توه ہنز قیامتک دوہ سترہ تہ بھجو نہ کن ثلث۔ یہ تھہ باون تہ چھوہ سان نعمت فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ توه چھوہ حساب و نس اندر تہ عاجزی عذاب و عقابلس اندر تہ عاجزی يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئٌ مِّنْ نَّارٍ وَنَحَّاسٌ فَلَا تَنْتَعِرُوْنَ ای جنوتہ انسانو آندره مجر مو توه پیٹھ یں قیامتک دوہ تراونہ نازک شعلہ بیہ ڈہ بھج نہ توه نیشہ کانہ تہ دفع بھم کرت یہ ونون تہ چھو ذریعہ ہدایت آسنہ کہ اعتبارہ نعمت۔ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ پنہ نس خدایہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ اودہ یلہ قیامت ایہ تھ منز آسمان پھشن پس سپدہ آسمانک رنگ ووزل والہ ہیو۔ اچ خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌّ پس ایہ نہ تمہ دوہ گوڑنی پرژھنہ تہ سوال کرنہ اطلاع حاصل کرنہ خیطرہ کانہ انسانس تہ کانہ جنس۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبری ساری ہنز۔ اچ خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُوْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ

تَكْذِبِينَ ﴿١٠﴾ يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَاصِي وَ  
 الْأَقْدَامِ ﴿١١﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْذَبُ  
 بِهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿١٣﴾ يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنْ فَيَأْتِي الْأَرْ  
 رَبَّ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٤﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿١٥﴾ فَيَأْتِي الْأَرْ  
 رَبَّ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٦﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿١٧﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٨﴾ فِيمَا  
 عَيْنُ تَجْرِيْنَ ﴿١٩﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿٢٠﴾ فِيمَا مِنْ كُلِّ

تھ نفس کر یو توه انکار ای جنوۃ انسانو يُعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ پرزہ  
 ناونہ بن مجرم لوک پنہ نیو علاما تو سیت تہوند بو تھ آسہ کر بن تو پتہ بن رنہ تم کاڑھ کلہ کہ مسہ سیت  
 بیہ کھور و سیت تو پتہ بن دارت دنہ جہنمیں اندراج خبر دن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ  
 نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ کمہ کمہ نعمتک کر یو توه انکار ای جنوۃ انسانو جہنمیں منز تر اوندہ پتہ ایکھ دنہ  
 نہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْذَبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ یہوی کیا گو سو جنم ہتھ مجرم (یعنی توه) انکار کر ان آس  
 يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ پھیران تہ اورہ یور آسن کر ان تھ جہنمیں تہ تجھ زسرہ و انس اندر یوسہ  
 سیٹھاہ گرم آسہ گرمی ہندس آخری در جس منز گرم آسہ۔ اکہ ساتہ جھموک عذاب بیہ ساتہ جھیمک  
 عذاب اچ بروٹھے خبر دن تہ چھہ اکھ نعمتہ۔ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگار سنزو نعمتو اندر  
 تھ نفس کر یو توه انکار ای جنوۃ انسانو وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ وون ئیس شخص کھوڑھ پنہ نس  
 پروردگار س بروٹھ کئہ استادہ سپد نس پرت ساتہ کھوڑت رود پتھ گہوۃ تا فرما نیو نعمتہ ہندہ خیطرہ چھہ زہ  
 عالی شان جنت یہ گو خاص بدن ہندہ خیطرہ فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو  
 اندر تھ نفس کر یو توه انکار ای جنوۃ انسانو ذَوَاتَا أَفْنَانٍ تمے جتن اندر آسنن سہتاہ لجہ دار کول  
 تے لجہ آسن برت میو سیت فَيَأْتِي الْأَرْبَابَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر تھ نفس  
 کر یو توه انکار ای جنوۃ انسانو۔ فِيمَا عَيْنُ تَجْرِيْنَ تمے دون باغن اندر آسن زہ ناگہ راو یمن ہوند

فَاِكْهَةِ زَوْجِيْنَ ﴿۵۳﴾ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ ﴿۵۴﴾ مُتَكِيْنَ عَلَى فُرْشِ  
 بَطَائِنِهِا مِنْ اِسْتَبْرَقِ وَّجَنَا الْجَنَّتِيْنَ دَانِ ﴿۵۵﴾ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا  
 تَكْذِبِيْنَ ﴿۵۶﴾ فِيْهِنَّ قُصِرَتْ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئُنْ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا  
 جَانٌّ ﴿۵۷﴾ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ ﴿۵۸﴾ كَاَنَّهُنَّ اَلْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ  
 فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا

آب دور تان جاری آسه فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ پنه نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر کتھہ کتھہ کریو توه انکارای جنوتہ انسانو فِيْهِنَّ مِنْ كُلِّ فَاِكْهَةِ زَوْجِيْنَ تمنے دون باغن اندر آسن پرت میوس زیر تنم عمہ ساتھ آکہ قسمک میوه سیت مزه حاصل کران کونہ ساتھ بیہ میوک لطف حاصل کران۔ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ پنه نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُتَكِيْنَ عَلَى فُرْشِ بَطَائِنِهِا مِنْ اِسْتَبْرَقِ تکیہ دت آسن تم جنتی تمن فرشن و تھر نین پٹھ یمن ہوندا ستر آسه تافتہ یعنی زاپول پوٹ ابرجہ جھنہ کتھہ سوکیاہ آسه۔ وَجَنَا الْجَنَّتِيْنَ دَانِ یمن دوشوین جتنن ہوندا میوه آسه تمن جتنن سیٹھہ نزدیک پرت حاس اندر آسن تمیوک لطف حلان وودنہ تہ۔ شوگت تہ تکلیف و مشقتہ وراى آسه تمن جابن کتھہ واتان۔ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ پنه نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه یہ انکارای جنوتہ انسانو فِيْهِنَّ قُصِرَتْ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئُنْ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ تمن باغن ہنزہ لرلن تہ بگلن منز آسن نظر یون کن تھوہ ونہ زنانہ یعنی بیمہ زنانہ نہ پنشن خانہ دارس وراى کانہہ شخصس کن اچھی حلان چھہ۔ نہ آسه تمن نزدیک آمت پنه نین خانہ دارن بروٹھ نہ کانہہ انسان نہ کانہہ جن۔ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ پنه نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ كَاَنَّهُنَّ اَلْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ رنگ آسه تمن زنانن ہوندا توتھہ صاف تہ شفاف زن تمہ آسن یاقوت تہ لدرہ ہمشہ سر خاسرخ فَيَا أَيُّ الرَّءِىِّ كَمَا تَكْذِبِيْنَ پنه نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا کیار ژ عبادت و اطاعت بدلہ چھائے رتھہ مزورہ تہ ثوابہ وراى یجو جنتیو کردنیاعس اندر رتھہ عبادت تمیوک بدلہ آکہ عطا

الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا  
 جَبْتَيْنِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾ مُدَاهِمَتَيْنِ ﴿٦٤﴾  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّخَتْنِي ﴿٦٦﴾  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ  
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کرنے آخرتس اندر روت ثواب میں کانہ ہنزه اچھو و جھمت آسہ کانہ ہند کنن بوزمت آسہ کانہ  
 ہندس دلس رای گمہو آسہ یہ چھو محض خدایہ سند فضل و کرم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ وَمِنْ دُونِهِمَا جَبْتَيْنِ  
 باغورای جھہ بہ زہ باغ تموخوتہ دستھ عام با ایمان ہندہ خیطرہ پرت با ایمانس زیر باغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُدَاهِمَتَيْنِ تم  
 دوشوے باغ آسن شوخ سبز کر ہیرہ سان سخت سبز آسہ موکھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّخَتْنِي تمس دون  
 باغن منز چھہ زہ ناگ یمن ہوند آب چھو زورہ سان ہیوز کن شولہ ماران۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ  
 ادہ تھہ تھہ نفس پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ  
 وَرُمَّانٌ تمس دون باغن اندر آسن میوہ۔ خضر۔ بیہ دین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ تھہ تھہ نفس  
 پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَانٌ تمس باغن  
 ہنزن لرین اندر چھہ رثہ زنانہ خوب صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ تھہ تھہ نفس کریو توه انکار  
 پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرای جنوتہ انسانو۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ تے زنانہ آسن اچھہ دیتھہ  
 کرت نورانی بوتھ کرت خمین اندری روزن واجنہ اورہ یور پھیرونہ آسن نہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَكْذِبِينَ ﴿۴۲﴾ كَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ ﴿۴۳﴾ فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمْ  
تَكْذِبِينَ ﴿۴۴﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿۴۵﴾ فَيَأْتِي  
الْأُمَّرِيكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۴۶﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۴۷﴾

تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس کر یو تو یہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره ای جنوتہ انسانو۔ كَمْ يَطِئْتُهُنَّ  
إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُّ ہم بستری آسنہ کر مش تمین سیت یو جنیتو بروٹھ نہ کانسہ انسانن نہ کانسہ جن  
فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمْ تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس کر یو توہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره ای جنوتہ  
انسانو۔ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تے آسن تکیہ دتھ سبز مخلی قالیسن پٹھ بہت بیہ نہ  
پہ کر وہ نین رتین فرشن پٹھ بہت۔ فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمْ تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس پنہ نس پروردگارہ سنزو  
نعمتو آندره کر یو توہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ بابرکت چھو نام پاک  
تھوندس پروردگارہ سندیار رسول اللہ نس پروردگار عظمتہ وول تہ احسانہ وول پھو۔ یہ سارے دنیوی  
نعمو چھ تسزے یہ یلہ نام پاکج بרכת گیہ اے آندره گتھ زانن کہ ناوہ وول کیو تھ آسہ تہندہ ذات  
پاکچھ بרכת کثر کتھ آسن کیڑاہ آسن ظاہر اچھو سپدان معلوم کہ باایمان جنن تہ انسانن دوشوین چھو  
واتن جننس۔ دوشوین سپدان حاصل جتپتہ نعمو دوشوین ین عطا کرنہ جتپتہ حورہ۔ كَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ  
وَلَا جَانُّ آندره چھو مراد کہ یہ حورہ انسان جنن ین عطا کرنہ تمین حورن نزدیک آسنہ آمت تمین  
انسان جنن بروٹھ کانسہ انسان کیاہ تہ حورہ آسن انسانن ہندہ خیطرہ مخصوص آمژہ کرنہ۔ تھ پٹھ  
جن جنن یہ حورہ عطا کرنہ ین تمین حورن آسنہ نزدیک آمت تمین جن جنن بروٹھ کانسہ جتہ کیاہ  
تہ حورہ آسن جن جنن ہندی خیطرہ مخصوص آمژہ کرنہ۔ گوڈنک زہ جنت یمن ہنز ذکر گوڈہ آہ  
کرنہ تمین ہندہ افضل بہتر آسرس کن آوتر تمین اندر اشارہ کرنہ۔ وین چھ تہجہ دلیلہ بیان یوان کرنہ۔  
تفسیر در منشورس منز چھو حدیث شریف کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتان  
من ذہب للمقربین وجنتان من ورق لأصحاب الیمین یعنی تم زہ جنت چھ سونہ سندی۔ مقر بن  
ہندہ خیطرہ۔ بیہ زہ جنت چھ روپہ سند تمین ہوند سوری سامانہ چھو روپہ سندوی تم چھ اصحاب تمین  
ہندہ خیطرہ۔



## سُورَةُ الْوَاقِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ② خَافِضَةٌ  
 رَافِعَةٌ ③ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤  
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ⑥ وَكُنُفًا أُرْوَاغًا ثَلَاثَةً ⑦ فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ⑧  
 مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ⑨ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ⑩ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ⑪  
 وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ ⑫ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑬ فِي جَنَّتِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ① یلہ قیامت واقع سپدہ لیس لَوْعَتِهَا کَاذِبَةٌ ② نہ تمہ ساتہ کہ امس واقعہ سپدنس اندراوسنہ کانہہ شہکھاہ تہ خلافا، بلکہ اوس امیوک واقع سپدن بالکل صحیح تہ پُر، یہ آسنہ ٹھٹھ باشاہ، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③ سہ قیامت چہ بعضے لوکن پست کرہ ون، بیہ بعضے لوکن بلند کرہ ون، یعنی تھی دوہہ سپدہ کافرن ہندہ ذلت و پستی ہیوند تہ با ایمان ہندہ رفعت و بلندی ہیوند ظهور إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④ یلہ بونیول ایہ زمینس سیٹھہ سخت بونیولاہ، یعنی وسراونہ بیہ سوزورہ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤ ایہ کوہن ریزہ ریزہ کرنہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ⑥ پس سپدن کوہ پھسرنہ آمرش گرد ہی، وَكُنُفًا أُرْوَاغًا ثَلَاثَةً ⑦ توہہ سپدنوسارنی لوکن اولینن تہ آخرینن تہ ترہ جہاز، اکھ جماعت گیہ دوزخی، بیاکھ گیہ عام جلتین ہنز، بیاکھ گیہ خاص جماعت مقر بینن ہنز، یم جنہ کین اعلیٰ درجن منز آسن، امہ کوی تفصیل چہ اللہ تعالیٰ فرماوان، فَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ⑧ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ⑨ پس چھویمو آندرہ اکھ قسم دچھنہ طرفک لوک، کیاہ رت چہ تم دچھنہ طرفک لوک، تم گئے تھے یمن نامہ اعمال ایہ دینہ دچھنہ اتھس رتھ، دویم قسم گو لوکن ہیوند وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ⑩ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمِ ⑪ کھوفرہ طرفک لوک، تم کھوفرہ طرفک لوک کیتیاہ پچھ پچھ، مراد چہ تموا آندرہ تم لوک یمن نامہ اعمال ایہ دنہ کھوفرس اتھس کیتھ، یعنی کافر، وَالسَّبِقُونَ

التَّعِيمِ ۱۲ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۱۳ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۱۴  
 عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۱۵ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۶  
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۱۷ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ  
 مِّن مَّعِينٍ ۱۸ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا  
 يَتَخَيَّرُونَ ۲۰ وَحَمِيرٍ مِّمَّا يَشْتَمُونَ ۲۱ وَحُورٍ عِينٍ ۲۲ كَأَمْثَالِ

الطُّبُوعُونَ تریوم قسم گو برو ننگه گوده و نین هیوند، تمخے گئے برو ننگه گوده و ن اعلیٰ درجک لوک، اُولَئِكَ الْمَتَّوِّبُونَ تم گئے خدا ایس سیت خاص قرب تہ نزدیکی تھو و ن لوک، فِي جَدَّتِ التَّعِيمِ یم مقرب لوک آسن نعمت کیں باغن اندر، عیش و آرامس منز ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ یمن مقرب لوکن ہنز بڈ جماعت آسہ برو ٹھمبو لو کو اندرہ کیا زہ تموند تعداد چھو زیادہ کم جماعت آسہ پتہ اودہ و نیو آندرہ، برو ٹھمبو آندرہ چھو مراد آدم علیہ السلامس پیٹھ عیسیٰ علیہ السلامس تان، پتہ اودہ و نیو آندرہ چھہ مراد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سندہ پوٹھ، قیاس تام، عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ تم مقرب لوک آسن بہت تمن تخن پیٹھ یم سونہ سنزو تاروسیت و ونہ آسن آمت، بیہ آسنکھ لعل و جواہر جرنہ آمت، مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ تمنی تخن پیٹھ آسن تکیہ دت بہت، اکھ اکس کن بوتھ کر ت، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ یوان گودھان آسن تمن نشہ خوب صورت لوکٹ لوکٹ خدمت گار، یم اکسی حالس تہ عمرہ پیٹھ روزن ہمیشہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ تمن آسن تمن نشہ انان زہدار آب خور، بیہ قربہ نارہ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بیہ پیالہ یم شراب طہورہ سیت بربر آسن، اُس شراب قدرتی طور ناگو تہ چشموسیت آندرہ نیرت جاری آسہ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ بیہ شراب طہورہ سیت نہ کرہ تمن کلہ دودز انہ، نہ اکیہ عقلہ منز قورزانہ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ بیہ ین تم خوب صورت لوکٹ تمن برو ٹھکن تم میوہ ہیئت یم تم پسند کرن، وَحَمِيرٍ مِّمَّا يَشْتَمُونَ بیہ انکھ ہیئت وڈہ و نین جانورن ہیوند بوز مت ماز یمن ہیوند تم میل تہ خواہش کرن، وَحُورٍ عِينٍ بیہ آسن تمن جلتین ہندہ

اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ ﴿۳۳﴾ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا  
لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمَا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿۳۵﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ لَهُمْ مَا أَصْحَابُ  
الْيَمِينِ ﴿۳۶﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۳۸﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿۳۹﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿۴۰﴾ وَ  
مَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۴۱﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۴۲﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۴۳﴾

خیطرہ تمن جنن اندر تمنے زنانہ میہ پر نہ آسن، اہنزه اچھہ ویچھہ آسن، کَامَثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ تمنے  
آسن محفوظ تھاونہ آمت محبتہ ہشہ صاف وشفاف، نہ نہ کران، جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اکیھ بدلہ  
عطا کرنہ تمن رژن کاین هیوند میہ تم دنیا اس منز کران آسن، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمَا  
سوجنک شراب طهور چت یا تمہ ورا ی نہ بوزن نہ تمن جشن اندر کانہ بے ہودہ کتھاہ، یا ناگوار کلاماہ،  
میہ سیت تموند عیش متعفن سپدہ ہا، إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا مگر آسہ پر تھہ طرفہ یوان تمن سلامتی ہنزہ  
آواز، حق تعالیٰ کرہ تمن سلام، سلام، قولان رب رحیم، ملایک آسن کران تمن سلام، والملايحتہ  
ید خلون علیہم من کل باب، سلام علیکم طبتم پانہ وان نہ آسن اکھ اس سلام کران محبتہم فیہا سلام،  
غرض کہ روحانی وجسمانی پر تھہ قسمک اعلیٰ درجک لذت آسہ تمن حاصل یہ گوسا یقینن ہیوند حال،  
امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ اصحاب الیمینن ہیوند حال وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بیہ یم دجھنہ  
طرفک لوک چھہ، کیاہ رت چھہ تم دجھنہ طرفک لوک، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ تم آسن بریہ کلین ہندین  
باغن اندر یمین نہ کند آسن وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ بیہ کیلہ کولین ہندین باغن اندر، یمین کیلہ لگت آسن پیو  
ٹھوس پیٹھہ، وَظِلِّ مَمْدُودٍ بیہ آسن زہٹھہ، زہٹھس سالیس تل، تیوت زیوٹھہ سایہ کہ ہر گاہ تیز رفتار  
گر اس تہس ورہس ٹھنی دور تلہ، توتہ و برنہ سوسایہ، نہ آسہ تھہ سالیس اندر گرمی نہ آسہ سردی، نہ  
آسہ تاریکی نہ نہ لنگنہ، نہایت خوشگوار نہ معتدل آسہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ بیہ آسہ تمن باغن اندر آب  
جاری، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ بیہ آسن تمن باغن اندر بکثرت میوہ، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ یمینہ ختمتی  
گروہان آسن زانہہ دنیا کین میون ہند پاٹھہ، کہ موسم ختم سپد نہ سیت کیا آسہ ہن میوہ نہ ختم سپدان،

وَفُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ ۱۲۱ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً ۱۲۲ وَجَعَلْنَهُنَّ اَجْبَارًا ۱۲۳  
عُرْبًا اَثْرَابًا ۱۲۴ لِاصْحَابِ الْيَمِينِ ۱۲۵ ثَلَاثَةٌ ۱۲۶ مِنَ الْاَوَّلَيْنِ ۱۲۷ وَثَلَاثَةٌ ۱۲۸  
مِنَ الْاٰخِرِيْنَ ۱۲۹ وَاَصْحَابِ الشِّمَالِ ۱۳۰ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ ۱۳۱ فِي سَمُومٍ ۱۳۲  
وَحَيْمٍ ۱۳۳ وَظِلٍّ ۱۳۴ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۱۳۵ اَلَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ ۱۳۶ اِنَّهُمْ كَانُوْا اَقْبَلَ  
ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۱۳۷ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلٰى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ ۱۳۸ وَكَانُوْا

بہ آسن نہ تم میوہ ٹھاک کر نہ آمت، وُفُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ بہ آسن تھند تھند و تھرن، تمنی و تھرنین پیٹھ  
آسن خوب صورت انہر شہ زنانہ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً لہ آسہ تمن زنانہ ہنز پیدائش کر مرخص  
طریق، وَجَعَلْنَهُنَّ اَجْبَارًا تمہ آسن لہ کر مرثہ سارے انہر شہے، حورہ، دنیا چہ زنانہ، یہ دنیا  
اندر آسہ بن سہز مرثہ حجہ، اَنہ تہ کانہ، تمنی آیہ جلتیس اندر نوزندگی تہ نولو کہ چار عطا کرنہ، تمن آسہ نہ  
سوانہر شر پنہ نین خاندان زن ہندہ ہم بستری کرنہ سیت تہ ژلان نہ زایل سپدان، عُرْبًا اَثْرَابًا تمنی آسن  
دلربا تہ تہلاوہ ونہ، یعنی خاندان پنہ نین نازو تہ عشووسیت پانس گن مایل کرہ ونہ، بہ آسن اکی وانسہ،  
غرض تموند حسن و جمال، نازو انداز، حرکات و سکنات، ساری چیز آسن دلکش لِاصْحَابِ الْيَمِينِ ییم  
ساری چیز آسن دہجنہ طرفہ کین لوکن ہندہ خیطرہ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلَيْنِ \* وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ اصحاب  
تیمین ہنز ہند جماعت آسہ برو تھمیو لو کو اندرہ، بہ آسہ ہند جماعت اہنز پتہ اوہ دنیو اندرہ وَاَصْحَابِ  
الشِّمَالِ مَا اَصْحَابِ الشِّمَالِ بہ ییم کھوفرہ طرفہ لوک چہ، تم کھوفرہ طرفہ لوک کیتیاہ بچہ ہجہ، فی  
سَمُومٍ وَحَيْمٍ تم لوک آسن نارس تہ رسر منز، وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ بہ سخت سیاہ دہہ کس سائلس تل،  
تہہ منز نہ در ینٹھی کینہ یوان آسہ، اَلَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ نہ آسہ سووہ شہول، نہ آسہ سوکنہ قسمہ خوش منظر تہ  
راحت ولہ ناوہ ون، یہ یو تھہ عذاب کیازہ سا آسہ تمن، اِنَّهُمْ كَانُوْا اَقْبَلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ بے شک تم آسنا یہ  
برو تھہ یعنی دنیا عس اندر عیش و آرامس منز، یہ سببہ فکر ی کھسان اوسکھنہ کینہہ، تہہ خوشحال اندر  
آسن غرق گمت، وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلٰى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ تمی آسن تم ڈاڈ کرت اکس ہڈس گنہس پیٹھ یعنی

يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۷۶﴾ أَوَابًا وَنَا  
 الْأَوَّلُونَ ﴿۷۸﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿۷۹﴾ لَمَجْمُوعُونَ هُ إِلَى  
 مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۸۰﴾ ثُمَّ إِنَّمَا أَتَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿۸۱﴾ لَّا  
 لَّا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿۸۲﴾ فَمَا لُتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۸۳﴾  
 فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۸۴﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿۸۵﴾ هَذَا  
 أَنْزَلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۸۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿۸۷﴾  
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۸۸﴾ أَلَا تَنْتَهُلُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۸۹﴾

شرکس تہ کھر س پیٹھ وکلاؤا یقولون بیہ آس تم دان، ایلد مینا وکنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون کیا  
 اس بلہ مرو تو پتہ دودرو، اس روز نہ کینہہ تہ مرہ تہ اذ جو ورا ی، تہ گھت یموہ اس دوبارہ بیہ زندہ کرنہ،  
 اواباؤنا الاولون کیا بیہ ینہ سان برو تھم مال بوڈبب تہ زندہ کرنہ۔ اھنز حالت سانہ خوتہ تہ بدتر  
 آسہ گھو، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ توه فرماو یو کہ یارسل اللہ  
 بے شک تہنز کیا چھ کتھی، اولین تہ آخرین، ساری ین جمع کرنہ تہ سونبراونہ اکہ دوہہ اکس معین کرنہ  
 آتس و قس پیٹھ، یعنی قیامتک دوہ، سمیوک وقت اللہ تعالیٰ سندس علمس اندر مقرر چھہ ثُمَّ إِنَّمَا أَتَيْهَا  
 الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ تو پتہ چھو توه ای وتہ ڈلیو، ای پزس اپززانہ ونیو لاکلون من شجر من زقوم آسہ  
 توه ضرور کھیون، زقومہ کہ کلہ منزہ فَمَا لُتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تھی زقومہ سیت آسبو توه پنہ نہ ید برہ و سن  
 تہ ہر کرہ و سن، فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ تھہ پیٹھ آسہ توه چن چن رسر فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ  
 سوی رسو چھو توه، تریشہ ہنچن ووشن ہند پاٹھ، هَذَا أَنْزَلَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ بیہ آسہ گوڈنچ ضیافت تہنز  
 قیامتک دوہ، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ اسہ کروہ توه ساری پیدہ، گوڈنچہ لٹ، تھہ توه تہ چھوہ تسلیم  
 کران، دویمہ لٹہ پیدہ کرنس کونہ چھوہ توه تسلیم تہ تصدیق کران، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ \* أَلَا تَنْتَهُلُونَ تہ

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ  
 نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ  
 النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ  
 تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا  
 فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ توہ و توئیس منی یعنی نطفہ توہ وائے ناوان چھوہ زنانہ ہندین شکمن تہ بچہ دانین اندر، کیا توہی چھوہ تھہ لطفس انسان بناوان، کنہ اس چھہ انسان بناوان وال، یہ تھہ چھہ ظاہر کہ بناوان وال تہ پیدہ کرن وال چھہ اسی، منی اندر تراونہ پتہ جھنہ تہہ چہ کنہ کامہ پیٹھ تھوندا کانہہ تصرف، یہ جھنہ اسہ وراى کانہہ ہنز کوم، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ اسی چھوہ مقرر کرمت توہندہ خیطرہ مران، یعنی سانی کوم پیدہ کروں، توپتہ اکس خاص و قفس تام زندہ تھاون، توپتہ اکس معین و مقررہ و قفس پیٹھ مارن، یہ جھہ سارے کامہ سائے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اسہ جھنہ ہرگز عاجز علیٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَمْ تَعْلَمُونَ سمہ تھہ نشہ کہ اس کیا بدلاووه توہ، توہی ہیونین بین لوکن سیت، بیہ وائے ناوہ توہ تھہ عالمس منز، یتیک نہ توہہ پتہ ہی آسہ، یا بناووه توہ تمی قسمک مخلوق یمن ہنز نہ توہ خبری آسہ، یعنی توہ سپدہ مخ صورت، واندرن تہ سورن ہنز شکل، اسہ بیجھ نہ تمہ نشہ کانہہ تہ پتھہ رٹھہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بے شک توہ چھہ سانہ گوڈہ پیدہ کرنج خبری، ادہ کونہ چھو توہ یاد ہیوان تہ فکرہ تران کہ قیامتگ دوہ تہ آیوہ توہ اتھہ پاٹھہ بیہ دوبارہ پیدہ کرنہ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ \* اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ توہ و نتوای لوکوئیس توہہ غلاتن ہیوندہ بیول زمینس منز ووان چھوہ، کیا توہ چھوہ تھہ بیالس زمینہ منزہ گل کھاران، کنہ زراعت تہ کل کھارہ و کن چھہ اس، سوزراعت کھیت تہ چھوہ سوسائسی اختیارس اندر، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ہرگاہ اس یڑھو سو زراعت کروں اس ہاشہ گومت، ئیس پنہ پنہ سو روی وس پیہ، پنہ وراے آسہ کنہ، پس سپد یو توہ حیران

أَفْرَاءَ يَتَمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ  
 الْمُنْزَنِ أَمْ خُنَّ الْمُنْزَلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا  
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفْرَاءَ يَتَمُّ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ  
 أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خُنَّ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ خُنَّ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً  
 وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا  
 أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

تہ پریشان دینہ لگیو توه، اِنَّا الْمَعْمُورُونَ بے شک چھ اس نقصان زدہ تہ تادان زو، بَلْ خُنَّ مَحْرُومُونَ  
 نقصان چھنہ کھنہ، بلکہ چھ اس بالکل محروم، اسہ رودنہ کھنہ، أَفْرَاءَ يَتَمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ توه  
 و نتوا ای لوکو تہ آس متعلق یس توه چوان چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ خُنَّ الْمُنْزَلُونَ  
 کیا توی چھوہ سو آب ابر منزہ تراوان، کہنہہ سو آب تراوان وال چھ آسی، سو باران تراوت تہ چھوہ سو  
 آسان سانی اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ہر گاہ اس یثو سو کرون اس  
 نمکین تہ ٹیوٹھ، بالکل بد مزہ، تہ بیگون کرت، و سَنَ چھوہ یہ سان ہڈ مہربانی کہ اس چھوہ نہ سو آب  
 ٹیوٹھ اوان، ادہ کونہ چھوہ توه شکر گذاری کران بیاک بوڈ فرض چھو شکر تراون تہ توحید پان، أَفْرَاءَ يَتَمُّ  
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ای لوکو توه و نتوئس نار توه روشن کران چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ خُنَّ  
 الْمُنْشِئُونَ کیا توه کروکہ تم کل پیدہ یمو منزہ تم سبز آتھہ سونا چھو نیہ ان یس تہنزن نجن اکھ اس  
 سیت کھرن دنہ کہ وقتہ ظاہر سپدان چھو، کنہ اسی چھہ تمن کلین ہند پیدہ کرہ و سَن، تمو منزہ سو شعلہ تہ  
 رہ کرہ و سَن، خُنَّ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ اسہ کر یہ دنیاک نار آخر تک نار دوزخ تہ تیس  
 پاوتک اکھ چیزہ پیدہ، بیہ اکھ فایدک چیزہ مسافرن ہندہ خیطرہ، سو نفع تلن تہ چھو موقوف خدایہ  
 سندس قدرتس پیٹھ، لہذا سمنز یہ قدرت چھہ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس کر یو توه تس پنہ نس  
 ہڈس پروردگارہ سندہ نام پاکک تسبیح تہ تمجید، فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ بوٹھس قسم ہاوان تارہ کن

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۸۵﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿۸۶﴾ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ ﴿۸۷﴾  
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۸﴾ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهُنُونَ ﴿۸۹﴾  
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۹۰﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ﴿۹۱﴾  
 وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۹۲﴾ وَمَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا

ہنزن لوسنہ جن جاین، ہیوند وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ پڑھا تھہ یہ چھو قسماہ سیٹھاہ بوڈ ہر گاہ توه  
 خبر آسا کیا زہ خدا سمیو ک قسم ہا وہ سو چھا معمولی کتھاہ، قسم چھو تھہ کتھہ پیٹھہ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۸۵﴾ فِي كِتَابٍ  
 مَكْنُونٍ بے شک یہ قرآن مجید ایس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھہ نازل سپدان چھو، تمہ کہ منزل  
 من اللہ آسنہ موکھ چھو سو سیٹھاہ مکرم و معظم قرآن مجید ایس اکس محفوظ کتابہ اندر بروٹھہ پیٹھہ درج  
 چھو، یعنی لوح محفوظ اس اندر، لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ اتھہ جھنہ لاگان تھہ لوح محفوظ اس، مگر پاک و  
 پاکیزہ ملکہ، شیطان چھنہ ممکن، اتھہ، کتھہ یکن یا تھہ لاگن، امہ کین معنن پیٹھہ مطلع سپدن چھنہ تھہ،  
 بعضہ مفسرین جھہ لاسمہ، راجع کران قرآن مجید سُن، یعنی تھہ قرآن مجید س جھنہ تھہ لاگان مگر  
 پاک لوک یعنی آھند دل صاف چھہ اھند اخلاق پاکیزہ چھہ، یکن و تھہ چھہ یوان امہ کین علوم و صنایع  
 گن، یا چھو یہ نفی یعنی نہی گو مطلب اتھہ قرآن مجید س مہ آسن اتھہ لاگان مگر پاک لوک یعنی بے  
 طہارت آسن نہ اتھہ لاگان یا تھپ کران، چنانچہ حدیث شریفن اندر چھو تھہ متعلق بیان فرمودت  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت رب العالمین  
 سندہ طرفہ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهُنُونَ کیا اتھہ کلام پاکس سیت چھو توه سو معمولی کتھاہ زانت  
 خلاف کران، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ امہ مدھنتہ علاوہ چھو توبہ بنو مدت اتھہ قرآن مجید س  
 انکار کران نہ سو اپن زان پنون غذا، تمی جھوہ توحید س نہ قیامتہ کس دوہس انکار کران، ہر گاہ یہ انکار  
 کردن تو ہندہ پڑ چھو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ادہ کونہ چھو توبہ تمہ وقتہ کنہ ہیکان کرت یمہ وقتہ  
 تو ہندس کانہہ رشتہ دارس، عزیز س مرنہ وزہ زوہر س پیٹھہ واتان چھو، مو تہ چہ سختی گرفتار سپدان  
 چھو، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ توه چھوہ حسرتہ چو نظر و تس و چھان، تمسز بے بسی تہ درماندہ گی ہیوند




تُبْصِرُونَ ﴿۵۵﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۵۶﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۷﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۵۸﴾ فَرَوْحٌ وَ  
 رَيْحَانٌ ۚ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۶۰﴾  
 فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۶۱﴾ وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ

تماشہ وچھان، وَعَنْ أَقْرَبٍ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اس تہ چھہ تس مرن والس شخصس توہندہ  
 خونہ زیادہ نزدیک آسان توہ چھو وچھان تھوند ظاہری حالی یوت، اسہ چھو معلوم تھوند باطنی حال تہ،  
 مگر توہ چھوہ نہ سون تس نزدیک تہ قریب آسُن وچھان فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر فی الواقع توہ  
 قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ آیونہ کرنہ توہ حساب آیہ نہ ہیہ، توہ کانسہ ہندس اختیارس منز چھوہ نہ  
 تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلہ کونہ چھوہ اس مرن والس شخصسہ سند روح واپس اتان، یا کیا زہ چھوہ  
 تھندس روحس نیرنہ دیوان، چھوئے توہ اتھہ خط وخیالس یعنی قیامتہ کس انکارس اندر پزیر، معلوم  
 سہد کہ قیامتک وقوع چھو حق تہ پز، لہذا ایلہ سہ قیامت قائم سہدہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس بس  
 شخصس آسہ تمہہ دوہہ مقرب بندو آندرہ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٌ تلہ چھو تھندی خیطرہ مکمل  
 آرام، بیہ فراغتک غذا، یا جنتک بوی خوش، بیہ نعمون ہند باغ، وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَن  
 بس آسہ دچھنہ طرفہ کیولو کو آندرہ، تس آیہ وننہ، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ چانہ خیطرہ چھو اس  
 وامان پر تھہ آفتہ بشرہ، کیا زہ تہ جھگ اصحاب سیمو آندرہ، وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَن  
 بس شخصس آسہ پزس انکار کرہ و نیو آندرہ، و تہ ذلیو آندرہ، فَنَزَّلْنَا مِنْ حَيْثُ نَشَاءُ \* وَتَصَلِّيَا جَحِيمٍ پس ایہ  
 تس گوڈنی پیش کرنہ سچ رسر، تو پتہ گوس واتن تہ داخل سپدن دزہ ونس نارس اندر، ہمیشہ روزنہ

الضَّالِّينَ ﴿۱۳﴾ فَتُنزَّلُ مِنْ حَيْمٍ ﴿۱۴﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَاحِدٍ ﴿۱۵﴾ إِنَّ  
هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿۱۶﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۱۷﴾

خاطرہ کہ اِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ ہے چھ ہنرت یعنی کتبہ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا  
ہندس اختیار و تصرف منزمہ سارے کتبہ چھ، تس عظیم الشان پنہ نس پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت  
کریو توہ تموندیاد، پران آسیو سبحان ربی العظیم یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلمس پیٹھ فرمووک اجعلوہا فی رکوعکم یہ تھاویو توہ ہن و نطقہ نمازہ ہندس رکوعس اندر، یعنی  
رکوعس اندر آسیو پران یہوی تسبیح سبحان ربی العظیم یلہ یہ نازل سپد سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  
تمہ ساتہ فرمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی سجودکم یہ تھاویون توہ پنہ نس سجودس  
اندر، یعنی سجودس اندر آسیو پران سبحان ربی الاعلیٰ۔



## سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②  
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى  
 عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ      الله تعالی سزایاکی چھہ بیان کران ساری مخلوق یم آسمان منزہ  
 زمین منزہ چھہ اڈ بزبان قال، اڈ بزبان حال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو سیٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول  
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ      تھوندوی راج تہ حکومت چھو آسمان تہ زمین اندر، يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 سوی چھو زندگی عطا کران سوی چھو ماران، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ      بیہ چھو سوی پر تھہ چیزس پیٹھہ  
 قدر تہ دول      هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سوی چھو سارنی مخلوقن برو تھہ، سوی چھو سارنی  
 مخلوقن پتہ، سوی چھو دلین ہندہ اعتبارہ ظاہر تہ نون سوی چھو بیہ اعتبارہ کہ تھندہ ذاتک مٹنہ تہ ادر اک  
 کیا بیہ نہ کانہہ تہ کرت باطن تہ پوشیدہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سوی چھو پرت چیزاہ پورہ زانہ دن،  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ      سوی چھو تیو تھہ قدر تہ دول کہ تم کرو آسمان تہ زمین  
 پیدہ، شن دوہن ہندس مدتس اندر، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تھہ پاٹھہ  
 اتھہ پاٹھہ تھندس شانس شو بہ، يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا سُوی چھو زنانان تہ سُورِیہ وسان  
 واتان تہ آزان چھو زمینس اندر، بیہ تہ سُورِیہ تہ تمہ منزہ کھسان تہ نیران چھو، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>۴</sup> لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ<sup>۵</sup> يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ<sup>۶</sup> اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا بیه تہ سوروی بیہ وسان چھو آسمان کہ طرفہ بیه تہ سوروی بیہ کہ کھسان چھہ  
توکن، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ چنانچہ سوچھو علم واطلاع کہ اعتبارہ توه سیت سیت ادہ بیہ توه آسیوتہ  
تت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیه چھو سو معبود برحق توه ہنزہ سارے کامہ وچھان، توبہہ ہیکونہ کنہ جایہ  
تس نشہ ژورہ تہ کھٹت روزت لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تہزی سلطنت تہ  
حکومت چھہ آسمان تہ زمین منز پیٹھ تہ آویان کرنہ لہ ملک السموات والارض، تہ تہ نس چھو مراد  
احیاء ولمات، یعنی زندہ کرنگ تہ مارنگ مسئلہ جھنہ تس وراي کانہ ہندس اختیارس اندر تہتس  
فر موو کہ بیہ لہ ملک السموات والارض یوتھ ثابت تہ محقق پدہ کہ مرنہ پتہ بیہ پیدہ کرن تہ چھو  
تہند سنی اختیارس اندر، لہذا جھنہ اتھ آیہ کر تہمس اندر تکرار کینہ تہ، يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ  
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ سوی چھوراژ ہندین حصن دوہہ کین حصن منز ملناوان، بیہ سیت دوہ چھو بزوان، سوی  
چھو دوہہ کین حصن راز سیت ملناوان بیہ سیت رات چھہ بزوان، اتھ قدر تس سیت چھو تہوند علم تہ  
قسمہ کامل، کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سہ چھہ زانان لوکن ہندین دلن ہنزہ تھہ تہ رایہ تان تہ، وکن  
یلہ ہنزہ وحدانیت مکمل طور ثابت سپز، اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ای لوکو ایمان اینوتہ پڑھہ کریو کنس  
خدا یس، سوز اینون منزہ تہ پاک مہنہ چیزس اندر شریک آسنہ نشہ، بیہ کریو پڑھہ تہندس پیغمبرس، کیا زہ  
تہندس رسالتس پڑھہ کرنہ وراي جھنہ توحید نجات دیوہ وکن تس شخصس، یس پیغمبرہ سنز خبر واثزش  
آسہ، بلکہ چھو لازم اقرار الوہیتس سیت اقرار رسالت تہ کرون، امہ پتہ فر موو کہ اصلی حکم سیت

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ  
 لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝  
 هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ  
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

فرعی حکماء سے، سوگو و آنفقوا ميثا جعلکم مستخلفين فيه بيه کريو خرج تمہ مالہ اندرہ، میک توه اللہ تعالیٰ ان خلیفہ سے قائم مقام کروہ، تہندی خیطرہ کیازہ تہنزہ وہتہ اندر مال خرج کرن چھو علامت کہ توه چھوہ پورہ پڑھ خدایہ سنزہ تہندس پیغمبرہ سنز، بیه سپدہ مال خرج کرنہ سیت اشاعت اسلام یس مقصود اعظم چھو، یعنی پانہ تہ انیو ایمان خدا یس تہ تہندس پیغمبرس، بیه کریو کوشش بین لوکن ہندہ ایمان آنہ نج، مما جعلکم مستخلفين فيه فرمانہ سیت کہ کہ اشارہ تہتہ کتھ گن کہ یہ مال اوس توه برو تھ بیه کانہ نش، توه بناوہ تہند خلیفہ، وئن آیتس کالس توه نش چھو بیه مال، تلبیو تبتیس کالس امہ سیت فاندہ، رثان کا مین اندر خرج کرنہ سیت، توه پتہ واتہ بیه مال بیه کانہ نش، سوسپدہ خلیفہ امہ مالگ، بیه مال پوشہ دن وھنہ، یہ آتہ تھاون، جمع کرت تھاون، ضروری مصر فن اندر خرج نہ کرن چھ محض حماقت، اتھ گن نظر کرت فالذین المؤمنونکمْ و آنفقوا لھم اجر کبیر۔ یمولو کو توه اندرہ ایمان ان خدا و پیغمبر خدا یس بیه کہ کہ مال خرج تہنز و تن اندر، تہندہ خیطرہ چھو بوڈ ثواب یمولو کو ایمان ان نہ تمن چھ اس پر تھان وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیه کیاہ وجہ چھو کہ توه چھو نہ پڑھہ کران معبود برحقس بیه تہندس رسول برحقس، حالانکہ تمک قوی اسباب تہ دعوی چھوہ ساری موجود وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ یہ بوڈ پیغمبر چھو توه ناددیوان کہ کریو پڑھہ پنہ نس پروردگارس دویم دعوی گوہ بیه کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پانہ چھو توه ہند پروردگارن توه نشہ ایمان انہ نس پیٹھ ميثاق آست کہ دوہہ عمد رثمت، یموک اجمالی اثر توهندس فطرتس منز موجود تہ چھو تگ یاد دہانی پیغمبران کر اموتہ توه کر مز چھ وقتا فوقتا، اگر توه ایمان ان چھو یم چیز چھ توهندہ حقہ کافی هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ  
 الْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلٌ  
 أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا  
 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠

سو معبود بر حق چھو تھوی رحمتہ وول کہ سو چھو پنے نس بندہ خاص محمد صلی اللہ علی وسلم پیٹھ صاف  
 صاف تہ نن آیات نازل کران، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یو تھ سو بندہ خاص توه لوکن  
 گھرہ چو تہ جہلمہ چو تاریکیو نشہ کڈ تھ ایمان و عرفانہ کس نورس کن و اتنا ناوہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ  
 رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو توه نسبت سٹھاہ مہربان تہ سٹھاہ رحم کرہ ون، یم توه کن شفقتہ وول یو تھ  
 پیغمبر بر حق سوز، تھ اندر اوس سوال ایمان نہ اتہ نس پیٹھ، امہ پتہ چھو سوال یوان کرنہ مال خرچ نہ  
 کر نس پیٹھ، یعنی مال کونہ چھوہ خرچ کران، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کیاہ وجہ چھو کہ توه  
 چھوہ نہ مال خرچ کران خدایہ سزہ و تہ اندر، دلہ چہ خوشی سیت وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ امہ  
 توه بندہ مانج کیاہ چھہ کتھی، سوروی آسمان تہ زمین سپدہ پتولا کہ خدایہ سندوی، یلہ ساری عارضی مالک  
 مران تہ ختم سپدن، سوروی واتہ مالک حقیقیس نشہ، دنیا عس اندر چھو بیہ مال توه اکہ تہ اکہ دوہہ تراوہ  
 نوی، لہذا کونہ دیو تہندہ رضا خیطرہ، بیہ سیت توه ثوابہ تہ اجراہ حاصل سپدہ، خرچ کر نس اندر تہ  
 چھو واریاہ فرق تہ تفاوت، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلٌ برابر چھنہ تم لوک یمو مال  
 خرچ کر اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر، یا جہاد کر اللہ تعالیٰ سزہ، و تہ اندر فتح مکہ بروٹھ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ  
 الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا یم لوک چھہ درجہ کن سٹھاہ تھد، تمن لوکن ہندہ خونہ یمو خرچ تہ جہاد  
 کر، فتح مکہ پتہ کیاہہ فتح مکہ بروٹھ آس زوتہ مال خرچ کر نس خدایہ سزہ و تہ اندر زیادہ قدر، کیاہہ مسلمان  
 آس کم دشمن آس واریاہ، مال غنیمت اوس نہ یوان نمہ طرفہ، لہذا آس جہاد کر نس تہ مال خرچ کر نس  
 زیادہ قدر، فتح مکہ پتہ سپز یمن چیزان اندر واریاہ فرق، فتح مکہ پتہ آس لوک پرت طرفہ برضا و رغبت  
 دین اسلامس اندر داخل سپدنہ خیطرہ، فوجو فوجو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله  
 أجرٌ كريمٌ ۱۱ يومَ ترى المؤمنينَ والمؤمناتِ يسعى نورُهُم  
 بينَ أيديهم وبأيمانهم بُشركم اليومَ جنتُ تجري من تحتها  
 الأنهارُ خالدينَ فيها ذلكَ هو الفوزُ العظيمُ ۱۲ يومَ يقولُ

ان ثواب عطا کرنگ وعدہ سارنی سیت کرمت والله بما تعملون خبيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ توبہ نزن  
 سارنی عملن ہنز پور خبر، کس کو ت اخلاص چھو ل س اندر، سودیہ تمی موجب سارنی مزدور، من  
 ذالذی یقرض اللہ قرضًا حسنًا فیضعفه له وله أجرٌ کریمٌ بین لوکن فتح مکہ بروٹھ مال خرچ  
 کرنگ موقعہ آونہ تمسن تہ چھو اللہ تعالیٰ دینہ جن کائین اندر مال خرچ کرنگ ترغیب دیوان فرماوان  
 چھو کہ چھا کانه شخصاه ئس اللہ تعالیٰ اس قرض دیہ اتھ طریقے، یعنی خلوصہ سان تس ہورہ اللہ تعالیٰ  
 دو گناوت، بیہ چھ تہندہ خیطرہ مزدور یاہ باعزت، یوصہ حسب مدعاو مطلب آسہ، امہ قرضک مطلب  
 چھو کہ جہادہ کہ وقتہ پائے جہادس نیرن تمہ کین ضروریاتن منز خرچ کرن، تو پتہ پائے مال غنیمت  
 حاصل کرن، یہ گو دنیا س اندر، آخر تس اندر گو تھد مرتبہ حاصل کرن، یومَ تری المؤمنینَ  
 والمؤمناتِ یسعی نورُهُم بینَ أيديهم وبأيمانهم سودوہ تہ چھو قابل ذکر یہہ دوہہ توبہ و چھو با ایمان  
 مردن تہ با ایمان زنانن ہیوند نور تمسن بروٹھ بروٹھ بیہ تمسن و چھن کن دوران، یہہ ساتہ محشرہ کہ  
 میدانہ بشرہ ہل صراطس کن لوک گدھن، تمہ ساتہ آسہ سخت تاریکی تہ اندگھ، تمہ وقتہ آسہ ایمانج تہ  
 نیک عملہ ہنز روشنی پر تھ اکس سیت، یوت ایمانس تہ عملہ اندر قوت آسیس تیز آسیس تھہ گائس  
 اندر زیادتی ایمانک نور آسیس بروٹھ بروٹھ، عملن ہیوند نور آسیس دہجھہ طرفہ، بعضے روا تین اندر  
 چھو آمت کھوفرہ طرفہ تہ آسہ نور، تمسن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن ایہ ونہہ بُشركم اليومَ  
 بشارت بوین توبہ از کہ دوہہ، جنتُ تجری من تحتها الأنهارُ خالدينَ فيها تمسن باغن ہنز یوم منزجہ بجہ  
 کولہ پکان چھہ، یمن منز توبہ ہمیشہ روزن چھو، ذلکَ هو الفوزُ العظيمُ یہہ گیہ ہنڈ کامیابی، کیا زہ جنت  
 چھو اللہ تعالیٰ سزہ خوشنودی تہ رضاء ک مقام، لیس توت ووت، سو سپند پنہ نین سارنی مطمئن اندر

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ  
 نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ  
 بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾  
 ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم و  
 ترصتم وارتبتم وخرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله و

کامیاب، یہ گو سوی دودہ یومر یقول المنفقون والمنفقات للذین آمنوا انظروا نفوسکم من نورکم  
 یمہ دودہ منافق مردہ منافق زنانه دن مسلمانن بلی صراطس پیٹھ، ای مسلمانو اسہ پیار تو ہناستہ کرہ ہو  
 تو ہند گاش حاصل تو پتہ پکہ ہو تو ہندی گاشہ سیت، قیل ارجمو واداءکم فالتمسوا نورا وندہ ایکھ تودہ  
 پھیر یو پانس پتھ کن، تھی کریو تلاش گاشک، تفسیر در منثور س منز چھو کہ امہ پتھ کن پھیر نہ اندرہ چھو  
 مراد سو جای سیتس سخت نہ پتھ گروہت بلی صراطس کھنہ کہ وقتہ نور تقسیم سپدیو، یعنی تھہ نور تقسیم سپد  
 نہ چہ جایہ گروہیو، تھی ژھانڈ یو گاش، چنانچہ تم گروہن توت، سیتہ تہ یلہ نہ پتہ گاشاہ حاصل سپدیکھ، تو پتہ  
 بین بیہ یں مسلمانن کن فضرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ پس ایہ کھارنہ تہ قایم کرنہ مسلمانن تہ تمن  
 منز کہ دیواراہ تہ قلاباہ، تھہ آسہ دروازہ تھہ دروازس آسن زہ حال، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ  
 قِبَلِهِ الْعَذَابُ سیمیک اندر یوم طرف بس با ایمانن کن آسہ سو آسہ رحمت تہ نور، تمیکو ک نبر یوم  
 طرف، بس تمن منافقن کن آسہ، سو آسہ عذاب تہ نہ پتھ، ینادونهم ألم نكن معكم تم منافق دن  
 آلو تہ آواز مسلمانن، ای مسلمانو، اس آساند نیاءس اندر توہ سیت اعمال و اطاعت کران، از تہ گروہ اس  
 پانسئ سیت رثن، قالوا بلى مسلمان دپتھ واقعی آسو توہ دنیاءس منز اسہ سیت آسان، مگر کیاہ شرف  
 تھہ سیت آسہ، توہ آسہ ظاہرہ پاٹھی، اسہ سیت، توہندہ باٹج حالت آس کہ وَلِكُلِّكُمْ فِتْنَةٌ  
 أَنْفُسُكُمْ توہ اوسوہ ترددس منز پھوسو موت پن پان گراہی اندر، سہ گراہی گیہ سببہ کہ توہندین دلن  
 اندر اوس عداوت پیٹھبر برحقہ سند بیہ با ایمانن ہیوند، وَتَرَبَّصُّوْا وَارْتَبِعُوْا الْآمَانِيْنَ تودہ آسودہ



عَزَّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿۱۴﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُولَئِكَ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
الَّذِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ  
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

پیاران سے تمنا کران تمیں گروہہ کا نہہ تکلیفہ سے مصیبتہ واثن، بیہ اوس توه اسلامہ کس حق آسس منز  
شک سے تردد، بیہ آسوه توبے ہودہ آرزو اودو کس منز تھاومت، توه اوس خیال کہ اسلام گروہہ جلدی  
ختم، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ اِتَّه پٹیہ روددہ توه عمرہ، یوتان خدایہ سندہ حکم ووت توهندہ خیطرہ یعنی  
مرکب لحم، وَعَزَّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ بیہ دیوت توه دھوکہ باز شیطان خدایہ سندہ حقہ دھوکہ، یوکفریا  
توسبہ رودیونہ توه اتھ قابل کہ پتہ سے کیاروز هیو توه اسمہ سیت، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا پس ایہ نہ رنہہ از کہ دوہر نہ توه نشہ سے نہ کافر ان نشہ کنہ قسمہ بدلہ سے عوض، گوڈہ چھنہ توه  
نش عوض پیش کرنہ خیطرہ کنہی چیز، دویم ہر گاہ آسمانہ توه نشہ کا نہہ چیز، سو ایہ ہانہ قبول کرنہ، کیازہ بیہ  
عالم چھو دار الجزاء، بیہ چھنہ دار العمل، تمہہ تھہ گذرے بیہ دنیا س اندر، مَا أُولَئِكَ النَّارُ توه سارنہی  
مناقش سے کافر ان ہندہ روز نچ جای چھہ نار جنم ہی مَوْلَاكُمْ یسوی نار جنم چھوپتہ توهندرفیق سے سیت  
سیت روزہ ون، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کثیرہ ایچھہ جای چھہ بیہ نار جنم بیہ سیت سپد ثابت کہ زیوہ ہندس  
اقرار س چھنہ کا نہہ اعتبار، یوتان نہ دلہ سیت تصدیق اسمہ امہ پتہ چھہ فرماوان کہ تھہ ایمانس سیت  
ضروری اعمالن ہنز کی اسمہ سو تہ چھو کمزور تہ نامکمل لہذا چھو اللہ تعالیٰ فرماوان بطریق عتاب مسلمان  
حکم کہ تھہ کمی کریو پوریہ اَلَّذِينَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا باایمان آندرہ یم  
لوک طاعات ضروری یعنی فرانس اندر کوتاہی، پہلو تھی سے سستی کران چھہ تمن دو تاونہ وقت بیہ تھہ  
ھیونکہ جہند دل کیاسپدہ ہن نرم خدا تیس پینہ سیت وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ بیہ اُس دین حق خدایہ  
سندہ طرفہ نازل سپد تمک ساری احکام بجاننہ سیت یعنی دلہ سیت کر ہن پور عزم طاعات و عبادات

عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۶﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهُ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾  
 إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصْدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمْ

ضرور یہ پابندی سان ادا کر ٹک، بیہ روزہ ہن نافرمانیو تہ معصیو نغمہ پتھ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ بیہ سپدہ ہن نہ تو بس تہ استغفار س منز تاخیر  
 کرنے سیت تمّن لوکن ہی یمن تمّن برو تھ آسانی کتاب عطا کرنے آئی، یعنی یہود و نصاریٰ، یم تمّن  
 کتابن خلاف نفسہ چن خواہش تہ گنہن منز رود، تو پتہ گذر یووتھ حالس اندر تمّن واریاہ وقت کنہ قسمہ  
 تمّن احساس پیدہ سپدہ نہ توبہ و استغفار کر ٹک، تمیوک نتیجہ در او کہ تہند دل سپد سٹھہ سخت تہ در،  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ تمہ قساوتک نتیجہ در او کہ تمواندرہ چھ از تہ واریاہ لوک فاسق۔ الغرض مسلمان  
 پڑہ جلد پائس بیون تہ توبہ کرون تم مہ کرن خیال کہ اس چھ گنہ گار، توبہ سیت کیاہ اصلاح ہیجہ سپد تہ  
 اسہ بلکہ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ تھ زانیووارہ کہ اللہ تعالیٰ سندشان چھویمہ قسمک کہ  
 سوچھ خشک گیتس زمینس بیہ زندہ کران، سر سبز تہ شاداب کران، اُتھے پاٹھ کرہ سو گنہ گار بندن پنہ نہ  
 رحمتہ سیت مردہ گمت دل بیہ زندہ، کیاہہ فَذَرَيْتُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بہ تحقیق اسہ کرہ بیان اچھ  
 مثالہ یوتھ توبہ فکرہ ترہ اسہ پتہ چھ فرماوان بیہ مال خرچ کر ٹک فضیلت خدا یہ سز ن و تن اندر، إِنَّ  
 الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصْدِقَاتِ بے شک سیٹھہ صدقہ دیوہ و ن مرد بیہ سٹھہ صدقہ دیوہ و نہ زنانہ،  
 وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ یم قرض دیوہ و ن چھ اللہ تعالیٰ اس بکمال خلوص رُت قرضہ يُضَعْفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بیہ یہ تمّن دو گناوت عطا کرنے، بیہ چھ تہندہ خیطرہ باعزت مزور، یعنی یم لوک  
 اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر مال خرچ کرن آنیت خالص، محض تہندی رضا مندی تہ خوشنودی خیطرہ  
 پروردگار س و رای آسن نہ بیہ کانہ نغمہ تمیوک عوض تہ بدلہ یا شکر یہ ژھانڈھان، تم زن اللہ تعالیٰ

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۹ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ

اس قرض چھ دیوان، تم تہاوں اطمینان کہ تہوندو یو تمت مال ضایع گھوہنہ بلکہ کرہ تمنن اللہ تعالیٰ عطا تمہ خوتہ واریاہ گن، امہ پتہ چھوبیہ ایمانک فضیلت بیان یوان کرنہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بیہ یم لوک اللہ تعالیٰ اس بیہ تہندین پیغمبرن پورہ پاٹھ پڑھ چھ کر ان تہند احکام چھ عملاً بجائان، بے شک تمے لوک چھ پڑپاٹھ با ایمان، بیہ چھ تمے لوکن ہو ند حال پنہ نس پروردگار س نعرہ باہ ورن نہ گواہی دیوہ ورن، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ تہندی خاطرہ چھہ جنس اندر تہنزہ خاص مزدور نہ ثواب، بیہ چھو تہندی خطیرہ ہل صراطس پیٹھ خاص نور نہ گاش، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ سمو لوکو کفر نہ انکار کر، بیہ زانک اپڑسان آیات، تمے لوک چھ جنسی، اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ای لوکو توہ زانیویہ کتھہ وارہ کہ آخرتس مقابلہ چھہ دنیاہج زندگی ہرگز تہو تھ چیزاہ، چھہ سیت مشغول زوزن مقصود آسن گوڑھہ، کیا زہہ حج حقیقت چھہ کہ لوکہ چارس منز چھو گند نس سیت وقت ضایع گھوہان، جوانی منز چھہ زینت و آرائش نہ بین ہم عمرن پیٹھ تھیکش کن فخر آسان، بو بجزس منز چھہ مال ودولت نہ خر گبر گزراونس نہ سبر اونس کن فکر آسان، یم ساری چیز چھہ فانی گھوہنہ وکن مقاصد، بیہ محض خواہاہ نہ خیالہہ حج مثال چھہ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا تمہ رُود حج بس پوان چھو، تمہ سیت زراعتک کھسن چھو ز میندارن سیٹھاہ پسند یوان نہ خوش کران، تو پتہ چھو زراعت خشک سپدان بس چھو کن سوو چھان ژہ، لیدرہ رنگہ، تو پتہ چھو تمبوک گاسہ ہو کھان،

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿۳۰﴾  
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ  
 الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۱﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ

تھے چھو چورہ گواہان، اُسے پٹھ چھو دنیاک بہار کئیوں دوہن آسان تو پتہ چھو تھے زوال تہ اضمحلال  
 سپدان، یہ گو دنیاہ وَفِي الْأَرْضِ قَدْ أَخَذْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَّغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ آخر تس اندر چھو کافرن ہندہ  
 خیطرہ عذاب شدید اہل ایمان ہندہ خیطرہ مغفرت تہ رضامندی یم دو شوے چھہ باقی، پس چھہ  
 آخرت تہ باقی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ دنیوی زندگانی چھہ مگر دھوکھل اکھ سامانہ، وَسَنَ  
 یلہ متاع دنیا چھو فانی آخرتچ دولت چھہ باقی یوسہ ایمانکہ برکتہ حاصل ہیمہ سپدت، لہذا پزہ تودہ کہ  
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دور تلیو تودہ، یعنی جلدی کریو پتہ  
 نس پروردگارہ سند مغفرت حاصل کرنہ خیطرہ، بیہ دور یوسوجنت حاصل کرنہ خیطرہ، سمیوک پناہ چھو  
 تیوت، یوت آسمان وزمین اکھ اکس سیت ملناوت، بنہ یہ گو ہنہی زچھر تموک زانہ پانہ اللہ تعالیٰ،  
 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یسوی جنت چھو تیار کرنہ آمت تمسن لوکن ہندہ خیطرہ یمن پور  
 پڑھہ چھہ خدا یہ سزہ بیہ ہمدین پیغمبرن ہنز، ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ مغفرت تہ رضای  
 خدا چھو خدا یہ سند فضل سو چھو یہ فضل عطا کران تس یس یوہان چھو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ  
 تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا کانہ  
 مصیبتہ چھہ دنیاہ س تہ ملکس اندر، یا تو ہندین زون اندر واقع سپدان، یعنی خارجی تہ داخلی مصیبت،  
 مگر سو مصیبت چھو لیھت اکس کتابہ اندر یعنی لوح محفوظس اندر تم تو ہند زوپیدہ کرنہ بروٹھ، لَٰنَ ذَٰلِكَ  
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ تھہ، یعنی پیدہ کرنہ بروٹھ لیھت تھاون چھو اللہ تعالیٰ اس بھرہ سہل تہ آسان کیا زہ

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿۲۶﴾ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۷﴾ اِلٰلَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۸﴾

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ

تس چھو سوری علم غیب حاصل یہ تھہ وین اسمہ توه یمہ موکھ ، لیکلہ تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم یو تھہ توه زیادہ رنج تہ غم کھیو تھہ چیزس ، کس توه نیشہ ازدست گو ، صحت ہیو ، مال واولاد ہی ، تا اینکه سورج و غم کھیون سپدہ توه مانع آخرتجن کاین اندر مشغول روزنہ نیشہ ، بیہ خدایہ سندر ضاٹھا نڈنہ نیشہ ، ہر گاہ رنج طبعی سپدہ تھہ چھنہ کانہہ حرج ، بیہ یو تھہ توه تمہ چیزہ سیت ، کس کھی عطا کردہ تھیگیو خوش گڑھیو تہ مغرور سپد یو ، بلکہ گڑھہ زائن کہ یہ کمر عطا اللہ تعالیٰ ان محض پنہ فضلہ سیت ، واللہ لایحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ چھنہ پسند کران کانہہ تھیگہ و نس نہ تھیگہ و نس شخصس ، ایلذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل یم تمہ قسمک لوک چھ کہ مال دنیا کہ محبتہ سببہ چھہ پانہ تہ بخل کران پرورد گارہ سزنا و تن اندر خرچ کرنہ نیشہ بیہ چھہ بین لوکن تہ بخل کر نچ تعلیم کران ، یسوی محبت دنیا چھو تمن باعش سپدان پڑہ دینہ نیشہ اعراض کرنگ و من یتول فان اللہ هو الغنی الحمید لیس اکھاہ دمن حقہ نیشہ اعراض کرہ ، کر تن ، اللہ تعالیٰ اس چھنہ تمیوک کانہہ ضرر ، کیاہہ سوچھو بے نیاز ، پنہ نس ذاتس تہ صفاتن اندر کامل ، بیہ سزوار حمد وثنا ، سوچھنہ محتاج لوکن ہندس بدنی عبادتس یا مالی عبادتس کن ، لقد ارسنا رسلنا بالبینت بے شک اسمہ سوز بہنن بینغیر لوکن ہندہ اصلاحہ خیطرہ ، نن تہ واضح احکام ہیئت و انزلنا معہم الکتاب و المیزان بیہ دژاسہ تمن سیت بہنن کتاب ، بیہ کراسہ نازل تر کر بینے عدل انصاف احکام و اسباب ، تمن ہیوند تعلق چھو حقوق العبادن سیت لیقوم الناس یالقسط یوتھہ لوک خدایہ سندین حقن تہ بدنن ہندین حقن اندر اعتدالس پیٹھہ قایم روزن ، و انزلنا الحدید فیہ یاس شہید بیہ دول اسمہ شترتھہ منز چھو کافی قوت تہ طاقت و منافعہ للنایس بیہ

بِأَسْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

چھ تھے اندر لوکن ہندہ خیطرہ واریاہ فائدہ تہ نفع، الحاصل یم لوک آسمانی کتاباوسیت سیزہ و تہ پیٹھین نہ، بیہ یم نہ میزان عدل دنیاوس منز قائم تہاوں تہندہ خیطرہ چھ ضرورت تمن گوشالی کرنہ خیطرہ بیہ ظالمین تہ ہول یکہ و نین راہ راستس پیٹھ انہ خیطرہ، خداور سولہ سنیدن احکامن ہیوندوقار قائم تہاوندہ خیطرہ شمشیر کوم منجسہ تہ چھ تہ ساتھ اکھ دینی کوماہ، جہاداسہ کوم کیہ ہینہ آتھ شترس، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ زانہ کہ کس اکھاہ چھو اللہ تعالیٰ اس تہ تہندین پیغمبرن یعنی تہندس دینس وچھندہ وراہی مدد کران تہندہ دینہ کہ تھزہ تہ بلندی خیطرہ جہاد کران، اگرچہ سو چھندہ محتاج لوکن ہندس مددس کن، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ کیاہہ سو چھوپانہ سٹھاہ طاقتہ دول تہ غلبہ دول مگر سو چھو پڑھاں لوک گڑھہ اشاعت دین کرنہ سیت ثواب حاصل کرن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ بے شک بیہ سوزاسہ امی اشاعت دینن حق کرنہ خیطرہ نوح علیہ السلام بیہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بناوت وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بیہ تہوواسہ جاری تمن دون ہندین اولادان اندر پیغمبری تہ کتاب یعنی تہند یو اولادواندرہ کتر اسہ بعضے پیغمبر بعضے مرسل تمن کتر کتاب تہ عطا، فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ تمولو کو اندرہ آس بعضے یمن ہدایت نیو، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ واریاہ آس تمواندرہ نافرمان ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا تہ پتہ سوزاسہ تمن پتہ پنکن پیغمبر اکھ اکس پتہ، یم مستقل صاحب شریعت آس نہ بلکہ آس تابع بیس صاحب شریعت پیغمبرس، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ توپتہ سوزاسہ تمن پتہ اکھ صاحب شریعت پیغمبر عیسیٰ فرزند نبی بی مریمہ سُنَد علیہا السلام، تمن کتر عطااسہ کتاب ہتھہ انجیل ناوچھو، تہندس اتھس سہزہ ججاٹا، اکھ جماعت تمن پیروی

اتَّبِعُوا رَافَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا  
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا  
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

تہ متابعت کر وہ زمین ہنز بیا کہ جماعت یسوی تمس انکار کر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافَةَ وَرَحْمَةَ  
یسوی لو کو تہوند اتباع تہ پیروی کر یعنی گوڈیج جماعت، اسہ تراو جہدین دل اندر شفقت تہ مربانی تم چھ  
خدا یہ سندین مخلوقن نسبت محبت و شفقتک بر تاؤ کران، اتھ پاتھ اللہ تعالیٰ ان صحابہ صمیم ہندہ حقہ  
فر موور جماعتینہم چونکہ است عیسویس پیٹھ اوسنہ جماد فرض تمہ مؤکھ فر مووکھ تہوند صفت اشداء علی  
الکفار کنہ تہ، سو آو صحابہ صمیمی ہیوند صفت بیان کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ سانہ طرفہ اوس اُمت  
عیسویس پیٹھ صرف اتباع احکام کر کوی یوت لحم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِيَكُنْ تَمُوه  
اندرہ بعضے شخصو نور او پانے رہبانیت، یعنی گوشہ نشینی، لوکن سیت نہ ملہ ژار تہوان، ترک نکاح کران  
ترک لذات کران، یہ ایجاد کر تک وجہ سہز تمس یہ تھہ کہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندہ رفعہ پتہ تراو بعضے لو کو  
احکامو موجب عمل کرن، تمس اندر آس بعضے لوک اہل حق تہ، تم روو بدستور اظہار حق کران، یہ  
تھہ سپنر ناگوار ہوا پرستن، تموگر تمہ وقتہ کس حکوتس درخواست کہ یم لوک گوہن مجبور کرنہ ین  
اسہ سیت موافقت کرنس پیٹھ، تم یلہ اتھ پیٹھ مجبور کرنہ آی تموتہ دیوتہ درخواست کہ اسہ دیو  
اجازت کہ اس تہاودنہ یمن لوکن سیت کانہہ تعلق، نہ آسواس تمس احکامن پیٹھ عمل نہ کرنس پیٹھ  
کانہہ اعتراض کران، اس روز ولوکن لغہ الگ، اس کرو گوشہ نشینی تہ سیر و سیاحتس اندر پختہ عمرہ  
صرف، چنانچہ تمس آو تمکوئی اجازت دنہ، غرض تموگر تہ پانے ایجاد اکھ چیزہ، اسہ گرنہ تمس پیٹھ یہ  
تھہ واجب کہنہ تہ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ مگر تمو کر یوویہ اختیار اللہ تعالیٰ سندر رضا حاصل کرنہ خیطرہ،  
کہ امی سیت روزہ سون دین محفوظ، مگر یمورا ہوا اندر آس تم لوک زیادہ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا تہو  
کمر نہ اتھ رہبانیتس پورہ رچھ، یمہ غرضہ خیطرہ تمویہ اختیار کرے یہ سوگیو خدا یہ سندر رضا ژا ہانڈن،  
تموک گرنہ تمو پورہ اہتمام کہنہ تہ، تمس راہن سہزہہ جماژ، اڈگے تم یمور رعایت تہ رچھہ کر، اڈگے تم  
یمونہ کانہہ رعایت کر، تمونزہ یمو پیغمبر آخر الزمانہ سند وقت لب تہمدہ حقہ اوس حق رعایتک شرط،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ لَيْتَ لَعَلَّكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْآيِقْدِرُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۹﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان سے پڑھ کر سن و دل یوں تمہیں پڑھ کر، تم گئے رعایت کرہ دن، بیونہ  
 تمہیں پڑھ کر تم گئے نہ رعایت سے راجحہ کرہ و سن تھ رہا نہیں، تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ فَاتَيْنَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا مِنْهُمْ آجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسَيُؤْتُونَ پس کراسہ عطا تمواندرہ، تمہیں یوں ایمان ان سے پڑھ کر حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم تہند حصہ مزور سے اجر تمہیں کراسہ تمہیں وعدہ کرمت اوس مگر تم اس کئی، زیادہ  
 آس تمواندرہ فاسق سے نافرمان، بیونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان سے پڑھ کر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ای تم لو کو یوں ایمان ان عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ خدائیں کھوڑیو، سے کریو یہ تس  
 کھوڑن سزاوار چھو، یعنی وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ایمان انیو تہندس پیغمبرس حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ کرہ توہ پنہ نہ رحمتہ سیت زہ حصہ تو ایک عطا،  
 وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ بیہ کرہ توہ تیو تھ نور عطا، لیس توہ سیت سیت روزہ۔ یہ پیٹھ پل صراطس  
 تان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ توہ سارنی گنہن بخشائیں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو  
 مغفرت کرہ دن رحم کرہ دن، لَيْتَ لَعَلَّكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْآيِقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ زہ  
 مہربانیہ کرہ اللہ تعالیٰ بیہ موکھ عطا، یو تھ تم اہل کتاب بیونہ پڑھ کر حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی  
 اللہ علیہ وسلم یہ سٹھ وارہ زان کہ تمہیں جھنہ خدایہ سندہ فضل منزہ عنہ چیزس پیٹھ کانہہ اختیارہ،  
 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بیہ سپدہ تمہیں یہ سٹھ معلوم کہ سوروی فضل چھہ خدایہ سی  
 اتھ، سو چھو سو فضل عطا کران لیس پڑھان چھو سے تس، چنانچہ تم یوڑھ سو فضل مسلمان عطا کرن،  
 لیس سترن تمہیں عطا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بو فضلہ وول



## سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ  
 تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  
 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَاتَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ

یمن آیات کریمین هیوند شان نزول چھو کہ اکھ شخصہ صحابہ صیو اندرہ، نیس ناواوس اوس بن صامت، تمودپ زنانہ پنہ نہ تکھہ اندر کہ ژہ پھک ماجہ ہیجز تھر ہش مہ پیٹھہ حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ مبعوث سپد ہنہ بروئھہ، زمانہ جاہلیتس اندراوس یہ لفظ ونہ سیت زنانہ ہمیشہ خیطرہ حرام سپدان بلکہ اوس یہ لفظ طلاقہ خونہ زیادہ سخت تصور یوان کرنہ تحقیق حکم کرنہ خیطرہ آہیہ دید صاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خد قس اندر، تمو فر مووس مہ چھو یوان لبنہ کھہ ژہ سپز کھ پنہ نس خاندارس پیٹھہ حرام، یہ بوزت تل تمہ شور سٹھالچ کرنہ واویلا دپنہ لچ میون تہ میانین بچن ہیوند گذارہ کھہ سپدہ، میان خاندارن ہیونتہ طلا کک لفظ زیوہ پٹھی یہ کھہ پاٹھہ بیو و طلاق، اللھم انی اشکو الیک، خدایا بو پھس ڈی نش پنون مشکل پیش کران اتھہ مٹکس کرم ڈی حل، آئی سپدیم آیات کریمہ نازل،

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

بے شک اللہ تعالیٰ ان بوزہ تس زنانہ ہنزہ کھہ، یوصہ توہ سیت یار سول گفتگو کران آس خاندارہ سندس معاملس اندر، دپان آس تم ہیونتہ طلا کک لفظی زیوہ پیٹھہ، بو کھہ پاٹھہ سپزس تس پیٹھہ حرام، پنہ نہ امہ رنج و غم شکایت آس کران خدایس نشہ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللہ تعالیٰ اوس بوزان توہند گفتگو

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوروی وچھ ون، سوی چھو فریادس واتہ ون، امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون ظمارک حکم الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَاتَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ای مسلمانو توہ اندرہ تم

إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَّمَہُمْ وَإِنَّہُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ یُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِہِم مَّا تَعْمَلُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَّسَا ذَلِکُمْ تَوْعظُونَ بِہِ ۚ وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ شَهْرَیْنِ مُتتَابِعَیْنِ مِّن قَبْلِ أَن یَتَّسَا فَمَنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ فَاطْعَامٌ

ظہار کران آسن یعنی پنہ نین زنانن آسن ونان انت علی کظہر امی یعنی ژہہ بھک مہ پیٹھ حرام ماجہ ہیوند پشت نہ تھر ہش، تمہ منکوہہ زنانہ جھنہ فی الحقیقت تہزہہ ماجہ، **إِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ** تہزہہ ماجہ جھنہ مگر تمہ زنانہ یمن تم زامت چھہ **وَإِنَّہُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** بے شک تم لوک یم زنانن چھہ ونان مونج یا ما جن سیت چھک تشبیہ دیوان، تم چھہ بے ہودہ تہہ اپڑتھہ ونان لہذا چھہ تم گنہک مہر تکب سپدان ہر گاہ اتھ گنہس تدارک کرنہ آہ، اتھ سپدہ معانی تہ، **وَإِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ** کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سٹھاہ مغفرت کرہ ون **وَالَّذِينَ یُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِہِم مَّا تَعْمَلُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَّسَا** بیہ یم لوک پنہ نین زنانن ظہار کرن تو پتہ یڑھن تم سوی کو م کرن سٹھہ متعلق تمو نیو واس کر ونہ یعنی تعلقات زوجیت تلہ چھو مہ مردس اکھ غلام یا کنیرہ آزاد کرن، اورہ یور دون باژن ہنز اکھ اس تھپ کرنہ بروٹھہ، یعنی ہم بستری کرنہ بروٹھہ، **ذَلِکُمْ تَوْعظُونَ بِہِ** بیہ کفارہ کہ حکمہ سیت چھہ توہ نصیحت یوان کرنہ، یعنی امیوک فائدہ چھو کہ یوتھہ توہ آئندہ اٹھہ بے ہودہ تہ لغوتھہ کریونہ، **وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنز ن سارنی کامین ہنز پور خبر، سو چھو زنانن کہ تعمیل احکام کوہ چھو کران کوہ جھنہ کرن، اتھ کفارہ دنس اندر چھہ زہ حکمہ، اکھ گنہن ہنز بخشالیش، بیہ آئندہ خیطرہ جذبہ احتیاط پیدا کران **فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ شَهْرَیْنِ مُتتَابِعَیْنِ مِّن قَبْلِ أَن یَتَّسَا** ون یسنہ بنہ غلام یا کنیر، آزاد کرنہ خیطرہ تس چھو مہ ایچ کفارہ دنہ خیطرہ دون رتین تپوس تھہ روزہ دار روزن، اکھ اس تھپ کرنہ یعنی ہم بستری کرنہ

سَيِّئِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ  
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ  
 بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

بروٹھ، **فَمَنْ لَمْ يَنْتَظِرْ فَأَطْعَمَ سَيِّئِينَ مَسْكِينًا** پس اُس شخص سے تپوس ہتھ روزہ دار ہیکہ روزت، تہندہ  
 خیطرہ چھہ کفارتِ ظہار شیئیں مسکین کھین دیوں، **ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** یہ حکم آدیان کرنہ  
 یوتھ۔ توہ عملن متعلق مصطوح حاصل کرنہ کہ علاوہ، خدا ایس نہ تہندس پیغمبرس پور پڑھہ کریو، **وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ** یم احکام چھہ خدا یہ سند حد مقرر کرنہ آمت، تہند قانون نہ ضابطہ لیکنہ آمت، یموحد  
 دلہہ گوہنہ نیر نیرون حدہ ذلہ ون گئے کافر، **وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** کافرن ہندہ خیطرہ چھو، سم نہ  
 احکام الہین ہیوند تصدیق و تعمیل کرن، سخت دود تکلہ ون عذاب، یہ سزا ہندہ ہتھ کھس خلاف کرنہ  
 خیطرہ خاص، بلکہ **إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ  
 بَيِّنَاتٍ** یم لوک خدا ایس نہ تہندس پیغمبر سز مخالفقت عنہ کھس منز کران چھہ، تم ین خوارو  
 ذلیل کرنہ دنیا س اندر تہ تمں لوکن ہند پانٹھ یم تمں بروٹھہ آس، گوہنا تم عذابو سیت خوارو ذلیل  
 ین کرنہ بے شک اسہ سوز تمں کن صاف نہ واضح آیات، تمں آیاتن پڑھہ نہ کرین بلکہ انکار کردون  
 چھو لا محالہ موجب سزا اُس دنیا س اندر تمں دنہ آو، **وَاللَّكْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ** تمہ علاوہ چھو  
 کافرن نہ منکرن ہندہ خیطرہ آخر تس اندر خوار تہ ذلیل کرہ ون عذاب، سو عذاب کر سپدہ تمں **يَوْمَ  
 يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا** یمہ دوہہ تمں سار نبی اللہ تعالیٰ دوبارہ بیہ زندہ کرہ تو پتہ ونہ  
 تمں تمہ کامہ یمہ تمو کر مرثہ آسن دنیا س اندر **أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ** تمہ سارے کامہ آسن اللہ  
 تعالیٰ ان کہہ کہہ لیکن تہ محفوظ تہا ونہ ومرثہ، تمں آسن نہ پانس تمہ کامہ یادگی، مشت آسکلہ گمہوہ،

الْمُتْرَانِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي  
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّوَادِرِ  
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۹۱ اللَّهُ تَعَالَى جَهوپانہ پرت منہ چیزس پیٹھ پور مطلع تہ باخبر، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا توہ چھناہ تھہ زہر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس جھوتہ سوروی معلوم، یہ  
 آسمان اندر چھو، بیہ تہ سوروی یہ زمین منز چھو، بوڈیا لوکت چیز، بڈہ بڈہ تھہ یا لو تہ لو تہ تھہ، بلکہ کن تھہ  
 تان تہ، چنانچہ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ جھنہ آسان ترین  
 شخص ہنزہ کن تھہ منہ جاہہ یمن سیت نہ اللہ تعالیٰ چھہ ژور یوم آسان اتھہ پاٹ جھنہ آسان پاژن  
 شخص ہنزہ کن تھہ یمن سیت نہ شیوم چھو آسان اللہ تعالیٰ، وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ  
 مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا نہ امہ عدہ خوتہ کم، زہ یا ژور، نہ امہ خوتہ زیادہ، شہہ یا تھہ، مگر پر تھہ حاس اندر  
 چھو اللہ تعالیٰ تمن سیت آسان ادھہ تھہ جاہہ آسن تہ تھہ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ توپتہ ونہ  
 سو تمن سارنی قیامتک دوہ، تمہ سارنہ کامہ، یہہ تم کران آس دنیا س اندر، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ کتھاہ تہ پر تھہ چیزاہ پور زانان، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ کیا توہ چھوہ ناتمن لوکن کنن و چھان یمن منع آیوو کرنہ کن تھہ کرنہ  
 نَشہ، مگر تو تہ چھہ تم سوی کوم کران، یہہ نَشہ تمن منع آیوو کرنہ، وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّوَادِرِ  
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ زیادہ افسوس ناک تھہ چھہ یہہ کہ تم چھہ کن تھہ کران گھن متعلق سرکش متعلق بیہ  
 پیئمبر برحقہ سزہ نافرمانی متعلق وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ یم یہود چھہ تھہی کہ یلہ تم

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ أَن تَبْرَحُوا فِيهَا  
 يَصْلُونَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ  
 فَلَا تَنَاجُوا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا  
 بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا التَّجْوِي  
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

توہ نش یوان چھ یار رسول اللہ توہ چھ تم سلام کران تمی لفظ سیت یمہ لفظ سیت نہ اللہ تعالیٰ ان توہ سلام  
 کمر اللہ تعالیٰ ان کمر توہ یمہ، بین پیغمبرن نہ سلام، بلفظ سلام، چنانچہ فرموان السلام علیک ایہا النبی  
 بیہ فرموان سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تم چھ ونان السام علیک، سام گو موت،  
 وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ توپتہ چھ تم پانہ وان پانس سیت ونان کہ اگر یم پیغمبر چھ  
 تلہ کونہ چھواسہ اللہ تعالیٰ لیمہ لفظ ونہ نس پیٹھ رٹان نہ سزادیوان، کیاہہ اتھ اندر چھہ سراسر بے ادبی،  
 حَسِبْتُمْ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا تہمدہ سزاخیرہ، چھوکانی جنم، تھہ منز چھو تمن ضرور داخل سپدن  
 فِئْسَ الْمَصِيرُ صہ چھہ سٹھہ چھہ جای تہمدہ واتنہ خیرہ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا  
 بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ای بایمانویلہ توہ منہ ضرور نہ وزہ کن تھہ آسیو کران تلہ مہ  
 آسو کران منافقن ہند پاٹھ، منہ گنہس متعلق یاسر کشی متعلق یانہی کریمہ سزہ نافرمانی متعلق، وَتَنَاجُوا  
 بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بلکہ آسیو توہ کنہ تھہ کران لوکن نفع واتہ ناوس متعلق بیہ پرہیز گاری متعلق،  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوڑیو خدا لیس، لیس بروٹھہ کنہ توہ ساری سبراونہ آیو حسابہ خیرہ،  
 إِنَّمَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا منافقن ہنزہ کن تھہ مگر شیطانہ سندہ ڈالنے سببہ،  
 یوتھہ بایمان غمس نہ تکلیفس منز تراون، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ شیطان ہیچہ نہ  
 بایمان کنہ قسمہ ضرور واتہ ناوت خدا لیمہ سندہ حمہ ورا ی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بایمان پزہ

**أَمْوَالًا إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذْ قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير**<sup>١١</sup>  
**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ يَدَيَّ**

پر تمھ کامہ اندر اللہ تعالیٰ سئی پٹھ توکل سے اعتماد کرن، **يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ** ای باایمانو یلہ توه وننه آیه یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون توه یوالی الامر آندره یا واجب الاطاعت لو کو اندرہ دنہ توه کا نژاہ، کہ جایہ اندر کریو وسعت، نکھ بھہ بہو، یوتھ بین لوکن سے آیه موقعہ کلام خدا، سے وعظ و نصیحت بوزنک، تمہ ساتہ آسیو توه جایہ اندر کشادہ گی کران، بین ینہ والین آسیو جای دیوان، اللہ تعالیٰ کرہ توهنزی تنگی سے کشادہ، سومژراوہ توه کن رحمتک دروازہ، **وَإِذْ قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا** ہر گاہ منہ ضرورتہ کہ وقتہ توه وننه آیه کہ تھودو تھیو، بیس ینہ والس تراویو جای، فور آژہ تھودو تھن سے بیس جای تراون، پانہ بھس جایہ ہمون، یہ حکم چھو نبی کریمس و رای بیہ کانہ ہندہ خیطرہ سے باقی، نئس منہ مجلسہ ہیوند صدر مجلس آسہ، اتھ پیٹھ چھود دلالت کران لفظ قیل، یعنی یلہ توه وننه یوان آسہ، سووند ون اده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستن، یا کانہ واجب الاطاعت شخص آستن البتہ اہل مجلسو اندرہ، یا کانہ پتہ اده ونس پھنہ جائز کہ کانہ شخص تلہ ہا مجلسہ منزہ تھود، ہنہزہ جایہ بہہ بلانہ، یا بہناوہ ہا بیہ کانہ، **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ** اللہ تعالیٰ کرہ اتھ حکم تقییل و اطاعت کرنہ سیت تمن لوکن ہند (یوموتو اندرہ ایمان ان) آخرتس اندر درجہ بلند بیہ تمن لوکن باایمان اندرہ، یمن علم دین عطا کرنہ او، زیادہ تھند درجہ عطا کیا زہ آہنہز اطاعت سے تقییل حکم چھہ زیادہ پر خلوص، عملہ اندر نیوت زیادہ خلوص آسہ تیوت چھو ثواب زیادہ عطا یوان کرنہ، **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ توهنزن سارنی عملن ہنہز پور خبر نئس چھہ خبر کہنہز عمل چھہ خالی از ایمان، کہنہز عمل چھہ ایماندار ی سان، کہنہز عملہ منز چھو کوتاہ اخلاص **يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ يَدَيَّ** ای

بِحَوْلِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْرُقَانٌ لَمْ تَعْبُدُوا وَإِنَّا اللَّهُ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ  
 صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاتَهُمْ مِنكُمْ وَلَا

بالیانو یلہ توہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیتی برہ تھہ کرنہ آسن، جہند گوہہ تمہ پنہ نہ سرہ تھہ تمہن  
 سیت کرنہ بروٹھ فقیرن مسکینن کئیو ہادیون بطور صدقہ تمیوک مقدار چھنہ مقرر کرنہ آمت، مگر  
 آسن گوہہ سو معتد ہی **ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْرُقَانٌ** یہ چھو توہندہ ثواب تہ اجر حاصل کرنہ خیطرہ بیہ توہ  
 گنہو لہہ پاک کرنہ خیطرہ رُت ذریعہ، **وَإِنَّا لَمْ تَعْبُدُوا وَإِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** دُن ہر گاہ توہ صدقہ جورہ  
 نہ تلہ چھو توہ معاف، بس بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھہ مغفرت کرہ دن سٹھہ رحم کرہ دن، **ءَأَشْفَقْتُمْ**  
**أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ** کیاہ توہہ اندرہ بعضے متوسط لوک کھوڑوہ نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم سیت برہ تھہ کرنہ بروٹھ صدقہ دس، **فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ** خیر یلہ نہ  
 توہ پور وسعت۔ نہ آسنہ موکھہ صدقہ ہیوکوہ دتھ اللہ تعالیٰ ان کز توہندس حالتس پیٹھہ رحم کرت توہ  
 صدقہ دیون معاف مگر بین ضروری عبادتن اندر کریو توہ پابندی **فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**  
**وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ** پس تہادیو قائم نماز پابندی سان بیہ آسیودیوان زکوٰۃ پابندی سان، بیہ آسیو  
 فرماں برداری کران خدایہ سنز بیہ تہندس پیٹھہ سنز، **وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** اللہ تعالیٰ اس چھہ پور  
 خبر تمہ سارچی بیہ توہ کران چھوہ، تس چھہ توہنز ظاہری حالت تہ معلوم باطنی حالت تہ معلوم، **أَلَمْ**  
**تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** کیا توہ چھنا وچھان یار سول اللہ چھو تا تمہن لوکن کن یو  
 یار تہ دوستی چھہ لاجھو تھنئی لوکن سیت یکن پیٹھہ اللہ تعالیٰ سند غضب چھو، تم گئے یہود تھئی سیت  
 آس دوستی لاجھو منافقو، **مَاتَهُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْكُمْ** یم منافق چھنہ کانسہ ہند، نہ توہند نہ چھہ جہند،

مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا حُجَّةً  
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَالَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ نُنْفِئَهُمْ عَنْهُمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ  
كَأَنَّهُمْ لَكُمْ وَعَسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُمْ

وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تمَن چھ پنہ نہ کھو چرچ نہ حبث باج خبرئی، مگر باوجود آن چھ  
اپزس پیٹھ قسم ہاوان سواپز گوہیوی کہ مسلمان چھ قسم ہاتھ دپان اس چھ توہی سیت اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
عَذَابًا شَدِيدًا اللہ تعالیٰ ان چھوتہمدہ خیطرہ تیار تہودمت سخت عذاب، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
کیازہ بے شک تم آس سٹھاہ پیچھ تھہ کامہ کران چنانچہ کفر و نفاقہ خوتہ کوسہ ہش کوم چھ زیادہ پیچھ،  
تموی پیچھ کامیواندرہ گیہ اکھ۔ پیچھ کوم کہ اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا حُجَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَالَهُمْ عَذَابٌ  
مُهِينٌ تمیو کثیر ہن تمئے اپز قسم، پنہ نہ بچاؤہ خیطرہ سپر، یہ موکھ کہ مسلمان زانن اسہ مسلمان سانس  
مال و جانس لاگن نہ اتھ، پیارکن آس لوکن خدا یہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ پتھ رٹان، امہ  
موکھ تھہ تہمدہ خیطرہ خوار و ذلیل کردون عذاب، لَنْ نُنْفِئَهُمْ عَنْهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
یلہ یہ عذاب تمَن کرنہ آہیہ، تمہ ساتہ آہیہ نہ تمَن بکار خدا یس نشہ، نہ مال تہوند، نہ گبر تہمد تم کیا  
موکلاؤہ تھہ امہ عذابہ نشہ، اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُرَّفًا خَالِدُونَ بلکہ چھہ تمئے جنسی، تمئی چھواتھ  
جہنمس اندر روزت دزن ہمیشہ، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا یہ عذاب آسہ تمَن تمی دوہہ یہہ دوہہ اللہ  
تعالیٰ تمَن بیہ باقی تمام مخلوق اتن دوبارہ بیہ زندہ کرہ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
عَلَى شَيْءٍ پس ہاون تس بروٹھ کتہ تہ اپز قسم، اتھ پاٹھ توہ بروٹھ کتہ چھہ قسم ہاوان، یکن آسہ خیال  
کہ تم ہاچھ کتہ رتس حالس پیٹھ، ییو اپز یو قسم سیت مالبن تم نجات، اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ وارہ



الْكَذِبُونَ ۝۱۵ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط  
 اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۱۶  
 اِنَّ الَّذِيْنَ يُحٰدِثُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذَلٰٓئِيْنَ ۝۱۷  
 كَتَبَ اللّٰهُ لَآءِلِيْنَ اَنَا وَّرَسُوْلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۱۸ لَّا تَجِدُ قَوْمًا  
 يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

بوزیو کہ بیشک تم نے چھ بیڈاپرزیر، کیا زہ تمو کر نہ خدا ایس بروئٹھ کہ نہ اپروئٹھ نظر کا نہہ وایہ، تمہن ہنزہ تمہ  
 کامہ یکن ہیوند پیٹھ ذکر کر نہ آو کر تک وجہ چھوئی کہ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ  
 شیطان چھو تمہن پیٹھ پور تسلط نہ غلبہ لب مت، تو پتہ چھکھ تہی خدایہ سند یاد مشروومت یعنی  
 تہندین احکامن تعمیل کرن، اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ واقعی ہم چھ شیطانہ سز جماعت، اَلَا اِنَّ  
 حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ وارہ بوزیو شیطان سز جماعت چھ بر باد نہ خراب گوہہ وکن۔ اِنَّ  
 الَّذِيْنَ يُحٰدِثُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذَلٰٓئِيْنَ بے شک ہم لوک مخالفت چھ کر ان خدایہ سز  
 بیہ تہندس پیئمبرہ سز، تم چھ سخت ذلیل لوک خدا ایس نظر، تہند ذلت کس عذابس گرفتار سپدن کیاہ  
 عجایب چھو، اللہ تعالیٰ ان اتھ پاٹھ تہندہ خیطرہ ذلت تجویز کر مرثہ رثہ مشچھ، تھے پاٹھ چھ تہی یوژ  
 ہمت نہ تجویز کر مت فرماں بردار بدن ہندہ خیطرہ عزت، كَتَبَ اللّٰهُ لَآءِلِيْنَ اَنَا وَّرَسُوْلِيْ یہ کتھہ چھہ  
 اللہ تعالیٰ ان حکم ازلیس اندر لیکھت تھاو مرثہ ٹو نہ میان پیئمبر روزو غالب حقیقتس اندر چھو یسوی بوڈ  
 عزت تنس چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس بیان کرن پیئمیرن ہیوند غلبہ، ہمیں ذکر فرموان پیئمیرن ہیوند  
 شان نہ شرف نراونہ خیطرہ، وکن یلہ پیئمیر باعزت چھ، تمہن متابعت نہ پیروی کرہ وکین نہ گئے  
 باعزت تھسی، اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو قدر نہ وول نہ غلبہ وول آتھی سویس رثہ تس  
 نہ دیہ غلبہ دشمن پیٹھ، لَآءِلِيْنَ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ توہ نہز  
 لبون نہ کا نہہ جماعتہ یکن فی الواقع پور پڑھ آسہ خدایہ سز نہ قیامتہ وچ، تم کیا لاگن دوستی تمہن

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ  
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا وَيَدْخُلُهُمْ جَدَّتْ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
 عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۷﴾

لو کن سیت یم خدایه سندتہ سمدس پیغمبره سند مخالف تہ دشمن آسن۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  
 أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اده آستن تم مخالف مال جهد، یا پچو جهد یا بای جهد، یا قبیلہ جهد، کیازہ  
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا جهدین دن اندر چھو کھو نمت اللہ تعالیٰ ان  
 ایمان، بیہ چھن جهدین دن پنہ فیضہ سیت قوت دیو نمت تمہ فیضہ اندرہ چھو مراد نور، بتھہ نورس  
 ہدایت مقتضی چھو، سمیک نشانہ چھو ظاہرس اندر عمل صالح باطنس اندر سکون قلب، چونکہ بیہ چھو  
 سبب معنی زندگانی ہندہ زیادتی هیوند امہ موکھ تھو کہ اتھ ناوروح، بیہ دولت و نعمت گیہ تمن دنیاوس  
 اندر، آخرتس اندر گو تھند خیطرہ وَيَدْخُلُهُمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بیہ واتا وہ تمن  
 لوکن تمن جستن اندر بیویون کن نمرہ تہ کولہ آسن پکان تمینی جستن منزر وزن تم ہمیشہ ابد الآباد،  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ چھو تمن نشہ راضی تم چھ تمن نشہ راضی، أُولَئِكَ حِزْبُ  
 اللَّهِ بیہ گیہ اللہ تعالیٰ سز جماعت الْأَلَان حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وارہ بوزیو کہ اللہ تعالیٰ سز  
 جماعت چھ کامیاب سپدہ و سن۔





هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ  
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ ثَانِعَتْهُمْ حُسُومُهُمْ  
 مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي  
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

کرنہ آمت یمن دوشونن جلاوطنین چھوونندہ آمت حشر اول تہ حشر ثانی تہیدہ پاٹھ آواتھ مضمونس  
 شروع کرنہ تسبیحہ سیت سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدایہ سزپاکی چھہ  
 بیان کران تم ساری لوک ایم آسمان تہ زمین منز مخلوقات چھہ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ تہمدہ علوشاک قدرت کاملک تہ کمال حکمتک اثر چھویہ کہ سوگوسوی  
 ایم کفار اہل کتاب یعنی بنی النضیر کڈپنہ نیوگر واندہ نمبر، گوڈنچہ لہ اکہ وٹہ سنہرت یعنی یہ مصیبت آؤ  
 تمن بنت گوڈنچی لہ یہ چھو تمن تمنی کابین ہونند سزاء یمہ تم کران آس مخالفت تہ دشمنی پیغمبر  
 آخر الزماں سز صلی اللہ علیہ وسلم، ہتھ منز چھو اکھ لطیف اشارہ اکس پیشگوئی کن، سہ گیہ بکنے کہ تہمدہ  
 خیطرہ چھو آیندہ تہ اتھوی انقلاب آوہ ون چنانچہ حضرت عمرن رضی اللہ عنہ کڈپنہ نس خلافتس اندر  
 ساری یہود جزیرہ عربہ اندرہ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ای مسلمانو توہ اوسنہ گمان یمن یہودن ہونند  
 سامانہ تہ شوکت وچھت کہ تم کیانیرن سیدہ سیدہ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ ثَانِعَتْهُمْ حُسُومُهُمْ مِنَ اللَّهِ تمن یہودن تہ  
 اوس پنہ نہ جایہ گمان کہ تہمد قلائی بچاون تمن خدایہ سندہ انتقامہ لغہ یعنی تمن تہ اوس پنہ نین قلاین  
 ہنزہ مضبوطی تہ حکمی پیٹھ بڑہ ناز، فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پس پیواتھ تمن خدایہ سند  
 عذاب توہمی جایہ کن سیموک نہ تمن وہم وگمان تہ اوس تمہ اندرہ چھو مراد کہ مسلمان ہندہ اتھہ آی  
 تم کڈنہ تہ جلاوطن کرنہ یمن مسلمان ہنزہ بے سر و سامانی کن نظر کرت تہ یہودن ہندس باسلاح  
 و سامان آس کن نظر کرت اوسنہ کانسہ ہندس وہم وگمانس منز یوان کہ تم کیاسدن یمن پیٹھ غالب،  
 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان یہودن ہندین دن اندر مسلمان ہونند رعب تہی  
 رعبہ سببہ کہ تم پوائنئے نیر تک ارادہ چنانچہ ہنزہ حالت سز تو قسمتہ کہ يَجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ  
 الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ پنہن گره آس لوران پاننے پنہ نیواتھو بہہ مسلمان ہندیواتھو سیت فاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ  
 الْأَبْصَارِ پس رٹیو عبرت توہ یہ حال وچھت ای عقلیہ والیو وچھیو شرک کفر ظلم تہ بد عمدی کرنگ  
 انجام کیو تھ چھو آسان تم خدا یہ سزہ تہ تہندس پیغمبرہ سزہ مخالفت چھہ کران تمن چھو اللہ تعالیٰ بعض  
 اوقات دنیا س منزتہ کروٹھ سزادیوان، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
 ہرگاہ نئے اللہ تعالیٰ ان تہمدہ حقہ جلاوطنی ہیوند حکم لیوکھمت آسانتہ دیہا تمن تہ دنیا سئی اندر سزہ  
 قتل کرنہ سیت! تھہ پاٹھ تمن پتہ بنی قرظن سیت معاملہ کرنہ آو، ہرگاہ تم دنیا س اندر عذاب قتلہ  
 نعرہ بجای تہ مگر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ تہمدہ خیطرہ چھو آخرتس اندر نارک عذاب تیار،  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سزہ دنیا س اندر جلاوطنی ہیوند آخرتس اندر عذاب نارک  
 چھو تمن ای موکھہ کہ تمویا کتر مخالفت خدا یہ سزہ بہہ تہندس پیغمبرہ سزہ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ پس شخص خدا یہ سزہ مخالفت کران چھو سوی گیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سزہ  
 مخالفت کمرن پس اللہ تعالیٰ چھو سخت سزہ دیوہ دن یہ مخالفت تہ جرم ہیودن ہیوند اوس دو یہ قسمہ آکھ  
 نقض عمد سیت تمویک سزہ آکھ دینہ جلاوطنی سیت بیاکھ جرم اوس ایمان تہ اُن تمویک سزہ چھک  
 نارجمنک عذاب امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان ہیودن ہندہ آکھ طعک جواب بس تمویکل ژٹنک تہ  
 زالنک دژو کہ کیا یہ گونا فساد تہ تاہی تولمن بیہ کریو بعضہ مسلمانو کل ژفندہ نعرہ ہراسے یہ خیال کرت  
 کہ یم کل سپدن تہ واتن مسلمانئ نعرہ لہذا کیا زہ واتہ ناووپان پانس نقصان، بعضیو کز خیال کہ امہ سیت  
 واتہ ہیودن تکلیف تہ رنج لہذا گوہن یم کل ضرور ژٹن، اللہ تعالیٰ اُن کردو شوئن جماعتن ہنزہ کامہ



يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَلْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یو بستو منزہ مثلاً فدک بیہ سرتھ منز بیہ پھنہ توہ کا نہ استحقاق مالک بہ نہ نک بلکہ چھہ سو حق رسول کریمہ سند اللہ تعالیٰ ان چھو تمن تھ پیٹھ مالکانہ تصرف کرنک حق دیو تمت لیس خوش کر کیکھ تس ہیکن عطا کرت بیہ چھو تھ اندر جہندین اہل قرابتن رشتہ دارن ہیوند حق بیہ یتیم مسکین ۲۰ مسافرن ہیوند حق یعنی یم ساری چھ امہ مالک مصارف ہر گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زانن یہ حکم آویہ موکھ کرنہ کے مَنِّي لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ یو تھنہ سومال غنیمت واتہ توہندین مالدارن ہندس قبض منز فقیر ۲۰ مسکین سپدن محروم اُتھ یا تھ جاہلیہ کس زاننس منز سپدان اوس کہ مال غنیمت وغیرہ محاصل جنگ آس کھیوان اقتدارہ وال لوکھی فقیر ۲۰ مسکین لوک آس محروم سپدان امی موکھ تھو واللہ تعالیٰ ان امہ مالک خرچ کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ رایہ پیٹھ تمہ علاوہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک مصارف بیان گویا فرموون کہ باوجود اینکہ توہ پچھ اتھ اندر مالکانہ حیثیت مگر توہ گروہہ محتاجن ۲۰ مصالحہ عامن ہندین مواقفن ہیوند خاص خیال تھاوتھ تمن پیٹھ صرف کرن ای مسلمانویہ توہ معلوم سپد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رایہ پیٹھ تھاوتس منز چھ حکمت لہذا وَمَا أَلْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یہ کنیہ ہاہ دنوتہ عطا کرنوہ توہ رسول کریم ۲۰ ریٹو بیہ یہ چیزہ کہ رفتہ رفتہ تم توہ پتھ رشن تمہ رفتہ آسبورو زان پتھ یسوی حکم زانیو افعال واحکامن منز ۲۰ لفظ ”ما“ عام آسنہ موکھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ چھو مخالفت کرنس پیٹھ سخت عذاب کرہون ۲۰ سزاء دیوہون لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اگرچہ مال غنیمتس منز چھو مطلق مسکین ہوند حق آتھی مگر فقیر ۲۰ حاجت مند

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
 حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ  
 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

مہاجرین ہیوند حق تہ چھو خصوصاً تہہ منزیم مہاجرینہ نیوگروتہ مالوواندرہ جبرأتہ ظلماکڈنہ تہ جدآکر نہ  
 آئے کیا زہ تم سکر کافر وتوت تنگ تہ پریشان کہ تم سپد گھرہ بار تراونس پیٹھہ مجبور یبغون فضلاً من  
 اللہ ورضوانا یہ ہجرت کرنہ سیت چھہ تم ژھانڈان محض خدایہ سید فضل تہ تہنر رضامندی تہنہ  
 دنیوی غرضہ خطرہ کرکنہ ہجرت وینصرون اللہ ورسولہ بیہ چھہ تم خد اور سولہ سندس دینس مدد  
 کران اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ تمئے لوک چھہ پز پانٹھہ بالیمان، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ بیہ چھواتھہ مال غنیمتس اندر حق تمن لوکن ہیوند یمو قرار کردار الحجر تس تہ دار الایمانس  
 اندر کی یعنی مدینہ منورس اندر مہاجرین ہندہ ات واتنہ بروٹھہ یعنی تم آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سزہ ہجرت کرنہ بروٹھی مدینہ شریفس منز مسلمان سپد مت تموا آسہ تہ مسجدہ بنا کر مژہ یہ اوس  
 تہوند کمال باوجود موانع و مخالفت، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ یم مدینہ شریفک لوک چھہ محبت تہوان  
 تمن لوکن ہیوند یم یمن گن ہجرت کرت یوان چھہ۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا  
 مال غنیمتہ منزہ یہ کبترہ ہاہ دنہ یوان چھہ مہاجرین تمہ سیت وچھنہ تم پنہ نس دلس اندر کنہ قسمک طلب تہ  
 رغبت محسوس کران بلکہ چھہ زیادہ محبت تمن بیگر اوان بلکہ چھہ تمن کھیوان چادان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ  
 أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تہہ اندر چھہ تمنی مقدم زمانان تہ ترجیح دیوان پنہ نین پانن پیٹھہ  
 ادہ آستھہ پانس و پستی یعنی پانہ چھہ روزان بسا اوقات فاتی تمنی چھہ کھیوان وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واقعی یم لوک پنہ نہ نفس و طبیعتہ کہ خللہ نعہ محفوظین تہوانہ یعنی یمن اللہ  
 تعالیٰ توفیق دیہ یعنی تہند دل تہا وہ لالچہ حرصہ تہ خللہ نعہ محفوظ تمنی لوک چھہ کامیاب تہ با مراد سپدہ و کن



وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ  
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ  
قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أُخْرِجُوا

کیا زہ لالچی نہ بخیل انسان تھے پانچہ کرہ بایس پیٹھ ایثار سو کر گدھہ خوش بای سیدہ خوش حالی سیت  
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ چھو تمن لوکن ہیوندتہ اتھ مال غنیمتس اندر حق یم اسلا مس اندر،  
یا بھرتس اندر دنیاس اندر یمن مہاجرن تہ انصارن پتہ آی یا پتہ ین، یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا  
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یم یا نس سیت ملہ و تھ یمن مہاجرن تہ انصارن دعای خیر چھ  
کران دپان چھ ای سانہ پروردگارہ سائین گنھن کر بخشائیش تہ مغفرت، بیہ سائین باین یمواسہ بروئٹھ  
أَنْ إِيْمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ مہ تھواسائین دلن اندر کتھ قسمہ کینہ تہ بغض  
کانسہ بالیمانہ سبڈ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ای سانہ پروردگارہ بے شک ڈھ چھ شھامہ مہربان شھارہ حم  
کرہ ون۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا توہ وچھونا یمن منافقن عبداللہ بن ابی وغیرہ ہیوند حال  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تم چھ ونان پنہ نین ہم مذہب باین یم اہل  
کتابو اندرہ کافر چھ، یعنی بنی النھیران لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ قسم خدا اس چھ پر تھ حاس  
اندر توہی سیت ہر گاہ توہ پنہ نہ وطنہ منز جبر اُلیو کڈنہ اس تہ نیر وپنہ نہ وطنہ منزہ توہی سیت، وَلَا نُطِيعُ  
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ بیہ مانونہ اس توہ متعلق کانسہ ہنز تھ زانہ تہ ہرگز بیہ ہر گاہ  
توہ سیت لڑائی تہ جنگ کرہ کانسہ اس نیر و ضرور توہندہ مددہ خپرہ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ

لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَيَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ  
لَيَكُونَنَّ الْأَدْبَارُ لَهُمْ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۳﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً  
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۴﴾  
لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ  
جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ

تعالیٰ چھو گواہی دیوان کہ یم منافق چھ اپزیر، محض چھ یہودن مسلمانن خلاف تائنه خیطره یمہ تھہ  
وئان یمہ زیووسیت وئان چھہ تھہ کرن نہ تم زانہہ تہ عمل، لَئِنْ أُخِرْتُمْ لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ  
قُوتِلُوا لَيَنْصُرُوهُمْ قسم خدا ہر گاہ یم یہود پنہ نیو شہر و اندرہ کڈنہ ین، یم منافقن نیرن نہ تمن سیت  
ہر گز بیہ ہر گاہ تمن سیت جنگ آو کرنہ یم یمئہ قسمک تمن مدد کرن نہ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيَكُونَنَّ  
الْأَدْبَارُ لَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ہر گاہ بفرض محال تمن کئہ قسمک مدد تہ کران لڑایہ منز سپدن شریک  
عین وقت وزہ ژلن تم میدانہ منزہ تمن کُن تھر پھرت یمن منافقن ہندہ موقعس پیٹھ ژلنہ پتہ ہیہ نہ  
کانہہ تہ تمن مدد کرت چنانچہ اُتھے پاٹھ سپد واقع یمہ ساتھ بنی الثمیران صحابہ صیوی محاصرہ تھندس  
قلایس یتھہ منز لڑایہ ہیوند احتمال اوس منافقواندرہ آونہ اکھ تہ تمن بروٹھ کن تو پتہ یمہ ساتہ کڈنہ  
آی تم کانہہ تہ دراونہ تمن سیت، صدق اللہ مولنا العظیم یمہ خداین فرموتہ سوروی دراوپز تہ حق  
لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بے شک توہ لوکن ہیوند خوف و حراس چھو تمن  
منافقن ہندین دلن اندر خدایہ سندہ خوفہ خوتہ تہ زیادہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ امیوک  
وجہ چھو کہ تمن جھنہ کفرہ سببہ خدایہ سنز عظمت فکری تران یم ساری یہودی الثمیر وغیرہ یمہ منافق  
تہ ہیکنہ الگ الگ توہ سیت مقابلے کرت تہ جھنہ تمن سکتھی، لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ  
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ یم لوک ہیکن نہ توہ سیت جنگ تہ مقابلہ کرت اکہ وئہ ساری میل تہ  
نہ وائہ میدانس اندر مگر ہیکن جنگ کرت یتھہ شہرس منز اندر اندر یتھہ پر تھہ طرفہ فلای آسہ کھارنہ

شئىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ  
 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

آمت متہ میکن جنگ کرت کہہ دیوارن تہ دوسن ژہایہ ، بِأَسْمُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تمنہ چہ پانہ وان  
 سخت لڑائی تہ اختلاف مسلمانن مقابلہ چہنہ یم کنہی ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ای بوزونہ  
 ژہ چہو، بچہ یم زانان متفق تہ کنہی یہ چہو ظاہرہ پاٹھی حقیقتس اندر چہ ہند دل بیون تہ الگ الگ چہلہ  
 چہاگرہ گرفتار ، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ چہوائی وجہہ کہ تمنہ چہنہ دینچ عقل یوسہ یمن  
 متفقہ تہو ہایمن بنی النخیر تہ منافقن ہنز چہہ اکھ مثالا بنی النخیر ہنز مثال چہہ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمن لوکن ہنز ہش مثال یم یمن بروٹھ کئی  
 کہہ کالا آس یمودنیاءس اندر تہ پنہ نین بد اعمالن ہیوند مزہ وچہہ بیہ آخرتس اندر تہ تہندہ خیطرہ چہو  
 کڈر عذاب سپدہون۔ تم گئے یود بنی قیہقاع تہوند قصہ چہو اٹھ پاٹھ کہ تمو کمر بد عمدی نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم ۲ ہجر لیس اندر جنگ بدرہ پتہ تمو پھڑ دو عمد تمہ پتہ درای جنگ کرنہ تھہ جنگس اندر  
 سپد مغلوب و مقهور پتہ یلہ قلاہی منزہ درای نیر توپتہ آوسارنی گنڈ پھرنہ توپتہ آوتہندہ خیطرہ عبد اللہ  
 بن ابی منافق تم کز سخت زارہ پارہ دہنن یم نیرن پانئے ییہ شہرہ منزہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 تمو کمر یہ تھہ منظور توپتہ درای تم یود مدینہ شریفہ منزہ تہ وات ملک شامس منز اس جایہ تھہ ازر  
 عایت ونان چہہ یمن یودن ہیوند سوروی مال و جاہداد آومال غنیمتک پاٹھ صحابہ صہین اندر تقسیم کرنہ  
 منافقن ہند حال تہ سپد یکی كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرُ شیطانہ سنز مثال یلہ سوگوڈہ  
 چہو ونان انسانس کافر سپد ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ پس یلہ انسان امسند ونہہ موجب کفر ج  
 کا نہہ کوماہ کرت کافر سپدان چہو امس چہو ناوہ والان ناوہ والبتہ چہس ناوہ نمس و کہہ دیوان توپتہ چہو یہ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ  
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ  
 أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

انسان تمہ کس کنہ پیچہ شمس گرفتار سپدان یہ انسان چھو تمہ ساتہ شیطانس مدد مگان تمہ ساتہ مہس  
 سونان مہ چھنہ ژہ سیت کانہ واسطے بو چھس ژہ نشہ الگ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بو مہس  
 کھوژان خدایس نُس رب العالمین چھو، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا پس چھو یمن  
 دو شوئن ہیوند انجام اکی زہ ہم دو شوئے چھہ واتہ وئن نار جہنمیں اندر ہمیشہ ہمیشہ چھہ روزن یمن دو شوئن  
 تہہ اندر، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ یسوی چھو ظالمین ہیوند سزاء شیطان اتھ پاٹھ انسانس چھو ڈالان  
 تہ گمراہ کران وقتہ وزہ چھس توپتہ دور ہیوان تہ ژلان اتھے پاٹھ کر سُمومنا فقو گوڈنی دیکھ بنو نصیرن کہ  
 یوتھنہ توہ شہرہ منزہ نیر یو توپتہ رود عین موقس پٹھ کھٹت تمن دیو توکھ دھو کہ توپتہ گئے دو شوئے  
 گرفتار بلا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ای بایمانو توہ بوزوہ کہ  
 نافرمان ہیوند انجام کیاہ سپد لہذا کھوژو توہ خدایس توہ اندرہ پر تھ اکھاہ وچھن لگاہ قیامتہ خیطرہ کیاہ  
 سامانہ چھو تم سوزمت یعنی رژن عملن اندر کر یو کوشش یئہ توہ بندہ خیطرہ سامان آخرت بہہ بیہ۔ اتھ  
 پاٹھ طاعات تہ اعمال صالحہ حاصل کرنس اندر تقوی و پرہیزگاری ہیوند حکم چھو اتھے پاٹھ چھو گنہو تہ  
 پیچہ کامیو نشہ پتھ روزنس اندر تہ توہ حکم کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کھوژو یو  
 خدایس بے شک اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر توہندن کامین ہنز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ  
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ توہ مہ بنو تمن لوکن ہی یو مشراو اللہ تعالیٰ سُنَد احکام بے پروا سپد تمون نشہ چنانچہ  
 احکام تراو تھہ کر لیکھ تمہ کامیہ یون نشہ ممانعت آسکھ امیو کہ نتیجہ دراو کہ اللہ تعالیٰ ان مشراو تمن ہنن

النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۹﴾  
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا  
 مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

پان یعنی تمو کر نہ تمہ کامہ یوسیت تم پنہ نین پانن موکلاوہ ہن آخر تکہ عذابہ بشر اولیک ہم  
 الْفَائِزُونَ سمے لوک کیا گئے نافرمان بین چھو نافرمانی ہیوند سزا کھیون، پیٹھ آؤ ذکر کرنہ دوہہ قسمہ  
 کین لوکن ہیوند حال اکھ قسم گو متیقین تہ پرہیز گارن ہیوند، بیاکھ قسم نافرمانن تہ حکم نہ مانہ وینن ہیوند  
 ہیوند نہ چھو اکھ قسم جنتی، بیاکھ قسم جنمی، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ برابر چھنہ  
 نارن اندروانہ وئن تہ جنتن اندروانہ وئن، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ بلکہ چھ جنتن اندر  
 وانہ وئی کامیاب تہ رستہ گارنارہ وال چھ ناکام توہنز گتھہ کوشش کرن جنتی بہ نچ جنمی بہ نچ گتھہ  
 ہرگز کوشش کرن یمہ مفید تہ رٹ نصیحو چھ تہ واتان قرآن مجیدہ کہ ذریعہ سو قرآن گو کہ لَوْ أَنْزَلْنَا  
 هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ہر گاہ اس نازل کرہ ہون  
 یہ قرآن مجید گتھہ کو ہس پیٹھ تو پتہ تمہہ ہواس تہہ گو ہس منز شعور و فہمک مادہ تہ بیہ آسانہ تہہ اندر  
 شہوات و خواہشاتن ہیوند ماہای انسانہ یقیناً و چھ ہن ژہ سو کوہ تہہ گتھہ ہاژس بیہ گتھہ ہس چھلہ یعنی  
 قرآن مجید چھو در ذات خود تو تہہ مؤثر تہ قوی فاعل مگر انسانس چھ بوجہ غلبہ شہوت سہ قابلیت تباہ  
 گتھو یمہ سببہ تمس چھنہ قرآن مجیدک کانہ اثر سپدان لہذا پزہ انسانس خدا و پیغمبرہ سزنا نافرمانی تراوت  
 پیون قوہ شہوانی مغلوب کرت فرما نبرداری خدا و رسول کرت طاعات و عبادت تو سیت پیون پان پاک  
 کرن، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس چھ یمہ مثالہ تہ یم  
 مضمون بیان کران لوکن ہندہ نفعہ خیطرہ ہو تہہ تم غور و فکر کرن اوتان آہیہ بیان کرنہ قرآن مجید چ  
 عظمت وئن چھ بیان یوان کرنہ اللہ تعالیٰ سز عظمت تہند یو اسماء حسنی و سیت، هُوَ اللَّهُ الَّذِي

الْاَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۳۱﴾  
 هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ  
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ  
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۳﴾

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ سوپروردگار گو سوی ایس ورا ای نه کانه اکهاه چھو معبود آسئس قابل عِلْمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سوی چھو زانن وول پوشیده چیز ته نن چیز سوی چھه سٹھاہ  
 مہربان سوی چھو سٹھاہ رحمتہ وول هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ سوی پروردگار چھو ایس ورا ای نه  
 کانه اکهاہ چھو معبود بنہ نس قابل۔ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
 الْمُتَكَبِّرُ سو چھو پادشاہ ساروی عیبو نشہ پاک گذشتہ زمانس اندر ساروی عیبو نقصانو نشہ پاک و سالم  
 آئندہ زمانس اندر پنہ نین بدن چھو ساروی خوفناک چیز و نشہ امن و امان دیوہ و ن پنہ نین بدن چھو  
 ساروی خطرناک چیز و نشہ راجھہ کرہ و ن زبردست ته غالب چھو خرابی ته نقصان پورہ کرہ و ن چھو سٹھاہ  
 عظمتہ وول چھه سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ تہو نندشان چھو کہ سو چھو منزہ ته پاک تہو ساروی کتھو نشہ  
 یہ کتھہ لوک تس گن لاگان چھه هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سوی چھه  
 معبود بر حق سوروی پیدہ کرہ و ن سوروی حکمت پیدہ کرہ و ن پرت چیزس صورت و شکل عطا کرہ و ن  
 تس چھه رت رت ناو يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ساری چیز یم  
 آسمانن ته زمینن منز چھه یم چھه تہنژ پاکیا بیان کران سؤی چھو زبردست ته غالب کمال حکمتہ وول پس  
 اُتھس با عظمت خدایہ سندین احکامن ہیوند تعمیل چھو سٹھاہ ضروری۔



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے خلیفہ جہاد کرنگ ارادہ کر صحابہ صبیو اندرہ اک صاحبین  
لیو کہ خط مکہ کین لوکن کہ حضرت رسول کریم چھ عنقریب توہ پیٹھ حملہ کرنگ ارادہ کر ان آس  
صاحبس اوس ناوحاطب بن ابی بلتعہ جنگ بدرہ کیو صحابہ صبیو اندرہ اک صاحب یم آس اصلی سمک  
باشندہ مگر یمو آس مکہ معظمس منز سکونت اختیار کر مژ چنانچہ مول بوی اولاد اہل و عیال او سکھ مکہ  
شریفہ سی منز سوی خط او سن دیو تمت اس زانہ اتھہ سہ آس سوخط ہتھ گزہاں مکہ شریف نبی کریم  
سپد وجیہ کہ ذریعہ یہ معلوم تم فر موو حضرت علی مرتضیٰ اس یہ کینون صحابہ صبیون کہ توہ نیو یو فلاں  
جایہ سکھیوہ توہ سہ زانہ تمس نشہ کر یو سوخط وصول چنانچہ تم دورے کس زانہ پتہ تس نشہ کر کہ سوخط  
وصول گوڈہ تہا دیو تمہ زانہ پوشیدے مگر پتہ کر کہ تس تلاشی تمہ اوس تہوومت سوخط کلس پیٹھ  
متس و تھ بہر حال ان سوتمو کر کہ پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدقس اندر تہوانہ  
نوواد تھ حضرت حاطب فر موو ہس توہ کیا زہ سوزوہ یہ خط مکہ کین لوکن کن تمو کر عرض واقعی ہز  
سوزمہ یہ خط مگر خدانہ کردہ مہ نہ حض سوزنہ یہ خط اسلامہ کہ مخالفتہ خلیفہ بلکہ مہ حض اوس یقین کہ  
اللہ تعالیٰ دیہ اسلامس بہر حال غلبہ توہ کرہ ضرورت عطا مہ خطہ سیت واتہ مہ اکہ نفعاہ تہ فاندہ کہ مکہ  
ہک لوک روزن مہ نشہ ممنون و مشکور تمہ موکھ واتہ ناون نہ میانس عیالس کانہہ تکلیفانہ ضرراہ کیا زہ  
مہ چھ تہ کانہہ سیت کانہہ قرابتہ تہ رشتہ داریاہ بلکہ چھس بوتہ اکہ اجنبی تہ پردیسی شخصاہ اتھہ حالس  
اندکھوت حضرت عمرس سخت غصہ تمو کر عرض مہ دیو حض اجازت بود مہ تمس حاطبس گردن نبی  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مووس کہ یہ شخص چھو جنگ بدرہ کیو صحابہ صبیو اندرہ اللہ تعالیٰ بن چھ  
جنگ بدرہ کین لوکن سارنی گنہن بخشایش کر مژامی وقتہ سپد یمہ سورہ شریفک یم آیات کر یمہ نازل،  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ اٰی بایمانو توہ مہ رٹیو کہ مکک کافر یم میان تہ توہند

إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَ  
أَتْبَعَاءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا  
أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ① إِنْ

دشمن چھ پن دوست اگرچہ توہندین دن منزئ آسہ تمیوک خیال ثلثون ایلم بالمودة مگر  
ظاہر چھو کران دوستی ہیوند برتاو تمن سیت بیتہ مہ کریو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ حالانکہ بس  
ہزدین توہ نشر ووت تھہ کرتمو صرت انکاریہ گیہ خدا بس نسبت دشمنی، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَأَيَّاكُمْ أَنْ  
تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ بیہ گئے یم لوک تمئے یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ توساری مسلمان پنہ نہ  
شہرہ اندرہ کڈہوہ رنکارنگ ایذا تہ تکلیف وائہ ناوت محض یمہ تھہ سبہ کہ توہ کیا زہ کروہ کنس مجبود  
برحقس پڑہ لیس توہ سارنئ ہند رب چھویہ گیہ توہ نسبت دشمنی غرض اتھن ذلیل لوکن سیت گروہیا  
دوستی تھاون إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَأَتْبَعَاءَ مَرْضَاتِى ہرگاہ توہ گرومنزہ درامت چھوہ میانہ  
وتہ اندر جماد کرنہ خیطرہ بیہ میان رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ تلہ شوبیا توہ کافر ن ہنز رضامندی  
ژھانڈین توہ کروہ دشمنی سارنئ سیت میانہ رضامندی خیطرہ وکن تھنی دشمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ  
قائم کرن تھنز رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ یکن دون تھن ہتھنہ واطھنی پنہ وان قُدْرَتِى إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ  
توہ چھوہ زورہ زورہ کٹھہ مٹھہ تمن سوزان دوستی ہنزہ پٹھہ تہ پیغام گوڈہ چھہ تمن سیت دوستی تھاون بیچھ  
توپتہ پوشیدہ تہ کھٹھہ پیغام سوزن یمہ چھو زیادے بیچھ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ حالانکہ مہ چھو  
تمن سارنئ چیزن ہیوند پورہ علم یم چیز توہ کٹھہ چھوہ کران بیہ یم چیز توہ ن پٹھہ چھوہ کران اتھ کن  
نظر کرت تہ پڑہ ہانہ توہ تمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ قائم کرن، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ لیس اکھاہ توہ منزہ اٹھہ حرکت کرہ پس تحقیق سوڈول سیزہ وتہ نشر ڈلہ ونین ہیوند انجام تہ  
عاقبت چھو توہ معلومئ تم مہ زانیو کہ توہ دوست بلکہ چھہ تم توہند تھنی دشمن کہ إِنْ يَفْعَلْهُ



يَتَّقُوكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدُ هُمْ  
 بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۚ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۗ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ  
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِبْرَاهِيمَ  
 بَرَاءٌ وَإِ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِنَابِكُمْ وَبَدَائِنَا

يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً هرگاه تمس لوکن توه بیطیه موقعه لکه فوراً نتر اوان تم پنهن دُشمنی توه سیت وَبَسُطُوا  
 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدُ هُمْ بِالسُّوءِ بیه مهور اوان توه ضرر و اتانوه خیطره پنهن اتھ ته پنه زیوه بیه گود نیوی  
 ضرر تهنود دینی ضرر تهنود گو وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ تمس چھو تمننا که توه ته گبه هیو کا فر سپدن اُتھی لوکھ  
 چھادوستی قابل اگر توه اظهار دوستی کرنه اندره پنه اهل و عیالک خیال چھوتته متعلق بوزیو واره که لَنْ  
 تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توه ندرشته دار آشنا اولاد ته گبر دن نه توه کا نه نفع ته فایده  
 قیامتک دوه يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالی ای کره توه منز فیصله تمه دوه به، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ  
 تعالی چھو توه نزه سارے کامه پوره و چھان پس کره سو پرت کامه هیوند فیصله واره پاٹھ هر گاه توه نزه عمله  
 آسن عذابس ته سزاس قابل تمه عذابه نضه بیکنونه موکلاو تھ آشناو ته گھر لهن امن هیوند رعایت کرن  
 خدایه سندس حکمس نافرمانی کرنه سیت بیه چھو سٹھاه بیچھ ته قابل مذمت قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي  
 إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ای مسلمانو توه نهنه خیطره اوس اکھ رت نمونه بیروی کرنه خیطره ابراهیم  
 علیه السلام بیه تم با ایمان یم تمس سیت ایمان و طاعتس اندر شریک کار آس یعنی اتھ بارس اندر گوٹھ  
 کافرن سیت سوی برتاو کرون لیس ابراهیم علیه السلام ته تهندیو تابو کر۔ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِبْرَاهِيمَ  
 بَرَاءٌ وَإِ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یله تموساروی مختلف و قن اندر پنه نس قومس دوپ اس چھ  
 بیزار توه نضه بیه یمن نزه توه پرستش کر ان چھوه معبود بر حقس و رای کُفْرًا بِنَابِكُمْ وَبَدَائِنَا وَبَيْنَكُمْ

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاةً إِلَّا  
 قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۴۰﴾  
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاةً اس چھ توہندتہ توہندین باطل معبودن ہند منکر  
 اسہ منزتہ توہ منسپد عداوتتہ بغض زیادہ ظاہریہ عداوت روزہ اسہ تہ توہ منز ہمیشہ یوتان نہ توہ کنشی  
 خدایس ایمان انبو تہ پڑھ کر یو غرض ابراہیم علیہ السلام تہ تہند یوتا بعو کتر کافرن نشہ بالکل قطع  
 تعلق صاف پاٹھہ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لیکن  
 ابراہیم علیہ السلامہ سنز تھہ یوسہ تمو فرماو پنے نس ماس یمہ منزہ ننان چھو کہ تمن اوس تس سیت کنہ  
 قسمہ تعلق باقی دو پس کہ یومچہ مغفرت چانہ خیطرہ خدایس امہ استغفارہ علاوہ چھنہ مہ اختیار خدایس  
 نشہ کنہ چیزس پیٹھہ یمہ چھنہ مہ آتھہ کہ بوکیاہ کرہ ناوہ یمہ دعا ضرور قبول اتہ بیجہ نہ ہتھہ کہ چانہ ایمان اتہ  
 ورا ی کیا پڑاوت بوڑھ عذابہ نشہ یو توی یوت اوس ابراہیم علیہ السلامن و نمت یمہ اندرہ بعضہ لوکن  
 مطلق استغفارہ فکرہ تر حالانکہ یتنس چھہ استغفارک بدلہ سوگو طلب ہدایت سمیوک پرتھہ اکس  
 اجازت چھونی الواقع چھہ سو قطع تعلق کرنس خلاف تہ کنہ وریہ پتہ کتر ابراہیم علیہ السلامن دعا۔  
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ای سانہ پروردگارہ کافرن اطمار عداوت کرنس اندر  
 چھہ اس تے پیٹھہ توکل کران تھی گن چھہ اسی پرتھہ معاملس اندر رجوع کران سون اعتقاد چھو کہ  
 تے گن چھو سارنی پتولا کہ واٹن اتھہ اعتقادس گن نظر کرت یوسہ اسہ کافرن نشہ بیزار ی ظاہر کتر سو  
 کمر دلہ کہ تہ کہ محض خلوصہ سان بندہ دینیو غرضہ ورا ی بیہ ہاونہ تہ تھیندہ ورا ی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا ای سانہ پروردگارہ اسہ متہ کرتہ کافرن ہندہ ظلم و تشددک تختہ مشق اسہ کتر ظاہر تہندہ  
 باطل دینہ تہ باطل معبودان نشہ بیزار ی و سن یوتھنہ تم اچ کسر کڈن اسہ پیٹھہ ظلم و تعدی کرنہ سیت  
 وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ای سانہ پروردگارہ بیہ کتر اسہ کھنن مغفرت بے شک تہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝  
 عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً  
 وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَن كَانَ  
 يَافِكُ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَجْرُؤْكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

بھگ زبردست حمیت و دل ڈے چھئے پرت قسمہ قدرت یم زہ دعاء چھہ پین دعاء ن ہند غرض و  
 غایت اکھ غایت باعتبار دنیا یا کھ غایت چھو باعتبار آخرت چنانچہ لا تجلنا اس چھو تعلق و دشوئن سیت  
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ بے شک تمن لوکن اندر چھو  
 یعنی ابراہیم علیہ السلام تہ تہندین تاہی اندر تو ہندہ خیرہ (یعنی تمہین لوکن ہندہ خیرہ) زت نمونہ یم  
 لوک اعتقاد چھہ تماوان خدا نس بروئھہ کن و اتوک بیہ قیامتک دوہ قائم سپد نگ و مَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ نِس شخص یمہ لحمہ بشرہ روگردانی کرہ تس و اتہ پانس امیوک ضرر کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو  
 بے نیاز تس ہجھہ پروا نھہ چیزک تس منز ساری کمالات جمع آسنہ موکھ چھو سوسز او ار حمد و ثناء سیتھی تس  
 ہجھہ ضرورت مخلوق ن ہندہ عبادتچ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ مسلمان ہندہ تسلی خیرہ بطور بشارت اکھ  
 پیشین گوئی فرمادان عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً یہ کہہ ہجھہ کنہ عجایب  
 کہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ منزہ بیہ تمن لوکن منز یمین سیت توہ مذہبی دشمنی چھہ دوستی تہ بھگ سلسلہ قائم  
 تہندہ مسلمان سپد نہ سیت کیا زہ تمن یلہ اللہ تعالیٰ مشرف بشراف اسلام سپد نگ تو نبق دیدہ دشمنی روزہ  
 نہ کنہ وَاللَّهُ قَدِيرٌ یہ ہجھہ خدا نس بشرہ نہ دور کیا زہ تس چھہ پرتھ چیزس پیٹھہ بڈ قدرت چنانچہ فتح  
 منک دوہ سپد واریاہ لوک پنہ نہ خوشی سیت مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ازتان ہر گاہ کانسہ شخصس اتھ  
 اندر خطا گو مت چھو تہ و ن چھو سوتہمہ خطا نشہ توہ کران اللہ تعالیٰ چھو تسندہ حقہ سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون لَا يَتَّبِعُ اللَّهُ مَن كَانَ يَافِكُ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَجْرُؤْكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ اِيْمَانِيَةً بِكُمْ اللَّهُ عَنِ  
 الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
 إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ  
 إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُم مَّا

تَبَرَّوْهُمْ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ بھنہ توہ منع کران تمن لوکن سیت احسان تہ انصاف کر تک  
 بیونہ دینہ کس معاملس اندر توہ سیت لڑائی کر بیہ بیونہ توہ گرو منزہ نپہر کڈوہ تمن سیت احسانک تہ  
 انصافک برتاؤ کرن چھو جایز اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ چھو انصافک برتاؤ کرہ  
 ونین محبت تماوان تہ پسند کران اِيْمَانِيَةً بِكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
 وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ البتہ اللہ تعالیٰ چھو صرف منع کران تمن کافرن سیت دوستی لاگنہ نشہ بیو توہ  
 سیت دینہ سببہ جنگ کرمت آسہ بیہ بیو توہ پنہ نیو گرو منزہ نپہر کڈوہ بیہ بیو توہ ہندس گرو منزہ کڈنس  
 مدد کرمت آسہ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَنْ یِم لُوك تمن کافرن سیت  
 دوستی لاگن تم چھہ سخت گار تہ ظالم ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 ای بالیمانویلہ توہ نشہ با ایمان زنانہ دار الحربہ پیٹھ ہجرت کرت و اتان آسن توہ آسیو تمن واقعی مسلمان  
 آسنگ امتحان کران، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ تھندہ حقیقی با ایمان آسنگ پور علم چھو خدا ایسی یوت، فَإِنْ  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس ہر گاہ توہ امتحان کرت معلوم سپد تھوند با ایمان آسن نھس  
 مہ سوزیو کہ تمہہ واپس کافرن کن کیا زہ۔ لَأَهِنَّ حُلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نہ چھہ تمہہ زنانہ حلال  
 تمن کافرن ہندہ خیطرہ نہ چھہ تم مرد حلال تمن کافرن زنان ہندہ خیطرہ، وَاتَّوهُم مَّا اتَّقُوا اتھ  
 صورتس اندر نھس مرد وغیرہ تمو کافرو تمن زنان پیٹھ خرچ کرمت آسہ ہو کر یو توہ تمن اد ا۔

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مِنْ أَجْرِهِمْ  
 وَلَا تَنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَ سَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا تَسْأَلُوا مَا  
 أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْزِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩  
 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاتِبْتُمْ فَاتُوا  
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

وَأَلْجِنَا ح عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا نِسَاءَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ مِنْ أَجْرِهِمْ  
 اندر یله توه حسب قاعده تمن مهر دیو وَلَا تَنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ ای مسلمانو توه مه تما دیو کافر زنان  
 سیت تعلقات باقی کیازه یمه زنانه توه نزه دار الحرس اندر روزه کفره کسی حالتس پیٹھ توه نهنه مسلمان  
 سپنه سیت دار الاسلامس کن ہجرت کر نه سیت ژھیون سو نکاح توه ندر ون ژودنه باقی توه نند کانه  
 تعلق تمن زنان سیت وَ سَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا تَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا اتھ صورتس اندر نس رقم توه تمن زنان  
 هندس مرس اندر خرچ کر مت آسوه سو معیو توه تمن کافر نشہ اتھے پاٹھ یہ تمو خرچ کر مت آسہ  
 سو مکن تم توه نشہ۔ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْزِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ کنیہ اہ بیان آو کر نه یہ چھو خدا یہ  
 سنده حکم اتھ کریو تعمیل سو معبود بر حق چھو اتھی مناسب فیصلہ توه منزر کر ان اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ زانہ  
 ون سٹھاہ حمتہ وول تمی علم و حمتہ موجب چھو احکام مقرر فرماوان وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى  
 الْكُفَّارِ بیہ ہر گاہ توه ازدست گزھن توه نوزو زنانواندرہ کانه زنانه سوی وایتہ کافر نشہ تمہ پتہ سپدہ نہ  
 سہ توه دستیاب نہ سپدہ توه تونوند مهر وغیرہ وصولیالی نس توه تس پیٹھ خرچ کر مت آسوه فَعَاتِبْتُمْ تُو  
 پتہ آ یہ توه تمن کافر سیت جنگ کر نگ موقع تو پتہ کریو توه تمن نشہ مال غنیمت وصول کائوا  
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس دیو توه تمن مسلمان اہنزه زنانه ازدست گیہ تمہ مال  
 غنیمتہ پیٹھ تیوت رقم یوت تمن خرچ گومت آسہ تمن زنان پیٹھ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا  
يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ  
أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ  
وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بہ کھوڑیو تس خدا پس نس توه پڑھ کر مرث چھو تہندین حکمن اندر مہ تراو یونہ قسمہ خلل امہ پتہ چھو اللہ  
تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَايَعَتِكُمْ** ای  
بیغیر یلہ مسلمان زنانہ توه نشہ یہ غرضہ خیطرہ حاضر سپدن کہ تمہ کیاہ کرن توه سیت بیعت یمن کھن  
پٹھ **عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ** کہ شریک ٹھراوان  
نہ تمہ معبود برحقس کانہہ چیزاہ بہ کرن نہ ڈور بہ کرن نہ فسق و فجور یعنی زنانہ بدکاری بہ مارن نہ پنہ  
نمین اولادن۔ **وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ** بہ ٹھراوان نہ اپز اولاد پس  
بنوومت آسہ تموپنہ نین اتھن نہ کھورن منز باگ یعنی بچہ آسکھ حاصل کر مت فسق و فجور کرت بے  
سندی سوی لاگن خاوندس گن یا میس زنانہ ہیوند اولاد ان فنڈ فریب کرت سوی لاگن پانس گن حدیث  
شریفس منز چھو کہ پس بے سند بچہ لاگہ پانس گن یا پس پنہ نس مالس و رای لاگہ پنون پان میں شخصس  
گن تس پٹھ چھو جنت حرام **وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ** بہ کرن نہ تونہزنا فرمانی نہ مخالفت شرعہ کس گنہ  
کھمس اندر اتھہ آسہ ساری احکام شریعت پس ہر گاہ تمہ زنانہ یمن شرطن قبول کرن یمن ہیوند  
اعتقاد شرط ایمان چھو یمن پٹھہ پابندی سان عمل کرن شرط کمال ایمان چھو **فَبَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ**  
**لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ** تلہ کرہ ناویوکھہ تمہ زنانہ بیعت بہ منگیہ تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**  
**رَحِيمٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھہ مغفرت کرہون سٹھہ رحم کرہون یعنی یلہ تمہ زنانہ یم احکام زان  
پزیر نہ واجب العمل تلہ زانیوکھہ تمہ زنانہ مسلمان بیوی گو بیعتک آہہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ  
یلہ کانہہ زنانہ بیعت کر نہ خیطرہ حاضر سپدن آس تس آس اتھہ مضمونس پٹھہ اقرار کرہ ناوان بیعت کر نہ

# اَمْنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنَ اَصْحَابِ الْقُبُورِ ۱۳۰

وہ لو سنہ کانسہ زمانہ ہیوند اتھ لگان تھندس دست مہارکس سیت یمہ بروئٹھ آیات کر یمین منز فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت مطلق کافرن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نشہ امہ پتہ چھو فرماوان ممانعت یسودن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نشہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنَ اَصْحَابِ الْقُبُورِ** اے باایمانو تمہن لوکن سیت تہامہ تہاو یودوستی ہیوند تعلق یمین پیٹھ اللہ تعالیٰ ان غضب فرموو یعنی یسود یمین ہنز کثرت مدینہ منورس منز آس تم چھہ آخرتہ کہ ثواب ذخیرہ نشہ نامید تہ مایوس اتھ پاٹھ کافر تم قبرن اندر دفن چھہ کرنہ آمت چھہ آخرتہ کہ خیر و ثوابہ نشہ مایوس تہ نامید کیاہہ قبرن اندر واتھ چھو کافرن عالم آخرتک معاینہ سپدان یقین پھٹک سپدان کہ سانہ خیطرہ نجات کمانہ صورتہاہ جھنہ اتھ پاٹھ اوس یسودن پور یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھہ بے شک پیغمبر آخر الزماں مگردیدو دانستہ آس انکار کران لہذا چھہ یسودن تہ کافرن ہنز حالت نجات نہ لبس اندر کسنی۔



## سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا  
 عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ ۝

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم ساری مخلوق یم آسمان اندر چھ یم زمین اندر چھ سوی چھو سٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول و نُن لیس یو تھ عظمیہ دول تہ جلالہ دول آسہ تہنز گڑھہ پر تھ کھمس اندر فرماں برداری کرن جہاد تہ چھو تہند یو کھمو اندرہ اکھ کھماہ لیس تھ سورہ شریفس منز ذکر کرنہ آمت چھہ یمہ کہ نازل سپدنک سبب چھو سپدنمت کہ اکھ دوہہ آس بعضے صحابہ صیب پانہ وان تذکرہ کران کہ ہر گاہ اسہ معلوم سپدہ ہاتھہ عملہا یوصہ خدایس آسما سٹھاہ ٹاٹھ سہ کرہ ہواس تہ امہ بروٹھ آس بعضے صحابہ صیب جنگ احدس منز جہادہ نشہ واپس آمت۔ بیہ یمہ سائہ جہادک کھم نازل سپدنمتہ سائہ اوس بعضے صحابہ صیین پیٹھ گران گذر یومت اتھ پیٹھ سپدنازل یم آیات کر یمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ** اے بایمانو تھہ کتھ کیاہہ چھو کران تھنہ پانہ عمل چھوہ کران **كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اللہ تعالیٰ اس نشہ چھو تہنزہ ناراضگی ہیوند بوڈ سبب کہ توہونیو تھہ یمین پیٹھ نہ پانہ عمل کر یو **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بَنِيَانٌ مَرْصُوصٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمن لوکن پسند کران یم تہنزہ و تہ اندر تھہ پاٹھ جہاد کران چھہ صف دی دی خدایہ سندین دشمن سیت اذن تم مجاہد چھہ آسان



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَأْتُوا نِسِيَّيَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ① وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَيْنَ يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

کارت ناگ تراونہ آنت دیوار ہی صفو منزہ چھنہ اورہ یورڈ لان تہ پتھ نیران توہے چھوہ وٹان کہ اسے معلوم سپدہ ہاساروہ عملواندرہ کوسہ عمل چھ زیادہ ٹاٹھ اللہ تعالیٰ اس امہ چھہ یے عمل جماد کرن خدایہ سزہ و تہ اندرادہ کیاہہ اوس توہ پیٹھ شاق گذران یلہ جمادک حکم نازل سپدان اوس بیہ کیاہہ ژبے وہ جنگ اُحدس منز اُتھ چیز کہ تھ و ن یہ ون کہ اسے معلوم سپدہ ہا اُحب الاعمال کوسہ چھہ اس تہ کرہ ہو سہ عمل بیہ چھوژھوروی دعویٰ ای یوت اتھ پیٹھ چھوہ نہ توہ عمل کر مژکا فرچھہ مستحق قتل و قتال تہ جنگ و جدال امی موکھ کہ تم چھہ پروردگارہ سندین آیاتن اپڑ زانان پیغمبرن ہنز مخالفت کران تمہن ایذاء تہ تکلیف وائے ناوان اُتھ مناسب چھو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام سند قصہ بیان فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَأْتُوا نِسِيَّيَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ** سو وقت تہ چھو قابل ذکر یلہ موسیٰ علیہ السلامن فرمود پنے نس قومس ای میانہ قومہ مہ کیاہہ چھوہ توہ ایذاء دیوان حالانکہ توہ چھو معلوم کہ بوچھس خدایہ سئدہ طرفہ توہ کن سوزنہ آمت پیغمبر **اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** پس یلہ تم فمائش کرت تہ ہجر سئی پیٹھ رود ایذاء و مخالفت رود بدستور کران اللہ تعالیٰ ان تہ ڈال تہندہ دل ہمیشہ خیطرہ پوز قبول کرنہ نشہ بہنہ زیادہ اُتھ پاٹھ نافرمانی پیٹھ مداومت تہ ڈاڈ کرنہ سیت چھہ دلچ سیاہی زیادہ سپدان اللہ تعالیٰ سند دستور چھو کہ سوچھنہ اُتھین نافرمانن سیزو تھ ہاون اُتھے پاٹھ چھہ ازک کافر حضرت رسول کریمہ سز پر تھ رنگہ مخالفت کران ایذاء وائے ناوان تمہن تہ چھو روز بروز گرانہی تہ حسدس اندر ترقی سپدان پس آو عالمہ نشہ فساد تہ تباہی گالہ خیطرہ مصلیتہ تمہن جمادو قتالک حکم کرنہ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَيْنَ يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ التَّوْرَةِ** اُتھے پاٹھ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلامن فرمووا

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا  
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ  
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ④ يُرِيدُونَ  
 لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧

بنی اسرائیلو بو جھس خدایہ سند پیغمبر توہ کن سوزنہ آمت تصدیق کرہ ون جھس بوتھہ کتابہ یوسہ مہ  
 برونھہ نازل آمز چھہ کرنہ یعنی تورات وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدٌ بیہ جھس بو خوش  
 خبری تہ بشارت دیوہ ون اکس عظیم الشان پیغمبر سنز کنس مہ پتہ تشریف انہ نام مبارک تہوند آسہ احمد  
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پس یلہ عیسیٰ علیہ السلام تمن نشہ یم مضامین بیان کرت پنہ نہ  
 نبوتہ کہ اثباتہ خیطرہ ہنہ دلیلہ ہیبت آی تم لوک لگ ونہ نہ تمن دلیلن تہ معجزن نسبت کہ بیہ چھونون تہ  
 صاف جو دینے تہندس نبوتس لگ تکذیب تہ انکار کرنہ اتھہ پاٹھہ عیسیٰ علیہ السلامس پتہ یلہ پیغمبر  
 آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو تشریف ان تہ ساتہ لگ موجودہ عربک کافر تمن  
 انکار و تکذیب کرنہ بیہ لگ تمن ایذاء تہ تکلیف واتہ تاوندہ بیہ گو ظلم عظیم امہ ظلمک مہلک اثر واتہ نگ  
 خطرہ اوس بین لوکن تہ سو خطرہ دور کرنہ خیطرہ آو مصلحتا جہادک حکم کرنہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى  
 اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ بیہ کوہ اکھاہ چھویش ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ نئس اللہ تعالیٰ اس  
 پیٹھہ اپز نور اوہ حالانکہ تس چھوناد دعوت یوان کرنہ دین اسلامس کن نبوتس تکذیب تہ انکار  
 کرنوی گو اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز نور اون بیٹھہ اللہ تعالیٰ ثابت چھو کران تھہ کرن نفی بیٹھہ نفی  
 چھو کران تہ کرن ثابت یوی گو خدا یس پیٹھہ اپز نور اون زیادہ افسوسناک تھہ چھہ کہ تس چھوناوتہ یوان  
 دنہ اسلامس کن توتہ چھہ سوتھہ کن توجہ کران بیہ گوزیادہ ظالم لاکن وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھہ ظالم قومس کامیابی تہ نجاتس کن وتھہ ہاوان امی خیطرہ تہندہ خیطرہ سزای قتالی تجویز کران  
 اللہ تعالیٰ دیہ پزس غلبہ باطل سپدہ مغلوب يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یم کافر چھہ یژہان خدایہ  
 سند نور تھہ کرن پنہ نیو چا نیو سیت پھو کہ دت یعنی تم چھہ تھہہ تھہہ کرنہ بیوان یوسیت دین جھس

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَهٍ ﴿١١﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

فروغ سے ترقی سپدہ ہانہ واللہ میتہ نورہ ولوکوہ الکھرون حالانکہ اللہ تعالیٰ چھوپنے نس اتھ نورس بہر حال پورہ کران سے کمالس وانہ ناون یشھان اگرچہ کافرنا ای تن سے ناخوشی ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق ليظھرہ علی الدین کلہ ولوکوہ المشرکون چنانچہ سومعبود برحق گوسوی یم امی اتمام نورہ خیطرہ سوزہن پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتک سامان یعنی قرآن مجید ہیئت بیہ پوزدین یعنی دین اسلام ہیئت دنیا س کن یو تھ اتھ دنیس باقی تمام دین پیٹھ غلبہ دیہ ای گوا تمام نور کرن ادہ ای تن مشرکن ناخوشی یا ایھا الذین امنوا هل ادلکم علی تجارتہ تنجیکم من عذاب الہ ای بایمانو کیا بوماہوہ توہ تیو تھ کاروبارہ تھہ سوداگریاہ تیو تھ تجارتھائس توہ نجات دیہ سے بچاؤہ اکہ دردناک عذابہ نشہ تومنون باللہ ورسولہ وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم سوگوئی کہ توہ انبو ایمان بیہ کریوشہ کنس خدایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کریو جہاد خدایہ سنزوتہ اندر مال پنن خرچ کرنہ سیت سے جان پنن فدا کرنہ سیت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ چھو توہنہ خیطرہ شھار رت ہر گاہ توہ زامہو یلہ توہ بیہ کریو یعفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتھا الانھار ومسکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ کرہ مغفرت توہندین گنہن بیہ وانہ تاوہ توہ جنتہ کین تمنا باغن اندر یمویون کن کولہ سے نہرہ جاری آسن بیہ بساؤہ توہ تمنا رتین گرن اندر یم گہ سے مکان ہمیشہ پوشہ ونین باغن اندر بنا کرنہ آسن آمت پیہ گیہ ہنڈ کامیابی سے رستہ گاری۔ واخری ٹھوہنا ناصرون اللہ وکفر قویب

وَأُخْرَىٰ يُجِيبُونَهَا تَصَرُّفًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  
اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ  
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۱۴﴾

وَبَشِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ بے چہرہ امہ اُخروی کا میاں بی علاوہ تو ہندہ خیطرہ بیا کہ دنیوی کامیابی یوصہ جلدی پنہ نہ  
مُوکھ توہ پنہ نہ محبوب چہ سہ گیہ پروردگارہ سندہ طرفہ یاری نہ مددگاری بہ نزدیک فتیابی ای پیغمبر  
برحق توہ فرما یو یمن سارنی چیزن ہنز بشارت نہ خوش خبری باایمان امہ خوشخبری ہیوند ظہور سپدان  
اولی کین مسلمان سیت تج سارنی خبر چہ از کہ وقتے متے مسلمان وژہد و آجہ صحیح معنی اندر ایمان نہ  
جمادی سمیل اللہ اس اندر قائم روزن ہندہ خیطرہ نہ چہ فتح و نصرت پر تہہ وقتے سیت سیت امہ پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سندین حواریین ہیوند قصہ بیان کرت باایمان دینس مدد کر نگ ترغیب  
دیوان یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ ای باایمانو توہ سپدیو پروردگارہ سند دینک مددگار تمہ طریقہ  
نہس تو ہندہ خیطرہ مقرر کرنہ آمت چھو سو گو جماداتھ پاٹھ حواریین پنہ نہ طریقہ موجب دینک  
مددگار سپدیلہ عیسیٰ علیہ السلامس بکثرت دشمن و تلہہ کی کَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ  
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ تمہ پتہ اتھہ پاٹھ عیسیٰ علیہ السلامس فرموو حواریین  
کہ میون مددگار کوہ بہ خدایہ سندہ رضا خیطرہ توہ اندرہ حواریو دپ اس چھہ خدایہ سندہ و نیک مددگار  
چنانچہ تمو حواریو کو پتہ نہس دینس مدد تمہ کہ اشاعج کر کہ پور کوشش تمہہ تمہزہ کوششہ پتہ فَأَمَنَّا  
طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ پس ان ایمان بنی اسرائیلو اندرہ بعضے لو کو بعضے لو ک رود  
کفر سنی پیٹھ تو پتہ سپد تمس منز مذہبی اختلافہ سببہ عداوت نہ خانہ جنگی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ  
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پس کراسہ مدد تمواندرہ باایمان ہندین دشمن پیٹھ پس سپد تمے غالب  
تھے پاٹھ کر یو توہ تہ دین محمدی خیطرہ کوشش نہ جمادی باایمان مسلمانو۔

## سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ  
الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ  
مُّبِينٍ ② وَأَخْرَجَ مِنْهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بَرَّهُمْ ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④ ذَلِكَ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمان اندر چھہ بیہ تم ساری چیزیم زمین منز چھہ سوی چھو بوڈا شاہ منزہ تہ پاک ساروی عیونشہ سوی چھو شہاہ زبردست شہاہ حکمتہ دول، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سوگو سوی پروردگار یم عربہ کین ان ہر لوکن گن سوز پیغمبر ہندی قومہ منزہ یعنی عربی ہس پیغمبر پران تہ بوزہ ناوان چھو تمن اللہ تعالیٰ سند آیات بیہ چھگ باطل عقایدو نشہ بیچھ اخلاقونشہ پاک کران بیہ چھگ چھناوان خدایہ سز کتاب بیہ عقلہ ہنزہ کتھ بیچھ منز ساری علوم دینیہ شامل سپد وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ تم لوک آس تہندہہ مبعوث سپد نہ بردتھ نہہ گمراہی اندر یعنی شرکس تہ گرس اندر مبتلا، وَأَخْرَجَ مِنْهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بَرَّهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ سوزان یمن از کین لوکن علاوہ بین لوکن گن تہ پیغمبر یم نہ ونہ تمن سیت شامل سپد مت چھہ یایمہ موکھ کہ ونہ چھنہ تموا اسلام اُمت یا یمہ موکھ کہ ونہ چھنہ تم پیدے سپد مت اتھ منز آئی تہندی ساری اُمتی یم قیامتس تان پیدہ سپدون چھہ عربک تہ بچمک تہ سوی پروردگارہ چھو زبردست حکمتہ دول تمئی سوز پنہ نہ قدرت و حکمتہ سیت یوتھہ جلیل القدر پیغمبر۔ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَن يَشَاءُ تمس پیغمبر برحقہ سندہ ذریعہ کفر و شرکچہ گمراہی منزہ کڈن کتاب و حکمت تہ ہدایت کس نورس کن واتہ ناؤن بیہ چھو خدایہ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴﴾ مَثَلُ  
الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا  
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعْمَتَكُمْ لَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ

سند بود فضل سولیس یژهان چھو تس چھو یوہ فضل عطا کران وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بود فضلہ وول ہر گاہ سوسار نی فضل پنون عطا کرہ تمسدرس فضل منز کمی چھنہ مگر سو چھو پنہ نہ حمہ سیت لیس یژهان تس عطا کران لیس یژهان تس محروم کران چنانچہ ناخواندہ یعنی ان ہر جماعت تمن کران پنون فضل عطا تموان ایمان یوودواندرہ عالمن تہ پر متین ہنز جماعتھا تم سپد محروم امہ فضلہ نغمہ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مثال تمن لوکن ہنز یم تلنا ونہ آی تورات یعنی یمن حکم آیوود کر نہ تورات موجب عمل کر ن تویہ تلنہ تمو سو یعنی تمہ موجب کر کھنہ عمل چھ تس کھرہ سنز مثال یم کتابن ہیوند یور نمت آسہ تھر پیٹھ مگر تمن کتابن ہندہ نفعہ نغمہ آسہ محروم اتھنہ پاٹھ چھو اصل مقصد علمہ اندرہ عمل صرف تحصیل کر نچ تہ حفظ کر نچ محنت کر ن تھہ آیہ بکار یلہ نہ عمل آسہ کھرہ سنز مثال آیہ بیان کر نہ امی موکھ کہ کھر س برابر چھنہ جانور واندرہ کانہہ تہ بے وقوف امہ سیت سہزیہ ہن رٹ بے عمل عالمن ہنز بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ سٹھہ پیٹھ مثال چھ تمن لوکن ہنز یوواپز زانت انکار کر خدایہ سندین آیاتن، اتھہ پاٹھ یوودو کھر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ چھنہ اُتھین ظالمن ہدایتک تو نینق دیوان یوودن اندر آسہ تھنہی ظالم کہ کتاب آس پران دلن اوسکھنہ کنہ تہ اثر سپدان کیازہ تم آس زانت کرت نبی آخر الزمانس نسبت حسد تہ عناد کران تمن ہر گاہ توراچ پڑھ آسہائلہ کرہ ہن تمہ موجب عمل سو عمل کر ن گیوود کہ نبی برحق صلے اللہ علیہ وسلم انہ ہن ایمان پس تھوند ایمان نہ ان چھو مستلزم تورا تہ موجب عمل نہ کر نس اگر امہ باوجود تم ونن کہ اس چھہ پروردگارہ سند مقبول بندہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ

مَنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥  
 وَلَا يَتَمَوَّنُهُ أَبَدًا إِبَاقًا مَتَّ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ⑦  
 قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ  
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ  
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَإِذَا

زَعَمْتُمْ أَنتُمْ أَوْلِيَائِ اللَّهِ مِنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توہ فرما دیو کہ یارسول اللہ  
 ای یسودو ہر گاہ تو ہند دعویٰ چھو کہ تو ہی کیا چھو اللہ تعالیٰ سند دوست ساری لو کو اندرہ تلمہ کریو توہ امہ  
 دعویٰ کہ تصدیقہ خیطرہ موتک تمنا ہر گاہ توہ اتھ دعویٰ اس اندر پزیر چھو، وَلَا يَتَمَوَّنُهُ أَبَدًا إِبَاقًا  
 قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ اس چھہ توہ اتھ سیت، ایتہ وان کہ تم کرن نہ زانہہ تہ موتک تمنا تمنن چھہ نٹھ  
 تمنن کائین ہندہ سزاء کھینچیمہ کامہ تمورونٹھ کن سوزہ مڑہ چھہ کفر وانکار و عناد وغیرہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس چھو پور علم یمن ظالمن ہندہ حالک یمہ سائہ مقدمک تاریخ و اسچھہ قیامتک  
 دوہ فرد جرم بوزہ ناوٹھ اکیھ سزاء دنہ تمہ سزاء کہ وعدہ کہ تائیدہ خیطرہ، قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي  
 تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فرما دیو کہ توہ یہ کتھ نہ کہ یمہ موتہ نشہ  
 توہ ژلان چھوہ سوموت سمکھ توہ ضرور کہ تہہ آکہ دوہہ توپتہ آیو توہ وائتہ ناوہ تس پروردگار س رشہ لیس  
 سواری پوشیدہ تہ نن زانہ ون چھو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ باووہ سوتہ سواری یہ توہ کران  
 آسوہ دنیا س اندر تہی موجب دیوہ سو توہ سزاء۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ای با ایمانویلہ بانگ آسہ دنہ یوان نمازہ خیطرہ جمعہ کہ دوہہ جمعہ  
 نمازہ خیطرہ تان آسیو فوراً لڑن ہیوان توہ خدا یہ سندس یادس کن یعنی نماز پر نس تہ خطبہ بوز نس کن بیہ  
 آسیو خریدو فروخت کرن یک دم تراوان بیہ تمہ سارے کامہ تراوان یمہ پتھ رٹہ ونہ آس ادای جمعہ

قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا  
لِإِنْفُسِهِمْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِيُنْفِضُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ  
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱﴾

نشدہ ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون سارے کامے تراوت جمعہ نماز ہندوی سز کران چھو تو ہندہ خیطرہ  
زیادہ بہتر ہر گاہ توہ خبر آسہا کیا زہ امیوک نفع نہ فائدہ چھو پوشہ ون خرید و فروخت وغیرہ کا میں ہیوند  
نفع چھو فانی نہ نہ پوشہ ون فاذا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پس یلہ  
نماز جمعہ موکلان آسہ یعنی توہ آسیو تمہ نفسہ فارغ سپدان پس نیر یو نہ پھیر یوئس یو کن گڑھن آسہ  
سو گڑھن توکن بیہ ژھانڈیو نہ تلاش کریو خدایہ سندر زق مگر غفلتس منز مہ روزیو بلکہ واذکروا للہ  
کثیرا لعلکم تفلحون اتھ حالس منز نہ کریو خدایہ سند یاد بکشرت یو تھ تمحہ برکتہ توہ رزق  
ژھانڈنس اندر کامیاب سپدیور نہ چھو بعضے لوکن ہیوند حال کہ واذا رآوا تجارة اولہوا لاینفصوا الیہا  
وترکوک قائما تم یلہ وچھان چھہ کانہہ تجارت یا سو چیزئس بیس طرفن گن ڈالان چھو تان چھہ تھ  
طرفس گن دوران توہ چھہ تراون و تھدنی خطبہ پر نہ کس حالس اندریہ چھو اتھ پاٹھ واقع سپد مت کہ اکہ  
جمعہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پر ان تمی وقتہ آونبرہ پیٹھ اکھ تجارتی قافلہ غلہ ہیئت تھ  
قافلہس سیت اوس اعلان کرنہ خیطرہ نقارہ واینہ یوان تمہن دہن آس اتھ شہرس اندر رانج کمی یم لوک  
نماز جمعہس شامل سپد نہ خیطرہ آمت آس تم آس خطبہ بوزان تمہ وقتہ اوس نماز جمعہس منز نہ عید ہند  
پاٹھ خطبہ پتے یوان پر نہ لوکو آس نماز پر مژوئن آس تم خطبہ بوزان الی پک نبر کن یہ قافلہ ڈمڈم وایان  
لوکو کور خیال کہ نماز چھہ ادا کر مژ ہر گاہ خطبہ بوزنئے اس و تھو تھ آسنہ کانہہ حرج اتی و تھ لوک نہ درای  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت رود صرف باہے صاحب یمن منز چہا ریا صفاتہ بیہ کینہہ صاحب  
آس تمی ساتہ سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ پس چیز اللہ تعالیٰ اس نفسہ باعث ثواب نہ قرب چھو سو چھو امہ تماشہ خو نہ نہ  
امہ تجارہ خو نہ بدرجہا بہتر افضل بیہ چھو اللہ تعالیٰ ساروی اندرہ بہتر روزی نہ رزق عطا کرہ ون۔



سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ① اتَّخَذُوا  
 آيَاتِهِمْ حِجَّةً وَفَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ بیلہ توه نعرہ منافق یوان چھہ دپان چھہ اس حض چھہ دلہ  
 سیت گواہی دیوان کہ توه چھو بے شک پیغمبر خدا یمن آیات کر یمن ہوند شان نزول چھو کہ اکس  
 ججس اندر سبز انصارن تہ ماجرن منز ہرہ ہر ہش تھہ اندر لگ منافقن ہوند ز یو تھہ عبداللہ بن ابی  
 اشتعالس منز ونہ نہ انصارن کہ توه چھو کھ یم پردیسی لوک ژوچہ کھیا وکھیا و خراب کر مت تہ بھن  
 کھالت و ن بیلہ مدینہ شریفن منز و اتو توه کر یو یمن ماجرن خرچ دیون بند نیم نیرن پانے تگ سیت  
 یمہ شہرہ منزہ تہ پنہ نین ملکن گن گزھن بیہ لگ ونہ کہ اس چھہ عزتہ وال یم ذلت لد لوک کڈو کھ اس  
 پنہ نہ شہرہ منزہ تھہ اس منافقہ سزبوز صحابہ صیواندر حضرت زید بن ار قمن تم آی تہ کر کہ عرض  
 حضرت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدقس اندر تموان نادوت ابن ابی تہ بیہ تمسد ہم خیال  
 منافق تو پتہ ہڈ ژھہک توه آسہ یمہ قسچہ تھہ کر ان تم لگ قسم ہا و ہا صرتح انکار کرنہ زید بن ار قمن گذر  
 یو سٹھاہ مشکل اھوند انکار کرن تھہ موقفس پیٹھ سپد یم آیات کر یمہ نازل وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  
 اللہ تعالیٰ اس چھہ بیہ تھہ معلومسی کہ توه چھوہ تسد پیغمبر وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ باوجود آن  
 چھو اللہ تعالیٰ گواہی دیوان کہ یم منافق چھہ بیہ ونہ نس اندر بالکل اپزیر کہ اس چھہ دلہ سیت گواہی  
 دیوان کیا زہ تہنز سو گواہی چھہ محض ز یوہ سیت دلہ کہ اعتقاد نہ کینہہ تہ۔ اتَّخَذُوا آيَاتِهِمْ حِجَّةً وَفَصَدُّوا  
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ بمولو کو چھو قسم ہاون کر مت اھ سپراہ پنون مال و جان بچاوندہ خیطرہ کیا زہ اظہار  
 کفرہ سیت نہ تہنز حالت تہ بین کافرن ہنز ہش یمن سیت تہ ایہ باجماد کرت قتل و غارت کرنہ تو پتہ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۳﴾  
 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحِبُّكَ أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ  
 خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ يُحِبُّونَ كُلَّ صِیْحَةٍ عَلَيْهِمْ طَهُمُ الْعَدُوُّ وَقَاذِرُهُمْ  
 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْى يُؤْفَكُونَ ﴿۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولٌ

پھو اہنزہ اتھ لازمی خرابی سیت بیا کہ متعدی خرابی تہ کہ تم چھہ بین لوکن تہ خدا یہ سزہ وہ تہ کن بینہ نشہ  
 پتھ رمان اِنَّمَا سَأَلْنَا مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ بے شک اہنزہ کامہ چھہ سٹھاہ خراب، ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ  
 كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تم نسبت یہ حکم چھہ بیٹھ کن نظر کرت کہ تم لو کو ان  
 ظاہرہ پاٹھ گوڈہ ایمان تو پتہ یلہ پنہ نین شیطان نشہ گئے تہ کر یکھہ بیہ کفر چہ کامہ اتھ کن نظر کرت  
 آو حکم کرنہ اِنَّمَا سَأَلْنَا مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ یعنی اہندس نفاس کن نظر کرت امی نفاقہ کہ سببہ آیہ  
 تھمدین دلن پیٹھ مہر کرنہ پس چھنہ تمہن پنزوتھ فکرہ تران وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحِبُّكَ أَجْسَامَهُمْ بیہ چھہ تم  
 ظاہرہ پاٹھ پیٹھ تہ مدرہ اتھہ کران چنانچہ یلہ تہہ ڈچھہ ہک تم ظاہری شان و شوکت تہ قدو قامت و چھت  
 مٹے بوزنہ تم تہہ جان تہ دل پسند وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ بیہ یلہ تم تھہ بین کرنہ سٹھاہ فصاحتہ تہ شیرینی  
 سببہ روزک تہہ کن داریت تھوند کلام بوزنہ مگر یہ سوروی چھونیر نیری اندرنہ حقیقتا ہکنہ تہ تمی چھو تھوند  
 حال، كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ زن تم موند چھہ بہ سیت ڈھکراوت آمت تھاونہ تہہ و توش اندر  
 جان موٹ موٹ مگر اندرہ بے جان چونکہ ایمان و اخلاصہ نشہ چھہ تم بالکل خالی امہ سببہ پھک پر تھہ  
 وقتہ اندیشہ تہ خطرہ روزان کہ مسلمان ماسپدہ سون حال معلوم کانہہ شخصہ سندہ اطلاع دنہ سیت یا اسہ  
 متعلق وحی نازل سپدنہ سیت تم نیرن امہ سیت تہ کافر ن ہند پاٹھ جماد کرنہ امی خیالہ موکھ پھکھہ پرت  
 وقتہ ٹٹھ تہ تھر آسان تمی سببہ چھہ یَحِبُّونَ كُلَّ صِیْحَةٍ عَلَيْهِمْ پر تھہ مشورہ تہ کر یکھہ وزہ ادہ آستن  
 سو یہ سببہ مگر تم چھہ خیال کران آیہ ماس کانہہ بلا یاہ و کرت هُمُ الْعَدُوُّ وَقَاذِرُهُمْ تھقیقس اندر چھہ  
 تے تو ہند دشمن لہذا بیجو تمہن نشہ ہشیار روزو پور تھنر کنہ تھہ پیٹھ مہ آسیوا اعتماد کران قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْى  
 يُؤْفَكُونَ اللہ تعالیٰ گالن تمہن کو تساہہ دین حق تر واتھہ دور ژلان تھندہ سببہ و شرارتج کیفیت چھہ

اللَّهِ لَوَّارِعًا وَسَمُّهُمُ وَرَأَيْتُمْ يُصَدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَبِاللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ يَقُولُونَ لِنَبِيِّنَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ


یہ کہ واذا قيل لهم تعالوا يستغفروا لكم رسول الله لووارعاً وسامهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون تم کہ پچھو ایورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نشہ تم مگن مغفرت خدا میں تو ہندہ خیرہ تم چھ یہ بوزت ہنن کلم پھر ان انکار کر نہ کس اندازس منز، ورايتهم يصدون وهم مستكبرون توہ وچھو کہ تم کہ تم چھ نصیحت کرہ ولس نشہ توہ پھر ان تکبر کرت ہندہ کفرج حالت یلہ امہ قسچ چھ سواو علیہم استغفرت لهم امزم ستغفروا لهم لہذا چھ ہند حقہ دوشوئے کتھ برابر خواہ توہ ہندہ خیرہ مغفرت مگنویامتہ مگنوں، لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کر نہ ہرگز تمن مغفرت إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہندہ اتھن نافرمان لوکن ہدایتک توفیق دیوان هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ ہم گئے ناتے ہم ونان چھ کہ توہ مہ کریو یمن مہاجر ن پیٹھ نہہ خرچ تا اینکه تنگ دست سپدت ژلن ہم پانے یمہ شہر منزہ یہ ونن یوں ہند چھو محض جمالت کیاہہ یمن ہندہ خبر کہ وِبِاللَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ خدایہ سندی چھ آسمان سے زمین ہند ساری خزانہ لیکن منافقن ہندہ فکرہ تران يَقُولُونَ لِنَبِيِّنَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ہم مناقق چھ ونان اتہ کہ اس یلہ مدینس منز واپس واتو توت واتھ کڈہ ضرور عزتہ دول شخص ذلیل شخص یعنی اس کڈو کہ ہم پردیسی لوک پنہ نہ شہرہ منزہ ہیر یمن ہ مونہ اس بسنہ پنہ نس شہرس منزہن پان کر کہ عزتہ وال مسلمان مہاجر کر کہ ذلتہ وال اتہ ونو کہ محض جہالتہ سببہ، وِبِاللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيِّنَاتِ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيِّنَاتِ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھو عزت خاص اللہ تعالیٰ اس بالذات بیہ ہندس پیغمبرس بواسطہ تعلق باخدا یہ چھو عزت مسلمانن بواسطہ تعلق باخدا اور سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافق چھنہ زمانا یہ کتھ بلکہ چھو تمن نشہ عزتک دار و مدار فانی تہ ناپایدار چیزن پیٹھ حضرت زید بن ارتمن یلہ اس عبد اللہ بن ابی سزہ یمہ کتھ بوز تم آی در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموانہ نو سوناد تھ تو پتہ پڑھہ ہس تم کر قسم ہاوت صریح انکار لو کو ہست زید بن ارتمس دن طعنہ بیہ لکھ کر نہ لسنہ تم سپد شرمندہ تہ تادم اتی یلہ سپد یم آیات کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود زید بن ارتمس کہ خوش روز چون پوز پزرو و اللہ تعالیٰ ان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** ای با ایمانو توہ مہ کرن آور تہ غافل مال تہ اولاد تو ہند یعنی دنیا خدا یہ سندہ یادہ نشہ تہ طاعتہ نشہ یعنی وینہ نشہ مراد چھو کہ دنیا س اندر مہ بڈیو توت کہ دینہ چن کازن اندر سپد یوہ خلل واقع، **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** ہس اکھاہ تہ کہہ تم لوک سپدن ناکام تہ تاوان زد کیا زہ دنیا ک نفع تہ فائدہ چھو سورہ ون تہ خم گتھ ون آخر تک ضرر چھو ہمیشہ روزہ ون طاعات و عبادت اتواندرہ چھہ اکھ عبادت مال خرچ کرن خدا یہ سز ن وتن اندر **وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** لہذا کر یو خرچ تمہ مالہ اندرہ ہس اسی توہ عطا کرمت چھو خدا یہ سز ن وتن اندر توہ اندرہ کانسہ مرنگ وقت واتتہ بروٹھ **فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ** تمہ ساتہ لکھ دینہ حسرت و تمنا پاٹھ ای میانہ پروردگارہ مہ کونہ دژا ہتھ ژہ مہلت تہ فرصت بیہ کنہ کالاہ تان **فَأَصْحَابُ وَأَنْ مِنَ الصّٰلِحِينَ** تا یلکہ یو تہ کہہ ہا صدقات و خیرات بیہ بنہ ہا یو تہ نیکو کارواندرہ مگر

قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۱۰ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ  
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۱

تمسند یہ حسرت و تمنا کرن دینہ نہ تہس کانسہ فاندہ کیا زہ و لکن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ تعالیٰ چھنہ کانسہ اکس مہلت دیوان یلہ عمر ختم سپد نس پیٹھ تمسندہ مرنگ وقت واتان چھو واللہ خیر بما تعملون اللہ تعالیٰ اس چھ پور خبر تمہ سارچی یہ توہ کران چھوہ۔



## سُورَةُ التَّغَابُنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ② وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ

يَسْبَحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سزپایک چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمان اندر چھ  
بیہ یم چیز زمین اندر چھ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تهنزی چھ سلطنت بیہ شو  
بن تس ساری تعریف بیہ چھو سوی پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول تمس یلہ اتھ کمالک صفت چھ لہذا  
چھ تهنز اطاعت واجب بیہ چھ تهنز نافرمانی تہ معصیت بیچھ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ  
مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ سو گو سوی ذات پاک یم توه ساری پیدہ کر یوتھ گن نظر کرت پڑہ ہاتوہہ ساری تس پڑھ  
کرن تہ ایمان ان، تمہ باوجود چھ توه اندرہ بعض کافر بیہ چھ بعض باایمان، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
اللہ تعالیٰ چھو توهنرہ سارے کامہ ایمانچہ کامہ تہ کفرہ چہ کامہ تہ وچھان پر تھ کامہ مناسب دیوہ سو توه  
جزا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تمی کر آسمان تہ زمین پیدہ بندیرہ تہ حکمت وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ بیہ کرتی توهند نقشہ تہ صورت ای انسانوپس کرون سیٹھاہرت توهند نقش  
تہ توهنرہ صورت تس گن چھو پتولا کہ سارنی واتن يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْتَرُونَ  
وَمَا تُعْلَنُونَ سو چھو زمانان تس سارنی چیزیم آسمان اندر تہ زمین اندر چھ، بیہ چھو سو تم ساری چیز

مَا تَسْتُرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۴﴾  
 اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَاذْاَوْا وَاَبَالَ اَمْرَهُمْ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۵﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنٰتِ فَعَالُوْا الْاَبْرٰهِيْمَ وَاَتَيْنَا فَاكْفَرُوْا وَاَتَوَلَّوْا وَاَسْتَعْنٰى  
 اللّٰهُ وَاَللّٰهُ عِنْفِيْ حَمِيْدٌ ﴿۶﴾ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ  
 يُّبْعَثُوْا قُلٌ بَلٰى وَّرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّؤُنَّ بِمَا

زنان ایم توہ پوشیدہ نہ کھٹت کران چھوہ بیہ ایم چیز توہ نن پاٹھ کران چھوہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  
 اللہ تعالیٰ چھوہ دن ہنزہ تھہ تان پور زنان ایم ساری چیز چھہ منگان کہ توہ کریو تھہز اطاعت نہ فرماں  
 برداری اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ امہ علاوہ چھہناوا اثر مژ توہہ تمن لوکن ہنز خبر یمو توہ  
 بروٹھ کھر وانکار کر فَاذْاَوْا وَاَبَالَ اَمْرَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ پس ژوہ تمو پنے نین کا میں ہنزہ سختی ہو  
 ندمزہ دنیاں اندر بیہ چھوہ تمہ علاوہ تھندی خیطرہ آخر تس اندر دودہ دگ تلہ دن عذاب ذٰلِكَ بِاَنَّهُ  
 كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَعَالُوْا الْاَبْرٰهِيْمَ وَاَتَيْنَا فَاكْفَرُوْا وَاَسْتَعْنٰى اللّٰهُ یہ دنیاک وبال  
 نہ آخر تک عذاب چھوہ تمن امی موکھ کہ تمن نش آس یوان تھہند پیغمبر واضح نہ نہ دلیلہ ہیبت تم آس  
 تمن پیغمبر نسبت ونان کہ کیا ایم اسی ہی انسان ہاونہ آہہ و تھہ تمن کیاہ فوقیت چھہ اسہ پیٹھ بہر حال تمو  
 کر کھر نہ اعراض اللہ تعالیٰ نہ سپد تمن نشہ بے نیاز تم بُرنہ تموند کا نہہ پروان بلکہ کزن تمن ہین قبر  
 وَاللّٰهُ عِنْفِيْ حَمِيْدٌ اللہ تعالیٰ چھوہ ساری نشہ بے نیاز تعریف کرنہ اُمت تس بھہ نہ کا نہہ ہنز ضرورت نہ  
 ہر لیس لوکن ہنز طاعت و فرماں برداری سیت کنہ نہ چھہنیں لوکن ہنزہ نافرمانی سیت کنہ ایم  
 فرمانبرداری کرن تمن چھوپانس تمبوک فائدہ ایم نافرمانی کرن تمن چھوپانس تمبوک ضرر زَعَمَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا انکار رسالتک پاٹھ چھہ ایم کافر منہ پتہ بیہ زندہ سپدس نہ انکار کران  
 دعویٰ چھہ کران کہ تم میں نہ بیہ دوبارہ قیامتک دودہ زندے کرنہ قُلْ بَلٰى وَّرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّؤُنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ  
 وَالتُّورِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝  
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ  
 وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ  
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

بِسْمَاعِلْتُمْ تُوہ فرمایو کہ یا رسول اللہؐ چھو قسم پہ نہس پروردگارہ سند کہ واقعی ایو تُوہ مر نہ پتہ بیہ  
 پیدہ کرنہ تو پتہ کیہ تُوہ تہ سوروی باونہ یہ تُوہ کرمت آسوہ دنیا س اندر تو پتہ کیہ تُوہ تمیوک سزاء ونہ  
 وَذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیہ یہ پیدہ کرن تہ جزا و سزاء دیون چھو اللہ تعالیٰ اس نعرہ کمال قدرت آسنہ  
 موکہ بالکل سسل تہ آسان پس یلہ آت چیز چھہ منگان ایمانس فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّورِ الَّذِيْ  
 اَنْزَلْنَا پس اینو تُوہ ایمان تہ کریو پڑھہ معبود برحقس بیہ تہندس پیغمبر برحقس بیہ تھہ نورس ٹیس اسہ  
 نازل کر بیئے قرآن مجیدس وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنزن سارنی کامین ہنزن  
 پور خبر يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ بیہ پاویو سو دوہہ ژتیس بیہ دوہہ تُوہ سارنی جمع کرہ سو  
 جمع سپدنہ کس دوہس منز سو گو سوی دوہہ تھہ منز ظاہر سپدہ کم کیاہ زیون تہ کم کیاہ ہور با ایمان زمین اتھہ  
 دوہس منز کا فر مناق تہ مشرک ہارن امہ دوہہ چنانچہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ  
 یس اکھاہ ایمان انہ کئس خدا یس بیہ کرہ رتہ عملہ اللہ تعالیٰ کرہ تس نعرہ دُور تسد گناہہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا بیہ واہ تاوہ تس جنتہ کین تمس باغن اندر یو منز جو بیہ تہ  
 کولہ پکان آسن یمن جننن منز ہمیشہ ہمیشہ تم روزن ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ بیہ گیہ بڈ کامیابی تہ رستہ گاری  
 وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمِنْهُمْ الْمُصِيْرُ یومو لو کو کھر کرمت آسہ بیہ  
 آنکھ سان آیات زامت اپن تم لوک گئے دوزخک لوک تم روزن تھہ منز ہمیشہ سہ چھہ سیٹھاہ بچھہ جایاہ



وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ ۱۱ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ  
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۲ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ  
أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۱۳  
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ

تہمدہ اسے خیرہ! تھ پاٹھ کفر چھو مانع سپدان آخر تچ رسدہ گاری حاصل سپد نہ نشہ آتھ پاٹھ چھو مصیبتیں  
اندر بوڈن مال و دولتہ چہ فکرہ اندر روزن یا زنانن تہ اولادن سیت مشغول سپدت خدایہ سندھ یادہ نشہ  
غانل سپدن تہمدین احکامن ہنز تعمیل کرنس اندر کوتاہی تہ سستی کرنن تہ مانع سپدان آخر تچہ فلاح  
درستگاری نشہ ہند گڑھ مصیبتیں متعلق یہ خیال کرن کہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کانہ  
مصیبتاہ چھنہ واتان کانہ اس خدایہ سندھ حمہ و رای یہ تھہ فکرہ تارت گڑھہ مصیبتیں پیٹھ صبر کرن  
راضی روزن خدایہ سندس یڑھنس وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ بیہ بس اللہ تعالیٰ اس چھو پور پڑھ  
کران تسدس دلس چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہوان صبرس تہ رضا کس ن وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ  
چھو پڑھہ چیزا ہوارہ زنان کہ کم کرہ صبر و رضا اختیار کم کرہ اختیار پر تھہ اس چھو حسب حکمت جزاء و  
سزادیوان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ خلاصہ چھو ای زہ پر تھہ کامہ اندر (مصیبت تہ چھو تمو کامیو  
اندرہ اکھ کام) کریو فرمال برداری خدایہ سنز بیہ کریو فرمانبرداری پیغمبرہ سنز صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ  
تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ہر گاہ تہ اطاعتہ نشہ بو تھہ پھر یو کانہ پروا چھنہ تموک تلہ تہما یو  
توہ یاد یہ تھہ کہ سانس پیغمبرس چھو منہ صاف صاف پیغام سون وائہ ناؤن بس تمو وائہ نوور تہ طریقہ  
تمن چھنہ کانہ نقصان تہ ضرر اتھہ منز بلکہ چھو بوڈ نقصان تہ ضرر اتھہ منز توہ پانس۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ توہند گڑھہ وارہ زنان کہ اللہ تعالیٰ اس و رای چھنہ کانہ اکھاہ معبود آسنس لایق پس زانیون سوی  
پن معبود وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ باایمان ہیو ند گڑھہ مصیبتیں اندر اللہ تعالیٰ سئی پیٹھ توکل

وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا  
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَآ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا

کرن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ أَدْرَاكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عِدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ اے ایمانوالو! تمہا پاتھ توہ  
حکم کرنے آو کہ مصیبتیں اندر گدھ صبر کروں یوتھنے بے صبری کرن مانع سپدہ توہ فلاح آخرتہ نشہ ایتھے پاتھ  
چھوہ توہ حکم یوان کرنے کہ نقصان اندر مہ آسیو بوڈت گڑھان کیاہہ نفعی اندر بوڈت گڑھت خدا یس نشہ  
غافل سپدون اے چھو مانع سپدن آخر تک فلاح حاصل کرنے نشہ لہذا گدھ توہند خیال تہاون کہ توہنزہ  
بعضے زنانہ بیہ بعضے اولاد چھ توہند دشمن پس روزہ یوتھ توہ تمن نشہ ہوشیار تہند یں تنہیں حکمن تہ فرمائش  
پیٹھ مہ کریو عمل بسا اوقات چھو انسان زنانہ تہ اولاد ہندس مجتہس اندر گرفتار گڑھت خدا یس تہ  
خدا یہ سند یں حکمن مشراوان تہند یں تعلقات ہندہ سببہ وار یں گنہن ہوندر تکب سپدان یہ سببہ سو  
وارہ یمو چیز نشہ محروم چھو سپدان زنانہ تہ اولاد ہنزہ فرمائشہ تہ ناز برداریہ چھنہ مردس سوٹھی  
دیوان اتھ فکرہ اندر روزنہ سببہ چھنہ تس آخرت ژتیس یی یوان یہ کتھ چھ ظاہر کہ یوتھ عیال تہ امہ  
قبسک شربا ژیم ایتہ نقصان عظیمک سبب بن یم چھنہ حقیقتس اندر دوست ونہ نس سزاوار بلکہ چھہ تم  
بدترین دشمن اہنزہ دشمنی ہوند چھنہ کنہ وقتہ احساس تہ سپدان تمی مو کہ فرمو اللہ تعالیٰ ان کے امہ  
قسمہ کین دشمن نشہ روز یو ہوشیار سو طریق مہ کریو اختیار سمیوک نتیجہ یہ نیرہ کہ توہ کریو تہوند دنیاو  
آخرت سنبھالنے خیطرہ ہن دین و آخرت بُرباد مگر امیوک مطلب چھنہ کہ دنیا س اندر چہ سارے  
زنانہ تہ ساری اولاد امی قسمک آسان بلکہ چھو واریاہ زنانہ تہ اولاد یم پنہ نین خاندن تہ مالین چھہ دینہ  
چن کا یں اندر معین و مددگار بنان **وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** و سَن ہر گاہ تمو  
توہ سیت دشمنی کمر دینی یاد نیوی کا نہہ نقصانہ واتہ نوو تمیوک نتیجہ گدھنہ یہ نیرن کہ توہ سپد یو تمن  
انتقام ہمیس در پے تمن پیٹھ ہیو توہ کا نہہ سختیہ شروع کرن یمہ سیت دنیاک نظام در ہم بر ہم سپدہ بلکہ  
ایشرھن توہ پلہ تیڑھن گدھ توہنز عقلہ کوم ہیئت تہند یں قصورن تہ خطائُن در گزر کرن ٹھنزہ کوتا ہیہ  
معاف کرنے یوتھ سلوک تمن سیت ورتاونہ سببہ کرہ اللہ تعالیٰ توہندن گنہن مغفرت توہندس حالس  
پیٹھ رم کیاہہ سو چھو سٹھاہ مغفرت کرہ ون **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** توہند مال تہ توہند اولاد چھہ

اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
 وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّ  
 تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
 شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۶﴾

توہندہ آزمائشہ خلیطہ اکلہ چیزاہ یوتھ اس وچھو کہ کوہ چھو مال واولاد ہنز فکرہ منز بوڈتھ خدایہ سند  
 حکم مشراوان کوہ چھویاد تہاوان بس شخص مال واولاد آستھ احکام خداوندی چھویاد تہاوان وَاللَّهُ عِنْدَکَ  
 آجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ خلیطہ چھو اللہ تعالیٰ اس نشیہ اجر عظیم یعنی بڈ مزور فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا  
 وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ یمہ سارے کتھ بوزت کھوڑو اللہ تعالیٰ اس بئوت میکو تہ توت بیہ بلز  
 یوتھند حکم وارہ پاٹھ تو پتہ مانیتھ تم حکم بیہ کریو مال خرچ تمں جاین اندر یمن منز خرچ کرنگ حکم اووہ  
 کرنہ ای چھو توہندہ حقہ بہتر وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یس اکھاہ نفسانی حرصہ  
 نشہ محفوظ تہاوندہ آوتی قسمک لوک چھہ آخرتس اندر رستہ گاری تہ فلاح حاصل کرہ و سَنَ إِنَّ تَقْرُضُوا  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہر گاہ توہ اللہ تعالیٰ اس قرض دیورتہ طریقہ یعنی خلوصہ  
 سان سوزتھ اندر توہندہ خلیطہ زیادتی کران بیہ کرہ توہ گنہن مغفرت وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ  
 تعالیٰ چھو سٹھاہ قدردان کہ رزہ عملہ چھو قبول کران سو چھو تحمل تہ زید کرہ و نافرمانین تہ پیچھہ عملن  
 پیچھہ جھنہ سیتی رٹان تہ گرفتار کران عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پویشیدہ تہ نہ عملہ  
 زانہ و ن زبردست چھو سیٹھاہ حکمتہ و ول چھو



## سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اِی پیغمبر بزرگ توہ فرما دیو لو کن کہ  
یلہ توہ تمن زنانن طلاق دیوان آسیو یمن سیت توہ خلوت صحیحہ کر مت آسوہ پس دیو تمن طلاق حیضہ  
کہ زمانہ بروٹھہ طہرس اندر بیہ تھا دیو طلاق دنہ پتہ یاد عدت یعنی مردنہ زنانہ تماوان عدت تک حساب  
یادوا حصو فر موکہ بصینہ جمع مذکرامی موکہ کہ زنانن چھہ سپدان اکثر غفلت لہذا اکثرہ مردن ہوند نہ  
امیو کہ خیال تماوان وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس نئس توہند پروردگار چھو تہندین حکمن مہ  
آسیو خلاف ورزی کر ان کہ وٹہ مہ آسیو ترہ طلاق دیوان حیضہ کس حالس اندر مہ آسیو طلاق دیوان۔  
یمہ چیز و نشہ چھہ حدیث شریف منر ممانعت فرماو مژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ بیہ مہ آسیو کہ تمہ زنانہ تموگر واندہہ نہر کڈان یمن منز تمہ بسان آسن  
کیازہ طلاق دنہ آٹرہ زنانہ بسنہ خیطرہ جای دن چھو واجب تھہ پاٹھ منکوہ زنانہ ہندہ خیطرہ چھو  
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ نہ گڑھ تمن زنانن ہوند پانہ نیرن تموگر واندہہ کیازہ تمن بسنہ  
خیطرہ جای دن یہ پھنہ حق العبدی یوت بلکہ چھویہ حق الشرع تہ سوہیچہ نہ ساقط ہدت تمندہ رضا  
مندی سیت مگر امہ قسچہ زنانہ کنہ نہ بے حیاء مر محب سپدن مثلاً بدکاری کرن یا ژور کرن تھہ صورتس  
اندرین تمہ کڈنہ بطور سزاہ بعض علماءن نشہ چھو کہ ہر گاہ زبان درازی بیہ پر تھہ وقتہ ہر تہ قضیہ لاگہ  
تلہ تہ چھو جایزہ زنانہ گرہ منزہ نہر گڈنن وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ایم ساری چیز چھہ خدایہ سندی مقرر

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
 أَمْرًا ۱) فَاذْ بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ  
 يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

کرمت احکام، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لیس اکھاہ خدایہ سند یو احکا مونشیہ تجاوز کرہ تم  
 کر بے شک پنے نس پانس بیٹھ ظلم یعنی سوسپد گھکارامہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیوان کہ طلاق مزہ  
 چھو طلاق رجعی بہتر لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۱) نہ چھہ نہ خبرای طلاق دیوہ ونہ شاید اللہ  
 تعالیٰ ما کرہ امہ طلاق دنہ پتہ کانہہ نوکٹھاہ چانس دس منز پیدہ یعنی ۷ہ ما سپدہ کہ طلاق دنہ پتہ نادم تہ  
 پیشمان پس ہر گاہ ۷ہ طلاق رجعی دیو تممت آستھ تھہ اندر ہیہہ اتھہ علاج بنت بیہ رجوع کرنہ سیت فَاذًا  
 بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس یلہ تمہ زنانہ یکن طلاق رجعی دنہ آمت  
 آسہ پننن عدت و برنس نزدیک واتن تمہ ساتہ چھو توہ دون کھن ہیو ند اختیار یار یو کہ تمہ باقاعدہ  
 رجعت کرت پنے نس نکاحس اندر یار تواد یو کہ قاعدہ موجب یلہ یعنی عدت و برنس تان مہ کریو تمس گن  
 رجعت ترم صورت مہ کریو کہ توہ آسبونہ سہ بساوس غرض خواہ مخواہ تکلیف دنہ خیطرہ تمسز عدت  
 زیشتر اونہ خیطر کریو تمس سیت رجعت ناحق کانہہ ایذاء دیوان تہ چھنہ مناسب تھہ چھو خدا بیزار  
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یہ کنیہ اہ توہ کریو پانس نشہ رٹہ اندرہ یایلہ ترادنہ اندر تھہ  
 تواد یو کہ پنے نیواندرہ ۷ہ ممتبر شخص شاہد تہ گواہ یو تھنہ آئندہ کنہ تھہ بیٹھہ اختلاف پیدہ سپدہ ای گواہو ہر  
 گاہ گواہی دنچ ضرورت پیہ توہ ذرہ پنز پنز گواہی خدایہ سندہ خیطرہ کانہہ ہیوند طرف کرنہ ورا ی ذَٰلِكُمْ  
 يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ مضمونہ سیت چھہ نصیحت کرنہ یوان تس شخصس لیس  
 پور پڑھ آسہ کنس خدایہ سز بیہ آس یقین چتمہ دوہک یعنی قانتک کیا زہ ایمان واری چھواسہ نصیحتک  
 فاندہ بیکان تلت اگر چہ نصیحت چھہ سار نی ہندہ خیطرہ برو تھہ لیس حکم تقویٰ اس متعلق بیان کرنہ آؤ۔

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا<sup>۲</sup> وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى  
 اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا<sup>۳</sup>  
 وَالَّذِي يُبَسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْ هُنَّ  
 ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>۴</sup> ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

وَسَنَ جَه تَه متعلق احکا من در میان فضائل بیان یوان کرنے گوڈ نیو کہ فضیلت گو و مَن یَتَّقِ اللَّهُ یَجْعَلُ  
 لَهُ مَخْرَجًا اِس شخص اللہ تعالیٰ اس کھوڑہ اللہ تعالیٰ چھو تہندہ خیطرہ مضر تونشہ نجات لہج صورت پیدہ  
 کران وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْتَسِبُ بیہ چھو تقویٰ کہ برکتہ تس رزق وانہ تاوان تزہی جاہیہ سمیوک نہ  
 تس برانت تہ گمانے چھو آسان بیہ چھو امہ تقویٰ اک اکہ شاخ توکل تمیوک خاصیت چھو وَمَنْ  
 یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِس اکھاہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ توکل کرہ سو چھو تس اصلاح مہمات ہندہ  
 خیطرہ کافی سو چھو پندہ کافی آسنگ اثر خاص ظاہر کران اصلاح مہمات کرنے سیت إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھو پننن کوم! تھ پاٹھ خوش کر یس تھ پاٹھ پورہ کران تھ پاٹ چھو اصلاح مہمات  
 کرنگ وقت تہ موقوف تہندس ارادس پیٹھ کیاہہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ ان چھو پر تھ  
 چیز خیطرہ اکہ اندازہ پنہ نس علمس اندر مقرر کرمت تمی موجب چھو سو چیز حتمس مطابق واقع کران امہ  
 پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیہ طلاقہ کین احکا من متعلق تفصیلی بیان فرماوان وَالَّذِي يُبَسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ  
 نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْ هُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ تونہزن طلاق دنہ آثرن زنانن بیمہ زیادہ وانسہ  
 آسنہ موکھ خون حیض انہ نشہ نامید آسن سہز مڑہ ہر گاہ توبہ تہندس عدتس منز خبہ آسہ (چنانچہ خبہ  
 چھو او سمت بیمہ سببہ پر ژھنہ آو) تہنز عدت چھو ترہ ریتھ تھہ پاٹھ یکن زنانن نہ نابالغ آسنہ موکھ ونہ  
 خون حیض بن شروع سپد مت آسہ تہنز عدت تہ چھ ترہ ریتھ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ بہ بیمہ زنانہ حملہ واجنہ آسن تہنز عدت گیہ یوتان تہہ پر سن حملہ نشہ فارغ سپدن وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سِبَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ⑤  
 اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَادًا فَحَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
 تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعُ لَهَا أُخْرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ

يَجْعَلُ لَهَا مِنْ أَمْرٍ عَیْرًا لیس شخص خدا پس کھوڑہ تس کرہ اللہ تعالیٰ پر تھہ کامہ منز آسانی دنیاچہ کامہ  
 تہ آخرتچہ کامہ تہ ذلک امر اللہ انزلہ الیکم یہ کنیوہاہ بیان کرنہ آویہ چھو اللہ تعالیٰ سند حکم لیس تم تہ تہ  
 گن سوز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سِبَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا لیس اکھاہ یمن معاملاتن اندر تہ بین احکامن اندر  
 تہ خدا پس کھوڑہ اللہ تعالیٰ کرہ دور تس نشہ تسند گناہ بجو بجو سختیوشہ ر پھس بیہ کر لیس عطا بڈ مزور یعنی  
 بڈ فائدہ تہ نفع واد تہ ناوس اسکنوہن من حیث سکنتن من ووجوہکم بیہ چھہ طلاق دنہ آمر زنانن ہند تہ تہ  
 پیٹھ بیہ تہ کنہ حقوق سوگو تمن گڑھ بسنہ تہ روزنہ خیطرہ جای دن پنے نہ طاقتہ تہ وسعتہ موجب یتہ تہ تہ  
 پانہ بسان آسیوت تہ گڑھ تمن تہ جای دن یعنی عد تس اندر چھہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ جای دن واجب البتہ  
 ہر گاہ طلاق باین آسہ دنہ آمت تلہ کسی کو ٹھس اندر تمن دون ہیوند روزن پھنہ جائز بلکہ گڑھ منزہ کنہ  
 ٹھور آسن ضرور وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ بیہ مہ واد تہ ناویو تمن تکلیف بسنہ کس معاملس اندر تمہ  
 تنگ کرنہ خیطرہ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَادًا فَحَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بیہ ہر گاہ تمہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ  
 حملہ واجنہ آسن تلہ کر یو تہ ہندہ کھینہ چنہ خیطرہ تمن پیٹھ خرچ برداشت یوتان تمہ پر سن حملہ نشہ فارغ  
 سپدن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ہر گاہ تمہ زنانہ یمن تہ طلاق دیو تہ عد تہ پتہ تہ ہندین ٹھرین  
 (یم ٹھری تمن بروٹھی تہ ہند آسن یا آسیکھ عدت خم گمہ شریزینہ سبتی دودھ دن تہ ہندہ خیطرہ اجر تس  
 پیٹھ تہ دیو تمن سہ اجرت یوسہ تہ پانہ وان مقرر کر یو وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ بیہ کر یو اتھہ اجر تس  
 متعلق پانہ وان مشورہ مناسب طریقہ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعُ لَهَا أُخْرَى ہر گاہ تہ اکھ اس پیٹھ تنگی تہ

قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ  
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكْرًا ۝  
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
 عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

سختی کر یو تله چاوه تس چس دوده بیه کانه زانه **لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ** وسعت وال کرن امس  
 ۲۸ س پیٹھ خرچ پنہ نہ وسعتہ موجب **وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ** وین تمس تنگی آمر آسہ  
 کرنہ رزق اندر یعنی آمدنی ایسی کم سو کرن آمس ۲۸ س پیٹھ خرچ تھی منزہ یہ تمس دیو تمت آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان یعنی امیر شخص کرن خرچ پنہ نہ حیثیتہ موجب فقیر کرہ خرچ پنہ نہ حیثیتہ موجب **لَا يَكِلُفُ اللَّهُ**  
**نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا** اللہ تعالیٰ جھنہ کانسہ شخص تکلیف دیوان مگر تھی موجب یہ تمس عطا کرن تنگ دست  
 شخصہ سُنْدُ گھونہ خیال کرن کہ ہر گاہ بوا امس زانہ پیٹھ خرچ کرہ تله ماروز سمنہ پانس کنہی **سَيَجْعَلُ اللَّهُ**  
**بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا** اللہ تعالیٰ کرہ عنقریب سختی تہ تنگی پتہ وسعت تہ آسانی۔ **وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ**  
**رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَاهَا عَذَابًا ثَكْرًا** وارہین بستین تہ شہرن ہندیو لو کو کرنا فرمانی پنہ  
 نس پروردگارہ سندس خمس بیه خدایہ سندین پیغمبرن ہندہ ہن حکمن پس ہیوت اسہ تہنزن عملن ہیوند  
 سخت حساب یعنی تہنز و کفر چوکا میواندرہ کرنہ اسہ کانسہ کاماہ تمن معاف بلکہ کرسا نئی کامن پیٹھ سزا  
 تجویز بلکہ کراسہ تمن سو عذاب نس نہ تمود و ہتھیو اوس **فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا**  
 پس ثوہ تمود پنہ نین پیٹھ عملن ہندہ و بالک مزہ بیه اوس تہنزہ کامہ ہیوند انجام تاوان تہ نقصان یہ گو کہ  
 دنیا س منز **أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا** امہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ تیار تو موت آخر تس  
 اندر سخت عذاب و سن یلہ نافرمانی ہیوند عذاب بوزو **فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا** کھوژیو  
 اللہ تعالیٰ اس توہ امی عقلہ والیو میوا ایمان ائمت چھوہ کیا زہ ایمان تہ چھو اتھ منگان خدالیس کھوژن گو کہ  
 تہنز کر یو فرماں برداری اطاعت و فرماں برداری ہنز طریق ہاونہ خیطرہ **فَدَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُولًا**



أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ  
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَمَنْ  
يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱ ۗ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲ ۗ

سوز اللہ تعالیٰ ان توه کین اکھ نصیحت نامہ سونصیحت نامہ بیت سوزن اکھ جلیل القدر پیغمبرہ یتلوا  
عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ نُس پران تہ بوزہ ناوان چھ توه اللہ تعالیٰ سند آیات ویرہناوات لِيُخْرِجَ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یوتھ سو پیغمبر برحق تمن لوکن یو ایمان ان تہ رثہ  
عمل کر یکھ کفرہ تہ جھلمہ چوتاریکو منزہ کڈہ ایمان تہ علمہ وعملہ کس نورس گن۔ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ  
صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لیس اکھاہ پڑھ کرہ خدا لیس بیہ کرہ رثہ عملہ  
اللہ تعالیٰ وانہ ناوس جنتہ کین تمن باغن منز یو بون کن کمہ کمہ جوی تہ کولہ آسن پکان تھمی جنتن منز  
روزن تم ہمیشہ ابد الآباد، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ تعالیٰ ان دیوت تس رت رزقاہ ہمیشہ  
پوشہ ون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ گو سو معبود برحق یم سٹھ آسمان  
پیدہ کمر بیہ کرن تھندی پاٹھ سٹھ زمین چنانچہ صحیح ترمذی منز چھو حدیث شریف کہ اکس زمینس تل  
چھو بیا کہ زمین تھ تل چھو تر یوم زمین اتھے پاٹھ چھ اکھ اس تل سٹھ زمین یتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اللہ  
تعالیٰ سند احکام تکلیفیہ تہ تکوینیہ چھ یمن ستن آسمان تہ ستن زمینس منز نازل سدان لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یوتھ توه معلوم سپدہ کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزس  
پیٹھ قدر تہ وول بیہ چھو اللہ تعالیٰ پر تھ چیزس احاطہ کرت پنہ نہ علمہ بیت اتھ گن نظر کرت چھو  
واجب اللہ تعالیٰ اس اطاعت تہ فرماں برداری کرن



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ صحیح بخاری شریف سے بین حدیث شریفہ جن کتابن اندر چھو  
بروایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہو نعدادت شریفہ اوس  
کہ تم آس پرت دوہہ دگر نمازہ پتہ ازواج طاہراتن ہندین حجرات شریفن اندر تشریف اتان و دندہ و دئی  
آس مختصر توقف کرت تمن تفقد حالات فرماوان اکہ دوہہ تہو کہ حضرت زبیرہ سندس حجرہ شریف  
منز معمولہ خوتہ زیادہ کالس تشریف کیا زہ تمو کہ ہکھ پیش مانچہ سوی کرو کہ تناول تمہ کس تناول  
کر نس لگ کند کالہ معمولہ خوتہ زیادہ حضرت عائشہ چہ فرماوان کہ مہ گوامیوک مُٹک مہ کر حضرت  
حفصہ اس سیت مشورہ کہ اسہ اندرہ بس نشہ نبی کریم امہ پتہ تشریف اتن تمسند گدہ عرض کرن کہ  
توہ چھوہ ہز مغافر نوش فرمومت (مغافیر چہ ونان اکہ کلہ کس تہہ ماوس کس زہرہ کرا نکھ صیو چھو  
آسان یا صمغ بیور یا تو تہ مانچہ ہیو۔ تہہ چھو آسان مُٹک ناپیندہ یعنی پھک چنانچہ بیے عمل کر باقی  
ازواج طاہراتو تو پتہ فرمودہ تمومہ چومانچہ استعمال کرمت بو کیا زہ کہ ہا مغافیر استعمال تمہ کر ہک عرض  
شاید مانچہ تلمر ما آسہ بیٹھو مغافیرس پیٹھ تہندس ما پھس تہ آسہ ترمت تمیوک پھک یہ بوزت ہو و قسم  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانچہ استعمال کرنس پیٹھ اتھ موقس پیٹھ سپد نازل یم آیت کریمہ  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ای بدہ پیغمبرہ توہ کیا ہز چھو قسم ہاوت پانس پیٹھ سو چیز حرام  
کران بس چیز اللہ تعالیٰ ان توہندہ خیطرہ حلال کرمت چھوہ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ تمی چھوہ  
کران پنہ نین باثنی ہنز رضا مندی تہ خوشنودی حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ کہ مباح چیزک ترک کردن  
چھوہ مباح تو پتہ تہہ ترک مباحس تاکید کردن قسمہ سیت تہہ چھوہ مباح مگر خلاف اولیٰ چھوہ ضرور

أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذْ أَسَرَّ  
النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ

خصوصاً یلہ تمیوک موجب تہ باعث آسہ معمولی تہ غیر ضروری اکھ چیزا ہو گوگرہ کین باژن ہنز خوشنودی تہ رضامندی حاصل کرنین وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو بخشنہار سو چھو گنہس تان تہ بخشایش تہ معاف کران توہ نشہ سپدنہ کانہہ گناہ تہ صادریہ پٹھنہ توہ پیٹھ کانہہ عتاب بلکہ چھو اتھ گن توہ اکھ قسمہ توجہ یوان دنہ شفقت وراثتہ موجب توہ چھو وندنہ یوان کہ توہ کیا زہ ہنز تر وودہ سو چیزئس مباح اوس توہ ہندہ خیطرہ یہ تکلیف کیا زہ ہو توہ تھہ سیت ہووہ توہ اتھ پیٹھ قسم لہذا دیو کج کفارت تو پتہ کریو بیہ مانچھ استعمال قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ ان چھہ مقرر کر مرث توہ ہندہ قسم مشراوچ یعنی قسم پھڑوانہ پتہ کج کفارت دنچ طریق سو گود ہن مسکین طعام دیون یا غلام یا کینز آزاد کرن یا ترین دوہن روزہ داروزن وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھو توہ ہند دوست وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سوی چھو سوروی زانہ ون سوی چھو شاہ حمتہ وول تمی علم و حمتہ سیت چھو توہ ہنزہ مصلحہ تہ ضرورتک چیز زانت توہ ہنزہ واریاہ دشواریہ آسان کرنچہ طریقہ بیان کران چنانچہ کج کفارت دنک حکم کرنہ سیت کر تم کچھ پابندی ہونند تکلیف دور۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے ازواج طاہرا تو سو وقت چھو یاد کرنس قابلہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو پنہ نس اکس باژس سیت سرہ کتھاہ اکھ فرماوے یہ سہ کتھہ آس یہیہ بوکھیمہ نہ از کہ پیٹھ مانچھ مگر یوتھنہ ژہ کانہہ نشہ یہ کتھہ باوکھ فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ تمہ پتہ یلہ تمہ دید صیبہ لاوسور بین ازواج طاہراتن نشہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان تر وودہ سو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو فر مو تمس سز فاش کرہ ونہ دید صیبہ کہ ژہ چھمت یہ میان سرہ کتھہ بین نشہ وانہ ناومر مگر اڈ کتھہ بر کہ بیان آجہ کتھہ نشہ کر وکھ اعراض تمیوک کر وکھنہ کنہہ بیان یہ گو غایت درجک کرم تھوند کہ پنہ نس کھمس خلاف کرنس پیٹھ یلہ شکایت کر کہ پنہ نین باژن ہنز سوروی کر کھنہ بیان بلکہ کر کہ تمہ منزہ مو یہ ہنا

قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۳۱۰ إِنَّ تَتُوبًا  
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ ۱۰ وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

بیان یوتھنہ تمن زیادہ شرمندگی پیدہ سپدہ فَلَمَّا بَيَّنَّا لَهَا بِهَذَا قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا اودہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس سے تھہ فرماوسہ گیہ حیران تمہ کروکھ عرض توبہ کم ہر دپوہ مہ کیا بوو تو ہند سربہ کانہ نشہ تمن گیہ رای حضرت عائشہ نبی ماسہ یمن وومت قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تمو فرموس مہ کر خبر اللہ تعالیٰ ان نُس بوڈزان دول چھوئس سارچی پور خبر چھہ یہ آوونہ ازواج طاہراتن یو تھہ تمہ آیندہ امہ قسچہ ژویہ کرنہ نشہ پتھ روزن بیہ کرن توبہ تمیوک تمن یسہ پتہ آیات کر یمن اندر حکم چھو یوان کرنہ إِنَّ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ اے نبی کریمہ سنزدو شوئی الہیو (مراد چھہ امہ اندرہ حضرت عائشہ بیہ حضرت حصہ اگر توبہ خدا یس برونھ کنہ توبہ کر یو تہ چھو تو ہندہ خیطرہ بہتر کیا زہ تھہ لایق چھوہ توبہ کرمت تہ گواہی زہ کہ تو ہند دل چھہ ہتھ تھہ گن مایل سپد مت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند توجہ پھرہ ہواس بین ازواج طاہراتو نشہ پانس گن تمی خیطرہ چھوہ توبہ پانہ وان ژویہ کران اگر چہ ہتھ گن نظر کرت کہ اموک سبب چھوہ توبہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ اعتبارہ اوسنہ یہ ناکارہ چیز مگر چونکہ امہ سیت چھہ سپدان بین ہنز حق تلفی بیہ چھو تہندہ دل شکنی ہیوند باعث سپدان اتھ کن نظر کرت چھو ناکارے یسہ موکھ توبہ پزہ توبہ کرن۔ وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وُن ہر گاہ توبہ دو شوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ ہنن کارروائی جاری تہا یو بیہ کرنس اندر توبہ آندہ نہ کنہ تہ کیا زہ تہوند دوست چھوپانہ اللہ تعالیٰ بیہ جبریل امین بیہ نیکو کار مسلمان وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ تمہ علاوہ چھہ ساری ملایک تہند مددگار توبہ ہنز ژویو سیت واتنہ تمن کانہ ضرر تہ نقصان بلکہ چھوہ توبہ پانس امیوک نقصان کیا زہ نُس صاحبس اتھ مددگار آسن (گوڈہ چھو بس تمن اکوی بوڈ مددگار) تہندس مزاج مبارکس تہ طبعیت نازنیں خلاف کانہ حرکت کرنن تھہ کوسہ کوندے کھسہ توبہ تمیوک انجام چھونن پاٹھ سیٹھاہ بیچھہ توبہ ہندہ خیطرہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اتھ آہ

ظَهْرٍ ۴ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ اِنْ طَلَّقَنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا  
 مِّنْكَ مَسْلَمَةٍ مُّؤْمِنَةٍ قَدْ تَبَدَّتْ عِبَادَتِ سَبَّحَتْ  
 تَبَدَّتْ وَاَبْكَارًا ۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ  
 نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَاِلْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

کر تمس منزئس ونه آوسار نئی رفیق سو چھو پر تھہ اکس سیت الگ الگ معنیہ کن اللہ تعالیٰ سنزر فاقت گیہ حقیقی جبریل امینہ سنزر فاقت گیہ یمہ معنیہ کہ سواوس واسرطہ فیوض الہی واتہ ناونس اندر ملائکن ہنز رفاقت گیہ انزال سکینہ با ایمان ہنز رفاقت گیہ تابعدراری تہ فرماں برداری بعضی سلف مفسرینو فرمودو صالح المؤمنینہ اندرہ چھہ مراد شیخین جلیلین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت فاروق اعظم واللہ اعلم چونکہ بعض روایتن اندر چھو امیوک سبب نزول ے واقعات تہ آمت تمن روایتن اندر چھو آمت کہ حضرت عائشہ تہ حضرت حفصہ وراہی تہ چھہ بیہ ازواج طاہرات اتھہ تحریکس سیت شامل آسمزہ حضرت سودہ حضرت صفیہ تمی موکھ کرکھ بیان بصیغہ جمع کہ ای ساروی ازواج طاہراتو تہ روزنویہ خیال کہ مردس چھہ زنانن ہنز ضرورت لازمی آسان تہ اتھہ گن نظر کرت ین سان مطالبات تسلیم کرنہ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ اِنْ طَلَّقَنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مَسْلَمَةٍ مُّؤْمِنَةٍ قَدْ تَبَدَّتْ عِبَادَتِ سَبَّحَتْ تَبَدَّتْ وَاَبْكَارًا ۵ لہذا اتہراویو تہ ای پیغمبر برحق سنزو ازواج طاہراتو تہ تھہ یاد کہ ہر گاہ بیہ پیغمبر تہ سارنئی زنانن طلاق دیہ اللہ تعالیٰ کرہ تہ بدل تمن تہ ہندہ خوتہ رزہ زنانہ عطایہ زنانہ مسلمان آسن با ایمان آسن فرماں بردار آسن توبہ کرہ ونہ آسن عبادت کرہ ونہ آسن روزہ دار آسن بعضی وورزہ آسن بعضی انہرشہ آسن بعض مصلحتن گن نظر کرت چھو زنانہ وورز آسن تہ مرغوب کیا زہ سہ چھہ سلیقہ واجمین تہ تجربہ کار آسان ای آوصفتن اندر بیان کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَاِلْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ای با ایمانویلہ حضرت رسول کریمہ سنزن ازواج طاہراتن تہ کاسنہ چارہ چھہ عبادت تہ عمل کرنہ وراہی تمن تہ آو بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنہ تہ تہ محو حکم

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا  
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

یوان کرنے کہ توه نہ آسیو پند نس عیالس تبلیغ کران عیالس تبلیغ کرن چھو واجب پر تھہ مسلمانس چھو لازم  
پانہ تہ عمل کرن پنون عیال تہ عمل کرہ ناؤن دنپہ و تہ پیٹھ انن وارہ وارہ فکرہ تارنہ سیت ماردنہ سیت  
وعید شدید بوزہ ناو تھہ کھوڑہ ناوہ سیت پیار کرنہ سیت غرض پر تھہ طریقہ گڑھن تم سمجھاؤن لہذا  
بچاویو کھہ بہن پان تہ پنون عیال تہ نار جہنمہ نشہ ہتھ نارس ہرہ ہنہ آیہ لوکن تہ کنیو سیت یمہ کنہ ژین ہند  
پاٹھ دزان چھہ پان بچاون گوپانہ فرماں برداری کرن عیال بچاون گو تم گڑھن خدا یمہ سندا حکام پھہ ناؤن  
بیہ تمن احکامن پیٹھ عمل کرہ ناؤن عَلِيهَا مَلِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ ہتھ نارس پیٹھ مقرر تہ معین چھہ کرنہ آمت ژ کھیل مضبوط قدا طاقتور ملایک تم نہ کنہ  
قسمہ رحم کرہ و ن چھہ یا یمین سیت نہ کانہہ مقابلہ ہیچہ کرت یم نہ اکس ذرس برابر خدایہ سنز نا فرمانی  
کران چھہ کنہ کھمس اندرئس کھم تمن کرنہ یوان چھوئس حکم اللہ تعالیٰ کران چھگ تھہ چھہ تم فوراً بجا  
انان نہ چھہ تعمیل کھم کرنس اندرئستی تہ تار کران تے ملایک وائے ناؤن کافر نارس جہنم نارس اندر تھی وقتہ  
آیہ تمن ونہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ اے کافر وازمہ کریو توه عنہ قسمک عذر پیش کیا زہ  
تھہ چھوہ نہ فاندہ کنہ تہ إِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیا زہ توه چھو تمکوئی سنرا یوان دنہ یہ توه کران  
آسوہ دنیاں اندر امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ امہ نار جہنمہ نشہ ہیچ کیاہ صورت چھہ تھی و نیو توه پنہ نس اہل  
وعیالس۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا اے باایمانو توه کریو خدا یمس بروئھہ کنہ پوز  
توبہ یعنی دلس منز ہو پوز تہ کامل ندامت تمن گھنن پیٹھ یم از تام کر مت چھوہ آئندہ کریو پختہ عزم  
گناہ تراؤنس پیٹھ امہ توبہ کہ برکتہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ امید چھہ یعنی وعدہ چھو توه ہند پروردگار کرہ توه ہند یم گھنن عفو بیہ وائے ناوہ توه جنتہ کین

مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا  
نُورَنَا وَاعْفُرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ  
الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ  
الْبَصِيرُ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُرَاتِ نُورٍ وَ  
امْرَأَاتِ لُوطٍ ۝ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

تمن باغن اندر یمو بون کن کولہ تہ جو یہ پکان آسن یوم لا یخزی اللہ النبئی والذین امنوا معہ یہ گوئی  
دوہہ اللہ تعالیٰ عزت دیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ تمن لوکن یمو ایمان ان تمن سیت یمہ  
ساتہ میدان محشر پتہ پل صراط پیٹھ تم با ایمان ترن ہین نوزہم یسعی بین ایدیہم وایمانہم با  
ایمان آسہ نور ہین دوران تمن بروٹھ کن تہ بیہ تمن ڈچھن کن تہ یقولون دعاء آسن کران ربنا  
اتم لانا نورنا و اعفر لنا انک علی کل شیء قدیر ای سانہ پروردگارہ سانہ خیطرہ پوشہ نادن یہ نورسون  
یوتھہ یہ و تہ منزلی ژھتیہ گڑھ بیہ کر آسہ مغفرت پیشک ژہ چھٹھ پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول یا ایھا  
النبی جاہد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم و ما ولہم جہنم و بئس البصیر اے نبی کریم جہاد کریو  
کافرن سیت سلاح و سامانہ سیت بیہ کریو مناقش سیت جہاد زیوہ سیت دلیلو سیت بیہ کریو تمن پیٹھ سختی  
دنیاس اندر کیا زہ تم چھ تھہ مستحق تہ سزاوار آخرتس اندر چھ تہنز جای نار جنم سہ چھ سیٹھاہ سخت  
یچھ جای تہمہ روزنہ خیطرہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا و المرأتی نور و امرات لوط اللہ تعالیٰ ان  
فرما واکھ مثال کافرن ہندہ عبرتہ خیطرہ نوح علیہ السلام سزہ گھر واجنہ ہنز بیہ لوط علیہ السلام سزہ  
گرواجنہ ہنز۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین تمہ دوشوئے زنانہ آسہ سانیو بند و اندرہ  
خاص دون نیوکا ر بندن ہندس نکاحس تل فحانتہما تمودوشوی زنا نوکر تمن دوشوئس صاحبین ہیوند

فَخَانَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ  
 مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۵ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ  
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخْتِي مِنْ  
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۶ وَمَرْيَمَ  
 ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَخَنَّا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

حق ضایع کیا وہ تہیز کر کھنہ فرماں برداری سے تابعداری تمہ دو شوے زنانہ آسہ منافق بظاہر آسہ  
 تمن سیت لیکن دلہ سیت آسہ کافرن سیت فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس آئے نہ تم دو شوے  
 نیک بندہ کئے بکار اللہ تعالیٰ اس بروئہ کئے تمن دون زنانہ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ چنانچہ تمن  
 دو شوے زنانہ آو حکم کرنے کفرہ سببہ اڑیو تو ہیہہ دو شوے عام کافرن سیت نارہ تمنس اندردون بیخبرن  
 سیت رشتہ آسنن دو کھنہ کانہہ فایده وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ بیہ فرماو  
 اللہ تعالیٰ ان بیاکھ مثال با ایمان ہندہ تسلی خیطرہ فرعونہ سندن باژن ہنز حضرت آسیہ بنت مزاحم  
 سنز إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخْتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یلہ  
 تمود عاکر عام حال اتن اندر یایلہ تمواکس خاص حالس اندر عاکر بیمہ ساتہ فرعونس معلوم سپد تہندہ با  
 ایمان آسنگ تم دیوت حکم یہ کڈیون ننس تا پس تو پتہ ہما سیوس اتھن کھورن چہار میخ سنس پیٹھ  
 تاو یوس گرچ بو نیم کن نتھہ حالس اندر مونگ تمویہ دعاء پروردگار میانہ خیطرہ کر بنا جنس اندر پنہ  
 نس قربس اندر اکھ گراہ بیہ دہ مہ نجات فرعونہ سندہ شرہ نشہ بیہ تہنزہ و کفرہ چوکا میونشہ بیہ دہ مہ  
 نجات سارئی ظالمن یعنی کافرن ہندہ شرہ نشہ یلہ تمویہ دعامونگ تمنس آو جنس اندر سو پن گرہ ہاونہ  
 یہ سیت نہ تمنس سو تکلیف بوزنے آو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَخَنَّا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا



## وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۚ ﴿۱۴﴾

رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۚ بے چہہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان ہندہ تلی  
 خیطرہ حضرت مریم یوصہ صاحبزادہ چہہ حضرت عمرانہ سنز مثال بیان فرماو مشریمہ پن ناموس نہ  
 عصمت حلال و حرام دوشوئے چیز و نشیہ محفوظ تہو و پس واتہ نو آسہ تمن منز پن روح یعنی عیسیٰ علیہ  
 السلام بے کر تمو تصدیق پنہ نس پروردگارہ سنذین پیغامن یم تمن نشیہ ملائکن ہندہ ذریعہ واتہ ناوہ  
 آئے بے کر تمو تصدیق پروردگارہ سنزن کتابن یعنی تورات و انجیلس بے آسہ واقعی اطاعت و فرماں  
 برداری کرہ و نیواندرہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  
 عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  
 مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ سوپروردگار چھو سیٹھاہ عالی شان تہ برکتہ وول تسمندس قبضس منز چھہ  
 ساری پادشاہی تہ حکومت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوپر تھ چیزس پیٹھ قدرتہ وول  
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ایم پروردگارن مرن تہ زندہ روزن پیدہ کر  
 یو تھ سو توہ آزمائش کرہ کہ توہ اندرہ کوہ چھوڑت عمل کرنس اندر تہس چھو دخل رڑہ عملہ اندر تھ  
 پاٹھ کہ موتک خیال تہاو تھ چھو انسان دنیاں فانی زانان مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنہ کہ اعتقادہ سیت چھو  
 آخرتس باقی زانان بیہ چھو آخرتک ثواب حاصل کرنہ خیطرہ بیہ تہ کہ عذابہ نشہ پچہ خیطرہ مستعد  
 روزان اتھ پاٹھ چھو حیاتس تہ عمل کرنس اندر دخل یمہ اعتبارہ کہ حیات نئے آسہ عمل تھ اندر کرہ  
 شخص ہذا اچھو حیات عملہ ہندہ خیطرہ نمبر لہ طرف چونکہ موت پچھنہ عدم محض چیزاہ بلکہ چھو وجودی  
 لہذا آواتھ پیٹھ مخلوق آسنگ حکم کرنہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ بیہ چھو سوپروردگار زبردست تہ غالب  
 پچھ عملن پیٹھ سزاء دیوہ وون تہ سوی چھو گنہن مغفرت کرہ وون تہ درگذر کرہ وون تہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ایم پروردگارن تھ آسمان پیدہ کر اھ اکس پیٹھ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت ا کہ  
 اھ آسمان چھو بیس آسمانس پیٹھ گن تمہ پچھن گن چھو تریم آسمان اتھ پاٹھ چھہ ست ستوئے آسمان ا کہ  
 آسمانہ پیٹھ چھہ بیس آسمانس تان پانژن ہن ور ہنی ہنز مسافت مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ای

تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۳ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ  
 الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۴ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا  
 بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ  
 عَذَابَ السَّعِيرِ ۵ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۶ إِذَا أَلْقَاؤُهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ  
 تَفُورٌ ۷ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ

آسمانس کن وچھونہ ژہ لہکنہ حضرت رحمانہ سزہ اتھہ کارگیری تہ صنعتس اندرئہ قسمک خلل نقصان  
 تہ فرقاہ نس چیز یوتھ شوبہ ہاسو کرن تنھوی پیدہ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ بلا تامل آتھہ  
 ژہ واریمہ پھرہ اتھہ کن نظر دژ مشورتن دتہ ژہ تأملہ سان بیہ اکھ نظرہ اتھہ کن ژہ چھویہ بوزنہ یوان  
 اتھہ منز کا نہ خلاہ یا پھر اٹاہہ پھر اہ یار ماہہ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ توپتہ دتہ پھیر پھیر نظرہا کا نہ  
 رخنہ تہ عیبہا تلاش کرنہ خیطرہ مگر کنہ تہ اندنہ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ آخر کار آیہ  
 نظر ژہ کن پوت پھیرت وکہ زدگوہت تہ لوسیتھہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا  
 رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ بیہ چھہ سانہ قدر تج بد دلیل کہ آسہ دیوت زینت تہ لہلاو کھ تلہ کس آسمانس  
 ژانگیویجنی ستاروسیت بیہ کراسہ تم ستارہ کنہ شیطان یم ملائکن ہنزن کھن کن ونہ کھسان آس، دفع تہ  
 دُور کرنہ خیطرہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بیہ چھہ امہ علاوہ آخر تس اندر تھندہ کُفرہ سببہ تھندہ  
 خیطرہ تیار تھوت جھنمک عذاب، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بیہ یم  
 لوک پنہ نس پروردگارہ سندس کن آسئس انکار کران چھہ تھندہ خیطرہ تہ چھو دوزخک عذاب سہ چھہ  
 سیٹھاہ بیچہ جای إِذَا أَلْقَاؤُهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ یلہ تم لوک تھہ منز تراونہ ین تم بوزن  
 تج اکھ سخت خوفناک کریکھاہ درحالیتمہ سو آسہ گرزان تہ گرتہ گرتہ کران۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ سو  
 آسہ تھہ پاٹھہ جوش ماران کہ معلوم آسہ سپدان کہ ون تہ ون ما پھہہ ژکھ سیت یوسہ تس آسہ مضر کن تہ

خَزَنَتَهَا اَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌۙ فَكَلَّمْنَا  
 وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾  
 وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾  
 فَاَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ ۗ فَسُحِقًا لِاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾ وَاَسْرُوْا  
 قَوْلَكُمْ اَوٰجِهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا يَعْلَمُ

کافران ہنز کُلَّمَا اَلْقٰی فِيْهَا قَوْيٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيْرٌ بیلہ یلہ تہہ جہنم منترانہ آسہ  
 یوان کافران ہنز اکھ جماعتہا تمئن آسن پرژہان تمیک داروغہ کیا توه نس واژوناکانہہ بيم کرہون پیغمبرہ  
 بيم توه بيم آسہ ہیو کرمت یمہ نار جہنمک یہ سوال آسن تم تمئن کران بطور زجر و توبخ قَالُوْا بَلٰى  
 قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ تم کافر دیکھہ واقعی آيو واسہ نشہ پیغمبر قَلَّمْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ  
 اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ مگر شامتہ نہ کارہ زان آسہ تم اپزیر اسہ دپ تمئن پیغمبرن کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ  
 نازلی کرمت از قسم کتاب یا احکام کنہ توه چھوہ وجہ غلطی اندر ہمت وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا  
 فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ بیہ ون تم کافر جہنمہ کین داروغن ہر گاہ اسہ پیغمبرن ہیوندون یوزمت آسہا فکرہ  
 تورمت آسہا اس کنہ آسہ ہوتلہ شامل دوزخہ کین لوکن اندر فَاَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ فَسُحِقًا لِاَصْحٰبِ  
 السَّعِيْرِ پس کرن تم پندہ جرمک اقرار پس یوین لعنت جہنمکین لوکن اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ پڑاٹھ بيم لوک پندہ نس پروردگار س وچھنہ وراي کھوژت ایمان  
 واطاعت اختیار کرن ہندہہ خپرہ چھو بوڈ مغفرت تہہ بڈمزور مقرر کرنہ آمز وَاَسْرُوْا قَوْلَكُمْ اَوٰجِهَرُوْا  
 بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ای لوکو توه لو تہہ پاتھ تھہ کر تو یا بڈہ بڈ کر تو تس چھہ سارنئی چیزن ہنز خبر  
 کیاہہ سو چھوڈن ہنزہہ تھہ تان پور زانان اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْحَبِيْرُ کیا سو پروردگار بيم  
 یہ انسان پیدا کر گوز ہنا زانن تمسند سوروی حال سوئی چھو ساری پوشیدہ چیزانہ ون سوئی چھو پور بانجر

مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ  
 الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
 النُّشُورُ ﴿۱۴﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  
 الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۵﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ  
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ  
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۷﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سو چھو  
 تنھوی منعم یم توہندہ خیطرہ گریہ زمین رام تہ مسخر سو چھو توہند ساری تصرفات قبول کران پس پھیر  
 یو توہ مچن وتن اندر توپتہ کھیو خدایہ سند سوزق نئس تم اتھ ز مینس اندر پیدہ کزلتہ طریقہ حاصل کورت  
 مگر یمہ کتھ ہیوند تہا یو وارہ خیال کہ تس ن چھوہ پتولا کہ واتن دوبارہ زندہ سہدت لہذا کرویو تہزن نئس  
 ہنز شکر گذاری ایمان و اطاعتہ سیت۔ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا  
 هِيَ تَمُورُ اے لو کو کیا توہ چھوہ تس ذات پاکس نشہ صوکھس اندر بے خوف سہدت یسند حکم تہ  
 تصرف چھو آسمان اندر سو کیا والہ توہ قارونہ سند پاٹھ ز مینس تل پس آیہ تھہ ز مینس ی نیول بیہ  
 دو تھیس نٹھ توپتہ سہد لیس تلگ پیٹھ یعنی ای لو کو توہ پھیر یو تہ پچھو اتھ ز مینس پیٹھ کھیو خدایہ سند رزق  
 مگر مغرور گرتھ مہ سہد یو غافل تہندہ یادہ نشہ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا  
 کنہ توہ لوک چھوہ بے خوف تہ صوکھس اندر تس ذات پاکس نشہ یسند حکم تہ تصرف چھو آسمان اندر  
 یمہ کتھ نشہ کہ سو کیا سوزہ توہ ن سخت تیز وادیتھ منز کنہ پھل تہ آس قوم عادک پاٹھ یمہ سیت توہ تہ  
 ہلاک گرتھ ہیو۔ توہندہ کفرہ موجب گوٹھ توہ تی بن و سن ہر گاہ کنہ مصلحتہ سبہ تھہ منز تاخیر سہدان چھو  
 سردست توہ پیٹھ عذاب تھنہ نازل سہدان فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ مگر عنقریب تگہ توہہ زانن کہ  
 میون بیم کرن تہ کھوٹہ ناون عذابہ نشہ کیو تھ اوس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ

إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَّ مَا يَسْكُهِنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ  
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۱۹ ۱۹ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ  
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَانَ الْآفِي عُرُورٍ ۲۰  
 اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا  
 فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۲۱ اَمَّنْ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ  
 أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۲۲

نیکو بے شک یمولو کو یمن بروئھ دین حقس اپر گزرت انکار کرو چھو میوں عذاب تھہ پاٹھ سپد تمن پیٹھ واقع آسماج تہ زنج ذکر کر نہ پتہ چھ بیان کران زمین و آسمانس ورمیان ئیس فضا چھو تھہ منز تہ چھ میان گن آسجہ دلیلہ اولم یروا الی الطیر فو قہم صفت و یقبضن کیا تمولو کو دژنا نظر یانس پیٹھ گن وڈہ وین جانورن گن یم پنن پر مرثراو تھہ وڈان چھہ بیہ چھہ پروئھ تہ وڈان دوشونن حالتن اندر چھہ تم باوجود ثقل تہ گو بیر آسجہ پتھر بیوان ما یسکھنن الا الرحمن کانہ تہ چھہ تمن ہواءس اندر معلق تہاوان رحمتہ والس خدایس ورا ی إِنَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ بے شک پر تھہ چیزس کنن چھہ تس نظر ا تھہ پاٹھ خوش کر یس تھہ پاٹھ چھو تھہ منز تصرف کران وکن یلہ تہ بوزوہ کہ خدایہ سند تصرفات چھہ پر تھہ چیزس پیٹھ اَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَانَ الْآفِي عُرُورٍ وکن و نتو تہ کہ حضرت رحمانس ورا ی کوہ چھو تہ ئیس تہ لشکر بنت بلا یوتہ آفتو نشہ نجات دلن اندر مدد ہسہ کرت کافر یم پنہ نین معبودان باطن نسبت یہ خیال تہاوتھہ چھہ تم چھہ بالکل دھوکس منز اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ اِنہ و نتو تہ لوک کہ سو کوہ شخص چھو ئیس تہ رزق ہیسہ دت ہر گاہ اللہ تعالیٰ بند کرہ تہ نشہ پنون رزق مگر یمن لوکن چھہ یمو کتھوسیت تہ کانہ اثر سپدان بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بلکہ تم روڈاڈ کرت سرکش تہ ژلنس پیٹھ اَمَّنْ يَمْشِي مُكْبَأً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ تھہ بوزت سوچیوارہ کیا سو شخص لیس و تہ ہندہ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي  
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا  
 نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

نامہ تراں آسنہ موکھ کونت لگان آسن تہ سو آسہ بو تھکن پیوان پیوان پکان سو چھ منزل مقصودس  
 پیٹھ زیادہ واتون بہنہ سو شخص چھولیس سیزہ تہ ہمواروتہ پیٹھ پکان آسہ یسوی حال چھو بایمانس تہ کافرہ  
 سہد بایمان چھو پکان صراط مستقیمس پیٹھ افراط و تفریط و رای کافر چھو گمراہی ہند یو کھوژو پیٹھ پکان تھ  
 اندر جایہ جایہ خطرے تھس سو کیاہ ہیکہ واتھ منزل مقصودس اوتان آسہ توحیدہ چہ دلیلہ بیمہ نبر نبر  
 چھ امہ پتہ چھ تمہ دلیلہ بیان یوان کرنہ بیمہ انسانس پانس اندر چھ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ  
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ توه فرما یو کہ یار رسول اللہ سو پروردگار گو سوی  
 قدر تہ دول تہ نعمو عطا کرہ ون یم توه پیدہ کرہ بیمہ بوزنہ خطرہ کن و چھنہ خیطرہ اچھہ زاننہ خیطرہ دل  
 عطا کر توه یمن نعمن پیٹھ پزہ ہاتوہ سٹھاہ شکر دہن مگر توه چھوہ سٹھاہ کم شکر دین یمن نعمن ہیوند شکر گیو و  
 کہ یم طاقت تہ قوت گڑھہ استعمال کرنہ تعنی جاین اندر یمن منزل اللہ تعالیٰ سند رضا آسہ تہ کرہ نہ توه  
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ توه فرما یو کہ اتہ کہ سوی چھو سو پروردگار یم  
 توه پیدہ کرت روی زمینس اندر چھکر اوو تو پتہ آو توه بیمہ تس نشہ جمع کرنہ تہ سزا ونہ لیس نشہ آوہ تس  
 نشہ چھو توه بیمہ واتن توه اوس لازم تس نشہ گوژھنہ اکس دمس تہ غافل روزن پر تھہ وقتہ گڑھہ توه فکر  
 آسن کہ اس کیاہ گڑھو پنہ نس مالکس نشہ اس کمہ لا تھہ واتو تس نشہ اتھہ چھنہ کافر ن پڑھی و یَقُولُونَ  
 مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم چھہ دپان یہ قیامتک وعدہ کر ایہ لبنہ ہر گاہہ پزیر چھوہ توه قُلْ  
 إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ توه فرما یو کہ جواب کہ امہ قیامتہ تعینک علم چھو خدا ایسی


كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنْ أَهْلَكَنِى اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِينَ  
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اْمْتَابِهٖ وَعَلَيْهِ  
 تَوَكَّلْنَا ۗ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ

یو تھ ہو چھس محض نن پاٹھ تو ہندہ خطرناک مستقبلک نیم کرہ ون فَلَئِن آؤُكُ زُلْفَةً يَبِئْتُ وُجُوٰكُ  
 الْكٰفِرِيْنَ كَفَرًا وَاوَقِيْلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ پس یلہ سو ہولناک مستقبل یعنی سو عذاب  
 سمیوک تمن وعدہ تمانہ چھو یوان و چھن تم کھتل واتان تھ گن نظر پوہ ونوی بخرن تمن کافرن ہند  
 بو تھ شگلہ ذلکھ ونہ ایکہ یسوی کیا گو سو عذاب یس توه جلد زہانڈان آسیو قُلْ اَرٰیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِى اللّٰهُ  
 وَمَنْ مَعِىَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ توه فرما یو کہ یار رسول اللہ ای کافر و توه و نتویہ  
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ تو ہنزہ خواہشہ موجب مہ بیہ نیم با ایمان مہ سیت چھ تمن ہلاک کرہ یا ہر گاہ سو سانہ  
 و میز موجب تہ پنہ نہ وعدہ موجب اسہ پیٹھ رحم کرہ دو شوئن حالن ہونند کیاہ اثر چھو توه پیٹھ توه ہو خبر  
 پنہ نی حاجت توه کیاہ بنوہ یعنی کافرن چھو بہر حال عذابس گرفتار سپدن تمن کوہ ہیچہ موکلات دودتہ دگ  
 تلہ ونہ عذابہ نشہ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اْمْتَابِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا توه فرما یو کہ یار رسول اللہ ای کہ سو معبود  
 برحق چھو سیٹھاہ رحمتہ وول اسہ چھہ پڑھہ کر مرثتہ ایمان اتس ایمانہ کہ برکتہ دیہ سو اسہ نجات بیہ  
 چھہ اس تس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران تمہ کہ برکتہ سپد وامن مقصدن اندر کامیاب اسہ رچھہ سو  
 آخر تک عذابہ نشہ تہ دنیا کیو حادثا تو نشہ تہ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِينٍ یلہ توه عذابس گرفتار  
 گوہیو تہ اس روز تمہ عذابہ نشہ محفوظ تہی ساتہ سپدہ توه معلوم کوہ چھونہ گراہی اندر اس آسوہ نیس توه  
 خیال چھو کہ توه آسیو بیہ سون عقیدہ چھو قُلْ اَرٰیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مُّعِينٍ  
 توه فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ کہ ای لو کو ہر گاہ تو ہند آب نیس چشمو تہ کیر یو منزہ  
 نیران چھو ہر گاہ بیہ شریعت گوہہ ز مینس منکر بیہ تہ ناگ تو ہند گوہن خشک ادہ کوہ ہیچہ اتی توه آب جاری



# أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَبَكُمْ مَا وَكُمُ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۰﴾

حدیث شریف من چھو آمت کہ نِسْ شَخْصِ سوره ملک پرہ تہ پتہ پرہ یہ آیہ کریمہ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) الخ سوہر ان اللہ یاتیناہ و ہورب الغلین مگر یہ چھوہرہ ونسی پر ان بوزہ ونین نہ کنہ کیازہ لفظ حدیث و چھو من قرأ یہ لفظ چھنہ من سمع اتھن نظر کرت چھو اما سی پر ان مقتدین نہ کنہ۔



## سُورَةُ الْقَلَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
 بِمَجْنُونٍ ② وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ  
 لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ④ فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ وَيُبْصِرُونَ ⑤ بِأَيْتِكُمُ الْكُفْرَونَ ⑥  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

ن پروردگاری چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ چھو مراد وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ قسم چھو تلمک یہ سیت مخلوقا تن ہند تقدیر لوح محفوظس پیٹھ لکھنہ آمت چھہ بیہ چھو قسم تمن ملائکن ہند لکھنک یم لوکن ہنزہ عملہ لکھان چھہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ توه نہز چھوہ نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ فضلہ سیت مت تہ دیوانہ پٹھہ پاٹھہ تہودہ ہنو تک منکر و نان چھہ غرض چھو کہ تہوہ چھوہ نبی برحق شک و شبہ و رای وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بے شک تہو نہ خیطرہ چھو لوکن تبلیغ احکام کرنہ خیطرہ لوکن ہنزہن پچھہ کتھن پٹھہ صبر کرنہ خیطرہ سو بوڈ ثواب لسنہ زاہ و برہون چھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ بیہ چھوہ تہوہ بے شک رتین خلقن ہندس العلی پیمانس پٹھہ پیدہ کرنہ آمت تہو ہنز پرت کامہ چھہ اعتدالس پٹھہ مجنونس کتھہ چھو آسان کاین اندر توازن تہ اعتدال دشمن تہو نہ یم امہ قسم کچھ کتھہ و نان چھہ تمبوک مہ برویو تہوہ کانہ غم فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ وَيُبْصِرُونَ \* بِأَيْتِكُمُ الْكُفْرَونَ عنقریب و چھو تہوہ یارسل اللہ بیہ و چھن تم تہ کہ تہوہ اندر گس چھو مجنون تہ دیوانہ جنونچ حقیقت چھہ عقل زائل گوٹھن عقلہ ہونہ غایت چھو نفع و نقصان فکرہ ترن نقصان گو سوی لیس ابدی آسہ لیس پنہ قیامتک دہہ تمن تہو نہن دشمن کہ عاقل تہ گائل آس با ایمان یو یہ نفع ابدی حاصل کر مجنون تہ دیوانہ آس کافر یعنی بیہ دشمن یم امہ نفع ابدی نشہ محروم سہدت ضرر و نقصان ابدیس بتلا سپد۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۴ فَلَا تَطْعُ الْمُكْدِبِينَ ۸ وَذُو الْوَتْدِ هُنَّ  
 فَيُدْهِنُونَ ۹ وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاكِ مَهِينٍ ۱۱ هَمَّا زَمْشَاءُ ۱  
 بِنَمِيمٍ ۱۱ مَنَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْشِيمٍ ۱۲ عَتَلٌ أَعْدَا ذَلِكَ زَنْبِيمٍ ۱۳  
 أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَيْنَ ۱۴ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ الْيَتْنَا قَالَ  
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تموند پروردگار چھوٹے شخصوں کو اور ہزاروں نہیں ہنزدہ و تہ نشہ ڈول سوی چھوہ وارہ  
 زانان سیزہ و تہ پٹھ یکہ و کن لہذا دیہ سوی پرت کانہ جزائے سزاوین یلہ توہ سپد معلوم کہ توہ چھو پزس  
 پٹھ تموند دشمن چھہ اپزس پٹھ۔ فَلَا تَطْعُ الْمُكْدِبِينَ پس مزمانیو توہ یمن مُکْرَن ہنزہ کتھ پتھہ پٹھہ نہ  
 از تان مونو کھ وَذُو الْوَتْدِ هُنَّ فَيُدْهِنُونَ تم چھہ یڑھان توہ گزہ ہیو نعوذ باللہ پنے بس فرض مٹھیس  
 یعنی تبلیغس بت پرستی ہندس تردیدس منز ہندہ رعایۃ خیطرہ ہناہ نرمی کرن تلہ کر ہن تم تہ تو ہندس  
 مخالفس اندر نرمی وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاكِ مَهِينٍ توہ مزمانیو ہنزہ کتھ خصوصاً متھس شخصہ سزہ کتھ بس  
 زیادہ قسم ہاوان آسہ بس پنے نیو پچھہ حرکتو موکھ خدا بس تہ لوکن نشہ بے وقعت تہ ذلیل آسہ۔  
 هَمَّا زَمْشَاءُ بِنَمِيمٍ بس زر کہ تہ طعنہ دیوان آسہ بس وناون کران پھیران آسہ مَنَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ  
 ایشیم بس رڑو کامیونشہ لوکن پتھہ رنہ ون آسہ بس حدہ نشہ ڈلہ ون آسہ بس بدکار تہ گناہ گار آسہ  
 عَتَلٌ أَعْدَا ذَلِكَ زَنْبِيمٍ بس بد مزاج تہ ڈکھویل آسہ بس امہ ساری علاوہ ولد الزنا تہ حرامزادہ تہ آسہ  
 غرض کہ توہ مزمانیو ہنزہ کتھ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَيْنَيْنَ یہہ موکھ کہ سو کیا آسہ مالہ دول تہ شر  
 گھبر دول یعنی دنیاں اندر آسہ صاحب و جاہت ایتھس شخصہ سزہ کتھ مانہ نہ نشہ چھہ اس توہ ممانعت  
 کران یہہ موکھ کہ ایتھس شخصہ سند عادت چھو کہ۔ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ الْيَتْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ  
 یلہ تمس بروٹھ کنہ سین آیات پرنہ یوان چھہ سو چھو وناں یہہ چھہ بے سند کتھ یہہ نقل چھہ آثرہ کرنہ  
 بروٹھن نشہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ اس کردواغ عنقریب ہنزہ نشتہ پتھہ یعنی قیامتک دوہ کرو اس

بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۶﴾ وَلَا  
يَسْتَنْوُونَ ﴿۱۸﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿۱۹﴾  
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنْ ائْتُوا عَلَيَّ  
حَرِّكُمْ إِنَّكُمْ صَرِمِينَ ﴿۲۲﴾ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾

تہمدہ کفرہ سببہ تہمدس بو تھس تہ نستہ پٹھ سو علامت یمہ سیت تمّن ساری لوک پرزہ ناوان آسن تمہ  
سیت سپن تم وارہ ذلیل تہ رسوا اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ كَمَا يَكُوْنُوْنَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ بے شک اسہ چھہ یمن مکہ کین  
لوکن آزمائش کر مشاسمان عیش دنہ سیت یتھہ پٹھہ تم مغرور چھہ اس وچھو یم انہ نہ ایمان خدا یہ سندس کن  
آسس کنہ یم کرن ناشکری کفر و شر کہ سیت یتھہ پاٹھہ اسہ آزمائش کر تمّن بروٹھہ باغہ والین (یہ اوس  
اکھ باغہ حبش منزیاتہن منزامہ باغج آس خبری مکہ کین لوکن تمّن باغہ والین ہوند قصہ چھو یتھہ پاٹھہ  
کرہ تمّن باغہ والین ہوند مول اوس پینہ نہ وقت امہ باغہ کہ میوک اکھ بوڈ حصہ غریبن تہ مسکین اندر  
تقسیم کران یلہ سو یمہ عالمہ گوامند یونچو یو دوپ یہ سون مول اوس احمق تہ بے عقل کہ یوٹ حصہ  
امہ باغہ کہ آمدنی ہوند اوس مسکین دووان۔ ہر گاہ یہ سوری میوہ اس گرے انوشٹاہ فاندہ وانہ اسہ چنانچہ  
اتھہ پٹھہ سپد یم متفق۔ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَنْوُونَ یلہ تموپانہ وان قسم ہوو کہ صبح  
سلہ گوہو اس ضرور امہ باغک میوہ ژمنہ خیلہ یہی تہ اعتماد و وثوقہ سان ویچھہ یہ تھہ کہ انشاء اللہ پر ن تہ  
گوکہ مشت یلہ امہ سچ بجدیتی سہز بہمدین دن اندر قَطَافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ پس  
پھویر راتہ منزی اتھہ باغس تہوندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ کنوی واوہ پھشاہ یتھہ نار اوس یمہ  
سیت یہ سوری باغ دزت گوونہ آس تم شو نگھتی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس سپد سوباغ زن تھہ  
ساری دروت اوس واینہ اُمت فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ پس ہیوت تموصبحس نندرہ تھتھہ اکھ اکس آلودیون  
اِنَّ اَعْدُوْا عَلَيَّ حَرِّكُمْ اِنَّ كُنْتُمْ صَرِمِينَ و تھبو با یو و اتیو سلہ گرہ زمینس پٹھہ تھوے غرض میوہ  
ژنیک فَاَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ پس درائے تمپانہ وان آس لو تہ لو تہ تھہ کران یوتھنہ کانہ بوزہ اَنَّ

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۲۳﴾ وَعَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ  
 قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّارَ أَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ نَحْنُ  
 مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾  
 قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿۳۰﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ ﴿۳۱﴾

لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ یو تھ نہ توہ نشہ ازاتھ باغس اندر کانہ مسکین تہ محتاج اثر تھ بہہ  
 وَعَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ پس درای تم پینہ نہ خیال کانہ نہ دنس پٹھ قدر تہ وال زانت خیال اوسکھ  
 ازد موندہ اس کانہ سوروی انواس پینہ نوی گرہ فلَمَّارَ اَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ پس یلہ توت واتھ تھ  
 پٹھ نظر پچھ باغہ کس اتھ حالس پٹھ دینہ لگ اس چھ لگمت خبر کوت اسہ چھہ و تھ راو مژکیا زیہ پچھ نہ  
 باغ واغ اسہ نظری یوان تو پتہ یلہ اورہ یور نظر اہ وژکھ معلوم سپدک یقیناً چھہ یہ سوی جای۔ تمہ ساتہ  
 لگ ونہ نہ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ چھو اس تمہ نعمتہ نشہ محروم سپد مت قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ  
 لَكُمْ تمواندرہ ہس ہناہ جان پچن انسان اوس سولگوکھ دینہ مہ ونبوہ ناتوہ کہ ایشہ نیت مہ کریو۔  
 مسکین فقیرن دنہ سیت چھہ برکت بنان امی موکھ فر مو اللہ تعالیٰ ان تس جان انسان لَوْلَا تُسَبِّحُونَ تو  
 پتہ دوپ نکھ وکن یہ اتھ سانہ بدیتی ہندہ شامتہ بنون اوس تہ بنیوس مگروین کونہ چھوہ کران توتہ  
 خدایس کن توبہ تسد یاد کرنہ سیت تسبیح پرنہ سیت دیوہ اتھ گناہس اسہ معاف کرہ امہ خوتہ زیادہ کانہ  
 تکیفہ اسہ وابتنہ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ چنانچہ ساروی ہیوت پرن توبہ کران کران سون  
 پروردگار چھو منزہ تہ پاک اس چھہ بے شک پان پانس ظلم کرہ ون اسہ کرہ قصور فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ پس پھیرا ڈاؤین کن اکھ اکھ سبتو کھ الزام دیون (بہتھ پاٹھ عادت چھو لوکن  
 ہوند کہ کوم خراب گزہت چھہ اکھ اکھ ٹھولہ دووان پانس پٹھ چھو نہ کانہ بور ہوان قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا  
 كُنَّا طُغْيَانٌ تو پتہ لگ ساری متفق سپد ونہ نہ کہ افسوس واقعی آس اس ساری حدہ ڈلہ وین یہ چھو

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۳۲﴾  
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۴﴾  
 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾  
 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۳۸﴾

نہ اسے اندرہ آسمندوی یوت خطا بلکہ چھ اس ساری اتھ اندر خطا کار چھا و اسی سیت نیرہ نہ کنہ نہ اس  
 ساری کروا کہ وہ توبہ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شاید توبہ کہ برکتہ ما کرہ  
 سون پروردگار اسہ امہ باغ بدل امہ خوتہ زت باغہ عطا دنیاءس اندر یا اس آخرتس اندر امہ اندر چھو سپدان  
 معلوم کہ یم لوک آس با ایمان بخلہ سببہ سپدک بدنیتی یموک سزایہ نقصان تلک مگر توبہ کہ برکتہ  
 کر کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا عی اندر امیوک عوض عطا چنانچہ تفسیر روح المعانی اندر چھو عبد اللہ ابن مسعود روایت  
 سند قول نقل آمت کرنہ کہ تمن آوامہ و تہ روت باغ عطا کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان كَذَلِكَ  
 الْعَذَابُ یتھ پاتھ چھ آسان سون عذاب امی مکہ کیو کافر توہ نہ کیا چھو اتھس عذابک مستحق نہ سزوار  
 بلکہ امہ خوتہ سخت عذابک سزوار کیا زہ یہ عذاب سمیوک ذکر کرنہ آویہ او تمن کرنہ محض اکس  
 مھمتیس پٹھ توہ چھوہ کفر نہ شرک کران توہ شوبہ امہ خوتہ زیادے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ آخر تک عذاب چھو یمہ دنیاء کہ عذابہ خوتہ سٹھاہ بوڈ کیاہ روت اوس ہر گاہ یم کافر  
 اتھ تھ وارہ زانن۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ بے شک پرہیز گارن ہندہ خیلرہ چھ  
 تھندس پروردگار س نشہ آسانس ہند جنت یعنی جننس واتک سبب تہ ذریعہ چھو تقویٰ تہ پرہیز گاری  
 کافر تہ مشرک چھ امہ نشہ عاری تہ خالی لہذا تھ پاتھ ہک تم جننس واتھ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ  
 كَالْمُجْرِمِينَ کیا اس کرو کہ فرماں بردار تہ تا فرمان برابر مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ای کافر توہ کیا گوہ توہ  
 کہہ بوتھ چھوہ یہ فیصلہ پانس پٹھ دو ان۔ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا توہ نشہ چھا کانہ آسانی کتابہ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ ﴿۱۹﴾ سَأَلَهُمْ آيَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيكُمُ ﴿۲۰﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا تَدْعُونَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۲۲﴾

تھے منز توہ پران چھوہ اِن لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخْفَرُونَ بے شک تھے کتابہ منز چھ لکھت تھوندہ خپترہ سو چیزئس توہ پسند چھو یعنی تھے کتابہ منز کیا چھو لکھت کہ آخر تس اندر کیا آہ توہ عطا کرنہ رث مزور اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِاللَّغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کنہ اسہ پٹھ چھ ذمہ کھمت کنہ قسم یم اسہ تھوندہ خپترہ ہاومت چھ یم قسم قیاس تان برابر باقی روزہ دن چھ سمنہ پھوئی زانہ یم قسم تھے پٹھ ہاونہ آمت چھ کہ اِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ بے شک تھوندہ خپترہ چھ تم چیز یم چیز توہ ہ حقہ فیصلہ کری یعنی ثواب تہ جنت سَأَلَهُمْ آيَهُمْ بِذَلِكَ زَعِيكُمُ توہ پر تھتو یارسول اللہ تمن کہ توہ اندرہ کوہ چھو امیوک ذمہ دار اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ کیا تھند ٹہراومت خدایہ سند شریک چھا تمن امہ تھ ہند ذمہ دار کہ تمن کیا بنہ آخر تس اندر ثواب تہ جنت فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ پس کرن تم پیش تمن شریک ہر گہ تم پوزونان چھ غرض یلہ نہ یہ کونہ آسانی کتابہ اندر تہ چھونہ چھو سانہ طریقہ یمن اتھ پٹھ کانہ وعدہ یس سمنز لہ قسم آسہا نہ چھو امہ تھ ہونہ ذمہ دار یو اندرہ کانہ بنان نہ تھند یو شریک یو اندرہ پس امہ بے بنیاد تھ ہونہ دعوی کرن یہ دنون کہ وَ لَئِنْ رُجِعْتُمْ اِلَى رَبِّيْ اِنَّ لِيْ عِنْدَهُ الْخُسْفٰى یعنی ہر گہ بو خدایس نشہ و اتاونہ یمہ تس نشہ بنہ مہ رث مزور کثیرہ اشرف مناک تھ چھ امہ پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ تمن کافرن کثیرہ رسوائی آسہ قیامت دوہ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سوودہ تہ چھو تئس پائس قابل یمہ دوہ گریزہ ہیوندہ تجلی منزاونہ ایہ توپتہ آہ سارئی لوکن سجدس گن ناودنہ یم کافر دنیا س اندر خدایس گن نماں آس نہ یعنی نماز پران آس نہ تم ہکن نہ تمہ وقتہ سجدے دت حدیث شریفس اندر چھو کہ اللہ تعالیٰ نراوہ قیامت دوہ بنین گرز۔ گرز نراونہ اندر چھو مراد کانہ خاص صفتا تھے کونہ مناسبہ لوکھ گرز آوونہ نہ تھے حدیث شریفس منز چھو کہ یہ تجلی و چھت

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ  
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿۳۲﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا  
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَأُمْلِي  
لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۴﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ  
مُثْقَلُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۶﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

دن ساری مسلمان مردی مسلمان زنانہ سجدہ ہم شخص دنیا س اندر بین ہاوند خطرہ سجدہ دوان اس تم ہکن نہ سجدے دتھ تمن گڑھ کمر شتر چ پٹ ہو تم ہیکن نہ بون کن نمٹہ یہ آسہ امہ تجلیک اثر کہ مخلص با ایمان سپدن مضطر سجدہ دنس پٹھ ریاکارہ منافق کرہ ہن سجدہ دنک ارادہ مگر قدرت لبن نہ تم سجدہ کرنس پٹھ کافرن ہنز چھنہ کتھی خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تہنزہ اچھہ پین شرمندگی سبہ بہ بون کن تمن پٹھ آسہ ذلت نہ رسوائی ولہ آمز امیوک وجہ آسہ ای کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ یمن اوس دنیا س اندر سجدس کن ناد یوان دنہ یعنی ونہ نہ اوسکھ یوان کہ ایمان انتو معبود برحقہ سنز عبادت کر تو تم آر نہ ور آسٹھ آسہ خدا بسز عبادت نہ بندگی کر ان یمن آسن قیامتک دودہ مختلف حالات کونہ وقتہ آسکھ غیرت غالب سپدت اچھہ ہیور کن درہ لگان، نہ کونہ وقتہ آسکھ غلبہ ندامت ونجالنہ وزہ بون کن پوان فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تودہ تراو پومہ یار رسول اللہ سبہ تمن لوکن یم ہتھہ کلامس یعنی قرآن مجیدس اپر گزیر ان چھہ موجودہ حاسی پٹھ تودہ ماہ بانبر یو یمن کونہ چھو جلد عذاب کرنہ یوان اس چھک تم واتانوان پاوہ پاوہ بتدریج جہنم کن تمہ طریقہ کہ ثینہ نے نہ تم کہ تھہ بلا یہ کن چھہ واتان وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سردست چھوس بو تمن مہلت دوان بے شک میون تدبیر چھو سیٹھا مضبوط نہ محکم أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کوتاہہ تعجب چھو یمن ہندس انکار نبوتس پٹھ کیا تودہ چھوہ تمن نشہ تبلیغ ذ دعوت کرنس پٹھ کنہ مزدور نہ عوض منگان پس کیا چھہ تم تمکسی بارس تل لگمت تہود چھنہ ہکان وتھت




رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۷﴾  
 لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۸﴾  
 فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

أَمْعِنَدًا هُوَ الْغَيْبُ فَهَمْ يَكْتَبُونَ كنه تمن نشہ چھو غیب علم سو محفوظ تھا ونہ خیرہ چھہ تم سو لکھان یعنی  
 یمن چھا خدایہ سند احکام بیہ کونہ ذریعہ واتان تا بیجہ یمن کیا چھنہ ضرورت تو ہندہ متابعت و پیروی  
 ہنزیہ کتھہ چھہ ظاہر کہ یودوو یو کتھو اندرہ چھنہ تمن نشہ کا نہ کتھہ ونے یم تھوندس نبوتس انکار کران  
 چھہ کتھہ بناءس پٹھہ یلہ تو بہ معلوم سپدیارسول اللہ کہ یم چھنہ کفرہ سبہ بہ مستحق عذاب وین یسہ تمن  
 مہلتھہ یوان چھہ دنہ سہ چھہ امی موکھ یو تھہ ناوتھنز برنہ آیہ مقرر و قس سپدن تم ضرور گر فقا عذاب قاصیڈ  
 لِحُكُورَبِّكَ پس کریو توہ پنہ نس پروردگارس سندس اتھہ تجویزس پٹھہ صبر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ  
 الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ دل تنگ سپدنس اندر مہ سپدیو توہ گاڑہ ہنزیہ ہنڈ اندر اثرہ ونس پیغمبرس  
 یونس علیہ السلامس ہی تم سپد دشمن پٹھہ عذاب نازل نہ سپدنہ موکھ دل تنگ سو وقت تہ پاپو اثرس یلہ  
 یونس علیہ السلامن پنہ نس پروردگارس مونگ دعائتھہ حالس منز کہ تم آس وار یمن غمن اندر بو مذمت  
 سو گولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ  
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ہر گہ نے احسان خداوندی تمن دسٹگیری کرہ ہانتہ یمن تراونہ تھتھہ حالس اندر تھتھہ  
 حالس اندر گاڑہ ہندہ شحمہ اندرہ کڈت میدانس اندر تراونہ آئیے بیچھہ طریقس اندر مگر اللہ تعالیٰ ان  
 کرکھہ توبہ قبول سوی گیہ دسٹگیری کرن توبہ قبول کرت ان لکھ نہ رو بہ اجتہادی غلطی ہیوندہ آس  
 نہایت بد حالی فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بلکہ کرتھہ یمن پروردگاران برگزیدہ تمن سُرَن  
 زیادہ مرتبہ عطا تم کرن صالحو اندرہ۔ امہ اندر چھہ غرض پنہ نہ اجتہادہ موجب عمل کرن کوتاہ مضر  
 سپد ثابت تھندہ حقہ اتھہ پٹھہ مہز کریو توہ جلدی کافرن عذاب نازل سپدنس اندر بلکہ کریو توہ صبر تہ  
 توکل تمیوک پھل تہ نتیجہ نیرہ سٹھاہ روت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَإِنَّ لِقَوْلِكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَنَنَاسِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یم کافر یلہ یہ قرآن مجید تھوندہ زبان مبارکہ بوزان چھہ سخت عداوتہ کہ سبہ

كَفَرُوا لِيَرْثُكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ  
لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

بہ چھ توہ کن تہہ پانھ وچھان زن اچھوسیت کھیت ژھمن تہنزہ اچھ لکنہ سیت ماڈلن تہ نیرت گڑھن  
تسوند پائے مبارک توہ ایو پتھر لاینہ چھ شدت عداوتہ موکھے تم توہ ونان نعوذ باللہ موت تہ دیوانہ  
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن مجید ایس توہ تمن پران چھوہ یہ چھوساری جمانہ خیطرہ ہنڈ  
نصیحت تہ وعظ



## سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأهْلِكُوا  
 بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۶  
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ لِحُسُومًا  
 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۷ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ۸

الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ سو قیامتک وقت کیاہ چھو قیامتک وقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ توہ کیاہ چھہ  
 خبر سو قیامتک وقت کوتاہ مشکل تہ ہولناک چھہ کَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ قوم ثمودن تہ قوم  
 عادن زون اپز سوژ ٹیون دوہ ٹیس دوہ آسمانس تہ زمینس زونہ تہ آقبالس کھن تہ بالن ٹھیٹھ تراوہ بیہ کمن  
 کمن سخت چیزن ریزہ ریزہ تہ سور کرہ تھہ دوہس انکار کرنہ موکھ چھہ خبر کیاہ گذر یوہ یمن دو شوئن  
 قومن فَأَمَّا ثَمُودُ فَأهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ پس او قوم ثمود گالند جبریل آینہ سزہ کونی کریکھ سیت  
 تہزہ !ہ جایہ الراونہ آییہ دت دیس پیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ قوم عادیس اوس سو  
 او گالند سخت تہ تیز واوہ سیت یس بے قابو سپد مت اوس سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ  
 حُسُومًا ٹیس واو مسلط کرنہ او تمن پیٹھ برابر ستن راتن تہ آٹھن دوہن پے در پے فَتَرَى الْقَوْمَ  
 فِيهَا صَرْعَى کَانَهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ خَاوِيَةٍ ای مخاطب ہر گہ ژہ تمہ وقتہ تھہ جایہ موجود آسکھ ژہ وہ چھہن  
 سو قوم زمینس پیٹھ ویس پو مت زن تم کھو کھرن خضر کولین ہند بو نیم حصہ آس قد بلند موکھ آکھ خضر

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۸ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ  
 وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۹ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ  
 فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۱۰ إِنَّا لَنَاطِقُ الْمَاءِ حَمَلُنكُمْ  
 فِي الْجَارِيَةِ ۱۱ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَةٌ ۱۲  
 فَإِذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً ۱۳ وَحِصَلَتِ الْأَرْضُ

کولین سیت تشبیہ دہنہ **فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ** پس چھو یہ ذہ اے مخاطب تمو اندرہ کانہ درینٹھ یوان۔ یعنی تمو اندرہ رودنہ اکھ تہ باقی تم ای مولہ مونجہ صفحہ ہستی نشہ نیست و نابود کرنہ تموند بیول تان آوگانہ **وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ** اتھے پٹھ آو فرعون بیہ یم لوک تس بروٹھ آس قوم نوح بیہ قوم لوط یمن ہزنن جاین تہ بستین تلوک پٹھ آو کرنہ بدبڈ قصور تہ مجرم ہست یعنی کفر تہ شرک تمہ خیطرہ سوز آسہ تمئن گن ہینن پیغمبر۔ **فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً** مگر تموکرتس ہنس خدایہ سدس پیغمبرہ سزنا فرمائی کھر و شرک نشہ روزنہ پتھ بیہ کرکھ قیامت تہ انکار جس رٹ تم اللہ تعالی ان سٹھاہ سختی سان۔ تمو اندرہ قوم عاد و ثمود تہوند قصہ آو بیان کرنہ وین چھو یوان بیان کرنہ قوم نوح متعلق **إِنَّا لَنَاطِقُ الْمَاءِ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ** یلہ نوح علیہ السلامہ سندہ وقتہ آس یوپ کھوت عالم سہت غرق تہند یو کو ہو پٹھ کن گو آب تہ تجربہ گز تہ ساتھ کھاروہ اسہ توہ ناوہ اندر یعنی تمہ و تک تہوند آباء و اجداد یم با ایمان آس کیا زہ تمئن نجات ہون سپد باعث توہندہ وجودک تمئن نے نجات بنہ ہاتھوند وجودی آسسانہ کونہ باقی نافرمان تہ کافر پھاوا سہ ساری **لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَةٌ** تاکہ اس بٹھ کرون یہ معاملہ توہندہ خیطرہ اکھ یادگار راہ تہ عبرتک سبہ بہ بیہ یو تھ ژتس تہاوہ و سن یہ واقعہ پور ژتس تہاون یعنی یو تھ لوک یہ کتھ ژتس تہاو تھ تمونا فرمایو نشہ پتھ روزن یمو سیت یڑھنن بلاین گرفتار چھ سپدان یہ گواواتان قیامت کین منکرن ہونہ حال امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ قیامتک ہولناک حالات **فَإِذَا نَفَخْنَا فِي السُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً** تمہ پتہ یلہ پو غس منزایہ

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ اَدَاكَةً ۙ وَاحِدَةً ۙ ﴿۱۳﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ ﴿۱۴﴾  
 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۙ ﴿۱۵﴾ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِينَةً ۙ ﴿۱۶﴾ يَوْمَئِذٍ  
 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۙ ﴿۱۷﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ  
 كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُوْتِرْتُ اَقْرَبًا وَاَكْثَبًا ۙ ﴿۱۸﴾ اِنِّي  
 ظَنَنْتُ اَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ ۙ ﴿۱۹﴾ فَهَوِّنِي عَيْشَةً رَّاٰيَةً ۙ ﴿۲۰﴾

کئی بھوک دنہ (یعنی گوڈنیوک بھوک) وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ اَدَاكَةً ۙ وَاحِدَةً ۙ بیہین  
 زمین تہ کوہ تمہ وقتہ تھوڈنملنہ پنہ نہ جای نشہ ڈال نہ پس آہہ دو شون ریزہ ریزہ کرنہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  
 تمی دودھ کیا سپدہ واقع سو چیز نلس سپدہ ون آسہ یعنی قیامت وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۙ بیہ  
 پھٹہ تمہ دودھ آسمان سو آسہ تمہ دودھ ہومنت لیوز تہ کمزور سپدنت تمی سپد نلس کھجہ تہ پھرانہ وَالْمَلِكُ  
 عَلَىٰ اَرْجَائِهَا تمہ وقتہ روزن ملائک آسمانہ کین کناران پھہ آسمان پھہ منز باگ کنارہ روزنلس موجودیم  
 واقعات سپدن گوڈنک بھوکہ سیت امہ پتہ یمن واقعات ہنز ذکر چھہ تم سپدن دویمہ بھوکہ سیت  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِينَةً ۙ بیہ نلن تو ہندس پروردگارہ سُد عرش پانس پھہ تمہ دودھ  
 آٹھ ملک قیامتک دودھ نلن تھہ عرش آٹھ ملک تئہ واتانوں عرش مجیدس محشر کس میدانس اندر۔ تو  
 پتہ سپدہ حساب شروع۔ تمیوک بیان چھوامہ پتہ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  
 تمہ دودھ ایو تو ہہ ساری پیش کرنہ خدایس بروئھ کن تو ہنز کا نہ تھارہ روزنہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کھٹت تو پتہ  
 ین نامہ اعمال وژان وژان دنہ لوکن ہندن اتھن اندر فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ اِنِّي  
 سمس نامہ اعمال پنون دنہ ایہ دچھنس اتھس کیتھ سُد پہ خوش گدھت پانس اندہ پک لوکن۔ هَا اُوْتِرْتُ  
 اَقْرَبًا وَاَكْثَبًا ہالو کو ویو پر یومیون نامہ اعمال اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ ۙ مہ اوس گوڈہ پٹھے  
 اعتقاد تہ پڑھہ کہ مہ چھو ضرور پیش آنہ دول پنون حساب۔ یعنی بو اوس اعتقاد تہ پڑھہ تھوان قیامتک تہ

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۲۲ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۲۳ كُلُوا وَاشْرَبُوا  
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۲۴ وَأَمَّا مَنْ  
 أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۲۵ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ كِتَابِيهِ ۲۶  
 وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ۲۷ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۲۸ مَا  
 أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۲۹ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۳۰ خُدُوهُ  
 فَعَلُوهُ ۳۱ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ۳۲ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

حسابگ تمہ کی برکتہ کرمہ اللہ تعالیٰ ان بڑھربانی فہو فی عیشۃ قاضیۃ پس واہ سور تس عیش  
 اندر فی جنتہ عالیۃ یعنی تہدس جنتس اندر قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ہمیک میوہ تیت نکھ آسن کہ پرت  
 حاس اندرین تم استعمال کرنہ۔ تہہ پانٹھ تمن خوش کرہ تہہ پانٹھ دنہ نہ آیتکھ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا  
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھیو تہہ چومزہ کرت یہ چھوہ تمن عملن ہوند بدلہ بیمہ توہ بڈہ ثوابہ چہ  
 امیدسیت کران آسیو بروٹھین دوہن اندر یعنی یم دودہ توہ دنیاس اندر گذاروہ وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ  
 بِشِمَالِهِ وین نِس نامہ اعمال پنون کھو ہرس اتھس منز دنہ آیہ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ كِتَابِيهِ سو دنہ  
 نہایت حسرت و افسوسہ کن کہ کیاہ رت گڑھہ ہا میانہ حقہ کہ ہر گاہہ نامہ اعمالی دنہ آیمانہ و کلمہ  
 آدْرِمَا حِسَابِيهِ مہ سپدانہ معلومے میون حساب کیاہ آسہ یَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کیا روت گڑھہ  
 ہا اگر گوڈ نکوی مران ختم کرہ ہا معاملس تمہ مر نہ پتہ آسانہ بیہ پیدہ سپدن نہ یہن نامہ اعمالے تقسیم کرنہ  
 نہ آیہ ہا حسابہ ہنہ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ افسوس کانہ نفع دیوت نہ مہ مان پننن هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ  
 میون حشمت تہہ عزت تہہ گوہر ہا ذاتھس شخصہ سندہ خیطرہ سپدہ حکم ملایکن خُدُوهُ فَعَلُوهُ \* ثُمَّ  
 الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ریٹون یہ شخص توپتہ تراویوس نال نعل توپتہ و اتاویون نار جہنمس اندر ثُمَّ فِي  
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ توپتہ و ریون تہہ ہانکھہ تہہ بیالیس چھ سنت گز۔ امہ

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ  
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞  
 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ  
 غَسِيلِينَ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا  
 تَبْصُرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

عذابک و جب کیا چھو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ شخص گونا گویا سمس نہ پڑھ آس عظمتہ  
 والس بذس خدایہ سنز وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ اوس نہ یہ غریب تہ مسکین لوکن  
 کھیادنک تر غیب دو ان نہ اوس پانہ فقیران مسکین کھیوا ان چاوان غرض اس شخص آس نہ دلس اندرنہ  
 خالقه سنز عظمت نہ آس مخلوقن ہنز شفقت نہ اوس یہ حقوق اللہ ادا کران۔ یہ حقوق العباد بجانبانان  
 یہ چھو تمن دوشون حقن ہوندا تارک تہ منکر تمی سبہ بہ چھو یہ مستحق عذاب فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَمَا  
 حَبِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لہذا چھونہ از تہندہ خیطرہ نہ کانہ  
 دوستانہ نہ ہم خوارہ۔ نہ چھو تہندہ خیطرہ کھنوک کانہ چیزاہ نصیب غسلینہ و رای یعنی جہنمن ہندن از نم  
 ہوندا پیل تہ پاک۔ یس نہ بدین گنہ گارن و رای کانہ تہ کھیہ امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ تمہ قرآن مجید چ  
 حقانیت یتھ منز یمن مجر من ہندہ امہ سزاع چ ذکر چھ۔ یس اتھ قرآن مجیدس انکار کرہ سوتہ سپدہ امی  
 قسمہ کس عذابس گرفتار۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تَبْصُرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۞ یس چھس بوتسم ہاوان تمن  
 چیزن ہوندا یم تہ و چھان چھوک یا یتھ قسمس چھ اکھ مناسبتھہ اصل مقصدس سیت کیا زہ قرآن  
 مجید یس اتان اوس سو اوس نہ کانہہ در بیٹھ یوان۔ یمن نشہ واتان اوس تمن آس ساری و چھان یعنی مہ  
 چھو سارنی مخلوقن ہوندا قسم کہہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو خدایہ سند  
 کلام یس مفرز ملکہ سندہ ذریعہ و اتناونہ چھو یوان لہذا یس صاحبس نشہ سو واتان چھو تم چھہ بے شک  
 پیغمبر برحق وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ چھونہ کانہہ شاعرہ سند کلام یتھ پانھی تہ اندرہ بعضے کافر چھہ

كَرِيمٍ ۳۱ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَوْمِنُونَ ۳۱  
 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ۳۲ تَنْزِيلٌ مِّنْ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۳۳ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۳۴  
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۳۵ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۳۶ فَمَا  
 مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۳۷ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۳۸

وہاں اس جلیل القدر پیغمبر سے نعوذ باللہ شاعر قَلِيلًا مَّا تَوْمِنُونَ مگر توہ منہ چھ کے پڑھ کر ان  
 یعنی پڑھی چھو نہ کر ان کا نہہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ یہ چھو نہ کا نہہ سند کلام ہتھ پاتھ بعض کافر  
 آس تمہن کا ہن دنان قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ مگر کم چھوہ توہ نصیحت رٹان حقیقت چھہ یہے کہ نہ چھو یہ  
 قرآن مجید شاعرہ سند شعر نہ چھہ کا ہن سز کمانت بلکہ چھو یہ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کلامہ  
 نازل کرنہ آمت حضرت رب العالمین سندہ طرفہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ تو پتہ ہر گہ  
 بالفرض یہ پیغمبر اسے گن لا گمانہ ایزہ تھہ یعنی کس کلام اسہ فر مومت آسمانہ تھہ دیہ ہاسون کلام یعنی اپز  
 دعوی نبوت کرہ ہا با خدا یہ سندس کلامس سیت ملنا و ہا ہون کلام تلہ کتہ چھڑہ ہون سوا یس۔ لَأَخَذْنَا  
 مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ بلکہ کرہ ہواس تھندس دچھس اتھس تھپ تو پتہ ژ سواس  
 تھندہ دلچ یعنی تم تھوہ ہو کہ نہ اس زندے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پس آسمانہ توہ  
 اندرہ کانہ کھا تمہ امہ سزانشہ پتھ رٹون تہ بجاوہ ون۔ چونکہ یو تھہ معاملہ چھو نہ آمتوی در پیش لہذا  
 چھو امی سیت ثابت کہ یم چھو رسول بر حق یہ قرآن مجید چھو بے شک کلام حضرت حق جل جلالہ  
 وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک یہ قرآن مجید چھو متقیں تہ ہیز گارن ہندہ خیرہ بڈ نصیحت بوڈ  
 وعظ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ یہ چھہ اسہ خبری کہ توہ اندرہ چھہ بعضے اتھہ قرآن مجیدس اپز  
 گزراں امہ کس کلام خدا آسئس انکار کر ان تمہن دمواس پانے سزا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اتھہ کن  
 نظر کرت چھو یہ قرآن مجید کافرن ہندہ حقہ موجب حسرت کیا زہ تمہن سپدہ انکار کرن عذاب سبب



وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۵۰﴾  
وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۵۲﴾

وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ بے چھو بے شک یہ قرآن مجید حق تہ پوز یقینی اکھ تھہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  
پس بسند یہ کلام پاک چھو تس عظیم الشان پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت آسیو توہ پاکی یاد کران۔ یلہ یہ  
آیہ کریمہ نازل سپد فرمود حضرت رسول کریمن اجعلو ہا فی رکوعکم یہ تسبیح آسیو پران پنہ  
نین رکوع عن اندر۔



## سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۱ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ  
 لَهُ دَافِعٌ ۲ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۳ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ  
 الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ ۴

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ اک سائلن پروژھ عناد انکاره کن تھ عذاب  
 مُتَعَلِّقٌ لِّس كَافِرٍن پٹھ ضرور واقع سپدھون چھو۔ سو شخص سوال کروان اوس کافر واندره نضر بن الحارث  
 سوی لگ دپنہ گستاخانہ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك الخ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ تھ عذاب نہ کانہ  
 اکھاہ پٹھ ہیہہ رتھ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ سوی عذاب چھو واقع سپدھون تس پروردگار سند طرفہ  
 ئس آسمان ہوندا ملک چھویم آسمان اکھ اکس پٹھ چھہ درجہ بدرجہ ہیر پاون ہند پائٹھ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ  
 وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ یمو ہیر وکن ملائکہ تہ با ایمان ہند روح چھہ تس نشہ کھسان تس نشہ کھسہ نہ اندرہ چھو  
 مراد تم چھہ عالم بالاس اندر تھ مقاس واتان ئس تھندہ عرو جک نہایت مقرر کرنہ آمت چونکہ امہ  
 تھند کھسہ نچ و تھ چھہ آسمان امی آو تمن وننہ معارج۔ معارج چھو جمع معراج معراج چھہ دنان ہیرہ۔  
 سوی عذاب تھیوک کافر پر ژھان چھہ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ سو عذاب سپد واقع  
 تھہ دوہس اندر تھیوک مقدار تہ مدت آسہ دنیاک پنژہ ساس ورہ۔ سو دودہ گو قیامتگ دودہ میس آیہ  
 کر تمس اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یعنی قیامتہ کہ دوہوک  
 مقدار آسہ اکھ ساس وری تمور یواندرہ یم توہ گز ران تہ شمار کران چھوہ۔ یہ تفاوت آسہ کافر ن ہند  
 یواحوالو موجب کانسہ سپدہ محسوس سو دودہ زیوٹھ اکس ساسس ورہس برابر کانسہ آیہ یوزنہ سو دودہ سختی تہ  
 بے چینی موکھ پنژہ ساس وری مگر با ایمان سپدہ سو دودہ محسوس اکس فرض نمازہ برابر تہ فر موو حدیث

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۵ إِنَّهُمْ يَدْرُونَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ  
 قَرِيبًا ۷ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۸ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ ۹ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۰ يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ  
 الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۱ وَ  
 صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۱۳ وَمَنْ فِي  
 الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمِئُّ بِحَيْثُ ۱۴ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ۱۵ نَزَاعَةً

شریف اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وون یلہ کافرن عذاب ضرور واقع سپدہ فاصبر  
 صَبْرًا جَمِيلًا نہس کریو توہ یارسول اللہ کافرن ہندس مخالفس پٹھ پور صبر تھوی صبریتھ سیت نہ کونہ  
 کج شکایت آسہ یعنی تھندس کفرس نہ مخالفت کرنس پٹھ گڑھنہ تھو ندول تنگ سدت شکایت کرن  
 بلکہ گڑھنہ تھو ندیہ تھ زانت پور صبر و تحمل کرن کہ تمن آہ ضرور اتھ کفر و مخالفس پٹھ سزا ونہ قیاتک  
 دوہ لَانَّهُمْ يَدْرُونَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا تم چھ تھ دوہس و چھان تمیوک اعتقاد نہ پڑھ نہ آسنہ  
 موکھ دور تہ بعید اس چھن و چھان سہ قیامت نزدیک کیا زہ اسہ چھو معلوم سہ سپدہ ضرور واقع۔ یَوْمَ  
 تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سو عذاب سپدہ واقع تمن کافرن پٹھ تمہ دوہ  
 یمہ دوہ آسانک رنگ آسہ ہلم ہیو کر ہون بیہ آسن کوہ دونہ نہ آمت رگمت پھب ہی وَلَا يَسْأَلُ  
 حَمِيمٌ حَمِيمًا تمہ دوہہ آسنہ کانہ دوست کانہ دوستس پر ژھان نہ یُبْصِرُونَهُمْ اکھ اکس آسن  
 بوزنہ یوان مگر کانہ آسنہ ہنز ہمدردی پرت اکس آسہ پنہ نی پنہ نی پریشانی یَوْمَ الْمُجْرِمِ  
 لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ تمہ دوہہ کرہ مجرم یعنی کافر تمنا ہر گاہ تمہ دوہہ کہ عذابہ نشہ چھنہ  
 خیطرہ مہ پیہ ہاندیہ تہ بدلہ دیون بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ \* وَمَنْ  
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمِئُّ بِحَيْثُ ہتھن ٹیو تہ گبر بیہ پن آشین بیہ پن بوی بیہ پنون سوروی قبیلہ  
 کرون نہس دنیا س اندر مصیبتہ کہ وقتہ تس پناہ دووان اوس بیہ تم ساری لوک یم دنیا س اندر چھہ سوی

لِلشَّوْمِيِّ ۱۴ تَدْعُوَامَنْ اَدْبَرَوَتَوَلَّى ۱۵ وَجَمَعَ فَاَوْعَى ۱۸ اِنَّ  
 الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا ۱۹ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۲۰ وَاِذَا مَسَّهُ  
 الْخَيْرُ مَنُوعًا ۲۱ اِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۲ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ  
 دَائِمُونَ ۲۳ وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۴ لِّسَالِبٍ  
 وَالْمَحْرُومِ ۲۵ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۲۶

فدیہ بدلہ دیونے مہ نجات دیہ یعنی تمہ دوہ آسہ تمہ تقیح نفسا نفسی کہ پرت اکھاہ آسہ پنہ نی فخر کران۔ دنیاءس اندر یہ بندہ خیطرہ زدودوان اوس تمہ دوہ کرہ تمناکہ ہرکہ کیے میانہ بدل لکھ ہین بوگرہ ہس موکہ لون۔ اللہ تعالیٰ فرماوان کلا تا بندہ نہ ہرگز یعنی کانہہ ہنہ نہ لگت کانہہ بندہ بدلہ ائناکلی \* نَزَاةً لِلشَّوْمِيِّ بے شک سو جنم چھو شولہ ماران یہ تراوان لیس تمن بو تھیوک مُسلہ تان والہ تَدْعُوَامَنْ اَدْبَرَوَتَوَلَّى سوی جنم دیہ پانے نادس شخصس یم دنیاءس اندر پزس کن تر پھر مژ آسہ۔ خدایہ سزہ فرماں برداری نشہ بوتھ پھر مت آسہ وَجَمَعَ فَاَوْعَى بیہ آسین لوکن ہند حق کھے کھے مال جمع کر مت سوی آسین صندوقن نہ ششترہ وین المارین اندر راجھ کرتہ تداومت اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا بے شک انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بے صبر نہ کم ہمت اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا یلہ تس سختیاہ نہ مصیبتہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو ژہٹہ نہ جزع و فزع کران وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا توپتہ یلہ تس کانہہ خیرہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو خیر چوکا میون نشہ پتھ روزان اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر چھو یوم عذابو نشہ مستخے تم با ایمان لوکھ، یم پنہ نین نماز ن پیٹھ برابر توجہ نہ ڈاؤ کرہ و سن چھہ بیہ پھنہ نمازہ اندر بیہ کونہ چیزس کن توجہ کران وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ \* لِلْسَالِبِ وَالْمَحْرُومِ بیہ تم با ایمان یہ ہندس مال و دولتس اندر مقرر حق چھو مگھ و نین ہندہ خیطرہ نہ مگھ و نین ہندہ خیطرہ نہ یعنی زکوٰۃ علاوہ نہ چھ تم پیون مال خرچ کران رژن رژن و تن اندر وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ بیہ یم لوک قیامتہ کس دوہس تصدیق نہ پڑھ چھ کران

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۱۹﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۲۰﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۲۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یہ تم اپنے بس پروردگارہ سندس عذابس کھوڑوئن چھہ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بے شک تہندس پروردگارہ سندس عذاب چھو خطرہ ناک چیزہ ایہ نشہ  
 نہ بے خوف روزان شو بہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهِمْ حَافِظُونَ یہ ہم لوک اپنے نین سترہ چین جاین  
 حرامہ نشہ راجھہ کران چھہ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر  
 چھہ راجھہ کران سترہ چین جاین پنہ نین منکوہ زنانن نشہ بیہ تمن زنانن نشہ یمن تم ہملک بیمن  
 مالک آسن یعنی شرعی کیزن نشہ کیازہ تمن چھونہ تمہ خیطرہ کانہ بازخواست فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ وین بس شخصہ اپن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ ہیمودویو حلال صور توورای بیہ کانہ  
 حرام صور تاہ ژھانڈہ تہ اختیار کرہ پنہ تقسیم خواہش پورہ کرنہ خیطرہ پس کیا گئے تے لوک حد شرعی  
 نشہ ڈلہ وئن وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ یہ ہم لوک اپنے نین اما تن یم تمن سپرد  
 کرنہ آسن آمت بیہ پنہ نین عمدن راجھہ کرہ وئن تہ خیال تہا وئن آسن وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ  
 قَائِمُونَ یہ ہم پنہ نین گواہین پٹھ ثابت تہ مضبوط روزہ وین آسن تمن منز آسن نہ کی یا زیادہ تی  
 کران یا کانسہ ہوندر عایت کر تھ کانہ کتھاہ کٹھان وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ  
 ہم پنہ نین فرض نمازن پٹھ پابندی کران چھہ أُولَٰئِكَ فِي جَذْبٍ مُّكْرَمُونَ سمئے لوک ن کیا ایہ جنتن  
 اندر تعظیم و تکریم کرنہ تم چیز ہم سعادت و شکایت و شقاوتنگ موجب چھہ تم یلہ بوضاحت بیان

يُحَافِظُونَ ﴿۳۳﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾ فَمَالِ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۶﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ  
عِزِينَ ﴿۳۷﴾ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً  
نَّعِيمٍ ﴿۳۸﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا أُقْسِمُ  
بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿۴۰﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ

کرنہ آئے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ پس کیاہ سناگو کافرن کہ تم چھ توہ بروٹھ کن  
استہزا تھ ٹھٹھ پاٹ دورہ دورہ اورہ یور کران عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دُھن تھ کھو فرچھ  
انکار و تکذیب کرنہ خطیرہ ڈھپرہ کران أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ کیا تھ  
استہزا و انکار کرنس پٹھ چھا تمئن شا کھ کہ اسہ اندرہ پرت اکھاہ کیا آیہ و اتناوہ نہ نعمن ہندس جنس اندر  
کلا تہ نہ نہ ہرگز کونہ صورتس اندر کیا زہ تموچھ کرہ مرزہ کامہ یمہ سزاوار نارچھ۔ تہ آتھ کتھ  
پاٹھ واتن تم جنس۔ واتن تمے لوک یمو تمہ کامہ کر مرزہ آسن یمہ سزاوار جنت چھ وین گو تو ہند  
انکار معاد یعنی مرنہ پتہ بیہ دوبارہ پیدہ سپدس انکار کرن۔ تہ چھ تم کران بے وقوفی سببہ تم چھنہ زانان  
تم تھ چیزس آی پیدہ کرنہ گووہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ بے شک اسہ کر تم پیدہ تھ چیزس تیج  
تمن خبری چھ سوگو آب لفظہ مگر تامل تہ غور چھنہ کران کہ تھ آب لطفس انسان آو پیدہ کرنہ تھ  
آسنہ حیات تہ زندگی کھ پھموتھ یلہ اللہ تعالیٰ ان انسان پیدہ کور وون یسوسہ ہیتزہ یادودر ستمترہ اڈجہ  
یمن کینہ کالاہ حیاتک تہ زندگی ہیوند تعلق رودمت چوتھ کیا زہ بھنہ اللہ تعالیٰ بیہ دوبارہ زندہ کرت۔  
یہ تھوندا ممکن تہ مجال زانن گیہ تہمزے بے وقوفی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ  
إِنَّا لَقَادِرُونَ تو پتہ پھس بو قسم ہاوان مشرقن تہ مغربن ہندس پروردگارہ سُد یعنی بو پھس پتہ ذات  
پانگ قسم ہاوان کہ اسہ چھ ضرور قدرت عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ حَيَاتَهُمْ تھ کتھ پٹھ کہ تہزہ جاہیہ تہ  
تمن بدل انوکھ اس دنیا س اندر تم لوک یم تہندہ خو تہ بہتر آسن یعنی پیدہ کروکھ وَمَا نَحْنُ

خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا مَنَّا حُنَّ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا  
 وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ  
 مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً  
 أَبْصَارُهُمْ تَرْتَهْقُفُهُمْ ذَلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

بِمَسْبُوقِينَ اس بھنہ تمہ نشہ عاجز اسہ نشہ چھو نو مخلوق پیدہ کرنن آسان۔ توہ دوبارہ پیدہ کرن کیاہ  
 مشکل چھو سانہ خیطرہ۔ وین ہر گاہ ہم لوگ امہ انکار و عنادہ نشہ بازین نہ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا  
 حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تلہ تر وایو کہ توہ تم اتھ پنہ نس شغلس بے ہودہ تھ کرنس تہ  
 گندنس سیت یونتاں سمکھن تم تھ دھوس سمیوک تمں وعدہ کرنہ یوان چھوینے قیامتس دوہس یوم  
 يَخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ یمہ دوہ نیرن تم قبر واندرہ دوران  
 دوران زن تم آن کونہ نشانس کن بروٹھ وانٹس اندرمان مان کران خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْتَهْقُفُهُمْ ذَلَّةٌ  
 لوکن گن آن اچھ تہزہ شرمندگی سببہ بون ولنہ آسکھہ آمر ذلت تہ خواری ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي  
 كَانُوا يُوعَدُونَ یسوی کیا گو سودوہ سمیوک تمں وعدہ اوس یوان تھاوندہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②  
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ  
 ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ④ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ  
 إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤ قَالَ رَبِّ إِنِّي

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک اسے سوزنوح علیہ السلام پیغمبر بناوت پنہ نس قومس ن آن  
 أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسے فرمودتس کہ نیم کریو پنہ نس قومس کفر  
 کہ وبالہ نشہ تمن نشہ کڈر عذاب واتنہ برو نطھی، دنیا س اندر گو سو عذاب طوفان آخرتس اندر  
 عذاب نیر ان قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ چنانچہ تمودوپ پنہ نس قومس ای قوم بو تھس تموندہ  
 خیطرہ نین پاٹھ نیم کرہ ون ان اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا بو چھوس تود ونان کہ عبادت کریو  
 تودہ خدایہ سنزی یا ثبہ کھوڑیو تس شریک مہ ٹراویوس کونہ قسمہ بیہ مہ کرو تہمز نا فرمانی بیہ مانیومیون  
 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہ کہ برکتہ کرہ سو تودہ گنہن مغفرت بیہ  
 دیہ سو تودہ مہلت مقرر کرنہ آتس و تقس تان آرامہ سان زندگی بسر کر نچ وقت مقررہ اندرہ چھو مراد  
 موتک وقت یعنی اجل إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بے شک اللہ  
 تعالیٰ سند موتہ خیطرہ مقرر کر مت وقت سو پتہ آیہ نہ کڈنہ کیاہ رت گڑہ باہر گہ تودہ بیہ تھہ زانہ جگنہ۔  
 یلہ وار بیس مدتس تان یمن لوکن کانہہ اثرہ گونہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّكُمْ  
 يَزِيدُهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا نوح علیہ السلامن کردعالی میانہ پروردگارہ مہ دژوناد پنس قومس دین



دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۱۰ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا  
 فِرَارًا ۱۱ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ  
 فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 اسْتِكْبَارًا ۱۲ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۱۳ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ  
 لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۱۴ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ  
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۱۵ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۱۶

حس کن راتس تہ دوہس مگر تمں ہر یونہ میانہ دعوت کرنہ سیت کینہ تہ ژانہ ورا یوت بو تمں برو نھہ آئنج  
 کوشش اوسس کران تیوت آس تم پتھ ژلان وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي  
 اذانہم واستعشوا ثيابہم وأصروا واستكبروا استکبارًا مہ یلہ یلہ تمں دین حس کن  
 ناد یوت یوتھ ژہ تمں ایمانہ کہ برکتہ مغفرت کر کہ گنہن تمو ہیوہ پنے او گج کن منز تمانوہ یوتھ نہ پڑہ  
 تھہ ہنز آواز تہ تھمدین کن واتہ بیہ دکھ پھن پلوکلہ پیٹھ یوتھ نہ پڑتھ ونہ وین پیٹھ تمں نظر تہ پیہ - بیہ  
 کر تمو کفر وانکار س پیٹھ ڈاؤ، بیہ کر تمو میانہ فرمان برداری نشہ سیٹھاہ تکبر - باوجود آن رودس بو تمں  
 مختلف طریقو نصیحت کران ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا تو پتہ تہ دیوت مہ تمں دین حس کن ناد باواز  
 بلند یعنی عام مجلس اندر پڑکھ وعظ کس وعظ بڈہ بڈہ باواز بلند چھو یوان پر نہ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ  
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا تو پتہ بوز نامہ تم خصوصی مجلس اندر نن پاتھ بیہ تور مہ تمں فکرہ پوشیدہ  
 پاتھ تہ انفرادی صورتس اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اتھ فکرہ تارلس اندرون مہ  
 تمں ونہ چھو موقع توه مکیو بخشایش پنے نس پروردگار س ایمانہ نہ سیت بے شک سو چھو سیٹھاہ  
 مغفرت تہ بخشایش کردون يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ایمانہ کہ برکتہ کرہ سواخروی نعمن ہندہ  
 علاوہ تودہ نیلوی نعمہ تہ عطا سوگو آسانکہ طرفہ تراوہ سوبارش تہ رود - ییمہ سیت تموند زراعت سر سبز و  
 شاداب سپدہ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ آمِثَالًا مِّمَّا تَرَآءُ فِي سَوَآءِ السَّيْلِ مِنَ الْمَاءِ مَدْرَارًا وَيَجْعَلُ

وَيُؤْتِكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ  
 وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهْرًا ۱۳ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۱۴  
 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۱۴ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ  
 سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۱۵ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا  
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۶ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱۷ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸

لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهْرًا ۱۳ یہ کہہ سوتھو نہ خیرہ باغ تیار یہ پھر وہ سوتھو یوز مینو منز کولہ  
 تہ جو یہ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان نوح علیہ السلامہ سند باقی کلام یعنی بواد سس تمن و نان مَا لَكُمْ  
 لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۱۴ اے قوم توہ کیاہ گوہ توہ چھوہ نہ اللہ تعالیٰ سندس عظمتس اقرار کران تہندہ  
 عزت و عظمتگ اعتقاد تہوان۔ ہر گئے توہ تہندہ عظمتگ اعتقاد آسہ ہاتلہ ٹہراوہوس نہ شریک حالانکہ  
 یم چیز اعتقادِ عظمتس منگان چھہ تم آس موجود وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۱۴ چنانچہ تم کروہ توہ پیدہ اکہ  
 حالہ پتہ بیس حالس اندر۔ اکہ۔ حال اوسوہ نطفہ بیاکھ حال علقہ بیاکھ حال مضغہ وغیرہ وغیرہ یہ گیہ دلیل  
 نفسی یعنی دلیل یوسہ تہندس ذاتس اندر چھہ۔ امہ پتہ چھہ فرماوان آفاتی دلیل یعنی سودلیل لُہسہ  
 خارجس اندر موجود چھہ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ای لوکو توہ چھوہ  
 ناوچھان تھہ پاٹھ کر اللہ تعالیٰ ان ستھ آسمان پیدہ اکہ اس بیٹھہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ  
 الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۶ بیہ تھہ پاٹھ کر اللہ تعالیٰ ان زون یمن آسمان اندر اکھ نورانی چیزاہ۔ بیہ کرن  
 آفتاب اکھ روشن ژونگاہ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۱۷ بیہ کھاروہ توہ اللہ تعالیٰ ان زمینہ  
 منزہ اکہ خاص طریقہ۔ تھہ پاٹھ کہ آدم علیہ السلام کرن پیدہ مژہ نشہ توپتہ باقی انسان تم کرن پیدہ  
 نطفہ نشہ۔ نطفہ چھوہ بان غذاء س غذاء چھوہ نان عناصرن۔ تمن چھوہ غالب زمینک اجزاء ثُمَّ يُعِيدُكُمْ  
 فِيهَا ۱۸ توپتہ چھوہ اتاوان توہ مرنہ پتہ تھہ زمینس اندر وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸ توپتہ تہہ توہ اکی

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۹ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جَاءَ ۝۲۰ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ كَفُرَ  
بِي زِيدَهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ الْإِخْسَارَ ۝۲۱ وَمَكْرُومًا كَبِيرًا ۝۲۲ وَ  
قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَ  
لَا يَافُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۳ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝ وَلَا

زمینہ منزہ قیامتک دوہ اکہ خاص طریقہ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا \* لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جَاءَ بیہ کر اللہ تعالیٰ ان بیہ زمین تہوندہ خیطرہ اکہ فرشتہ تہ دتھریونایوتھ تہوہ پچیوتھہ چوکشادہ وتو  
منزہ۔ بیہ سوروی کلام چھوٹس نوح علیہ السلامن اللہ تعالیٰ ہس بطور فریاد حکایتا پیش کر یعنی بیہ بیہ تھہ  
ون ون تاریومہ فکر پنے نس قومس مگر تمن تور نہ کنہ تہ فکرہ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا  
مَنْ كَفُرَ بِي زِيدَهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ الْإِخْسَارَ ون نوح علیہ السلامن ای میانہ پروردگارہ یمولو کو مون نہ  
میون کینہ تہ تمو کر پیروی تمن شخص ہنز یمن مال واولادو کانہہ چیز زیادہ کرنہ نقصانہ تہ تاوانہ ورا ی  
یعنی یمولو کر پیش تہ زٹھن ہنز پیروی یمن مال تہ اولاد آسن سبب سپد زیادہ طفیان و سرکشی ہونہ۔  
وَمَكْرُومًا كَبِيرًا تمو تھند یوز ٹھیو کر کم کم بیڈ تہہ بیہ یوز ختم کرنہ خیطرہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ  
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَافُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا تمو دوپ پنے نین تابعا یوتھ تہ تہوہ ہینن  
معبود تراویو کہ خصوصاً ترواویون و بیہ سواع بیہ یغوث بیہ یعوق بیہ نسریم آس مشہور پتل  
بعض روایاتن اندر چھو کہ گوڈ نکس زمانس اندر آس کینہ بزرگ تم بلہ بیہ عالمہ گے تھندہ انتقالہ پتہ آو  
شیطان تم کر پیش تمن لوکن نشہ تمن بزرگن ہند تصور دوپ نکھ یم تھوایو تہوہ پانس نشہ بطوریادگار تہ  
پتہ کینہ کالا گتھت ہیو لوکو تمن شکل تہ تصورین ہنز پرستش کرن تھتہ پٹھ سپز شروع بت پرستی العیاذ  
باللہ۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا بیوریش تہ زٹھیو ڈال واریالوک چونکہ ژہ فرموتھ کہ یمو چانہ قومہ  
اندر ایمان اون تمو علاوہ انہ نہ وین کانہ تہ ایمان۔ لہذا چھسی منگان کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا  
یمن ظالمن ہر راوژہ بیہ ہن گرا ہی چنانچہ مِمَّا خَطَبْتُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْحِلُوا نَارًا پنے نیوی گناہن ہندہ

تَزِدِ الظَّالِمِينَ الْإِضْلَاقَ ﴿۳۳﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا  
 نَارًا ۖ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿۳۴﴾ وَ  
 قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿۳۵﴾  
 إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا  
 كَفَّارًا ﴿۳۶﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي  
 مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ  
 إِلَّا تَبَارًا ۙ ﴿۳۷﴾

سبہ بہ آی تم پھاؤ ونہ تمہ پتہ آی داخل کرنہ نارس اندر **فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا**  
 پس لوب نہ تمو خدا پس ورا ای کانہ مدد کرہ ونہ **وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ**  
**دَيَّارًا** بیہ دوپ نوح علیہ السلام سیتہ کہ ای میانہ پروردگارہ یوکا فرواندرہ مہ تھاون اتھ زمینس  
 پٹھ کانہ نہ موجود۔ بلکہ کروکہ ساری ہلاک نہ بر باد **إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا**  
**فَاجِرًا كَفَّارًا** کیا زہ ہر گہ ژہ تم ہلاک گھوہنہ نشہ چھڑہ ہک یم لوک کرن چائین بدن گمراہ بیہ  
 زیوراون نہ یم پٹن اولادہ نہ ذریت مگر فاجرہ کافر **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي**  
**مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** میانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ مہ بیہ مینس ماس ماجہ بیہ سخن یم  
 ایمانہ کس حالس اندر مینس گھرس اندر ژامت چہ یعنی مینس اہل و عیالس کنعانس نہ تہزہ آشنہ ورا ای  
 بیہ سارنی با ایمان مردن نہ با ایمان زنانن یم قیاس تان پیدہ ہدن **وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا** بیہ  
 ہر راو ظالمین بیہ ہن تباہی نہ بر باد ی تموان نہ ایمان (اے میانہ پروردگارہ کر مہ بندہ گنہ گارس نہ خطا  
 کارس نہ پنہ نہ رحمت و فضلہ سیت سارنی بڈن گنہن نہ لوکن گنہن مغفرت دنیا و آخرتہ کہ عذابہ ورا ای  
 و اتاومہ پنہ نس رحمتہ کس نہ رضاء کس گھرس اندر ژہ نش پھنہ کانہ بند کتھاہ مہ گنہ گارس ساری گنہ  
 گنہن انک غافر غفور غفار)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ آتِهِ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا  
 يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۙ  
 وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدْرًا مَّا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۙ  
 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۙ وَأَنَّا كَلْنَا  
 أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۙ وَأَنَّهُ كَانَ

قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ آتِهِ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ توه فرمايو بيار سول الله صلى الله عليه وسلم مين مکه کين لوکن که  
 مه گن آووحی سوزنه که جنوا ندر اک جماعتن بوزميون قرآن مجيد پرن صبح نماز ندر فقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا  
 قُرْآنًا عَجَبًا توپته يله تم جن پنه نس تو مس کن واپس گنیه تمن دوپک اسه بوزاکه عجائب قرآن يَهْدِي  
 إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ نيس قرآن سيز و تھ باوان چھو پس کراسه تھ پڑھ اسه تور فجره که معبود  
 برحق چھو کنی شریک آسنه نشه منزہ تہ پاک وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وين ٹھراوون نہ آس پنه نس  
 پروردگار س کا نہ اکھاہ شریک توپته کر تمو جنوپانہ وان تمن کھن هیوند تذکرہ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدْرًا مَّا  
 اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا بیه ون تموسالس پروردگارہ سُندشان چھو سٹھاہ تھود تم بناونہ کانہ زنانہ  
 ہنن آشین نہ بناون کا نہ کورہنن یا نچو ہنن وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بیه آس  
 ونان تم جن اسه منزیم احق تہ نادان چھہ تم چھہ ونان خدا یہ سندس ذاتس نسبت تمہ کھہ یہ تہندہ شانہ  
 نشہ دور چھہ مثلاً کلمات شرکیہ وغیرہ وَأَنَّا كَلْنَا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اسه اوس  
 گوڈہ خیال کہ انسان تہ جن ونن نہ زانہہ تہ خدا یس نسبت اہڑہ تھہ۔ یعنی چونکہ اکثر جن تہ انسان آس

رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ  
 رَهَقًا ۖ ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا  
 وَ أَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا  
 وَ شُهَبًا ۗ ﴿٨﴾ وَأَنَا لَكُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن  
 يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۗ ﴿٩﴾ وَأَنَا لَآلِنَدْرِي

شرك بخدا انان آسه گو خيال اتيو شخصوتھ پاٹھ اسه اېرس بيٹھ اتفاق كړمت تھه كُن نظر كرت كراسه ته  
 تهنزی طريق اختيار وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا  
 واریاه لوک آس انسانواندره یم پناه نوان آس جنواندره کیدون لوکن بهندسیت تموی هرودو تمن جن  
 نخوت ته تکبریمه سیت تموکفر وعناد زیاد هیوت کرن وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ  
 اللَّهُ أَحَدًا بیه اوس تموانانوخیال كړمت بهتھ پاٹھ توه ته خیال اوسوه كړمت كه اللہ تعالی كړه نه هرگز  
 كانه شخص دوباره بیه زنده مگریه خیال ته سپد غلط ثابت بلكه سپد معلوم كه مرنه پته زنده سپدن چھو حق  
 ته پوزیا گو معنی كه تمواوس خیال كړمت تھوند پاٹھ كه آسنده سوزنه اللہ تعالی كانه پیغمبرس یم پیغمبر  
 ازتان آی تم آی مگردین سپد قرآن مجیده سیت معلوم كه پروردگارن چھو سوزمت كه عظیم الشان  
 پیغمبره بئس لوکن چھو فرماوان كه توه ساری آیو مرنه پته بیه زنده كرت قبرواندره تولنه توپته آیوه ذره  
 ذرك حساب بهینه وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا بیه كراسه  
 ژھانڈ سارسی آسمانس اسه لب سوپرت طرفه برت پهره داریعنی محافظه ته راجھه كړه ونیو ملكو سیت بیه  
 وچھه اسه هر طرفه نارنیران یعنی یم جن آسمانی خبرن كُن دنه كهسان آس تمن چھه تم پهره دارملك ناره  
 رهوسیت دور ته دفع كران وَأَنَا لَكُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اس آس بروٹھه آسمانچھه خبره  
 بوزنه خیطره بعضه جاين پٹھ روزان ته ٹھران۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا  
 مگروین بئس تمه خبره بوزنه كهسان چھو سوچھوتته پنه خیطره كه ناره رھاتیار لبان۔ بیه خبره بوزنه بندسپده

أَشْرَأُ رِيْدٍ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ  
 رَشْدًا ۗ وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَتَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا  
 طَرَائِقَ قِدَادًا ۗ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ  
 وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۗ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَسْتَابِعُ  
 فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۗ وَأَنَا مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشْدًا ۗ

نہ سپد باعث یمن جلن ہندہ اوت مکہ شریف منروا تنگ منگھ بوزن کہ کیاہ تان واقعہ چھو دنیاء س  
 اندر سپد مت یمہ سببہ اس چھہ یوان خبر بوزنہ نشہ دور کرنہ امہ کی تحقیقات خیطرہ آسہ جنو مختلف جماثہ  
 دنیاء س اندر پرت طرفہ سوزنہ خیطرہ مقرر کر مرث جماعت یوس مکہ شریف منروا اثر تمن سپد معلوم  
 کہ بعثت حضرت پیغمبر آخر الزمان ﷺ یہ نزول قرآنی چھو سبب تہندہ دور سپدنگ آسمان ہند یو کنار و نشہ  
 وَأَنَا لَنْدَرِي أَشْرَأُ رِيْدٍ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشْدًا بیہ آس ونان تم جن  
 آسہ چھہ خبر کہ تمس یوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ سیت چھازینہ کین لوکن کانہ تکلیفہ  
 و اتناونک ارادہ خدایس کنہ تہندہ پروردگارن چھو یرتھمت تہندہ خیطرہ سیزہ و تہ پٹھ اتن تہ رتو تھ ہاون  
 وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَتَادُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا بیہ آس ونان تم جن کہ اسہ منزہ آس  
 گوڈہ پیٹھ نیکو کار تہ بعضہ تمہ ورا ی بیہ طریق لوک اس آس مختلف وتن پٹھ پکان وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ  
 نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هَرَبًا بیہ ون تمو جنو کہ اسہ اوس خیالس منز کہ اس ہون نہ  
 اللہ تعالیٰ زمینہ کس کونہ حصص منز روزت ہارہ ناوت تہ عاجز کرت تہ نہ ہون سوعا جز کرت کونہ صورتس  
 منز زمینہ ورا ی کونہ جایہ مثلاً آسمانس کن ثلثہ سیت وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَسْتَابِعُ فَمَنْ يُؤْمِنُ  
 بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اسہ یلہ بوزہد اتن تھ اسہ کرتھہ پٹھہ بس ون سانی پاتھہ پنہ نس خدایس  
 پٹھہ کرہ سوکھو ثلثہ کونہ قسمجہ کی نہ کونہ قسمجہ زیادتی یعنی تمس چھہنہ کانہ خطرہ تہنز ورت عملو اندرہ یکاروزہ  
 ہا کانہ عملہ درج سپد نہ ورا ی یا کانہہ گناہ ہایا یلہ ہا زیادہ لیکن وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ بیہ

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا<sup>(۱۵)</sup> وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا  
 عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا<sup>(۱۶)</sup> لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط  
 وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا<sup>(۱۷)</sup>  
 وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتْ دُعُوامِعَ لِلَّهِ أَحَدًا<sup>(۱۸)</sup> وَإِنَّهُ

ون تمو جنوا سے منزه چھو بعضے مسلمان سپد مت۔ بیہ چھ اسے منزه بعضے جن بدستور و نشتہ نشتہ ڈلمت  
 نافرمان **فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا** وون یمو اسلام ان تمو ژھانڈ سیزہ رنج و تھہ یمہ پیٹھہ پتھہ تمن  
 ثواب حاصل سپدہ **وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا** وون یمو سیزہ و نشتہ نشتہ ثلاث نافرمانی کر تم سپد  
 جہنمک زیون تہ کاٹھ۔ یوت تان گو ختم جن ہوند کلام۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تو بہ فرماو یو کہ  
 حض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیہ آومہ کن وحی سوزنہ کہ **وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ  
 لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا** ہر گہ یم شہر میگک لوک سیزہ و نشتہ پیٹھ قائم روزن تلہ چا و ہوک تہ سیراب  
 کر ہو کہ اس تم گو تلہ آبہ آب وافرہ سیت **لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ** یوتھ اس تمن امتحان تہ آزمائش کر  
 ہو کہ تم چھا شکر گزار تہ فرماں بردار کنہ نافرمان تہ ناشکر گزار مگر چونکہ تمو کر ایمان انہ بدل اعراض  
 تہ انکار تمہ سببہ گئے تم بتلا فطس تہ در اگس۔ کفر و انکار کہ یہ سزا چھونہ خاص مکہ کین لو کن سیتی بلکہ  
**وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا** پس اکھاہ پنے نس پروردگارہ سندہ یادہ نشتہ یعنی  
 ایمان اطاعتہ نشتہ بو تھ پھرہ تس و اتا وہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس اندر **وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ** بیہ آومہ کن  
 وحی سوزنہ کہ یمہ مسجدہ چھہ تمہ سارے چھہ خدایہ سنزے معبود برحقہ سنزی عبادتہ خیطرہ خاص آمرہ  
 کرنہ **فَلَاتْ دُعُوامِعَ لِلَّهِ أَحَدًا** پس مہ کر یوتس سیت بیہ کانہ ہنز عبادت یمن مسجدن اندر۔ نہ  
 گدھہ مسجدن اندر تس و رای بیہ کانہ مخلوقس آلود یون حاجتو خیطرہ بعضے مفسر و فر موو مساجدہ اندرہ  
 چھو مراد اعضای سجدہ یعنی سجدک تان۔ یعنی کلمہ ہتھہ منز ڈکہ تہ نشت چھہ۔ بیہ اتھ زہ۔ کو ٹھہ زہ بیہ  
 کھور زہ۔ یسے گے تھہ تان یمو سیت سجدہ یوان چھو دنہ۔ یم تھہ تان چھہ خدایہ سندی یمو ستو تانو سیت



لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۵  
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۱۶ قُلْ إِنِّي لَا  
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۱۷ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ  
 اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۱۸ إِلَّا بَلَاغًا

گروهی عبادت کرن خدا پس و رای بیه کانسہ ہنز وَاِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا بیه او مہ کن وحی سوزنہ کہ یلہ خدا یہ سند بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ سزہ بندگی کرنہ خیطرہ یا قرآن مجید پر نہ خیطرہ تھو دو تھان چھو تمہ ساتھ ہر دو جنو تمہن انداند ہجوم کرت جمع سپدن۔ یا آس لوک تمہ ساتھ جماژو سمہن ہیوان با ایمان آس سماں شوق و ذوقہ سان قرآن مجید بوزنہ خیطرہ۔ کافر آس عناد و عداوتہ سبہ بہ ہجوم کرت یوان مجلسہ منز خلل تراونہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا توہہ فرماو یو یار رسول اللہ یہ تھہ کہ بو چھس صرف پنہ نس پروردگارہ سز عبادت کران بو چھس نہ تس کانہ اکھاہ شریک ٹھہراوان یہ تھہ گیہ تو حیدس متعلق قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ایہہ فرماو یو کہ رسالتس متعلق کہ بو چھس فقط خدایہ سبہ احکام تہ پیغامات و اتناوہ ون بو چھس نہ مالک تہ اختیارہ و ول نہ تہوندہ ضرر کہ نہ تہوندہ نفع خیر کہ نہ تہوندہ ہدایتک تم چھہ توہ و نان ہر گہ توہ واقعی پیغمبر چھوہ تلہ ہا یواسہ فلاں فلاں مجڑہ، توہہ فرماو یو کہ کہ مہ تمہن چیزن ہوند اختیار پانس اتھہ چھوہ نہ یہ سو روی و چھو خدایہ سندسی اختیارس اندر۔ بیه آس کافر و نان کہ آس مانو تو ہنز رسالت ہر گہ توہ مضمون تو حیدس بیه قرآن مجیدس منز کونہ قسمہ کنہ تغیر و تبدیل کریو قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تمیوک جواب فرماو یو کہ توہ ہر گہ خدا نخواستہ یو یشہ کوم کرہ تلہ بیکہ نہ مہ کانہ اکھاہ خدایہ سندہ غضبہ تہ عذابہ نش نجات تہ پناہ د تھہ نہ بیکہ بوتس و رای بیه کانسہ نشہ لبث کانہ چھین جایہ۔ مین کوم چھنہ کنہ تہ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ مگر و اتناون خدایہ سندہ طرفہ تہند احکام بیه تہند پیغامات لو کن یعنی پیغمبرہ سز

مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَازِلَةٌ  
 لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا<sup>٢٣</sup> حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا  
 يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا<sup>٢٤</sup>  
 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ  
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا<sup>٢٥</sup> عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ  
 أَحَدًا<sup>٢٦</sup> إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

کوم چھ احکام الہی لوکن نشہ و اتاوان تغیر و تبدیلہ و رای وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَنَازِلَةٌ لَهُ نَارُ  
 جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ایم لوک نافرمانی کرن خدایہ سنزبہ تہندس پیغمبرہ سنزبہ تہند احکام  
 مانن نہ پس چھو یقینا تہندہ سز اخیطرہ نار جنم ہتھ منز تم ہمیشہ روزن یمن کافرن چھو نہ از یقین  
 یوان امیوک مگر یمن ایہ نہ یقین حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفَ نَاصِرًا  
 وَأَقَلَّ عَدَدًا یوتان سو عذاب و چھن چنانچہ یلہ تم سو عذاب و چھن تمیوک تمن وعدہ تہاوندہ یوان  
 چھو۔ تمہ ساتھ زانن تم کمند مددگار چھ کمزور بہ کمسز جماعت چھ کم تعدادہ کن۔ وین یم تہہ قیامتک  
 وقت پر ترهان بطور انکار۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا  
 تہہ فرماو یو تمن مہ چھنہ خبر یمہ عذابک تہہ وعدہ تہاوندہ یوان چھو سو چھانزدیک ینہ وول کنہ یمن  
 پروردگارن چھو تمہ خیطرہ کانہہ زیوٹھ مدتہا مقرر کرمت تمیوک خاص تہہ معین وقت یہ گو علم غیب  
 یہ زانہ سوی یوت کیا زہ سوی چھو عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سوری سرتہ پوشید  
 چیز زانہ ون۔ سو چھو نہ پنہ امہ تسچہ پوشیدہ کتھ کانہہ نشہ ہاوان إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ  
 مگر چھو ہاوان تہہ مطلع کران پنہ نس کانہہ برگزیدہ پیغمبرس۔ سو تہہ چھو ہتھ پاٹھ خاص اکس طریقس  
 اندر تس مطلع کران کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا تس پیغمبرس  
 پتہ بروٹھ بلکہ پرت طرفہ سوجی نازل کرنہ کہ وقتہ محافظ ملاکن ہوند بروقت پھرہ سوزان یمن نہ

# يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۲۷﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ع ﴿۲۸﴾

شیطانس تہہ نگھ چھ دو ان پخہ چنانچہ تمن شیطان چھونہ ممکنی سپدان تہہ وحی لیس کن انوک یا کونہ قسمہ وسوسہ تراونگ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھ روایت کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ژور ملک مستقل امہ حفاظتہ خیطرہ یہ انتظام چھوامہ موکھ کرنہ یوان **لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ** یوتھہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری طور معلوم سپدہ کہ یم ملائک وحی بیت سوزنہ امت آس تمواتناو پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات پیغمبر برھس نشہ وتہ منز سہزنہ کہانہ ہنز مد اخلت **وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا** اللہ تعالیٰ چھو یمین پیرہ دار ملائکن ہند احوالن احاطہ کرت امہ خیطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہہ پیردار مقرر کر مت یمہ امہ کام خیطرہ موزون و مناسب چھہ بیہ یم امہ کامہ ہند پورا بل چھہ۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پرت چیزچی گرند معلوم لہذا چھہ وحیک ساری اجزا کہ کہہ تس معلوم۔ سو چھو تمن سارنی اجزاء ان پور حفاظت تہہ رچھہ کران۔ ملائکن تہہ پیغمبرن ہنز ن ذہنس اندر لفظ لیسئلگ ونہ نہ سیت چھہ شیطان ہنزہ استراق سمع تہہ التباسہ نشہ حفاظت لفظ و احاطہ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت یمہ اعتبارہ کہ ذرائع و وسائل یم چھہ تمن چھہ خدا سنز حفاظت و احصیٰ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت از نسیان و ذہول الیہ سند حقہ لہذا چھہ گوڈہ پیٹھہ اندتان سارنی حفاظن ہوندر رعایت تہوانہ آمت۔ حاصل چھہ تینس کہ قیامتہ تعینک علم آسن یہ چھہ نبوتہ کیو علو مواندر۔ لہذا امیوک علم نہ آسن چھونہ نبوتس پٹھہ کانہ ناکارہ اثر تراوان۔ یا تمیوک علم نہ سبب آسنس چھونہ لازم کہہ سپد نہ واقع پنہ نس و قنس تہہ موقعس پٹھہ البتہ علوم نبوت یم چھہ تم چھہ مستقل تہہ مقصود بالذات علوم۔ تہہ علوم لوکن نشہ واتانہ خیطرہ آو پیغمبر بر حق صلی اللہ علیہ وسلم سوزنہ تہہ علوم کر یوتوہ حاصل تموے سیت سپد یوتوہہ مستفید تمو علو مو و رای باقی علوم حاصل کرنک خیال تراو یوتوہہ منز چھونہ تہہ کانہ فاندہ۔

## سُورَةُ الْمُزْمَلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ① قُمْ الْيَلَّ الْأَقِيلًا ② نِصْفَةَ أَوْ انْقُصْ  
مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ای پلون منز و لتھ روزہ ونہ صاحبہ امہ عنوانہ خطاب کرنگ وجہ چھوای زہ ابتداء نبوتس اندر آس قریش دارالندوس اندر سمت مشورہ کران کہ تمس پیغمبرہ سندس حالس مطابق گوہہ کانہ ڈیچھ لقبہہ تجویز کرن تھی سیت آسوایس تھونذ ذکر کران۔ اک زین دوپ کاہن بے زین دوپ مجنون بے زن دوپ ساحر مگر اتفاق سپد کہ نہ کونہ پٹھ پیہے شھہ واژدر خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک سپد کہ آزرده کپر ژادراہ ہنڈ ہژ کہ سر مبارک پیٹھ۔ ہتھ پاٹھ اکثر غم گین شخص چھوکلہ پیٹھ پلوہنت روزان۔ اللہ تعالیٰ ان کرامی عنوانہ سیت بکمال انس ملاطفت تمن خطاب فرمونکھ

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ہتھ پٹھ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ درای اکہ پھرہ گھرہ اندرہ آزرده سپدت مسجد نبویکس صحنس اندر رود شھت نندراہ پیہہ تمن مژتہ روی مبارک گو سست نسی بدن مبارکس آیہ گرد ہتھنہ۔ توپتہ وات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ژہانڈان ژہانڈان اتوی مسجد شریفکس صحنس اندر۔ توپتہ وچھک تمن بدن مبارکس مژتہ گرد لار سمرو توپتہ ہژیک سہ گردو تھراون دست مبارک سیت آہتھ پھش پھش دوآن تہ فرماوان آسکھ قم آباتراب قم آباتراب بکمال انس و محبت۔ عرض اللہ تعالیٰ ان فرموو تمن تھومہ بریود شمن ہنزن کنھن ہوندکانہ غم تھہ روزیو ہمیشہ زیادہ متوجہ پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس کن ایہتھ پٹھ کہ قُمْ الْيَلَّ الْأَقِيلًا تھہ آسوروزان رات کہ وقت ایستادہ کھسے کالس نِصْفَةَ مثلاً راژ ہندس نصفس۔ باقی نصفس آسیو آرام کران اَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا یا کر یو نصفہ خوتہ تہ کم کالس عبادت نصفہ خوتہ زیادہ حصص کر یو آرام۔ یعنی راژ ہندس ترتمس حصص آسیو عبادت کران۔ دون حصص آسیو آرام کران۔ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ یا کر یو نصفہ خوتہ زیادہ و قس عبادت یعنی تریو حصوا اندرہ دون حصص اکس حصص آسیو

سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ  
 أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا  
 طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

آرام کران۔ یہ قیام لیل چھو توہ پٹھ فرض مگر وقت قیامس چھ ترہ صورت۔ یا نصفانصف۔ یا ترسمس  
 حصص قیام دون حصص آرام یادون حصص قیام اکس حصص آرام۔ وَدَوَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اتھ  
 قیام لیلس منز آسیو قرآن مجید پران وارہ وارہ صاف صاف یوتھ اکھ اکھ حرف بیون بیون ترہ فجرہ  
 بوزن والین۔ امہ طریقہ پر نہ سیت چھو فہم و تدبرس اندر مدد حاصل سپدان۔ بیہ چھو امیوک اثر دلس  
 پٹھ زیادہ بیوان۔ بیہ چھو ذوق و شوق ہران یہوی حکم چھو نمازہ و رای قرآن مجید ک بار تراونک  
 استعداد توہہ قوی تہ مضبوط سپدہ کیاہہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اسہ چھو تراون  
 توہ پٹھ یعنی نازل گرن اکھ گوب تہ وزن دار کلامہ یعنی قرآن مجید، یمہ کہ ثقلک تہ گو برک  
 یہ حال اوس کہ امہ کہ نازل سپد نہ کہ وقتہ آس نبی کرسمس صلی اللہ علیہ وسلم عجیب  
 کیفیتاہ سپدہ سپدان۔ بدن مبارک اوس گوبان۔ شہ تہ شانل آس تیز سپدان سردی ہندس موسس اندر  
 اوس بدن مبارکس عرق یوان۔ عرق قطرات آس جبینہ مبارک پٹھ ختہ پھلین ہندپاٹھ پتھر پوان۔  
 اکھ پھرہ اوس تہوند زانوی مبارک حضرت زید بن ثابتہ سزہ رانہ پٹھ تھہ حالس اندر ہتون وحی نازل  
 سپدن زید بن ثاقس سپد محسوس کہ رانہ ماسپدس ٹس مگر شہ تہ بیجو کہ نہ کڈت۔ ہر گہ تمہ وقتہ کئی  
 سوارہ پٹھہ سوار آسمن تس سواری آسہ زنگہ پھشان۔ فقط آس ناقہ عضباء مخصوص تہمز سوار تس اوس  
 بروٹھی الہام سپدان سو آس امہ وقتہ پتھر بہان۔ بیاکھ وجہ چھو اس چھو توہ قیام لیلک یعنی رات کہ وقتہ  
 نمازہ پرنگ حکم کران کیاہہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا بیشک رات کہ  
 وقت نندرہ پتہ و تھون عبادت کرنہ خیطرہ یہ چھو زیادہ موثر نفس پامال کرنہ خیطرہ بیہ چھو یہ زیادہ سیو  
 دتہ راست کہہ ون کلامس تہ کتھ۔ امہ ساتہ یہ کنیز ہا پر نہ یوان چھو قرآن مجید یادعا یا اذکار، تم چھہ پر نہ  
 یوان پریشانی و رای کبمال توجہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بیشک توہ چھہ دوہس اندر  
 واریاہ کامہ، دینچہ تہ دنیاہ چہ تہ، لہذا کر یو خدا یہ سنز کوم رات کہ وقتہ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ④  
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩ وَ  
 ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ⑪ إِنَّ  
 لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ⑫ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬ يَوْمَ  
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ⑭ إِنَّا أَرْسَلْنَا  
 إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

تَبْتِيلاً تمہ علاوہ تہ کریو تہ یاد نام پاک پنہ نس پروردگارہ سندر پرت وقتہ بیہ ژئیوڈ دک تعلق سارنی  
 نشہ مشغول تہ متوجہ روز یوتش سیت یعنی ذکر و تہتل چھو پرت وقتک فرض قطع تعلق تہ اندرہ چھو مراد  
 علاقہ خداوندی گوشہ غالب روزن باقی سارنی تعلق تہ پٹھ کیا زہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا سوچھو مالک مشرق تہ مغرب تک تہ ورا ی چھو نہ کاندہ تہ عبادتس لائق۔ پس پشرا  
 یو پختن کوم تہ س یوت وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا بیہ کریو صبر بین لوکن  
 ہزن کھن پٹھ بیہ روز یو تمن نشہ الگ تہ دورر تہ طریقہ تمن سیت مہ تہا دیو کاندہ تعلق۔ رت  
 طریقہ اختیار کرن گو تہنز شکایت مہ کریو، تمن انتقام ہیج فکر مہ بریو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي  
 النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا بیہ ترا یو مہ تہ بیہ تمن انکار کرہ و نین نازو تمن اندر روزن و الین موجود  
 حالتس منز۔ تمن دیو بیہ کینہہ دوہ مہلت تہ کریو بیہ کنہ کالاہ صبر۔ تہندہ سزاعک تہ عذابک وقت چھو  
 و سن قریب إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا \* وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا کیا زہ بے شک اسہ نشہ چھ تم  
 گرفتار کرنہ خیطرہ ہانکھ۔ بیہ تم زانہ خیطرہ نار جنم بیہ تہندہ کھنہ خیطرہ ہنہ نہ وسہ ون خوراک، بس  
 کھوان کھوان ہنس بند آسکھ گوشہان۔ بیہ تہ ورا ی دگ تہ دو دتکھ ون عذاب یوی چیز وسیت آیہ تمن  
 سزاد نہ یوی سز ایک تمہ دوہ دنہ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا بیہ دوہ الہ  
 الہ و تہ ز مینس تہ کوئن بیہ سپدن کوہ ریزہ ریزہ گوشہت پکھ ون سیکھ ہش ای انکار و تکذیب کرہ و نیو۔

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ لِلَّهِ  
 فَكِيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ  
 شِيبًا ۗ ۱٤ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۗ ۱٨ إِنَّ  
 هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ ۱٩  
 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ  
 نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا  
 پیغمبر اُس توه پیچھے قیامتک دوہ گواہی دیہ کہ یمو لو کو کیاہ برتاو کور میانہ تہلینہ پتہ انتھ پاٹ اسہ  
 فرعونس کن اکھ پیغمبرہ سوزمت اوس فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ  
 کرنا فرمانی فرعونس تس پیغمبرہ سنز پس روٹ تہ گرفتار کور اسہ سو فرعون سیٹھاہ سختی سان ہر گہ توه تہ یہ  
 پیغمبر برحق سوزنہ پتہ نافرمانی کر یوتلہ پیہ توه تہ کہ دوہ سو مصیبت تلن، چنانچہ سو مصیبت چھو  
 عنقریب ینہ ؤول فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ہر گہ توه ٹھہر  
 کر یو پس کتھہ پاٹھہ بچو تہ موکلیو توه تمہ دوہہ کہ مصیبتہ نشہ تہج سختی تہ شدت تہ زیادہ آسہ کہ لو کٹین  
 معصوم بچن تان بوڈراوہ سو۔ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا  
 مَفْعُولًا تمسد وعدہ سپدہ ضرور پورہ، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ بے شک یہ سوروی مضمون  
 چھو اکھ بوڈوعظ تہ بد نصیحت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا لہذا تمس خوش کرہ سوہیہ پنہ نس  
 پروردگارس کن وتھہ یعنی سو کرہ خدایس نشہ واتنہ خیطرہ دہنچ وتھہ اختیار إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ  
 أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ بے شک تھوندس  
 پروردگارس چھو معلوم کہ توہہ بیہ توه سیت اکھ جماعتھاہ تمو لو کو اندرہ یم توه سیت چھہ رات کہ وقت  
 نماز پر نہ خیطرہ دوتھان قریب راژ ہندن دون حصن کونہ شبہ بیہ نصف راتس کونہ شبہ راژ ہندس تر تمس

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ  
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

حصص کونہ شبہ واللہ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ہی چھو پورہ اندازہ بکان کرت دُہکت تہ  
 راتک عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تس چھو معلوم کہ توه بیچونہ امہ وکتک اندازہ ضبط  
 کرت لہذا کور تم تہو ندس حالس پٹھ عنایت سو سخت مشقت گوڈنک حکم قیام لیک  
 کرن تہوندہ خیطرہ منسوخ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وون یوت توه آسانی سان قرآن  
 مجید بکچو ہرت تیوت آسیو پران۔ امہ قرآن مجید پر نہ اندرہ چھو مراد تہجد پر نہ تہجد منز قرآن مجید  
 پر نہ یوان چھو۔ یہ چھو استجابی امر مطلب چھو کہ تہجد فرضیت گیہ منسوخ وون ہر گہ توه یڑھو تہجد  
 پر نہ تلہ آسیو پران بیہ چھو تہجدہ کہ منسوخ سپد نگ بیاکھ وجہ کہ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس معلوم کہ توه  
 اندر آسن بعضے لوک بیمار تم ہیکن نہ تہجد حالس اندر رات کہ وقتہ و تہجد تہ تہجد پرت۔ بیہ آسن بعضے  
 لوک خدایہ سند فیض یعنی معاش تہ رزق تہا نڈ نہ خیطرہ ملکن اندر سفر کران تہندہ خیطرہ تہ چھو بیہ  
 مشکل۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ چھو بعضے لوک خدایہ سزہ و تہ اندر جماد کران،  
 تہندہ حقہ تہ چھو تہجد چ پابندی کرن مشکل فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ پس پر یو قرآن مجید یوت توه  
 آسان سپدہ، اگرچہ تہجد حکم وجوب سپد منسوخ مگر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرض  
 نمازہ کریو پابندی سان ادا، بیہ آسیو زکوٰۃ دوان۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ آسیو اللہ



لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

تعالیٰ اس خوش کرنے خیطرہ قرض دوان رت پاک یعنی بکمال اخلاص **وَمَا تَقْتُلُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ** بیہ یوسہ نیک تہ رت عملہ پنہ نہ خیطرہ توه بروٹھ کن سوز یوسولیبون توه موجود خدا ایس نشہ **هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا** سورت عمل آسہ سٹھاہ بہتر بیہ سٹھاہنڈ ثوابہ کن۔ دنیوی معاملن اندر مال خرچ کرنے سیت بس عوض تہ نفع توه حاصل سپدان چھوتمہ خوتہ بہتر تہ بود نفع تہ فائدہ سپدہ توبہ حاصل خیرہ چین کامین اندر خدایہ سندر ضاحاصل کرنے خاطرہ مال خرچ کرنس۔ **وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** اللہ تعالیٰ اس آسیو منگان گنہن مغفرت۔ کیا زہ سوچھو بے شک گنہن مغفرت کرہ دن رحم کرہ دن۔



## سُورَةُ الْمُنْفَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۲ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۳ وَثِيَابَكَ  
طَهِّرْ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۶ وَ  
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۷ فَإِذَا أَنْقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

حدیث شریفین منز چھو آمت کہ ساری بروئٹھ سُپڈ نازل قرآن مجیدہ اندرہ سورہ اقرآک ابتدائی آیات۔ تو پتہ سپڈ بعض حتمن کن نظر کرت کینہہ کالاو جیکس نازل سپڈس اندر تاخیرتہ ماٹھہ تمہ پتہ آس کہ دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ نبر پکان اتی ٹیک آسانکہ طرفہ آواز تو پتہ وژکھہ ہیور کن نظر وچھک جبریل امین اکس تخس پٹھ بہت۔ سوخت اوس آسمان وز مینس منز معلق تمن سپڈ دل مبارکس بہت پیدہ تم آی واپس گھرہ تو پتہ ہتک ہیرہ بونہ وزن تمہ ساتہ آوبیہ جبریل امین یم آیات کریمہ بہت **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** ای کلہ پٹھ وزن ہیوہ ونہ صاحبہ **قُمْ فَأَنْذِرْ** پنہ نہ جابہ نشہ و تھیو تھودتہ سپڈ یو مستعد پس کھوژہ ناویو کہ ساری لوک تی چھو تھوندس منصب بنوس لازم۔ امہ وقتہ آس اکہ زی صاحب مسلمان سپڈ مت تمہ موکھ آیہ نہ بشارتچ ذکر کرنہ **وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** بیہ زانیون پنون پروردگار بوڈ تہزی غظمت کریو بیان تہلیغس اندر چھو گوڈ کوی چیز اشاعت تو حید بیہ گوہہ مبلغہ سُند پانہ عامل آسن، تس پزون پانس اندر رت صفت پیدہ کرن رژہ عملہ رت اعتقادتہ رت اخلاق۔ اکھ چیز گو تھو اندرہ **وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ** پنن پلو تھوادیو پاک۔ امہ وقتہ آس نہ ونہ نماز فرضی سپز مہ لہذا کرکھنہ سچ ذکر کینہہ تہ۔ امہ اندر سپڈ معلوم جامہ پاک آسن چھو لازم نمازہ ورایتہ **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** پرت قسچی پلیدی تہ ناپاکی نشہ روز یو دور **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ** کانہہ مہ دیوکانہہ چیز تمیوک عوض زیادہ حاصل کرنہ خیطرہ نہ علم تہ نہ مال۔ **وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ** بیہ کریو صبر پنہ نس پروردگارہ سندہ رضا خیطرہ ہرگہ تبلیغ ادا کرنس منز کانہہ تکلیف تہ واتوہ۔ یم نہ تھوندہ بیم کرنہ پتہ تہ ایمان انن تھندہ خیطرہ چھویہ

يَوْمَ عَسِيرٍ ۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرِ يَسِيْرٍ ۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ  
 خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۱۲ وَبَنِيْنَ  
 شُهُوْدًا ۱۳ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ  
 اَزِيْدَ ۱۵ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِنِيْدًا ۱۶ سَاْرُهٗقُهٗ

وعید کہ **فَاذْنُقْرِ فِي الْاَنْفُوْرِ** پس یلہ پھوکھ آہ دنہ پوغس منز **فَذٰلِكَ يَوْمَہِیْدًا يَوْمَ عَسِيْرٍ** \* علی  
**الکفرین** سُدودہ آسہ سٹھاہ مشکل دوہاہ کافرن پٹھ **غَيْرِ يَسِيْرٍ** تھہ دوہس منز آسنہ کونہ کج  
 آسانیاہ تھندہ حقہ۔ امہ پتہ چھ ذکر بعضہ خاص کافرن ہنز **ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا** یا رسول اللہ  
 توہہ مہ بریوکانہہ فکرہ تراویومہ تہ تس شخص لیس مہ پیدہ کرکوی، بو بوزہ تس سیت پانے سو شخص  
 گوولید بن مغیرہ، یہ اوس مالس کوی نیجو۔ زینہ وزہ یعنی پیدہ سپد نہ وزہ اوس ننوی تہ چھنوی کانہ چیزاہ  
 اوس نہ سیت نہ مال تہ نہ اولاد **وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا** توپتہ کرس مئے بکشرت مال عطا **وَبَنِيْنَ**  
**شُهُوْدًا** بیہ کرس مئے گبر تہ اولاد عطا ایم تس پرت وقتہ حاضر بُروٹھ کنہ آس آسان، تعیل حکم  
 کرنہ خیطرہ تیار **وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا** بیہ و تھرووی تھندہ خیطرہ عزت و جاہک فرش تہ و تھرن  
 تا اینکه ساری لوکھ آس تس رئیس تہ زبٹھ مانان مگر باوجود آن کرنہ تم یمن نعمن ہوند شکر ادا **ثُمَّ**  
**يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ** توپتہ چھو تس پنہ نہ جایہ خیال کہ بُو کیا کرہ تس اتھ اندر تہ بیہ نعمہ عطا **کَلَّا**  
 تہ بنہ نہ ہرگز **اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِنِيْدًا** کیا زہ یہ اوس سائین آیاتن ہوند مخالف تہ دشمن امندہ  
 خاطرہ چھ زیادتی دنیا و آخرتس منز بند چنانچہ تم آیات کریمہ نازل سپد نہ پتہ رود نہ امس مال و دولت  
 کونہ نہ جاہ و عزت نہ اولاد خوار و ذلیل سپد **سَاْرُهٗقُهٗ صَعُوْدًا** آئندہ آخرتس اندر کھارن بو  
 سُو جھنمس منز تھہ کوہس ہتھ ناوٹھو صعود۔ حدیث شریف چھو صحیح ترمذ لیس اندر کہ فرمود حضرت  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صعود چھو جھنمس اندر کھہ کوہاہ ستن ورین وانہ جھنمی تجھ تالہ پٹھ توپتہ  
 آہ تمہ پٹھ بیہ یون دارت دنہ۔ اُتھہ پاٹھ روزہ سو ہمیشہ اتھ کوہس کھسان توپتہ تمہ کوہہ پٹھ و س

صَعُودًا ۱۷ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۱۸ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹ ثُمَّ  
 قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ نَظَرَ ۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲  
 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَسْحَرُ  
 يُؤْتِرُ ۲۴ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵ سَأُصَلِّيهِ

پوان۔ یہ سزا یہ جس دنہ امی اعتقادہ موکھ تمیوک ذکر کرنہ آو اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ پڑھا تم شخصن  
 کر فکر یہ کرن اندازہ کہ قرآن مجید نسبت کوہ بیچہ لفظ کرہ تجویز توپتہ کرن واریاہ فکر تامل کرت  
 اکھ لغوتہ بے ہودہ کتھاہ پیش فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ پس گڑھن سواڈہ ژوٹ نہ کھوڈہ بوز، کتھ پاٹ  
 کرن یہ اندازہ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ توپتہ گڑھن سو بیہ اڈہ ژوٹ دوبارہ یہ کڑھ کتھاہ کرتم یہ  
 تعجب مکرر کرن ہٹھو اسنز سخت مذمت کرنہ خیطرہ۔ یعنی یہ کڑھ بے ربط کتھاہ کرتم تمیوک نہ کونہ  
 صورتس منز احتمالے ہیچہ سپت کیاہہ سحرج چھہ پرت اکس خبر کہ تمیوک اثر چھونہ زیادہ کالس  
 پوشان سحرک طاقت چھونہ سو کیا ہیچہ غائن پیٹھہ اثر کرت۔ گاتس زمانس تہ آئندہ آوہ وئس زمانس  
 پٹھ اثر کرت۔ یعنی لغو ذباللہ ہرگہ یہ قرآن مجید جود آسہ ہا۔ سو کتھ پاٹ ہیچہ پرت زمانہ کین لوکن  
 جود کرت کہ تم ہیچہ ہن تمہ جاہہ کہ اثر سیت تمیوک مقابلہ کرت جادو گر یعنی اپہ زیور کتھ پاٹ بلکہ علی  
 الاعلان دعویٰ کرنک جرات کرت کہ مثل تہ کتھ کلامس ہیو ہیچونہ توہ جن تہ انسان ہرگز کانہ کلامس  
 پیش کرت ثُمَّ نَظَرَ توپتہ لگ مجلسہ ہندین لوکن اُن بوتھ بوتھ وہجند نہ کتھ یوسہ مہ تجویز کر صہ  
 وناکند نہ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ توپتہ لدن بوتھس بوم وَبَسَرَ توپتہ لگ بوتھ ژکرانہ ڈکس درہ کھارنہ  
 یوتھ لوکھ دپن سمس چھہ سخت نکمت قرائج ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ توپتہ پھیور پتھ اُن بیہ نہ  
 راون غرور تہ تکبر۔ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتِرُ توپتہ ونن یہ قرآن مجید چھونہ مگر بین نشہ  
 نقل کرت جوداہ اِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہ چھونہ کنتہ بشرہ سندہ کلامہ وراہ۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ سند کلام چھونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَمْس دیو توہ وورنہ۔ سَأُصَلِّيهِ سَقَرٌ جلدی و اتاون

سَقَرٌ ۲۹ وَمَا آذُرُكَ مَا سَقَرُ ۳۰ لَا تَبْقَىٰ وَ  
 لَا تَذُرُ ۳۱ لَوْ أَحَۡةٌ لِّلْبَشَرِ ۳۲ عَلَيَّهَا تِسْعَةُ عَشَرَ ۳۳  
 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۴ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ  
 إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۵ لِيَسْتَيَقِنَ ۳۶ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

بوسو جہنمہ کس نارس اندر وَمَا آذُرُكَ مَا سَقَرُ ژہ کوہ چیز زانروی کہ سقر نار جہنم کیا  
 حقیقت چہ لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَذُرُ سونار تراوہ نہ باقی بد نگ کانہ حصاہ زانہ وراي۔ نہ چھڈہ کانہ  
 نافرمانس عذاب کرنہ وراي لَوْ أَحَۡةٌ لِّلْبَشَرِ پُھسرہ والہ ون چھو بٹھ کس دالس یمہ سیت شکل  
 و صورتھ تہ تہ برباد گزھہ عَلَيَّهَا تِسْعَةُ عَشَرَ تھہ جہنمَس پٹھ چھ مقرر کرنہ آمت نُوہ ملک بند  
 بند سردار یم کافرن رنگارنگ عذاب کرن۔ ملاکن ہبوند قوت تہ طاقت چھو سیٹھہ زیادہ جنن تہ انسان  
 ہندہ خو تہ چنانچہ سارنی جہنمن عذاب کرنہ خیطرہ اوس اکوی ملک کافی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کر مقرر گونہ ووہ  
 ملک اندرہ چھو معلوم سپدان کہ کافرن تہ مُشر کن عذاب کرنگ اہتمام چھو سٹھہہ زیادہ۔ کونہ وہن  
 ہوند عدد خاص کرنگ ہر چھو معلوم اللہ تعالیٰ آسی۔ یمن کونہن ملکن ہندس سردارس چھو ناوماک  
 یمہ یمہ آییہ کر یمک مضمون یوزکا فروتم لگ ٹھٹھہ تہ استہزاء کرنہ۔ چنانچہ اکھ کافراہ اکھ اوس  
 ابوالآشدين سُواوس سٹھہہ طاقت ور شخصہہ سو لگ ونہ نہ کہ ای قریشو تہ مہ کھوڑیو۔ یمو اندرہ زہ ملک  
 ہٹاؤکھ توہہ باقی سداھن سیت کر بہ گنی مقابلہ اللہ تعالیٰ ان کراتھہ تردید وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ  
 إِلَّا مَلَائِكَةً اسہ کرنہ جہنمک داروغہ انسان یمن کانہ قوی انسانہ ہٹاؤکھ یمکھا بلکہ کراسہ جہنمک  
 داروغہ صرف ملائک یمو اندرہ اکھ ملک تیوت قوت چھو تھواوان یوت سارنی جنن تہ انسان اولین تہ  
 آخرین قوت چھو چنانچہ حدیث شریفس منز چھو لہم مثل قوۃ الثقلین وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً  
 لِّلَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرنہ اسہ تہوند تعداد یوت اس بیان آو کرنہ مگر کافرن آزمائش کرنہ خیطرہ  
 یوتھہ تہزہ گرا یمن ہبوند سبب بنہ بیہ یوتھہ اٹھ پیٹھ امیک نتائج مرتب سپدان لِيَسْتَيَقِنَ ۳۶ الَّذِينَ أُوتُوا

وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ  
 اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ  
 رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ  
 وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِحُدَىٰ

الْكِتَابِ يُوتِيهِمْ أَهْلَ كِتَابٍ يَبُوزُتَ يَتَقَيَّنَ كَرْنَ كِيَازَه تَمَنَّ آسَه پَنَه نِيو كَتَا بُو مَوْجِبِ اَتَه تَعْدَا دَس  
 مَتَعَلَقِ اِطْلَاعِ خَبَرِ بَرُو نَهْطِي وَيَزِدُّ اَدَّ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوْا اِيْمَانًا يَمِه سِيْتِ بَا اِيْمَانِ هُوْنْدِ اِيْمَانِ زِيَادَه  
 سِپَدَه وَلَا يَرْتَابَ اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا اَلْكِتَابَ وَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ بِيَه رُوْزَه نِه كَانِه شَكِّ نِه تَرُوْدِ اَهْلِ كِتَابِنِ نِه بَا  
 اِيْمَانِ- تَمَنَّ لَحْمَه نِه مُشْرَكِنِ هِنْدَه اِسْتِزَاءِ تَمَسْحَرِه سِيْتِ كُوْنَه قِسْمَه دِهْوَكِه وَلَيَقُوْلُ اَلَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ  
 مَرَضٌ وَ اَلْكَافِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اَللّٰهُ بِهَذَا اَمْتَلًا بِيَه يَمِيْنِ هِنْدِنِ دِلِنِ اَنْدَرِ شَمَكِّ مَرَضِ چِهْوِ لِيْعِنِ  
 مَنَافِقِ نِه ضِيْعَفِ اَلْاِيْمَانِ لُوَكِه بِيَه كَا فَرْنِ پَا تُهْ اَنْكَارِ كَرِه وَ نِ تَمِ وَ نِ كِه بِيَه عَجِيْبِ مَضْمُونِ لِيْعِنِ جِهَنْمَه كِيْنِ  
 دَا رُوْعِنِ هَنْزِ گَرِ نِدُوْنَه اَنْدَرَه كِيَا هِ سَنَ چِهْوِ مَقْصُوْدِ اَللّٰهِ تَعَالٰى اِسِ يَتَه پَا تُهْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اِنِ يَتَه مَعَالِمِ اَنْدَرِ بَا  
 اِيْمَانِ خَاصِ هِدَايْتِ كَرِيَه كَرْنِ اَتَه مَعَالِمِ اَنْدَرِ كَا فَرِ خَاصِ طُوْرِ گُمَرَاهِ كَذَلِكَ يُضِلُّ اَللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ  
 وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَتَه پَا تُهْ چِهْوِ اَللّٰهِ تَعَالٰى گَرَاهِ كَرَانِ لِيْسِ يَشَانِ چِهْوِ تَسِ بِيَه چِهْوِ هِدَايْتِ كَرَانِ لِيْسِ  
 يَشَانِ چِهْوِ تَسِ- جِهَنْمَه كِيْنِ دَا رُوْعِنِ هَنْزِ گَرِ نِدُوْنَه وَ نَسِ اَنْدَرِ چِهْوِ كَمِه كَمِه حَكْمَه، نِه چِهَا كَلِ بِلِ تَوِي فُوْجِ  
 نِه هَرِ گَرِ نِه بَلَكِه وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ اِي يَنْبِيْرِ چَالِ سِ پُرُوْرِدِ گَارَه سِنْدِ فُوْجِ چِهْوِ تَوِيْتِ يَمِيْنِ  
 هِيُوْنْدِ شَمَارْنَه كَانِه نِه زَانِه تَسِ مَعْبُوْدِ بَرِ حَقِصِ وَرَايِ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ يَه جِهَنْمَكِ حَالِ بِيَانِ  
 كَرْنِ چِهْوِ هِنْدِ نَفِيْحْتِ صَرَفِ اِنْسَانِ هِنْدَه خَيْطَرَه كَلَّا وَالْقَمَرِ تَهْتِيْمِ قَسْمِ چِهْوِ زُوْنَه هِيُوْنْدِ وَاللَّيْلِ إِذَا  
 اَدْبُرَ بِيَه چِهْوِ قَسْمِ رَاژَه هُوْنْدِيْلَه سُه گُوْهِنِ چِهْوِ هِيُوَانِ وَالصُّبْحِ إِذَا اَسْفَرَ بِيَه چِهْوِ قَسْمِ صَبْحِكِ يِلَه

الْكَبْرِ ۳۵ نَذِيرُ الْبَشَرِ ۳۶ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ  
 أَوْ يَتَأَخَّرَ ۳۷ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۳۸ إِلَّا أَصْحَابَ  
 الْيَمِينِ ۳۹ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَلُونَ ۴۰ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۴۱ مَا  
 سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ ۴۲ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۴۳ وَلَمْ

سوچو لوان چھو وارہ گاش یوان چھو ستم ہمس بو ہوان ہتھ تھ پیٹھ کہ اِنَّا الْاِحْدَى الْکَبْرِ بے  
 شک جنم چھو بڈیو ہولناک چیز واندرہ اکھ چیز نَذِيرُ الْبَشَرِ پس نیم کرہ ون نہ کھوژ ناوہ ون چھو  
 سارنی انسان لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ تمن سارنی ہندہ خیطرہ ہم توہہ اندر  
 نیکن نہ خیرہ چن کا میں بروٹھ گڑھون یڑھن۔ بیہ تمن نیم نیکیو نہ خیرہ چو کا میونفہ پتھ روزن یڑھن  
 امہ ہمگ نہ کھوژ ناوگ انجام نہ عافیت سدہ ظاہر قیامتک دوہ۔ تمی آی اتھ پیٹھ تمنے چیزن ہند قسم ہاونہ  
 یمن چیزن قیاس سیت اکھ مناسبتہ چھہ چنانچہ زون چھہ ابتداءس اندر بڑان بڑان تمہ پتہ چھہ پورہ نہ برابر  
 سیدت کم ہوان گڑھن بوتان ختم چھہ سپدن یبے چھہ یمہ عالمہ کہ وجودی نہ فنا گڑھن حقیقت تھہ پاٹھ چھہ  
 دوہ کس ایس نہ راتہ کس گڑھہ نس نہ مناسبت یہ دنیا کس ختم گڑھہ نس نہ قیامتکس ایس سیت۔  
 راژ ہیوند ختم گڑھہون گویمہ عالمک ختم گڑھہن صبح پھلن نہ دوہگ یں گوتمہ عالمک ظاہر سپدن۔ امہ  
 پتہ چھہ بیان کران جہنم ہند بعضے حالات كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ پرت شخصہ آیہ پنہ نین  
 کفرہ چن کا میں ہندہ موکھ جہنمکس قیدس اندر بند کر نہ نہ قید تھاونہ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ مگر یں نہ  
 تھہ جہنم منر قید تھاونہ تم لوک یمن نامہ اعمال ایہ دنہ دھس تھس کیتھہ فِي جَنَّتِ تم آسن جنس  
 اندر نہ عیش و آرامس اندر تو پتہ آسن يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ تم جنتی آسن کافرن نشہ  
 تھوند حال تمنے نشہ پڑھان مَا سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ تم با ایمان آسن تمن کافرن پڑھان توہ کم  
 چیزن واتاوہ جہنم یعنی کو پیٹھ علمو موکھ اوہ جہنم اندر واتاوہ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ تم  
 دپچھہ اس آسنہ دنیا س اندر نماز پرہونیواندرہ یعنی معبود برحقس عبادت کرہونیواندرہ وَلَمْ نَكُ

نَكَ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۳۵﴾ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۳۶﴾  
 كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۷﴾ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۳۸﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ  
 شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ ﴿۳۹﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۴۰﴾  
 كَانَتْهُمْ حَمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ ﴿۴۱﴾ فَوَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۴۲﴾ بَلْ يُرِيدُ  
 كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿۴۳﴾ كَلَّا بَلْ لَا

نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ بیه آسنه آس غرمین تہ مسکین ہوندی ہوند حق آسہ پٹھ واجب اوس طعام کھیواون  
 وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ بیه آس تمن لوکن سیت شامل سپدان یم دین حق یعنی اسلام باطل  
 کرئج کوشش کران آس وَكُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّينِ بیه آس اہز زانت انکار کران قیامتہ کس  
 دوہس حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ یوتان اتھہ حالس اندراسہ مرئک وقت ووت یعنی یمو حالئوشہ آے نہ  
 آس باز تا اینکه اتھہ نافرمانی ہندس حالس پٹھ مودا آس فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ پس دیہ نہ کانہ  
 نفع تہ فاندہ تمن شفاعت کرہ وین ہنز شفاعت یعنی تمن کرہ نہ شفاعت تہ سفارش کانہ تمن یلہ  
 امہ کفر و اعراضہ موکھ یہ حالت ہنہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ پس کیاہ گو تمن کہ تم چھہ امہ  
 قرآنہ کہ نصیحت نشہ بو تھہ پھران تہ روگردانی کران تہ ثلاثان کَانَتْهُمْ حَمْرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ \* فَوَرَّتْ مِنْ  
 قَسْوَرَةٍ زن تم چھہ جنگلی تہ وحشی کھر یمسہ وچھت چھہ کھر کھ کھوان تہ ثلاثان۔ امہ تہندہ ثلاثک وجہ  
 چھو کہ تم چھہ پنہ خیالہ قرآن مجیدس کافی دلیل زانان بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا  
 مُنشَرَةً بلکہ چھو تھواندرہ پرت اکھاہ یشھان کہ تس نشہ گڑھہ واتن آسانی خطاہ وارہ مزہ راوت۔ یتھہ  
 خطس اندر بوضاحت لکھت آساخدا یہ سندہ طرفہ خصوصی طور تہندہ ناوہ کہ توہ کر یحضرت محمد ﷺ سنز  
 متابعت اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کیاہہ اچ چھہ ضرور تھہ نہ چھہ یمن تج لیاقت تہ  
 قابلیت یہ در خواست کر نگ وجہ چھونہ یمن کیا چھو دلن اندر پڑھ کر نگ پنٹہ ارادہ بَلْ لَا  
 يَخَافُونَ الْآخِرَةَ بلکہ چھو یہ در خواست کر نگ وجہ کہ یمن چھہ آخراچ پڑھی یمن چھونہ



# يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۵۳ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۵۴ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۵۵ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۵۶

آخر تک عذابِ خوفِ بے تہی چھو نہ یمن پوزھا ننگ خیالے کا نہ کَلَّا یلہ وین تہندہ درخواست کرنک باطل آسن ثابت سپد۔ لہذا بے تہ ہرگز بت صحیح تم خواہش کران چھہ اِنَّهُ تَذَكُّرٌ بلکہ چھویسوی قرآن مجید وعظ نصیحتہ خیرہ کافی بیہ گو نہ خصوصی وعظ چھہ نہ کانہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ اتھ سُن نظر کرت لیس امہ قرآن مجیدہ سیت نصیحت رثن یشہ۔ سورثن نصیحت لیس نہ یشہ سومہ رثن گڑھن گرفتار جہنمہ کس عذابس۔ اسہ چھہ تہمز کانہ ضرورت کہ تس نشہ کیاسو زو اس خصوصی صحیفہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ کتہ کرن تم نصیحت قبول یوتان نہ اللہ تعالیٰ تہوند نصیحت قبول کرن یشہ تمسند نہ یشہن اندر چھہ جہ جہ حکمہ باوجود آن چھو ضرور قرآن مجید بوڈو وعظ تہ ہڈ نصیحت لہذا گڑھہ امہ سیت نصیحت رثن تہ خدایہ سنز اطاعت و فرماں برداری کرن کیازہ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ سوی چھو سو ذات پاک بسندس عذابس کھوژن شؤ بہ بیہ چھو سوی لایق بدن ہندن گنہن بخشایش کرنس یعنی انسانے ڈٹھ کیتھ گناہ کرہ تو پتہ یلہ سو تقویٰ چہ و تہ پتھ تس کھوژہ تو پتہ کرہ توبہ گنہن مگس بخشایش سو پروردگار کرنس سارنی گنہن مغفرت توبہ کرس قبول۔ چنانچہ اکس حدیث شریفس منز چھو آمت لیس بروایت انس بن مالک چھو کہ حضرت آنحضرت تو پرا کہ دودھ یہ آہ کریمہ تو پتہ فرموو کہ قال ربکم عزوجل انا اهل ان اتقى فلا يشرك بى شىء . فإذا اتقانى العبد فانا اهل ان اغفر له یعنی بوچھس پتھ لایق کہ بندہ کھوژن مہ تو پتہ پھرا و نم نہ کانہ اکھاہ کونہ چیزس تہ کونہ کامہ منز شریک تو پتہ یلہ بندہ مہ کھوژ شریک نشہ سپد پاک تمہ ساتہ چھو میون شان ای زہ بو کرہ تہدین گنہن مغفرت۔ (اللہ تعالیٰ تھاون اسہ پنہ نہ فضلہ ورحمتہ سیت ہمیشہ ایمان و توحیدس پٹھ قائم بیہ کرن سانین سارنی گنہن بخشایش۔ آمین یا رب العالمین)



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ① وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بوجھس قسم ہاوان قیامتہ دوھک وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ بیہ جھس  
 بوجھس قسم ہاوان تمہ فسک لیس پان پانس ملامت کرہ محققو چھو لکھمت کہ انسانس چھو نفس اکوی مگر تمہ کیو  
 تر یو حالو منز چھہ تھہ ترہ ناو۔ اگر انسانہ سُنْدُ نفس آسہ مائل عالم علویس کن تو پیتہ آسہ اللہ تعالیٰ سنز عبادت  
 تہ فرماں برداری کران۔ بیہ آسہ تس شریعت پیروی کرنس سکون و قرار محسوس سپدان ہتھہ نفس چھہ  
 ونان نفس مطمئنہ اگر تمہوند نفس عالم سفلیس کن مائل آسہ دنیا کی لذت تہ نفسیہ خواہش اندر آسہ  
 بوڑمت تو پیتہ آسہ بیچھہ کائین تہ بدین کن رغبت کران شریعتہ چہ پیروی نشہ آسہ ژلان تہ گریز کران  
 تھہ چھہ ونان نفس امارہ ہر گہ کونہ وقتہ عالمہ سفلیس کن آسہ نماں شہوتن تہ خواہش منز آسہ بتلا سپدان  
 تہ کونہ وقتہ آسہ عالم علویس کن مائل سپدت یمن چیزن بیچھہ تہ خراب زانت دور ژلان، بیہ آسہ یمو  
 کامیو سبہ شرمندہ تہ نخل گڑھت نام تہ پشیمان سپدت پنے نس پانس ملامت تہ کرڈہ پریٹ کران تھہ  
 چھہ دپان نفس لوامہ یہوی مضمون ایہ بیہ طریقہ تہ بیان کرنہ کہ انسانہ سوند دل چھو گوڈ گوڈہ نفسہ چن  
 خواہش گندہ نس تہ بے ہودہ کائین منز بوڈ تھہ غرق گڑھان نیکی کن گھس نہ رغبتی آسان سو گو نفس  
 امارہ تو پیتہ چھوس ہوش یون روت تہ بیچھہ چھوس فخرہ تران پالیس چھو ہیوان پیون بیچھہ کامیو نشہ چھو باز  
 ہیوان یون محسوس چھو ہیوان کرن کہ مہ کوریہ نہ کرن گڑھہ پنے نس پانس چھو ملامت ہیوان کرن۔ سو  
 گو نفس لوامہ تو پیتہ یلہ پنے نس پانس درست کران تہ سنبھالان چھو۔ دلہ سپت چھو نیکی کن کن رغبت  
 کران۔ بے ہودہ تہ ناجائز کامیو نشہ چھو خود بخود دور روزن ہوان بیچھہ کائین کہہ نچ چھہ کتھے تمہ ہند  
 تصور کرنہ سپت تہ چھو تکلیف تہ انقباض محسوس کران۔ تھہ چھہ ونان نفس مطمئنہ، تہ تس چھو اللہ تعالیٰ  
 نفس لوامک قسم ہاوان کیا زہ اگر کانہ فطرت سلیمہ آسان چھو سو چھو خود بخود دنیا س اندری بیچھہ  
 کائین پیٹھہ نام تہ پشیمان سپدت پنے نس پانس اصلاح کران تہ تس چھو جواب قسم محذوف کیا زہ امہ پتہ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ<sup>۳</sup> بَلَىٰ قَدَرِيْنَ  
 عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ<sup>۴</sup> بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ  
 اَمَامَهُ<sup>۵</sup> يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>۶</sup> فَاِذَا اَبْرَقَ  
 الْبَصَرُ<sup>۷</sup> وَخَسَفَ الْقَمَرُ<sup>۸</sup> وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ<sup>۹</sup>  
 يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفْرُجُ<sup>۱۰</sup> كَلَّا لَا وَاُذَرَ<sup>۱۱</sup> اِلَىٰ

یم آیات چھ تھہ پیٹھ دلالت کران سو جواب قسم چھو کہ توه ساری اُبو بیه دوبارہ مرنہ پتہ زندہ کرنہ قبرو  
 اندرہ کڈت محشرہ کس میدانس اندر سونبراونہ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان  
 چھا خیال کران کہ اَس کیا ہونہ ہر گز تهنزہ اُچہ سونبراونہ تہ جمع کرت انسانہ اندرہ چھومرا داکفر بلی  
 قَدَرِيْنَ عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ اَس کرو کہ ضرور اُچہ جمع، تہ چھونہ اسہ نشہ کینہہ دشوار تہ مشکل  
 کیا زہ جہ اُچہ جمع کرنہ کیا چھہ کتنھہ اسہ چھہ قدرت تمسنزہ لو کچہ اُچہ یعنی او کچہ نینڈا تان سونبرانس جمع  
 کرنس تہ پندہ پندہ جایہ برابر کرنس پٹھ قدرت لیس حصہ بدنک سانہ نظرہ اندرہ مشکل چھو واٹن تہ برابر کرن  
 تھہ پیٹھ یلہ تس قدرت چھہ تمہ گیہ نیچہ نیچہ اُچہ بد نیچہ وُن کیاہ عجائب چھو تس نشہ ہڈ ہڈ تان جمع کرن  
 لیکن بعض لو کہ چھنہ خدایہ سندس قدرتس منز غور کران تھی چھہ قیاس انکار کران بَلْ يُرِيْدُ  
 الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ بلکہ چھو انسان قیاس انکار کرت یژھان کہ آئندہ پندہ نہ زندگی اندر  
 خوف تہ خطرہ ورا ی فسق و فجورس اندر درو دیون یَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تھی چھو بطریق انکار  
 پر ژھان کر کمہ دوہ تہ کتھہ سنس منز آسہ سو قیامت یینہ چھو سو ٹھٹھ پاٹ تہ ٹسنہ پاٹ سوال کرن پس  
 بوزنا ویون فَاِذَا اَبْرَقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پس یلہ اچھہ خیرہ  
 گوہن بیہ یلہ زونہ گرھون لگھہ زونہ کیاہ کتھہ چہ بلکہ یلہ آفتابہ زون یں جمع کرنہ تہ کئی حالت سپدہ  
 آفتابس تہ زونہ یعنی دو شون لگھہ گرھون دو شوے سپدن گٹ تہ بے نور۔ یم یم حالات یلہ تمہ دوہ رونما  
 سپدن يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفْرُجُ یہ معر قیامت انسان گوٹھ حیران بد حواس گوٹھت لگھہ

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲ يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ  
بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝۱۴  
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝۱۵ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

وَن كوت گزده ژلن جايه ته چھين جايه چھناكونه الله تعالى چھو فرماوان۔ كلا ہرگز نہ لاوڈرژ  
ژلن جانی چھنہ کونہ ممکنی چھونہ کانہ کیا پیکہ ژلت اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ تمہ دوهہ آسہ  
سارنی پنہ نس پروردگارہ سزوردارہ اندرہ عدالتس اندر حاضر سیدن تهنزہ پیشی اندر ایستاده روزن  
تھندسی فیصلس بیازن توپتہ چھوس تھہ جايہ واتن یسہ جايہ ہوند سو فیصلہ کر لیس جنٹس یانارس منز  
يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ تمہ دوهہ ایہ اس انس کرمت تہ کراومت پتوم تہ  
بروٹھیم سوروی یادیاونہ بلکہ چھنہ تس باونچ ضرورتھہ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بلکہ چھو  
یہ انسان پنہ نس پانس پیٹھ پانہ دلیل تس چھہ پنہ نین کرتوتن ہنژپانس خبری وَ لَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ  
اگرچہ بروٹھ کن تراوتن سوڈٹھ کتھہ عذرہ تہ بہانہ تم چلنن نہ تمہ دوهہ کینہہ ونہ ناووکھ تمسد تان تہ  
سوروی یہ تم کرمت آسہ، لہذا اندر تہ بہانہ یا انکار کرہ نچ روزنہ گنجایشی۔ یسہ آسہ کریمہ يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ  
منزہ درای زہ مضمون۔ اکھ مضمون گوکہ اللہ تعالیٰ چھو سوروی زانہ ون۔ سارنی چیزن احاطہ کرہ ون  
تس نشہ چھونہ کھٹمت کینہہ تہ دوئم مضمون گوکہ اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھو کہ یلہ سویرٹھان چھہ باقتضاء  
حکمت چھو سو تم علم تہ تم تم واقعات مخلوقن ہنزہ ذہنہ اندر حاضر کران، ہم تھندس ذہن نشہ غائب  
تہ پوشیدہ آسن چھناچنہ تی سپدہ لوکن ہیوند حال قیامتک دوهہ، ستیوم تہ پتوم پیہ تمسن پانے خود بخو دیاد۔  
یلہ یہ سانہ قدرتھہ حقیقت تہ کیفیت چھہ توهہ کیا حض چھو یارسول اللہ پنہ نس پانس تکلیف دوان وحی  
نازل سپدہ نہ کہ وقتہ چھو جبریل امینس سیت سیت پران۔ بوزان تہ چھوہ پران تہ چھوہ محض یسہ اندیشہ  
مؤکھ کہ وحیک کانہ حصہ ماروزہ غیر محفوظ تہ ذہن مبارکہ منزہ نیرہ نبر۔ توهہ کیا زہ چھوہ یسہ اندیشہ کران۔  
یلہ اسہ توهہ پیئمبر بناووه توهہ نشہ چھو اسہ تبلیغ کام ہن۔ سانی کام چھہ تم ساری مضامین توهہ ہنزہ ذہنہ  
مبارکس اندر جمع کرن تہ محفوظ تھاون۔ توهہ کیا زہ چھوہ تمبوک غم بران تہ محنت و مشقت برداش کران  
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِہ مہ آسیو توهہ زبان مبارکس حرکت کران وحی موکلنہ بروٹھ

بِهِ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ  
 قُرْآنَهُ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ ۲۰ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۲۲  
 إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۲۳ وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ ۲۴ تُظُنُّ

یہ خیالہ کہ جلدی سان کرہ ہا بو حیک الفاظ یاد کیا زہ **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** بے شک اسی چھو  
 مطہ یہ قرآن مجید تہوندس دل مبارکس منز جمع کرن بیہ چھو اسی مطہ تہوندہ زبان مبارکہ یہ پرہ ناوان  
**فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** پس یلہ آس یہ قرآن مجید پران آسولعنی سون فرستادہ ملک جبریل امین  
 یلہ یہ پران آسہ تہوند ذہن تہ فکر گروہ تہ ساتہ امہ کس بوزنس کن متوجہ تہ تابع روزن، سیت سیت  
 پرس سیت گروہنہ مشغول روزن **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** تمہ پتہ یلہ توہ لوکن برونظہ کنہ بیان آسہ  
 کرن، تمہ ساتہ تہوندہ زبان مبارکہ یہ بیان کرہ ناوان چھو سانی مطہ یہ مضمون ضمنی طور بیان کرت چھو  
 بیہ قیامتہ کین منکر کن خطاب یوان کر نہ۔ ای منکر انسانہ پتمین تہ برونظہمن عملن پٹھ مطلع کر نہ یون  
 سپدہ ضرور قیامتک دوہ۔ توہ لوکن چھو خیال کہ قیامت سپدی نہ قائم کلا یہ تہوند خیال چھو نہ  
 ہرگز صحیح توہ چھنہ تھ پٹھ کہنے دلیل حقیقتس اندر چھ تھ بیہ کہ **بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** بلکہ چھو توہ  
 دنیاک محبت تہاوان تمکسی مجتہس منز چھوہ توہہ بذت گیمت **وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ** آخرتہ نشہ  
 غافل سپدت چھون سولس پشت تراوان توہندہ قیامس انکار کرنگ بنا چھو دنیاک محبت۔ لہذا زانیو توہہ  
 وارہ کہ قیامت سپدہ قائم ضرور۔ پرت اکھاہ ایہ پنہ نین عملن پٹھ مطلع کر نہ توپتہ ایہ پرت اکس تمن  
 عملن ہنز مزورد نہ رٹن عملن رٹ مزور پچھ عملن پچھ مزور سمیوک تفصیل پتھ پاٹ چھو **وَجُودٌ**  
**يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ** واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بارونق ترو تازہ **إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** تم آسن پنہ نس  
 پروردگارس کن وچھان لذت دیدارہ سیت آسن سرشار، ہشاش تہ بشاش یعنی اسہ وین تہ پھلہ وین  
**وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ** واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بے رونق تہ تکرکروت تہ بوم لد تھ **تُظُنُّ** ان

أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ ۝ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝  
 وَقِيلَ مَنْ سَرَّاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝ وَالْتَمَّتِ  
 السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝ إِلَىٰ رَيْكٍ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝  
 فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلِيَ ۝ وَالْكَفُّ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝  
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ تمن لوکن آسن زانتهی کہ تمن سیت سپده سوی معاملہ نُس تہند کمر پھڑ اوہ  
 ون آسہ یعنی تمن آیہ کرنہ عذاب شدید۔ امہ پتہ چھو دنیاء کس مجتہس پٹھ ز جریوان کرنہ کہ ای انسانہ  
 ژہ اوسٹھ دنیاء س محبوب زانان تہ آخرتس ناپسند تہ نامرغوب زانان کَلَّا سوٹھ چھنہ کیازہ امہ  
 دنیاء نشہ چھہ ژہ کہ نتہ کہ دؤھ مفارقت تہ جدائی کرن توپتہ چھوی ژہ بہر حال آخرتس گن واٹن  
 إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ یلہ زوواتان چھو ہر س پٹھ یعنی انسان چھو مر نہ لگان وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  
 تمہ ساتہ چھو نہایت حسرتہ کن ونہ نہ یوان یعنی بیمار دار چھہ تمہ ساتہ ونان کانہہ پرن وولاہ چھونا نُس  
 تمس پھو کھاہ دیہ ہایا کانہہ علاج کرہ وناہ حکیماہ چھونا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ سومرہ ون چھوپانہ یقین  
 کران کہ یہ چھو دنیاء نشہ عزیزن تہ رشتہ دارن نشہ جداسد نگ وقت وَالْتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ  
 موٹجہ سختی سیت پھس اکھ گرزبیس گرزہ ولنہ یوان۔ یہ چھو علامت سكرات الموتک إِلَىٰ رَيْكٍ  
 يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ یلہ یژہ حالت پیش یوان چھہ، دپنہ چھو یوان امس مرہ ونس، کہ ژہ چھہ ازپنہ  
 نس پروردگار سُن چکن توپتہ خدا نُس نشہ واتنہ پتہ اگر سو شخص کافر آسہ تمسند حال آسہ سیٹھاہ خراب  
 کیازہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلِيَ کیازہ تم آسہہ کرمت تصدیق تہ پڑھ کنس خدایس تہ پیغمبر برحقس بیہ  
 آسین نہ پر مشر نماز وَالْكَفُّ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ لیکن تم کہ بجای تصدیق انکار و تکذیب بیہ بجای نماز  
 و نیاز کرن سخت اعراض ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ اعراض کرت تہ بو تھ پھرت تن گرہ گن  
 چکن یٹھ ماران زن تم لاس لمبت اوس بند کومہ کمرثر آس اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۖ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ  
يُتْرَكَ سُدًى ۖ ۳۶ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْتَنَىٰ ۖ ۳۷  
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ ۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ  
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ ۳۹ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ  
يُجْعَلَ الْمَوْتَىٰ ۚ ۴۰

ای بد بخت چانه بد بختی تباہی تہ خرابی ہونو وقت ووت، اکئی خرابی نہ بلکہ اکہ خرابی پتہ بیاکھ خرابی اکہ  
تباہی پتہ بیاکھ تباہی **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** کیا یہ انسان چھا گمان کران کہ سو کیا  
ایہ تراونہ یلے تس کیا ایہ نہ آزمائش کرنہ امر ونہی کیوا حکا موسیت۔ تو پتہ کیا ایس نہ پر ژہ نہ حساب  
ہینہ۔ بلکہ چھو سو یقیناً مکلف۔ یہ ایہ تس یقیناً حساب و کتاب کرنہ جزاء و سزا دنہ یہ انسان اوس مر نہ پتہ  
زندہ سپد نس محال زانان پتہ آیتہ آس اسمنز کمال حماقت **أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْتَنَىٰ** کیا  
امس چھنا پتون ابتداء معلوم کیا یہ اوسنا گوڈہ محض اکھ منی قطراہ یس پشپاونہ آوزانہ ہندس ششمس تہ بچہ  
دانہ اندر **ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً** تو پتہ بیوتتہ منی قطرس خونہ و تھاہ اکھ **فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ** تو پتہ کرتتہ  
اللہ تعالیٰ ان پیدہ اکھ انسان تس کرن اعضاء بدن برابر **فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ**  
امسی انسانس کر اللہ تعالیٰ ان زہ قسم نر تہ مادہ۔ مرد تہ زنانہ **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُجْعَلَ**  
**الْمَوْتَىٰ** کیا یہ قادر مطلق یم پتہ نہ قدر تہ سیت ابتداء یہ سوروی کینہہ کور اکس بیجان قطرس کرن  
عاقل تہ دانا انسان پیدہ سو بچہ نامر نہ پتہ بیہ دوبارہ تس پیدہ کرت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت من  
قرأ سورة القيامة وقرأ فيها **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُجْعَلَ الْمَوْتَىٰ** فليقل بلى إنه على كل  
شئ قدير یعنی یس سورہ قیامت پرہ تو پتہ پرہ تمیوک پتیوم آ یہ کریمہ الیس ذلك الخ سو پر ن بلی الخ  
ادہ سو پر تن نمازہ منز یا نمازہ ورا ای یس یہ سورہ شریفہ پرہ ون اسہ تس چھو حکم امہ پتہ بلی پر ن۔ بوزہ  
ونس چھونہ پر نگ حکم۔ اتھے پاٹھ چھہ اما مسی یوت پر ن مقتدین چھنہ پر ن کیا زہ لفظ حدیث چھو من  
قرأ اتھ منز چھونہ من سمع یعنی یس بوزہ یہ آ یہ کریمہ تموند گڑھ نہ پر ن واره گڑھہ تامل کرن۔

## سُورَةُ الذَّهَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝  
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ۝<sup>۱</sup> إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا  
 كَفُورًا ۝<sup>۲</sup> إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝<sup>۳</sup>

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝  
 اگھ وقتاہ تھہ وقتس منز اوس نہ سوکانہ چیزہ زیوہ پیٹھ ہون لایق یعنی قابل ذکر۔ انسان اوس نہ بلکہ اوس  
 نطفہ تمہ بروٹھ اوس غذا تمہ بروٹھ اوس چیز جماد اتواندر **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ** اسی  
 گم پیدہ یہ انسان ملناونہ آتس آب نطفس یعنی مردہ سندس آہس تہ زنانہ ہندس آہس سیت ملناوت  
 کیا زہ زنانہ ہنز منی چھ اندر اندری تھندس شکمس یعنی بچہ دانہ اندر جمع سپدان تو پتہ چھ تم دوشوے  
 آب پانہ وان رلان تہ ملناونہ یوان تھہ چھ انسان بنان یتہ ہمہ معنی آتھہ کہ سوماہہ چھو  
 مختلف چیز و سیت مُرکب آسان سپد مُت غرض اٹھسے نطفس کر پیدہ اسہ یہ انسان  
**نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** یمہ طریقہ کہ اس کر سومکلف یعنی پنہ نین حکمن امر تہ نہی  
 واتاؤ و تس نشہ دپوس یہ کرتہ یہ نہ۔ امی سیت کرو اس تس آزمایش تہ امتحان تمی موکھ کر اسہ  
 سو بوزہ ون تہ وچھ ون بیہ کور اسہ تس عقل و فکر عطا غرض کہ سوہیت تہ تم صفت کر اسہ تس عطا یمو  
 سیت تمس اندر مکلف بنہ سچ قابلیت سپز پیدہ۔ تمہ پتہ یلہ تس مکلف بنہ ٹک وقت دوت **إِنَّا هَدَيْنَاهُ**  
**السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا** اسہ کر یو مطلع رٹون کامن پٹھ تہ پیچھ کامین پیٹھ تو پتہ ہاوس اسہ  
 سیز و تھہ یعنی پنہ نیوا حکامو سیت کور اسہ تس گن خطاب۔ تمہ سیت سپد سویا شکر گزار با ایمان۔ یاسپد



إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ  
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُوقُونَ  
 بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعَمُونَ  
 الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ۖ وَأَسِيرًا ۗ

تاشکر گزار کافر یعنی یرہ و تہ دوپ پکن ہر گہ تمی و تہ پوک تلہ گو با ایمان۔ ہر گہ تمہ و تہ پوک نہ تلہ گو کافر۔ وین چھو بیان یوان کرنہ یمن دو شوئن ہیوند جزاوسزا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَاغْلًا وَسَعِيرًا اسہ چھو تیار تھومت کافرن ہندہ خیطرہ ہانکلہ تہ طوق بیہ ذرہ ون نار اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک یم نیکو کار آسن تم چن جنگ شراب طبور پیاو سیت تھ شراب طبورس ملناونہ آسہ آمت جنتہ کہ کافورہ منزہ مویہ ہنہ جنس منز چھو اکھ چشمہ یعنی اکھ ناگہ ئیس اللہ تعالیٰ ان چھو مخصوص کرمٹ مقرب بدن ہندہ خیطرہ سو آسہ خوشبو تہ فرحت افزا تہ سفید تمی مناسبتہ آس و نہ کافور عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا اکھ چشمہ بیہ منزہ چن اللہ تعالیٰ سند خاص بندہ۔ تھ آسن تم خاص بندہ پھران یوگن تمن خوش آسہ کران سو آسہ بون گن پکان ہیورگن پکان چتچہ جو یہ آسن جنتین تابع تھندہ اشارہ سیت توکن پکان یوکن تھنز خواہش آسہ۔ در متورس اندر چھہ اکھ روایت کہ جنتین آسن اتھن منز سونہ سزہ لورہ تموی سیت آسن جوین گن اشارہ کران تمہ جو یہ آسن تھندہ اشارہ سیت تھہ طرفس پکان تھہ طرفس گن تھنز خواہش آسہ گزھان یُوقُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا تم عباد اللہ خدایہ سند بندہ گے تمہ یم پورہ چھہ کران تم واجبات یعنی نذرو نیاز یم تموپانس پٹھ مہ ہمت آسان یلہ تم پانے مہ ہمت چیز پورہ کران چھہ وین یم چیز اللہ تعالیٰ پانے چھہ تمن پیٹھہ واجب تہ مہ کران تمن چیزن ہنز جھہ کتھہ کہ تم تھہ پاٹھہ آسن پورہ کران۔ واجبات ربانی چھہ بکمال اخلاص پورہ کران کیا زہ تم چھہ کھوژان تھہ دوہس یمہ دوچ سختی عام آسہ پرت اکس واتہ وین الاماشاء اللہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ۖ وَأَسِيرًا ۗ تم

لَوْجِهِ اللَّهُ لَا تَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۙ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ۙ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۙ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۙ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۙ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا ۙ

پروردگارہ سند بندہ گے تھے ہم تہندہ محبتہ پنون تیار کرمت غذاچہ کھیوان مسکین تینمن تہ قیدین۔ قید اگر مظلوم آسہ تمند مستحق آسن چھو ظاہرے۔ ہر گہ ظالم تہ آسہ سو کھیوان تہ چھو سخت حاجتہ وزہ جانے۔ طعام کھیوان کھیوان چھ تم زیوہ سیت ونان تمن اِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوْجِهِ اللَّهُ لَا تَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا آس چھ توه کھیوان یہ طعام محض خدایہ سندہ رضامندی خیرہ آس چھنہ توه نشہ امیوک عوض تہ بدلہ یرشہان نہ چھہ زیوہ سیت امیوک شکر و سپاس تہ تعریف و ثنا خوانی یرشہان ایس چھو توه محض خدایہ سندہ رضامندی خاطرہ بیمہ مؤکھ کھیوان اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا آس چھہ پنہ نس پروردگارہ سندس تھہ دوہس کھوژان بس بو تھہ ژکر تہ سیتھہ سخت آسہ امید چھہ تہاوان کہہ مخلصانہ عملن ہندہ برکتہ تہاوہ سواسہ تمہ دوہہ چہ سختی تہ تلخی نشہ محفوظ۔ امہ اندر سپد معلوم کہہ آخر تکہ خوف سببہ کانہہ کامہ کرن چھونہ خلاف اخلاص فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا پس رچھہ تمن اللہ تعالیٰ اطاعت و اخلاصہ کہہ برکتہ تمہ دوہہ پرت سختی نشہ بیہ کر کہہ بو تھین ہنز تازہ گی تہ دلن ہنز خوشی عطا۔ یعنی بو تھیوک نور تہ دلک سرور وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا بیہ دیہ تمن تہندہ اللہ تعالیٰ صبر و استقامتہ بدل جنت تہ جنتک پاٹیو جامہ تھہہ حالس منز کہہ تم آسن تمن جہنن منز پادشہن ہند پائٹھ لعل و جو اہر و سیت جر متن تنن پٹھ عزت و آرامہ سان بہت لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا نہ لبن تہ آفتابچ تپش تہ گرمی۔ نہ لبن تیر تہ سردی بلکہ آسہ تیر خوشگوار موسم۔ گاش آسہ تیر عرش مجیدک نور۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝<sup>۱۵</sup>  
 قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝<sup>۱۶</sup> وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا  
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝<sup>۱۷</sup> عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝<sup>۱۸</sup> وَيُطَوَّفُ  
 عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا  
 مَّنثورًا ۝<sup>۱۹</sup> وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝<sup>۲۰</sup>

جنت کین کلین ہوند خوشگوار سایہ آسہ تمن کھ تل وذلک تَطَوَّفُوا لَدُنَّ لَيْلًا نمر اوند آسہ آمت تمن کلین ہوند میوہ تیوت کہ تکلیف و مشقت و رای آسن تم سومیوہ استعمال کرت پرت حاس اندر ووند نہ بہت نہ شوبخت نہ۔ سو آسہ تمن تابع تہاوند آمت تہہ پانٹھ خوش آسکھ کران تہہ پانٹھ آسن کھوان ويطاف عليهم بأنبياء من فضة واكواب كانت قواريرًا \* قواريرًا من فضة۔ بیہ یں تمن نشہ کھنہ چنک چیز پیش کرنہ روپہ سندین بانن نہ روپہ سندین ژ کدار ارجورن منزیم روپھ ہی آسن سفید شیشہ ہی آسن شفاف نہ صاف۔ روپھ سند آستھ آسن شیشہ ہی شیشو آستھ آسن روپھ ہی قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ یمن آرجورن منز پھرن وال اکہ خاص انداز موجب پھران آسن نہ تہہ کن جنتین خواہش گوہان آسہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ بیہ یں جنتی تمن جنتن اندر تمہ شرابہ علاو تہہ کافور ملانندہ آسہ آمت بیہ نہ بیاکھ قسم شرابک چاوند، تہہ منز شونٹھ ہوند ذائقہ نہ مزہ لبندہ یوان آسہ۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ امہ قسمہ شرابک نہ آسہ اکہ چشمہ تہہ تہہ وند نہ آسہ یوان سلسبیل وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ۔ بیہ آسن تمن بروٹھکن چیز بہت یوان گوہان تم خوب صورت لوکت پچہ تمہ قسمہ حسین و جمیل آسن کہ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا۔ یلہ ژہ ای مخاطب تم وچھہک اورہ یور کران ژہ کرکھ گمانہ ہم ماچھ چھمکن نہ آمت حجتہ پھل تہہ آسن تم زندہ بان وَاِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ای مخاطب جنگل حال کیاہ آیہ وندہ، سوسدی ژہ تیلہ معلوم یلہ ژہ پانہ وچھک۔ وچھک ژہ کہہ کہہ عظیم الشان نعمو بیہ سٹہا بند سلطنت یوسہ ادنی جنتیس عطا آیہ

عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوٌّ أَسَاوِرٌ  
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ  
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۳۲﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ  
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۳۳﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً  
 أَوْ كُفُورًا ﴿۳۴﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

کرنه سوگیه کمن دنیاءن برابر عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ پشهیدوم پوشاکه تموند آسه زایول سبزپوٹ ته سوت وونموت وَحُلُوٌّ أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ بیهین لاکنه جنتین روپه سند کریمین کرن هیوند حُسن و خوبی بیانے ہنہ نہ کانہ کرت وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا بیه چاوه تمین پنون پروردگارہ پاک و پاکیزہ شراب نِس نہ دنیاءک شراب پاٹھ عقل زائل کرهون آسه یابد بودار آسه بلکہ آسه سومعطر ته مُشک دار، حدیث شریف منز چھو آمت لیس دنیاءک شرابک اکھ قطرہ چیه سو سپده محروم آخرتس اندر جنتہ کہ شراب طہورہ نشہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ونہہ ایک بے شک ای جنتیویہ چھ تو ہندہ خیطرہ تو ہنزن عملن ہنزمزور، تو ہنز کوشش ته جدوجہد چھو قابل قبول ته قابل تعریف یہ بوزت گوہن جنتی زیادہ خوش۔ ای پیغمبر توه بوزوہ کہ تو ہندین موافقن کوسہ رثمزر آیه عطا کر نہ تموند مخالفن کوسہ سزایا یہ ونہ لہذا مہ کریو توه تہنہ ہ مخالفک کانہ پرول۔ توه روز یو مشغول پنہ نین کامین سیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بے شک اسہ کرنازل توه یہ قرآن مجید وارہ وارہ ہنہ ہنہ یو تھ توه ته واتاویو لوکن وارہ وارہ ته ہنہ ہنہ یہ سیت تمین آسانی سپدہ وارہ وارہ زانن تم پنون نیک و بد۔ بیه چیکھ زانن کمور ژو عملو سیت چھو حاصل یوان کر نہ رضای خدا ہر گہ ہتھ پاٹھ فکرہ تارنہ سیت ته تم مانن نہ پنہ نسی انکارس پٹھ روزن قائم فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كُفُورًا توه روز یو پنہ نسی پروردگارہ سندس کھمس پٹھ مضبوط ته محکم بیه پیاریو تہندس آخری فیصلس۔ توه روز یو بدستور تبلیغ و دعوت کران احکام الہی لوکن واتاوان اتھ اندر مہ مانبو

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۲۷﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۲۸﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ  
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا اشْتَبَدْنَا بِأَمثَالِهِمْ تَبَدُّبًا ﴿۲۹﴾  
 إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۳۰﴾ وَمَا  
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾

توہ کا نسہ فاسقہ سزیا کافرہ سزکا نہ کتھاہ۔ کافر واندرہ عتبہ نہ ولید وغیرہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم دنیوی لالچ دتھ تبلیغ و دعوت نہ نشہ پتھ رتان اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ کہ یوم منزہ یوتھ نہ توہ کا نسہ  
 ہنز کتھ مانیو۔ یہ تبلیغ و دعوت گیہ سو عبادت سمیوک فیض بین واتان چھوامہ پتھ چھو اللہ تعالیٰ تمہ  
 عبادتک حکم فرماوان سمیوک فائدہ خاص پنہ نس ذاتس چھو **وَإِذْ كُورِ اسْمَ رَبِّكَ بِكُورَةٍ وَأَصِيلًا** بیہ  
 آسیو پنہ نس پروردگارہ سندن نام پاک یاد کران محس نہ شامس **وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا  
 طَوِيلًا** بیہ آسیو راز ہندس منہ حصص منزلس سجدہ دووان امہ اندرہ چھو مراد شام نماز نہ خشن  
 نماز۔ بیہ آسیو تہنزی پاکیا بیان کران شبہ کس زٹٹھس حصص منز۔ تمہ اندر چھو مراد نماز تہجد و اللہ اعلم  
**إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا** بے شک یم تہند دشمن یم نہ تہنز  
 نصیحت نہ ہدایت قبول چھ کران یم چھہ دنیاء ک محبت تہاوان تمی چھک نہ اتھ و تھہ یوان تہوند حکم مانہ  
 نس گن دنیاء ک محبتن چھہ تم ان نہ زر کرمت۔ بیہ چھہ تم ہتھکن تراوان سووہ ہس گوب یعنی سٹھا مشکل  
 نہ خطرناک چھہ۔ بلکہ چھو یم تھہ دوہس انکاری کران۔ یم چھہ زانان کہ قبرہ ہنزہ مرثہ منز روزت کوہ  
 کرہ اسہ بیہ پیدہ اللہ تعالیٰ چھک تھہ جواب فرماوان کہ **نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ** اسی کرتم گووہ  
 پیدہ اسی کر تہند بند نہ استخوان مضبوط۔ ازتہ چھہ اسہ سو قدرت بدستور موجود۔ **وَإِذَا اشْتَبَدْنَا بِأَمثَالِهِمْ تَبَدُّبًا**  
**أَمْثَالَهُمْ تَبَدُّبًا** اسی ہر گاہ یڑھو اسی کویہنز موجودہ ہستی ختم کرت تو پتہ کبوک اس سٹے ہی سمو  
 بدل پیدہ کرت **إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ** بے شک یہ سوری یہ بیان آو کر نہ یہ چھہ اکھ نصیحتاہ زور جبر

# يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۳۱

کرنج چھنہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس یس خوش کرہ یہ نصیحت بوزت سو کرن اختیار پنہ نس پروردگار س نشہ واتق و تھ یہ قرآن مجید چھو یقیناً در ذات خود اکھ ہڈ نصیحتاہ لیکن وَمَا كَثَّرْنَا وَلَا نَكْثَرُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ توه، بھیند نہ کانہ چیز یشھت مگر تی یہ اللہ تعالیٰ یشھ بعضے لوکن ہندہ حقہ چھ آسان خدا یہ سندس نہ یشھنس اندر جہ جہ حکمہ کیا زہ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھ پانہ سیٹھہ زانن وول سٹھہ حمہ وول يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ سولیس یشھان چھو تس چھو بیشک سٹھہ رحمتس منزواتا وان۔ یس یشھان چھو تس چھو شرک و کفر س بُتلا کران شرک انہ موکھ چھ تم ظالم بنان وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ظالمن ہندہ خیطرہ چھو تم تیار تھامت دگ تہ دود تله ون عذاب۔



## سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ  
 نَشْرًا ۝۳ فَالْفُرْقَةِ فَرَقًا ۝۴ فَالْمَلَقِيَةِ ذِكْرًا ۝۵ عُدْرًا أَوْ  
 نُذْرًا ۝۶ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝۷ فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَ  
 إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝۱۰ وَإِذَا الرَّسُلُ  
 أُقْتَتَ ۝۱۱ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲ لِيَوْمِ الْفُصْلِ ۝۱۳ وَمَا أَدْرَاكَ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم چھو تمن ہوا عن ہونندیم نفع تہ فائدہ و اتناوندہ خیطرہ تراوندہ چھو یوان  
 فَالْعَصْفِ عَصْفًا توپتہ چھو قسم تمن ہوا عن ہونندیم تیزی سان پکان چھو یمن اندر خطرک  
 احتمال چھو آسان وَالنَّشْرِ نَشْرًا توپتہ چھو قسم تمن ہوا عن ہونندیم ابرن تلت چھو تمن  
 مژراوان، یمہ پتہ ادہ رود چھو ہوا یوان فَالْفُرْقَةِ فَرَقًا توپتہ چھو قسم تمن ابرن ہونندیم ابرس  
 چھو چھلہ کران، یوسہ صورت ابرس رود پتہ پتہ چھو سپان فَالْمَلَقِيَةِ ذِكْرًا توپتہ چھو قسم تمن  
 ابرن ہونندیم خدایہ سند یاد دلن منز تراوان چھو۔ یا خدایہ سند خوف پیدہ کران چھو عُدْرًا أَوْ نُذْرًا  
 تو بگ خیال یاد خدایہ سند خوف دلس منز پیدہ کران چھو۔ امہ پتہ چھو جواب قسم سو گو إِنَّمَا  
 تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ یمہ چیزک تودہ وعدہ کرنہ یوان چھو سو چیز چھو ضرور واقع سپدہ ون یعنی قیامتک دودہ  
 فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ پس یلہ ستارہ گٹ تہ بے نور سپان وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ بیہ یلہ آسانس  
 وول گدھن وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ بیہ یلہ کوهین وڑہ نانہ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتَ بیہ ساری پیغبر مقرر  
 کر قسم و قس پٹھ پنن پنن امتی بیت پیشین کرنہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ تودہ چھو کینہہ معلوم کہ کمہ

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۱۳ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۵ أَلَمْ  
 نُهَلِكِ الْأَوَّلِينَ ۱۶ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۱۷ كَذَلِكَ  
 نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۱۸ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۹ أَلَمْ  
 نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۲۰ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۲۱  
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۲۲ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ ۲۳ وَيْلٌ

دوہ خیطرہ اوس پیغمبرن ہیوند معاملہ ملتوی آمت تہانہ لیلومر الفصیل سو معاملہ اوس ملتوی  
 تہانہ آمت فیصلہ کہ دوہ خیطرہ وَمَا أَذْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ توہ چھا معلوم کہ فیصلک دوہ کیوتھ  
 چھو۔ سو چھو سیٹھاہ سخت مشکل تہ خطرناک وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ سخت تباہی تہ مصیبتک  
 دوہ چھو قیامتس اپز زانہ ونین ہندہ خیطرہ مکرین قیامت چھ خیال کران کہ یہ کتھ پاٹھہنہ کہ ساری لوکھ  
 کیامر نکتہ انسان روزنہ دنیاہ اس اندر موجود تمیوک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ أَلَمْ نُهَلِكِ  
 الْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ کیا اسہ گال ناعذابہ سیت بروٹھم لوکھ یم کفر و انکار کران  
 آس۔ توپتہ تہاوو کہ اس تمن تالچ پتہ اوہون تہ یم تہندی پاٹھہ کفر و انکار کرن یوسہ ہستی الگ الگ  
 و قس اندر بڈین بڈین مضبوط تہ طاقتور انسان ختم ہیچہ کرت سو ہستی ہیچناسارنی نافرمان کی وقتہ رٹھہ  
 تہ گرفتار کرتھ تمن عذابک مزہ ژہناوتھ کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بیٹھہ پاٹھہ چھہ اس  
 نافرمان تہ جُر میں سزا دووان وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ تباہی چھہ تمہ دوہہ قیامتس اپز  
 زانہ ونین ہندہ خیطرہ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا اسہ کردہ ناتوہ پیدہ اکہ بے قدر آبہ قطرہ  
 نشہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ توپتہ تہاوو سو آبہ قطرہ اکس محفوظ جایہ اندر، یعنی  
 ماجہ ہندس رَحْمٰس اندر اکس مقرر و قس تان یعنی نون رتین تان فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ اسہ  
 کر یمن سارنی تصرفاتن ہیوند اکہ خاص اندازہ کس کیوتھ رت اندازہ کردہون چھہ اس تریہ فکرہ ژیہ  
 سین قدرت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وون یم لوکھ پزن کتھن اپزہ زانتھہ انکار کرن تہندہ خیطرہ



يَوْمِ مِذْيَلِ الْمَكْدِبِينَ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾  
 أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شَاهِجَاتٍ وَ  
 أَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكْدِبِينَ ﴿٢٨﴾  
 انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ  
 ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْكَلْبِ ﴿٣١﴾  
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِجَالِ الْغَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ  
 يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكْدِبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا

چھو افسوس تہ تباہی قیامتک دہہ **أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا** \* **أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا** کیا اسہ کرنا یہ زمین  
 پائس منز زندن تہ مردن جمع کرہ ون کہ زندگی تہ چھ ساری اتھ ز مینس پٹھ بسر کران تہ مر نہ پتہ تہ  
 چھ آسی مژہ منزواتان اولمہ منزہ دوبارہ بیدہ کرن کیاہ مشکل چھواسہ نشہ **وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ**  
**شَاهِجَاتٍ وَ أَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا** بیہ کرناواسہ اتھ ز مینس پٹھ تھند بال گبراونہ خیطرہ بیہ چاودناواسہ  
 توبہ میوٹھ آب **وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكْدِبِينَ** ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ منکران **انْطَلِقُوا إِلَى**  
**مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ** ونہ ایہ تمن منکران قیامت دوہہ توبہ پچھو تھہ عذابس کن سبتھ توبہ انکار کران  
 آسوہ **انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ** توبچھوترہ شاخل سائلس کن **لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ**  
**الْكَلْبِ** لیس نہ ٹھور کرہ ون آسہ آفتابچہ گرمی نشہ نہ جھنمچہ طپشہ نشہ بیہ آسنہ فاندہ دوآن بچاواک  
 جھنمہ چونارہ رہیونشہ **إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِجَالِ الْغَصْرِ** بے شک جھنم آسہ تراوان تمبرہ تھرن لرن سومبہ  
**كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ** زن تمہ تمبرہ بون پنہ کہ وقت زردوٹن سومبہ آسن کھسہ وزہ آسن تمہ تمبرہ  
 لرن سومبہ وسنہ وزہ آسن دوٹن سومبہ **وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكْدِبِينَ** ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ  
 انکار کرہ ونین **هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ** یہ گو سو دہہ بیہ دوہہ نہ تم تھہ بیکن کرت **وَلَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ**



وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ  
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿۳۸﴾ وَيْلٌ  
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۰﴾

خدا ایس کن نمو یعنی نماز پر یو تم چھنہ نمان و یل یومئذ لکمذبین افسوس تہ ویل یومین تمہ دوھ  
 انکار کرہ و نین فی آی حدیث بعدہ یومئذ پس تھ سنا تھ پیٹھ کرن تم پڑھ تہ یقین قرآن مجید  
 پتہ۔ (آمننا باللہ و حدہ)



## سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ ۙ ۱۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۙ الَّذِیْ هُمْ  
 فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۙ ۱۲ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۳ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۴ اَلَمْ  
 نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ ۱۵ وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ۱۶ وَ خَلَقْنٰکُمْ  
 اَزْوَاجًا ۙ ۱۷ وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا ۙ ۱۸ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ۙ ۱۹

نقل چھو آمت کرنے زہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نین پاٹھ لوکن دعوت حق کرن  
 ہوت قرآن مجید کلام خدا بوزناوک لوکھ۔ بیہ کروکھ قیامتہ دوہک نیم۔ کافر لگ تہندس نبوتس  
 منز قرآن مجیدہ کس نازل سپدنس منز۔ قیامتہ کس واقع سپدنس منز ترددتہ اختلاف کرنہ اکھ اکس نشہ  
 یانہی کر تسم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یابا ایمان نشہ لگ پرڑہ پرڑہ کرنہ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو مچی ذکر  
 فرماوان **عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ** کہہ چیزک چھ یم کافر پرڑھان **عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ** کیا بچہ خبرہ ہوند  
 چھاتم پرڑھان **الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ** تہہ خبرہ منز تمس پانس تہ اختلاف چھو کا نہہ چھو نہ کونہ  
 تہہ پیٹھ ثابت اڈچھ ونان نبی کر تسم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھو ونان اڈ  
 سحر اڈ شعر اڈ کہانت۔ قیاس تہ چھہ اڈ دپان آسہ مگر معبودان باطل کرن شفاعت تمی سیت موکلو اڈہ  
 چھہ بالکل تہہ منکری اڈین چھو شک تہ تردد تہہ کس آس تہ نہ آس منز **کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** ہر گز یمین  
 کھن منز اختلاف فہمخائش ہنہ عنقریب زان کہ یمہ تہہ چھہ پڑہ **ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** بیہ چھسک بو فرماوان  
 یہ اختلاف تہہ شک لہ نہ کرن بروٹھ پین زان تم اچ پورہ حقیقت **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا** کیا اسہ  
 گرنازمین و تھرنہ **وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا** بیہ کرنا آسہ کونہ تہہ بال میٹھ **وَ خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا** بیہ کردہ آسہ  
 تونہ پیدہ جورہ جورہ یعنی مرد تہہ زنانہ **وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا** بیہ کراسہ نندر تو ہنز تونہ آرا مگ سبب

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝۱۲ وَ  
 جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝۱۳ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً  
 ثَبَّاجًا ۝۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝۱۵ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا ۝۱۶ إِنَّ  
 يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ  
 مَاتُونَ أَفْوَاجًا ۝۱۸ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝۱۹ وَ  
 سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ  
 مِرْصَادًا ۝۲۱ لِلطَّغْيِينِ مَابًا ۝۲۲ لِيُثْبِتِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝۲۳

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا بیه کراسه رات پوشاکه وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا بیه کراسه دوه ضروریات  
 زندگی حاصل کرنک وقت وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا بیه کھاراسه توه پیٹھ کن ست آسمان درتھ  
 محکم وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا بیه کراسه آسمان اندر ژونگہ پرزلہ ون زینجہ گاشہ خیطرہ سوگو  
 آفتاب وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا بیه ترواسہ چیرنہ آیتوا برومنزہ آبہ سیٹھہ پشپہ ون  
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا یوتھ کڈواس تمہ سیت غلہ بیه گاسہ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا بیه گھن باغ یم گلیہ سیت  
 برت آسن یمن چیزن اندر چھہ دنیاہ س منز توه ساری انسانن شرکت مگر آخرتس یہ حال روزانہ بتہ  
 آسن ساری الگ الگ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا بے شک فیصلک دوه چھو مقرر کرنہ آمت  
 يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مَاتُونَ أَفْوَاجًا بیه دوه پھوکھ ایہ دنہ پوغس منز تو پیتہ ہیو توه یون فوجو فوجو  
 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا بیه ین مژا ونہ آسمان پس بن تھہ دروازہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ  
 فَكَانَتْ سَرَابًا بیه ین پکاند نکوہ پس سپدن تم سیکھ ہی إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا بے شک جنم چھ  
 زاگہ روزت تہ اشکار کران ساری چھو یکن تمہ پیٹھ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَإِنَّ مِنْكُمْ لَأُولَادًا

لَا يَدُ وَقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿۲۶﴾ إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ﴿۲۷﴾  
 جَزَاءً وَفَاقًا ﴿۲۸﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿۲۹﴾  
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿۳۰﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿۳۱﴾  
 فَذُوقُوا فَلَنتُ زَيْدًا كُمُ الْأَعْدَاءِ ﴿۳۲﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿۳۳﴾  
 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿۳۴﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿۳۵﴾ وَكَأْسَادٍ هَاقًا ﴿۳۶﴾  
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿۳۷﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ  
 حِسَابًا ﴿۳۸﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ

توہ اندرہ پھنہ کانہہ اکھاہ نہنہ تھہ پھہ واتہ لِلطَّغِينِ مَا بَا سَوٰی جنم چھو سر کشن ہندہ واتہ نَج جَای  
 لِبٰثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا روزہ ون آس تھہ منزورہہ وادن یعنی بے شمارورین۔ لَا يَدُ وَقُونَ فِيْهَا  
 بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* اِلٰحِيْمًا وَغَسَاقًا تہن نہ تم تھہ تھہ منز کونہ قسمک شجاردہ کونہ قسمک چنہ چیزہ  
 مگر چمین ربرہ ہون بیدہ دو متین تانن ہیوندرس۔ جَزَاءً وَفَاقًا مزورہ ایک دنہ عملہ موافق اِنَّهُمْ  
 كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا پزپاٹھ آسنہ تم امید تھوان حسانج۔ وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَابًا بیہ آس  
 انکار کران تہ پزگنزران سائین آیاتن سخت سٹھاہ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتَابًا بیہ چھو پرت چیزہ  
 تہنرہہ و عملہ اندرہ لکھت تھاموت گنزر اوت فَذُوقُوا فَلَنتُ زَيْدًا كُمُ الْأَعْدَاءِ وین تہو مزہ پنہ نین  
 کائین ہیون دپس ہر راوونہ اس مگر عذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا پزپاٹھ پر ہیز گارن کھدہ چھ ہنڈرستہ  
 گاری تہ کامیابی حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا باغ میو وسیت برت بیہ دچھ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا بیہ پھنہ پھٹ کرہ ونہ  
 نوجوان زنانہ یہہ اکی ونیسہ آس وَكَأْسَادٍ هَاقًا بیہ پیالہ شراب طہورہ سیت بربر۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا  
 لَغْوًا وَلَا كِذَابًا بوزن نہ تمن جستن منز بے ہودہ تھہ بیہ نہ اپز جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا بیہ آیہ

لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خَطَابًا ۖ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ  
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ  
ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا ۖ إِنَّا  
أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا  
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ

تمن مزدور نہ ہونے پروردگارہ سندہ طرفہ یارسول اللہ خشخشہ پور حسابہ موجب رَبِّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھو تمہ سار کسی پروردگارہ سندہ طرفہ۔  
الرَّحْمَنِ لیس رحمتہ ول چھو۔ لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خَطَابًا اختیار آسکھنہ تس نشہ تھہ کرہ تک یَوْمَ  
يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا بیہ دوہ ساری جان دار روحہ وال بیہ ساری ملائکہ ووندہ رُوزن صف  
دت لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ یم ساری بیکن تھہ کرت مگر کرہ تھہ سوی لیس حضرت رحمان  
اجازت دیہ وَقَالَ صَوَابًا بیہ ونہ کلامہ درست ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ بیہ قیامتک دوہ چھو پوز فَمَنْ شَاءَ  
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءًا لیس لیس اکھاہ بڑھ سو کرہ پنہ نس پروردگار س نشہ واتج جای ایمانہ سیت رثہ  
عملہ سیت۔ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا پڑپاٹ اسہ کر بیم توہ اکہ نزدیک اوونہ عذابک یَوْمَ يَنْظُرُ  
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا بیہ دوہہ وچھہ پرتھہ اکھاہ تہ سوروی بیہ برو تھگن سوزمت آسہ تہندیوا تھو یعنی  
بیہ عملہ تم کرہ مژ آسَن وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بیہ دیہ تمہ دوہہ کافر کونہ اوس  
بومشری۔



## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالزُّرْعَةِ عُرْقًا ① وَالنُّشْطِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحِ سَبْحًا ③  
 فَالسَّبْقِ سَبْقًا ④ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ  
 الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧  
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩  
 ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخْرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫

وَالزُّرْعَةُ عُرْقًا قسم چھو تمں ملائک ہوندیم کافرن ہوند زوکڈان چھ سختی سان وَالنُّشْطِ نَشْطًا بیہ چھو قسم تمں ملائک ہوندیم باایمان ہند روح کڈان چھ نرمی سان گنڈیلہ تراوان چھ وَالسَّبْحِ سَبْحًا بیہ تمں ملائک ہوندیم آسمان وزمینس منز پھیران چھ ژھانٹہ وایان فَالسَّبْقِ سَبْقًا بیہ تمں ملائک ہوندیم حکم مان نس منز بروئٹھ گڑھان چھ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا بیہ تمں ملائک ہوندیم دنیاک انتظام کران چھ سانہ حکم۔ جواب قسم چھو حذف کرنہ آمت سوگو لتبشٹن توه ساری ایومرنہ پتہ ضرور بیہ زندہ کرنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تھی دوہہ بیمہ دوہہ الراوہ تہ ڈھنہ وہ ساری چیزن الراوہون سوگو پوٹک گوڈنیوک پھوک تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ پتہ آہی تھہ پتہ آوہون ہیاک پھوک دون پھوکن منز آسہ مدت ژتجوری قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وارہین ہند دل آسن تمہ دوہہ ٹان أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ اچھ تہزہ آسن بون گن نمت يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ایم لوک قیاس منکر چھ تم چھ ونان کیا اس بیمہ پوت پھیرت نہ بروئٹھس حالس گن یعنی مرت گڑھو بیہ زندہ ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخْرَةً کیا اس سپدہ بیہ زندہ یلہ سانہ اڈجہ آسن دودر سموہ ژھوژھہ گمہہ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ



فَانْتَاهَى زَجْرُهُ وَاحِدَةٌ ۱۳ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴ هَلْ اُنْتُكَ  
 حَدِيثُ مُوسَى ۱۵ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶  
 اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ۱۷ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ  
 تَزَلَّيْ ۱۸ وَاَهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۱۹ فَاَرَاهُ الْاَيَةَ  
 الْكُبْرَى ۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۲۱ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى ۲۲ فَحَشَرَ  
 فَنَادَى ۲۳ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى ۲۴ فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ

خَاسِرَةً دینہ لگ سوزندگی چھ ادھ پھیرت سن تاوان تہ نقصان فَاَنْتَاهَى زَجْرُهُ وَاحِدَةٌ پس قیامت  
 چھنہ مگر کئی اکھ سخت کر کیکہ یوسہ پونہ منزیرہ یان سو کر یک گزہہ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ تان بین تم  
 واتھ محشر کس میدانس منز ہل اُنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا توہ چھو بوزمت حضرت موسیٰ سند قصہ یا  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى یلہ آلودیوت تس ہن پروردگار  
 پاک میدانس منز تھ ناو چھو طوی نس کوہ طورس بھتہ چھو اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى گزہیو  
 فرعونس نشہ پیغام ہتھ کیا زہ پز پائٹھ سوچھ حدہ ڈولمت فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَلَّيْ پس دیپو تس  
 کیا تھ چھو یہ کانہ خیالہ پاک گزہ ہنک کفر و شرکہ نشہ۔ وَاَهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى بوہاوے تہ  
 وتھ پنہ نس پروردگارس نس پس کھو ٹک تہ تس حضرت موسیٰ گو تس نشہ حکم خدا و اتنا و ہس تم مونگ  
 معجزہ تہ دلیل فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى پس ہوو حضرت موسیٰ ان تس بوڈ معجزہ سو گو عصاءس اژدھا  
 سُن فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ پس اپز گزہر فرعونس تہنز رسالت بیہ کرن نافرمانی تھندس کھمس ثُمَّ  
 اَدْبَرَ يَسْعَى توپتہ پھیور پوت کوشش ہیون کرن حضرت موسیٰ سندس مخالفس اندر فَحَشَرَ فَنَادَى  
 توپتہ سمبراون قوم پنون پس دژن کر یک تمن منز فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى پس دیپون بوی پھس تھو  
 ند بوڈ پروردگار فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْاَيَةِ الْكُبْرَى الْاَوَّلَى پس کر سو گر فقاہر اللہ تعالیٰ ان آخرتہ کہ  
 عذابہ سیت بیہ دنیا کہ عذابہ سیت اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى پز پائٹھ اتھ منز چھہ ہڈ نصیحت تسندہ


الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ۖ ﴿٢٧﴾ ۖ أَنْتُمْ  
 أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بِنهَا ۖ ﴿٢٨﴾ رَفَعَ سَنُكَهَا فَسَوَّيَهَا ۖ ﴿٢٩﴾ وَ  
 أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ ﴿٣٠﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ  
 دَحَاهَا ۖ ﴿٣١﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ ﴿٣٢﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ ﴿٣٣﴾  
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۖ ﴿٣٥﴾  
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۖ ﴿٣٦﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ  
 لِمَن يَرَىٰ ۖ ﴿٣٧﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ ﴿٣٨﴾ وَالشَّرَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ﴿٣٩﴾

خیطرہ نُس کھوڑہ خدا میں۔ ۛ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءِ ای قیامتہ کیو منکر و تموند قیامتک دوہ دوبارہ  
 بیہ زندہ کرن چھا مشکل بنہ آسمانک پیہہ کرن بلہا بیہ یوت بوڈ آسمان کور اللہ تعالیٰ ان پیہہ دَفَع  
 سَنُکَهَا فَسَوَّيَهَا بلند کرن تھڑ تمیوک توپتہ ٹرن سو برابر و اَعْطَشَ لَيْلَهَا بیہ کرن گٹ رات ٹج  
 وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا نراون گاش تمیوک دُوبلہ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا بیہ تراون زمین تمہ پتہ  
 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا کڈن تمہ زینہ منز آب تمیوک بیہ نیور تمیوک وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا بیہ  
 کرن کوہ محکم لنگر ہی۔ یہ سو روی کرن پیہہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تھوندہ نفعہ خطرہ بیہ تھندین  
 چارواں ہندہ فاندہ خیطرہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پس یلہ بیہ قیامت عہری یَوْمَ يَتَذَكَّرُ  
 الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ یمہ دوہ انسانس ژیتس پیہہ تہ سو روی یہ تم کرمت آسہ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن  
 یَرَىٰ بیہ بیہ نہر کڈنہ دوزخ پرت و پھون سہہ خیطرہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ \* وَالشَّرَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پس یم  
 اک پڑہ نشہ سر کشی کر بیہ قیامتس انکار کرت دنیاہ چ زندگی اختیار کر مژر آسہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ  
 الْمَأْوَىٰ بے شک یہ جنم چھو تھنزی جای وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ لیکن نُس اکھاہ کھوڑہ دنیاہ س

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ  
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا ۗ قِيلَ إِنَّتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۗ  
 إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ۗ إِنَّنَا آتٍ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخُشِعَهَا ۗ كَانَتْهُمْ  
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۗ

اندر که قیامتک دوه جهم پنہ نس خدا لیس برو نھ کنہ استاده سڀدن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ بیه رثن  
 نفس پنون پتھ پیچھ میلونشہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس جنت چھو تهنزی جای یَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا پرژھان چھه منکب کافر توه قیامتک کہ کر آسہ تمیوک برپاسدن قِيلَ إِنَّتَ مِنْ  
 ذِكْرِهَا توه کیاہ چھو تمیوک تذکرہ کرن یہ جھہ توهنز کوم إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ تھوندس  
 پروردگاری تام چھو تمھه علق نہایت یعنی سوئی زانہ قیامت کر آسہ إِنَّنَا آتٍ مُنذِرٌ مِّنْ يَّخُشِعَهَا توه  
 چھونہ مگر نیم کرہون تس لیس تھہ کھوژہ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا تمس لوکن  
 بیه بوزنہ تمہ دوهہ یلہ تھہ قیامتس وچھن تم۔ زن تم رودمت آس دنیا س منز پشہ پیٹھ شامس تام یا  
 صبحہ پیٹھ دوپہرس تام سوہولناک دوهہ وچھہ سیت مشھہ سوروی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ  
 يَزْكَى ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۵  
 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَى ۷ وَ أَمَّا مَنْ  
 جَاءَكَ يَسْعَى ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ۱۰ كَلَّا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آس کہ دودھ مسجد حرامس منز کافرن ہندن زٹھین خصوصی تبلیغ کران اتی آواکھ نابینا اکھ یس ناواوس عبد اللہ ابن ام مکتوم تمی ہیوت اکس آبیہ کر تمس متعلق نبی کر تمس پر ٹھن عرض کرن یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ باوحض تمہ علمہ منز کینہہ یہ توه خداین چھنا دودھ یہ آس نہ امس خبر کہ یم چھہ و بکنس مشغول بین سیت تبلیغ کرنس اندر یہ گونا پسند حضرت رسول کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آثار کدورت سپد روی مبارکس پٹھ ظاہر اتی سپد یم آیات کر یمہ نازل عَبَسَ وَتَوَلَّى روى مبارک ژو کر اون بیہ پھرون بیس طرفس کن أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى اژی تھہ خیطرہ کہ آو تمس نشہ اکھ یہ معذور اعلمی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى توه کوه چیز زانراوہ کہ توه ہنزہہ تعلیمہ سیت دیوہ سو درست تہ پایزہ سپدہ ہا أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى نتہ رتہ ہا نصیحت تونہ کلام شریف بوزت پس دیہاتس نفع تونہہ زبان مبارکہ نصیحت بوزن أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى لیکن یس شخص دین حقہ نشہ بے پروا چھو لاگان فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى توه چھوتس کن متوجہ سپدان تسنز فکر تھوان وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرَى توبہ پیٹھ چھونہ کانہہ باز خواست ہر گہ تم پاک سپدان نہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُوَ يَخْشَى لیکن یس توه کن دوران دوران چھو کمال شوق و محبت یوان کھو ژان کھو ژان عبد اللہ ابن ام مکتومہ سند پاٹھ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى پس چھوہ توه تس کن بے اعتنائی کران کَلَّا إِنَّهَا

إِنهَاتِذْكَرَةٌ ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۞  
 مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞  
 قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۞  
 مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۞  
 ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۞ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۞ كَلَّا لَمَّا يُقْضَىٰ مَا  
 أَمَرَهُ ۞ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَتَا صَبَبْنَا الْمَاءَ

تَذْكَرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ بہ تحقیق بے شک ہم قرآن مجیدک آیات کریمہ چھ و عظمت نصیحت تس  
 بس خوش کرہ سورہ نصیحت تمبوک فاندہ والس پانس مغرور و متکبرن ہندہ نما نہ سبت امہ کس عزتس  
 منز کم کہینہ گڑھ نہ کیا زہ یہ قرآن مجید چھو فی صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \*  
 کرام بررہ تمے ورفن اندر لکھت یمن سٹھا عزت کرنہ آمت چھو۔ ہم بلند مرتبہ چھ ہم پاک و  
 پاکیزہ چھ یس لکھنہ آمت چھو عزتہ و الین ملائکن ہند یو اتھو ہم نیکو کار چھ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  
 تباہ گڑھن یہ انسان کوتاہ کفر ان نعمت کرہ و ن چھو سو کمی ک ساغر و ر چھو تس سو چھو نہ و جھان مِنْ أَيِّ  
 شَيْءٍ خَلَقَهُ کہم حقیر چیزہ نشہ کور اللہ تعالیٰ ان سپدہ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ نطفہ سبتہ سپدہ  
 کرن سو تو پتہ کرن تس تانن ہیوند اندازہ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ تو پتہ کور تس ماجہ ہندہ شکمہ منزہ  
 نیرنج و تھ آسان ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ تو پتہ کہینہ کالہ زندہ تھو تھ مورن سو تو پتہ و اتان و ن قبرہ منزہ  
 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ تو پتہ یلہ یژھ سو تیلہ کرس دوبار بیہ زندہ کَلَّا بہ تحقیق لَمَّا يُقْضَىٰ مَا أَمَرَهُ ایم  
 انسان کرنہ پور سو کوم یموک حکم کریوس خالق برحقن فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ پس و جھن  
 انسان عبرتہ چہ نظرہ پنہ نس غذا ہس تہ ٹھیس کن اس تھہ پاٹھ چھ امسد خوردنی ہند چیز میا کران  
 أَتَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا اسی تراؤ پیٹھ مہ طرفہ عجیب طریقہ رود ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا تو پتہ پھاٹو  
 اسی زمین عجیب طریقہ بیول کڈہ ناو تہ منز کلہ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پس کھور اسہ تمہ زمینہ منز گلہ

صَبًا ۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۲۶ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۲۷ وَ  
 عِنْبًا وَقُضْبًا ۲۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۲۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۰ وَفَاكِهَةً  
 وَأَبًّا ۳۱ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۳۳  
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۳۴ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۳۵ وَصَاحِبَتِهِ  
 وَبَنِيهِ ۳۶ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۳۷  
 وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۳۸ ضَالِحَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۳۹ وَوَجُوهٌ  
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۴۰ تَرَهَقَهَا قَرَّةٌ ۴۱ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ۴۲

وَعِنْبًا بے دھبہ وَقُضْبًا بے ترکارہ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا بے زیتون بے خضر وَحَدَائِقَ غُلْبًا بے کلیو برت  
 باغ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا بے میوہ بے گھاسہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تموندہ نفعہ خیطرہ بے تموندن چارواں  
 ہندہ نفعہ خیطرہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ادہ یلہ گڑھ سو کریک یسہ کنن زرباودہ ون آسہ یعنی پوٹک دویم  
 پھوک تمہ دوہہ سپدن عجیب عجیب حالات ظاہر۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بے دوہہ  
 شخص ٹلہ پنہ نس بایس نشہ پنہ نہ ماجہ تہ ماس نشہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ پنہ نہ زمانہ نشہ تہ نجوین نشہ  
 لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ بیواندرہ آسہ تمہ دوہہ پر تھ اکس پنہ نی فکرہ بیسہ نس  
 بے نیاز کرہ بے سز فکرہ نشہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ کینہہ بوتھ آسن تمہ دوہہ پھولہ ون۔ ضَالِحَةٌ  
 مُسْتَبْشِرَةٌ آسہ ون تہ خوش خصال یعنی باایمان ہند بوتھ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ بے آسن کینہ  
 بوتھ تمہ دوہہ گرد آلودہ تَرَهَقَهَا قَرَّةٌ تمنے آسہ ولنہ آسریاہی أُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ  
 تے گئے کافر تہ بدکارنا فرمان

## سُورَةُ التَّيْمِیْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَاِذَا النُّجُومُ اُنْكَدَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْجِبَالُ  
 سُيِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۴ وَاِذَا الْوُحُوْشُ  
 حُشِرَتْ ۝۵ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۷  
 وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّدَتْ ۝۸ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَاِذَا الصُّحُفُ  
 نُفِثَتْ ۝۱۰ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲  
 وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝۱۴ فَلَا

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بیلہ آفتاب و فتنہ بیلہ گاش روز سنہ کینہ تہ وَاِذَا النُّجُومُ اُنْكَدَرَتْ بیلہ تارک  
 گٹ گڑھن وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بیلہ کوہ پلناونہ یں وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بیلہ باردار اونٹنہ  
 یمن ڈہرت حملس گمٹ آس پر سس تیار آسن تروانہ یں۔ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ بیلہ جنگلی  
 جانور سوئمر نہ یں جنگلو منزہ یں ساری وست وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بیلہ دریا تاونہ یں وَاِذَا النُّفُوسُ  
 زُوِّجَتْ بیلہ روح یں ملناونہ بدن سیت وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّدَتْ \* بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بیلہ زندے قبرہ  
 منز تراونہ آثرہ کور پر ژھنہ بیلہ کمہ غنہ آیہ سو مارنہ وَاِذَا الصُّحُفُ نُفِثَتْ بیلہ نامہ اعمال یں  
 مژراونہ یا ہجر اونہ یں وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بیلہ آسما نس بستہ والہ بیلہ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ  
 بیلہ جہنم بیلہ تیز کرنہ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ بیلہ جنت بیلہ نکھ اونہ۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ  
 زانہ تمہ ساتہ پرت اکھاہ کیاہ آسہ تم حاضر کرمت عملواندرہ فَلَا اَقِيْمُ بِالْحَيْسِ پس پھس پو قسم  
 ہاوان پوت پھیرت گڑھ و نین تارکن ہیوند الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ایم یکہ دن پنہ نین مطالعن منز غیب گڑھ

أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۝۱۷  
 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي  
 قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱ وَ  
 مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝۲۳  
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ  
 رَجِيمٍ ۝۲۵ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۷  
 لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ  
 يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

دن چھہ وائلل اذاعسس بیه چھس قسم ہاوان راژ ہوندیلہ سہ پھیرت گدھن ہوان چھہ وَالصُّبْحِ  
 إِذَا تَنَفَّسَ بیه چھس قسم ہاوان صبحک یلہ سو پھلان چھویم قسم چھس تھہ بیٹھہ ہاوان کہہ إِنَّهُ لَقَوْلُ  
 رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو پروان اکس سوزنہ آتس ملکہ سندس مرتبہ کن بوڈ چھو  
 خدایس نشہ ذی قُوَّةٍ توتہ دول چھہ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرشہ والس خدایس نشہ چھو تھدس  
 عمدس پٹھہ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ مانہ آمت ہٹھو۔ بیه چھوتیہ معتبرامانت دار وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ بیه  
 چھونہ توبہ سیت ہمیشہ روزن وول حضرت محمد ﷺ موت تہ دیوانہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ بیه وچھہ  
 حضرت محمد ﷺ جبریل امین پنہ نہ اصلی ٹکھہ منز آسمانکس اندس بیٹھہ بسُن چھو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ  
 بِضَنِينٍ بیه چھونہ یہ پیغمبر برحق نبی کھن پٹھہ بخل کرہ ون وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ بیه  
 چھونہ یہ قرآن مجید مردود شیطانہ سنزکت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کوگن چھوہ توبہ گدھان إِنَّ هُوَ إِلَّا  
 ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بیه قرآن مجید چھونہ مگر نصیحت سارنی عالمین کردھہ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ  
 توبہ اندرہ تمن ہندہ خیطرہ ہم سیزہ ووتہ بکن یڑھن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ توبہ  
 بھونہ یڑھہ مگرے یڑھہ اللہ تعالیٰ بس عالمین ہوندرُ ب چھو۔



## سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۙ ۱ ۝ وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۙ ۲ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ ۙ ۳ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ ۴ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخَرَتْ ۙ ۵ ۝  
 يَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۙ ۶ ۝ الَّذِیْ خَلَقَكَ  
 فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۙ ۷ ۝ فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ ۙ ۸ ۝ كَلَّا لَبَلٌ  
 تُكَدِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ ۙ ۹ ۝ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۙ ۱۰ ۝ كِرٰمًا كَاتِبِیْنَ ۙ ۱۱ ۝  
 یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ ۱۲ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۙ ۱۳ ۝ وَاِنَّ

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ یلہ آسمان پھٹے وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ بیہ یلہ تارک پھسکنہ یں وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ بیہ یلہ دریائیں زورہ پکناونہ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ بیہ یلہ قبرہ پرائنہ یں عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
 وَاٰخَرَتْ تمی ساتھ زانہ پرت اکھاہ بروٹھ کیاہ سوزن پتھ کیاہ تراون يَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  
 الْكَرِیْمِ اے انسانہ کم چیزن ہمر اوک ژہ پنہ نس کریم پروردگارہ سنزنا فرمان کرنس پیٹھ الَّذِیْ  
 خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ یم پروردگارن ژہ پیدہ کرنک بیہ سیود کرنک توپتہ برابرتہ معتدل کرنک  
 فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ پیٹھ شکلہ منز بیضون پیٹھ شکلہ منذرثنہ ژہہ ترکیب کلابل تُكَدِّبُوْنَ  
 بِالَّذِیْنَ کونہ چیزن ہمر اوکھنہ بلکہ چھہ حقیقت کہ توہہ چھوہ اپزگنزران عملن ہندس جزا س قیامتک  
 دوہ روز تو تودہ اتھہ خیالس سیت وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ \* کِرٰمًا كَاتِبِیْنَ مگر اسہ چھہ توہہ پیٹھ مقرر کرنس  
 راجھہ تے چھہ خدا س نشہ معتبر لکھن وال یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ تمن چھو معلوم سپدان تہ سوروی بیہ

الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۱۳ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝۱۵ وَمَا هُمْ  
عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۱۶ وَمَا آدُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۷ ثُمَّ مَا  
آدُرُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۱۸ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ  
شَيْئًا ۝۱۹ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝۱۹

توہ کران چھونیک و بد لاق الابرار لفی جحیم پڑاٹھ نیکو کار آسن جتنس منز نعمون اندر و لان الفجار  
لفی جحیم پڑاٹ بدکار تہ نافرمان آسن جہنمس منز عذابس اندر یصلونہا یوم الدین اژن تھ  
جہنمس منز قیامتہ دوہہ و ماہم عنہا بغائبین بیہ ہجھنہ تم تمہ جہنمہ نشہ الگ تہ کھٹت روزہ دن  
و ما آدُرک ما یوم الدین کوہ چیز تاری ژہ فکرہ ای انسانہ سو جزاء ک دوہ کوتاہ مشکل چھو شو ما  
آدُرک ما یوم الدین بیہ چھو سے ونان کوہ چیز زانوے ژہ جزا ک دوہ کوتاہ مشکل تہ سخت چھو۔  
مختصر بوز یوم لا تملک نفس لنفیس شیئا سو گو سوئی دوہ یمہ دوہنہ کانہہ اکھاہ کانہہ اکس نفع بیہ  
واتناوت پنہ نہ اختیارہ و الامر یومئذ للہ حکم تہ اختیار آسہ تمہ دوہ کُئس خدا یس بیہ نہ کانہہ۔



## سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ① الَّذِينَ إِذْ أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ⑥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِينٍ ⑦ وَمَا أَدْرَاكَ  
 مَا سَجِينٌ ⑧ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑨ وَيْلٌ لِّيَوْمِئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑩  
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ⑪ وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پر زناوک ہلاکت چھ مینہ نس تہ تولہ نس منز کمی کرہ و نین ہندہ خیرہ الدین اذاکا  
 اکتالوا علی الناس یستوفون ہم یلہ لوکن نشہ پنون حق تولن سورثن پور واذاکالوہم اوزوزنوہم  
 یخسرورن توپتہ یلہ لوکن دین پنون کانہ چیزینت یا تولت سودن ہنھون الایظنن اولیک انہم مبعوثون \*  
 لیوم عظیم کیا گمان ہنھنا تمن لوکن زہ تمن ین ثلنہ اکہ بڈہ دوہہ خیرہ ہتھہ تمن سارکوی حساب  
 یہ ہنہ یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ دوہ ساری لوک روزن وڈنہ حساب دنہ خیرہ کاناکس  
 ر بس رونھ کنہ کلا ان کتب الفجار لفی سجنین بہ تحقیق بے شک کافرن تہ نافرمان ہوندا نامہ اعمال  
 روزہ سجنین منز وما ادرک ما سجنین کوی چیز زانراوی ژیہ سخن کیاہ گو کتب مرقوم سوچھو دفترہ اکہ  
 لکھنہ آمت تھہ منز چھہ دوزخین نا لکھنہ آمت تمن پیٹھ چھہ نشان تھاونہ آمت نبردنہ آمت ویل یومئذ  
 للمکذبین افسوس چھو تمہ دوہہ پزس اپزگزر و نین الدین یکذبون بیوم الدین ہم اپزگزر ن

مُعْتَدِ اٰثِمٍ ۱۲ اِذَا اٰتٰتٰلٰی عَلَیْهِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیْرُ  
 الْاَوَّلَیْنَ ۱۳ کَلَّا بَلْ اَسْتَرٰنَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ۱۴  
 کَلَّا اِنَّهُمْ عَنِ رَبِّهِمْ یَوْمَیْذٍ لِّمَحْجُوْبُوْنَ ۱۵ ثُمَّ اِنَّهُمْ  
 لَصَالُو الْجَحِیْمِ ۱۶ ثُمَّ یَقَالُ هٰذَا الَّذِیْ کُنْتُمْ بِهٖ تُکَذِّبُوْنَ ۱۷  
 کَلَّا اِنَّ کِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عَلَیِّیْنَ ۱۸ وَمَا اَدْرِکَ مَا عَلَیُّوْنَ ۱۹  
 کِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۲۰ یَشْهَدُهٗ الْمُقَرَّبُوْنَ ۲۱ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ  
 نَعِیْمٍ ۲۲ عَلٰی الْاَرَآئِکِ یَنْظُرُوْنَ ۲۳ تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ

جزء کس دوس و ما ینکذب به الا کل معتد اثم از گزرنه تہہ مگر پرت حدہ ڈلون بدکار اذ ائتلی  
 علیہ ایتنا قال اساطیر الاولین یلہ پر نہ سن پٹھ آیات سین دپنہ لہ سویم چہ برو تھمین ہند  
 افسانہ کلا تہ چھنہ ہرگز بل ران علی قلوبہم نا کا نو ا ی کسبو ن بلکہ چھوز نگارتہ کھ مجھو تھندن  
 دلن پٹھ تمن پچھ کابین ہنزیمہ تم کران اس کلا تھقین انھم عن ربہم یومید لیمحجوبون بے  
 شک تم لوک بن تمہ دوہہ پنہ نس پروردگار سند دیدارہ نشہ پٹھ رفنہ ثم انھم لصالو الجحیم توپتہ  
 چھ تم یقینا نار جھنم منرا تھوین ثم یقال توپتہ بیہ وند تمن ہذا الذی کنتم بہ تکذبون یسوی  
 کیا گو سو جنم تھ تھ توہ از زمان آسوہ کلا پڑاٹھ ان کتب الابرار لفی علیین بے شک نیو کارن  
 ہیوند نامہ اعمال چھو علمینس اندر وما ادرك ما علیون شہ کوہ چیز از اولی علیون کیاہ چھو کتب  
 مرقوم سو چھو دفترہ لکھنہ آمت تھ منر چھو با ایمان ہند ناو آمت لکھنہ تمنی چھو نشانہ آمت تھوانہ  
 نمبر آمت دنہ یَشْهَدُه الْمُقَرَّبُوْنَ وچھنہ یوان چھ تھہ ملا نکہ مقر بین ان الابرار لفی نعیم پڑ  
 پاٹ نیو کار چھو چھن نمون اندر علی الارایک ینظرون تھن پیٹھ آسن وچھان عاباتب تَعْرِفُ

نَصْرَةَ النَّعِيمِ ۲۶ يُسْقُونَ مِنْ رَحِيقِ خَمْرٍ ۲۷ خِمَّةٌ  
 مِسْكٌ ۲۸ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۲۹ وَ  
 مَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۳۰ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۳۱  
 إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۳۲  
 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۳۳ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى  
 أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۳۴ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۳۵ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۳۶

فِي دُجُومِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ بِرِزَاوَكِ زَه تَهْمَدِ يُوْتَهِيوْ بِه نَعْمُوْنَ هَنْزِ تَرُو تَا زَا كِي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقِ  
 خَمْرٍ \* خِمَّةٌ مِسْكٌ چاونه ين تم سو شراب طهور يتھ نچ بوتله مهر آسه كرنه آمز۔ سو مرنج آسه  
 خالص نانه كستوری موممه ته لاجه بدل سوی مهر تلم پانه تم جلتی آتھس كت رلنووی گوهن خوش تهند  
 دماغ نانه كه خوش بو سیت معطر وَفِي ذَلِكَ يتھ سی شرابس کن فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ  
 كرن رغبت رغبت كرن وال وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ بيه آسه ملناونه آمت ته سیت تيسمك آب  
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ تسنيم چهوناگه بيه منز آب چوان آسن پروردگار ه سند مقرب بنده إِنَّ  
 الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ پزپاٹ نافرمان لوک آس با ايمان پيٹھ آسان وَإِذَا  
 مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ بيه تم با ايمان تمن كافر ن برونه کن پکان آس تم آس آه اس کن اچھناٹ  
 کران حقارت کن۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ تو پته بيه واپس آس تم كافر  
 گوهان پنه نس اهل و عیال س گن واپس آس گوهان ژينگان یو کامیو سیت وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بيه بيه وچھان آس تم كافر تمن مسلمان دپان آس یم لوک چه ڈلت گرا هگمت

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۷﴾ عَلَى  
 الْأَرَآئِكِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۸﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۹﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ حَالَانَكه یم آسنه سوزنه آمت تمن هندی خیره راجه تمن کیا حق اوس  
 یہ دنه نك فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ از قیامتہ کہ دوہہ کیا آسن با ایمان تمن  
 کافرن پٹھہ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ تختن پٹھہ بہت آسن جنتی کافرن تہ مُشْرِكُنْ ہندہ عذابگ حال  
 وچھان دپان آسنک۔ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا جزا آوہ دنہ کافرن تمن کا میں ہوندیہ  
 تم کران آس دنیا اس اندر



## سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱؎ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۲؎ وَاِذَا  
 الْاَرْضُ مُدَّتْ ۳؎ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴؎ وَاذْنَتْ  
 لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۵؎ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ  
 كَدًا حَافِلِقِيهِ ۶؎ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۷؎  
 فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۸؎ وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ يله آسمانس چھلہ گڑھن خدایہ سندہ حممہ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ بیہ مانہ آسمان  
 پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پڑہ حکم مانن وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ بیہ یلہ زمین زیتھر اونہ بیہ خدایہ  
 سندہ حممہ سیت وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بیہ تراوہ زمین نبر تم ساری چیزیم تھہ منزچھہ سوسپدہ خالی  
 وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ سوتہ مانہ پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پڑہ حکم مانن يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ  
 كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا حَافِلِقِيهِ ای انسانہ بے شک ژہ چھک تکلیف تہ محنت تلہ ون پنہ نس  
 پروردگار س نشہ واتہہ خیطرہ پس چھک ژہ تس سیت ملاقات کرہ ون نیکین اندر محنت کرت تہ تس نشہ  
 واتہ ون بدی اندر مشقت تلت تہ تس نشہ واتہ ون تس نشہ پنہ نین عملن ہنز مزور حاصل کرہ ون  
 رژن عملن رژ مزور پیچھہ عملن پیچھہ مزور فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ اودہ پس اکس نامہ اعمال  
 دنہ بیہ ڈچھنس اتھس کیتھہ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا پس نزدیک چھو کہ حساب بیہ ہنہ تس  
 حسابہ سہل تہ آسان وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا واپس پھیرہ سو پنہ نین باژن ن خوش سہت  
 وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ بیہ پس اکس دنہ بیہ نامہ اعمال پنون تھر پچن کھاور س اتھس کیتھہ

مَسْرُورًا ④ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ⑤ فَسَوْفَ  
 يَدْعُو شُبُورًا ⑥ وَيَصِلُ سَعِيرًا ⑦ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ  
 مَسْرُورًا ⑧ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ⑨ بَلَىٰ ⑩ إِنَّ رَبَّهُ  
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑪ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ⑫ وَاللَّيْلِ وَمَا  
 وَسَقَ ⑬ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ⑭ لَتُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ⑮ فَمَا  
 لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑯ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ⑰  
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْذِبُونَ ⑱ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ⑲

فَسَوْفَ يَدْعُو شُبُورًا سودیہ کریمہ تہ آلو گلہ نس پنہ نس پیٹھ یعنی پنہ موتہ خیطرہ ⑤ وَيَصِلُ سَعِيرًا  
 بیہ اثرہ سود زو نس نارس ⑧ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا پڑپاٹ اوس سود نیاعس اندر پنہ نین باثران منز  
 خوش بے غم ⑩ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ پڑپاٹ تس اوس گمان زہ خدا یس گن چھونہ رجوع کرن بلی  
 البتہ تس چھو ضرور خدا یس گن رجوع کرن ⑪ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا پڑپاٹ تم سُنڈ پور دگار اوس  
 تسمزہ ساری کامہ وارہ وچھان ⑫ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ پس چھوس بُو قسم ہاوان تمہ سرخی ہیوندیہ  
 آفتاب لوست آسمان جس اندس پیٹھ چھ آسان ⑬ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان راثر ہیوند  
 بیہ تمہ سار کوی ہتھ رات چھ سبران ⑭ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان زونہ ہیوندیلہ سومڑ  
 رنہ یوان چھ پور سپدان چھ لَتُرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ توبہ کھسیو ضروراکہ حالہ پتہ بیس حالس فَمَا لَهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ پس کیاہ گو کافر ن تم چھنہ یوت ونت تہ پڑھ کران ⑰ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ  
 بیہ یلہ تمن پیٹھ قرآن مجید چھو پر نہ یوان تیج فصاحت و بلاغت بوزت چھنہ تم سجدہ دووان سر تسلیم خم  
 کران ⑱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْذِبُونَ بلکہ بیولو کو پڑھ کرنہ تم چھ اتھ قرآن مجیدس اپر گز ران وَاللَّهُ



فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الطَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

اَعْلَمُوا بِمَا يُدْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھوڑانا نہ سو روی یہ تم دن منرتاوان چھ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ  
پس خوشخبر و نیو تمن دودودہ ونہ عذاب سارنی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتِ مگر یو پڑھ  
کر تہ رتہ علمہ کر کہ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہندہ خیلرہ چھ مزدور حدہ رستوی منہ و رای۔



## سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲ وَشَاهِدِ  
 وَمَشْهُودِ ۝۳ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝۴ النَّارِ ذَاتِ  
 الْوُقُودِ ۝۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۹  
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم آسمانک نِس بر جدول چھو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بے تمہ دوہوک سمیک  
 وعدہ تھاوہ آمت چھو یعنی قیامتہ دوہک وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ بے چھو قسم گواہ سند بے نِس پیٹھ گواہ  
 روزہ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مارنہ آے کھ کھن وال النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ سمو تم کھن منز  
 نار زول سٹھاہ زیون تراوت مسلمان تھہ نارس منز تراوت عذاب کرنہ خیطرہ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ یلہ  
 آس تم تمن نارہ کھڈن ہندس ٹھس پٹھ بہت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ تم نِس  
 تکلیف مسلمان دوان آس تہ آس پانہ وچھان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  
 تمن مسلمان آسنہ تم انتقام تہ بدل ہوان مگریمہ گوی کہ تم آس پڑھ کران معبود بر حقس نِس سٹھاہ  
 عزتہ وول تہ سٹھاہ تعریف کرنہ آمت چھو الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نِس پادشاہت چھہ  
 آسانن تہ زمینن ہنز وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تمہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ پرت چیز پانہ وچھان إِنَّ الَّذِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 الْحَرِيقُ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱ إِنَّ  
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳  
 وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵ فَعَالٌ لَمَّا  
 يُرِيدُ ۝۱۶ هَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝۱۷ فِرْعَوْنُ وَشَمُودَ ۝۱۸

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ پڑھا کر یا ایمان مردن سے یا ایمان زنانن عذابس گرفتار  
 کرنے سے تُوں لَمْ يَتُوبُوا تو پتہ کر دکھنے توبہ تمہ نشہ فَالَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقُ پس  
 تمنی کبھی چھو دو زک عذاب آخرتس اندر بیہ چھو تمنی کبھی دزنگ عذاب دنیا ہی اندر ستھ پاٹ  
 اصحاب الاخذ و زال اللہ تعالیٰ ان تھہ نارس اندر نرس مسلمان ہندہ خیطرہ تیار کر مت اوسگ إِنَّ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تھہن یمو ایمان اون تہ رثہ عملہ کر کھ لَمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 تمن تھہ چھ تھے باغ یمن اندر جو یہ پکان چھہ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ یہی چھہ ہنڈر ستگاری إِنَّ بَطْشَ  
 رَبِّكَ لَشَدِيدٌ پڑھا رٹن چینس پروردگارہ سُد چھو سٹھاہ سخت إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ پڑھا  
 سوی چھہ سُوئس گوڈہ پیدہ کر ان چھو سُو کرہ مر نہ پتہ بیہ پیدہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ سوی چھو سٹھاہ گنہ  
 تھشون سوی چھو لوٹھ تھواہ ون بندس ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ سوی چھہ عرشہ وول سوی چھہ بزرگ  
 تہ بوڈا تہ کن تہ صفو کن تہ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ کرہ ون تہ یہ یڑھ هَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ای پیغبر کیا  
 توبہ نٹس واژہ خبر خدا یہ سندن دشمن ہنزن لشکرن ہنزن تم ساری گل کفرہ تہ نافرمانی ہندہ سبہ بہ  
 فِرْعَوْنُ وَشَمُودَ تم گے فرعون تہ قوم شمود ازیک کافر چھہ نہ واقعاتو سیت کانہ عبرت رٹان بِلِ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ بلکہ ازیک کافر چھہ تمن واقعاتن اپر گنزر ان مگر گنہن کوت وَاللَّهُ مِنْ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۲۰  
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝۲۱ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۲

وَرَأَيْتُمْ مُحِيطٌ اللہ تعالیٰ چھ پر ت طرفہ تمن گھیر کرت قرآن مجید جھونہ تو تھ چیزہ تھ تھندہ اپز  
 گزرنہ سیت کینہہ کم گڑھہ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بلکہ چھو قرآن سٹھاہ تھود مرتبہ کن  
 اکس رآچھ کرنہ آمز اکس سفید مخته ہچ پیٹھ لیکنہ آمت تو پیتہ عرش مجیدس الوند تراوت ملکس آکسنہ  
 کوچھ کت تھانہ آمت



## سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝  
 النُّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝  
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝  
 یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ  
 لَقَادِرٌ ۝ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کہ شبہ اوس ابو طالب آمت در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو اوس تس کیوت طعام کرمت تیار۔ یہ ساتہ دونوے آس سُو طعام کھوان اتی پو آسمانہ اکھ تار کہ سُوی سپد تیوت نزدیک زمینس کہ سومکان بیتھ منز آنحضرت ﷺ تشریف تھوت آس سو سپد منور ابو طالبس گیہ اچھ خیرہ دپنہ لگ یہ کیاہ سنا سپد آنحضرت تو فرماوس یہ چھو تارک ملایک چھہ اتھہ لایان تمں شیطانن پٹھہ یم کن دنہ چھو کھسان آسمانس نکھ۔ بیہ چھو یہ خدا یہ سندہ قدرنگ اکھ نشانہ ابو طالبن لان ژھپہ۔ اتی سپد جبریل امین نازل یہ سورہ شریفہ ہیبت وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ آسما نگ قسم بیہ تمہ چیزک قسم ئس رات کہ وقت ننان ہٹھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ تودہ کوہ چیز زانراوہ یار رسول اللہ کہ سورات کیوت ادوہون کوہ چیز ہٹھو النُّجْمُ الثَّاقِبُ سُو گو تار کہ پرزلہ ون جواب قسم چھو ان کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہٹھنہ کانہ شخصہ مگر تس پٹھہ چھو اکھ اچھہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ پس وچھن انسان کہہ نشہ آو سو پیدہ کرنہ تمس نے یاد چھو بوزن خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ سو آو پیدہ کرنہ انزالہ کہ وقتہہ ووٹھہ دوہونہ آہہ نشہ یعنی منی یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ لیس نیر ان مردن

نَاصِرًا ۱۱ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ  
 الصَّدْعِ ۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ إِنَّهُمْ  
 يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵ وَآكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَبَهْلُ الْكٰفِرِينَ  
 أَهْلُهُمْ رُويًا ۱۷

ہند یو پشتو منزه زنانن ہنزوسینہ تریو منزه اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو تس اناس  
 مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس پٹھ قدرتہ وول یَوْمَ تُبْلَى السَّرَابُ بیمہ دوہہ نتروانہ تہ پرکھاونہ ین دلن  
 ہند پو شیدہ خیال فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرًا پس آسنہ تمہ دوہہ امس اناس کانہہ طاقتہ نہ کانہہ  
 مددگارہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بیہ چھو قسم رود تراوہ ونہ آسماگک وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ بیہ  
 چھو قسم پھلہ ونہ زینگ اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ پڑپاٹ یہ قرآن مجید چھو کلامہ فیصلہ کرہ ون وَمَا  
 هُوَ بِالْهَزْلِ چھونہ سو ٹھٹھہ کتھاہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَآكِيدُ كَيْدًا پڑپاٹھ کافر چھہ پڑس انکار  
 کرنس اندر رنگارنگ مکر تہ حیلہ کران بو تہ چھوس پوزنر انون خیطرہ تدبیر کران۔ فَبَهْلُ الْكٰفِرِينَ  
 پس مہلت دیوتوہ کافرن اَمَّهُمْ رُويًا سوی مہلت دیوکھ کم کینہہ کالہ وچھو تمس کیاہ بنہ۔



## سُورَةُ الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ② وَالَّذِي قَدَّرَ  
 فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤  
 سَنَقِرُ لَكَ فَلَاتَتْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا  
 يَخْفَى ⑦ وَنُبِّئُكَ لِلْيُسْرَى ⑧ فَذَكَرْنَا نَفَعَتِ الذِّكْرَى ⑨ سَيِّدَاكَ  
 مَنْ يَخْشَى ⑩ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑪ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑫

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پاک گزر ریونا و پنه نس پروردگارہ سُندئس سٹھاہ تھد چھویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى یم سوروی پیدہ کر پس گرن برابر موزون وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى بیہ یم پر تھ آسندہ خیطرہ ہوم مقرر کر تو پتہ ہا نس تھن تھن و تھ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى بیہ یم کھور زینہ منز گاسہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى تو پتہ گرن سو گاسہ خشک زھوٹھ تہ سیاہ سَنَقِرُ لَكَ فَلَاتَتْسَى اس پرہ ناووہ توہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجیدئس مشراوند توہ کینہہ تہ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ گمرنی یہ اللہ تعالیٰ یرھہ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى بے شک اللہ تعالیٰ چھوزانان تہ بڈہرن تہ لو تہ پرن تہ وَنُبِّئُكَ لِلْيُسْرَى بیہ کور اس سسل تہ آسان توندہ خیطرہ آسان شریعت فَذَكَرْنَا نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس پریو توہ لوکن وعظ ہر گاہ وعظ پرن لوکن فاندہ تہ نفع دیہ سَيِّدَاكَ مَنْ يَخْشَى نصیحت رٹہ سویئس عذابس کھوڑہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى لوب روز نصیحت بوزنہ نشہ بوڈہد قسمت الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ئیس وا تہ بڈس نارس سو گونا جنم ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفَى تو پتہ نہ مرہ تھ اندر زانہ نہ روزہ زندہ

ثُمَّ لَيْسَتْ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۝ أَبْقَىٰ ۝ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

آرامہ سان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ تھمیں نجات لب تم بس پاک سپد و ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ یہ ہم چہ نس پروردگارہ مند نام پاک ہمت نماز پر بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ای منکر و توجہ چھوہ نہ آخر تک سامانہ کران بلکہ چھوہ توجہ ہند کران دنیا ج ناپا ندر زندگی وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ أَبْقَىٰ حالانکہ آخرت چھو بہتر تہ پوشہ ون دنیا خوتہ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ پڑپاٹ یسوی مضمون چھو برو تھمیں کتابن اندر بیان کرنہ آمت حضرت ابراہیمہ سنزن کتابن اندر تہ حضرت موسیٰ سنزن کتابن اندر تہ۔ حضرت ابراہیمس پیٹھہ آس دہ صحیفہ نازل سپد مت حضرت موسیٰ اس پیٹھہ تہ آس توراتہ برو تھدہ صحیفہ نازل سپد مت رواہ عبد ابن حمید کمانی روح المعانی۔





## سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَامِلَةٌ ③ تَأْتِي النَّارَ حَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ⑤ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ⑥ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ جُوعٌ ⑦ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ⑧ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑩ لَا تَسْعُرُ فِيهَا الرِّيحُ ⑪ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ⑬ وَأَكْوَابٌ ⑭ مَوْضُوعَةٌ ⑮ وَنَمَارِقُ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا توہم نشہ واثرہ خبر یا رسول اللہ قیامت کے لوگوں پہ نبی نوحینو سیت احاطہ کرہ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کینہہ بُو تھ آسن تمہ دوہ تھار میت عَامِلَةٌ تَأْتِي النَّارَ حَامِيَةً کوم کرہ ون تھہ ون تَصَلِي النَّارَ حَامِيَةً تمے اثن نارس نُس سخت گرم چھو تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ چاونہ ین تہہ تی ناگہ منز نُس گرکان آسہ۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ چھونہ تمہن دوزخین کھن مگر زہر دار کند لَا يُسِينُونَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ جُوعٌ نہ دُھراوہ سونہ زلراوہ بُو چھ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ کینہہ بو تھ آسن تمہ دوہہ تروتازہ نہ خوش لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ پنے نین رثن عملن ہونڈ ثواب وچھت آسن راضی فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ تھدین جتنن اندر لَا تَسْعُرُ فِيهَا الرِّيحُ بوزن نہ تم تھہ جنس اندر بیہودہ تھہ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ تھہ جنس منز آسہ ناگہ یکہ ون فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ تھہ جنس منز آسن تھہ پلنگ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ بیہ آسن آنخو رثکہ تھہ تھاونہ آمت برو تھہ کنہہ وَنَمَارِقُ فِي مَصْفُوفَةٍ بیہ آسن شانہ

مَصْفُوفَةً ۱۵ ۱۱ وَزَرَابِي مَبْتُوثَةً ۱۲ ۱۳ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ  
 كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۴ ۱۵ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۶ ۱۷ وَإِلَى الْجِبَالِ  
 كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۸ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ فَذَكِّرْ ۲۱  
 إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۲ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۲۳ إِلَّا مَنْ  
 تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۴ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۵ إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ ۲۶ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۷

گند تکمہ لاگنے آمت وَزَرَابِي مَبْتُوثَةً بیہ آسن ریشمی قالین پرت طرفد تھرنہ آمت تیتس خوش  
 کر کہ تیتس بہن أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیسا وچھان وچھنا ایم مکک کافرو وٹن کن تھہ پاٹ  
 چھو تم پیدہ کرنہ آمت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بیہ آسمانس کن تھہ پاٹ چھو سو بلند کرنہ آمت  
 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ بیہ کوہن کن تھہ چھہ تم تھاسنہ آمت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بیہ  
 زمینس کن تھہ پاٹ چھو سو و ہراونہ آمت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ پس کر یو توه نصیحت وعظ توه چھو  
 نہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نصیحت فرماوہون لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ توه چھونہ تمن پیٹھ  
 مُسَلِّطٌ کرنہ آمت یو تھہ زورہ مازو یو کہہ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ لیکن نئس اکھاہ بو تھہ پھرہ تہ کافر سپدہ  
 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ پس عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تس بوڈ عذاب آخر تس اندر إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ پزپاٹ اس کن چھو واپس سن تمن ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تمہ پتہ چھو پزپاٹ اسی مٹ تمن  
 حساب ہیون

## سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳ وَالْأَيْلِ إِذَا  
 يَسُرُّ ۝۴ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ۝۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ  
 رَبُّكَ بِعَادٍ ۝۶ إِرْمَادًا لِلْعِمَادِ ۝۷ آلِي لَيْمٍ لَم يُخْلَقْ مِثْلُهَا  
 فِي الْبِلَادِ ۝۸ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۹  
 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝۱۰ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝۱۱

وَالْفَجْرِ صبحک قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ بیه دهن راتن هیوند قسم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جھنک ۷ طاقب قسم  
 وَالْأَيْلِ إِذَا يَسُرُّ بیه راژ هیوند قسم یله سوگذران چھ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ چھوایته قسم  
 اندر قسمه کافی ۷ معتبر عقله والس کیتھ۔ جواب قسم یعنی یمه خیطره یم قسم ہاونہ آے سوچھو حذف کرنہ  
 آمت سُوگو لتعذ بن یعنی ای منکر وتوہ ایوہ ضرور عذاب کرنہ بروظھین منکرن ہندپاٹ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ  
 فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ توہ وچھوہ ناکیاہ کور پروردگارن تموند قوم عاوس۔ إِرْمَادًا یم عاوارم آس ذات  
 الْعِمَادِ یم تھند قدہ وال آس تمواندرز شھس شخصہ سُنَد قداوس ژورہت گز شرعی آلِي لَيْمٍ لَم يُخْلَقْ  
 مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ یہ گو سوقبیلہ یمن ہیو پیدہ آونہ کرنہ قدو قاتس ۷ توئس طاقس منزین شھرن  
 اندر کانسہ قبیلہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ بیه وچھونا توہ تموند پروردگارن کیاہ کور قوم  
 ثمودس یوکوہ ۷ پل ژٹھ وادی القراءس منز مضبوط گرہ بناو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ بیه کیاہ گرن  
 تس فرعونس یس میجہ وول اوس سونہ سنزو میٹوسیت اوس گرن نال لاگان الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۷ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ  
عَذَابٍ ۝۱۸ اِنَّ رَبَّكَ لِبِالْاِبْرَصَادِ ۝۱۹ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا  
ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنِي ۝۲۰  
وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّي  
اِهَانَنِي ۝۲۱ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ ۝۲۲ وَلَا تَحْضُونَ  
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ۝۲۳ وَتَاْكُلُوْنَ الْاَثْرَآءَ الْاَكْلَآئِثَ ۝۲۴  
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۲۵ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا

یومو ساروی کر سر کشی شهرن اندر فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ پس کرک سٹھاء تمنن شهرن اندر تہای  
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ پس لوی تمنن تہوند پروردگارن عذابک قمچہ تمی سیت گالین  
اِنَّ رَبَّكَ لِبِالْاِبْرَصَادِ پڑپاٹ تہوند پروردگار چھوزاگنہ چہ جایہ ژرژان سارنی نافرمانن ہیوند حال  
فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس نافرمان انسان نُس چھو اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ یلہ تس تہند پروردگار تہندہ ایمانچ آزمائش  
چھو کران فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ پس پھس عزت دوان بیہ نعمت عطا کران فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنِي نَس  
چھو دپان پروردگارن کر م بند مہربانی وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ لیکن یلہ سوتس ایمانی آزمائش چھو کران  
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو پتہ پھس رزق س اندر تنگی کران فَيَقُولُ رَبِّي اِهَانَنِي تمہ ساتہ چھو دپان  
پروردگارن کر نس ذلیل کَلَّا حالانکہ یہ چھنہ حقیقت بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ بلکہ خواری تہنز چھہ  
امی سببہ کہ عزت چھونہ تہہ کران تہمس وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ بیہ چھوہ نہ رغبت دوان  
مسکین کھیادک وَاْكُلُوْنَ الْاَثْرَآءَ الْاَكْلَآئِثَ بیہ چھہ میرا نیک مال کھوان اورہ یورہ سہر او تھہ بین ہند حق  
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بیہ چھوہ مال دنیا ٹوٹھ تہوان سٹھاء زیادہ کَلَّا یہ لجنہ کرن امیوک نتیجہ  
چھو سٹھاء کریوٹھ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا سودہ پاپو ژتہس یہ دہہ سم ستر بیہ کرنہ زمینس پے

دَكَا۟ۤءًا ۙ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئْتُ  
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ  
 الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ  
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۙ وَلَا يُؤْتِيهِ شَاقًا ۚ  
 أَحَدٌ ۚ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ أَسْرَجِي إِلَىٰ  
 رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً ۚ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ۙ  
 وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۚ

در پے ہنلیوسیت وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا بیہ تہند پروردگار بیہ ین ساری ملک صف بصف  
 روزن محشرہ کس میدانس اندر وَّجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ بیہ لہ نہ تمہ دوہ جنم یومئذین یتذکر  
 الإنسان تمی دوہ کیار نہ نہیب انسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ مگر سوکتہ آسہ تمہ دوہہ تمس نصیحت  
 ربک موقعہ یقول یلیننی قدامت لِحیاتی دپنہ لہ تمہ دوہ کاشکے بروٹھے آسم سوز مرث، کانہہ رز عملہ  
 یہہ عالمچہ زندگی خیطرہ فِیَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ نھس کرنہ تمہ دوہہ خدایہ سند ہیو عذاب  
 کانہہ اکھاہ وَلَا يُؤْتِيهِ شَاقًا أَحَدٌ بیہ کرنہ بند کانہہ اکھاہ خدایہ سند ہیو بند کرن یَأْتِيهَا  
 النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ای آرام رٹونہ تفسرہ اسرجی علی ربک گوہہ پنہس پروردگار س گن  
 راضیة مَرْضِيَةً بیٹھہ حالس اندر کہ ژہ تس نش راضی سوژہ نشہ راضی فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي  
 \*وَأَدْخِلِي جَنَّتِي پس شامل سپد میان خاص بندن ہنزہہ جماژ اندر بیہ اژہہ مینس جنس اندر

## سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝<sup>۱</sup> وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝<sup>۲</sup> وَوَالِدٍ وَمَا  
 وَلَدَ ۝<sup>۳</sup> لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝<sup>۴</sup> أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ  
 عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝<sup>۵</sup> يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ ۝<sup>۶</sup> أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ ۝<sup>۷</sup> أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝<sup>۸</sup> وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝<sup>۹</sup> وَهَدَيْنَاهُ  
 السَّبِيلَ ۝<sup>۱۰</sup> فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝<sup>۱۱</sup> وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝<sup>۱۲</sup> فَكُّ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم جھس بواوان یمہ شرک یعنی مکہ معظمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یتھ  
 حالس اندر کہ توه آسواتھ شہرس اندر تشریف تھاوت یا توه آسواتھ شہرس اندر فاتحانہ صورتس منز  
 ساروی پابند یورائے خدایہ سندون دشمن تے تیغ آناں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ بیہ جھس قسم ہاوان مال سند  
 بیہ اولادن ہوند یعنی تمام مخلوقاتن ہوند لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ پز پانٹھ پیدہ کراسہ انسان سخت  
 تے مشقتس اندر اَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا گمان چھاتس کہ تمس کیا پوشنہ کہے يَقُولُ أَهْلَكْتُ  
 مَا لَا بَدَأَ وناں چھہ مہ مگر خرچ سونبرمت واریاہ مال پز کس مخالفتس اندر ژورہ ژورہ اَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ امس چھہ گمان کہ وچسم نہ کانسہ - خدائے چھو سوری وچھان اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا اسہ کرہ  
 ناپدہ امس اچھہ زہ یہ یلہ تموا اچھو سیت وچھت ہیچہ اچھہ پیدہ کروں مخلوقن بینائی عطا کرہ ون ہکنا بندن  
 ہوند حال وچھت وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ بیہ زیوتہ وٹھ زہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بیہ ہاواسہ تس و تھ خیرس  
 تے شرس گن یادون تھرز گن یعنی دودچن دون جائن گن فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کس ژھنڈہ نہ تم بٹھ تے بال  
 یعنی ماجہ ہند دینہ چہ کامہ کرنس اندر تجن نہ محنت تے مشقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ژیہ کوہ چیز زانراوی

رَقَبَةً<sup>۱۳</sup> أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ<sup>۱۴</sup> لَيْتِي مَا ذَا مَقْرَبَةٍ<sup>۱۵</sup>  
 أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ<sup>۱۶</sup> ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا  
 بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ<sup>۱۷</sup> أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ<sup>۱۸</sup>  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ<sup>۱۹</sup> عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ<sup>۲۰</sup>

سوغتہ کیا ہو سو گو فک رقبۃ گردنہ آزاد کرن سے موکہ لاون یعنی غلام یا کنیز آزاد کرن یا قرضدارہ  
 سز گردن قرضہ نشہ موکہ لاون أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ سے کھیاون کا نہ شخصہاہ بوچھ ہندہ دوہہ  
 یعنی ٹھٹس منز لیتیا ذَا مَقْرَبَةٍ کینہ رشتہ دار یتیمس أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ سے کانسہ مرثہ سیت میلس  
 مسکینس یعنی پھرے قس مساجس ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تمہ پتہ آسہ سو گردن آزاد کرہ ون کھین  
 دوہ ون یتیمس سے مسکینس تمواندر یمو ایمان اون کیا زہ یتیم ہندہ قبولیتک شرط چھو با ایمان اَسُن  
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کرک وصیت اکھ اس صبر کرنچ عبادت کرنس سے گنہو نشہ پیچہ روزہ نس پٹھ  
 وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ بیہ کرک وصیت مخلوقن پیچہ رحم کرنچ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہ چھ  
 نصیبہ وال شتہ بند یمن دچھس اتھس کیت نامہ اعمال دنہ بیہ بیہ یمن عرشہ مجیدہ کہ دچھنہ طرفہ  
 روزنچ جای دنہ بیہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یمولو کو انکار کر سانین آیاتن تم گئے  
 پھشل نحوستہ وال عَلَيْهِمُ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ تمن پٹھ سپدہ نار مسط ٹھانڈونہ آمت یتھ منز نہ دہ سے نیرک





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ إِذَا  
 جَدَّهَا ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَنَهَا ⑤  
 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ قَالَهُمْ هَا فَجُورُهَا  
 وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ④ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩  
 كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪ إِذِ ابْتِغَتْ شِقَمَهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ

وَالشَّمْسُ آفتابك قسم وَضُحَاهَا بیه تمحه تا یک قسم وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا بیه زونه هیوند قسم یله سو پته چهره پکان اته آفتاب وَالنَّهَارِ إِذَا جَدَّهَا بیه دو هوک قسم یله سواته آفتاب روشن چهو کران وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا بیه راث هیوند قسم یله سوه ولان چهو اته آفتاب وَالسَّمَاءِ وَمَا بَدَنَهَا بیه آسمانک قسم بیه یم سو بنا کور وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا بیه زمینک قسم بیه یم سو هموار گرت و بهراو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا بیه انسانه سنده نفسک قسم بیه یم سو برابر کر یعنی یم سو سیود گمر قَالَهُمْ هَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا پس دلس منز تراونس بدی ته گناه تهند بیه نیکی ته پر بهیز گاری تهیز یم ساری قسم آئی هاونه بیه تهه خیره که قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا به تحقیق کامیاب رسته گارسپد ته مطلبس ووت سو شخص یم پاک گمر پنون نفس یعنی سم پنون نفس نافرمانیو نشه پاک کرت تقوی و فرمان برداری پنه آماده گمر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ناکام ته نامر ادسپد یم سو نفس پها نو بدین اندر جواب قسم چهو ساری قسمن هوند ای که مکه بک کافرو فاجر ته بدکار چهو توه لوک توه چهو ضرور غضبس ته هلاکتس گمر فارسپدن دنیا و آخرتس منز آیهه پاٹھ قوم ثمود گمر فارسپد یمن هوند قصه امه پته بیان چهو یوان کر نه كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمودن گمر تکذیب



رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا ۱۳ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمَّا قَدِمُوا  
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۱۴ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۵

پنہ شرارت و سرکشی سببہ پنہ نس پیغمبر صلی علیہ السلام یہ چھو تمہ و تنگ قصہ اِذْ اَنْعَثَ اَشْقَمَهَا  
یلہ تمہ قوم ثمودہ منزہ ووتھ سخت شقیہا اکھ سوی سپد آمادہ تس ووننہ تکلیف و اتناوتس پیچہ، سیت رودس  
بے لوک تہ، امیوک اطلاع یلہ ووت صالح علیہ السلام فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا  
پس فرمودتھن اللہ تعالیٰ سند پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام خبر دار روز یواس خدایہ سزہ ووننہ  
ہندہ حقہ، بیہ تمسندہ تریشہ ہندہ حقہ یوتھنہ سو وونن ماریون یا کیوتس تریش چنس اندر کونہ قسمہ  
مزاحمت۔ اس ووننہ فرمود اللہ تعالیٰ ان ناقۃ اللہ یعنی خدایہ سز وونن۔ کیا زہ یہ آس اکھ ہنڈ دلیلاہ تہ  
معجزہ صالح علیہ السلام سندہ نبوت و پیغمبری ہنز تس تعظیم کرن اوس لازم تہ واجب۔ یمو کرتھ  
ساری ادلہ بدل فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا پس کرتھو تس پیغمبر انکار سوز نکھ اپز زیور۔ بیہ ڈیکھ اس  
ووننہ مکہ نیر اتھہ پاٹھ مآرکھ سہ فَدَنَّمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا پس تراوتھن ہنڈ بلای تھند  
پروردگارن تھندہ نافرمانی تہ گناہ سببہ سوی بلای و اتناوتک سارنی برابر یعنی ساری گالن اند ہیتھ وَلَا  
يَخَافُ عُقْبَاهَا اللہ تعالیٰ چھونہ کھوژان امہ کس تنجس۔ ہتھ پاٹھ دنیاہک پادشاہ اندیشہ چھ کران  
کونہ وقتہ جُر من سز ادنس اندر کہ خبر چھا امیوک نتیجہ مانیرہ خراب۔ ملکس اندر ماسپدہ کانہ شورش یا  
ملکی معاملاتن اندر مایہ کاٹھ خلل۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ اثرھن کھن ہیوندکانہ پروا۔



## سُورَةُ الْيَلِيقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَالْيَلِيقِ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ  
 وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤  
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ  
 بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنِيسِرُهُ  
 لِلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا

وَالْيَلِيقِ إِذَا يَغْشَى قسم چھو راتک یلہ سُو لوان چھہ عالمس کجہ سیت وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بیہ چھو قسم  
 دو ہک یلہ سو روشن چھو سپدان وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى بیہ چھو قسم تس ذاتہ سند یم نرتہ مادہ پیدہ  
 کر یمن قسمن ہیوند جواب چھو امہ پتہ یعنی یم قسم کجہ پیٹھ آئے ہاونہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تھہ پیٹھ کہ بے  
 شک تو ہنزہہ کوششہ یعنی عملہ چھہ مختلف کانسہ ہنز عمل چھہ رثہ تہ جان کانسہ ہنز عمل چھہ پیٹھ تہ خراب  
 آنتھہ پاٹھ چھہ امیک ثمرات و نتائج تہ مختلف رثہہ عملہ چھو رت جزا پیٹھ عملہ چھو پیٹھ سزا کجہ مثال گیہ  
 کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس یم خدایہ سنزہ و تہ اندر دیوت مال پنوں۔ تو پتہ کھو ژ خبر چھا قبول  
 کر مہ کنہ رد کر یم وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى بیہ زوئن پوزروت کلمہ یعنی کلمہ توحید، اختیار کرن دین اسلام  
 فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَى پس کرو اس تہمدہ راحتہ چیزہ خیطرہ سامان میا۔ راحت کہ چیزہ اندرہ چھہ مراد  
 رثہ عمل رثہہ عملہ ہندہ واسطہ کرو س عطا جنت وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وین یم واجب حقوق ادا  
 کرنہ نشہ بخل کر بیہ خدایس کھو ژ نہ بدل لوگن بے پروا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى بیہ گزرن اپزرت کلمہ یعنی  
 اسلام کرن نہ قبول فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَى تلہ کرو اس تہمدہ سختی تہ تھلیفہ خیطرہ سامان میا تھلیفہ کہ چیزہ  
 سیت چھہ مراد پیٹھ عمل پیٹھ عملہ ہندہ واسطہ کرو س داخل نار جنم وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کانسہ

لِلْهُدَىٰ ۙ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا  
تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۙ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ  
وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ۙ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ  
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِلَّاتِبْغَاءَ وَجْهِ

فائدہ دینے تس مال و دولت پہنچانے یلہ بوتھ کن پیہ تہ ڈولہ گوشہ سونار جہنم اندر اِن عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ واقعی سانہ منہ اوس تفضل و احسانہ موجب و تھ ہاونہ و تھ ہاواسہ وارہ پاٹھ پس کر کانسہ اختیار ایمان و طاعت و تھ کانسہ کر اختیار کفر و نافرمانی ہنز و تھ یمہ کج گمانہ شخص و تھ اختیار کرہ تمی قسمک پھل تولہ سو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کیاہہ سانس ایتھس تہ اختیار س منز چھو آخرت تہ دنیا تہ دنیا س منز کراسہ احکام مقرر یمو لو کو تموا حکامو موجب عمل کر تمن یمہ رتہ مزدور نہ آخر تس اندر یمو تمن احکامن ہنز مخالفت کر تمن یمہ آخر تس اندر پور سزاونہ یموک بیان کرنہ آو فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس کر موہمہ یم تمہ نازک بس شعلہ ماران تہ رہ تراوان چھو لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى تھہ نارس مانسہ و اتسہ ہیشگی بند روزنہ خاطر مگر سوی شخص بس یشقی تہ بد بخت آسہ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى یم اپر گزر دین حق تہ پیغمبر بر حق یمہ کرن۔ روگردانی۔ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى قریب چھو کہ یمہ تہ نارہ نشہ لوب تھاونہ تہ پتھ رتہ سو شخص بس سٹھاہ متقی تہ پر ہیز گار آسہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى بس مال پنون خرچ کران چھہ محض یمہ غرضہ خیطرہ کہ سو گوژہ گنہوہ نشہ پاک سپدن یعنی محض خدایہ سز رضا مندی حاصل کرنہ خیطرہ اگر چہ یمین آیات کر یمین ہند الفاظ چھہ عام مگر سبب نزول چھو یمین آیات کر یمین ہیوند قصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یلہ تموبلال حبشی وغیرہ صحابہ صیب کافرن نشہ مول ہمت محض خدایہ سندہ رضا خیطرہ آزاد کور۔ چنانچہ تفسیر ذر منشور س اندر چھو یو ہے شان نزول ذکر کرنہ آمت وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى چھونہ کانسہ اسد تس نشہ کانہ حقانہ تہ احسانہ تمہ کوی بدلہ تہ

## رَبِّهِ الْأَعْلَى ۲۰ وَكَسَوْفَ يَرْضَى ۲۱

عوض کیا آسمانوں دنہ یوان اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر چھو سو مال بیون خرچ کران محض پنہ  
نس بدس تہ تھدس پروردگارہ سندر ضاژھانڈہ نہ خیرہ وَكَسَوْفَ يَرْضَى سو شخص سپدہ بروئٹھ ضرور  
مقصدس تہ مطلبس واتنہ سیت خوش تہ راضی۔





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالصُّحُی ۱ وَالْاَیْلِ اِذَا سَجِی ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِی ۳  
 وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِی ۴ وَكَسُوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ

وَالصُّحُی \* وَالْاَیْلِ اِذَا سَجِی یمسوره شریفیک سبب نزول چھوہ اکہ پھرہ کونہ بہاری یا تکلیفہ سبہ بہ ہیگ۔  
 نہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کہ وقت نماز تجد خیطرہ و تھت بہیہ سپد اتفاق کہ جبریل  
 امینہ سندس وحی ہست نیس اندر تہ سپز کنون دوہن درگی مُشْرک لگ و نہ نہ کہ حضرت محمد ﷺ ترو و پھنن  
 پروردگارن۔ تمن سیت لوک لگ دشمنی کرنہ بعضی لگ و نہ نہ کہ یہ صاحب ترو و پھنن شیطانن (نعوذ  
 باللہ) تمنی کھن ہندہ تردیدہ خیطرہ سپد نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ چھونا فرماون کہ وَالصُّحُی وَالْاَیْلِ  
 اِذَا سَجِی کہ قسم چھومہ چاشمہ و ٹنگ نُس روشن چھو آسان آفتاب کہ کھنہ سیت بہیہ چھو قسم راث  
 ہوند یہ ساتہ تچ نہ گنہ چھو پور سپدان مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِی تونہ حض تراویونہ پھنن پروردگارن،  
 بہیہ کرن نہ تونہ سیت کونہ قسمہ دشمنی یار رسول اللہ۔ کیازہ گوڑہ آہیہ نہ تونہ نشہ کانہ کتھ تیرہ۔ توپتہ چھو  
 عادۃ اللہ اندرہ حضرت انبیاءن نسبت یوتھ معاملہ سپدن محال۔ لہذا مہ گڑھو تونہ کافرن تہ مُشْرک  
 ہندہ وورنہ سیت آزدہ۔ تونہ پیٹھ روزہ و حج نعت ہمیشہ جاری۔ یہ نزول وحی چھو شرف و کرامت تھوند  
 خیطرہ دنیاءس اندر وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِی البتہ آخرت چھو بہتر تونہ ہندہ خیطرہ دنیاء خوتہ  
 کیازہ آخرتس اندر کرہ اللہ تعالیٰ تونہ عطا زیادہ نعموہ وَكَسُوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرَضٰی بہیہ کرہ عطا تونہ  
 پنون پروردگارتی یمہ سیت تونہ راضی گڑھو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم کہ محمد ﷺ سپدنہ توتان راضی یوتان تھند یو ایو اندرہ اکھ شخص تہ روزہ جھنمنس اندر صلی اللہ علیہ وسلم  
 اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا قَالِی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ان لبونہ تونہ یتیم۔ توپتہ دژ تونہ  
 جاتی بہیہ کر تونہ پرورش گوڈ بڈ بابہ نہ ذریعہ یعنی عبدالمطلبہ توپتہ پترہ سندہ ذریعہ یعنی ابوطالب سندہ  
 تولد سپدنہ بروٹھے اوس گومت یمہ عالمہ تھوند بابہ سیب و نہ آس تم والدہ صاحبس شکم مبار کہ سی

فَتَرَضَىٰ ۙ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا  
فَهَدَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَىٰ ۙ فَاَتَا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهَّرُ ۙ  
وَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۙ ۙ وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۙ ۙ

اندر۔ تو پتہ آس تم شورى يله والده ماجده يمه عالمه گيحه تو پتہ رود عبدالمطلب نشه يونتان تم آخه  
وہرات۔ تمہ پتہ رود تم ابوطالب نشه سواتيس کالس زندہ اوس تہ تيتس کالس تم مگر تہنز پرورش تہ  
بگہبانی نہایت جانفشانی سیت تو پتہ کر تہندہ مر نہ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس کن  
ہجرت تہ بخوش اللہ تعالیٰ ان تہندہ خدمت و حفاظتک شرف قبیلہ اوس و خزرجس یعنی مدینہ شریفہ  
کین انصارن تمو مگر تہ پاتھ تہنز خدمت و جانفشانی تیج نظیر دنیاءس اندر مفقود چہ۔ یمہ ساری  
صورثہ چہ لفظ قلاى اس تل داخل سپدان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بیه لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان  
شریعتہ کہ علمہ نشہ بے خبر تو پتہ ہاونوہ تہ گن و تہ۔ بیه بوونوہ سوروی علم شریعت وَوَجَدَكَ عَائِلًا  
فَاَغْنَىٰ بیه لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان فقیر، پس کرنوہ توبہ بے نیاز یمہ طریقہ کہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ  
سندہ طرفہ گوہہ توہ مال تجارت ہیبت تہ اندر سپد توبہ نفع حاصل بیه گور خدیجہ کبریٰ ان توہ سیت  
نکاح۔ تمو گور پنون سوروی مال توہندس خدمتس اندر پیش یہ گو غنای ظاہری غنای قلبی تہ غنای باطنی  
گور توبہ تیوت عطا سمیوک نہ اندازے بگہ کانہ شخص کرت۔ غرض یم پروردگارن توبہ سیت ابتداء  
پیٹھ امہ قسمک معاملہ گور سو بھیا توبہ پیٹھ ناراض گڑھت تہ توبہ تراوت۔ مگر پروردگارہ سندین یمن  
الطائفن تہ مہربانین ہیوند شکرانہ گو کہ فَاَتَا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهَّرُ ۙ وَیَنْهَىٰ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ اَنْ یُّسْرِفَ عَلَیْہِمْ  
وینہی عن مال الیتیم ان یسرف علیہم تہ مگنون آسہ سومہ آسیون زورہ زبردستی  
سیت نبر کڈت خالی تراوان وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۙ ۙ وین یمہ نعمہ توند پروردگارن توبہ عطا کرہ  
تمن ہیوند کریو توہ بیان تہندن ارشاداتن تہ کلام شریفس سیت حدیث ناو آمت چھو تھوانہ سو چھو غالباً  
امی لفظ حدیث اندرہ کڈنہ آمت واللہ اعلم۔

## سُورَةُ الشَّرْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ②  
 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا اسے کرنا تھوئندہ خیرہ تھوئندہ سینہ مبارک کھول نہ بخادہ علم سیت یعنی علم نہ کراسہ توہیہ سٹھہ زیادہ عطا۔ بیہ نیس تکلیفہ توہیہ تبلیغ حق کرنس پیٹھ دشمن ہندہ طرفہ دوت سو برداشت کرنہ خیرہ کراسہ توہیہ علم نہ تحمل عطا۔ یا ہجو اشارہ امہ اندرہ تھ شق صدر شریض کن نیس متعدد بار طور کرنہ آو۔ اکھ یلہ تم دودہ ماجہ نش یعنی حضرت علیہ سعیدس نش آس۔ بیہ یلہ بالغ سپد۔ بیہ یلہ خلعت نبوت ولنہ اکھ یعنی یلہ تجرہ ہر آس بیہ یلہ بعالم بالا کھارنہ آے در شب معراج وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ بیہ نل اسہ توہیہ نشہ تھوئندہ سو بور الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یم بار گبر وومت اوس پٹت مبارکس تھوئندہ تھوئندہ اور اوس معنوی اکھ بُورہ یا اوس سوزول و حیک بُور نیس ابتداء س اندر سٹھہ مُشکل اوس پتہ سپد سئل نہ آسان یا اوس منصب رسالت چن ذمہ دارین ہوند بُوریمہ کہ محسوس سپدنہ سیت خاطر عاطر تھوئندہ مکدر سپدان اوس سوی کور اللہ تعالیٰ ان دور۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی چھ فرماوان کہ امہ اندرہ چھو مراد کہ تھوئندہ ہمت عالی نہ پیدائشی استعداد یمن کمالاتن نہ مققاتن واثن منگان اوس دلہارگس اوس جسمانی تزکیہ نہ نفسانی تشویشاتن کن نظر کرت تمن کمالاتن پٹھ فائز سپدن دشوار بوزنہ یوان۔ مگر اللہ تعالیٰ ان یلہ شرح صدرہ سیت مزید استعداد عطا کر کہ اتی سپدک تم ساری کمالات حاصل تمیوک نیس بارہ دل مبارکس پٹھ اوس سو تھ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بیہ کورنا اسہ بلندتہ تھوئندہ خیرہ تھوئندہ ذکر۔ حدیث قدسیس اندر چھو اچ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ان فرموک کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ (تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و ابن ابی حاتم) یلہ میون ذکر کرنہ آسہ یوان تلہ بیہ کرنہ تھوئندہ تکرہ نہ۔ چنانچہ بانگہ منز تکبیرس منز نمازہ منز تھوئندہس منز

# العُسْرِيُّرًا ۱۵ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرًا ۱۶ فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ ۱۷ وَالِی رَبِّكَ فَارْغَبْ ۱۸

خطبس منز۔ چھویوان کرنہ تھوند ذکرون یلہ اسہ توبیہ روحانی تکلیف دُورگر تھوند گروہ روزن امیدوار دنیوی تکلیف تہ کروائس توبیہ نشہ تہ تھوندین پیرون بایمان نشہ دُور۔ تمیوک چھہ اس توبیہ سیت وعدہ کران **فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرًا** پس تحقیق موجودہ سختی سیت چھہ آسانی اودین توبیہ پیٹھ سختی تہ مُشکلات بکثرت آسسن گن نظر کرت چھس یواتھ وعدس تکرار کران بیہ فرماوان **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرًا** کہ بے شک موجودہ سارنی مُشکلاتن سختین سیت چھہ آسانی یئہ واجن۔ چنانچہ تمہ سارے سختی سپزہ اکہ اکہ دور حدیث شریفین تہ تارمٹہ جن کتابن اندر چھہ تھہ متعلق روایات موجودین یلہ اسہ توبیہ امہ امہ قسمیچہ نعمہ عطا کرہ تھوند گروہ تمن نقمن پیٹھ شکر دہن یتھہ پاٹھ کہ **فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ** توبہ یلہ احکام خداوندی وائہ ونہ نش (یلہ کوم عبادت چھہ سمیوک نفع متعدی چھہ) فارغ سپدان آسیو۔ تمہ پتہ گروہ تھوند تھہ عبادتس سیت مشغول سپدن سمیوک نفع تہ فائدہ خاص تھندس ذات مبارکس چھویلیعی عبادت تہ یاد خدا کران کران محنت و مشقت برداشت کرن **وَالِی رَبِّكَ فَارْغَبْ** بیہ یہ کیوہواہ توبہ مکن تہ ژھانڈن آسہ تہ حاصل کرنہ خیطرہ گروہ تھوند پنہ نس پروردگارس گن توجہ تہ رغبت کرن تس گروہن پنہن ساری حاجت معگن





## سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝<sup>۱</sup> وَطُورِ سِينِينَ ۝<sup>۲</sup> وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝<sup>۳</sup>  
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝<sup>۴</sup> ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ  
 سَفِيلِينَ ۝<sup>۵</sup> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝<sup>۶</sup>  
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّبْنِ ۝<sup>۷</sup> أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝<sup>۸</sup>

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قسم چھو انجیر ک یا انجیر کلک بیہ چھو قسم زیتون نک یا زیتون کلک ایم دو شوے چھو  
 با برکت میوہ تہ کل تہ یا چھو مراد تمہہ جایہ ہیوند تہ تمہہ شرک قسم بیہ انجیر کل تہ زیتون کل بکثرت  
 پیدہ سپدان چھو اکھ جای گئیہ تہہ کن ابرہیم علیہ السلام بنجرت کر مرچھہ۔ بیاکھ جای گئیہ بیہ عیسیٰ  
 روح اللہ تولد سپدمت چھہ وَطُورِ سِينِينَ بیہ چھو کوہ طورک قسم تہہ پیٹھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ  
 سیت ہم کلام سپد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بیہ چھو قسم بیمہ امنجہ شرک تہہ شہرس منز کعبتہ اللہ واقع چھو  
 بیہ لیس شہر حضرت سید المرسلین سندہ ولادت با سعادت تک شہر چھو یسے زور قسم ہاوتھ چھو فرماوان اللہ  
 تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک پیدہ کر اسہ انسان رتس اندازس اندر بہترین  
 شکل و صورت کرس عطا تہہ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ تو پتہ وول اسہ سہ یونمہ درجہ کیولو کو اندرہ تہ زیاد  
 بون۔ نافرمانی تہ کفر و شرکہ سہہ بہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمولو کو ایمان اون بیہ کر لیکھ رتہ  
 عملہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہمدہ خاطرہ چھو سو ثواب لیس نہ زانہ تہ خصم شہہ یا وبرہ یلہ اللہ تعالیٰ پیدہ کرس  
 پیٹھ بیہ احوال بدلانس پیٹھ پور قدر تہ وول چھو۔ اے انسانہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّبْنِ ادہ کوہ چیز  
 چھوی ژہ تکذیب تہ انکار کرناوان جزا کس دوہس أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ چھنا حاکم  
 ہوند بوڈ حاکم لیس تصرف چھو دنیا کین سارنی امورن پیٹھ تہ آخر تہ کین سارنی امورن پیٹھ تہ۔

## سُورَةُ الْحَاقِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②  
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یہ سورہ شریفک یم ابتدائی پانژھ آیہ کریمہ چھ ساری قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل سپد مت سمیوک قصہ چھو صحیفن منز ذکر کرنہ آنت کہ نبوت عطا سپد نہ بروئٹھ آس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران۔ چنانچہ مکہ شریفن منز اوس غار حراء تھ منز آس تشریف تھاوان۔ تہ معبود برحقہ سز عبادت کران۔ رات کہ وقت تہ آس اتھ غارس اندر روزان اکہ شبہ آس غارہ شریفہ منزہ نیرگن درامت آتی وچھک آسمان وز میسن منز معلق اکہ تختاھ تھ پیٹھ وچھک اکہ شخصہا سٹھاہ بوڈیہوی و تھ امہ تختہ پیٹھ توپتہ آویمن بروئٹھ گن امی دپوک اقرأ پر یو فر موس مانا بقاری بوچھسنہ پرہون توپتہ رٹن پانس سیت چیر و تھ تراون یلہ۔ بیہ دُپنک اقرأ پر یو فر موس بیہ یسوی جواب کہ بوچھسنہ پرہون توپتہ رٹن بیہ پانس سیت بیہ دیوتک چیر دویمہ لہ خوتہ زیادہ تیوت چیر کہ قریب اوس تم سپد ہنس بے ہوش توپتہ تراون یلہ۔ دُپنک اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پر یو پنے نس پروردگارہ سندناوہت تم پروردگارن ساری مخلوق پیدہ کر خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یم انسان پید کورموش خونس یعنی خونہ دتھ امہ آمدہرہ چھ مراد انسانس تنبیہ کرن کہ ای انسانہ زہ پٹھ چھ خدا یہ سز نعمت سٹھاہ ہنڈ کہ بے جان چیزہ نشہ پیدہ کرت تھہ در جس و اتنا و کھ شکل و صورت تہ عقل و علم کرنے عطا۔ ژہ بز ن زیادہ شکرو ثنا دپن ذکر و فکرہ اندر مشغول روزن اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ توہیہ آسیویار سول اللہ قرآن مجید پران تھوند پروردگارہ چھو سیٹھاہ کریم۔ سو یہ یژھان چھو تہ چھو عطا کران۔ سو چھو پر نہ و رای پرہ ناوان۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یم پروردگارن لکھنت پرمت لوک پھناو بذریعہ قلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ تہ انسان پھنووون تے چیز سمنہ تس معلومے آس مطلب چھو اکی زہ تعلیم تہ پھنناون چھ نہ موقوف لکھن تہ پر نی پیٹھ بی بی اسباب و ذرائع تہ چھ یموسیت علوم

لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفٍۭۤ اَلۡۤغٰی ۞۶ اَنْ رَّآهُ اسْتَعۡنٰی ۞۷ اِنَّ  
اِلٰی رَبِّكَ الرَّجۡعِی ۞۸ اَرۡءَیْتَ الَّذِیۡ یُنۡهٰی ۞۹ عِبۡدًا اِذَا صَلَّى ۞۱۰ ط

حاصل سیدت ہکن۔ دویم تھہ چھہ بیہ کہ اسباب و ذرائع چھہ بذات خود کنہ اثر کرت ہکان بلکہ چھو موثر حقیقی اللہ تعالیٰ۔ لہذا ہر گہ تو ہیہ یار رسول اللہ پرہ ون چھوہ نہ۔ تمبوک مہ بر یو کانہ پروا۔ ایس یلہ تو ہیہ حکم کرووہ پر نک تو ہیہ؛ بھو اسباب و ذرائع و ورائی سانہ حکمہ ہرت یہ ایس پرہ ناؤن یشھوہ۔ اس کہوہ تو ہیہ پرہ ناوت۔ یتھہ پاٹ اسہ خوش کرہ۔ اس کہوہ تو ہیہ سو طاقت تہ سہ قدرت عطا کرت یہہ سیت تو ہیہ ہرت؛ بھو۔ علوم وحی یاد؛ بھو تماوت چنانچہ تی سہ۔ تفسیر عزیز یس اندر چھو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموا گرچہ اوس نہ لکھن پرن بھتھت مگر اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ قلمہ کہ ذریعہ تہ چھس بوی بھتاوان قلمہ ورائی تہ بھہ بوی بھتاوات ممکن چھو۔ یتھہ تھہ گن تہ اسہ اشارہ کہ یتھہ پاٹھ فیض و وہ نس تہ فیض رٹہ و نس منز قلم چھو واسطہ تہ ذریعہ سپدان۔ یتھہ پاٹھ آسہ باری تعالیٰ اس منز تہ پیغمبرن برحقس منز جبریل امین محض اکھ واسطہ تہ ذریعہ۔ بیہ اتھہ پاٹھ قلمگ ذریعہ فیض سپدان چھونہ یتھہ تھہ لازم کہ قلم کیا چھو تس فیض رٹہ ون سندہ خونہ افضل تہ بہتر۔ یتھہ پاٹھ چھہ نہ تھہ تہ لازم کہ حقیقت جبریلہ کیا آسہ ہا فضل حقیقت محمدیہ خونہ۔ لہذا چھو جبریل امین تھہ نہ حقہ بمنزلہ قلم کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِكَفٍۭۤ اَلۡۤغٰی ۞\* اَنْ رَّآهُ اسْتَعۡنٰی ۞ بہ تحقیق یہ انسان بس اسی خونہ دتہ پیدہ کور بس حقیر و ذلیل چیزاہ اوس۔ بس جاہل مطلق اوس اسی بھتاؤ۔ اس روزنہ پنن اصلی حقیقت یادی یہ لگ دنیاہ کہ مال دولتہ سیت مغرور سیدت سرکشی کرنہ۔ خیال چھس مہ چھونہ کانہ ہوند پروا اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرَّجۡعِی ۞ بے شک چینسی پروردگار س گن چھو سارنی واپس واٹن۔ یتھہ تہ آسہ یہ انسان تھزی قدر تہ کس احاطس منز ولنہ تہ بند کرنہ آمت یہہ منزہ ژلت ہکن گن تہ۔ یو تھہ عاجز تہ بے بس انسان بھہ پاٹھ بھہ اتھس قادر و قاہر خدا بس نشہ مستغنی تہ بے پروا آستھ۔ وین تمسد پنون پان مستغنی زانن یہ گیہ محض سفاہیت تہ حماقت یعنی بالکل ژور تہ احق لاگن۔ امہ پتہ چھو امس انسانہ سنزن بعضے بیچہ کا مین ہوند بطریقہ استفہام ذکر یوان کرنہ اکہ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس منز نماز پران ابو جہل آوتم دوپ تمن آسے تو ہیہ واریاہ پھرہ یہہ کرنہ نشہ منع کور ٹھہند کیا یا بھونہ پتھہ روزان۔ تمو کرس اتھ

أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۙ أَرَيْتَ إِنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۙ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ  
 لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۙ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

پیٹھ سخت خشم سے گرز سولگ دپنہ شہر مکس منز چھہ ساروی اندرہ بین جماعت واریاہ ہنڈ۔ ہر گہ آئندہ  
 بو چھاوہ توہ بیہ نماز ہران بو تھاوہ توہ ہنزہ گردن پیٹھ کھور تو پتہ واناوودہ سٹھاہ تکلیف۔ چنانچہ اکہ پھرہ  
 آس تم نماز ہران تو پتہ آو سوتکلیف واناوونہ کہ قصدہ مگر نزدیک وانا تھ پھیروا پس لو کو پڑھہ ہس ژہ کیا  
 گوی دوپن یتھوی بو تمن نزدیک وائس تھوی وچھہ مہ اکھ خندقہ تھہ منز وچھہ مہ پکھ کرت جانوریم  
 وچھت یو کھوژس فر مونی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم تم آس ملائک ہر گہ سو برو تھہ پکھ ہاتمس ژنہن  
 تم باز آریتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدَهُ إِذَا صَلَّىٰ ای مخاطب ژی کرتہ بیان تس شخصہ سند حال ئس سانس اس  
 خاص بندس منع چھو کران تہ پتھ چھو ران یلہ سو نماز چھو پران۔ یعنی معبود برحقہ سنز عبادت کرہ وئس  
 عبادتہ نشہ نماز پر نہ نشہ پتھ رٹن۔ یا تس گانگل کرن کوتاہ گناہ تہ کثیراہ پچھہ کوم چھہ آریتَ إِنْ كَانَ عَلَى  
 الْهُدَىٰ ژہ وئنتہ مہ یہ کوتاہ گناہ چھو خصوصاً یلہ سو بندہ خاص عین ہدایتس تہ راہ راستس پیٹھ آسہ

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ يَا آسہ سو بین لوکن تہ خدائیس کھوژنچ تعلیم دوان تمن تہ معبود برحقہ سندہ عبادتک  
 امر کران آریتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ژہ وئنتہ مہ ہر گہ سو پھر رٹہ ون شخص پانہ دین حقس آسہ اپز  
 گزران۔ بیہ آسہ دین حقہ نشہ بو تھ پھران أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ کیا تس پتھ رٹہ وئس تہ نمازہ نشہ  
 منع کرہ وئس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ چھو بے شک تسزہ یہہ پچھہ کامہ وچھان سو دیہ ضرور اس بین پچھہ  
 کائین ہوند سزا کلاگ اس پزہ ہانہ ہرگز یہہ پچھہ کامہ کرنہ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ہر گہ نے سو  
 آئندہ یو پچھہ کامیو نشہ پتھ روزہ۔ ایس پکانا وون ژہا گہ رٹھہ یعنی کلہ کہ مستہ رٹھہ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  
 ایس مست اپزہ خطا کار چھو۔ کیا زہ تمسدہ بدکین موین موین چھو گنہن ہیوند اثر وئمت فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \*  
 سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ہر گہ تمس پتہ نین لوکن تہ پنچہ ژائش ہندہ مددک خیال چھو دین سو تمن آلو  
 آسندہ مو آلو جھنمہ کین عذابہ کین ملائک۔ امام طبرائین کر روایت از قوادہ تمو فر مودنی کریمن صلی

## سَدُّعُ الزَّيْبَانِيَةِ ۱۸ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۱۹ السَّجْدَةُ

اللہ علیہ وسلم ہر گہ امہ وقتہ ابو جہل کہہ کر ہا ضرور رٹھن تس جہنمک ملک نین پاٹھ کلا تس پزہ نہ ہر گزیہ کرن لَا تَطْعُهُ مگر توہیہ مہ حض بوز یوامس خبیثہ سُد یعنی توہیہ مہ تراویو نماز پر ن امندہ ونہ نہ موجب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بلکہ روز یو توہ بدستور نماز پر ان بیہ خدایہ سند قرب تہ نزدیکی حاصل کران۔ اللہ تعالیٰ رچھہ توہہ تہندہ شرہ نشہ کیازہ نمازہ سیت سپدہ توہیہ قرب خدا حاصل۔ قرب خدا چھو حفاظتک بوڈر یعیہ لہذا مہ کریو توہیہ یکن دشمن ہنزن کتھن کُن کانہ التفات۔



## سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ  
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا  
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ○ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک اسہ کرنازل یہ قرآن مجید تمجذکر سورہ علقس اندر چھ شب قدر  
 اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توہیہ کوہ چیز زانراوہ کہ شب قدر کیاہ شب چھو۔ بوی فرماوودہ تمیوک  
 حال تہ شان لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر چھو بہتر ساسہ ریہ تہ خوتہ، یعنی ساس  
 ریتس عبادت کرنس یوت ثواب چھو، تمو خوتہ زیادہ ثواب چھ اتھ شمس اندر عبادت کرنس،  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر اکہ دودہ بیان کہ بنی اسرائیل آس ساس ریتس عبادت کران۔  
 کیاہہ تمن آسہ زبچھ عمرہ۔ یہ بوزت سپد صحابہ صمیم سخت افسوس تہ ذپنہ لگ آسہ تہ آئیر عمر آسہا  
 آسہ آسہوا یش عبادت کران۔ اتی سُد یہ سورہ شریفہ نازل یتھ اندر اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ آی مینس  
 حبیبہ سند یو اتیو توہیہ کر مہ عطاشب قدر لیس ساسہ رتہ خوتہ بہتر چھ تہ شمس منز لیس عبادت کرہ زن  
 تم ساس ریتہ خوتہ زیادہ کالس عبادت کر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا سُو چھو تھوی شب کہ  
 نازل چھ سپدان تہ شمس منز ملائک بیہ روح القدس یعنی جبریل امین زمینس بیٹھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ  
 كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَّمَ ہنس پروردگارہ سندہ حکمہ پرت سچ خیر و برکت تہ سلامتی ہمت سوی خیر تہ برکت  
 چھنہ آسان تہ شبہ کونہ معین حصص اندر هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ بلکہ چھو آسان سو خیر و برکت  
 سار سئی شمس طلوع فجرس تان۔ چنانچہ حدیث شریفس اندر چھو آمت کہ جبریل امین چھ ملائکن ہنز  
 اکہ ہڈ جماعت سیت تہلت، دنیا س اندر ژو پیر پھیر ان لیس شخصس و چھان چھو مشغول نمازہ سیت تہ  
 یاد خدا س سیت تس چھو دعاء رحمت سوزان، بیس روایتس اندر چھو تس چھ جبریل امین سلام کران  
 امیوک معنی تہ گودعاء رحمت تی چھو مراد سلام اندرہ، امر خیرہ اندرہ تہ چھو امی مراد۔

## سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ  
 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ○ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ○  
 فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ○ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ایم لوک اہل کتابو تہ مشرکواندرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ ینہ بروئھہ کافر آس۔ تم آسنہ پنے نہ کفرہ نشہ پتھ روزہ وئں یوتان تمئن نشہ وئہ نی تہ واضح دلیل رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً \* فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ سہ واضح دلیل گیہ پیغمبرہ خدا یہ سندہ طرفہ سوی آسہا پران تمئن پیٹھ پاک و پاکیزہ سورہ تہ مضامین یمن منز بروئھہ نازل کرنہ آئرن آسانی کتابن ہند درست مضامین لکھت تہ درج آسن کرنہ آمت یعنی تمئن کافرن ہیوند کھر اوس توتھ سخت تہ شدید کہ تموند سوجمل تہ کھر بیجہ ہینہ دور سپد ت بدس عظیم الشان پیغمبرہ سندہ سوزنہ ورائ۔ تمی موکھ سوز اللہ تعالی ان تمئن پیٹھ اتمام حجت کرنہ خیطرہ سو عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیئت جلیل القدر اکھ کتاباہ ہست وئں اوس لازم کہ تم زانن اتھ غیبت تمئن کرہ ہن تلقی بالقبول تہ تمئن انہن ایمان مگر یمواندرہ یم اہل کتاب یعنی یهود و نصاری آس تمئن گہیہ گتہ ون چھہ بین کافرن ہنز کھئے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ مختلف تہ الگ الگ سپدنہ اہل کتاب مگر تمئن نشہ واضح دلیل واتنہ پتہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ بروئھہ آس تم متحد تہ متفق تہندس حقسن اندر بغض و عنادہ سبہ بہ کر کہ تمئن انکار تہندہ تشریف اندہ پتہ اڈیو اون ایمان اڈیو کرا انکار۔ پوتھہ جلیل القدر پیغمبر تہ ایشہ عظیم الشان کتاب واتنہ گوژہ تموند دین حقسن یعنی اسلامس پیٹھ مجمع تہ متفق سپدن پئیں بروئھہم اختلاف تراوت گوژہ ساری اختلافات تراون تمہ چہ جایہ سپد تمئن تہندہ تشریف آوری پتہ پانہ وان

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ  
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
 وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ  
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

سخت اختلاف و مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حالانکہ تمہیں لوگوں کو  
 بروٹھمن کتابین اندر یہودی حکم کرنے آمت کہ عبادت کریو اللہ تعالیٰ اس بیٹھ پاٹھ کہ عبادت زانیو  
 خاص نہ سزاوار تنس یا اثر باقی باطل دنیوی شر کہ کیودنیو نشہ یکسو تہ الگ سہدت وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
 الزَّكَاةَ بیہ لوس تمہیں حکم کرنے آمت نماز برپا تھا لو تک بیہ مانج زکوٰۃ ادا کر تک وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ  
 یہودی چھو مضبوط تہ محکم ملت بیٹھ پیٹھ ساری حضرات انبیاء پکان آئے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بے شک یولو کو اہل کتابو اندرہ انکار کر پیغمبر برحقس بیہ مشرک  
 تمواتن ساری ہنمنس اندر خَلِيدِينَ فِيهَا یہ تمہیں ہمیشہ روزن چھو اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ یے لوک  
 کیا گئے ساری مخلوق اندرہ بدتر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک یولو  
 لو کو ایمان اون خدا لیس نہ تہمدس پیغمبرس بیہ یکن چیزن ایمان انن لازم چھو۔ بیہ کر کیر رزہ عملہ تے  
 لوک کیا گئے ساروی مخلوق اندر بہتر جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَزَاءُ عَدْنٍ نَجْوَىٰ مِنْ حَتِّهَا الْظُّفُرُ مزور تہ جزا تہو  
 ند چھو تہمدس پردگارس نشہ تمہ جنت یومون کن کولہ پکان آسن۔ خَلِيدِينَ فِيهَا اَبَدًا تھے جنتن  
 مزوروزن تم ہمیشہ ابد الآباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ روزہ تمہ نشہ راضی۔ تم روزن



جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٤

اللہ تعالیٰ اس نشہ خوش تیرا رضی ذلک لمن خشی ربہ یہ جنت تیرے رضامندی ہیوند خلعت یہ تیرے  
عطا کرنے میں پنے نس خدا میں کھوڑان آسہ یعنی یہ تھود مقام یہ نہ عطا کرنے مگر تیرے میں پنے نس  
پروردگارہ سنزہ بیزاری کھوڑان آسہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②  
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ  
 رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا بِلہ زمین پہنہ نہ ذاتی سخت حرکتہ سیت الراونہ بیہ۔ بیہ کہ صدمہ سیت  
 کانہ عمارتاتہ کانہ کوہاہ کانہ کلہ زمینس پیٹھ باقی روزہ نہ ساری بیرہ نہ تھہر رسدن برابر نہ ہمواریو تھہ  
 محشرک میدان لوکن ہندہ سمنہ خیطرہ صاف سپدہ۔ بیہ سپدہ بیلہ پوٹس منز دوئم پھو کہ دنہ بیہ  
 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا بیلہ زمین ہن ساری گوب گوب چیز نمبر دیہ دارت۔ مثلاً انسان یاسون نہ  
 روپھ۔ وغیرہ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا بیہ حالت وچھت گوٹس کافر انسان حیران دینہ لکن بیٹھ  
 زمینس کیاہ سناگدریویہ یوت بونیول کیاہہ آو آئم اندریم چیز کیاہ سناہہ و تن نبرد ارت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  
 أَخْبَارَهَا تمہ دوہ ونہ زمین پہنہ نہ سارے رتہ نہ بیچھ خبرہ۔ تم سارے واقعات یم ہننی آدمس یعنی  
 انسان ہندہ اتھہ زمینس پٹھہ واقع سپد مت آسن مثلاً زمین دیہ بیان کہ فلاں شخصس پیرمہ پیٹھ نماز  
 فلاں شخصس کرمہ پیٹھ ثور۔ فلاں شخصس کرمہ پٹھ زنا۔ فلاں شخصس کرمہ پیٹھ خون ناحق وغیرہ وغیرہ  
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیاہہ تس زمینس آسہ تموند پروردگارن بھوی حکم کرمت۔ یعنی ازکہ زمانہ کہ  
 اصطلاحہ موجب بوزتہ تہ بیٹھ پاٹھ کہ بیہ بیہ کامہ لوک اتھہ زمینس پیٹھ کران چھہ رتہہ یا بیچھ تمس

ساری کامین ہیوند رکارڈ چھونا بر نہ یوان زمینس اندرتے، رکارڈ چھہ موجود نہ محفوظ تہاوندہ یوان۔  
 قیامتک دوہ ین تے رکارڈ مٹراوند۔ زمینس منز چھو اللہ تعالیٰ ان اکھ مادہ تہ اکھ مسالہ پیدہ کرمت ئس  
 مسالہ مصورین (فوٹوگرافر) شیش مٹھتھہ تصویر تلمان چھو سو مسالہ چھو پورہ پورا اتھہ زمینس منز

# اعمالهم ﴿۶﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾

موجود۔ لہذا تھ زینس پیٹھ ئس شخصہ کانہ کاماہ چھو کران خدایہ سہہ حمہ سیت چھ تھ صورت شکل  
تہ (فوٹو) زینس اندر خود بخود تھان۔ تہے رکارڈ تہے تصویرین بطور شہادت قیامتک دودہ پیش کرنہ۔  
چنانچہ حدیث شریف چھو صحیح ترمذی وغیرہ کتب حدیثن اندر کہ یم شخصن زینس پیٹھ کانہ رثیا پیٹھ  
عملہ کر مثر آسہ زمین دیہ تھ گواہی خدایس بروٹھ کنہ۔ **يَوْمَئِذٍ يُصَدِّرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِّئُرَوْاْ اَعْمَالَهُمْ**  
تہ دودہ نیرن واپس مختلف جماژ حساب دتھ مختلف جاین گن نیکو کار با ایمان گزھن جنس گن کافر تہ  
مشرکین و اتاودہ نہ جنس گن یوتھ ساری پنہ نین عملن ہونند پھل تلن **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا**  
**يَرَهُ** \* **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** پس ئس شخصہ اکس ذرس برابر دنیا س اندر رز کو مہ کرہ  
تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بیہ ئس شخصہ اکس ذرس برابر بدی کرہ دنیا س اندر تھ تہ لبہ سو آخرتس  
اندر۔ بشرطیکہ سوئیکی یا بدی آسہ تھ و قس تان باقی ورنہ ہر گہ نیکی تہندہ گھرہ سیت ختم آسہ گمبہ۔ یا  
آسہ ایمان و توبہ سیت سہ بدی یا شر زائل سپد مت تلہ چھ بدل تھ، تلہ آسنہ سو خیر خیر رود مت۔ سو شر  
شر رود مت۔



## سُورَةُ الْعَادِيَاتِ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱  
 وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۱۱ ۱ فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۲ ۱ فَاَلْمُبْغِيَّتِ صُبْحًا ۳ ۱  
 فَاَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۴ ۱ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۵ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ  
 لَكَنُودٌ ۶ ۱ وَاِنَّهٗ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۷ ۱ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۸ ۱  
 اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۹ ۱ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۱۰ ۱  
 اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۱۱ ۱

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا قسم چھو تمں گرن ہیوند یمن دور تلمنہ وزہ پھرک کھسان چھو فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا تو پتہ چھو قسم تمں گرن ہیوند یم کنین پیٹھ نعل دار پڈر تراونہ سیت رہہ تراوان چھہ فَاَلْمُبْغِيَّتِ صُبْحًا تو پتہ چھو قسم تمں گرن ہیوند یم صکھ پگاہ چھہ دشمن پیٹھ واتھہ پڑوان، توپہ چھہ تمں لوٹ تہ غارت کران فَاَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا بیہ یم گرتہ ساتہ گردو غبار چھہ تلمان فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا توپتہ چھہ تہی وقتہ دشمن ہندس جماعتس تہ لشکرہ منز اٹان۔ یمن قسمن ہیوند جواب چھویئے یم قسم آئی ہاونہ تھہ کتھہ پیٹھ کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ پزپاٹھ یہ کافر انسان چھو پنہ نس خدایہ سزنا شکری کران وَاِنَّهٗ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ بیہ چھو بے شک یہ انسان پانہ تھہ پیٹھ مطلع تہ گواہ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بیہ چھو بیشک یہ انسان مالہ کس مجتہس اندر سیٹھاہ مضبوط تہی چھہ ٹنہ تہ در پیٹھ یوان مالکس مجتہس اندر چھو تو تھہ بڈمت غرق گو مت کہ منعم حقیقی سزہ نعرہ جھنہ بوزنہ یوان اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ کیا سنا مس انسانس چھنا سو وقت ژتسی یمہ وقتہ قبر و منزہ پر پیٹھ کڈنہ بیہ تہ سو روی یہ تھہ منز آسہ مردہ وغیرہ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ بیہ آیہ نسر اونہ تہ سو روی یہ سین تہ دلن منز آسہ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ پزپاٹ تھونہ پروردگار آسہ تمہ دودھ تھندن ساری حالاتن پیٹھ باخبر تہ پور واقف سو دیہ تمں سو بدلہ کس تمں شو بہ۔

## سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳  
 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ  
 فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ  
 هَاوِيَةٌ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰ نَارُ حَامِيَةٍ ۱۱ ع

القارعة \* ما القارعة قیامت یومہ ڈیٹ دین چھ دلن ہیبت سیت یوسہ زربا وہ دین چھ کن خطرناک کرکیو سیت۔ ژہ کیا ونے بوسو دوه کوتاہ مشکل چھو و ما ادراک ما القارعة کوه چیز زانواوی ژہ کہ کوتاہ خطرناک چھو سو قیامتک دوه یوم یکون الناس کالفرایش المبتوث یه دوه لوک آسن چھ کر نہ آمت پونہ ہی۔ ہتھ پاٹھ پونہ چھ انہ گمہ منز ناہ کس گاشش کن سمت یوان تو پتہ تہہ نارس منزیان زالان ہتھ پاٹھ آسن کافر تہ نافرمان لوک جہنم منزد نہ خیرہ و لیس پوان وتکون الجبال کالعین المنفوش بیہ آسن کوه دونہ نہ آمت بھبپ ہی۔ یوتان نہ تم تہہ زمینس سیت دبہ بنن فاما من ثقلت موازینہ پس تسمندین نیکن ہوند پوترگوب لہ یعنی سو آسہ با ایمان فہو فی عیشة راضیة سواتہ تسلی بخش آراس اندر و اما من خفت موازینہ دین تسمندین نیکن ہوند پوترگوب لہ یعنی سو آسہ کافر فاممہ ہاویہ تسمندہ روزہ نچ جای آسہ ہاویہ یعنی جہنمک بینوم طبقہ و ما ادراک ماہیہ ژہ کوه چیز زانواوی سو ہاویہ کیا چھو نار حامیہ سو چھو گرم کر نہ آمت نار۔ نار چھو گرمے مگر آسہ بیہ گرم کر نہ آمت۔ بیہ نار، زن نہ آسن تہہ نسبت گرمی۔




بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اَلْهٰکُمُ التَّکٰثُرُ ۱۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ ۝ کَلَّا سَوْفَ  
 تَعْلَمُوْنَ ۳ ۝ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۴ ۝ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ  
 الْیَقِیْنِ ۵ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۶ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۷ ۝

اَلْهٰکُمُ التَّکٰثُرُ دنیوی سامانسی پیٹھ فخر کرن گروہ توہیہ غافل آخرتہ نشہ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یوتان توہیہ واتیو قبرن منز کلا ایم دنیوی چیز جھنہ ہرگز قابل فخر، یومیو چیز وسیت گھنہ تھن ہرگز بیہ چھونہ آخرت ہرگز مشراونس تہ انکار س قابل سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ توه سپدہ جلدی قبرن منز واتہ ونوی سوروی معلوم تھہ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ بیہ چھسونان کہ یم چیز ہرگز تھکنس قابل چھنہ آخرت غفلتس تہ انکار کر نس قابل چھونہ توہیہ سپدہ بروٹھ پن جلدی معلوم۔ یلہ قبر و منزہ نیرت میدان محشر س منز واتیو کلا تریہ پھرہ چھسون بیہ توه متوجہ کران کہ یم دنیوی چیز تھکنس تہ فخر کر نس قابل چھنہ آخرت قابل غفلت وانکار چھونہ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ہر گاہ توہیہ لوک یمہ تھہ پور زامہیو علم الیقین پاتھ صحیح دلیلو سیت یمن و لیکن ہنز متابعت کرن لازمی آس تلہ سپدہ ہونہ فخر و مباہاتس اندر مشغول سبت آخرتہ نشہ غافل تہ بے پروا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ قسم خدا توہیہ و چھون ضرور آخرتس اندر نار جنم تھہ لَتَرَوُنَّهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ توپتہ چھسون بیہ تاکیدہ خیطرہ فرماوان قسم ہاوت کہ توہیہ و چھو ضرور نار جنم یقینہ چہ نظرہ بلا شک و تردد تھہ لَتَسْتَلِیْنَ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ توپتہ بیہ تمہ دودھ توہیہ سارنی پر تھنہ نعم ہونہ۔ حدیث شریف چھو بروایت طہرانی بیہ ابن حبان رحمہما اللہ۔ از حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوک امہ دودھ آئے دوپہرہ کہ وقت سخت گرمی اندر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبویس اندر۔ توپتہ یوز حضرت عمرن تم تہ آئے ابو بکر صدیقن پرو تھہ

## تَوَسَّلْنَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝۴

عمر فاروقس۔ ہتھ گرمی اندر کم حض چیزن کڈوہ تہہ گرہ منزہ۔ تمو فر موس بو کڈ سنہ کونہ چیزن بو چھ ہند سختی ورا ی۔ تمو فر موس قسم خدا بو تہ در اس گرہ منز بو چھ ہندہ سختی سبہ بے یم آس پانوان کتھے کران اتی اون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموتہ پروژہ یمن دون صاحبن توہیہ تھہ پاٹھ دراوہ گرو منزہ ہتھ تاپہ کرایہ اندر، تمو کر ہک عرض ایس حض محض بو چھ ہنز سختی تمو فر مووک قسم چھومہ تس پروردگارہ سند تمس اتھ میون روح چھو بو تہ کڈس نہ کونہ چیزن بو چھ ورا ی۔ توپتہ آئے تر شوے صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سند گرہ تمو کر کھ پیش خضر کلک اکھ شاخہ، ہتھ منز پرت قسمک خضر آس۔ بیہ اونن آب سرد۔ بیہ اونن بوز تھ ماز۔ ای سائہ فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ النعیم الذی تستلون عنہ یعنی یہے کیاہ گیہ سہ نعمت یموک توہہ پر ژھنہ لیہ یہ تھ گذریہ یمن صحابہ صحین سخت دشوار توپتہ فرماوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم إذا أصبتم مثل هذا و ضربتم بایدیکم یلہ توہہ یشہ نعمتہاہ واتان آسہ توپتہ آسیو سر کھیوان تمہ ساتہ گرہہ پرون تموند بسم اللہ یلہ توہ کھت سیر سپدان آسیو توپتہ گرہہ تموند پرن الحمد لله الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل حمد یونین تس پروردگار س یمہ اسہ نعمت عطا کر سوی کرن ر ژ نعمت عطا فان هذا کفاف هذا ای پرن چھومہ نعمتک بدلہ۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سورہ والضحیٰ کس تمہیدس اندر یمن ضروری تھن ہونذکر کرنہ آو۔ تمواندرہ چھہ اکھہ تھہ کہ ہنن عمر گڑھنہ ضالیج کرن بے ہودہ کامن اندر۔ بلکہ گڑھہ عمر صرف کرن طاعات و نیکیاں اندر۔ وَالْعَصْرِ عصر چھہ ونان زمانس یعنی قسم چھو زمانک ہتھہ منز انسانہ سز عمر تہ داخل چھہ ہتھہ عمرہ اندر سو تحصیل کمالات و سعادات کرت ہکان چھو گویا یہ عمر چھہ تہندہ خیطرہ بے بہا متاعاہ۔ یا چھو قسم عصر کہ و تچہ نمازہ ہوندہ کیا زہ تھہ فر مو اللہ تعالیٰ ان صلوة الوسطیٰ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو صلوة وسطیٰ گیہ دگر نماز بیس حدیث شریفس منز چھو امت یس اس نماز دیگر فوت سپدہ تہ پر نک موقعہ آینہ تمس چھو تیوت نقصان و اتان زن تمس اہل و عیال تہ مال و دولتس لوٹ کرنہ آو۔ یہ قسم چھو ہتھہ تھہ ہتھہ کہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ پز پاتھہ یہ انسان چھو عمر ہنن ضالیج کرنہ کہ وجہ ہڈس نقصانس اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو لو کو ایمان اون تہ یقین کور بیہ کر کیہ رتھہ عملہ و تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ بیہ کر کہ اکھ اس وصیت پزس اعتقادس تہ پزس دینس ہتھہ قائم روزنج

بیہ کر کہ اکھ اس وصیت صبرج یعنی رتھن اعمالن پیٹھہ پابندی کرنج دین اسلام لوکن و اتانولس اندر محنتن تہ مشتقن ہتھہ صبر کرنج۔ یعنی انسانس چھہ نقصانہ نشہ ہجنہ خیطرہ ژوان تھن ہنز ضرورت اکھ گڑھہ خد اورر رسول خد اس پیٹھہ ایمان ان۔ بیہ گڑھہ تہندین ارشاداتن تہ ہدایاتن پیٹھہ بیہ تہندین وعدن پیٹھہ اودہ تم دنیاوس متعلق آستن یا آخرتس متعلق آستن یقین کرن۔ دو نم گڑھنہ امہ یقینک اثر دل و دماغسی تان تھاون بلکہ گڑھہ امہ یقینک اثر اعضاؤ تہ تانوسیت تہ ظاہر کرن بلکہ گڑھہ اسمنز عملی زندگی آسن اسندہ دلکہ ایمانک آینہ۔ تر یوم اسند گڑھنہ خاص پنہ نہ ذاتہ کسی اصلاح و فلاس پیٹھہ قناعت کرن، بلکہ گڑھہ قوم و ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون۔ یلہ زہ مسلمان پانہ وان ملاقات کرن تھوندر گڑھہ پنہ



## وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

نه قول و فعل سیت پزس دینس ته پرتهه معاملس متعلق پزرتہ صداقت اختیار کرنک تاکید کرن ژورم گوپرت اکسنز گرهه بیس شخصس بیہ نصیحت ته وصیت کرن کہ پزه کس معاملس ته شخصی یا قومی اصلاح چه و نه اندر یم تکلیف ته یمہ سختی ته دشواری پیش ین۔ یا خلاف طبیعت پیہ بعضے چیزن پیٹھ تحمل کرن تمن پیٹھ گرهه صبر واستقامت سیت کوم هین۔ کونه صورتس اندر گرههه نیکن گن پاد پوت پھیرن ته سست سپدن۔ یم خوش قسمت لوک ژون صفن هند جامع آسن۔ پانه کامل آسته بین لوکن کامل بناونچ کوشش کرن تهوندناوروزه همیشه وجوده کس دفترس اندر موجود تهند آثار روزن بطور باقیات الصالحات تهندس اجر و ثوابس همیشه ترقی دیوان۔ تحقیقس اندر چھویہ مختصر ته لوکت سورہ شریفه مگر ساری دین و حکمتک خلاصه ته جوهر۔ حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ آس فرماوان کہ هرگه ساری قرآن مجیده اندرہ یهوی اکھ سورہ شریفه پر نه بیہ ہا۔ ته عاقل دانانہ سمجھ دار بندن ہندہ ہدایہ خیطرہ اوس یهوی اکھ سورہ شریفه کافی۔ بزرگان دین سلف صالحین آس پانه وان ملاقاتہ وزہ اکھ اکس یہ سورہ شریفه

بوزناوان



سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝<sup>۱</sup> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝<sup>۲</sup>  
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝<sup>۳</sup> كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝<sup>۴</sup> وَمَا  
 أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝<sup>۵</sup> نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۝<sup>۶</sup> الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى  
 الْأَفْئِدَةِ ۝<sup>۷</sup> إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝<sup>۸</sup> فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝<sup>۹</sup>

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ویل به افسوس تس شخصه سده خيطره هیس عیب پهران آسه هیس غیبت کران ته  
 طعنه دوان آسه الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ هیس غایت درجه طامع ته حرص آسه ته اسم مال جمع  
 کران سوی آسه گره گره گمز رگمز رتھاوان۔ تمسندیه کر نه اندر چھو معلوم سپدان که یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ  
 أَخْلَدَهُ سوچه گمانه کران ته خیال تھاوان که یہ امند مال پوشاوه اس یعنی زنده تھاویس همیشه کَلَّا ته  
 بنه نه هر گز نه روزه یہ شخص نه روزه امندیه مال دولت لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ قسم خدا سوایه دارت دنه  
 ژھه تراوه ونس ته کوچه کوچه کره ونس نارس اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ توبه کوه چیز زانراوه سو کوچه  
 کوچه کره ون نارکیاه گو۔ بوز یواس کره بیان نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ \* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ سوچه خدایه  
 سُد سوی نار هیس تمهنه حمه زاننه آمت چھو هیس نار بدن سیت لحم ونوی دلن پیٹھ اثر کره إِنَّهَا عَلَيْهِمْ  
 مُّوَصَّدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ پزپاٹھ سونار آسه تمن پیٹھ ٹھانڈ دنه آمت۔ تمیک دروازه آسن بند کر  
 نه آمت بیمه اندر نه نیر تھے بکنه نه زاننه آسن گنڈ پھرت تھاونه آمت نارہ کین ز پٹھن تھمن سیت




## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْمُتْرَكِیْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیْلِ ۝ اَلَمْ یَجْعَلْ

عشکس پادشاہ سندھ طرفہ اوس سمنس اندراکھ حاکم تس اوس ابرہہ ناو سواوس عیسائی، تمی اوس سمنس منز بمقام صنعاء اکھ کنینہ یعنی عیسائین ہوند اکھ گرجا اکھ بناومت۔ تھے بے شمار بارہ گاجمڑہ آسن تھے متصل راحتک اراکھ تہ دکشی ہند سامانہ آسن مہیا کرمت یوتھ تمی سیت لوکن ہندول تھے کن راغب سپدن تہ مکہ کس کعمس پر ژھنہ کانہ تہ تمس اوس خیال کہ تھے پاٹھ لوک چھ خانہ کعبہ کہ زیارتہ خیطرہ گزھان تھے پاٹھ گوڑہ لوکن ہوندیمہ گرجہ خیطرہ تہ یون۔ چنانچہ برت طرفہ کرہ ناون امیوک اعلان عربہ کن لوکن خصوصاً قریش گویہ سیٹھاہ ناگوار۔ توپتہ آوکوہ تان شخص تم کور راتھ کیوت اتھ گرجس منز ناپاکی۔ بیئس روایتس منز چھو کہ اتھ متصل آونار زالنہ نارووت ہوا کہ ذریعہ اتھ گرجس تان تہ یہ گرجہ دود سوروی اتھ پیٹھ دود ابرہہ۔ تمس گنڈن نار۔ تمس کھوت سخت غصہ، سو آوبنڈ لشکر بہت تھے لشکرہ سیت ہست تہ آس شامل خانہ کعبہ مہدم کرنہ خیطرہ یلہ سو بمقام خمس دوت تہ پٹھ سوزن عبدالمطلبس بس تمہ وقتہ ریئس مکہ اوس پیغام کہ بوچھس نہ جنگ کرنہ آمت بلکہ چھس بو صرف کعبہ مہدم کرنہ خیطرہ پکان۔ ہرگہ کانہہ شخصہ تھ اندر مہ مزاحمت کرہ البتہ تس سیت کرہ بو ضرور جنگ۔ عبدالمطلبس سوزس جواب اتھ گرس تہ چھ کانہہ مالکاہ سو کرہ پانے امہ گرج حفاظت توپتہ سوزن بیہ عبدالمطلبس ملاقات کر تک پیغام زبان تہ سپدای قسک گفتگو۔ تمس نشہ واپس یت نی عبدالمطلبس ساری قریش توپتہ کھت تم کوہن پٹھ پان پینن بچاونہ خیطرہ امہ لشکرہ ہندہ شرہ نشہ، توپتہ آوا برہہ فوج بیھ مکس کن یلہ تم وات وادی محرس منز بس میدان مزدلفس نزدیک چھو۔ سمندرہ کہ طرفہ آئے سبز تہ زرد جانور کینہہ، کوترن ہندہ خوتہ لوکٹ، تمے آس پینن تہ تو تنن منز مسور پھلن تہ چنہ پھلن برابر کنہ پھل تے تھ ترون اتھ لشکرہ پیٹھ۔ خدایہ سزہ قدر تہ سیت اوس بیوی کنہ پھول لگانی یمن گولین ہند پاٹھ۔ بس لگان اوس سوی اوس تھے لگان تہ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞  
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞

ہلاک سپدان۔ بعضے لوگ ٹل تم تے گئے عیو عیو بیمار یوسیت ہلاک تے تباہ۔ یہ واقعہ چھو سپد مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ تولد سپد نہ بروٹھ پنڑہ دوہ یہ واقعہ سپد مت ماہ محرمہ کس اخیر س اندرامہ پتہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتدا س اندر تولد سپد مت بعضے راوی چھو فرماوان تمی شبہ سپد تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيلِ کیا توہ چھنا معلوم کہ تہوند پروردگارن کیاہ معاملہ کر ہست والین سیت توہیہ زانوہ کیوتھ قدرتہ دول چھو تہوند پروردگار اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا تہوند تدبیر نیس کعبہ شریفک لورہ نس تہ منہدم کرہ نس متعلق اوس سوگرننا اللہ تعالیٰ ان بیکار تہ غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سوزن تمں پیٹھ جانور فوجو فوجو تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تھے جانور آس تراوان تمں ہست والین پیٹھ کنہ پھل یم دراصل مڑہ پھل آس کنہ پھل ہی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ پس کتر تم اللہ تعالیٰ ان تراپنہ آمت گاسہ ہی یعنی تباہ و برباد۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 لِأَيْلَافِ قُرَيْشٍ ۱) الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۲) فَلْيَعْبُدُوا  
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۴)

لِأَيْلَافِ قُرَيْشٍ ای مخاطب تعجب کر قریش ہندہ ملہ تارک تہ باہمی اَلْفَتَّک الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ خصوصاً چھو تہوند باہمی الفت وند کس تہ رتہ کالہ کس سفرس اندر۔ وندس اندر چھہ تم سفر کران تہس گن، رتہ کالس چھہ سفر کران شامس گن۔ یمن دون جاین چھہ یم قریش تجارت کران یمن دوشوین ملکن ہند لوک آس یمن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران کعبہ شریفک ہمسایہ تہ خادم آسنہ موکھ تمسن یلہ یہ سواری تعظیم و تکریم چھوای کعبہ شریفہ کہ برکتہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس کرن تم امہ عظیم الشان گرہ کس مالکہ سنز عبادت ہستی نشہ روزن دور الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ یم مالکن یمن طعام عطا کور بوچھ وزہ، بیہ یم امن وامن دیوتک خوفہ نشہ کس اندر اوس نہ غلہ پیدہ سپدان کینہہ تہ، تمہ موکھ آس اتک لوک قریش ورہس اندر تجارتہ خیطرہ دوویہ پھرہ سفر کران۔ گرمی اندر شامس گن۔ سردی اندر تہس گن۔ تمسن ملکن ہند لوک آس یمن اہل حرم بیہ خادم بیت اللہ آسنہ موکھ سیٹھاہ تعظیم کران۔ یہ ہندہ جان و مالج حفاظت کران و تہ تہ اوسنہ کونہ جایہ یہ ہندس مالس کانہ اکھ تعرض کران۔ نفع تہ اوس یمن کافی حاصل سپدان۔ باقی وقتس آس یم قریش آرام و عیشہ سان زندگی بسر کران۔ تہ سورس منز چھوای واقعک ذکر۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۙ  
 وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ کیا تو بہ و چھو نہ سو شخص بس جزاء کس دو ہس اپن زمانا چھو۔ ہر گہ توہ تمسد حال بوزن یرھان چھوہ تلمہ بوزیو فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ سو گوی سوی شخص بس تیس دکہ دیوان چھو وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ چھو نہ مسکینس طعام دنوک تر غیب بیس نہ کران یعنی نہ پانہ مسکینس کھیوان نہ چھو بیس کھیوانک تر غیب دو ان یلہ بندہ سند حق ضائع کرن یوت بچھو چھو نہ خدایہ سند حق ضائع کرن کوتاہ زیادہ بچھو گڑھ آسن ادانہ کرنہ خیطرہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس امہ اندر سپد ثابت کہ اتھن نماز پرہ و نین ہندہ خیطرہ چھو بوذا فسوس نہ خرابی یم پنہ نہ نمازہ نشہ غافل سپد ان چھہ، دنیوی کامین اندر مشغول سپد تھک نہ نماز پر نادی روزان تم چھہ زمانا یہ پر ن کیاہ قصہ چھو۔ امہ نمازہ اندرہ کیاہ مقصود چھو۔ یہ نماز چھہ پنہ نس مالکس نہ آغس بروٹھ کنہ پن مطالبات پیش کرن۔ یہ نماز گڑھ نہایت اہتمامہ سان نہ وقتہ چہ پابندی سان پر ن۔ یم یم وقت مولان مقرر کر مت چھہ تمس وقتن پٹھہ حاضر سپد بکمال خشوع و خضوع یہ نماز ادا کرن چھو لازم مگر یم لوک بیٹھے نماز دنیا کی کامین سیت مشغول سپد زانت کرت وقت ضائع کرن آخر وقتس پٹھہ دگہ دارہ و تھا بیٹھی ہند پٹھہ ادا چھہ کران تہندی خیطرہ چھو بوڈویل نہ افسوس الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ یم لوک نمازہ ہنز کیاہ چھہ تھے سارے عملہ لوکن ہاونہ خیطرہ کمران چھہ۔ وَيَسْتَعِزُّونَ الْمَاعُونَ بیہ تم ماس اندر خدایہ سند حق ادا چھہ کران یعنی زکوٰۃ چھہ دیوان چونکہ اتھ اندر چھو نہ کونہ قسم اظہار تمہ موکھ چھہ یہ لو تہ پٹھی کھیوان۔ بخلاف نماز چونکہ اتھ اندر چھو نمود و نمائش، تمہ موکھ چھہ کونہ وقتہ

# صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۶﴾ وَيَسْتَعِينُونَ ﴿۷﴾

پران کونہ وقتہ ترک کران بعضے مفسر و فرمود کہ ماعون گئے معمولی استعمالی چیز، تم تہ چھنہ اکھ اکس عارضی پاٹھ تہ پڑھ پاٹھ دیوان۔ سوگوئیو کہ ہیور زہش۔ دیگیہ ہیو۔ پتلہ ہیو مکوہش۔ یاسون تہ پنہ داو ہش یمن ہندہ اورہ یوردنک دنیا س اندر پڑھ پاٹھ دنک عام رواج چھو۔ وین یمن لوک ہندہ ٹٹلگ تہ خستک حال امہ قسمگ آسہ تہندہ حقہ کیا فائدہ چھو ریاکاری ہنزہ نمازہ ہیوند۔



## سُورَةُ الْكَوْثُرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرْ ② إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند زیوٹھ ہو فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یل یہ عالم گئے مکہ کیوکا فرو خصوصاً عاص بن وائلن دوپ حضرت محمدہ سُنْد نسل سِد و وَاِن منقطع۔ تم سپد (نعوذ باللہ) ابتر۔ یعنی بے نام و نشان مطلب اوس تمہ اندرہ کہ و وَاِن چھوامہ یہندہ دینک چرچہ کسی کالس تان۔ اتی سپد نازل یہ سورہ شریفہ تیمنے کافر ن ہندہ تردیدہ خیطرہ **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ** تحقیق اسہ کر توہ عطا یار رسول اللہ خیر کثیر۔ یعنی سیٹھاہ خیر۔ دنیاہ ک خیر تہ یعنی دینک باقی روزن اسلامک سیٹھاہ ترقی لب ن بیه آخر تک خیر یعنی قُرْبُگ تُھد مرتبہ تہ تُھد درجہ ہر گہ اکھ فرزند تہوند یہ عالمہ گویتھہ پیٹھہ تہوند دشمن خوش چھ سپد مت مگر توہ مہ سپد یو تمہ سیت غم گین تہ ناخوش، کیاہہ اسہ کر توہ تمہ خوتہ بہتر فضل تہ نعمت عطایتھ نہ نہایتھہ چھ کونہ بیه کر اسہ عطا توہ حوضِ کوثر آخرتس اندر اکھ تلاواہ بیتھ متعلق حدیث شریف چھو متفق علیہ فر موو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مَسِيرَةُ شَهْرٍ میون حوض چھو اکہ رتہ کس مسافس برابر وایاہ سواہ تمکی اند تہ کنارہ چھہ برابر پرت طرفہ ماوہ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِبْرَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ آب تمیک چھو دودھ خوتہ زیادہ سفید۔ نافہ خوتہ یژ خوشبو۔ تمیک لوٹھ چھہ تیت ایت آسمانک ستارہ مَن يَشْرَبْ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا بس اکھاہ تمیوک آب چہہ تس لکھ نہ زانہ تہ تریش **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحُرْ** پس یمن نعمن ہندس شکرس اندر پر یو توہہ نماز محض پنہ نس پروردگارہ سندہ خیطرہ۔ کیاہہ عجن نعمن ہندس شکرس اندر گدھہ ہنڈ عبادت ادا کرن سوہنڈ عبادت گیہ نماز۔ تکمیل شکرہ خیطرہ گدھہ اتھہ بدنی عبادتس یعنی نمازہ سیت مالی عبادت تہ کرن سوگو قربان کرن **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** پزناٹھہ تہوند دشمن چھو ابتر، لٹ ثروٹ یعنی بے نام و نشان کیاہہ تم چھو معبود برحقس و رای بین چیزن ہنز عبادت تہ پرستش کران۔ بیه چھہ تس و رای بین مخلوقن ہنڈن ناون پٹھہ تہند قرب تہ نزدیکی حاصل کرنہ خیطرہ ذن تہ قربان وغیرہ کران۔



## سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۲  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۴ وَلَا  
 لَأَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَرِلِي دِينِ ۶ ع

سبب نزول چھویم سورہ شریفک کہ اکہ دوہ آی کہنہ اشخاص کافرن ہند زٹھ زٹھ نبی کریمس نشہ تموے کوز عرض چٹھنا صلاح توہہ کریو سائین معبودن ہنز عبادت اَس تہ کرو تہندس معبودہ سنز عبادت اَس تہ توہہ کرو مشترکہ دین قائم۔ اتھ منزئس روت تہ جان طریقہ آسہ تمیوک فاندہ وابتہ توہہ تہ آسہ تہ۔ اتھ موقعس پٹھ سپد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فرمایو کہ توہ یارسول اللہ ای کافرو میون تہ تہوند طریقہ بیکنہ کنوی سپدت بو چٹھسنہ عبادت کران تہوندن معبودن ہنز۔ ون کنس تہ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ چھوہ توہ عبادت کران مینس معبودہ سنز وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ بیکنہ یہ آئندہ زانہ بنت کہ بو کیا کرہ عبادت تہندین معبودن ہنز نہ ہنہ تہ کہ توہ کیا کریو عبادت مینس معبودہ سنز۔ یعنی بو بیکنہ نہ موحد آستھ خدایس شرک انتھ زانہ نہ۔ نہ ہیکی توہ مشرک آستھ موحد بنت زانہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَرِلِي دِينِ توہ تہ پتون دین متہ پتون دین۔ توہ تہ پتون بدلہ تہ عوض متہ پتون بدلہ تہ عوض۔



## سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ  
 اللَّهِ أَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③ ع

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ① یلہ خدایہ سند مدد تہ فتح مکہ پنہ نیو آثار و تہ نتا جو سان توه دوت تہ حاصل سپد۔ تمیک آثار یم تہ پیٹھ مرتب سپدہ ون چھ تم گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ② بیہ یلہ و چھو ک توه خدایہ سندس دینس یعنی اسلامس اندر لوک داخل سپدان فوجو فوجو تمہ ساتہ زانیو توه کہ دنیاس منز روز نک مقصود سپد حاصل۔ بیہ نیس تہندہ پیغمبر بناونہ اندرہ تکمیل دین مقصود اوس تہ سپد مکمل و ون چھو سفر آخرت قریب لہذا کریو توه تج تیار ی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ③ پس آسیون توه پنون پروردگار منزہ تہ پاک زانان بیہ آسیوتس حمد دپان۔ بیہ آسیوتس مغفرت منگان پنہ نہ خیطرہ بیہ پنہن امتین ہندہ خیطرہ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③ بے شک سو چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا  
 كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ یہ آیہ کریمہ نازل سپد وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ تم کھت کوه صفاس پٹھ توه پتہ ونگ سارنی قبیلن آلو ساری یلہ جمع سپد تمن دنگ اسلامس گن دعوت ابو لهب لیس تموند پتر اوس مگر بدترین دشمن تہ اوس سو لگ وند نہ تبالک لسانہ الیوم اهلذا جمعنا یعنی بر باد گره ژہ کیا امی خیطره سو نبر او تهاہ ژہ آیہ اس اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل امہ ووهوک جواب دس پانہ اللہ تعالیٰ ان۔ امس ابو لهبیس آس زانہ ام جمیل تس تہ اوس سخت حسد تہ عداوت حضرت رسول کریمہ سند چنانچہ سہ آس کنڈ کل جنگلہ منز ژٹت اتان تہ آس تمن وتن وہراوان یمو و تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اوس آسان تمنی کنڈ مورن ہوند بور آس سو کبرس پٹھ تلٹ اتان تہ آو تس وند حمالہ الحطب دوشوین متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ابو لهبیس پین پانس دوشوے اتھ و تھ پانہ گره هن سو بر باد تہ تباہ۔ چنانچہ یہ بد دعا چہو تس پانس، جنگ بدرہ پتہ ستہ دوہہ در اوتس طاعونی پھپھڑہ تو پتہ در او گرہ منز نبر۔ یوتھنہ بیہ کانہہ گرس منز امیوک اثر تہ تھہ حالس منز مود۔ ترن دوہن تان آسنہ کھتل کانہہ، تر یہ دوہہ اچھہ حبشی مزور تموی دتس ہمہ تلیو سیت ذکہ ذکہ، تو پتہ تراو کھ اکس کھو ڈس اندر، پٹھ تراو ہس کنہ سیکھ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کانہہ فاندہ دیوت نہ تس مالن تہند تہ تم مالن لیس سبز مت اوسن تہ تم مالن لیس کمومت اوسن کونہ قسمک مالن ہیوک نہ سو پجاوت ہلاکتہ نشہ یہ گوا مسند حال دنیا س اندر آخر تس اندر آسہ امسند حال کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سوا تہ عنقریب اکس ریمہ تراوہ ونس

## الْحَطْبِ ۱۴۰۱ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝۵۰

نارس اندر اکھ پانہ بیہ تہنز آشن، یوسہ کنڈدار زیون تہ مورہ کبرس پیٹھ تلت اتان آس **فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ** تمسندہ گردن منز چھ خضر دلن ہنز وٹھمہرز۔ امس امسند زانہ آس قیمتی اکھ ختہ مالہ اکھ ہٹس تل، دپان آس سویبے ختہ مال کرن بو خرچ محمدہ سندس مخالفتس اندر جہنمسن اندر تہ آسہ تس نارورز ہٹس گنڈت۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ لَهُ وَلَمْ

اکہ پھرہ پر ژہ مُثر کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدایہ سند نسب کیاہ چھو۔ تسند صفت کم چھہ تتھہ  
پٹھہ سُد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ توه فرماو بو یارسول اللہ یمن لوکن کہ اللہ تعالیٰ چھو  
کئوی ذاتہ کن تہ صفتو کن۔ نہ چھس ذاتس منز کانہہ شریک نہ صفتن منز تہندہ ذاتگ کمال چھو کہ سو چھو  
واجب الوجود۔ تہند صفت چھو کہ سو چھو علیم تہ قدر تہ محیط تہ اللہ الصمد اللہ تعالیٰ چھو توتھہ بے  
نیاز کہ سو چھو نہ کانہہ گن محتاج یم تس و رای چھہ تم چھہ تش گن محتاج پرت چیزس اندر لم یولد ولم  
یولد نہ زاس کانہہ نہ زاد کانہہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بیہ چھہ تش ہو کانہہ اکھاہ توحیدہ کین  
مُعترن چھہ و رایہ قسم۔ بعضے گے تم یم خدایہ سندس وجودس مُعتر چھہ۔ بعضے گے یم تسندس واجب الوجود  
آسہ نس منکر چھہ۔ بعضے گے تم یم تہندن کمالہ کین صفتن مُعتر چھہ۔ بعضے گے یم تس عبادتس اندر  
شریک شہراوان چھہ اتھہ فرموا اللہ تعالیٰ ان اللہ أَحَدٌ سیت رد بعضے گے تم یم مشرک فی استعانہ چھو  
یعنی یم تس و رای چھہ بین نشہ یاری تہ مدد ژھانڈان بیہ تمنی پن حاجت منگان۔ تمن چھو رد اللہ  
الصمد سیت یعنی حاجت گروہ تش نشہ ژھانڈان نس نہ پان کانہہ گن محتاج آسہ سو چھو نہ کانہہ تہ تس  
ذات پاکس و رای تس و رای یم چھہ تم ساری چھہ تس گن محتاج ساری چھہ تس بروٹھہ کنہ پنہن پختی تہ  
عاجزی نر او ان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تہ چھو فرماوان يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ  
الْحَمِيدُ یعنی ای لوکو توه ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ اس گن پرت وقتہ تہ پرت حالس اندر۔ اللہ تعالیٰ  
ای چھو بے نیاز حاجت آسہ نشہ منزہ تہ پاک۔ حمد پنے آمت تعریف کرنہ آمت۔ حضرت سید  
المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آس دعاء کر ان اللهم إني ضعيف فقوني وإني مريض فاشفني وإني  
ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني یعنی یا اللہ بو چھس کمزور تہ ناتوان ژہ کرم قوت تہ طاقت عطا  
بو چھس بیمار ژہ کرم شفا عطا۔ بو چھس ذلیل ژہ کرم عزت عطا۔ بو چھس محتاج ژہ کرم حاجت روا۔

## يُولَدُ ۳ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

بوچھس نادار تہ فقیر ژہ کرم رزق عطا بیا کہ جماعت یم تس کورہ تہ نچو لاگان چھہ تمن چھور دلہ ییلد  
 کانہہ نہ زاس سیت یم لوک بعضے بشرن تہ جلن پنن معبود چھہ زانان تمن آورد کرنہ ولہ یولد تہ نہ زاؤ  
 کانہہ سیت کیا زہ تم ساری چھہ مولود یعنی زامت۔ بیا کہ گو معبود برحق سو چھونہ کانہہ تہ زامت بعضے  
 لوکن ہند اعتقاد چھو کہ تس برابر چھو بیہ تہ کانہہ چنانچہ جوس ہیوند اعتقاد چھو خدا چھہ زہ اکہ گو یزدان  
 بیا کہ گواہر من اکس اتھ چھو خیر تہ بیس اتھ چھو شریم دو شوے چھہ اکہ اکسندی تہ ہمسر۔ اتھ کور  
 اللہ تعالیٰ ان رد ولہ یکن لہ کفوًا احد سیت یعنی تس ہیو چھہ کانہہ تہ نہ چھو سو کانہہ ہیو۔ غرض چھو  
 کہ نہ زاؤ تس کانہہ نہ زاؤ سو کانہہ۔ نہ چھو کانہہ تس ہیوند چھو سو کانہہ ہیو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا  
 وَقَبَ ۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۵

یہ سورہ بیہ سورہ الناس یمن دو شون سورہ شریفین ہیوند شان نزول چھو کہ لبید بن اعصم اوس اکھ ساحراہ مدینہ شریف منزلت آسہ کورہ تہ سحر کرہونہ تی لبید بن اعصم تہ تہمز و کور پوگر سحر تہ جو دنی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم بیہ کہ اثرہ سیت تمس سخت تکلیف اوس۔ امہ اندرہ اوس اللہ تعالیٰ اس نراون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساحر چھنہ ہرگہ تم ساحر آسن۔ تہ پٹھ پٹھ دشمن تمس ونان آس۔ تلہ کرہ ہنہ کانسہ ہوند سحر تمس پٹھ اثر۔ کیا زہ یہ سحر آس تمس سارنی نش مسلم کہ ساحر س پٹھ چھنہ بیس ساحرہ مند سحر اثر کران۔ توتہ گردعانی کر یمن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سحرک اثر دورگوشنہ خیطرہ منگوکہ دعاء اللہ تعالیٰ ان گرنال یم زہ سورہ شریفہ۔ بیہ کرنک اطلاع کہ فلین شخصن چھو فلین جایہ فلین چیزس اندر توتہ پٹھ سحر کرمت۔ چنانچہ تموسوز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہہ جایہ تہہ آنکھ کہ کیرہ منزہ کڈت اکھ کنگواہ تہہ آس مؤوی امت بند کر نہ سوی یلہ ووت در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموبہیت یمن دون سورہ شریفین ہند آیات کریمہ پرن اکھ اکھ گڈاوس مژرنہ یوان۔ چنانچہ امہ پتہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ تکلیفہ نشہ بالکل آزاد۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ توتہ آسیویارسول اللہ پانہ تہ پنے نہ خیطرہ پرن بے تہ آسیو کہ بیچہ یوان بیہ پرن پناہ چھوس بومنگان صبح کس لبس یعنی بس راتر ہنہزہ بگہ پراکتھ گاش چھو پھولہ راوان سارنہ مخلوقاتن ہندہ شرہ نشہ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان راتر ہنہزہ تاریکی نشہ یلہ سہ و ہراونہ بیہ راتر اندر چھو شرن ہوند احتمال ظاہرے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان تمس زنانن نشہ بیہ پنے گڈن پٹھ پٹھو کہ دوان چھ بیچے سحر کرہونین زنانن نشہ۔ مراد چھ تمواندرہ لبید بن اعصمہ سزہ کورہ۔ یا عام ساحر زنانہ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بیہ پرت حسد کرہ ونس نشہ یلہ سوحد کرہ۔

## سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ النَّاسِ ۝۳  
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي  
 صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو آسیویار رسول اللہ پانہ تہ پران بیہ آسیو کوکھ لوکھ تہ بیچھناوان پر ن بو تھس پناہ منگان لوکن ہندس خدا یس مَلِكِ النَّاسِ لوکن ہندس پاد شہس إِلَهِ النَّاسِ لوکن ہندس معبود برحقس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وسوسہ تراوہ نسی شیطانہ سندہ شرہ نغہ الْخَنَّاسِ نیس یاد خدا کرن وزہ پتھ چھو ژلان الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ نیس شیطان اکثر لوکن ہندن دلن اندر چھو وسوسہ تراوان مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ادہ سو وسوسہ تراون وول جن آستن یا انسان قرآن مجیدک ابتداء چھو حرف باء سیت انتہاء چھو حرف سینہ سیت یعنی بِسْمِ اللَّهِ ہک بے والناسک سین اتھ چھو بنان لفظ بس۔ بس چھو عربی لفظ لغتہ جن کتابن اندر امیوک معنی فحش یعنی نیوی۔ امہ اندرہ چھو اشارہ کہ یہ کیرہا یکن دون حرفن منز تھو تہ چھو کافی لوکن ہندہ خیلرہ ہیاکھ اکھ لطیفہ چھو بیتھ سُورس منز تمہ اندرہ ظاہر تھو سپدان قرآن مجیدک حسن آغاز و انجام سو گواہی زہ امہ سورہ شریفک مضامین تہ سورہ فاتحک مضامین چھہ پنہ وان متقارب یعنی اکھ اکس سیت رلان چنانچہ رب الناس مناسب تھو رب العالمین ملک الناس مناسب تھو ملک یوم الدین الہ الناس سیت تھو مناسب ایاک نعبد اعوذس تھو مناسب ایاک نستعینس سیت الوسواس الخناس چھہ مناسب اهدنا اس سیت صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العلمین



## رموز اوقاف قرآن مجید

ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ة) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اب (ة) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔

۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفین کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔

مر یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرنا نہ جائے تو ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔

ص علامت وقف مرض کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہرائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔

صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

صل قد یوصل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔

قف یہ لفظ قف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

سکتہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفہ لے سکتے کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

ك كذلك کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمزاں سے پہلی آیت میں آچکی ہے، اُس کا حکم اس پر بھی ہے۔

ث یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معافہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معافہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

# قرآن مجید کن سورن ہند فہرست

شمار پاره	صفحہ نمبر	سورک ناو	شمار سورۃ
۱	۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱
۳ - ۲ - ۱	۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲
۴ - ۳	۱۴۱	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳
۶ - ۵ - ۴	۲۱۳	سُورَةُ النَّسَاءِ	۴
۷ - ۶	۲۸۸	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۵
۸ - ۷	۳۴۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶
۹ - ۸	۴۰۸	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۷
۱۰ - ۹	۴۸۰	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۸
۱۱ - ۱۰	۵۰۵	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۹
۱۱	۵۵۶	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۰
۱۲ - ۱۱	۵۸۹	سُورَةُ هُودَ	۱۱
۱۳ - ۱۲	۶۲۴	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۲
۱۳	۶۶۰	سُورَةُ الرَّعْدِ	۱۳
۱۳	۶۷۷	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ	۱۴
۱۴ - ۱۳	۶۹۲	سُورَةُ الْحِجْرِ	۱۵
۱۴	۷۰۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۱۶
۱۵	۷۴۱	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۱۷
۱۶ - ۱۵	۷۷۴	سُورَةُ الْكَافِرَاتِ	۱۸
۱۶	۸۰۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۱۹
۱۶	۸۲۸	سُورَةُ طهَ	۲۰
۱۷	۸۵۴	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۲۱
۱۷	۸۷۹	سُورَةُ الْحَجِّ	۲۲
۱۸	۹۰۴	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۲۳

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره سورة
۱۸	۹۲۵	سُورَةُ التَّوْرِ	۲۴
۱۹ - ۱۸	۹۵۱	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۲۵
۱۹	۹۷۰	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۲۶
۲۰ - ۱۹	۹۹۵	سُورَةُ النَّحْلِ	۲۷
۲۰	۱۰۲۰	سُورَةُ الْقَصَصِ	۲۸
۲۱ - ۲۰	۱۰۴۹	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۲۹
۲۱	۱۰۷۰	سُورَةُ الرُّومِ	۳۰
۲۱	۱۰۸۷	سُورَةُ لُقْمَانَ	۳۱
۲۱	۱۰۹۸	سُورَةُ السَّجْدَةِ	۳۲
۲۲ - ۲۱	۱۱۰۶	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۳۳
۲۲	۱۱۳۴	سُورَةُ سَبَأٍ	۳۴
۲۲	۱۱۵۱	سُورَةُ فَاطِرٍ	۳۵
۲۳ - ۲۲	۱۱۶۸	سُورَةُ يُسُفٍ	۳۶
۲۳	۱۱۸۳	سُورَةُ الصَّافَّاتِ	۳۷
۲۳	۱۲۰۱	سُورَةُ صٍ	۳۸
۲۴ - ۲۳	۱۲۱۷	سُورَةُ الزُّمَرِ	۳۹
۲۴	۱۲۴۱	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۴۰
۲۵ - ۲۴	۱۲۶۴	سُورَةُ حَمْرٍ السَّجْدَةِ	۴۱
۲۵	۱۲۸۰	سُورَةُ الشُّورَى	۴۲
۲۵	۱۲۹۸	سُورَةُ الزُّخْرُفِ	۴۳
۲۵	۱۳۱۶	سُورَةُ الدَّحَّانِ	۴۴
۲۵	۱۳۲۴	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۴۵
۲۶	۱۳۳۴	سُورَةُ الْأَحْقَافِ	۴۶
۲۶	۱۳۴۸	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۴۷

شماره	شماره	سورک‌ناو	شماره
۲۶	۱۳۶۰	سُورَةُ الْفَتْحِ	۴۸
۲۶	۱۳۷۲	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۴۹
۲۶	۱۳۸۰	سُورَةُ ق	۵۰
۲۶ - ۲۷	۱۳۸۹	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۵۱
۲۷	۱۳۹۷	سُورَةُ الطُّورِ	۵۲
۲۷	۱۴۰۴	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۳
۲۷	۱۴۱۶	سُورَةُ الْقَمَرِ	۵۴
۲۷	۱۴۲۵	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	۵۵
۲۷	۱۴۳۴	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۵۶
۲۷	۱۴۴۴	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۵۷
۲۸	۱۴۵۸	سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ	۵۸
۲۸	۱۴۶۸	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۹
۲۸	۱۴۸۰	سُورَةُ الْمُتَمَّتَّةِ	۶۰
۲۸	۱۴۸۹	سُورَةُ الْقَصَفِ	۶۱
۲۸	۱۴۹۴	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۶۲
۲۸	۱۴۹۸	سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ	۶۳
۲۸	۱۵۰۳	سُورَةُ النَّعَامِ	۶۴
۲۸	۱۵۰۹	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۶۵
۲۸	۱۵۱۵	سُورَةُ التَّحْوِيمِ	۶۶
۲۹	۱۵۲۳	سُورَةُ الْمَلِكِ	۶۷
۲۹	۱۵۳۱	سُورَةُ الْقَلَمِ	۶۸
۲۹	۱۵۴۰	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۶۹
۲۹	۱۵۴۷	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۷۰
۲۹	۱۵۵۳	سُورَةُ نُوحٍ	۷۱

شماره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۹	۱۵۵۸	سُورَةُ الْحَجِّ	۷۲
۲۹	۱۵۶۵	سُورَةُ الْمَزَّمِلِ	۷۳
۲۹	۱۵۷۱	سُورَةُ الْمَدَّيْنِ	۷۴
۲۹	۱۵۷۹	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۷۵
۲۹	۱۵۸۵	سُورَةُ الدَّهْرِ	۷۶
۲۹	۱۵۹۲	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۷۷
۳۰	۱۵۹۷	سُورَةُ النَّبَاِ	۷۸
۳۰	۱۶۰۱	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۷۹
۳۰	۱۶۰۵	سُورَةُ عَبَسَ	۸۰
۳۰	۱۶۰۸	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸۱
۳۰	۱۶۱۰	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸۲
۳۰	۱۶۱۲	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸۳
۳۰	۱۶۱۶	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸۴
۳۰	۱۶۱۹	سُورَةُ الْبُرُوْجِ	۸۵
۳۰	۱۶۲۲	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸۶
۳۰	۱۶۲۴	سُورَةُ الْاَعْلٰی	۸۷
۳۰	۱۶۲۶	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸۸
۳۰	۱۶۲۸	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۹
۳۰	۱۶۳۱	سُورَةُ الْبَلَدِ	۹۰
۳۰	۱۶۳۳	سُورَةُ الشَّمْسِ	۹۱
۳۰	۱۶۳۵	سُورَةُ اللَّيْلِ	۹۲
۳۰	۱۶۳۸	سُورَةُ الضُّحٰی	۹۳
۳۰	۱۶۴۰	سُورَةُ الشَّرْحِ	۹۴
۳۰	۱۶۴۲	سُورَةُ التِّيْنِ	۹۵
۳۰	۱۶۴۴	سُورَةُ الْعَلَقِ	۹۶

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۳۰	۱۶۳۷	سُورَةُ الْقَدْرِ	۹۷
۳۰	۱۶۳۸	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ	۹۸
۳۰	۱۶۵۱	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۹۹
۳۰	۱۶۵۳	سُورَةُ الْعَادِيَاتِ	۱۰۰
۳۰	۱۶۵۴	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	۱۰۱
۳۰	۱۶۵۵	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۱۰۲
۳۰	۱۶۵۷	سُورَةُ الْعَصْرِ	۱۰۳
۳۰	۱۶۵۹	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	۱۰۴
۳۰	۱۶۶۰	سُورَةُ الْفِيلِ	۱۰۵
۳۰	۱۶۶۲	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۱۰۶
۳۰	۱۶۶۳	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۱۰۷
۳۰	۱۶۶۵	سُورَةُ الْكَوْثَرِ	۱۰۸
۳۰	۱۶۶۶	سُورَةُ الْكَافِرُونَ	۱۰۹
۳۰	۱۶۶۷	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۱۰
۳۰	۱۶۶۸	سُورَةُ تَبَّتْ	۱۱۱
۳۰	۱۶۷۰	سُورَةُ الْإِخْلَاصِ	۱۱۲
۳۰	۱۶۷۲	سُورَةُ الْفَالِقِ	۱۱۳
۳۰	۱۶۷۳	سُورَةُ النَّاسِ	۱۱۴

قرآن مجید  
تمک کا تفسیر